

THE HOLY QURAAAN

الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ كَنْزُ الْإِيمَانِ

WITH
NON-SECTARIAN MODERN AND
SIMPLE TRANSLATION INCLUDING
PRECISE TRANSLITERATION &
AUTHENTIC EXPLANATIONS BASE
KANZUL IMAAN

By:

Dr. A. Majeed A. Auolakh

with Urdu Translation of IMAAM-E-AHL-E-SUNNAT

Maulana Muhammad Ahmad Raza Khan
Bareilvi-Qaadri

فرید بک ڈپو (پرائیویٹ) لمیٹڈ

FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.

Corp. Off.: 2158, M.P. Street, Pataudi House, Darya Ganj, N. Delhi - 2

Phones : 3289786, 3289159 Fax : 3279998 Res.: 3262486

E-mail : farid@ndf.vsnl.net.in Websites : faridexport.com, faridbook.com

THE HOLY QURAAN



WITH
NON-SECTARIAN MODERN AND SIMPLE TRANSLATION
INCLUDING
PRECISE TRANSLITERATION & AUTHENTIC EXPLANATIONS
BASE — KANZULL IMAAN
BY : DR. A. MAJEED A. AUOLAKH
WITH URDU TRANSLATION OF IMAAM-E-AHL-E-SUUNNAT
Maulana Muhammad Ahmad Raza Khan Brelvi-Qadri

کنز الایمان

Publishers :

**A BRIEF BIOGRAPHY
OF
THE LAST IDEAL OF ALLAH
THE HOLY PROPHET**

M U H A M M A D

SALLALLAHO ALYHE WASSALLAM (S.A.W.)

(Allah's Blessings and salutation on him)

**THE FINAL DIVINE MODEL REVEALED
THE HOLY QURAAAN FROM ALLAH**

Compiled by :

By : Dr. Abdui Majeed A. Auolakh

**THE SHAHADAH TO EMBRACE ISLAM:
(PROFESSING TO BE A MUSLIM)**

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ۝

**USH-HADO AL-LAA ILAHA IL-LALLAH-HO,
WA**

**USH-HADO UNNA MUHAMMADAN
ABDO HO WA RASOOLAH**

(I profess that surely, there is none worth worship except Allah. He is the One Who has no partner and I profess that, surely, Muhammad, S.A.W. is the Devotee and the Rasool (Messenger) of Allah

(Then practice Isslam as prescribed in the Holy Qur'aan and Sunnah of Muhammad Rasool Allah S.A.W. to be a respectful, bounteous and straightforward Muslim as well as a peaceful, useful and law abiding citizen).

BRIEF BIOGRAPHY OF THE HOLY PROPHET MUHAMMAD AS THE LAST IDEAL OF ALLAH AND THE DIVINE MODALITY OF THE HOLY QURAAAN

Sallallahu Alyhe Wassallam (Allah's Blessings and salutation on him)

"And We (Allah) have not sent you (Muhammad) except as a Blessing for all the universe (for all the times)."

(Al-Quraan - XXI : 107)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"And We (Allah) have sent you (Muhammad) as a Rasool (Messenger) for the (entire) mankind (for all the times). And Allah's witness is sufficient (to this great truth)."

(Al-Quraan - IV : 79)

وَأَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ رَسُولًا وَكُفِّي بِاللهِ شَهِيدًا

"Muhammad is not at all a father to any one male among you but he is the (last) Rasool (Messenger) of Allah and is the final of the Prophets."

(Al-Quraan - XXXIII : 40)

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

Surely for you the life pattern of the Rasool (last Messenger) of Allah has the best model to follow.

(Al-Quraan - XXXIII : 21)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

And it is not befitting to a Muslim or female that when Allah and His Rasool (Messenger) have decreed anything they should go by their own command to do certain acts. And whoso disobeys the Command of Allah and His Rasool (Messenger) that one certainly goes astray clearly on the wrong way.

(Al-Quraan - XXXIII : 36)

وَإِذَا كَانَ لِرَبِّكَ يُؤْمِنُ وَلَا مُؤْمِنَةٌ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

And whatever the Rasool (Messenger) gives you take it (for action). And from whatever he (S.A.W.) prohibits you abstain from it. And be pious with Allah. Allah is severe in retribution.

(Al-Quraan-LIX:7).

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

I. EARLY LIFE

A. THE BIRTH PLACE:

City of Makkah is the birth place of the Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alyhe Wassallam. This city is the oldest settlement of man on earth with erection of first house of worship by Hadhrut Aadam Alyhe Salaam (Allah's Blessings and salutation on him), the first man on this earth. This city is in Arabia, a big desert land between Red Sea and Syria with barren hills, glittering and blazing sands and few green places in its Hijaz Zone. The world fame cities of Makkah, Medina and Jeddah lie in this Zone of Hijaz as cradle of Muslim civilization between Indian ocean to that side of Suez canal African Arabs.

B. GENEALOGY:

Genealogy of noble Muhammad, the Holy Prophet, Sallallahu Alyhe Wassallam (Allah's Blessings and salutation on him) (571-632) is the Last Messenger of Allah. He is the son of Abdullah (545-571) who was the son of Abdul Mu'talib, the son of Hashim, the son of Abd-e-Monaf, the son of Quayy, the son of Kilab, the son of Murrah, the son of Kaab, the son of Luwaa, the son of Ghalib, the son of Fahr, the son of Malik, the son of Nadar, the son of Kanannah, the son of Khazeemah, the son of Madrasah, the son of Ilyaa, the son of Madhar, the son of Nazaar, the son of Ma'ad, the son of Adnaan. Upto this great grand father the genealogy of the Holy Prophet Muhammad (Sallallahu Alyhe Wassallam (S.A.W.) has been unanimously agreed by all the Muslim and non-Muslim historians by correct records. All are unanimous on this point that the genealogy of the Holy Prophet (S.A.W.) commences from Prophet Issma'eel the elder son of Arch Prophet Hadhrut Ibraheem (Allah's Blessings on both of them). Hadhrut Ibraheem's (Allah's Blessings on him) genealogy to Adnaan goes upto Hadhrut Aadam (Allah's Blessings on him) as follows:

Adnaan, the son of Aud, the son of Hamee, the son of Salaman, the son of Thabit, the son of Jamal, the son of Qidaar, the son of Isma'eel, the son of Ibraheem, the son of Ta'aa-ruukh, (he called his real uncle Aazar as father by custom), the son of Sharuukh, the son of Arghoo, the son of Qaane, the son of Khabir, the son of Shalikh, the son of Arfahshad, the son of Saam, the son of Noah, the son of Lamak, the son of Mutawashlakh, the son of Akhtankh, the son of Byaar, the son of Lyall, the son of Qanytaan, the son of Anoosh, the son of Shees, the son of Aadam (Allah's Blessing on him).

C. THE SACRED FATHER:

The name of the respected father of the Holy Prophet Muhammad (meaning the most praiseworthy) Sallallahu Alyhe Wassallam (S.A.W.) is Abd Allah (Abdullah) (meaning the devotee of Allah). He was the most handsome youngest son of Abdul Mu'talib excellent in virtues with perfect attributes. One hundred camels were sacrificed as thanks-giving to Allah by his father and the grand father of the Holy Prophet S.A.W. His forehead reflected a profound illumination. He died at the age of twenty five years (according to some at the age of thirty years). Holy Prophet S.A.W. had been in the womb of mother Aaaminah at that time for a few months. Thus the Holy Prophet S.A.W. belongs to a genealogy of great nobility.

D. THE SACRED MOTHER OF THE HOLY PROPHET S.A.W.:

The name of the sacred mother of the Holy Prophet Muhammad (Sallallahu Alyhe Wassallam) is Aaaminah, daughter of Wahab, the son of Hashim, who was the son of Abd Munaaf. She was known as the beautiful, virtuous, modest and chaste lady. When she died, the Holy Prophet S.A.W. was six years of age. Thus the noble mother of the Holy Prophet S.A.W. also belonged to the family of great nobility.

E. THE BLESSED BIRTH:

The brightest dawn follows the darkest night in this world of living men. Arabia plunged in darkness of evils and superstitions. In such a gloomy age all around the Holy Prophet Muhammad (S.A.W.) was born as a bright sun on the firmament of human history in the great city of Makkah. Prophecies of his birth are still available in Bible (John : XIV = 15, 16, XVI = 7) and in Books of the old testament as stated by the Holy Quraan (III : 81). The Holy Prophet of Islaam was born during the first year of Aamel Feel (the year of the Elephant's War) on 12th Rabee-ul-Auwal; 21st April, 571 A.D. during early morning, before the sun-rise. Slaughter ceremony as thanks-giving to Allah took place on the 7th day. All the Quraish community was invited to the feast. When people asked what is the name of the child his grand father Abdul Muttalib answered "Muhammad". He was asked as to why the child has been assigned this

unique type of virtuous name in deviation of customary names? The reply was "my child should deserve appreciation and praise of the entire world" (and Muhammad means the most praiseworthy).

The Makkah pagans objected that Muhammad S.A.W. should have born as an orphan of Abdullah. The infidels were critical that Muhammad Sallallahu Alyhe Wassallam should have been born to some chief or king. But Allah says in the Holy Qur'aan:

"Allah knows best with whom to place His guiding to Islam." Al-Qur'aan VI: 125).

Thus Muhammad Bin Abdullah was His best choice.

F. SUCKLING DAYS:

The Holy Prophet (S.A.W.) was entrusted for suckling to the most virtuous Haleemah Saa'-diyah, as the great governess. When Haleemah started to suckle the infant Muhammad S.A.W. it was so soothing for her that she tried her level best to suckle him (S.A.W.) on both breasts but he (S.A.W.) never took a drop from her left side full of rich milk. This is how infant Muhammad S.A.W. protected the right of Haleemah's son in such infancy. After two years of his (S.A.W.) suckling the great Nurse Haleemah brought him (S.A.W.) to his most respectable mother. But she again entrusted him upto the age of six years to nurse Haleemah for further socialization in her pure Arabic tribe.

G. DEATH OF GRAND FATHER:

When the Holy Prophet (S.A.W.) reached the age of eight years eight months and ten days, his (S.A.W.) grand father, the most respected leader of Makkah and strongest guardian of the Ka-'aaba Hadhrut Abdul Muttalib passed away at the age of eighty four years. The grand father had a great love for the Holy Prophet as the child was so lovely child and the only orphan boy of his handsome youngest son Abdullah and a virtuous daughter-in-law Aamina.

H. SPONSORSHIP OF ABU TALIB:

Abu Talib was the real and very dear uncle of the Holy Prophet (S.A.W.). He was personally entrusted the guardianship of the Holy Prophet (S.A.W.) by his grand father before his death. He now assumed the responsibility of supervision; acculturation and social training of the Holy Prophet (S.A.W.) with personal care, deep love and great attachment with the orphan son of his real younger brother. It is during this period that the Holy Prophet (S.A.W.) learnt the art of goat farming to the practice of retail salesmanship as an honest worker.

I. BUSINESS:

On attaining youth the Holy Prophet (S.A.W.) inclined towards undertaking skilfully the family business but he (S.A.W.) did not have any capital to flourish it because of the limited resources of his uncle. A widow of a noble family Hadhrata Khadeejah, a great lady was very rich with a thriving trade and commerce. For some times the Holy Prophet S.A.W. was entrusted her sales managership through his uncle. Lady Khudeejah was impressed by his honesty, straight dealings and integrated skilfulness. So she herself requested him (S.A.W.) to take her goods for trading. She then allocated much of her business to him while he attained adulthood for his (S.A.W.) most appreciable attributes, trustworthiness and orderly ways of life. The Holy Prophet (S.A.W.) from now onwards became a great businessman of profound honesty with integrity. Considerable profits were earned in this trade and business which further impressed Lady Khadeejah by his (S.A.W.) worth and personal greatness.

J. MARRIAGE TO HADHRUT KHADEEJAH R.A. (RADHI ALLAHO TA'-'AALA UN-HAA):

During the business deals the servant of Hadhrut Khadeejah-tull-Kuubra, named Mysarrab, always remained with the Holy Prophet (S.A.W.). He narrated to Hadhrut Khadeejah all the good attributes and magnanimity of the Holy Prophet (S.A.W.) which he had observed during the business journey and his (S.A.W.) tradesmanship. On hearing about these virtues, Hadhrata Khadeejah (R.A.) as the richest lady of the land made a request to the Holy Prophet (S.A.W.) to get married to her. At the time of marriage the Holy Prophet (S.A.W.) was a handsome young personage of 25 years of age and Hadhrut Khadeejah was a most respectable widow of 40 years. After marriage to the Holy Prophet (S.A.W.) she remained alive for 25 years. Thus the Holy Prophet S.A.W. became the Managing Director of her entire business at this prime age. After the marriage, all of his (S.A.W.) time was consumed in worshipping Almighty Allah as the Supreme and the Sublime universal reality for the betterment and welfare of humanity bringing them to the folds of unity.

K. THE UNIQUE WORSHIP IN THE CAVE OF HIRA:

The Holy Prophet (S.A.W.) was so dejected from pagan worshippers of the Holy Ka'aaba that he observed the cave Hira' a top the eastern mount of Makkah in the right direction to this Holy House for Allah Almighty's so devoted worship. He started to remain there for continuous worship day and night taking with him parched grams, barley, meals and water. He used to go to the lonely cave of mount Hira, few miles away from the city, which was 4 yards long and $1\frac{3}{4}$ yards broad. There he had a pure glimpse of the Ka'aaba with spiritual vision of its top full of Allah's Mercy and all the times he continued to supplicate Allah. He did not return to the city until water, parched grams and grounded barley meals did not exhaust. The Holy Prophet (S.A.W.) started to have profound dreams. These were so realistic that whatever he (S.A.W.) saw in dreams, used to materialize the next day. During all these 15 years he spent much of the wealth as Managing Director of his (S.A.W.) respectable wife to ameliorate the sufferings of neighborhood, men in need and people facing the miseries. His (S.A.W.) so beloved wife was all out for him (S.A.W.) in such human welfare activities.

II. THE LAST MESSENGER OF ALLAH

A. DECLARATION OF PROPHETHOOD:

The Holy Prophet (S.A.W.) attained the full maturity age of forty years. On 5th of Rabi-ull-Auwal, year 41 Meeladi, the day was Monday (12th of February, 610 A.D.) the Arch Angel Hadhrut Roohull Ameen Jibreel, came to the Holy Prophet S.A.W. with the Divine commandment of declaring him the Last Prophet of Allah (S.W.T). The Holy Prophet (S.A.W.) at that time was engaged in supplication to Almighty Allah in the cave of Hira. Hadhrut Roohull Ameen (the holy Spirit Hadhrut Jibreel) said "O' Muhammad! happy News to you; you are the Messenger of Allah, and I am Jibreel. Read with the Name of your Rubb". But the Holy Prophet (S.A.W.) told him that he is unlettered and cannot read any thing. Then the Angel Jibreel embraced him strongly. The Holy Prophet (S.A.W.) came to the house and laid down on his bed with heavy body. He then felt fever and cold. Therefore, he asked Hadhrata Khadeejah (R.A.) to cover him with a cloth. After he (S.A.W.) relaxed, he said to her, "I have experienced such and such phenomena". He was approached by the same great Angel, Jibreel, who had descended on Hadhrut Moossa (Allah's Blessing on him). After a few days Roohull Ameen descended again, and the first Qur'aanic Message was revealed in First Five Verses of Sura Ala (Sura No. XCVI). These 5 Verses are the initial ones which sanctify the Divine importance of reading and writing in Islam:

“Read in the Name of your Rubb (Sustainer) Who created (every thing); created man from a blood-clot.

Read; your Rubb (Sustainer) is the Most Honorable, Who taught (man) by the pen, taught man that what he did not know.” (Al-Quraan XCVI : 1 to 5)

B. THE PRAYER:

Roo hull Ameen (Hazrut Jibreel (Salutations of Allah on him) brought the Holy Prophet (S.A.W.) to the foot of the Hira mountain. He himself performed the Wodoo (ablution). The Holy Prophet (S.A.W.) also performed ablution in the same way. Then they offered Salaat (Muslim Prayer) together. Roo hull Ameen (Hadhrut Jibreel) guided in the Prayer (Salaat) method as Divinely desired.

C. COMMENCEMENT OF PREACHINGS:

After offering first Prayer with Jibreel A.S. the Holy Prophet S.A.W. reached home and started preaching his so dear wife Hadhrata Khadeejah (R.A.) Radhi Allah hoo Ta'ala unhas (Allah is pleased with her). Thus the lady became the first Muslim as wife of the Holy Prophet (S.A.W.). Hadhrata Khadeejah tull Kuubra started to offer Prayer just on embracing Islaam followed by Ali (Allah is pleased with him), his cousin aged ten years, Hadhrut Aboo Bakr Siddique, his great friend (Radhi Allaho Ta'ala unho, Allah is pleased with him), his personal servant Hadhrut Zaid Bin Hartha (R.A.). All of them embraced Islaam on the very first day. Their coming into the fold of Islaam was the proof of piety, virtuous life, personal dignity, dignified truth and righteousness of the Holy Prophet S.A.W. Allah Almighty Ordained him S.A.W. to preach openly as in Sura Al-Hijr XV : 94. He was commanded by Allah to persuade to faith his kith and kins in the first instance as in Sura Us-Sho-'aaraa' XXVI : 214.

D. THE INFIDELS' PROPAGANDA CAMPAIGN AGAINST THE HOLY PROPHET S.A.W.:

None can tolerate self-criticism and if some human being attains a Divine respect how can such exalted personality tolerate slightest disgrace of any one. Here is the life of the Holy Prophet (S.A.W.) like an open book being the Last Ideal of Allah and a Divine Modality for the entire humanity for all the times. A worst propaganda campaign was launched against him with severe allegations by the Makki pagans opposing so bitterly his faith in Unity of Allah Almighty and negation of idolatry as well as social evils of the infidels. The allegations and condemnations of the Holy Prophet by his (S.A.W.) opponents have been carried by the Holy Quraan in their words as =

- (i) “that He (Muhammad) is majnoon (mad man) possessed by Jinns”.
(Al-Quraan LXXXI : 22)

The Holy Quraan in this very Verse points out that the Holy Prophet S.A.W. received pure revelations. Though the Holy Prophet S.A.W. was mentally tortured but He (S.A.W.) remained steadfast in his straightforward and truthful preachings of Islaam.

- (ii) ... “that they (pagans) dub him (Muhammad) as a ‘kahin’ or soothsayer”.
(Al-Quraan LII : 29/LXIX : 42)
- (iii) “that he (Muhammad) is a magician or a sorcerer”.
(Al-Quraan XXXVIII : 4)
- (iv) “that he (Muhammad) is a sahir or is a poet.”
(Al-Quraan LII : 30/LXIX : 41)

Allah Almighty defends the Holy Prophet Muhammad (Sallallaho Alyhe Wassallam) from all these allegations and wrong propagations by His Quraanic revelations categorically repudiating the disbelievers' wrong contentions. Allah says —

- (i) "We teach him (Muhammad) pure Book and he gets the pure revelations of Allah".
(Al-Qur'aan = XXV : 1)
- (ii) "Muhammad is not a poet as a poet is a mental rambler who tries to transform into beautiful rhymes his wayward whims and emotions. Poet brings remote issues and speculations in poetic dictions which have no bearing on human problems"
(Al-Qur'aan = XXVI : 224, 226)

Secondly the opponents of the Holy Prophet S.A.W could not believe that a human being without supernatural power could ever become the Messenger of Allah. Allah verifies this truth through the Holy Prophet S.A.W. in these words —

- (i) "Please declare, I am only a human being like you. My Rubb (Sustainer) inspires me that your Allah is only one Allah worth worship", .
(XVIII : 110)
- (ii) "Please declare, "I am only a human being like you therefore, remain on the straight path (as I practise) and seek His forgiveness."
(Al-Qur'aan = XLI : 6)
- (iii) "Please declare, "my Allah be glorified. I am nothing but a human being" (XVII : 93)
- (iv) "they say, "Allah has made a mortal His Messenger? Please declare, if there were angels walking in the earth secure, We had sent down for them from heaven an angel as messenger".
(XVII : 94-95)
- (v) "They (pagans) say, "why an angel has not been sent in his (Muhammad's) place Had We appointed an angel We (Allah) must have sent him as a man" (VI : 8-9)
- (vi) "Disbelievers say, "it (Qur'aan) is but a lie which he (Muhammad) has coined, and other folk, have helped him"
(Al-Qur'aan = XXV : 4 to 6)
- (vii) "Only some (learned) man teaches him (Muhammad) as it (Qur'aan) is a clear Arabic speech. Surely those who donot believe in revelations of Allah will have a painful punishment who disbelieve the revelations of Allah are the liars"
(Al-Qur'aan = XVI : 103, 104)

Thirdly the disbelievers of Makkah said that if some human being was to be raised as a Messenger it should have been some richer and far more influential Chief enjoying worldly powers. Why an orphan of a Quraish family gone down in wealth and power was appointed Prophet? Allah says in His Qur'aan on this behalf:

- (i) And they (disbelievers) say, "why this Qur'aan had not been revealed to some great man of the two towns (Makkah/Taa-iff).
(Al-Qur'aan = XLIII : 31)
- (ii) "Why is a treasure not thrown on him? Why not he has a garden with him to eat there from? you are following a man bewitched."
(Al-Qur'aan = XXV : 8)
- (iii) "He it is Who has sent amongst the unlettered a Messenger of their own to —
(a) recite to them His revelations; (b) purify them; (c) teach them the Scripture; and (d) inculcate them with wisdom
(Al-Qur'aan = II : 129)

Fourthly the disbelievers wanted big miracles from him as verified by the Holy Qur'aan;

- (i) "They say, "bubble a spring from earth", bring forth a garden of date palm and vine with spring and rivers gushing forth ; let the heaven fall down upon them (infidels) "or produce God and angels descending from heaven;" bring down from heaven writing for them for their ready reading....."
(Al-Qur'aan = XVII : 90 to 93)

- (ii) Had we (Allah) sent down to you (Muhammad) a writing on parchment, so that they could feel it by their hands; those who disbelieve could have said, this is not other than magic" (VI: 7)

All these Verses from the Holy Qur'aan only rebut and categorically reject the disbelievers' contentions of the past but also answer the objections of disbelievers of today. These Verses of the Holy Qur'aan also fully make it clear that Qur'aan is the word of Allah. Had it been the words of Muhammad S.A.W. he would not have so critically evaluated his own person as humble devotee of Allah Almighty.

But the Holy Prophet S.A.W. continued to preach the Truth from Allah making everybody understand the virtues of Islam. He (S.A.W.), in every general assembly, every festival, every street and every lane, used to impress upon his people the excellence of monotheism, and prevented them from paganism, adultery, idolatry, burying daughters alive and gambling. These do's and don't's have been detailed in Sura An-'aam VI: 151.

E. PREACHING IN NATIONAL FESTIVALS:

Festivals of Ahkaz, Bijneeh and Zilmahaz were extremely famous in Arabia. People from distant places used to attend them. The Holy Prophet (S.A.W.) used to go to these places, and used to invite the people to the Divine fold of the great religion of Islam and Oneness of Allah (Monotheism). These addresses resulted in formation of a small group of sincere Muslims. Allah S.W.T. then directed him (S.A.W.) to preach the Quraish openly.

F. ANTAGONISM OF THE QURAISH:

On observing the situation posed by the Divine Truth openly offered to them the Quraish were extremely embarrassed for rejection of paganism by Muhammad Sallallah hoo Alyhe Wassallam and hence they thought it essential to block his ways. In the early stages, they first started offering minor hindrances but at last they resorted to torturing him and they started a tough resistance movement to compel new Muslims to revert to their old religion.

G. HADHRUT BILAAL: R.A. (RADHI ALLAHU TA-'AALA UN-HOO):

Hadhrut Bilaal (R.A.) was an African. He was made a slave by Omyyah bin Khalaf, who started subjecting him to crushing tortures when he came to know of his conversion to Islam but he was so sincerely influenced by Islam that he did not care for these tortures. Indoctrinated with Divine love, he was shouting slogans of "Ahad", "Ahad" (Allah is One, Allah is One) happily. Moved by Hadhrut Bilaal's such sincerity to Islamic faith Hadhrut Abu Bakr (R.A.) paid the amount of his enslavement and emancipated him from slavery of his master as he was tortured by Abu Jehl, also.

H. MIGRATION OF EARLY MUSLIMS TO HABSHA- ABYSSINIA: ETHIOPIA:

The infidels started tormenting the early Muslims in a serious confrontation. The Holy Prophet (S.A.W.) permitted that if any Muslim wishes to go out of Makkah and its suburbs he may migrate to the country Habsha (presently Ethiopia) for personal safety. After this permission, a small caravan comprising of twelve Muslim men and four Muslim women embarked a ship and, in darkness of the night, left the port of Jeddah and proceeded towards Abyssinia. Hadhrut Uthman Bin Affan (R.A.) along with his wife Syyadah Rooqayyah (The daughter of the Holy Prophet) (S.A.W.) and Hazrat Jaafar Tayyar (R.A.) were the leaders of this early Muslim caravan leaving their homeland by the Red Sea to Habsha. On having come to know of this the Quraish approached the court of king Najashi, and complained to him that these people belong to their tribe. They have escaped from their country, and that they should be handed over to them. In reply to this Hadhrut Jafar (R.A.) said, "Allah endowed His Mercy on us, and deputed a Messenger to us with the Holy Book as the last Divine Message, the Holy

Qur'aan. He invited us to the Unity of Allah. He asked us to desist from sins and idolatry; to pray to Allah only, give alms and keep fast. Our community got disgusted from him. They started persecuting us as far as they could, due to which we were compelled to leave our beloved homeland and came here in refuge".

On hearing this the king desired that the Holy Qur'aan be recited to him. Hadhrut Jafar Tayyar (R.A.) recited some Verses from Sura Maryam (Al-Qur'aan Chapter XIX). The king started weeping, and said, "this is the same Messenger of Allah, Muhammad (S.A.W.) about whom Hadhrut Eesa (Allah's Blessings on him) had forecast. Thanks God that I happen to be alive during his time".

In brief, the infidels did not succeed here, and they returned home.

I. EMBRACING OF ISLAM BY HADHRUT AMEER HAMZA (R.A.):

During the sixth year of Makki preaching of Islam the Holy Prophet (S.A.W.) was delivering sermon on mount Safaa when accidentally Abu Jehl, the arch enemy of Islam, arrived there. He was extremely annoyed on seeing the Holy Prophet S.A.W. preaching the Divine Truth. After abusing, he hurled a stone on him (S.A.W.) which resulted in serious bleeding of his (S.A.W.) head. When Hadhrut Hamza (R.A.) came to know of this he approached Abu Jehl, and struck his head with the bow so strongly that he got him wounded the same way. Hadhrut Hamza was paternal uncle but also a maternal cousin of the Holy Prophet S.A.W. who had sucked the milk of same maid nurse Saubia who initially nursed the Holy Prophet S.A.W. So Ameer Hamza was so near and so dear to him (S.A.W.). Hadhrut Hamza came to the Holy Prophet S.A.W. and said, my nephew you will be pleased to learn that I have avenged Abu Jehl for you." The Holy Prophet (S.A.W.) said, "O' my uncle! I shall be happy when you will embrace Islam." On hearing this Hadhrut Ameer Hamza (Allah is pleased with him), embraced Islam forthwith. He was a man of great conviction and became a great asset to Islam and for the Holy Prophet S.A.W.

J. EMBRACING OF ISLAM BY HADHRUT OMAR THE GREAT (R.A.):

Hadhrut Omar, the great, (R.A.) embraced Islam, three days after Hadhrut Hamza (R.A.) entered the fold of Islam. It was a strange turning point in his life that during those troubled days he (Hadhrut Omar) was determined to murder the Holy Prophet (S.A.W.). He armed himself and furiously started from the house for the purpose. In the way he came to know that his sister Fatima Bint-e-Khattaab and his brother-in-law Saeed have embraced Islam. On hearing this he went over to the house of his brother-in-law where Hadhrut Khabaab was teaching them from the parchments of the Qur'aan. He beat them thoroughly to the extent that the head of his brother-in-law and his sister started bleeding. His sister, being excited, said to Hadhrut Omar (Allah is pleased with him) "We have embraced Islam; you may do whatever you like". Hadhrut Omar, seeing them so sincere in faith desired that they should recite to him whatever they were reading from their Muslim teacher earlier. The Sura Hadeed (steel) Rakoo (Section) was recited to him after he had undergone the prescribed Wadoo (ablution of Islam). It so impressed him that on hearing this recitation he wept profusely due to the spiritual impacts of the Holy Qur'aan on his person. Thus the recitation of a great Muslim lady became the turning point in the life of the great Omar. Subsequently he approached the Holy Prophet (Allah's Blessings and salutations on him) and professed Islam reciting aloud the Kal'mah Shahadut. (Confessing of faith for Muslim belief). All the Companions of the Holy Prophet S.A.W. are his (S.A.W.) disciple but Omar the great is his (S.A.W.) desire. Thus he confessed that Allah is one and the Holy Prophet (Allah's Blessing and salutation on him) loudly declared Takbeer Allah-hoo-Akbar (Allah is Greater) Who has made Omar the great a real force for the early Muslims by strengthening them in their weakness. Hearts of the infidels were over-awed after his so brave entry to Islamic faith and sincere companionship to the Holy Prophet S.A.W. After announcing

Islam, he offered prayer in Kaaba, due to which the infidels were grieved tremendously.

K. IMPRISONMENT IN SHEH'-BE ABEE TAALIB:

The Holy Prophet S.A.W. with all the believers (including dear wife Khudeejah and uncle Abu Talib were fortified for three years by a severe social boycott of Makkah infidels. There they had so long a torture that the Holy Prophet (S.A.W.) and his companions had to eat leaves of trees and leather to survive. Allah saved them all from this trial and terminated the social boycott agreement of Makki pagans bringing them safe outside this fortification. Thus Muslims became more sincere to their true faith.

L. DEATH OF HADHRUT ABU TALIB AND HADHRATA KHADEEJA-TULL-KUUBRAA (ALLAH IS PLEASED WITH HER):

During the year of ten Hijra, Hadhrut Abu Talib, uncle of the Holy Prophet S.A.W. died. (He was the father of Hadhrut Ali-ull-Muurtaza (Allah is pleased with him). The Holy Prophet (Allah's Blessings and salutations on him) was brought up under his support and as such the Holy Prophet (Allah's Blessings and salutation on him) was grieved tremendously. Uncle Abu Talib was always a great force of love and support for him (S.A.W.) against the Makki people dreadful enmity to him.

Thereafter, the beloved wife of the Holy Prophet (Allah's Blessing and salutation on him) Hadhrut Khadeejah-tull-Kubra (Allah is pleased with her) passed away. She had expended all her belongings being the richest lady of the land for the sake of Allah. She had embraced Islam on the first day before any one else. All the issues of the Holy Prophet (except one) were from her. She was a great lady and his so sincerely loving life mate. The angels used to convey to her the Salutation of Allah. Hadhrut Ahmad-e-Muujtaba Muhammad-e-Muustafaa (Blessings and salutations of Allah on him), Shaafa-e-Mehshar (the holder of Divine permission to seek Allah's Mercy for everyone on the Day of Judgement) suffered a yet big shock, after the death of his uncle. Hence that year was named as the 'year of grief.'

M. PREACHING IN TAA-'IFF:

The Holy Prophet (Allah's Blessing and salutation on him) now started onward 9th Nabawi preaching with more vigour after such great demises having been Divinely bestowed best confidence in his conviction. He went outside of Makkah because preaching Islam to the hostile people of this city did not impress him (S.A.W.). He thought that the people of Taa-'iff might follow him proper. During this journey his (S.A.W.) personal servant Hadhrut Zayed Bin Harsa (Allah is pleased with him) was also with him. The Holy Prophet (Allah's Blessing and salutations on him) preached amongst all the tribes which came in the way between Makkah and Taa-'iff. But unfortunately he was seriously injured and beaten out of Taa-'iff which was more torturous than the torture received by all the previous Prophets of Allah. After gaining senses he (S.A.W.) was asked by Arch Angel Jibrael to pray to Allah against them and he would crush them between the mountains. But the Holy Prophet S.A.W. prayed to Allah in favor to show their next generations the right path. This prayer was offered by him being the Rahmat-e-Aalam (Mercy of the Almighty for the entire universe). Later the same cruel people of Taa-'iff became the best Muslims automatically.

N. ISLAM IN YATHRUB (MADINA):

Allah Almighty helps His committed people of missionary zeal by persons of sincere inclination to find the truth. The people of Yathrub (Madina) usually came to Makkah to perform the annual Hajj. The Holy Prophet used to preach people in the Hajj assemblies. In the 9th Nabawi Suwaid bin Samit, a great poet of Yathrub, highly impressed by the Holy Prophet S.A.W. started to love Islam. He introduced to youngsters of Madina the truthfulness of the Holy

Prophet S.A.W. Thus in 10th Nabawi six talented persons of Yathrub (Madina) on Hajj occasion met the Holy Prophet S.A.W. lead by Abu Haseem bin Taihaan. They were followed by 12 persons from Madina to embrace Islam. Then the Chief of Auws tribe of Madina Mas'ub embraced Islam. Thus on 12th Nabawi 72 people of Madina came for Hajj to Makkah and embraced Islam. Then the Holy Prophet S.A.W. allowed Makkah Muslims to migrate to the friendly city of Madina. Then many people came on behalf of the Khazraj tribe as enemies of their Auws tribe of Yathrub (Madina) being rivals of each other. These Khazraj people wanted to enter into a pact with the Quraish. But Allah Almighty has His strange ways to help His devotees in toughest circumstances. These people from a far off city of Yathrub (city of diseases which became Madina tur Rasool) underwent a strange self-quisitiveness about Islam. They found the Holy Prophet S.A.W. and asked him what is Islam? What he stands for? How this religion has the real Divine Truth as human saviour? The Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) very enthusiastically, preached to them and profusely recited to them the Holy Qur'aan with pertinent verses on Unity and Oneness of Allah and his truthful mission as Messenger. Getting sincerely excited Ayaas Bin Ma'aaz, immediately on hearing this said, "O' my clan ! this is bet. for you to embrace Islam now than the objective of your coming here" only for inquisitiveness about this true faith against the paganism and idolatry." Thus this group of Madina became the pioneers of Islam there.

O. MEIRAAJ:

The Holy Qur'aan says — Glory be to Him Who took by night (Assra) from the sacred Mosque to the distant mosque, the surrounding of which are blessed — Allah took His devotee — to show him His signs — (Al-Qur'aan = XVII = 1/L 111:2 to 8).

After every hardship there is a Divine ease. And the best bestowment of Allah Subhana-ho Wa Ta'aala to the Holy Prophet Sallalloho Alyhe Wassallam. It was his personal exaltation amongst all the Prophets. It was his (S.A.W.) physical and sensuous Divine tour through the sphere from earth to the heavens. First of all he went from Masjid-ul-Haraam, Makkah to Masjid-ul-Aqsa in Palestine Divine city of Jerusalem. Then he (Blessings and salutations of Allah on him) personally became the Imaam (leader) of the prayer of all the Prophets of Allah (total as 125000 to 140000). Thereby he enjoyed the highest respect of Allah Rubbull Aalameen as the Rahmatull-lil-Aalameen. He physically had a great journey of heavens where he observed the Paradises, the Hell and the highest seat of his exaltation on the Day of Judgement. This is his greatest miracle beyond human imagination as a supernatural bestowment of Allah which reason cannot justify. He got into immediate presence of Allah Almighty, far beyond where none except Jibrael could ascend. This is a great miracle of the Holy Prophet S.A.W. After this great Assraa (Meiraj) Allah Almighty opened up the way of the Muslims to friendly Madina saving them from the hostile city of Makkah.

P. THE MIGRATION OF MUSLIMS AND HADHRUT OMAR TO MADINA:

Allah commanded in Sura IV : 75 the Muslims to migrate. Hadhrut Omar (R.A.) was brave that he became the pioneer Makki to migrate to Madina to prepare the ground for the Holy Prophet S.A.W. to shift there. As such Omar the great (Allah is pleased with him) migration in this way bravely and daringly encouraged the faithfuls to leave Makkah for ever to Madina. He commenced journey with twenty riders. Ayash Bin Rabeeah was with him. They left Makkah in the day light in the presence of all the Quraish. Then Omar announced loudly "any one who wants his wife to be a widow, and also any one who wants his childrens to be orphans, may meet me behind this mountain. But none dared to check him with this first caravan of Muslim migrants but all of them remained dumb.

III. THE HOLY PROPHET AT MADINA

A. MIGRATION OF THE HOLY PROPHET S.A.W.:

Very few Muslims were left in Makkah and from amongst the august companions only Hadhrut Abu Bakr Siddique as the most trusted friend and the sincerest believer as well as the real faithful cousin Ali (Allah is pleased with them both) remained with him (S.A.W.). The Quraish said that it was a golden opportunity to kill the Holy Prophet (Allah's Blessing and salutation on him). In order to contemplate on the effective measures they convened a secret meeting in Daarun Nadwah (social club) of Makkah wherein all the leaders of the Quraysh participated. At last some fool proof measures were suggested in this behalf by Abu Jehl which were unanimously accepted, and the meeting adjourned. The proposal was that from all the famous tribes of Arabs, a band of youngmen, one from each tribe, should be selected. They should surround the house of the Holy Prophet (Allah's Blessing and salutation on him) in darkness of the night. When Muhammad (Allah's Blessings and salutation on him) at the time of morning prayer comes out, they should attack him with their swords, and kill him to pieces. In this type of blind murder of the Holy Prophet S.A.W. by such joint action of the pagan tribes on Abu Jehl's plan none will be held responsible for such sinister act. Allah Almighty says in the Holy Qur'aan—

- (i) They are devising a plan against you (Muhammad) and I will devise a plan to save you" — (VIII : 30)
- (ii) And call to mind when the disbelievers devised their plans against you to imprison you or kill you — (VIII : 30).

In this deadly plan all the tribes would have participated. Even the worst enemy cannot do anything wrong if the protection of Allah is available. The Holy Prophet S.A.W. came to know about this evil design of infidels by Divine indication in a dream. By that time most of the Makki Muslims had migrated to Madina, except a few nears and dears of the Holy Prophet S.A.W. including Hadhrut Ali and Hadhrut Abu Bakr (Allah is pleased with them). As soon as the infidels surrounded the house of the Holy Prophet (Allah's Blessings and salutation on him), for his murder he asked Hadhrut Ali (Allah is pleased with him) to lie down on his bed to hand over the trusts of Makki people kept with him (S.A.W.) as the most trustworthy. He himself came out of the deadly surrounding of his (S.A.W.) house reciting the Sura Yaseen.

B. THE HOLY PROPHET S.A.W. LEAVES HIS SO DEAR HOUSE:

The Holy Prophet (Allah's Blessings and salutations on him) approached the house of Hadhrut Abu Bakr Siddique R.A. (Radhi Allahoo Unhoo—Allah is pleased with him). This took place on 27th Safar of 13th year of the Nabwi preachings of the Holy Prophet S.A.W. at Makkah which is calculated as on Thursday 12th September, 662 A.D.

The Holy Prophet S.A.W. had already a definite plan to migrate to Madina. For this purpose Hadhrut Abu Bakr R.A. had already purchased two camels. The Holy Prophet S.A.W. had paid him the price of the camel allocated by Abu Bakr for him which he had to receive due to the pressure of the Holy Prophet (S.A.W.).

Hadhrut Abu Bakr (Allah is pleased with him) soon made preparations for the eventful journey on foot. Aasma, daughter of Hadhrut Abu Bakr R.A. prepared dry food and filled a bag containing parched and ground barley meals. Both the esteemed persons (the Holy Prophet S.A.W. and Abu Bakr R.A.) as the all times tested bosom friends commenced their journey which became the unique turning point in the entire human history to usher-in a just society with peaceful prosperity. They reached a cave of the hillock of Saur, situated at a distance of four to five miles from Makkah. First of all, Hadhrut Abu Bakr Siddique R.A. fully swepted the cave

and closed the holes with the rags which he obtained by tearing his own clothes. Thereafter he submitted to the Holy Prophet (Allah's Blessing and salutation on him) to come in for rest.

On the other hand when Hadhrut Ali (Allah is pleased with him) sleeping with a sheet over him which was dragged by the infidels and he woke up from the Prophet's bed. The Quraish killer agents came near and recognized him as Ali. They asked about the whereabouts of the Holy Prophet (Blessings and salutation of Allah on him). Hadhrut Ali (Allah is pleased with him) expressed his ignorance about this. The Quraish agents deployed to kill the Holy Prophet were ashamed to attack him (Ali R.A.). Anyhow they caught hold of him and brought him upto the Ka-'aba but released him after some time.

Then the Quraish declared a reward of one hundred red camels of best price for whoso brings the head of the Holy Prophet S.A.W. Suraqa Ibn-e-Jai-Sham was so greedy that he traced out the signs of feet of the Holy Prophet S.A.W. with Hadhrut Abu Bakr. But Allah Almighty saved them both being the Third and the Supreme Power. The Qur'aan says that Allah was with them to fully protect both (Al-Qur'aan Sura Tauba IX : 40).

C. DEPARTURE FROM THE CAVE:

On the fourth night two she-camels came from the house of Hadhrut Abu Bakr Siddique (Allah is pleased with him), which had been pre-arranged for this historical journey. The Holy Prophet (Blessing and salutations of Allah on him) and Hadhrut Abu Bakr (Allah is pleased with him) rode on one; and on the other rode Aamer Bin Faheera and Abd Allah Bin Laqeet as their guards. They proceeded towards Madina on the first of Rabee-ull-Awwal on Monday the 16th of September, 662 A.D.

D. ARRIVAL AT THE PLACE, NAMED QABAA:

It was 8th of Rabee-ul-Awwal in the 13th year of Inauguration of Prophethood (First year of Hijri as the starting point for Islamic Lunar calendar, the day being Monday (23rd of September, 622 A.D.), that the Holy Prophet arrived at the place known as QABAA near Madina. Here the first Mosque in Islam was built. Allah says:

"This is the Masjid (mosque) which has its foundations from the first day on piety (and sincerity). It has therefore the greatest sanctity —" (Al-Qur'aan - IX : 108)."

As soon as people of Medina heard that the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him), has arrived crowds came out of Medina. They started to come every morning and wait eagerly for his appearance until noon. It was morning when the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) appeared at this place. All the Muslims greeted him with shouts of Allahu Akbar (Allah is the Greatest); and they gathered around him with love. Those who had not upto now seen the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him), had taken Hadhrut Abu Bakr as the Holy Prophet S.A.W. Hadhrut Abu Bakr (Allah is pleased with him) understood the situation. He took a sheet of cloth, stood up, and shadowed over the head of the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) with this, from which every one realised that he was Abu Bakr Siddique (Allah is pleased with him). The Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) stayed here upto Thursday. During three days the first thing which the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) did was to lay the foundations of the first Masjid in Islam which is the profoundest mosque as stated by the Holy Qur'aan (Sura IX : 108). Mosques are for the worship of one Allah worth worship Who has no partner or associate or equal.

E. ENTRANCE TO MADINA:

It was 12th of Rabi-ul-Awwal; the day was Friday, that the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) rode from Qabaa and reached the house of Bani Salim. Here he

(S.A.W.) offered the first Juum-'ah Prayer as weekly Muslim congregation in the afternoon, as first event and the first Juum-'ah in Islam. It is here that the pretty girls of Madina were singing the Naa'-tia (eulogizing) songs in honor of the Holy Prophet (S.A.W.) with great love, affection and jubilation. All the Madinese were lining up in reception with heartfelt joy and celebration of the arrival of the Divine Blessing in Madina.

F. HADHRUT ALI R.A. JOINS:

During the same days, the brave Ali-ull-Muurtaza (Allah is pleased with him) approached the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) approached the Holy Prophet S.A.W., walking. In obedience of the order of the Holy Prophet S.A.W. he had stayed in Makkah for a few days in order to return the trusts kept with the Holy Prophet (S.A.W.) as Al-ameen of Makkah (the most trustworthy). He returned all these trusts one by one to their respective owners before departure to Madina.

G. ARRIVAL AND MASJID NABAWI FOUNDATIONS:

The Holy Prophet S.A.W. on arrival in the city of Madina left it to his she camel to sit anywhere she wants and it was the house of Abu Ayyub Ansari, the sincerest companion of the Holy Prophet at Madina. He stayed with him as his special guest of honor. Meanwhile a chunk of land belonging to two orphans was purchased on which the Masjid-e-Nabawi was constructed with modest apartments for the Holy Prophet S.A.W. where he shifted, later.

H. MARRIAGE WITH HADHRUT 'AYSHAH: (Allah is pleased with her).

Abdulla Bin Areeqat returned to Makkah. He conveyed the tidings to Hadhrut Abdullah Bin Abu Bakr about the safe arrival of the Holy Prophet S.A.W. at Madina. On receiving this happy News, he migrated from Makkah to Madina Munauwara along with his sister 'Ayshah (Allah is pleased with her), their mother and Talha Bin Abdullah. The Holy Prophet S.A.W. had engagement with her in Makkah but she was married by her mother and father to him (S.A.W.) on her arrival to Madina.

I. THE BROTHERHOOD TIES OF MOHAJIRS AND ANSAARS IN MADINA:

During the same period acting upon the commandment of Allah, the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) cemented the ties of brotherhood amongst the Muslims of Madina who were called ANSAR, and the Muhajreen i.e. emigrants from Makkah by selecting Madinese families to live together. Allah Almighty has highly appreciated this brotherhood of Muslims in the Holy Qur'aan in Sura Anfaal VIII : 72.

J. CHANGE OF QIBLAH:

Change in the Qiblah of Muslims took place during the month of Shabaan. Earlier the Muslims used to pray with their faces towards the Holy Mosque in Jerusalem. Commandment of the change of Qibla was revealed to the Holy Prophet during the congregational prayer at Asr. The Holy Prophet S.A.W. had already completed two Rak-'uts. The verse about change of Qibla revealed in the Rakoo' of the third Rakaat; and hence the Holy Prophet S.A.W. turned his face towards Ka-'aaba. All the companions also followed him suit by turning their faces from north west to south east. This has been allowed by Allah in the Holy Qur'aan vide Sura Al-Baqrah II : 150, 143 and 177. And this Mosque is known as Qiblatyn with two "Qiblas".

K. THE WAR OF BADR:

The very first and the most famous war of the believers in Islam with the disbeliever infidels was the famous war of Badr fought by Muslims to defend Madina from being smashed by Makki pagans who came fully prepared with all the necessary war arsenal. The Holy Prophet (S.A.W.) commanded the Muslims and the enemy was engaged in the famous plain of Badr,

some 80 miles away from Madina. Allah allowed the Muslims in 2nd Hijra to have defensive fight against the enemy as in Sura Al-Baqarah II:190. This is because Muslims defend their peaceful co-existence for Allah as in Sura Aale-Imraan III:13 to remain grateful to Allah to establish His best system as in Sura III:113. Allah made Muslims to look double to the enemy as in Sura III:13.

Sura Anfaal gives full account of the War of Badr being the greatest event of Islam and the turning point in the History of Islam. Reference is made to Sura Anfaal VIII Verses 2 to 19, Verses 41 to 47, Verses 67 to 71.

The warning about the spoils of war of Badr taken by successful Muslim warriors from the totally defeated infidels of Makkah has been covered in Sura Anfaal VIII: Verses 67 to 69. Principles have been laid down about the final phase of any defensive Muslim War. The Muslim's who participate in Islamic Jehaad (sacred defensive and obligatory battles to maintain the march of truth of Allah for human co-existence, peace and prosperity) have been laid down in scores of verses of the Holy Qur'aan. But the Sura Nisaa 'IV: 95 is comprehensive in brief on this subject. Sura XXII: 39 to 41 and Sura LI: 51 also prescribe to establish the system of Islam with sincerity of purpose with integrity.

Sura Nisaa 'IV:75 and Sura Anfaal VIII: 39 read with Sura Baqarah II:190 command to achieve the objectives of Islam by any sacrifice.

It was the holy month of Ramadhan-ull-Mubarak in the year of 2nd Hijri that Abu Jehl spread the rumour that their caravan, loaded with riches, was coming back to Makkah from Syria, where Madina lies in the way and the Muslims intend to plunder it. The purpose of this rumour was that all those people who had invested their capital in business, and also those whose relatives were in the caravan; and those who hate Muslims should get suspicious against Muslims and should unanimously get ready for a war against Muslims. Thus Abu Jehl succeeded in his device to revenge the migration of Holy Prophet S.A.W. and his followers, unhurt. The army of Quraish comprised of one thousand spirited warriors which included seven hundred riders of camels and three hundred horses. Abu Jehl marched forward leading this army. The trade caravan of Makkah which had obviously served as the cause of this military expedition of Makki infidels had travelled by another path to Makkah; yet Abu Jehl continued advancing with this army towards Madina. Now it was clear for Muslims that protection of the caravan was only an excuse. This was only an invasion on the poor Muslims for no cause of concern from them on any account.

The Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him), consulted the companions (Allah is pleased with them) on this matter. The Muhajirs (immigrants) gave a satisfactory reply. The Ansaar leader Sa'ad Bin Ma-'aaz said, "perhaps the Holy Prophets (Blessings and salutations of Allah on him) thinks that the Ansars do not think it their duty to help you (S.A.W.). We are under your (S.A.W.) kind control and will. We shall obey as you order". The battle took place on Friday, the 17th of Ramadhan-ull-Mubarak when the Muslims were fasting despite of long journey. By help and support of Allah, the infidels were defeated. Seventy of their men were arrested. Abu Jehl was killed by two Muslim youngsters along with several Makki chiefs.

According to war-rules of those days Hadhrut Omar R.A. along with many companions of the Holy Prophet S.A.W. wanted to kill them for revenge. To over-awe the Makki invaders it was essential that all the persons who were arrested should have been murdered. But the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) as a blessing for the entire universe, set all of them free after taking ransom and deploying them on probation/parole to teach the illiterate boys, girls and elders of Madina.

L. THE BATTLE OF OHUD (GHAZWA OHUD):

The Quraish again attacked Madina in the next year, the third year of Hijra. They were more prepared this time. They had collected subscription publicly. The poet Abu Ghazzala went all around and persuaded Banu Kanana to help the Quraish. Fifty thousand Misqaal of gold and one thousand camels, from business of Syria, which was not as yet distributed, was included in the subscription.

In short, the Makki pagans as furious enemies pounded Madina with an army consisting of five thousand warriors proceeded towards Madina. This included three hundred camels, two hundred horses and seven hundred warriors, wearing armours, and others with weaponry were afoot. The Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) was of the opinion that defence may be maintained being besieged in Madina, but following the opinion of Muslims, majority they faced the army of the Quraish, out of Madina; near the mount Ohud, five miles away.

Muslims numbered one thousand. In the beginning Muslims defeated the enemy; but then these victorious believers left the valley where the Holy Prophet S.A.W. had appointed them to remain steadfast. On observing this Khalid Bin Waleed, who was yet not a Muslim, took a round and occupied the said valley, and brought Muslims in the centre. At that time Muslims suffered a heavy loss. Seventy companions (Allah is pleased with them) of the Holy Prophet S.A.W. were martyred. Major portion of the army was scattered. In the battlefield only seventy companions showed bravery; and stood steadfast in front of the enemy defending the Holy Prophet S.A.W. from the direct attack of the Makki infidels.

The biggest loss, among the losses of the battle was the tragic martyrdom of Hadhrut Ameer Hamza (Allah is pleased with him), uncle and great friend as well as the defender and great warrior of the Holy Prophet (Blessings and salutations on him) was martyred. Hadhrut Mass-'ub Bin Omair was also martyred Hadhrut Ans Bin Nazar was also martyred. Hadhrut Talha (Allah is pleased with him) used his hand as a shield; and he checked the arrows, aimed at the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him), by his hand. The rumours of the martyrdom of the Holy Prophet (Blessings and salutations on him) extremely depressed Muslims. During this period Hadhrut-Ka'ab Bin Malik happened to sight the luminous face of the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) bleeding due to his broken tooth and bruised face. He shouted, "Be happy, the Holy Prophet (S.A.W.) is here." The Holy Prophet S.A.W. asked him to keep silent. On hearing this voice, the companions gather by his (S.A.W.) side. The Holy Prophet (S.A.W.) together with his companions (Allah is pleased with them) ascended the elevation of the mountain Ohud.

From the foot of the mountain Abu Suufyaan shouted, "are Muhammad (Blessings and salutations of Allah on him), Hadhrut Abu Bakr and Hadhrut Omar (Allah is pleased with them) not present?" "The Holy Prophet S.A.W. asked Muslims not to reply. Abu Suufyaan repeated the same question twice or thrice. On receiving no reply he was overjoyed; and he exclaimed "Long live Hobull" (One of the idols)". At this stage the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) asked Muslims to reply.

Hadhrut Omar (Allah is pleased with him) replied, "all these persons are all alive to make your designs futile and disgrace you." Abu Suufyaan came forward and said "the battle has ended. The day of Ohud has equalized day of Badr. 'O' Hobull be exalted. Promise of battle next year." Obeying the order of the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) Hadhrut Omar (Allah is pleased with him) replied, "the same is the time limit between both of us". After this debate enemy infidels returned to Makkah and the hypocrites, quite exposed returned to Madina. The Quraish enemy female folks also participated in war of Ohud including daughter of 'Otba, mother of Ameer Mo-'avia and wife of arch enemy of Islam to this moment,

Abu Suufyaan. She had hired a specially trained slave to kill Ameer Hamza R.A. and totally disfigured his pious body to quench her grief of Badr losses. The female folks of Islam also participated for the first time including Hadhrata Fatima Allah is pleased with her, to nurse the wounded and the seriously injured Muslim warriors.

M. OTHER SKIRMISHES, WAR OF THE TRENCH, JEWISH CONFRONTATIONS:

From 3rd to 4 Hijra some small skirmishes took place. Hadhrata Fatima R.A., the dear daughter of the Holy Prophet S.A.W. married to Hadhrut Ali R.A. gave birth to Hadhrut Husain so affectionate grandson of the Messenger of Allah S.A.W. The War of Trench took place in 5th Hijra. The Jews had many agreements which they broke, so Sura Baqara II, Sura Aaal-e-Imraan III, Sura Nisaa IV and Sura Ma'idah condemn them.

N. QUR'AAN ON THE JEWISH COMMUNITY OF MADINA CONSPIRING AGAINST THE HOLY PROPHET:

The Jews who settled in Arabia through the ages also came to Yathrub in the 5th or sixth century A.D. and settled there. They were very frustrated and upset to see the Holy Prophet S.A.W. and his companions' migration to Madina. The Holy Qur'aan has pertinently referred to the Jewish people and their characteristics. They are still the same stiff-neck for their anti-Muslim attitude. Some of the references of the Holy Qur'aan are as follows:

- Superiority on other nations in their own times = 2:47, 122
- Allah's continuous favours on Jews = 2:47; 2:122
- More bestowments of Allah on Jews = 2:40 to 58, 63, 64, 122, 123; 5:20; 7:138, 141, 160; 10:93; 14:6; 20:80; 28:5; 44:30 to 33; 45:15, 17.
- Jews reverted to idol (calf) worship on safe crossing the sea = 2:51, 54, 43; 7:138.
- Chiefs of Jews were overtaken by an earthquake for their wrongs = 7:155, 165.
- Jewish People made Apes due to their disobedience = 7:166.
- Moses ordered Jews to enter Palestine but they refused = 7:155, 165
- The Jews rejected signs of Allah, killed the Prophets and transgressed = 2:61, 65; 7:182
- History of Israelites and their enmity with the Muslims at Madina = 2:40, 41, 62, 63, 66, 85, 92 to 96, 100, 102, 113, 135, 174 to 176; 3:23, 24, 98, 99, 110 to 112, 187, 199; 4:44 to 47, 155; 5:14, 15, 16, 18, 41 to 44, 51 to 55, 57, 64, 68, 70, 71, 77 to 82, 161; 7:159, 161 to 177; 61:118; 17:2 to 8; 58:12 to 19.
- Cruelties of Israelites - Charge sheet by Allah = 2:59, 61, 65, 66, 75 to 81, 85 to 92, 99 to 103, 119, 140, 145, 146, 211, 246; 3:19 to 23, 24, 110 to 112, 181 to 183; 4:41, 52, 60, 61, 66; 153 to 158, 159, 160; 5:21, 32, 41 to 43, 59 to 64, 70, 71, 110; 7:162, 163; 45:17; 61:5.

IV. ISLAM TOWARDS REAL SUCCESS

A. THE LOVE OF WORSHIP IN THE KA'AABA:

The Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) had a vision in sleep that he went over to Makkah and performed 'Omrah, special worship in the Holy Ka'aaba in Makkah. When he narrated this to the companions (Allah is pleased with them), they became restless due to eagerness; and they made preparations for the journey to Makkah. The Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) took all of them with him as an in-born Arab right to visit the Ka'aaba and reached the neighborhood of Makkah. When the stiff-neck Quraish came to know this, they unanimously decided not to allow Muslims to enter Makkah. The Holy

Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) voluntarily withdrew from there and stayed at the place known as Hodybia.

B. THE WELL KNOWN MIRACLE AT HUDYBIA:

Hodybia is the name of a well. A vast plain is nearby in between Makkah and Jeddah towards Madina. Due to shortage of water the Holy Prophet's S.A.W. companions (Allah is pleased with them) were distressed. There was small quantity of water but there was no arrangement to clean this abandoned well and bring it to fetch water. Everybody was thirsty. The pot containing small water was placed in front of the Holy Prophet S.A.W. He saw the quantity of water was small but all the companions were so needy to quench their too much felt thirst. The Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) placed his hand in it. Water started gushing out from his sacred fingers like five springs. All the fifteen hundred companions with their animals quenched their thirst. People filled their utensils, and performed ablution. This has been narrated by Hadhrut Jaber (Allah is pleased with him). Water was available in such a huge quantity that even several hundred thousands of men would have been satiated. Then the well also gushed out fine fresh water which had run till the mid twentieth century and was closed by the present regime.

C. HUDYBIA PUZZLE OF THE MUSLIMS AND THE EXCHANGE OF EMISSARIES:

The Holy Prophet S.A.W. with great love for the self re-selected Ka-'aaba as Kibla of the Muslims and all his (S.A.W.) companions (1500) with great respect to this House of worship of Allah as their Arab right had come with full preparations with their sacrificial animals in full peaceful process to perform the obligatory Hajj. But the Quraish of Makkah deprived them from this birth right. The Holy Prophet S.A.W. wanted to have a dialogue with the Quraish. Badeel Bin Warqa Khaza'ee came to the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him). It was stated by him that the Quraish were bent upon waging a war if Muslims do not return to Madina unconditionally. The Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) said, "We want only to perform 'Omrah ! and the Quraish cannot debar us from this right. He suggested to this emissary that his companions want to do 'Omrah. Therefore, he S.A.W. proposed to make a truce for a limited period. He was so impressed to see the love, attachment and obedience of the Muslims to the Holy Prophet S.A.W. that every one was so anxious to preserve every drop of water of Holy Prophet's ablution and even they made it as a source of tonic for their faces and body limbs as his (S.A.W.) followers. On going back he narrated the whole story to the Quraish, and he told them that the Holy Prophet S.A.W. had not come for a fight. But the Quraish did not agree, and they did not reconcile. Thereafter Urwah Bin Masood Tha'fee approached the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him).

D. THE NEGOTIATIONS:

The Muslims and the Quraish conversation started on this subject in a serious way through Suhail Bin Omroo from the Quraish side and Hadhrut Aboo Bakr Siddique from Muslims' side. The conversation, cropped to exchange of harsh words of Suhail with Hadhrut Siddique R.A. that Omrah is Muslim right. But nothing was settled. Suhail went back, and said to the Quraish, "I have visited courts of kings but I have not found their so subordinated subjects as much faithful and well-wishers of king as instantly sacrificing most obedient companions of the Holy Prophet Mohammad (Blessings and salutations of Allah on him). They lovingly rush to collect every bit of his (S.A.W.) hair and cut out nails as well as every drop of his perspiration with zeal that they appear to be on the profoundest love and such an attachment to fight on his order to last drop of their blood.

Then the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) thought of deputing

some emissary of his side to the Quraish. Hence Hadhrut 'Othmaan (Allah is pleased with him) was selected for this duty because he had several of his relatives and supporters amongst the Quraish in Makkah who had not embraced Islaam but had blood ties with him (R.A.). Hadhrut 'Othmaan approached the leaders of Quraish; and conveyed to them the message of the Holy Prophet S.A.W. They treated 'Othmaan with amicable manners; but they did not agree to allow the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) to enter Makkah.

E. RUMOUR OF MURDER OF HADHRUT OTHMAAN AND THE BAI'UT (PLEDGE) OF RIDHWAAN:

A rumour broke out that the infidels had martyred Hadhrut 'Othmaan (Allah is pleased with him). The Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) was extremely grieved on hearing this as he was not only his (S.A.W.) personal emissary and Muslim Ambassador of peace but also a great companion. Therefore 'under a cacia tree the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) took oath of allegiance from all the companions (Allah is pleased with them) to the effect that so long as they are alive they will avenge bloodshed of Hadhrut Ossmann. The Holy Quraan has highly appreciated this Muslim pledge to keep such obedience of every believer to the Holy Prophet (S.A.W.) as hall-mark of life.

The Holy Quraan says:

"Allah is pleased with the Muslims who pledged at your hands under the tree. He knew what is in their hearts. This brought a great satisfaction in their hearts and it ushered a great victory for them."
(Al-Quraan : XLVIII:18)

Afterwards it came to light that the news about the murdering of Hadhrut 'Othmaan (Allah is pleased with him) was altogether false.

F. THE HUDYBIA TREATY AS THE FIRST TREATY IN ISLAAM:

Suhail Bin 'Omroo approached the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) and after much discussion, truce was settled on the following terms:

1. This year the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) and all his companions (Allah is pleased with them all) will go back without performing Hajj or Omrah.
2. They will perform Hajj (Muslim pilgrimage in and around Makkah) next year provided they stay not more than three days.
3. The Muslims will bear no arms in the Hajj next year except self defence sheathed swords.
4. The validity of the truce was agreed to be ten years.
5. The Quraish will not fight the allies of the Holy Prophet S.A.W. and the Holy Prophet S.A.W. will not fight the allies of the Quraish.
6. If any of the Quraish embraces Islaam, the Holy Prophet S.A.W. will return him to the Quraish; but if a Muslim turns apostate and joins Quraish, he will not be returned at any cost.

This last condition was extremely disturbing and disgusting to the Holy Prophet's S.A.W. companions (Allah is pleased with them). Hadhrut 'Omar (Allah is pleased with him) was extremely enraged, and he firmly solicited before the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) that the last condition is very humiliating. The Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) smiled and replied that any one who turns apostate and joins them is of no use to us; and if some one becomes Muslim from amongst them and comes to us, but we return him to them, Allah the Sublime will create better conditions for us somehow or the other

that such returned Muslim will become an asset there. Meanwhile Aboo Jandal was thrown to the Muslims badly beaten and chained. He was the son of Suhail, the truce and treaty maker of the Quraish. Treaty was not yet signed so the Holy Prophet S.A.W. and all the Muslims were swayed from the shrieks of Aboo Jandal but his father Suhail told that the Treaty is operative. Thus Aboo Jandal was returned and treaty was signed. The Holy Prophet S.A.W. honored his words before being confirmed which further made his truthful deals as the most effective pattern of his life throughout. Briefly, this truce was settled with great difficulty

G. THE GREATEST VICTORY IS THE PEACE TREATY OF HUDYBIYA:

Islam is a religion of Allah as His Final Will to bring peace within and peace all around to the Day of Eternity. This was the urge of Allah Almighty through this Final Modality the Holy Prophet Muhammad (Sallallahu hoo Alyhe Wassallam) to bring peaceful co-existence to humanity for mankind prosperity. Therefore, a full Sura starts from this great achievement (Sura Fatah) saying:

"Surely it is a great victory for you"

(Al-Quraan : XLVIII : 1 to 3)

The Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) and all his companions) sacrificed the Huda (sacrificial) camels here; and got his and all the companions' heads shaved as a symbol of having performed worship out of Makkah. Although his companions had reservations to accede to this great treaty but after this command of Allah they bowed down to him (S.A.W.). This profound arbitration truce really became a foundation stone for march of Islam amongst the Arab tribes and all around in Arabia.

V. ISLAAM THE UNIVERSAL RELIGION AND THE MESSAGE OF ISLAAM BEYOND ARABIA

"Call to the way of your Rubb (Sustainer with wisdom and good exhortation and argue with them in a way that is the best."

(Al-Quraan XVI : 125)

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

Allah Almighty says in the Holy Quraan:

"We (Allah) have not sent you save as a Blessing for all the universe". (XXI : 107).

So is the case with the religion that he preached. Its message is universal and transcends all barriers of caste and colour and those created by geography:

Blessed is He Who hath sent down al-Fuurqaan upon His devotee, that he may be a warner to the entire universe". (XXV:1)

A. THE PROPHET'S MESSAGE OF ISLAAM BEYOND ARABIA:

The Holy Prophet was fully aware of the responsibilities that he owed to humanity as the last Messenger of Allah. Thus in the atmosphere of general security which the treaty of Hudybiya had provided him, he found it a heaven-sent opportunity to turn his attention to other nations beyond Arabia in order to deliver to them the Message of Allah. Once he called and said to his companions and addressed them in the following words:

"O people Allah has sent me a blessing to all mankind. Carry the message of Islaam to all the corners of the world. Differ not as differed the disciples of Jesus, the son of Mary."

"And how did they differ?" asked his companions. He replied, "Jesus called them to what I am calling you, but he who was sent on a short journey obeyed and accepted his mission and he who was despatched afar showed reluctant attitude before his Lord and the Almighty awarded

them the punishment that thenceforth every one amongst them could speak only the language of the people to whom he was sent." Quoted by Aboo Jafar Muhammad ibn Jarir Tabari, *Tarikh al-Rasul wa'l Muluk* ed. M.J. de Geoe (Leiden 1881-82), Series I, Vol III, p. 1560.

B. CORRESPONDENCE TO THE FOREIGN RULERS TO EMBRACE ISLAAM:

Envoys were chosen by the Holy Prophet S.A.W. to carry the light of Islaam to all those corners where darkness prevailed. In order to authenticate the credentials of his envoys, a silver seal was made in which were graven the words: "Muhammad the Messenger of Allah".

C. THE ENVOY TO HERACLIUS:

The first mission was sent to Heraclius. When the Muslim envoy, Dihyah Kalbi, reached Palestine, he was informed that the Emperor was celebrating his victory over the Persians by paying a visit to Jerusalem - the cradle of his faith; and thus it was here that the Prophet's letter was delivered to him. The Muslim envoy was received amidst numerous ceremonies. He delivered the following introductory speech before presenting him the letter;

"O Caesar of Rome the one who has sent me as an envoy to you is better than yourself and the Exalted Allah Who has sent him to us as Prophet is the Greatest of All. So listen to me with full attention and give an earnest reply. If you do not pay full heed you may not be able to catch its meaning and if your answer does not come out of sincere heart, it will not be just. O King you are well aware of the fact that Jesus, the son of Mary, offered prayers."

The King replied in the affirmative.

The ambassador of the Holy Prophet S.A.W. continued his introductory speech and said, "Then I invite you," said Dihyah Kalbi, "to that Great Allah to Whom Jesus offered his prayers, prostrated himself and Who shaped him in the womb of Mary and Who created the heavens and the earth. Then I invite you to that un-lettered Prophet whose advent has been foretold by Moses and Jesus and you have a complete knowledge of all these facts. If you accept the message preached by him you shall get immense reward in this world and the world to come. But in case you reject it, you shall be denied of them. Believe me, there is one Great Master Who punishes the disbelievers and changes their fortunes.

D. ABOO SUUFYAAN'S TESTIMONY ABOUT THE HOLY PROPHET TO HERACLIUS:

Incidentally, Aboo Suufyaan, who by that time had not embraced Islaam, rather still was the arch enemy of Islaam was summoned to the court and Heraclius asked him many questions about Muhammad S.A.W. and the religion which he preached. The testimony which this avowed enemy of the Prophet S.A.W. gave regarding the personal excellence of the Prophet's S.A.W. character and the good that Islaam was doing to the human race, left Heraclius wonder-struck.

E. CONTENTS OF THE PROPHET'S LETTER TO HERACLIUS:

Then the Prophet's S.A.W. letter was read aloud which rendered into English, is as follows:

"Allah's Name, the Most Affectionate, the Most Merciful. This letter is being sent by Muhammad to Heraclius, the Emperor of Rome."

"Blessed are those who follow true guidance. I invite you to embrace Islaam. If you do so, you shall be safe and secure. If you come within its fold, God will give you double reward and in case you turn your back upon it, then the burden of the sins of people shall fall on your shoulders."

O people of the Book come to the word that is common between us and between you that

we shall worship none save Allah and that we shall not associate aught with Him and that none of us shall take others as lords besides Allah. Then if they turn away, say: Bear witness that verily we are Muslims.

F. LETTERS OF THE HOLY PROPHET TO OTHER RULERS IN 6TH/7TH HIJRA:

The following rulers were also sent letters by the Holy Prophet S.A.W. as his preaching of Islaam through universal correspondence for transworld spread of the messages of Allah:

- (1) Letter to Iranian monarch, the despotic Khuusro Pervaiz, Emperor of Persian Empire;
- (2) Deputation to Habasha - Abyssinian King Negus;
- (3) Message to Hauza, the Chief of Christian tribe Banu Hanifah; and
- (4) Letter to the Azeez of Misr (Egypt) who sent Hadhrata Marya who was married to the Holy Prophet S.A.W.
- (5) Many other emissaries to the other tribes on Arabian frontiers including Yamama Chief.

G. KHALID BIN WALEED AND AMR BIN AASS IN THE FOLD OF ISLAAM:

After the treaty of Hudybia on the last leg of 6th Century A.H. (the conqueror of Syria) Hadhrut Khalid Bin Waleed (the conqueror of Egypt) Hadhrut Amr Bin Aass embraced Islaam out of personal urge.

VI. THE OTHER CONQUESTS AND EVENTS OF 6TH AND 7TH HIJRA

The Madina Jews self-exiled themselves to Khyber Valley and elsewhere. They started to pose threat to Islaam with conspiracies of Makki Quraish enemy and the Madina hypocrites. Khyber was a greatly protected fortification of Jews with their strongest Chief Marhub. The valley was so rich with Fidak having best gardens in Arabia.

A. THE CONQUEST OF KHYBER AND ANNEXATION OF FIDAK:

All the Arab Jews fortified in Khyber protectorate were defeated in personal dual of Hadhrut Ali (Allah is pleased with him). The garden and fertile agricultural land of Fidak were taken over by Muslims. The garden of Fidak, a very good fruit and agricultural land was distributed, half to the Jews and half to the Muslims. A chunk of land with gardens was taken over by the Holy Prophet S.A.W. as it came to his share. It was made a state land for the look after of state guests.

B. EMIGRANTS OF HABASHA (ABYSSINIA):

The Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) was staying in Khybar when Jaa'fer Bin Aboo Talib (Allah is pleased with him), along with other emigrants from Abyssinia returned and met him (Blessings and salutations of Allah on him). The Holy Prophet S.A.W. had sent them there to save their faith in Islaam from cruelties of Makki infidels. These people returned to Arabia but in Khyber. He S.A.W. welcomed them; embraced Hadhrut Jaa'fer; kissed his forehead, and said, "I am delighted from conquest of Khyber and same is the delight of the arrival of Jaa'fer".

C. THE PREREQUISITE TO THE CONQUEST OF MAKKAH AND 'OMRAH:

At Hudybia, a written peace treaty was signed with the Quraisah two years ago but they broke the promise, and thereby nullified many of the conditions of this peace treaty by their different re-actions during Holy Prophet's Omrah of the Ka'aba. The Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him), therefore, ordered to prepare a strong force as expedition to

Mauta where many companions were martyred which had grieved him a lot. It was due to the evil designs of the Quraish. Thus the Holy Prophet S.A.W. had to teach a lesson to Makki Quraish. The Quraish got ashamed, and sent Aboo Saafyaan to apologize, and desired that peace treaty may be renewed; but it was too late and so violated that his intervention was of no avail. Aboo Suufyaan was ashamed. He went back to Makkah frustrated. The Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) appointed a blind companion Abdullah Ibne Oome Maktoom as the Governor of Madina. He himself (Blessings and salutations of Allah on him) set out to Makkah with an army of ten thousand strong.

On the other hand, Hadhrut Abbass (Allah is pleased with him) the real uncle of the Holy Prophet S.A.W. who had embraced Islaam and migrated to Madina had several relatives in Makkah who had not yet embraced Islaam. He wanted that somehow or the other they may be informed so that they may either come and apologize or embrace Islaam, and thus may be saved. As such he rode the mule of the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him), and came out of the army camp outside Makkah. He met Aboo Suufyaan and made him understand how the Makki people should face the fact and narrated the whole situation to him. Hadhrut Abbas then gave him protection and brought him to the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him). At that time Aboo Suufyaan half heartedly embraced Islaam with some reservations. Hadhrut Abbass (Allah is pleased with him) requested the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) that since Aboo Suufyaan was the Chief of the Quraish, he may be specially favoured, so that his lofty position amongst the Quraish could be maintained. But it was now too late so the Holy Prophet S.A.W. did not react.

D. THE BASIC REASON FOR THE CONQUEST OF MAKKAH:

According to the terms of the treaty of Hudybiya, the Arab tribes were given the option to join either of the parties with which they desired to enter into treaty or alliance. As a consequence Banu Bakr joined the Quraish, and Khuza-'ah joined the Holy Prophet S.A.W. Banu Bakr, without caring a bit for the conditions of the treaty, attacked Banu Khuza-'ah. The Quraish helped them with men and arms.

When the aggrieved party sought justice from their Muslim allies, the Holy Prophet S.A.W. as their leader, demanded an immediate redress for not only violating the treaty but also slaying his men in the sanctified area. Three demands were made, the acceptance of any one of them was stressed:

- to pay blood money for the victims of Khuza-'ah;
- to terminate their alliance with Banu Bakr' or
- to consider the truce to have been nullified.

In the fit of their pride Quraish arrogantly said: "We will neither pay blood money nor terminate our alliance with Banu Bakr, but are prepared to declare the truce of Hudybiya as null and void.

E. THE DEJECTION OF ABOO SUUFYAAN:

Aboo Suufyaan was dejected over the imprudence of his people and came to Madina for a renewal of the truce. He went to the house of his daughter Ommie Habibah (wife of the Holy Prophet S.A.W.). But as he went to sit on the Prophet's S.A.W. carpet she felled it up. "My daughter," said he, "I hardly knew if you think that the carpet is too good than me or that I am not good for the carpet." She replied, "It is the Holy Prophet's S.A.W. carpet and you are an unclean polytheist."

This reply of the wife of the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him)

speaks eloquently of the great love and the profound respect which his partners of life had for him. Can an imposter command such affection from one who has a free access to the most guarded sectors of his life? It describes the sincerity, the deep love, great attachment and the genuine sincerity of the followers of Muhammad (Blessings and salutations of Allah on him).

Aboo Suufyaan turned his steps back to Makkah in a state of bitter disappointment and submitted the report of his meeting with his daughter, the behaviour of Aboo Bakr, Omar and Ali (Allah is pleased with all of them) who did not respond to his so belated truce call, and the meaningful silence of the Holy Prophet S.A.W. The Makkans were dismayed, but did not expect imminent danger.

VII. THE FINAL VICTORY WITHOUT A DROP OF BLOOD AND THE MOST PEACEFUL ENTRY OF MUSLIMS IN MAKKAH

The Holy Prophet S.A.W. ordered preparations to be made for march to Makkah. The expedition was first kept secret but later on he revealed that the neighboring tribes, who were in alliance with the Muslims, were also invited to join the Holy Prophet's S.A.W. army.

For twenty-one long years the Quraish had been committing atrocities on the Muslims. They tortured them, inflicted injuries upon them and dragged them in the fire and on the burning sand of blazing Makkah. In fact, made their very existence impossible. Hard pressed by these atrocities, the Muslims left their native place in order to seek shelter at Madina. But the revengeful Makkans allowed them no rest even in that city. They attacked them even in their new abode.

After making full preparations the Holy Prophet S.A.W. proceeded to Makkah as the head of ten thousand soldiers on the 10th of Ramadan, 8th Hijrah. He encamped at a place known as Marr al-Zahran. The Quraish were quite unaware of the development. But the Holy Prophet S.A.W. did not like to take them by surprise. He, therefore, ordered his men to kindle fire on all sides for cooking purposes. The idea behind this was that the Quraish should be afforded full opportunity to assess the situation correctly in which they were pitchforked and should not endanger their lives by leaping blindly in the battlefield. The Holy Prophet S.A.W. wanted to avoid bloodshed as far as possible and was anxious that the wiser counsel should prevail upon the haughty Makkans and they should weigh the pros and cons of the matter before coming forward for an encounter. Abbas, R.A. the Prophet's S.A.W. uncle, like his brother Aboo Taalib, had always been friendly to his nephew, Muhammad S.A.W. He had been giving him timely warning of the Makkans attack on Madina. He met the Holy Prophet S.A.W. on the way and discussed the situation with him. Hadhrut Abbas R.A. had tender feelings for his kith and kins in Makkah and was desirous that they should realise the gravity of the situation and yield before the irresistible tide of the Muslim army.

Hadhrut Abbas Radhi Allah unho (Allah is pleased with him) was fully aware of the change of heart of the majority of the Makkans and he succeeded in convincing Aboo Suufyaan on this state of affairs. The Peace Treaty of Hudybia had provided them a respite to see and think in a calmer atmosphere, and, with cool-headed feelings and in a rational frame of mind, the teachings of Islaam and the great spiritual and moral revolution which it had brought about amongst those who had accepted it. Their hearts had attested the truth of the Divine mission which Muhammad (Sallallahu Alyhe Wassallam) had brought. Only their professing in words was to be heard.

It was, therefore, in the best interests of Makkah infidels that Islaam should have been allowed to take hold of the city without the least resistance and accepted as an incontestable truth. Through the intercession of Hadhrut Abbas R.A. and the conviction of Aboo Sufyaan, the way was paved for this "peaceful conquest."

B. GENERAL AMNESTY:

None could be more anxious to avoid bloodshed than Muhammad Sallallahu Alyhe Wasslam. He, therefore, proclaimed amnesty to the people who had persecuted and tortured him and his followers and had even made several attempts on his life. But he was the Rahmat-ull-lil Aalameen. The Blessing unto the worlds, and even his deadliest enemies were to be forgiven. "There shall be no retaliation against you this day," he declared. He asked Aboo Sufyaan, once his arch enemy, to proclaim: "he who takes refuge in the house of Aboo Suufyaan is safe: whoso closes the door of his house, the inmates thereof shall be in safety, and he who enters the Sacred Mosque of the Ka'abah is safe."

It was in this spirit of clemency that the Holy Prophet S.A.W. entered the city of Makkah.

C. THE PROPHET (S.A.W.) IN MAKKAH:

After having entered the city, the Holy Prophet S.A.W. offered prayer of thanks in the Masjid-ull-Haraam to the Almighty Allah Who, out of His immense grace, had granted him a most splendid and most peaceful victory over a cruel enemy. A tent was pitched for him near the Haraam at a spot where he spent a few days in a secluded quarter.

D. THE KA'AABA IS PURIFIED.

The Holy Prophet S.A.W. in sincerest remembrance of Allah got up and proceeded towards the Ka'aaba, the Sacred House. It was to be cleaned and made for ever an emblem of the oneness and Supremacy of Allah as well as the unity of transworld Muslims. It was unfortunately infested with 360 idols. He S.A.W. knocked them down with the help of Hadhrut Ali (R.A.) and recited the Verse of the Holy Quraan: "Please declare, the Truth has come and falsehood has vanished. Surely falsehood is ever-vanishing". (Al-Quraan - XVII - 81)

One by one the stone-gods were dismantled from in-side and outside the Ka'aaba. Images and effigies were deleted from its outer walls. He then prostrated himself in worship within the Ka'aaba. He sitting down within sent Bilal to summon 'Othmaan Bin Talhah possessing the key of the Ka'abah. Ascending the steps of the threshold and unlocking the door he ordered that idols should be destroyed and images obliterated from its within with complete overhaul with the help of Hadhrut Ali (Allah is pleased with him). He in the sacred hall performed devout prostrations. He then returned to the door-way the Isstelaam, and, standing upon its elevated step, gazed in thankfulness on the thronging multitude below. It was the 20th of Ramadan, the eighth year of Hijrah, when, on the gate of Holy Ka'aaba, and with its key held in his hand, he delivered the following address:

"There is no god but Allah alone. He has no associate. He made good His promise that He held to His devotee and helped him and defeated all the confederates along. Bear in mind that every claim of privilege, whether that of blood, or property, is under my feet, except that of the custody of the Ka'aaba, worship in it and supplying of water to the pilgrims. Bear in mind anyone who is slain, even though unintentionally, may be cost club or whip, for him the blood cost is very severe: hundred camels, forty of them to be pregnant. O people of Quraish surely Allah has abolished from you all pride of the time of ignorance and all pride in your ancestry. (because) all men descended from Aadam, and Aadam was fashioned out of clay".

Then he recited to them the Verse:

"O mankind verily We (Allah) have created you of a male and a female and We (Allah) have made you nations and tribes that you might know one another. Surely the noblest of you with Allah is the one who most fears from Him. Surely Allah is All Knowing, All Aware". (Al - Quraan = IXLX : 13)

He further added:

"O you people of Quraish what do you think of the treatment that I am about to accord to you?"

They replied:

"O noble brother and son of a noble brother we expect nothing but kindness from you".

Upon this he said:

"I speak to you in the same words as Joseph spoke to his brothers";

"This day, there is no retaliation against you".

Go your way, for you are freed ones".

Then he asked Hadhrut Bilaal, Allah is please with him, to climb up the Ka'aaba to loudly give the call for prayer and he gave the Aadhaan on top of the Ka'aaba.

E. BROTHERHOOD OF MANKIND.

The Holy Prophet also imprinted upon the minds of the people the pragmatic value of the fundamental principle of Islaam, which is the Divine Unity and human integrity. This concept strikes at the very root of all types of man-made distinctions, e.g., those of race, colour, creed and language and completely sweeps off all kinds of hierarchial privileges of life due to social and political discriminations. It was a pronouncement of very great significance. Herein was sounded the death knell of the doctrine of polygenism ascribing multiple ancestry to mankind and the idea of castes or classes forming a barrier to common humanity. There is no distinction between man and man. All are equal, because they are descendants of the same parents. Superiority of one over another in this vast brotherhood does not depend on nationality, wealth or rank but on one's piety, straightforwardness, sincerity and conscious adherence to the command of Allah in the Holy Quraan and the Sunnah of the Holy Prophet S.A.W.

VIII - THE 9TH HIJRAA AND MISSION FULFILMENT

A THE HONYN WAR:

After the peaceful coquest of Makkah the neighborhood tribes had embraced Islaam but some people were still clung to idolatry elsewhere in Arabia who were to be brought under the umbrella of Islaam as Holy Prophet's (S.A.W.) basic mission. Meanwhile the strong Huwazin tribe tried to retaliate but the Holy Prophet (Allah's Blessings and salutations on him) took 12000 troops to face them in the Hunyn battle. This was the all times biggest army with Holy Prophet Sallalloho Alyhe Wassallam, so far. A big cattle wealth was captured here.

Sura Tauba (Repentance) is the testimony to the crushing defeat of this Arab infidels' last force. (Sura Tauba IX : 25, 26).

B. THE FALL OF TAA-IFF:

Then Taa-iff, where in Makki life the Holy Prophet S.A.W. was given the toughest tortures in 9th Nabawi surrendered to Muslims in 9th Hijraa. A big booty came to Muslim hands from Taa-iff as war spoils which were so judiciously distributed.

THE HOLY PROPHET'S ONLY 'OMRA:

On return from Taaiff the Holy Prophet S.A.W. arrived in Makkah (and performed his first and the only 'omra.

D. THE TABUUK WAR: THE MESSAGE TRANSWORLD:

Muslim expedition to Tabuuk in Syria was against the Roman vice Regent where the Arab Christians and Roman Christians had gathered to attack the Muslims and wanted to conquer Madina. The journey was so long and the season was burning. The Sands hell bound, were so wide that this expedition was impossible without special horse/camel force. The hypocrites of Madina and associate Arab tribes detracted. The companions like Hadhrut Aboo Bakr sacrificed every belonging to the last article on the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him). Allah totally rejected from embarking in those who hesitated the hottest season of this expedition in Sura Tauba (IX : 49, 81 and 96).

The Holy Prophet Sallallahu Alyhe Wassallam assembled a historical 30,000 strong army with full preparations and commitment. The Holy Prophet S.A.W. in a toughest weather with his greatest army, biggest of his times, reached Tabuuk on the Syrian border. Plenty of shade, orchard, water and life was available here. It became a peaceful show-down of the biggest empire of the time, the Roman Empire which had defeated the super power of Persian Empire.

This was a peaceful transworld spread of Islaam with its introduction from Syria as an international religion. A peace treaty was signed by the Christian Chief of Syria for the Roman Empire. Allah has described in Sura Tauba IX : 97 to 118) this peaceful deal of universal importance. The Holy Prophet S.A.W. alongwith this strongest force returned to Madina after achieving his (S.A.W.) great mission abroad and finally disciplining the Muslim forces to face any challenge of the future in international spread of Islaam.

IX. RE-DISCIPLINE OF MUSLIMS WITH ALLTIME PURITY OF FAITH

A. DEMOLITION OF HYPOCRITES' MOSQUE:

The fifth columnist hypocrites built a mosque not for remembrance of Allah but for conspiracies against Islaam and for the damage to the Muslim solidarity. After the successful expedition of Tabuuk the Holy Prophet S.A.W. returned to Madina. Sura Tauba (IX : 107) exposed these enemies of Islaam. Therefore this conspiracy centre in cleandestime building called mosque for creating disunity amongst Muslims was demolished by him (S.A.W.)

B. DEATH OF THE CHIEF OF HYPOCRITES OF MADINA:

Abdullah Bin Obyye died in 9th Hijra when the Holy Prophet Sallallahu Alyhe Wassallam returned from Tabuuk mission to which this hypocrites' chief was severely opposed. His sincerely faithful Muslim son Abdullah submitted to him (S.A.W.) for leading his funeral prayer. The Holy Prophet led it. Allah disapproved it in Sura Tauba (IX : 80, 84) that he was enemy of the Holy Prophet S.A.W. and who so does not love His Holy Prophet S.A.W. is condemned so

C. DEPUTATION FROM TAA-IFF:

The Holy Prophet Sallallahu Alyhe Wassallam was so glad to receive a big deputation from Taa-iff after Ramdhan-ull-Mubarak of 9th Hijrah. These were the people who severely tortured him 18 years ago They were the deputationists with great enthusiasm for Islam who were served by him (S.A.W.) with love being the good believers.

D. THE ISLAAMIC CRIMINAL JUSTICE SYSTEM:

Fornication, prohibited sex and adultery as well as the violation of every law was banned. It was subjected to severest punishment by the Holy Quraan (Sura IV: 15, 92, V : 32; XXIV : 2, 3; and Sura XVII : 32)

Usury or interest was prohibited vide Sura Al-Baqarah II ; 275 to 279.

Intoxicants, wine, liquor, gambling, stone alters, murder, disorder, dacoity and divining by arrows was also totally banned and made severely punishable. (Al-Quraan Sura V : 32, 33, 90 and 90).

D. PREACHERS SENT ALL OVER:

The Holy Prophet deputed the companions of great calibre like Ma-az Bin Jabal (R.A.) and those who were trained by him (S.A.W.) at his Suffa, the open university which graduated many as 13000 companions for mission, the world over - from Rome to China.

E. HADHRUT ABOO BAKR LEADS FIRST MUSLIM HAJJ:

When the Holy Prophet (S.A.W.) was to leave for Tabuuk he S.A.W. appointed Hadhrut Aboo Bakr (R.A.) to lead the first Muslim Hajj congregation for pilgrimage in and around Makkah. Hadhrut Ali Radhi Allah hoo Unhoo (R.A.) was deputed later on to announce 40 Verses of Sura Tauba during this first Hajj of Muslims cancelling the treaties with the border tribes who were hypocrites as in Sura IX : 1 to 8.

F. EMISSARIES/STRONG DEPUTATIONS POUR IN FROM ALL ARABIA:

During the early months of 10th Hijra many deputations from all over Arabia poured in to embrace Islaam and learn it from the Holy Prophet S.A.W. A most famous Sura NASR of part 30 as Sura No. 109 is its best testimony. People came to embrace Islaam learning its Shariah from the Holy Prophet S.A.W. in armies.

X. THE HAJJULL WIDAA' AND THE FAREWELL SERMON - THE HUMAN RIGHTS CHARTER

The Holy Prophet Sallallahu Alyhe Wassallam was in the 63rd year of his age. His entire mission was being fulfilled. The Divine modality of his life pattern was established as the best source of righteousness, piety, welfare and human prosperity with peace and co-existence. People in complete ignorance and totally paralysed by sinfulness, vices and satanic system were fully trained to adopt the Divine system of peace and tranquillity with justice and equity.

He announced that he himself will be leading his (S.A.W.) first and the last Hajj in the year 10th Hijra. People came in great numbers that it was attended by 120000 to 140000 faithfuls. Allah declared the Holy Prophet S.A.W. the noblest being and the most pious (Sura XLIX : 13).

On arrival at Zull-Halifa, he (Blessings and salutations of Allah on him) put on pilgrims' garb, entered Makkah with great serenity and dignity and made seven circuits around the Ka'aaba. He (Blessings and salutations of Allah on him) reached the valley of Namrah at sunrise on 9th of Zullhajjah in the 10th Hijrah. On one side of this valley is situated Arafat, and on the other Muzdalifa. After the decline of the sun, the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) started from here and reached Arafat. All the plain was crowded with people to its full capacity; and every one was busy in glorification, and sanctification of Allah and that there is no one else worth worship except Allah Subhanaho Wa Ta'aala. The Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) rode his she-camel Qaswa and delivered the famous Fare Well Sermon as his address of the Hajj-ull-Widaa'. This is the fundamental human rights 1,400 year old but always upto date Human Rights Charter better than that of the U.N.O. On the slaughtering day the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) sacrificed sixty three camels with his own hands symbolizing perhaps the 63 years of his physical life herein. Thirty seven animals were sacrificed on his behalf by Hadhrut Ali (Allah is pleased with him). This sacrifice was enacted in Minaa'area near Makkah. Then the Holy Prophet (Blessings and

salutations of Allah on him) came to the Ka-'aaba and made seven circumambulations (Tawaaf-e-Afada) of the Ka-'aaba. Then he went towards Madina Tayyaba. Since he (Blessings and salutations of Allah on him) had lead this Hajj for the first and the last time, and preached with highest calibre for the last time the biggest assembly of the sincerest Muslims, therefore, it is called Hajja-tull-Widaa (the Last Hajj) and Hajja-tull-Balagha (Pilgrimage of preaching).

Then he (S.A.W.) completed all the rites prescribed Hajj which became his (S.A.W.) Sunnah. (He had performed only one 'Omra). Speech he delivered on the back of his (S.A.W.) she camel, the Qaswah, as his Farewell Sermon the height of his eloquence, oratory and religious fervor, so seriously taken by everyone present there. The text of the same follows —

LAST SERMON OF THE LAST AND THE HOLIEST PROPHET MUHAMMAD S.A.W.

(Blessings and salutations of Allah on him)

This Sermon was delivered on the Ninth day of Dhull Hajjah 10 A.H. in the Uranah valley of Mount Arafat.

THE TEXT

“O People, lend me an attentive ear, for I know not whether, after this year, I shall be amongst you again. Therefore, listen to what I am saying to you very carefully and take these words to those who are not present here today.”

“O People, just as you respect this month, this day, this city as sacred, so regard the life and property of every Muslim as a sacred trust. Return the goods entrusted to you to their rightful owners. Hurt no one so that no one may hurt you. Remember that you will indeed meet your Rubb (Sustainer) and that He will indeed reckon your deeds. Allah has forbidden you to take usury (interest). Therefore, all interest (usuary) obligations, including interest of my own uncle Abbas R.A., shall henceforth be waived.”

“O People, it is true that you have certain rights with regard to your women, but they also have rights over you. If they abide by your right then to them belongs the right to be fed and clothed in kindness. Do treat your women well and be kind to them for they are your partners and committed helpers. And it is your right that they do not make acquaintance with any one of whom you do not approve and that they never will commit adultery.”

“O People, listen to me in earnestness. Worship only Allah, offer your five times daily Prayers (Salaat), keep Fasts during the Holy month of Ramadhan, and give your wealth in Zakaat. Perform Hajj, if you can afford it. You know that every Muslim is the brother of another Muslim. You are all equal. Nobody has superiority over other except by piety and good action.

Remember, one day you will appear before Allah and answer for your actions and deeds herein. So beware. Do not stray from the path of righteousness after I am gone.

“O People, no Prophet or Apostle will come after me and no new faith will be born. Reason well, therefore, O People, understand my words which I convey to you. I leave behind me two things, the Quraan and my example, the Sunnah. If you follow these you will never go astray.”

“All those who listen to me shall pass on my words to others and those others to next ones and so on.”

The last ones understand my words better than those who listen to me nearby directly.

Be my witness O Allah, that I have conveyed your Message to your devotees.”

This is what the Holy Quraan says about his great Messengership as well as his being the best well wisher of the mankind for all times to come:

"Surely a Messenger has come amongst you from amongst yourselves. If (any of) you fall in a trouble it hurts him grievously as he is all the time desirous of your welfare. To the believers he is so compassionate and so merciful." (Al Quraan IX - 128)

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالَّذِينَ آمَنُوا لَرُؤُوفٌ رَّحِيمٌ

XI. THE DIVINE LIGHT TRANSITION TO THE ORIGINATOR TO EVER ILLUMINATE THE UNIVERSE = 11 HIJRA

The 11th year of Hijra is the year in which the Holy Prophet (Blessings and Salutations of Allah on him), after completing of his greatest mission of perfection of the Islaamic modality of Allah by his example returned to the Being Who had deputed him. He is from that time to date the beacon house of Divine light to illuminate the worlds to peacefulness. After conquest of Makkah Arabs in general had embraced Islaam. On the day of his first and last Hajj the Holy Prophet (Blessings and Salutations of Allah on him) was revealed the last verse of the Holy Quraan which he delivered in an address and recited :

"This Day I (Allah) have perfected for you your faith, and completed My (Allah's) favours upon you. And have chosen Islaam as your religion (as the best religion for all times)." (Al-Quraan = V : 3).

Then he (Blessings and salutations of Allah on him) said, "I leave with you the Holy Book, Al-Quraan from Allah, and my Sunnah for your all times guidance".

"Here is a devotee of Allah whose hard labor has provided him option from his (S.A.W.) Rubb (Sustainer) the life of this transitory world against that life which is everlasting, eternal and so dear to the Creator." "This devotee has chosen the latter." When Hadhrut Aboo Bakr (Allah is pleased with him) heard this, tears started rolling down his cheeks, and he correctly realised that when the religion has been perfected, then the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) has no concern with this physical world and whatever it contains."

One month before the departure from this world to the eternal life Hereafter, the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) used to advise his companions in such a way that they used to think of his departure from this temporary life to eternal world.

The Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) remained somewhat sick for fourteen days. Due to physical weakness he could not join the congregation Prayers lead by Hadhrut. Aboo Bakr on his (S.A.W.) orders. When Hadhrut Aboo Bakr (Allah is pleased with him) stood up for the first prayer Imaamut (leading) on the praying place of the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him), he and other companions were so much swayed by passions and overpowered with grief of his (S.A.W.) not being in sight. They had so tender feelings not to find him (S.A.W.) for this first Prayer that they started weeping. When the voice reached the sacred ears of the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) he was having tranquillity, satisfaction and confidence that his (S.A.W.) orders will be carried by his (S.A.W.), companions without his physical presence. He took the final bath and came into the mosque; sat on the left side of Hadhrut Aboo Bakr (Allah is pleased with him) and led the Prayer. On completion of this double led Prayer he (S.A.W.) said, "O Muslims! I entrust you to Allah; Allah's care, supervision and help. I am going to separate from this physical world and I am going to leave it".

In the morning of the last day he moved the curtain of his (S.A.W.) apartment belonging to

his (S.A.W.) beloved wife Aysha (Allah is pleased with her) which was so adjacent and by the side of his (S.A.W.) Holy Masjid. He (S.A.W.) personally observed all the Muslims busy in praying. On seeing the prayer rows in order, signs of great satisfaction appeared on his sacred face, and he (Blessings and salutations of Allah on him) smiled. Then the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) advanced; and offered morning Prayer with Hadhrut Aboo Bakr Siddique (Allah is pleased with him). After this Prayer, the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) did not physically offer any other prayer in this world, except his (S.A.W.) sincerest, profoundest and humble remembrance of Allah Almighty in humility. (This was narrated by Imaam Bukhari on the authority of Hazrut Ayisha Siddiqah, in his authentic book of Hadith, page 62).

After reaching home, the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) faced the transition of his (S.A.W.) soul to the Khaliq (Creator). A bowl, full of water was placed towards the head of the Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him). He (Blessings and salutations of Allah on him) personally dipped his right hand fingers in water and gently rubbed his pious face again and again. His head was in the lap of Hadhrata 'Aysha (Allah is pleased with her). She was placing wet cloth on his (S.A.W.) holy forehead. He was reciting Verses of the Holy Quraan:

"In the company of those on whom is the Grace of Allah." (Al-Quraan = IX : 79)

On observing this situation his so dear daughter Hadhrata Fatima (Allah is pleased with her) started weeping. The Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) called her (R.A.) nearer to his (S.A.W.) holy mouth and wiped out her tears. He said to her as she (R.A.) reported later, that she will be the first to meet him (S.A.W.) in the eternal world from amongst all the Muslims. Then he (S.A.W.) called near him (S.A.W.) his so dear grandsons Hadhrut Imaam Hassan and Hadhrut Imaam Hussain (Allah is pleased with them). He kissed their faces and caressed them, and bequeathed about their esteem. He (Blessings and salutations of Allah on him) also called his (S.A.W.) wives and advised them. The Holy Prophet (Blessings and salutations of Allah on him) then called Hadhrut Ali (Allah is pleased with him) and continued conversation with him for some time. He (Blessings and salutations of Allah on him) then emphasized in low voice to all those present about the Prayer regularity and the preservation of the rights of the subordinates (servants and workers to be cared). Then he (S.A.W.) brushed his teeth. Then he (S.A.W.) was heard saying, "My Rubb (Sustainer) grant me Pardon and join me Your companionship on the highest echelon."

In the final he uttered "Baluur Rafeequll Aalaa" - "Blessed is the companionship of the Being on the Highest." Hadhrata 'Aysha (R.A.-Allah is pleased with her) says "then his (S.A.W.) head fell in her (R.A.) lap and the pupil of his (S.A.W.) eyes closed;" and his luminous soul left the sacred body. It was Monday the 12th of Rabi-ull-Auwal, in the year 11 A.H. at the age of 63 years and four days at breakfast time in the broad day light clear morning.

Hundreds and thousands of faithfuls lined-up for three days and nights to see his sacred, luminous and fresh face paying their homage. Everyone was sending on him the best Blessings and salutations of Allah. His sacred body was placed in his Mousoleum on the same place in the Huujrah of Hadhrata Aysha R.A. by Hadhrut Ali R.A.

Indeed! we are all for Allah and we have to return to Him. May Allah shower His choicest Blessings and profoundest salutations on him (S.A.W) for his highest exaltation on the Day of Resurrection alongwith his pious noble family and his great companions."

XII. MORE GLIMPSES ON THE LIFE AND THE SERVICES OF THE HOLY PROPHET S.A.W. TO THE MANKIND

1. **MONDAY** (Pir/Do-Shamba) is the sanctified day of 12th Rabi-ull-Awwal/21st April 571 A.D. on which the Holy Prophet S.A.W. was born; first revelation of the Holy Quraan from Allah was authenticated; Mairaj (Celestial Ascension) was conferred to him; he arrived in Madina on migration from Makkah; the change of Qibla took place in Madina; the Battle of the Trench with revelation of most important Chapter Al-Ahzaab - XXXIII was achieved; the famous treaty of Hudybia - the first human history treaty of greatest impacts was signed; the most peaceful victory of Makkah was achieved; the Holy Prophet completed his Divine Mission of his personal modality of the Holy Quraan in practicality and his most exalted soul left his pious body to meet with Allah Almighty on Monday the 12th Rabi-ull-Awwal, 11th Hijra, the 8th June 632 A.D.
2. **THE FIRST MUSLIMS** were the dearest wife Hadhrata Khadeejah, his dearest friend Hadhrut Aboo Bakr, the nearest brother in kinship Hadhrut Ali, the most obedient servant Zaid Bin Harisa (liberated by the Holy Prophet S.A.W.) and the still to be got liberated slave of Omyya Bin Khalaf, the most pious Bilaal.
3. **HADHRUTA AYSHAH(R.A.)** was the youngest wife of the Holy Prophet S.A.W. who was the most talented, the most intelligent, the most diligent, the most obedient, the most educated and specially inducted Muslim lady who is a source to one third of knowledge of Islaam.
4. **HADHRUTA HAFSAH (R.A.)** was the most straightforward, pious, strict to her words, and most trustworthy wife of the Holy Prophet S.A.W. She was entrusted the authenticated copy of the Holy Quraan by the Holy Prophet S.A.W. himself after being calligraphed in his (S.A.W.) own supervision and repeatedly verified as correct version listening its recitation from many companions, R.A. who had remembered it by heart.
5. **FINALITY** of the Messengership of the Holy Prophet Muhammad S.A.W. is in his being the Last and the great Prophet of Allah with complete divine Message in the permanently authenticated revelations from the Creator for human welfare for all times to come. This Last Divine Guidance cannot be challenged by anyone in any form in any age. The Quraan will remain always fresh in its contents and the preachings of the Holy Prophet S.A.W. will always remain Divinely enshrined to lead the humanity to perfect peace, tranquillity and prosperity based on piety.
6. **THE MIRACLES** of the Holy Prophet Sallallahu Alyhe Wassallam run into 10,000 but the most important are 45 mentioned in the Holy Quraan, 200 mentioned in Hadith and others observed but not related. A few are as follows:
 - (a) The Holy Quraan with 6666 Verses was revealed by Allah to him in 7 Manzils, 30 Parts, 114 Chapters, 540 Sections and 323760 alphabets. Its lengthiest Sura - Sura Baqarah and smallest Sura - is Sura Kauthar. The Holy Quraan gives the most authentic history of 26 Prophets of Allah and the great nations of the past. The Holy Quraan can be divided on all the modern, natural, social, medical, agricultural and human sciences but its division on subjects of most practical nature can be:
 - (i) 1000 Verses on Do's; (ii) 1000 Verses on Donot's; (iii) 1000 Verses for rewards; (iv) 1000 verses for awards; (v) 1000 Verses for precedents; (vi) 1000 Verses for historic facts; (vii) 500 Verses for permissible deeds, eatables and fruits as well as prohibited articles and deeds; (viii) 100 verses on remembrance methods; and (ix) 66 miscellaneous verses — Total 6666 verses. (Refer to Al-Quraan - XXIX : 48 to 58; X: 38; XVII: 88; LII : 33, 34; XLII : 52; XV:9; LVI: 77, 78; LXXXV:21, 22)
 - (b) The Modality of Allah Almighty as His Last Ideal is in: the Life of the Holy Prophet

Muhammad Sallallahu Alyhe Wassallam. It is the greatest miracle itself as he is Quraan in practice for all times to come.

- (c) The Mairaj which placed the Holy Prophet S.A.W. on the highest echelon by leading the congregational prayer of all the Prophets of Allah in Jerusalem dome of the rock and then his Ascension to the celestial worlds within a few moments of a holy night putting the entire universe to stand still for his bodily personal inspection of the creatures of the past present and future. (Al-Quraan - XVII : 1; LIII:8 to 10)
- (d) Splitting of the moon into two (Al-Quraan - LIV:1, 2) and bringing back the sun while it had set (famous Ahadith) of these miracles.
- (e) Other few miracles mentioned in the Holy Quraan - Prophecy of Roman empire victory over Persian empire (Sura Ruum - XXX : 1 to 6); Birds of Flight to destroy Abrahah (Sura Al-Feel - CV : 1 to 5); Sharh-e-Sadr — the oral surgery of the heart of the Holy Prophet S.A.W. for its expansion to greatness (Sura VIC : 1 to 4); Quraish conspiracy to murder the Holy Prophet S.A.W. and his migration to Madinah-Rasool (Sura Anfall VIII : 30); the Badr victory (Sura Anfall — VIII Verses 9, 11, 17, 43, 44 & 45; Sura Aale Imraan III-Verses 13, 124 to 125; Sura Al-Ahzaab XXXIII - Verse 9; Sura Tauba IX Verse 25; Prophecy of peaceful victory of Makkah - Sura XXVIII : 85, Sura LXI verse 13, Sura IIL : 1, 27, Prophecy of sad demise of the Holy Prophet S.A.W. at the age of 63 - Sura Nasr CX : 1 to 3. (Many miracles mentioned in the authentic books of Ahadith).

7. THE HOLY PROPHET BLESSING FOR THE ENTIRE MANKIND FOR ALL TIMES: References of the Holy Quraan - Sura XXI : 107; IV:79; XXXIV:28.

8. THE HOLY PROPHET S.A.W. is the Light of Divine Truth in the darknesses of the human excesses and the exploitations of the underworld; the Holy Prophet S.A.W. is the symbol of unity of humanity based on equality, piety and peaceful equity; the Holy Prophet S.A.W. gave first written constitution at Madina, the first treaty Hudybia, the treaty of truce at Makkah and the Farewell Sermon as the first human rights charter, still unique in the world. The Holy Prophet S.A.W. gave equal status to the women preserving their rights, abolished slavery, gave rights to the down trodden, ushered in corrective approaches for the offenders/inmates and tended the innocent children. It is the Holy Prophet S.A.W. who removed inequality, abolished classes and caste/creed distinctions of human beings for the first time in history of mankind and gave a system to the Day of Resurrection free from all such exploitations. His politico-administrative and socio-economic system is the best if implemented in letter and spirit as fully explained in the Quraan.

9. TREASURE OF THE TRADITIONS of the Holy Prophet S.A.W. runs into hundreds of thousands but the Sihah Sitta - six most authentic books of Hadith with Sahih Bukari are the purest on each subject of the Holy Quraan.

10. THE HOLY PROPHET S.A.W is the real modality of Allah Almighty as His Last Ideal for human welfare. He is the beacon house of peaceful co-existence of mankind with tranquillity. His system is fully based on equality free from disunity and immorality.

11. ABOUT THE RESPECTED WIVES OF THE HOLY PROPHET, S.A.W.: Strange criticism is levelled about the family life of the Holy Prophet S.A.W. by the agitating non-Muslim minds irrationally opposed to him (S.A.W.). Many of the non-Muslims have been perturbed by the marriages of the Holy Prophet S.A.W. some of the so called Muslim scholars have been so apologetic. The orientlists and the Western scholars have advanced highly objectionable controversies about it. Some of them consider these marriages as something abnormal. Such scholars are confused to column his so pious, righteous and straightforward life of nobility with the lustful despotic kings and ignoble rulers who contracted expanded marriages with the virgin

daughters of different tribal chiefs to expand the sphere of their sovereignty annexing through such relations the in-laws State territory.

This is not at all the actual situation of the Holy Prophet S.A.W. His marriages with the noble females, most of whom were widows or slaves or the wives of the companions of the Holy Prophet S.A.W. martyred in different battles during their noble mission for the spread of Islaam. The Holy Prophet S.A.W. was not at all a prince to a king of a vast kingdom with golden spoon in mouth enjoying a blank cheque of multiple sexual relations. He was just an Orphan of a very noble family of a very gentle and modest origin. He was born in Makkah-tull-Mukarrama, which according to the Holy Quraan is a place without much greenery and devoid of agricultural activity giving a desolate look but bestowed with Allah's bounties with the fruits of all the world.

His (S.A.W.) first marriage with the richest lady of the land Hadhrata Khadeeja-tull-Kuubra (Allah is pleased with her) was at his prime age of 25 when she was 40 and was widowed two times for death of her Christian husbands. She had from them female children of teen ages as her liability. It was the honesty, integrity, diligence and the pious deal of the Holy Prophet as a young tradesman on her behalf from his prime age of 18 to 25 years that she was so impressed by his so straightforward and truthful trade and commerce that she herself requested him, rather persuaded him, to marry her. He remained with her for 15 years in Makkah before declaration of his Prophethood by Allah and then she continued to be his only wife till her death, ten years later. This was the age of perfect adulthood of the Holy Prophet S.A.W. from his 25th year to 50th year of prime maturity. After her sad demise he was entitled to marry anyone virgin he liked from the families of his so obedient, submissive and highly motivated companions. But he wanted the hand of so young Hadhrata Aysha (Allah is pleased with her) daughter of his (S.A.W.) great friend and the most obedient companion Hadhrut Aboo Bakr Siddique (Allah is pleased with him). She was so intelligent, brilliant and of a strong memory in her tender age that she could be an asset to the Muslim Ommah, later, in the far sighted estimation of the Holy Prophet S.A.W. 1/3rd of the knowledge of Islaam and the authenticity of Holy Prophet's S.A.W. thousands of Ahadiith is due to her great memory and profound knowledge about Islamic Shariah. What she listened from the Holy Prophet S.A.W. and what she saw him (S.A.W.) practising she verified it from the Holy Quraan. Therefore, she (R.A.) whenever was asked about the modality of the Holy Prophet S.A.W., instantly replied that it was just the real practicality of whatever Allah has prescribed in the Holy Quraan.

She was in her early twenties when the Holy Prophet S.A.W. left her issueless. But she became a mini-university of Islamic Fiqh to teach the Holy Quraan and interpret the Ahadiith of the Holy Prophet S.A.W. to the next generation of Muslim youngsters as her spiritual sons and daughters with special reference to the female rights and children protection. Hadhrata Ayesha R.A. being the daughter of a great father was the only virgin lady so young in age when her marriage was solemnized to the Holy Prophet S.A.W. in Madina. All the other wives of the Holy Prophet S.A.W. were either divorced ladies or widowed persons who wanted to be respectful mothers of all the Muslims after their marriage with the Holy Prophet S.A.W. on their personal perusal. All of his wives were great asset to Ommah in their own ways. The widowed Hafsa daughter of Hadhrut Omar, Radhi Allah ho unho, worried the father too much but she being a great lady opted to marry only the Holy Prophet S.A.W. He agreed to honor her as she was to be entrusted the authenticity of the Holy Quraan by the Holy Prophet S.A.W. He himself (S.A.W.) got its Master copy prepared after checking it from many scribes of the Quraan and from the recitals of his companions who were Huffaz having memorized the entire Quraan by heart. Holy Prophet's S.A.W. personally authenticated copy of the Holy Quraan in the strict custody of Hadhrata Hafsa R.A. was adopted for circulation after getting its copies calligraphed by Hadhrut 'Othmaam R.A. in caliphate of Hadhrut Omar the great R.A. Similarly **Omme Habiba**, was the daughter of Aboo-Sufyaan, the Arch enemy of the Holy Prophet S.A.W. in Makkah.

She played a crucial role to request the Holy Prophet S.A.W. to forgive the Makkah enemies when they fell to his feet after their defeat in the peaceful victory at Makkah. To quote another example Lady Marya from Egypt was so famous on her arrival in Madina, as a gift from the Roman King. But she became an ordinary female as a household of the Holy Prophet S.A.W., the only lady who had a son Ibraheem as the last issue of the Holy Prophet S.A.W. who died when he was of only three months.

Humanity should not be confused from the permission of the Holy Quraan in Sura Nisaa' (IV : 3) for four wives at a time as a pattern of the Holy Prophet S.A.W. That is not injunction of Allah as a Command. It is only an option in case of emergent situation or if the orphan females out-number the males. This emergent permission is specially in case of the orphan virgin young ladies to save them from being community rejects or social neglects. Their going social waste in a so called permissive society in the hands of so called god fathers or the pimps is intolerable in Islaam. They should be taken in matrimonial respect by the richer Muslims to maintain them as a social liability of a Muslim community. The same Verse of the Holy Quraan (IV : 3) states that since you cannot do justice to more than one wife, therefore, marry only one. This clearly indicates that it is not normal Muslim practice except a negligible number of Muslims who can maintain a profound social justice amongst more than one wife in urgency. This misunderstanding about the Muslim society must be shunned by the prejudicial Western thinkers.

The very ideal, model and most pious life of Prophet Muhammad S.A.W. as the Last Messenger of Allah and the great benefactor of mankind for establishing peaceful co-existent society everywhere in each area should not be over-shadowed due to his wives. It was the compulsion of all these respectful ladies (R.A.) except Hadhrata Aysha R.A., that the Holy Prophet S.A.W. married them on human compulsion under the doctrine of necessity with Divine authority. All of them were asset to the Muslim Ommah in their own rightful services to the followers. As the rightful mothers of all the believers they enjoy the same respect after 1400 years of their passing away to eternity. They still are the beacon house of light on the internal life patterns of the Holy Prophet S.A.W. only known to them and made public for advantage of the Muslims of every age.

12. ABOUT THE EARLY DEATH OF THE MALE CHILDREN OF THE HOLY PROPHET S.A.W.:

The infidels of Makkah taunted that the Holy Prophet S.A.W. has been deprived by his Allah from male progeny that all of his male children died in infancy. The chiefs of Makkah pagans, the enemies of Islaam and the opponents of the Holy Prophet S.A.W. taunted that the last Messenger of Allah had no lineage to be his male heirs. Allah Almighty revealed the smallest Chapter of the Holy Quraan known as Sura Kauthar (CVIII) in Part thirty. It gives ABUNDANCE to the Holy Prophet S.A.W. It is a Divine assurance to him (S.A.W.) that he has been bestowed from Allah the greatest treasures and the profoundest abundance in all respects that all the believers to the Day of Resurrection will not only be his sincere followers but also will be the most obedient and most loving spiritual sons and daughters. Today Muslims are 1.25 billion the world over and they really have a great inner attachment for him, much superior to their real fathers and mothers in traditional, conventional and joint families. The critical minds of a nucleus family of the so called Western free and permissive society cannot taste and cannot understand this great boon of Allah to the Holy Prophet S.A.W. as they are deprived from family life from infancy.

Allah Almighty gave the previous Prophets a long lineage of Prophets. The first man Aadam (Allah is pleased with him) had a long line of Prophets in his lineage up to the Holy Prophet S.A.W. The arch Prophet Ibraheem (Blessings of Allah on him) heads a long list of

Prophets through many many generations. Prophet David was also bestowed similar honors. The Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alyhe Wassallam is the last Messenger of Allah. As such he is an ideal modality of Allah Almighty. Being the Habib Allah, the most loved last Messenger of Allah, he (S.A.W.) could not have been deprived from similar honors for exalting his male children to Prophethood. Since he is Blessing of Allah in the entire universe to the Day of Judgement as Last Messenger, therefore, Allah Almighty has repeatedly given an injunction in the Holy Quraan that no male can claim to be the son of Holy Prophet Muhammad S.A.W.

(Al-Quraan = XXXIII : 40).

The Holy Prophet S.A.W had three sons but they died in infancy only due to the reason that he is the Last and the Final Messenger of Allah as Divine modality of the Holy Quraan up to the Day of Eternity. He has been bestowed the attachment of the multi billion believers in all ages with profound love and sound respect for him as his spiritual sons and daughters. Therefore, Allah Suubhanoho Wa Ta'aala projects in Sura Al-Ahzaab XXXIII : 40 that Muhammad Sallallahu Alyhe Wassallam is not at all the father of any male person just to preserve his (S.A.W.) finality as the Last Prophet (Sallallahu Alyhe Wassallam).

XIII. THE MODALITY OF THE QURAAAN FROM ALLAH ALMIGHTY - A GIST OF THE LIFE OF MUHAMMAD DUUR RASOOL ALLAH / AHMAD-E-MUUSTAFAA S.A.W. FROM THE QURAAAN:

(Sallallahu Alyhe Wassallam - Blessings and salutations of Allah on him)

“Definitely for you the life pattern of the Messenger of Allah (Modality of Muhammad) presents the best ideal”. (Al-Quraan = XXXIII : 21)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَذِكْرٍ

In the Holy Quraan Allah says: “O mankind a manifest proof (of Allah's truth in Muhammad) has come to you from your Rabb (Sustainer) and We (Allah) have sent down to you a clear light (Muhammad-duur-Rasool Allah). (Al-Quraan IV : 175)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأُنزِلْنَا إِلَيْكُمْ
نُورًا وَهُدًى

- (i) Personal name assigned by mother on birth Muhammad = 33:40/ 47:2/ 48:29.
- (ii) Biblical name = Ahmad: 61:6.
- (iii) Meesaa-quun-Nabi-yeen = 3:81
- (iv) The Highest Title assigned by Allah = Obedient to Rasool Allah/ Rasool-E-Aakhar = 2., 143/ 3:32, 81/ 4:59, 80/ 5:67// 7:158
- (v) The Best Modality for humanity is his Oosswa Tull Hasna = 33:22
- (vi) Rasoolull Aalam/Rasool as a Judge/Messenger to forgive/Prophet so loving/the Last Prophet/Prophecy of Moses = 8:24/ 9:61, 127// 24:48// 25:30// 33:21// 33:36, 40, 45// 49:2, 3// 57:8/ 59:7// 60:6/ 61:6/ 64:11
- (vii) Some of the eulogized names of the Holy Prophet Muhammad S.A.W. assigned to him in the Holy Quraan:
 - (a) Nabi and Rasool : 3:68/ 7:157, 158/ 8:64/ 9:73, 117/ 22:52/ 33:1, 6, 56.
 - (b) A Nabi all the times entitled for Darood (Blessings and salutations) from Allah S.W.T and His Angels: 33:43, 56/ 49:2 to 4/ 60:11 and 12.

- (c) Khaata-muun Nabi-yeen : 33:40
- (4 to 8) Shaheed/Shaa-hid-Mataa/Raoofo-fuur Raheem: 4:143// 33:45// 4:59, 63, 80/ 60:12// 9:128
- (9 to 12) Mubasshir/Basheer/Nazeer/Muunzir: 17:15/ 25:56/ 33:45/ 48:8// 2:119/ 5:18/ 7:188/ 34:28/ 48:8// 2:119/ 7:188/ 34:28// 13:7/ 38:4/ 50:2/ 79:45
- (13 to 15) Siraj/Noor/Da-ee-Ilallah/Ka-ufa-Tuun-Nass: 33:46// 5:15/ 33:46// 33:46/ 34:28
- (16 to 18) Rahmat ull-lil-Aalameen / Muslim-e-Auwal/ Do-aa-e-Ibraheem: 21:107// 6:114// 2:129.
- (19 to 21) Minallahe/ Sahib-e-Mukame Mehmood/ Abdullah:
2:129/ 3:164/ 17:79// 17:1/ 18:1/ 25:1/ 39:36// 57:9/ 72:19
- (22 to 24) Al-Muzammil/ Al-Mudassir/ Al-Harees: 73:1// 74:1// 9:128
- (25 and 26) Rasooluun-Nabi-Yall Ommi/ Al-Fatiho: 7:157/ 7:158// 48:1/ 110:1
- (27 to 32) Taa-haa/ Yaa-seen/ Al-Azeez/ Al-Muustafa/ Al-Muujtaba/ Al-Aoola: 20:1// 36:1// 9:128// 22:75/ 25:59// 3:179/ 22:78// 33:6
- (33 to 36) Mo-Allimull-Kitaab/ Mo-Allimull-Hikmah/ Al-Muujtaba/ Al-oola: 2:129/ 3:164/ 62:2// 2:129/ 3:164/ 62:2/ 2:129/ 3:164/ 62:2
- (37 to 39) Sahib-e-Buurhaan/ Very Fine Prophet/ Sahib-e-Kauthar/ Sahib-e-Khyrull Kathcer:
4:174// 53:2// 81:22// 108:1//
- 40 Rasoolin Nass-4 : 79.
- (40) Obedience to Muhammad S.A.W is obedience to Allah = 4:80

Surely Allah and His (all the) Angels (all the times) send their Blessings on the Holy Prophet. O the people, who believe, you must also send the Blessings and salutations (of Allah) on him. (Al-Quraan - XXXIII : 56)

Inn-Nallah-Ha Wa Ma-Laaa-ee-Kata-Hoo Yosal- Loona 'Alun Nabee. Yaaa-Ayyo-Hallazeena Aaamenoo Salloo Alyhe Wassalle-Moo Tasseema. (Al-Quraan XXXIII : 56)

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا



O my Allah You Bless our noble Prophet Muhammad and the progeny of our noble Muhammad and the companions of our noble and our Master Muhammad and eulogise him with Salutations and Your own proudest Blessings.

Allah-humma Salle 'Alaa Sayyedina Muhammadin Wa 'Alaa Aale Sayyed Naa Muhamma-Din Wa Ushaabe Sayyedna Wa Maulanaa Muhammadin Wa Baarik Wassallam Wa - Salle Alyhe.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآرَائِكَ وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلَيْهِ

THE HOLY QURAAN



WITH
NON-SECTARIAN MODERN AND SIMPLE TRANSLATION
INCLUDING
PRECISE TRANSLITERATION & AUTHENTIC EXPLANATIONS
BASE — KANZULL IMAAN
BY : DR. A. MAJEED A. AUOLAKH

WITH URDU TRANSLATION OF IMAAM-E-AHL-E-SUUNNAT
Maulana Muhammad Ahmad Raza Khan Brelvi-Qadri

کَنْزُ الْإِيمَانِ

Publishers :

CONTENTS

	A Word from the Publisher			5
	Preface			6
	The Introductory Submissions			9
	Sura Fatiha - The Opening			13
	PART 1			17
1.	The Opening	Al-Faatihah	Makkah	17
2.	The Cow	Baqarah	Al-Madina	18
	PART 2	Baqarah		68
	PART 3	Baqarah		74
3.	The Family of Imraan	Aale-l'mran	Al-Madina	75
	PART 4			107
4.	The Women	Un-Nisaa'	Al-Madina	108
	PART 5	Un-Nisaa'		136
	PART 6	Un-Nisaa'		141
5.	The Table Spread	Al-Maidah	Al-Madina	142
	PART 7			168
6.	The Animal	Al-In'aam	Makkah	169
	PART 8			198
7.	The Heights	Al-A'araaf	Makkah	199
	PART 9			231
8.	Spoils of War	Anfal	Al-Madina	232
	PART 10			243
9.	The Repentance	Tauba	Al-Madina	244
	PART 11			260
10.	Yunus	Yunus	Makkah	267
11.	Huud	Huud	Makkah	284
	PART 12			301
12.	Joseph	Yousuf	Makkah	302
	PART 13			317
13.	The Thunder	Ra'ad	Makkah	318
14.	Ibraaheem	Ibraaheem	Makkah	327
15.	Hijr	Al-Hijr	Makkah	334
	PART 14			334
16.	The Bee	Un-Nahal	Makkah	343
	PART 15			360
17.	The Children of			

Chapters (Suras)	Where Revealed	Page
18. Israel	Banee Israaael	375
18. The Cave	Al-Kahf	376
PART 16		391
19. Mary	Maryam	392
20. Taahaa	Taahaa	403
PART 17		417
21. The Prophets	Al-Anbiya	417
22. The Pilgrimage	Al-Hajj	430
PART 18		442
23. The Believers	Al-Momineen	442
24. The Light	Al-Noor	453
25. The Quraan	Al-Fuurqaan	465
PART 19		474
26. The Poets	Sho'ara	475
27. The Ant	Un-Naml	490
PART 20		500
28. The Narratives	Al-Qasas	501
29. The Spider	Un-Kabuut	515
PART 21		523
30. Al-Romans	Ruum	524
31. Luuqmaan	Looqmaan	532
32. The Prostration	Sajda	537
33. The Confederates	Al-Ahzaab	541
PART 22		553
34. Sheba	Us-Saba	554
35. The Creator	Fatir	562
36. The Yaa-seen	Yaseen	569
PART 23		575
37. The Ranking ones in Rows	Us-Suffat	576
38. 'Saad	Saad	576
39. The Groups	Uz-Zoomar	596
PART 24		600
40. The Believer	Al-Mominin	607
41. Prostration	Haa-Meeem- Us-Sajdah	618
PART 25		625
42. Consultation	Ush-Shoora	626
43. The Golden		

Chapters (Suras) PART (AL-JUUZ)		Where Revealed	Page
	Ornaments	Al-Zookhruuf	Makkah 636
44.	The Smoke	Ud-Dookhan	Makkah 643
45.	The Kneeling	Al-Jathiyah	Makkah 647
	PART 26		652
46.	The Sand Hills	Al-Ahqaaf	Makkah 652
47.	Muhammad	Muhammad	Al-Madina 658
48.	The Victory	Al-Fateh	Al-Madina 663
49.	The Apartments	Al-Hoojoraat	Al-Madina 669
50.	Qaaf	Qaaaf	Makkah 672
51.	The Scattering Winds	Al-Zariaat	Makkah 676
	PART 27		680
52.	The Mount Toor	At-Toor	Makkah 681
53.	The Star	Un-Najm	Makkah 684
54.	The Moon	Al-Qamar	Makkah 688
55.	The Most Affectionate	Ar-Rahmaan	Makkah 693
56.	The Event	Al-Waqiah	Makkah 698
57.	The Iron	Al-Hadid	Al-Madina 703
	PART 28		709
58.	The Pleading Woman	Al-Moojadilah	Al-Madina 709
59.	The Confrontation	Al-Hashr	Al-Madina 713
60.	The Tried Woman	Al-Moomtahina	Al-Madina 717
61.	The Ranks	Us-Saff	Al-Madina 721
62.	The Friday Prayer	Al-Juum-ah	Al-Madina 723
63.	The Hypocrites	Al-Muunafiqoon	Al-Madina 724
64.	The Fraudulent	Al-Taghabunn	Makkah 726
65.	The Divorce	Ut-Talaq	Al-Madina 729
66.	The Prohibition	Ut-Tahreem	Al-Madina 732
	PART 29		734
67.	The Sovereignty	Al-Mulik	Makkah 734
68.	The Pen	Al-Qalam	Makkah 737
69.	The Sure Reality	Al-Haa-Aqqah	Makkah 741
70.	The Ascendance	Al-Ma-Aarij	Makkah 744
71.	Nuuh	Nuuh	Makkah 747
72.	The Jinn	Jinn	Makkah 749
73.	The Enwrapped	Al-Moozammil	Makkah 752
74.	The Enfolded	Al-Mooddassir	Makkah 754
75.	The Resurrection	Al-Qiyamah	Makkah 758
76.	The Time	Ud-Dahar	Makkah 760
77.	The Emissaries	Al-Moorsalaat	Makkah 762

Chapters (Suras) PART (AL-JUUZ)		Where Revealed	Page
			765
PART 30			
78. The Pluckers	Naba	Makkah	765
79. Those Who pull and Draw	Naziaat	Makkah	767
80. The Frowning	Abasa	Makkah	770
81. The Folding Up	Tukweer	Makkah	772
82. The Splitting	Infi'tar	Makkah	773
83. The Measuring Short	Al-Mootatafee-feen	Makkah	774
84. The Bursting	Inshiqaaq	Makkah	776
85. Constellations	Boorooj	Makkah	778
86. The Comet	Tariq	Makkah	779
87. The Most High	Aalah	Makkah	780
88. The Overwhelming	Ghaashiyah	Makkah	781
89. The Dawn	Fajr	Makkah	782
90. The City	Balud	Makkah	784
91. The Sun	Shumse	Makkah	785
92. The Night	Lyl	Makkah	786
93. The Forenoon	Dhuha	Makkah	788
94. The Expanding	Inshirah	Makkah	788
95. The Fig	Teen	Makkah	789
96. The Blood Clot	Aluq	Makkah	789
97. The Blessing	Qadr	Makkah	790
98. The Clear Sign	Byyinah	Al-Madina	791
99. The Earth Quake	Zilzaal	Al-Madina	792
100. Those that Run	Aadiyaat	Makkah	792
101. The Calamity	Qaariah	Makkah	793
102. Piling Up	Takaasuur	Makkah	794
103. The Time	Asr	Makkah	794
104. The Backbiter	Homazah	Makkah	795
105. The Elephant	Elephant	Makkah	795
106. The Quraish	Qooraiash	Makkah	796
107. Articles of Use	Maa'oon	Makkah	796
108. The Abundance	Kausar	Makkah	797
109. The Disbelievers	Kafiroon	Makkah	797
110. The Help	Nasr	Makkah	797
111. The Flame	Lahub	Makkah	798
112. The Sincerity/Purity	Ikhlass	Makkah	798
113. The Dawn	Faluq	Makkah	798
114. The Mankind	Un-Nass	Makkah	799
115. Supplication			800
115. Introduction to Suras (Sura II to CXIII)			801
116. Pure Islamic Subjects of the Holy Quraan			977
117. Biography of Dignified Ahmad Raza Khan Qadri Brelwi			1010

A WORD FROM THE PUBLISHER

The Awais Quraan Company by the Benevolence of Allah, Suubhanahoo Wa Ta'ala and the grace of the Holy Prophet Muhammad Rasool Allah, Sallallahoo Aleye Wassallam, has been publishing, since long the Holy Quraan for the Oommah with translations and commentaries only in Urdu language by top scholars of Islam on mass scale for use in Pakistan and for Pakistanis abroad.

Now the Company has the distinction and unique honor with the Benevolence of Allah, to join with the English world to present to the Muslim Oommah this Compendium of 19 translations in simple English in modern terms and transcribing the Roman version of the Holy Quraan with the Arabic text. It will be a most beneficial addition for Muslim brothers abroad and students of the English medium educational institutions in Pakistan as well as brothers in Islam who are unable to recite Arabic text. We are thankful to Dr. Abdul Majeed Ahmed Auolakh for this painstaking work of great worth as a unique contribution for Oommah's reunification making Imam Ahmad Raza Khan's '*Kunzull Iman*' its basis.

The Scholars, intellectuals and experts of English and Arabic languages are requested to help improve this work of English translation and Roman transliteration of the Holy Quraan for the next Edition.

12th Rabi-ul-Awwal, 1415 A.H.
21st December, 1994

Muhammad Riaz Ch.
Prop :
Awais Company
Nashraan-e-Qur'aan-e-Paak
3-Al-Kareem, Market,
Urdu Bazar, Lahore-2,
Pakistan.
Phone : 092-42-7232455,
7248195, 7321954.

PREFACE

This English Translation of the Holy Quraan is presented with Benevolence of Allah Subhanahoo Wa Ta'ala. (S.W.T.) and the grace of the Last Ideal of Allah, the Holy Prophet Muhammad-duur-Rasool Allah Sallallahoo Aye Wassallam (S.A.W.). It is in simple, direct, idiomatic and modern American English presenting the text in brief sentences with sequence of tenses.

The first and foremost Revelation of the Holy Quraan consists of five Verses (1 to 5) of the Sura Alaq (The Clot-IVC) which contain 19 words. The first Verse of the Holy Quraan, by compilation, as pre-fixed to Sura Fatiha (The Opening), is Bismillah Hir Rahma Nir Raheem. It consists of 19 alphabets. The total Suras of the Holy Quraan are 114 which can be divided by 19. Grand total of the Verses of the Holy Quraan, excluding cut out Verses, can be divided by 19. Grand total of the Quraanic words, as well as the alphabets, are also divisible by 19. Therefore, 19, being the prime number, attracted this Translator to select 19 Quraanic translations for the preparation of this compendium.

It was the personal effort of the Translator in New York in January, 1989 to initiate work on this unique compendium of 9 Urdu, one Persian and 9 English translations. Its basic transliteration is from Imam Ahmad Raza Khan's Urdu translation of the Holy Quraan. Thus it is the first effort to integrate the translations of the Holy Quraan by top Sunni, Shia, Ahle-Hadith as well as independent scholars and great Ulema of Islam in different regions of the world. List of such great works is as follows :

**URDU, PERSIAN AND ENGLISH TRANSLATIONS OF SUNNI, SHIA,
AHLE HADITH AND INDEPENDENT SCHOLARS
OF
ISLAM CONSULTED FOR THIS COMPENDIUM :**

URDU TRANSLATIONS

1. Imam Ahmed Raza Khan Barailvi;
2. Shah Rafi-ud-Deen.
3. Justice Peer Karam Shah Al-Azhari;
4. Dr. Sayyed Hamid Hasan Bilgrami;
5. Sayyed Abu-ul-Aala Maudoodi
6. Maulana Sana Ullah Amratsari;
7. Maulana Mehmood-ul-Hasan,
Sheikh-Ul-Hind;
8. Hafiz Nazar Ahmed;
and
9. Maulana Fateh Muhammad
Jalendhri

ENGLISH TRANSLATIONS

10. Allama Abdullah Yusuf Ali;
11. Marmaduke Pickthal;
12. M. H. Shakir;
13. Supreme Sunni and Shia Councils,
Labanon
(M. Y. Zayid - Editor);
14. Sh. Muhammad Sarwar,
Queen, N.Y; U.S.A.;
15. Maulana Abdul Majid Daryabadi,
India;
16. Prof. Shah Farid-ul-Haq
17. (Col) Muhammad Shoab;
and
18. Arthur J. Arberry.

PERSIAN VERSION

19. ALLAMA MUHAMMAD KAZIM MOAZZI OF IRAN.

The Roman version of the Arabic text of the Holy Quraan was a very difficult task but it has been done with much care after consultation of many experts of Qira'ut. The Majhool (Non-Arabic recitation) has been Romanized into Ma'roof (pure Arabic recitation) method. The pronunciation by this transcription in Roman of the Arabic text is more authentic for English world Muslim brothers.

This compendium of translations with Roman transliteration is nearest to the text. It is submitted in humility to Allah Almighty. Suggestions for its improvement for 2nd Edition be liberally forwarded to the publisher or the Translator which will be a great service to the Holy Quraan, itself.

The Translator is highly obliged to the American Muslim brothers in the correctional system of the United States to whom he had a chance to deliver lectures on Islam in 40 prisons of 11 States from September 1988 to Jan: 1990. They felt a need of such an integrated modern English translation in Pakistan in furtherance of Allama Abdullah Yusuf Ali's work done in Lahore in 1934. The Muslim Chaplaincy Services and the respectful American Muslim Imams encouraged this Translator to undertake it as a compendium service to assimilate many translations of the Holy Quraan. This work will also be helpful for self acquisition of daily recitation of the Holy Quraan in Arabic for those who are deprived of reading the Arabic text by inculcation through Arabic experts being citizens of the non-Arab world.

For this compendium of translations and Roman transliteration many top scholars, Doctoral degree holders of Arabic, faculty members of many institutions and men of letters have been consulted with open heart. The new method to keep some of the Quraanic terms in Arabic originality has been explained in the following pages after personal discussions and painstaking persuasive consultations. Therefore, it is hoped that this service to the Holy Quraan will be a pioneer and unique effort which needs improvement and perfection.

This Translator submits this personal effort of five years with the hope to get more Benevolence of Allah S.W.T. and grace of the Holy Prophet S.A.W. in this world and the hereafter for himself and his pious parents (in eternity) alongwith his brilliant son and pretty daughter (in prosperity).

11-National Colony,
Rehmanpura,
Lahore-54600, Pakistan.
Tel : 042-7587259-413974

Dr. A. Majeed A. Auolakh
M.A. (Soc); M.A. (Pub. Admin);
LL.B.; D.L.L. (Punjab).
M.A. (Crime: Just.), CUNY,
New York; Ph. D. (U.S.A).

THE INTRODUCTORY SUBMISSIONS

I

THE HOLY QURAAAN

Allah's Name Who is the Most Affectionate, the Most Merciful.

A. THE QURAAANIC BASIS:

Allah Suubhanahoo Wa Ta'ala S.W.T. is the Rubbull Aalameen رَبُّ الْعَالَمِينَ, the Sustainer of universe, as in Sura one Verse one of the revelation. He has bestowed humanity His last Word, the Holy Quraan. It is Zikrull 'Aalameen (ذِكْرُ الْعَالَمِينَ), the greatest Remembrance for all the times for the entire universe, as in its Sura XXXVIII Verse 87. This Holy Quraan is Allah's Last perfect Will revealed to His last ideal Messenger Muhammad Rasool Allah as Rehmatull-il 'Aalameen (رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ), Allah's benevolence for the entire universe to the Last Day, as in Sura XXI Verse 107, Sallallahoo Alye Wassallam (Allah's Blessing and Salutations on him).

B. MEANINGS OF THE WORD "AL-QURAAAN":

"AL-QURAAAN" means a compiled, comprehensible and written work which is intelligibly read repeatedly with good insight. The word "AL-QURAAAN" has its roots in the word "QUURAA" which means repeated reading or recitation again and again. The Word "IQRAA" has been derived from this root which means "READ". This is the first word which was transmitted by Allah Almighty through Angel Jibreel, as the holy spirit, who revealed from Allah 6666 verses of the Holy Quraan to the dynamic universal reformer, the Holy Prophet Muhammad Sallallahoo Aye Wassallam, in 23 years, bit by bit. The five initial Verses of Sura Alaq (the Clot-IVC) being the first and the foremost revelation to the Holy Prophet Muhammad, S.A.W. from Allah Almighty, start from the word "IQRAA" OR "READ". The word "QIRA'UT" is used for perfect pronunciation of the Quraanic text according to the Arabic philology used in Oommal Quur'aa (the mother of the educated) the city of Makkah and its suburbs with all times perfect, original, unchangeable, majestic and constant Arabic pronunciation.

As such "AL-QURAAAN" means the perfectly compiled work, most repeatedly recited. Around 1.2 billion Muslims in the world today believe in the Holy Quraan that no moment of the day and the night goes without its reading. It is a unique literary master piece shaping human minds to action in original formation surpassing all the religions of the world in practice and devotion. More than 5 million Muslims the world over, have memorized and learnt the Holy Quraan by heart. Today more than 5 million Muslim men, women and young boys/girls are in the process of becoming Hafiz of the Quraan memorizing it in totality. Trillion of pages contain the Quraanic knowledge today in more than a million volumes in almost all the languages of the world. Of course the Quraan is the only revealed Book in perfect purity which has achieved the highest respect in the entire human history.

Many scholars of Islam, the orientalist and the non-Muslim intellectuals, writers and great men of letters have proved that three hundred of modern subjects can be derived from specific Quraanic Verses. There are 600 Verses out of 6666 that deal with study, research and exploration of the universe. Ali the Great, Allah is Pleased with him (A.P.H.), says that there are 1,40,900 subjects only in Sura Fatiha — the Opening — the 7 Verse first Chapter of the Holy Quraan.

Unfortunately in the late 19th century and the last decade of the 20th century the Muslim Oommah in 55 independent Muslim countries of the world being rulers or majority nations became subservient and slave to the alien civilizations. Therefore, they are lagging behind in Quraanic education, inculcation and scientific explorations. It is astonishing to note

that during the twelve centuries of Islam, starting from first century A.H. (After Hijra) to the 13th century A.H. (7th century A.D. to 18th century A.D.), the Muslim world was the cradle of civilization with Islam as the dynamic prime religion on the globe. Reading, writing, research, advancement, literary development, scientific exploration and geographical expeditions were its symbols. The advancements of the present developed world in all the fields is indebted to the Islamic heritage of Quraanic knowledge. There are again signs of awakening of the Islamic world. We should again find our roots of knowledge in the Holy Quraan which is the compendium of all the physiological, economic, sociological, biological and cosmos sciences of the world, today. Islamic Umma (the grand trans world Muslim community) should again play its role of world peace, human prosperity, mankind coexistence and the man's best socio-economic advancement in the 21st century to lead the world to equality, justice, fraternity and prosperity for all. It is possible only when we the Muslims intelligibly understand the Holy Quraan and get its full insight to open the gates of this Divine treasure of superlative know-how for such human service.

C. THE LINGUISTIC SUPREMACY OF THE HOLY QURAAAN:

The Holy Quraan as the last Divine message to mankind has a supernatural harmony and serenity of language. It presents a conception that is determined by the accuracy of words, the purity and fitness of the composition and the charm of thought and imagination. It cannot be found in any religious literature throughout the human history. The Holy Quraan speaks to man in the language of life perfectly and melodiously. Its expression invigorates the mind. Its impassioned appeal stirs the soul in such a way that one perceives as if a storm of spiritual, moral and socio-economic reform is raging in one's own heart.

It is neither poetry nor prose due to its superior intellect with something unique: eminently combining its diction for the humanity. But we can find prose in it which contains an urge of a sound repetition with regular rhythm of poetry in sublime qualities, so suitable for Divine Commandments. The Holy Quraan made the eloquent but arrogant Arabs spell-bound by the charm of its expression. The effect of its superb symphony moves men to tears and ecstasy. The utterances of the Holy Quraan have an appeal both for human understanding and feeling. The Quraanic Verses have the power to stir the human self from the mind to the heart and elevate the spirit to awaken the moral sense. It can rouse the soul from inertia, to break its shackles, to lighten its burden and make it active and fruitful. Anyone who reads the Holy Quraan would find each word of it overflowing with Divine Wisdom just serving the most forceful means to plead and urge, lash and soothe as well as preach and move with such brilliant eloquence which has a peculiar charm. The poet laureate of the Holy Prophet's time when saw a few Verses of the Holy Quraan, pasted with the Holy Ka'aba, exclaimed "this is not at all the creation of a man".

D. UNIVERSALITY :

The Holy Quraan is the last Divine Guidance from Allah with all times re-interpretable meanings for the entire humanity with equity. It is in fact an inexhaustible treasure-house of universal knowledge and revealed unchangeable perfect wisdom. What is to be fully appreciated about the Holy Quraan is that Allah in His infinite Mercy, gave in the form of the Quraan the final truth and thus nothing needs to be added to its original deposit in any period. It is a repository of fundamental human rights with equity and social justice. The trans world truths revealed in the Holy Quraan on all aspects of life are simple but profound, clear but intense, mild but revolutionary, vibrating the soul but also penetrating the depth of human heart on all parts of the globe. You just hand over the text of the Holy Quraan with its simple meanings to any reader in his (her) dialect, it will definitely move his (her) heart and stir his (her) mind to its eternal realities and universal truths, empirically and objectively variable.

The message of the Holy Quraan has an appeal not only to the reason and understanding but also to the whole moral nature of human beings to know and appreciate the truth, to be in spiritual accord with the Will of Allah. The Holy Quraan makes a person understand that revelation, as a source of knowledge, is neither contrary to reason nor above reason, but it is the most dependable guide which sets the reason upon the right path, by awaking it to realize the facts of life

One may find in the Holy Quraan some of the Divine stories, similes and mysteries which may appear to surpass the compass of human intelligence but these are in no way inconsistent with the truth. The limited intelligence of mankind may not fully comprehend these mysteries as the real truths. But humanity has no right to contradict or reject them without verification only that they cannot understand them easily. If one thing lies outside the comprehension of human beings they have no justification to state that the same is non-existent. When the authentic evidence proves its experience, one has to accept it as an undeniable truth.

There is an underlying harmony in hundreds of subjects containing thousands of topics discussed in the Holy Quraan and these are also meaningfully linked up with different facts, perfect in all respects. The very susceptible problems of faith and morality, spirituality and metaphysics, ethics and sociology, psychology and intellect, politics and economics, logic and empiricism as well as law and justice have been discussed therein with supreme perfection.

It is sometimes said that the Holy Quraan has not put forward anything which one finds completely missing in the early scriptures. It is a very superficial charge against the Holy Quraan as it is not only the combination comprehension and compendium of all the early scriptures of Allah Almighty but a complete code of earlier teachings of all the Uummbia (Prophets of Allah, Sobhanahoo Wa Ta'ala). How can it be that the Holy Quraan should say anything which had not been said before? Allah S.W.T. is never unaware even for a fraction of the second about His creature and as such from every human being. He preserved His Will through a succession of His Uummbia (Prophets) before Muhammad A.B.S.H. (Allah's Blessings and Salutations on him). The Holy Quraan was revealed not to startle the world, with novelties unheard of, but to carry the evolutionary reforms in moral and religious development of mankind to a new stage transcending and fulfilling the previous stages, continuous with them as well as all the time dynamic treasure of knowledge just to remain a most perfect revelation practicable to the Day of Resurrection.

This planet (earth) of ours, is full of Allah's Blessings, Mercy and Love. He daily sustains with diligence all the creature. The earth gives more than enough vegetation and fruit, fish of the sea is all the times in abundance, so much fowl of the air and every green herb supports both human and animal life. This scenario of Allah Almighty's countless bounties has its full account in the Holy Quraan.

E. THE HOLY QURAAN AND THE JUST HUMAN SOCIETY :

Man is not the owner of the things of this earth but the user, cherisher, custodian and preserver of all the creation of the Creator. Man develops own human culture to be passed on to next generation of each civilization. Then follows destruction only when human imbalances and injustices become intolerable to the Creator Who is Himself just and likes only Justice with just social order for His entire creature. The human beings are fully self-willed but the Holy Quraan inculcates them to be a lover, sober, honest, faithful, loyal, obedient and temperate devotees of Allah. If we are not honest in that which is another's' rightful who will give us that which is ours! Nobody will commit to allow us our true rights if we do not fulfil others' obligations. This is fully stressed in the Holy Quraan with reference to human integrity in a just society preserving every body's human rights as much superior to Allah's own Divine Rights which He can forgive.

Every person works for his/her own benefit but how can it be without benefit to fellowmen. But why only a few enjoy the benefits of others' toil? There starts violation, infringement and exploitation of human labor because of our unjust behavior in life. Our highhandedness, our selfishness and material interests and our use of illegal means and methods and our injustices have *prima facie* been rejected by Allah Sobhanahoo Wa Ta'ala in the Holy Quraan, so repeatedly and so forcefully. Individual injustice and usurpation of others' rights lead to unjust social structures. Such exploitation in the economic system establishes totally unjust rule of powerful groups, parties, companies and corporations in economy, trade and productivity. The demand as well as supply of services get corrupted. Lack of perseverance in right conduct upsets a just society which brings about the infringement of laws weakening the state statutory authority. The mankind is today suffering in the hands of the governing minority assuming illegal autonomy to hoard riches by exploitation of the poor majority in many countries. All these human rights infringements have been fully exposed by the Holy Qura'an to establish a just social order with a perfect social control to achieve judicious human self survival on universal level.

About four and a half billion people of the so-called third world suffer, today, in the hands of neo-colonial oppression, discrimination and injustices of less than a billion people of the industrial world. Today the power of the powerful is confronting the faith in justice, peace and equality of opportunity prescribed by Allah Almighty. By-products are the ill-gotten wealth and evil use of power. Injustice is the most blatant form of exploitation, today. It ignores Allah's Command for justice denying even the right of life to a neighbour. The mankind has one and the same call by Allah Almighty that is to adopt piety, honesty and equity throughout the Quraan to achieve fraternity. We cannot build a real Islamic society for peaceful coexistence of humanity as inculcated to us by Allah Almighty with dignity to usher in a process of equality of opportunity. This is how only the Holy Quraan guides us to confer the guaranteed human rights of everybody.

Have we not all one father, Aadam? Has not One Allah S.W.T. created us? Have We not the one revealed Quraan to keep us one Oommah (grand transworld Islamic community) and one Islam preached to us by the ideal most last one Rasool the Holy Prophet Muhammad S.A.W.? Then why do we set treacherously every man against his brother committing injustice? Why human beings have become beasts to kill one another? Why is violence, terrorism and dangerous criminality the rule of the day? Why extortion is posing total threat to man by man? Why is this plunder, loot, arson, rape, corruption and exploitation? It is only and only due to injustice to man by man. The Holy Quraan and in its light the Sunnah of the Holy Prophet of Islam Muhammad S.A.W. are torch-bearers to mankind today. Only the system of the Quraan can help mankind to get out of these human maladies to an equitable and just society. Enforcement of everybody's self-obligations to fellow citizens' with fraternity, dignity and insured liberty guarded by Divine Sagacity can lead us to a just society.

This is the greatest message of the Holy Quraan, through the Holy Prophet S.A.W. Let us study the 6666 Verses of this Divine Scripture, being the Last Revelation of Allah and get inculcation for human perfection. We shall be convinced that it is only Islam, as a monolithic religion, which has the real message to uphold human dignity with justice and equity.

CHAPTER I

DIVISION (MANZIL) OF THE HOLY QURAAN :

Sura Al-Fatiha to Sura Aale 'Imran - Three first Suras constitute Division one of the Holy Quraan containing commands of Allah on human creation, their categorization and their best ones known as to believer Muslims as pious and straightforward to uphold Allah's standards.

SOORA FATIHA-THE OPENING

(A) INTRODUCTION:

Allah Suubhanahoo Wa Ta'ala (S.A.T.) has Bestowed to the mankind His highest, perfect, final and everlasting revelation. It is the only pure Divine guidance to the human beings to inculcate them straightforwardness, collective honesty and social integrity for the entire humanity upto the Day of Resurrection in shape of the Holy Qur'aan. This is His Last Book containing 6666 verses in 114 chapters with 540 sections revealed to the best ideal, the last Prophet, the highest standard bearer Muhammad-duur-Rasool Allah S.A.W. (Sallallah Hoo Alaihe Wassallam—Allah's Blessings and Salutations on him. He conveyed to mankind Allah's last Message as His Last Messenger.

Soora Fatiha is the introductory and the first completely revealed highest value chapter of the Holy Qur'aan. This is first total revealed Makki Soora, containing seven verses in one Section. It has 27 words and 140 alphabets.

(B) NOMENCLATURE:

This Soora is called Al-Fatiha, Saba Mathani (the seven most repeated verses), Ummul Kitab (the Mother of the Book), and Alhumd (The Praise).

The word Al-Fatiha itself means the preface, foreword, the opening, the initial step, or the forehead of a written scriptures. It is also known as Al-Kanz. (Treasure) Us-Shifa (The Healer), Noor (Light), Dooaa (supplication), Muunajat (Submission), Soora-us-Salaat (Muslim Prayer Chapter) and Al-Kifaya (the sufficient).

(C) IMPORTANCE :

Allah Almighty calls it Saba Mathani i.e. the most repeated seven verses in verse 87 of Chapter XV of the Holy Qur'aan.

This highly eulogized first Soora of the Holy Qur'aan is daily repeated for 47 times in five time obligatory Salaat (Muslim Prayers) by each faithful Muslim. Its memorization, oft repeated remembrance and at least 17 times recitation in 17 compulsory Rak'aats is the real test of a true Muslim. As such it is being recited in billion folds throughout the world during each 24 hours. This Soora is the essence of the Holy Qur'aan being the Mother of the Book. It is supplication in shape of submission prescribed by Allah S.W.T. (Suubhanahoo Wa Ta'ala) and practiced by the Holy Prophet Muhammad (S.A.W.) as a compulsory and fundamental daily duty by each Muslim, either in congregational Salaat (Muslim Prayer) in Masjid or in self contained daily personal recitation. No Muslim Prayer can be established without recitation of Al-Fatiha. This is also a great Bestowment of Allah Almighty that when one Muslim meets another Muslim, they repeat Al-Fatiha at all joyful occasions and in adversaries including birth and death ceremonies

and for gratefulness to Allah Almighty.

(D) DATE OF REVELATION :

Its exact date of revelation is not known to the Ummah but it was perhaps the first complete revelation within the Holy Ka'aba to the Holy Prophet Muhammad S.A.W. (after the first revelation of five Verses of Soora Alaq - The Clot - Chapter VIC). The Holy Prophet S.A.W. started to offer Salaat (Prayer) in the present form on the 3rd day of the declaration of his Prophethood from Allah after getting this highly impactful 7 verse revelation. This prayer was followed by his most respectful wife Ummul Momineen (Mother of faithfuls) Khadijatuul Kuubra, later on joined by young Ali the great (Allah is pleased with them). There is no authentic record of public introduction for this Soora. In the earliest stages regular congregational Muslim Prayers was offered by smaller group of faithfuls behind the closed doors. Later on Salaat was offered in the Holy Masjid ul-Haraam around the Holy Ka'aba. Thus Al-Fatiha is being recited by every Muslim from the initial stage of the advent of Islam.

(E) STATUS :

This Soora is constituted of Seven Verses, first Verse introducing Allah S.W.T. as Rubbuul Alameen (رَبِّ الْعَالَمِينَ). Verses 2, 3 and 4 contain highest human eulogy to Allah Almighty as prologue to the Zikruul Alameen (إِذْكَرْنَا الْعَالَمِينَ) — the Holy Qur'aan). And the last 3 verses (5 to 7) are the best supplication and perfect submission taught to human beings through Rahamatuul Alameen (رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ) Muhammad Rasool Allah S.A.W. with the sole objective of keeping humanity on straight path of piety to the Day of Eternity for five time reminder in five time Muslim Prayer daily.

(F) STATUS :

It is not only the most useful compulsory Soora for each Muslim in each Salaat, each time, everyday but also is the dearest sublimation, containing best supplication by the human beings to the Almighty Allah for His Benevolence to the men and children to bow down to Him as His Crown Creation Everybody can easily remember it for reciting it in gratefulness, thankfulness and faithfulness to the Merciful, Gracious, Affectionate, Kind, Originator, Creator, Sustainer, Chersher, Benevolent, Honorable and Beneficent Allah S.W.T. Allah keeps its repetition, memorization, remembrance and submissive recitation nearest and dearest to Him to Bestow His straight path as His best guidance to mankind.

(G) MISSION :

The purpose of this Soora is to prescribe for the Muslims their fullest submission only to Allah, desist from all idols, prostrate to the Being worth worship and ask the perfect help and guidance, the best way and the finest sustenance from the profoundest Sustainer, the RUBBUUL ALAMEEN, the Bestower of the right path which is the zenith of humanity before the Almighty. This is a Soora keeping the human beings under the all protective umbrella of Almighty Allah's Benevolence. It keeps continuity of piety, sincerity and purity of human faith in Allah Almighty.

THE HOLY QURAAN




WITH
NON-SECTARIAN MODERN AND SIMPLE TRANSLATION
INCLUDING
PRECISE transliteration & AUTHENTIC EXPLANATIONS
BASE — KANZULL IMAAN
BY : DR. A. MAJEED A. AUOLAKH

WITH URDU TRANSLATION OF IMAAM-E-AHL-E-SUUNNAT
Maulana Muhammad Ahmad Raza Khan Brelvi-Qadri

کَنْزُ الْإِيمَانِ

Publishers :

All rights reserved. No part of this work may be copied, reproduced, adapted, abridged or translated, stored in any computer or other retrieval system or transmitted in any form by any means without prior written permission of the publishers. Any breach will entail legal action without further notice.



Published by :

First EditionApril, 1996
Second Edition December, 1997
Third Edition October, 1999

Printed at:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

S : 1

SURA FATIHA (THE OPENING)

Revealed at Makkah

(7 Verses, 1 Section)

In Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

1. All praises to Allah, the "Rubb (Sustainer) of the entire universe;
2. the most Affectionate, the most Merciful;
3. the Supreme owner of the Day of Judgement.
4. We only worship You and we only seek Your Help.
5. Guide us to the straight path;
6. the path of those whom You Blessed;
7. not of those who are under (Allah's) Wrath and are astray.

سورہ فاتحہ کی ہے اور (اس میں) سات

(7) آیتیں ہیں

اللہ کے نام سے شروع جو بت مہربان

رحمت والا

سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان

والوں کا (1)

بت مہربان رحمت والا (2)

روز جزا کا مالک (3)

ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں

(4)

ہم کو سیدھا راستہ چلا (5)

راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا (6)

نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بے

ہوؤں کا (7)

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ وَمِنْهَا سِتُّ آيَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

إِلَّاكَ نَعْبُدُ وَإِلَيْكَ

نَسْتَعِينُ

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ

عَلَيْهِمْ

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

وَالضَّالِّينَ

* Personal Name of the Supreme Being Allah Suubhana Ho Wa Ta'aala (S.W.T.) has been translated as "God" by Muslim Scholars on the initiative of orientalists by a mistake. Allah means the Being worth worship. There is none equal to Him and He is the One and the Only. Non-Muslims have gods and goddesses. The Christians have Jesus god and the Hindus have Karishna god. They worship them as personified god. for their idol worship. Similarly Buddhists and Parsis have their own idol gods. There are "god fathers" and "god mothers". The criminal underworld also has their "mafia gods" and drug lords are also "drug gods". Is the Muslim Allah a similar God? Not at all. It is a great blunder to translate Allah into God. All Muslims must desist from translating the personal name of Allah into God and keep it ALLAH as Ism-e-Azam (the Greatest Name). The greatest remembrance and highest Muslim worship lies in repetition of ALLAH, ALLAH being His Personal Name (Suubhana Ho Wa Ta'aala) used at 2698 places in the Holy Qur'aan, as an article of faith to each Muslim.

** Rubb is the most brilliant characteristic of Allah as His Sifati (gracious) Name out of His 99 Glorious Names. It never should be translated as Lord, as there are hundreds of lords everywhere. Jesus, Buddha and Karisna are also lords but Rubb of Muslims sustains all creatures. So we should not translate this glory of Allah as Lord but it should be maintained as Rubb as repeated in the Holy Qur'an 2660 times. Ar-Rahmaan and Ar-Raheem occur at 171 and 228 places respectively both divisible by 19.

سورة البقرة التي نزلت في مكة المكرمة في شهر ربيع الثاني سنة 610 م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا

رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا

أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ

قَبْلِكَ ۚ وَالْآخِرَةُ هُمْ

يُوقِنُونَ

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ ۚ

أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ

أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ

وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ

غَشَاوَةٌ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ

وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

سورة بقرہ مثنیٰ ہے (اس میں) دو سو چھیاسی (286) آیتیں اور چالیس (40) رکوع ہیں

اللہ کے نام سے شروع جو بت مہربان رحمت والا

وہ بلند رتبہ کتاب (قرآن) کوئی شک کی جگہ نہیں اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو

(2)

وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں (3)

اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا اور آخرت پر یقین رکھیں (4)

وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو سمجھنے والے (5)

بیٹک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ (توہین ہیں) ایمان لانے کے نہیں (6)

اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھنا ٹوپ (اندھیرا) ہے اور ان کے لیے برا عذاب (7)

اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن (قیامت) پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں (8)

S : II

SURA BAQARAH
(THE COW)

Revealed at Madina

(286 Verses, 40 Sections)

Allah's Name. Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION : 1

1. *ALIF-LAAAM-MEEEM

(A.L.M)

2. That (heavenly) Book (The Holy Qur'aan) is without any doubt. It guides the pious;

3. who believe in the Unseen and who establish 'Salaat (Muslim Prayer) and spend from what We (Almighty Allah) bestowed to them;

4. and who believe in what has been revealed to you (beloved Rasool Muhammad, S.A.W.***) and what was revealed before you, and are sure about the hereafter.

5. Only they are guided by their Rubb (Sustainer) and only they are to attain success.

6. Surely those who are disbelievers, it is alike to them whether you warn them or not, they will not believe.

7. Allah leaves their hearts and ears sealed and on their eyes is a cover of darkness and for them there will be awful punishment.

SECTION 2

8. And of mankind are some who say, "we believe in Allah and the Last Day", yet they are not believers.

* (Code Words used in the Holy Qur'aan in the different forms, real meanings of which are known only to Allah and His Last Ideal, the Holy Prophet Muhammad S.A.W. These are called Haroof-e-Mukataat (cut-outs)

** S.A.W. is abbreviation of Arabic homage to Muhammad-duur-Rasool Allah which is Sallallahu Alaihe Wassallam—Allah's Blessings and Salutations on him. Never say P.B.U.H. as it is a misnomer coined by orientalists as the Holy Prophet S.A.W. fought with sword all the life and he needs peace in his Mausoleum

9. They try to deceive Allah and the believers. In fact they deceive none except themselves but donot have its perception.

10. In their hearts is a sickness: Allah keeps this sickness to increase. And for them is a painful punishment because they falsify.

11. And when it is said to them, "do not indulge in disorder on the earth", they say, "we do so only as reformers".

12. Please beware that it is they who indulge in disorder but they do not perceive it.

13. And when they are told to believe as mankind believes, they say, "shall we believe as the fools believe". Please beware! surely, they are the foolish but donot know it.

14. And when they come in contact with believers they say, "we also believe". But when they are alone with their satans (devils), they say, "we surely, are with you. We surely, are only joking."

15. Allah returns back their jokes and keeps their rebellion to increase by wandering blindly.

16. Such are the people who barter deviance instead of guidance. So their bargain earns them no profit and they are not on guidance.

قریب دیا جائے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو اور حقیقت میں قریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو اور انہیں شعور نہیں (9)

ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلا ان کے جھوٹ کا (10)

اور ہو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں (11)

ستتا ہے! وہی فساد ہی مگر انہیں شعور نہیں (12)

اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ مجھے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم اجتناب کی طرح ایمان لے آئیں، ستتا ہے وہی امتحان ہی مگر جانتے نہیں (13)

اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے اور جب اپنے شیطانوں کے پاس آئیے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو یوں ہی نہیں کرتے ہیں (14)

اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے (جیسا اس کی شان کے لائق ہے) اور انہیں ذلیل (وقت) دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں جھکتے رہیں (15)

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے (16)

يُخَدَعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَدَعُونَ إِلَّا أُنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠﴾

بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿١١﴾

وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ لَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١٢﴾

أَلَا لَهُمْ هُمُ الْمَفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٣﴾

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ امْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾

وَإِذْ الْقَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ ﴿١٥﴾

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٦﴾

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اسْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالرُّبْدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٧﴾

* The Arabic words Naa/Nahnoo (We), Alaina/Elaina (Us) or Lana (Our) be taken in first person, singular form in the Holy Qur'aan for Allah. Use of this plural form is just to Glorify Him in the Last Holy Book as is practiced in Arab Culture for respect of highest personages. These terms in plural are only by the Creator for the highest respect to Himself as Almighty Allah as the Most Dignified Being. Arabic language flow has been maintained to describe His Exaltedness into We (Allah), Our (Allah's) and Us (by Allah). He is One and the Only but these terms of plural first person Dignify Him, as also used by highest dignitaries of Arab for their own highnesses as rulers. Allah is the King of the Kings and the eternal Ruler of the entire universe. So these plural terms are in the same Arabic cultural context for One and the Only Allah as He never tolerates any associates or equals to Him.

17. Their example is like a person who kindles a fire and when it lights-up all around Allah keeps away their light and leaves them in thick darkness that they see nothing.

ان کی کہات (مثال) اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگہ اٹھا اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سمجھتا (17)

18. As deaf, dumb and blind, they cannot return;

بہرے ٹوٹے اندھیرے تو وہ پھر آنے والے نہیں (18)

19. as it is like rain-loaded clouds from the sky accompanied by windstorm and thunder and lightening. They put their fingers in their ears due to this thunder for fear of death. Thus Allah encircles up the disbelievers.

یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیروں ہیں اور گرج اور چمک اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں کڑک کے سب موت کے ڈر سے اور اللہ کانوں کو گھیرے ہوئے ہے (19)

20. It is near that lightning may snatch away their sights. Whenever there is flashing they walk in it but when it is dark they stand still. And had Allah* Willed He would have taken away their listening and sights. Surely Allah has the power to do everything.

بھلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں ایک لے جائے گی جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، بیشک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے (20)

SECT'ON 3

21. O Mankind! worship your Rubb (Sustainer) Who created you and those before you, so that you may become pious.

اے لوگو! اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے انگوں کو پیدا کیا یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیز گاری ملے (21)

22. Who made the earth as resting place for you and made the sky a canopy and causes rain from the sky and produces from it fruits as your food? Therefore, do not

اور جس نے تمہارے لیے زمین کو چھوٹا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ بھل نکلے

مَنْهُمْ كَفِرَ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكُوهُمْ فِي ظُلْمٍ لَا يَبْصُرُونَ ۝

صُمُّوا بَكُمْ عَنْ يَّتْمِهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝

أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللَّهُ يَغِيظُ بِالْكَافِرِينَ ۝

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا إِلَهَكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخَسَرَ حَيْثُ مِنْهُ الشُّرَاهِبُ أَنْزَلْنَا

* Personal Name of the Supreme Being Allah Suubhana Ho Wa Ta'aala (S.W.T.) has been translated as "God" by Muslim Scholars on the initiative of orientalist by a mistake. Allah means the Being worth worship. There is none equal to Him and He is the One and the Only. Non-Muslims have gods and goddesses. The Christians have Jesus god and the Hindus have Karishna god. They worship them as personified gods for their idol worship. Similarly Buddhists and Parsis have their own idol gods. There are "god fathers" and "god mothers". The criminal world also has their "mafia gods" and drug lords are also "drug gods". Is the Muslim Allah a similar God? Not at all. It is a great blunder to translate Allah into God. All Muslims must desist from translating the personal name of Allah into God and keep it ALLAH as Ism-e-Azam (the Greatest Name). The greatest remembrance and highest Muslim worship lies in repetition of ALLAH, ALLAH being His Persona Name (Suubhana Ho Wa Ta'aala) used at 2698 places in the Holy Qur'aan, as an article of faith to each Muslim.

equate anyone with Allah, while you know.

23. And if you are in some doubt regarding what We (Allah) have revealed on Our (Allah's) devotee (Muhammad) bring one Chapter (of the Qur'aan) like this; and call upon all your witnesses (helpers), apart from Allah, if you are truthful.

24. But if you donot do so, and surely you cannot, then get protection against the fire, for which men and stones will be the fuel, prepared for the disbelievers.

25. And convey good news to those who believe and do the right deeds, that for them there are Paradises under which streams flow. When they will be provided there fruit to eat, they will say, "it is the same which we were fed before." And they will be bestowed resembling things. And for them there will be pure companions and they will reside there for ever.

26. Surely, Allah is not shy to describe anything as illustration, be it a mosquito or smaller than that. Those who believe know that it is a truth from their Rubb (Sustainer). But the disbelievers say, "what does Allah mean by such illustration?" Many are misled by it and many are guided by it. And none is misguided except the wrongdoers.

27. Those who break the promise with Allah after establishing it and cut off what Allah Commands to join and spread disorder in the

ہمارے کمانے کو تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ (22)

اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک سورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب جاننیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو (23)

پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے تو ہر دو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں تیار رکھی ہے کافروں کے لیے (24)

اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کمانے کو دیا جائے گا (صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا اور وہ (صورت میں) ملتا جلتا انہیں دیا گیا اور ان کے لیے ان باغوں میں ہماری بھینسیاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے (25)

چونکہ اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، پھر ہو یا اس سے بڑھ کر تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی کلمات (مثال) میں اللہ کا کیا مقصود ہے اللہ ہجیروں (ہستروں) کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور ہجیروں (ہستروں) کو ہدایت فرماتا ہے اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں (26)

وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کانتے ہیں اس چیز کو

لَكُمْ فَلَا تَحْسَبُوهَا آيَةً وَإِن تَدَّوْا
أَن تَكْفُرُوا تَكْفُرُونَ ﴿۲۱﴾

وَإِن تَدَّوْا تَكْفُرُونَ ﴿۲۱﴾
وَإِن تَدَّوْا تَكْفُرُونَ ﴿۲۱﴾
وَإِن تَدَّوْا تَكْفُرُونَ ﴿۲۱﴾
وَإِن تَدَّوْا تَكْفُرُونَ ﴿۲۱﴾

وَإِن تَدَّوْا تَكْفُرُونَ ﴿۲۱﴾
وَإِن تَدَّوْا تَكْفُرُونَ ﴿۲۱﴾
وَإِن تَدَّوْا تَكْفُرُونَ ﴿۲۱﴾
وَإِن تَدَّوْا تَكْفُرُونَ ﴿۲۱﴾

وَإِن تَدَّوْا تَكْفُرُونَ ﴿۲۱﴾
وَإِن تَدَّوْا تَكْفُرُونَ ﴿۲۱﴾
وَإِن تَدَّوْا تَكْفُرُونَ ﴿۲۱﴾
وَإِن تَدَّوْا تَكْفُرُونَ ﴿۲۱﴾

وَإِن تَدَّوْا تَكْفُرُونَ ﴿۲۱﴾
وَإِن تَدَّوْا تَكْفُرُونَ ﴿۲۱﴾
وَإِن تَدَّوْا تَكْفُرُونَ ﴿۲۱﴾
وَإِن تَدَّوْا تَكْفُرُونَ ﴿۲۱﴾

وَإِن تَدَّوْا تَكْفُرُونَ ﴿۲۱﴾
وَإِن تَدَّوْا تَكْفُرُونَ ﴿۲۱﴾
وَإِن تَدَّوْا تَكْفُرُونَ ﴿۲۱﴾
وَإِن تَدَّوْا تَكْفُرُونَ ﴿۲۱﴾

earth. Only they are the losers.

28. How could you disbelieve in Allah, that when you were lifeless, He gave you life, then will cause you to die, then again will bring you to life, again to Him you will have to return.

29. It is He Who created for you all that is in the earth. Then His design comprehended the sky exact into seven heavens. He has the perfect knowledge of everything.

SECTION 4

30. And (please recall O beloved Muhammad) when your Rubb (Sustainer) said to the Angels, "I am to place My Khalifah (Viceregent) in the earth". They said, "will you appoint such one (Viceregent) who will spread disorder and shed blood into it "but we Glorify Your praise and sanctify You". He replied, "I know what you donot know."

31. And He (Allah) taught Aadam the names (of objects), then presented the same objects to Angels saying, 'tell the names of these to Me. if you are truthful.'

32. They replied, "You are the Holiest. We have no knowledge except what you have taught us. Surely, You are the Knowing, the Wise."

33. He (Allah) said, "O Aadam tell them (all) the names of the objects. When he (Aadam) told them the names, He (Allah) said, "did not I say that I have the knowledge of everything

جس کے جوڑے کا خدا نے حکم دیا اور
زمن میں فساد پھیلاتے ہیں وہی نقصان
میں ہیں (27)

بھلا تم کیونکر خدا کے مکر ہو گے حالانکہ
تم مردہ تھے اس نے تمہیں جلايا (زندہ کیا)
پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلائے (زندہ
کرے) گا پھر اس کی طرف لوٹ کر جاؤ
گے (28)

وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ
زمین میں ہے پھر آسمان کی طرف استوا
(قصہ) فرمایا تو تمک سات آسمان بنائے اور
وہ سب کچھ جانتا ہے (29)

اور یاد کرو جب تمہارے رب نے
فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب
بنانے والا ہوں، بولے! کیا ایسے کو (نائب)
کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور
خون ریزیاں کرے گا؟ اور ہم تجھے سراہتے
ہوئے تمہری تسبیح کرتے اور تمہری پاکی
بولتے ہیں، فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں
جانتے (30)

اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام (اشیاء کے)
نام سکھائے، پھر سب (اشیاء) کو ملاتھک پر
پیش کر کے فرمایا، سچے ہو تو ان کے نام تو
بتاؤ (31)

بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر
جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم
و حکمت والا ہے (32)

فرمایا: اے آدم! بتا دے انہیں سب
(اشیاء کے) نام، جب اس (آدم) نے
انہیں سب کے نام بتا دیئے، فرمایا: میں نہ
کتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور
زمین کی سب چھپی چیزیں اور میں جانتا

اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ وَيُفْسَدُونَ فِي
الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۲۷﴾

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَقْوَامًا
فَاحْيَا كُنْتُمْ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ﴿۲۸﴾

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا ثُمَّ أَسْرَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۹﴾

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي
جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا
أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ
إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ
عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ
أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿۳۱﴾

قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا بِأَلْمَا
عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿۳۲﴾
قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ
فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ
أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَ

hidden in the heaven and the earth and I know what you reveal and what you conceal."

34. And (recall) when We* (Allah) ordered the Angels to prostrate (forehead on earth) before Adam, all of them prostrated, except Iblees. He refused and became too proud and turned-out disbeliever.

35. And We (Allah) said, "O Aadam you and your wife may reside in this Paradise and eat of it anything plentifully, as you like, but both of you should not approach this tree (shajarah-the lineage of mankind) lest you will be among the cruels".

36. The satan (devil) tempted both to slip by means of it (from Paradise) and turned them out of the abode, where they lived. And We (Allah) ordered them to get down as enemies of each other. And for you is a stay on the earth for a time as means of livelihood.

37. Then Aadam learnt some words (of repentance) from his Rubb (Sustainer) and He (Allah) accepted his repentance. Surely He is the most Relenting, the most Merciful.

38. We (Allah) said, "all of you get down from here (Paradise). Then if you receive guidance from Me, whoso will follow My guidance neither they will have any fear nor they will

ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو (33)

اور (یاد کرو) جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا (34)

اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بی بی جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے مگر اس بیڑے کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے (35)

تو شیطان نے اس سے (یعنی جنت سے) انیس لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انیس الگ کر دیا اور ہم نے فرمایا: نیچے اترو! آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرانا اور برتنا ہے (36)

پھر سیکھ لے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی بیگ دہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان (37)

ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ! پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم (38)

مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿۳۳﴾

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿۳۴﴾

وَإِذْ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۳۵﴾

فَإِذ لَهَمَّا الشَّيْطَانُ عَنَّا فَأَخْرَجَهُمَا وَمَا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۳۶﴾

فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۳۷﴾

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۸﴾

*The Arabic words Naa/Nahnoo (We), Aaina/Elaina (Us) or Lana (Our) be taken in first person, singular form in the Holy Qur'aan for Allah. Use of this plural form is just to Glorify Him in the Last Holy Book as is practiced in Arab Culture for respect of highest personages. These terms in plural are only by the Creator for the highest respect to Himself as Almighty Allah as the Most Dignified Being. Arabic language flow has been maintained to describe His Exaltedness into We (Allah), Our (Allah's) and Us (by Allah). He is One and the Only but these terms of plural first person Dignify Him as also used by highest dignitaries of Arab for their own highnesses as rulers. Allah is the King of the kings and the eternal Ruler of the entire universe. So these plural terms are in the same Arabic cultural context for One and the Only Allah as He never tolerates any equals to Him.

have any grief".

39. And those who will disbelieve and will falsify Our (Allah's) Verses they will be the inmates of fire where they will remain for ever.

SECTION 5

40. O children of Israael (Jacob), "remember My blessings which I bestowed upon you and fulfil your promise with Me, I shall fulfil My Promise with you and you fear only from Me."

41. "And believe in what I have revealed which confirms what is already with you and do not be its first disbelievers. And never bargain My Verses for small price and be pious only with Me."

42. "And do not mixup truth with falsehood and do not conceal the reality."

43. "And establish 'Salaat (Muslim Prayer) and pay the Zakaat (compulsory dues for the have nots) and bow down with those who bow."

44. "Do you advise mankind for virtue and forget your own selves, though you recite the Book? Have you no sense"?

45. And seek help from patience and 'Salaat (Muslim Prayer). And surely, it (Prayer) is indeed hard except for the humble ones in spirit;

46. who are certain that they will surely, meet their Rubb (Sustainer) and to Him they are to return."

(ONE FOURTH OF PART 1 COMPLETE)

SECTION 6

47. "O children of Israael (Jacob)! remember My Blessings which I bestowed upon you and gave you preference over the entire

اور وہ جو کفر کریں اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں ان کو بیش اس میں رہنا (39)

اسے یعقوب کی اولاد! یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور میرا حمد پورا کرو میں تمہارا حمد پورا کروں گا اور خاص میرا ہی ڈر رکھو (40)

اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا اس کی تصدیق کرنا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کے بدلے تمہارے دام نہ لو اور مجھی سے ڈرو (41)

اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ (42)

اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو (43)

کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو؟ اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں (44)

اور صبر اور نماز سے مدد چاہو اور بے شک نماز ضرور تمہاری ہے مگر ان پر (نہیں) جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں (45)

جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرتا (46)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
عَاخِرُونَ ﴿٣٩﴾

يٰٓبَنِي إِسْرٰٓءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ
الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوا
بِعَهْدِيْٓ اَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَاِيَّا
يَٰٓقٰرِهٖنَّ ﴿٤٠﴾

وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا
مَعَكُمْ وَلَا تَكْفُرُوْا اُوَّلَٰ كٰفِرِيْهٖ
وَلَا تَشْتَرُوْا بِآيٰتِيْ ثَمٰنًا قَلِيْلًا
وَاِيَّاىَ قَاتِفُوْنَ ﴿٤١﴾

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبٰطِلِ وَتَكْتُمُوا
الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٢﴾

وَارْقِمُوا الصَّلٰوةَ وَاَتُوا زَكٰوةَ
وَاذْكُرُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾
اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ
اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ
اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٤٤﴾

وَاَسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ وَ
اِنَّهَا الْكَيْدِيَّةُ الْاَعْلٰى الشَّيْطٰنِيْنَ ﴿٤٥﴾
الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنْهُمْ مُّقْتَدِرُوْنَ
رَبِّهِمْ وَاَنْهٰهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿٤٦﴾

يٰٓبَنِيْٓ اِسْرٰٓءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ
الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاِنِّيْ
فَضَّلْتُكُمْ عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾

اسے اولاد یعقوب! یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور یہ کہ اس سارے زمانہ پر تمہیں بڑائی دی (47)

universe."

48. And be pious for the day when no person will be the substitute for another person. Neither a recommendation will help (disbeliever) nor any compensation shall replace justice and they shall not be helped.

49. And (recall) when We (Allah) got you rid from Fir'awn's (Pharaoh's) people who tortured you in punishment of slaughtering your sons and keeping your daughters alive. And in this there was a great trial from your Rubb (Sustainer).

50. And (recall) when We (Allah) divided the sea for you (Moses), and saved you and drowned Fir'awn's (Pharaoh's) people while you were looking it.

51. And when We (Allah) kept Moosaa (Moses) in a promise of forty nights, you (Israelites) adopted (to worship) calf, in his absence, and you were the cruels.

52. Even then We (Allah) pardoned you, so that you may be grateful.

53. And when We (Allah) Bestowed Book on Moosaa (Moses) and method of distinction (between right and wrong) so that you may be rightly guided.

54. And when Moosaa (Moses) said to his nation, "O my nation you have committed cruelty to yourselves by adopting (to worship) the calf. Therefore, repent to your Creator, and kill each one. That will be better for you before your Creator. Then He accepted your repentance. Surely He

اور دُور اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی اور نہ (کافر کے لیے) کوئی سفارش مانی جائے اور نہ کچھ لے کر (اس کی) جان چھوڑی جائے اور نہ ان کی مدد ہو (48)

اور (یاد کرو) جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تم پر برا عذاب کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا (آزائش) تھی (یا بڑا انعام) (49)

اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا بھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا (50)

اور جب ہم نے موسیٰ سے چالیس رات کا وعدہ فرمایا: پھر اس کے پیچھے تم نے بھڑکے (گائے کا بچہ) کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے (51)

پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو (52)

اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دیا کہ کہیں تم راہ پر آؤ (53)

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم! تم نے بھڑکنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، پھلک وہی ہے بہت

وَأَقْبُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾

وَأَذِجْنَا لَكُمْ مِنَ الْآلِ فِرْعَوْنَ يَسُؤُمْكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذِكْرِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾

وَأَذِجْنَا لَكُمْ مِنَ الْبَحْرِ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٠﴾

فَلَوْ وَعَدْنَا مَوْسَىٰ الْاِثْنِينَ يَلِكَةً لَّمَّا آخَذْنَا مِنَ الْجِنِّ مَنْ بَعَدَ هَارُونَ أَنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾

لَمَّا عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِمَّنْ بَعْدَ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقْرِبُ لَكُمْ ظَلَمَتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْوَجَلَ فَتَوْبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاتَّقُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ

is the most Relenting, the most Merciful.

55. And when you said, "O Moosaa (Moses) we shall not believe you till we see Allah face to face. Then the thundering encircled you while you were looking.

تو یہ قبول کرنے والا مہربان (54)

اور جب تم نے کہا 'اے موسیٰ! ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک علانیہ کھلم کھلا) خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہیں کڑک (بھلی کی ڈراؤنی آواز) نے آیا اور تم دیکھ رہے تھے (55)

56. Then We (Allah) raised you up alive after your death that you may be grateful.

57. And We (Allah) Bestowed you with the shade of the clouds and sent upon you "munna" and "sulva" (delicious fast food of Paradise). Eat out of the best provisions We (Allah) bestowed you. (But they rebelled). They did not do any cruelty to Us (Allah) but they were cruel to themselves.

58. And when We (Allah) said, "enter into this town, then eat therefrom plentiful what you like and enter the (city) gates prostrating and submit for forgiveness". We (Allah) shall forgive you your faults, and shall enhance the reward of those who are kind.

59. But the cruels changed the words than what was said to them. So We (Allah) sent down upon the cruels a penalty from the sky for their disobedience.

پھر مرے پیچھے (مرنے کے بعد) ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو (56)

اور ہم نے ابر (بادل) کو تمہارا سایا بنا دیا اور تم پر من اور سلویٰ (کھانا) اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی تھری چیزیں اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا! ہاں! اپنی ہی جانوں کا بگاڑ کرتے تھے (57)

اور جب ہم نے فرمایا: اس بستی میں جاؤ پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازہ میں سجدہ کرتے داخل ہو اور کسو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطا میں بخش دیں گے اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں (58)

تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا، بدلا ان کی بے حکمی (نافرمانی) کا (59)

SECTION 7

60. And (recall) when Moosaa (Moses) sought water for his nation, We (Allah) said, "strike your rod on this rock." At once gushed forth twelve springs. Every group recognized its drinking site. Eat and drink of what Allah has provided and do not

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، تو ہم نے فرمایا: اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے بارہ چشمے بہ نکلے، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، کھاؤ اور پیو خدا کا دیا، اور زمین میں نساوا گھاٹے نہ

إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۵۶﴾

وَأَذَقْنَا لِقَوْمِ يَمُوسَىٰ لَنْ تَوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ اللَّهَ جَهَنَّمَ تَاخُذُكَ مِنَ الضُّعْفَةِ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۵۷﴾
ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵۸﴾

وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰ وَالسَّلْوَىٰ كَمَا أَصْنٰ طَيِّبَاتٍ مَّا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمْنَا وَلَا لَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۵۹﴾

وَأَذَقْنَا أَذْحُكُمُ الْبَقْرِيَّةَ فَاكَلُوا مِنْهَا حَيْثُ رَشْتُمْ رَعْدًا وَأَذْحُكُمُ الْبَابِ سَجْدًا أَتَوَلَّوْا حِطَّةً نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنُرِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۶۰﴾

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَرْجًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۶۱﴾

وَأِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَضْرًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا

wander in the earth causing disorder.

61. And then you said, "O Moosaa (Moses) we shall not at all be contented on one food so you pray to your Rubb (Sustainer) that He should bring out for us provisions grown on earth consisting on green vegetables, and cucumbers and wheat and lantils and onions. He (Moses) said, "do you prefer inferior things instead of superior ones." "Alright you enter Misr (town) you will get every thing you demand." And they were left into disgracefulness and misery and they faced displeasure of Allah. This was due to their disbelief in Allah's Verses (revelations) and unjust murders of Umbia (Prophets of Allah - the communicators of Allah - the hidden news). This was for their rebellion and transgression.

SECTION 8

62. Surely the faithfals and the Jews and the Christians and the Sabians, whoso believe in Allah and the Last Day and do pious deeds, their credit is with their Rubb (Sustainer) and they will neither have any fear nor any grief.

63. And then We (Allah) undertook a promise from you (Israaelites) and raised the Toor (mount) over you. Hold firmly whatever We (Allah) Bestow you and remember what is therein, that you may achieve piety.

64. Then after that you detracted. But had Allah's Benevolence and His Mercy

﴿مُؤْمِنِينَ﴾ (60)

﴿فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾

اور جب تم نے کہا اے موسیٰ! ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو گا تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگ اور گلہری اور گیہوں اور مسور اور ہماز، فرمایا: کیا اونٹی چیز جو بخر کے بدلے مانگتے ہو؟ اچھا! مصر یا کسی شہر میں اترو وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور نادراری اور خدا کے غضب میں لوٹنے، یہ بدلا تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو نافرمان شہید کرتے، یہ بدلا تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا (61)

وَلَا تَقْتُلُوا مَن مَّنْ دُونِ
طَعَامٍ ذَا ذِي قُرْبَىٰ
يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُثْمِرُ
بِقُرْبِهِمْ ذِي قُرْبَىٰ
وَلَا تَقْتُلُوا
هُوَ ذُو قُرْبَىٰ
وَصُورًا فَاِنَّ
عَلَيْهِمْ
بِعْضَابٍ
كَانُوا
يَقْتُلُونَ
عَمَّا عَصَوْا

بیک ایمان والے نیز یسویوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ کہ سچے دل سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم (62)

اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا، لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے، اور اس کے مضمون یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے (63)

اِنَّ الدِّينَ اَمْنًا
وَالنَّصْرَىٰ
يَاللّٰهُ
خَوْفٌ
وَاِذْ خَدَّ
فَوَقَّكُمْ
تَتَّقُونَ

لَقَدْ كُنْتُمْ
فَضَّلَ اللّٰهُ

been not with you, you would have been among the losers.

65. And indeed you know it very well that those of you who rebelled on Saturday (Sabbath) We (Allah) ordered them to deform into condemned monkeys.

66. And We (Allah) made this event a precedent for others at their times and for the successors and as an advise for the pious.

67. And when Moosaa (Moses) said to his nation, "Allah Commands you to sacrifice a cow". They said, "Do you befool us". He (Moses) replied, "I take refuge with Allah being among the ignorants".

68. They said, "submit to your Rubb (Sustainer) that He should give us her description". He (Moses) replied, "He (Allah) says it is a cow which is neither so old nor too young. It is in between the two. Do what you have been commanded.

69. They said, "submit to your Rubb (Sustainer) to tell us what is its color". He (Moses) said, "He (Allah) says it is a yellow cow that has a bright color which delights the beholders."

70. They said, "submit to your Rubb (Sustainer) that He should make plain to us what is her exact description? Surely, to us the cows are much all alike. If Allah Wills we shall be on sure guidance."

71. He (Moses) said, "He (Allah) directs it is a cow which is neither used for tilling of the land nor for watering the fields. She is

ٹوٹے والوں (تقصان) میں ہو جائے (64)

اور بیگ ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کے وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر و حمار کے ہوئے (65)

کہ تو ہم نے (اس ہستی کا) یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت (66)

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا: خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، بولے! کہ آپ ہمیں مسخو بناتے ہیں، فرمایا: خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں (67)۔

بولے! اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی؟ کہا، وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے نہ بوڑھی اور نہ اوسر (ن) بھائی گائے) بلکہ ان دونوں کے بیچ میں، تو کہو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے (68)

بولے! اپنے رب سے دعا کیجئے، ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے؟ کہا، وہ فرماتا ہے وہ ایک چلی گائے ہے جس کی رنگت ڈھبالی (ہست شرخ رنگت) دیکھنے والوں کو خوشی دیتی (69)

بولے! اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کر دے، وہ گائے کیسی ہے؟ بیگ گاؤں میں ہم کو شبہہ پڑ گیا، اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے (70)

کہا، وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوڑے (ہل چلاتے) اور نہ کھیتی کو پانی دے، ہے صیب ہے جس میں کوئی داغ

لَكُنْتُمْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝۶۴

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اَعْتَدْنَا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَلَمَّا لَكُمْ كُوْنُوْا قَوْمًا خٰسِرِيْنَ ۝۶۵

فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَنْ اَبٰىنَ يَوْمَئِذٍ وَاَخْلَفْنٰهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝۶۶

وَإِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهِ اِنَّ اِلٰهَكُمْ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقْرَةً قَالُوْا اَتَتَّخِذُهَا هٰزُواً قَالِ اَعُوْذُ بِاِلٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝۶۷

قَالُوْا اذْمُرْ لَنَا زِيٰتًا يَّبِيْنًا لَّنَا هٰى قَالِ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا فَارِصَ وَلَا يَكُوْنُ عَوٰنٌ يَّبِيْنٌ ذٰلِكَ فَافْعَلُوْا مَا تَوْحٰىرُوْنَ ۝۶۸

قَالُوْا اذْمُرْ لَنَا زِيٰتًا يَّبِيْنًا لَّنَا مَا تَوْحٰىهَا قَالِ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهٗا بَقْرَةٌ صَفْرًا فَافْعَلُوْا لَهَا كَسْرًا التَّظْرِيْنَ ۝۶۹

قَالُوْا اذْمُرْ لَنَا زِيٰتًا يَّبِيْنًا لَّنَا مَا هٰى اِنَّ الْبَقْرَةَ شَبِهَ عَلَيْهِمْ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اِلٰهٌ لَّمْ نَكُوْنُ ۝۷۰

قَالِ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا ذُوْلُ تُسَبِّحُ الْاَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرٰثَ مُسَلَّمَةٌ لَا اَشِيْمَةَ فِيْهَا فَذٰلِكَ قَالُوْا

sound without any blemish". They said, "you have now stated the correct position". They then slaughtered her, though they were not willing to do so.

SECTION 9

72. And then you (Moses) committed murder of a person and started to blame for it each other. And Allah wanted to make it clear what you were concealing.

73. So We (Allah) said, "strike the dead with her (cow) piece". Allah will make (all) the dead alive like this and He shows you His Signs that you may understand.

74. Then after that your hearts became very hard like stones, even more hard than that. And there are surely, such stones from which streams gush out. And there are surely, some (stones) which split up and water flows out therefrom. Thus there are surely, some (stone) which become humble for fear of Allah. And Allah is not unaware of what you do.

75. Then (O Muslims) are you desirous that they (Jews) should believe you? Of them there was such a group who listen Allah's message, then after having its grasp, knowingly change it.

76. And when they meet the believers (Muslims) they say we are believers and when they meet each other alone they say, "will you tell them what Allah has revealed to you that they may engage you in argument about it with your Rubb (Sustainer). Donot you understand (their aim)?"

نہیں! بولے! اب آپ تمہیک بات لائے
تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ
ہوتے تھے (71)

اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک
دوسرے پر اس کی قسمت ڈالنے لگے، اور
اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے (72)

تو ہم نے فرمایا: اس معتول کو اس گائے کا
ایک ٹکڑا مارو، اللہ یونہی مردے جلائے
(زندہ کرے) گا، اور تمہیں اپنی نشانیاں
دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو (73)

پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے
تو وہ پتروں کی مثل ہیں، بلکہ ان سے بھی
زیادہ کرسے (سخت) اور پتروں میں تو کچھ
وہ ہیں جن سے نمایاں بہ نکلتی ہیں، اور کچھ
وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، تو ان سے پانی
نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر
سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے
کونکوں (بد اعمالیوں) سے بے خبر نہیں
(74)

تو اے مسلمانوں! کیا تمہیں یہ طبع ہے کہ
یہ (یہودی) تمہارا یقین لائیں گے، اور ان
میں کا تو ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام
سننے، پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ (جان
بوجھ کر) بدل دیتے (75)

اور جب مسلمانوں سے ملیں، تو کہیں ہم
ایمان لائے، اور جب آپس میں آئیے
ہوں تو کہیں، وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا
مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس
سے تمہارے رب کے یہاں تمہیں پ
جبت لائیں، کیا تمہیں عقل نہیں؟ (76)

الَّذِينَ جَاءُوا بِالْحَقِّ قَدْ بَعَثُوا هَا
بَيْنَهُمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾

وَاذْ تَقْتُلُونَ نَفْسًا فَاتَرَاهُمْ فِيهَا
وَاللَّهُ صَبِيرٌ مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ الْكُفُورَ وَيُرِيدُ بِكُمُ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾

كَمْ كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
فِيهِمْ كَالْحِجَارَةِ إِذَا سُقِّتْ سَوَّوْا وَإِنْ
وُنِ أُنْحِرُوا لَمَّا بَيَّنَّجْنَاهُ الْآيَاتِ
وَإِنْ مِنْهَا لَمَّا يَشْفِقُ لِيُخْرِجَ مِنْهُ
النَّارُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَّا يَغْمِطُ مِنْ
حَشِيَّةِ الْمَاءِ وَمَا اللَّهُ بِغَالِبٍ
عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَقَدْ
كَانُوا قُرْبَانًا مِنْهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا كَلِمَةً
اللَّهُ تَعَالَى يُخْتَفُونَ مِنَ الَّذِينَ بَعْدَ مَا
عَقَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

وَإِذْ الْفُلُوكِ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا
وَإِذْ أَخْلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ
قَالُوا إِنَّا تَخَذْنَا لِقَابِ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ لِحَاكِمًا لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾

77. Do not they know that Allah surely Knows what they conceal and what they reveal ?

78. And among them there are such unlettered persons who do not know the Book except self notions and they have suppositions.

(HALF OF PART I COMPLETE)

79. Cursed are those who write the Book with their own hands. Then say that this is from Allah, so as to gain little price in lieu thereof. Curse is for them for their such hand writings and curse is for them for this earning.

80. And they claim, "fire will not touch them except for a few days". Please declare, "have you some undertaking from Allah that Allah will not change such undertaking? Or you say about Allah of which you have no knowledge".

81. Yes, why not, whoso commits sins and his (her) misdeeds encircle him (her) he (she) will be the inhabitant of the fire to live there for ever.

82. And those who believe and do pious deeds they will go to Paradise to remain there for ever.

SECTION 10

83. And when We (Allah) undertook promise from the children of Israel, that worship none except Allah and be kind to parents and relatives and orphans and the needy and speak nicely to the mankind and establish 'Salaat (Muslims Prayers) and pay the Zakaat (compulsory dues

کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں (77)

اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے، مگر زبانی پڑھ لیتا، یا کچھ اپنی من گھڑت اور وہ نرے گمان میں ہیں (78)

تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں، پھر کہہ دیں یہ خدا کے پاس ہے، کہ اس کے عوض تمہوے دام حاصل کریں، تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ان نکلے لیے اس کمائی سے (79)

اور بولے! ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر تمہتی کے دن، تم فرما دو! کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا، یا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں (80)

ہاں! کیوں نہیں جو گناہ کمائے، اور اس کی خطا سے گھبر لے، وہ دونوں والوں میں ہے انہیں ہمیشہ اس میں رہنا (81)

اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا (82)

أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾
وَهُنَّ مُمْتِنُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانٍ وَإِنَّهُمْ لَآيَظُنُونَ ﴿٧٨﴾

فَعِيلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ فَهُمْ كَقَوْلُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَقْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾

بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِحَدِيطَتِهَا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾

وَأَذِّنَا لِلَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ لَا يُعْبَدُونَ وَاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
إِنْسَانًا أَوْ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

for have not). Then you turned away except a few and you are the back sliders.

84. And then We (Allah) undertook a promise from you that you shall not shed the blood of one another among you and will not expel your own ones from your towns. Then you consented so and you were witnesses to it.

85. But, thereafter, it is you who killed one another and expelled a group of your own out of their own country, as you conspired against them in sin and guilt. And when they came to you as prisoners you got them freed by payment of ransom but expelling them out was prohibited for you. Do you obey some parts of the Book and disbelieve others? But what is the award of those among you who do that except disgrace in the life of this world. And on the Day of Resurrection they will be brought to the severest punishment. And Allah is not at all unaware of your deeds.

86. These are the people who bargain worldly life instead of the (lasting life) hereafter. Neither their punishment will be reduced nor they will be helped.

SECTION 11

87. And surely, We (Allah) bestowed Book to Moosaa (Moses) and then appointed Rasools (Messengers of Allah) in sequence and We (Allah) bestowed to Eesa Bin Maryam (Jesus son of Marry) clear evidences and aided him with the Holy Spirit. So when a Rasool (Messenger)

تھوڑے اور تم دو گرواں (پہلے والے) ہو (83)

اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنی کا خون نہ کرنا اور اپنی کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو (84)

پھر یہ جو تم ہو اپنی کو قتل کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالے ہو ان پر مدد دیتے ہو (ان کے حائف کو) گناہ اور زیادتی میں اور اگر وہ قیدی ہو کر 7۔ رہے پاس آئیں تو بدلا دے کر چمڑا لیتے ہو اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے تو کیا خدا کے کچھ سکھوں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے اور اللہ تمہارے کو کھوں (بدامیوں) سے بے خبر نہیں (85)

یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ ان کی مدد کی جائے (86)

اور چیک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک مدح سے اس کی مدد کی تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ (حکم) لے کر آئے جو تمہارے گھر کی خواہش نہیں سمجھ کر آئے ہو تو ان (انبیاء)

كُلَّمَا نَزَّلْنَا آيَةً لَّا يَكْفُرُونَ بِهَا وَلَا يَأْتُونَكُم بِآيَاتٍ مِّنْ دُونِهَا لِيُبَيِّنَ لَكُمْ آيَاتِنَا فَتَحْتَمِلُوا الْعِقَابَ ذَلِكُمْ فَسَادًا لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٨٣﴾

وَمَا يَأْتِيهِمْ إِلَّا جُنُودٌ مِّنْ دُونِهَا يُبَيِّنُونَ لَكُمْ آيَاتِنَا فَتَحْتَمِلُوا الْعِقَابَ ذَلِكُمْ فَسَادًا لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٨٤﴾

كُلَّمَا نَزَّلْنَا آيَةً لَّا يَكْفُرُونَ بِهَا وَلَا يَأْتُونَكُم بِآيَاتٍ مِّنْ دُونِهَا لِيُبَيِّنَ لَكُمْ آيَاتِنَا فَتَحْتَمِلُوا الْعِقَابَ ذَلِكُمْ فَسَادًا لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٨٥﴾

فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكُمْ مِنَّا إِلَّا الْإِذْيُ الَّذِي أَصَابُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُجْزَوْنَ فِي الْحَيَاةِ الْآخِرَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٨٦﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَكْفُرُونَ بِهَا وَلَا يَأْتُونَكُم بِآيَاتٍ مِّنْ دُونِهَا لِيُبَيِّنَ لَكُمْ آيَاتِنَا فَتَحْتَمِلُوا الْعِقَابَ ذَلِكُمْ فَسَادًا لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٨٧﴾

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَضَّلْنَا مِنْ قَبْلِهِ الْيَهُودَ وَالنَّسْرَةَ وَإِنَّا لَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَشَرِ وَإِنَّا لَنُوحٍ نَذِيرٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٨٨﴾

وَمَا يَأْتِيهِمْ إِلَّا جُنُودٌ مِّنْ دُونِهَا يُبَيِّنُونَ لَكُمْ آيَاتِنَا فَتَحْتَمِلُوا الْعِقَابَ ذَلِكُمْ فَسَادًا لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٨٩﴾

brought to you which was not according to your desires, you became boastful and you falsified one group of them (Prophets of Allah) and killed the other group ?

88. And they (Jews) said, "our hearts are wrapped with covers (not to understand). Instead Allah has cursed them due to their disbelief. Little is which they believe.

89. And when the Book (the Holy Qur'aan) was revealed from Allah confirming the one with them (Tourat), and previous to that they prayed for victory over the disbelievers; but when their fully recognized (Last Messenger Muhammad SAW**) came to them they refused to believe him. Allah's curse be on the disbelievers.

90. On what miserable price they sold themselves that they deny to believe the revelation of Allah, merely due to jealousy. Allah may reveal out of His Bounty to any one of His devotees He Wills. Thus they became worthy of wrath upon wrath. And for the disbelievers there is a worst humiliating punishment.

91. And when they are told to believe that it has been revealed from Allah, they say, "we believe in what has been revealed to us". They reject the else, though it is the truth which confirms what is with them (Torah). Please declare, "why you killed the previous Umbia (Prophets of Allah - the communicators of the hidden news) from Allah if you were believers"?

میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو (87)

اور یہودی بولے! ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب، تو ان میں تمہو سے ایمان لاتے ہیں (88)

اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب (قرآن) آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب (تورہ) کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانتے تھے، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا بچانا، اس کے منکر ہو بیٹھے، تو اللہ کی لعنت منکروں پر (89)

کس برے مولوں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدنا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہوں اس کی جہن سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وہی اتارے، تو غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے (90)

اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں، وہ جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور باقی سے منکر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہوا تم فرماؤ: کہ پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا؟ اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا (91)

فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ۝۷۰

وَقَالُوا أَتُؤْتِينَا غُلْفًا بَلْ لَعْنَتُهُمْ
اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا
يُؤْمِنُوْنَ ۝۷۱

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ
يَمْتَقِنُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا بِهٖ
فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَضُوا كَفَرُوا بِهٖ
فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝۷۱

بِسْمَا الشِّرْكَاءِ اَنْفُسَهُمْ اَنْ
يَكْفُرُوا بِهَا اِنَّزَلَ اللَّهُ بَغْيًا اَنْ
يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوْا بِغَضَبٍ
عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ
مُّهِينٌ ۝۷۱

وَاذْ اَقْبَلْ لَهُمْ اِمْرًا يٰۤاٰمَنُوْا اِنَّ
اللَّهَ قَالُوْا اَنْوَمُوْا مِنْ يَمَّا اَنْزَلَ عَلَيْنَا وَ
يَكْفُرُوْنَ بِمَا وَاٰرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ
مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قَدْ فُلِمَ
تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَاءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ
اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝۷۱

**S.A.W. is abbreviation of Arabic homage to Muhammad-duur-Rasool Allah which is Sallallahu Alyhe Wassalliem - Allah's Blessings and Salutations on him. Never say P.B.U.H. as it is a misnomer coined by orientalist as if the Holy Prophet S.A.W. fought with sword all the life and he needs peace in his Mausoleum.

92. And surely Moosaa (Moses) came to you with clear evidence but after that you started to worship the calf and you were the cruel.

93. And (remember) when We (Allah) undertook a promise from you and raised high on your head the mount Toor, saying "hold firmly what We (Allah) bestow you and listen." They said, "we listen but we disobey". And in their hearts was the thirst of the calf due to their disbelief. Please declare, "how your adverse faith takes you to misdeed, if at all you are believers".

94. Please declare, "if the last home (in Paradise) is exclusively for you with your Allah, to the exclusion of mankind, then aspire for death, if you are truthful".

95. And they will never aspire for it because of (the misdeeds) what their hands have sent before. And Allah quite clearly knows the cruels.

96. And definitely you will find them the greediest among mankind to remain alive even more than the pagons (idolators). Each one of them aspires to remain alive for a thousand years, yet this will not save them from the punishment, even after such a long life. And Allah Sees well what they do.

SECTION 12

97. Please declare, "whoso is enemy of Jibreel, then surely it is he who caused to reveal on your heart (this Qur'aan) with the Command of Allah confirming the previous (Books) as a guidance and good news to the believers (slins).

اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں لے کر تشریف لایا، پھر تم نے اس کے بعد چمڑے کو معبود بنایا اور تم ظالم تھے (92)

اور (یاد کرو) جب ہم نے تم سے یہ بیان لیا اور (کہہ) طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا، لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے اور سنو، بولے! ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے دلوں میں چمڑا رچ رہا تھا ان کے کفر کے سبب تم فرما دو: کیا برا حکم دتا ہے تم کو تمہارا ایمان؟ اگر ایمان رکھتے ہو (93)

تم فرماؤ! اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لئے ہو، نہ اوروں کے لئے، تو پچھلا موت کی آرزو تو کرو، اگر سچ ہو (94)

اور ہرگز کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے ان بد اعمالیوں کے سبب جو آگے کر چکے (95)

اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو اور جیک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں اور شرکوں سے ایک کو تمنا ہے کہ کہیں ہزار برس جینے اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی عمر دیا جاتا، اور اللہ ان کے کو تک (اعمال) دیکھ رہا ہے (96)

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ
لَقَدْ أَخَذْنَا مِنَ الْعِجْلِ مِنْ بَعْدِهِ وَ
أَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٢﴾

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا
فَوْقَكُمْ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ
بِقُوَّةٍ وَاسْمِعُوا قَالُوا اسْمِعْنَا وَ
عَصَيْنَا وَإِذْ يَقُولُ اتَّيَبْتُمْ
بِالْعِجْلِ بَلْغَرْتُمْ قُلُوبَكُمْ بِمَنَّا
يَا مَعْزُومِينَ ﴿٩٣﴾ أَلَيْسَ لَكُمْ
عِلْمٌ مِمَّا تَكْفُرُونَ ﴿٩٤﴾

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ
عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِمَّنْ دُونِ النَّاسِ
فَاتَمُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٥﴾

وَلَنْ يَمُنُّوا أَبَدًا إِيْمَانًا قَدَّمَتْ
أَيْدِيهِمْ وَأَنفُسُهُمْ يَوْمَ الظُّلُمَاتِ ﴿٩٦﴾

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى
الْحَيَاةِ وَمِنَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
يَوْمَ أُحُدٍ هُمْ يُوعَدُونَ الْكَافِرِينَ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ
وَنُحِيطُ بِضُرْحِمِهِ مِنَ الْعُكَايِبِ
أَنْ يَعْتَمِرُوا إِلَيْنَا بِوَسِيَّتِهَا
يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ
فَأِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ
مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى
وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾

98. Whoso is the enemy of Allah and His Angels and His Rasools (Messengers) and Jibreel and Meekaeel, Allah is surely, the enemy of such disbelievers.

99. And certainly, We (Allah) revealed to you (Muhammad) clear Verses but only the disobedient ones disbelieve them.

100. And whenever they make some promise their one party casts it aside. Definitely many of them do not believe.

101. And when a Rasool (Messenger of Allah) came to them from Allah confirming what was with them, a group of the people of the Book placed back this Book (Qur'aan) of Allah as if they did not know it".

102. And they followed what was read out by the satans (devils) in the reign of Sulaimaan (Solomon). and Sulaimaan (Solomon) was not (at all) a disbeliever. But the satans (devils) made the people disbelievers teaching them magic and that was decended in the city of Babel (Babylon) on Haroot and Maroot (two Angels). And both of them did not teach anyone anything till they told that they were under going a test, therefore, do not be disbelievers. But only such ones learnt from them who wanted to cause separation between husband and wife, though they cannot harm anyone except as Allah Wills. And they learned which harmed them but earned them no profit. And certainly they knew that whoso traffics such bargain will not gain anything in the

جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا (98)

اور جیسا کہ ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاریں، اور ان کے منکر نہ ہوں مگر فاسق لوگ (99)

اور کیا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں ان میں ایک فریق اسے پھینک دے، بلکہ ان میں بہتروں (زیادہ) کو ایمان نہیں (100)

اور جب ان لے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول، ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا، تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دی، گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے (101)

اور اس کے پیرو (مطیع) ہوئے جو شیطان پرہا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانہ میں، اور سلیمان نے کفر نہ کیا، ہاں! شیطان کافر ہوئے، لوگوں کو جاود سکھاتے ہیں، اور وہ (جاود) جو باہل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اترا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں، تو اپنا ایمان نہ کھو، تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالیں مرد اور اس کی عورت میں، اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا، نفع نہ دے گا، اور جیسا کہ ضرر انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور جیسا کہ بری چیز ہے وہ جس کے

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿۹۸﴾

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿۹۹﴾

أَوْ كَلِمَاتٍ عَاهَدُوا وَعَاهَدُوا أَلْبَدَافَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَّ أَلْزَمَهُمْ لَافِيُوفُونَ ﴿۱۰۰﴾

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَأَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كَتَبَ اللَّهُ وِرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَاتِبَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۱﴾

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمٍ ۖ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمٍ وَلَا لَكِنَّ الشَّيَاطِينُ لَفِي قَوْلِ الْكَاذِبِينَ ﴿۱۰۲﴾

النَّاسِ السَّحَرَاءُ وَمَا نُزِّلَ عَلَىٰ الْمَلَائِكَةِ يَبِأَبِئ هَارُوتَ وَكَارُوتَ وَمَا يَعْلَمَانِ مِن أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْحِهِ ۖ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَعْلَمُونَ مَا يَصِفُونَ ﴿۱۰۳﴾

وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ

hereafter. And definitely small is the price in lieu of which they sold themselves. Had they known it.

103. And had they believed, and became pious, they would have received best reward from Allah. But had they known it.

SECTION 13

104. O believers do not say (to the Prophet Muhammad) "Rainax-" "listen to us (O our shepherd) but submit to him respectfully, "unzuurna" - "Sir give us attention", and listen (to him very carefully). And disbelievers will have a painful punishment".

105. Those who disbelieve, whether people of the Book or the pagans, would not like that you should receive anything good from your Rabb (Sustainer). Allah selects for Bestowment of His Mercy whom He Wills and Allah has the exceeding Bounties.

106. When We (Allah) delete any Verse or cause that to be forgotten, We (Allah) substitute that with some better one or similar to that. Donot you know that Allah surely has the power to do all the things ?

107. Donot you know that surely, t. Allah belongs the sovereignty of heavens and earth. And besides Allah you have neither a patron nor a helper.

108. Would you question your Rasool (Messenger Muhammad), as Moosaa (Moses) was questioned in the past ? And whoso

*The Christian and Jewish Arabs coined "Ra-ee-na" meaning "O our shepherd" for the Holy Prophet Muhammad S A W by wrong pronunciation of "Raina". Therefore, Allah banned even the believers to use correct word Raina to eliminate such disrespect in any age to His most honored Last Rasool S A W. Allah does not tolerate slightest "s" respect to His Last Ideal Prophet Muhammad S A W by anyone, anyway, anywhere, anyhow.

بدلے انہوں نے اپنی جائیں بیچیں، کسی طرح انہیں علم ہوتا (102)

اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیز گاری کرتے، تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے، کسی طرح انہیں علم ہوتا (103)

اے ایمان والو! "رامنا" نہ کہو اور یوں عرض کرو، کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بخور سنا، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے (104)

وہ جو کافر ہیں کتالی یا مشرک، وہ نہیں چاہے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے (105)

جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں، تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے (106)

کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لئے ہے آسمانوں و زمین کی بادشاہی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی، نہ مددگار (107)

کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے دوسرا سوال کرو جو سوئی سے پہلے ہوا تھا، اور جو ایمان کے بدلے کفر لے، وہ ٹھیک

خَلَقُوا كَمَا كُنْتُمْ مَاشِرُوا بِآيَةِ
أَنْفُسِهِمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۲﴾

وَلَوْ كُنْتُمْ آمِنًا وَأَتَقُوا اللَّهَ الْغُثُوبَةَ
فَوَن عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لَّو كَانُوا
يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۳﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا آذِنَا
وَقُولُوا إِنَّا نُنْزِرُهَا وَإِسمعُوا أَوْلِيَاءَ الْكَافِرِينَ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۰۴﴾

مَا يَدْعُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنْزِلَ
عَلَيْكُمْ مِنَ سَمَاءٍ مَاءً وَاللَّهُ
يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۱۰۵﴾

مَا لَسْتُمْ مِنْ آيَاتِهِ الَّذِينَ هَانَتْ
بِحَيْثُومِهَا أَوْ مَثَلِهَا أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۰۶﴾

أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ مِنْ دَرَجَةٍ وَلَا صِغِيرٍ ﴿۱۰۷﴾

أَلَمْ يُرِيدُوا أَنْ تَشَاءُوا رَسُولَكُمْ
كَمَا سَأَلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ

changes his belief to disbelief certainly strays from the right way.

109. Many of the people of the Book desired to turn you away from belief to disbelief due to selfish envy of their own selves after truth became manifest to them. You forgive and overlook till Allah sends Command. Surely Allah is powerful over everything.

(THREE FOURTH OF PART I COMPLETE)

110. And establish 'Salaat (Muslim Prayer) and pay Zakaat (compulsory due to have nots) and whatever good you send for your own selves you will find it with Allah. Surely Allah Sees what you do.

111. And the people of the Book said, "none can enter the Paradise until he is a Jew or a Christian". These are their vain desires. Please declare, "bring its justification if you are truthful".

112. Instead, he who submits himself to Allah, and is kind, he will get his reward from his Rubb (Sustainer). And then such one will never be in grief nor face any fear.

SECTION 14

113. And the Jews say that the Christians have no stand and the Christians say that the Jews have no stand. Yet both study the same Book. In that tone speak those who have no knowledge. Allah will decide on the Day of Resurrection among them about what they differed.

(سیدھا) راستہ ہمک (ہمک) گیا (108)

بہت کتابوں نے کہا! کاش! تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں! اپنے دلوں کی جہن سے! بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے! تو تم چھوڑ دو اور درگزر کر یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے! بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے (109)

اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجی گئے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بیشک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے (110)

اور اہل کتاب بولے! ہرگز جنت میں نہ جانے گا مگر وہ جو یہودی اور نصرانی ہو! یہ ان کی خیال بندیاں ہیں، تم فرماؤ لاؤ! اپنی دلیل! اگر سچے ہو (111)

ہاں! کہیں نہیں! جس نے اپنا منہ جھکا یا اللہ کے لیے اور وہ ٹکرا رہے، تو اس کا نیک اجر و انعام اس کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو! اور نہ کچھ غم (112)

اور یہودی بولے! نصرانی کچھ نہیں! اور نصرانی بولے! یہودی کچھ نہیں! حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کی! تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کرے گا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں (113)

يَتَّبِعِل الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ

صَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ⑩

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ

يَرُدُّوكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ

كُفْرًا أَصْحَابُ قُرْبَىٰ مِنْ أَنفُسِهِمْ

فَوَجَّعُوا قُلُوبَهُمْ لِيُكْفِرُوا بِهِمْ

فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ

بِأَمْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑪

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

وَمَا تَقْدِمُوا أَمْوَالَكُمْ مِّنْ حَبِيبٍ

تَحِبُّوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ⑫

وَقَالُوا لَنْ نَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَلَمْ

كُنْ هَذِهِ أَوْ لَمْ نَكُنْ تِلْكَ أَمْ نَبْتَلُكُمْ

فَلَمَّا تَوَابَّوْهُمَا نَكَّرْنَا كُنْتُمْ

صَادِقِينَ ⑬

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ

مُحْسِنٌ فَلَا أَجْرَ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ ⑭

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ

عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ

الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ

الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا

يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ

يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا

كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ⑮

114. And who is more cruel than those who prohibit the remembrance of Allah from His Mosques and tries to ruin them. But it was not proper for such ones that they should enter these (Mosques) except in fear (of Allah). For them there is disgrace in this world and mighty punishment in the hereafter.

115. To Allah belong the East and the West. To which ever direction you turn your face there is Allah's presence. Surely, Allah is All-Embracing, Knowing.

116. And they (Christians) say, "Allah has begotton a son". But He is Holy. Everything belongs to Him which is in the heavens and the earth. All bow down only to Him.

117. The Originator of heavens and the earth. When He Commands anything to happen, He says to it "BE" and it comes into being.

118. And those who have no knowledge say, "why Allah does not speak direct to us, or He should send us His evidence." The people of the past also said the same thing. Their hearts are alike. Certainly We (Allah) give clear evidences to the nation of the faithfuls.

119. Surely We (Allah) sent you (Muhammad) with the Truth as a communicator of good news and as a Warner and you will not be questioned about the inhabitants of the hell.

120. And the Jews and the Christians will never be pleased with you (O beloved Muhammad) till you follow

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے، ان میں نام خدا لے جانے سے، اور ان کی دیوانی میں کوشش کرے، ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب (114)

اور پورب بچتم (شرق و مغرب) سب اللہ ہی کا ہے تو تم چدمرمت کرو، اور مردیہ اللہ (خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ) ہے، بیک اللہ وسعت والا علم والا ہے (115)

اور بولے! خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی، باکی ہے اسے، بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اس کے حضور گردن ڈالے ہیں (116)

نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا اور جب کسی بات کا حکم فرمائے، تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے (117)

اور جاہل بولے! اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، یا ہمیں کوئی نشانی ملے، ان سے انہوں نے بھی ایسی ہی کسی ان کی سی بات ان کے، ان کے دل ایک سے (جیسے) ہیں، بیک ہم نے نشانیاں کھول دیں یقین والوں کے لیے (118)

بیک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا خوشخبری دیتا اور ڈر سنانا، اور تم سے دونوں والوں کا سوال نہ ہو گا (119)

اور ہرگز تم سے یہود اور نصاریٰ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو، تم فرماؤ! اللہ ہی کی ہدایت

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسُغِي فِي خَرَابِهِمْ أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا لِيُؤْتُوا زَكَاةَ فِي الدُّنْيَا خِزْيًا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيُّمَا كُنتُمُ اللَّهُ فَاَنْتَهُ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ لَّهُ قِيَمٰتٌ ﴿١١٦﴾

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿١١٧﴾

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ نُنزِّلُنَا آيٰةً كُنَّا لَكَ قَالِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مَثَلٌ قَوْلِهِمْ تَشَابَهتْ قُلُوْبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيٰتِ الْعٰلَمِيَّاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُوْنَ ﴿١١٨﴾

اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّا نذِيْرًا وَّلَا تُسْئَلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ ﴿١١٩﴾

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُودُ وَّلَا النَّصٰرَىٰ حَتّٰى تَبٰيَعَهُمْ وَاَلْتَهُمْ قُل

their creed. Please declare, "only Allah's guidance is the real guidance. And if you follow their desires, after you get knowledge from Allah, there will be neither a protector nor a helper".

121. Those whom We (Allah) have Bestowed the Book they recite it as ought to be recited. Only they believe it. And those who disbelieve it only they are the losers.

SECTION 15

122. O the children of Israael (Jacob) recall My blessings which I Bestowed on you and exalted you above all in the universe.

123. And be pious for the day on which there will be no body as substitute for anybody and neither a compensation can save (disbelievers) from justice nor any approach can save nor any help can reach them.

124. And when Ibraaheem (Abraham) was tried by his Rubb (Sustainer) in certain matters, he fulfilled them. He (Allah) said to him, "I am going to appoint you the Imam (top leader) for the mankind". He (Abraham) requested the same for his children. He (Allah) said, "My promise does not reach the cruels".

125. And then We (Allah) made this House (Kaa'ba in Makkah) a centre of peace for the mankind. And made the standing place of Ibraaheem (Abraham) a prayer platform. And We (Allah) stressed both Ibraaheem (Abraham) and Ismael to keep My House quite clean for those who

ہے اور (اے سننے والے کے باشد) اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو (تبعہ) ہوا بعد اس کے کہ تجھے علم آچکا، تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہو گا، اور نہ مددگار (120)

جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے منکر ہوں تو وہی زیاں کار (نقصان پانے والے) ہیں (121)

اے اولاد یعقوب! یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانہ کے سب لوگوں پر تمہیں بڑائی دی (122)

اور دُرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو گی، اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑیں، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے، اور نہ ان کی مدد ہو (123)

اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں، فرمایا: میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کی اور میری اولاد سے، فرمایا! میرا عہد خالوں کو نہیں پہنچتا (124)

اور (یاد کرو) جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مربع اور امن بنایا، اور ابراہیم کے گھرے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنا دیا، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور احکاف والوں اور رکوع

إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِن آتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاوِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٢١﴾

يَذَكِّرْكَ يَتْلُو آيَاتِنَا أَنْتَ أَذْكُرُ وَالْعَمَلُ الَّذِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنْتَ فَضَّلْتَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٢٢﴾

وَأَنْتُمْ أَيُّومًا لَا تَنْجِي نَفْسًا عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا تَقْبَلُ مِنْهَا عَدْلًا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةً وَلَا لَهَا مِنْ بَصِيرَةٍ ﴿١٢٣﴾

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّتْهَا قَالِ إِنَّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَوَسِّنْ لِي ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنْتَهِئُ عَنِ الظُّلْمِينَ ﴿١٢٤﴾

فَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا لِيُؤْمِرْ بِعَمَلِهِمْ وَلَا تُجْعِلْ لَهُم مِّن دِينِ رَبِّكَ إِلَّا مَا ظَهَرَ لَكَ مِنَ الدِّينِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَغَافِلُونَ ﴿١٢٥﴾

perform its Tawaf (circumambulance) and those who stay therein for devotion and for those who bow and prostrate.

126. And when Ibraheem (Abraham) submitted, O my Rubb (Sustainer) make this city a center of peace and provide its such residents different fruits who believe in Allah and the Last Day". He (Allah) said, "I shall also provide little bit to every disbeliever also but then force such one for severe punishment in the fire." And what an evil destination it is.

127. And when Ibraheem (Abraham) was raising the foundations of this House (Kaa'ba) with Ismael they were saying, "O! our Rubb (Sustainer) accept it from us. Surely, you are the All-Hearing, the All-Knowing."

128. "O our Rubb (Sustainer) keep us Muslims with You and keep our coming generations a Muslim Ummah (grand Muslim community) with You and teach us the methods of Your worship and keep us under Your relentfulness. Surely, You are the most Forgiving, the most Merciful".

129. "O our Rubb (Sustainer) send from among them a Rasool (Messenger of Allah Muhammad, S.A.W.**) who should teach them Your Book and wisdom and purify them. You are the most Honorable, the most Wise."

SECTION 16

130. And who can turn away from Ibraheem's (Abraham)

حمود والوں کے لیے (125)

وَالرُّكْمِ الشُّجُوذِ ۝

اور جب عرض کی ابراہیم نے، کہ اے میرے رب! اس شرک و امان والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے، جو ان میں سے اللہ اور بچنے والے پر ایمان لائیں فرمایا: اور جو کافر ہوا، تو ہوا پرستے کو اسے بھی دوں گا، پھر اسے عذاب و دوزخ کی طرف بھجور کر دوں گا اور وہ بہت بری جگہ ہے پختے کی (126)

اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اور اسماعیل، یہ کہتے ہوئے، اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، چیک تو ہی ہے سنتا جاتا (127)

اے رب ہمارے! اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرمائیدار، ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، چیک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان (128)

اے رب ہمارے! اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں عطا کر دے، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے، اور انہیں خوب سنھرا فرما دے، چیک تو ہی ہے غالب حکمت والا (129)

وَاذْكَالِ اِبْرٰهٖمَ رَبِّ اَجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمٰنًا وَاَرِزْقْ اَهْلَهُ مِنَ الشُّمُوذِ مَنْ اٰمَنَ وَنَهْنَمْ يٰاٰلِهٖمَّ وَاَلْيَوْمِ الْاٰخِرِ قَالِ وَمَنْ كَفَرًا مَتَعَةً قَلِيْلًا تَوَّضَعُوْهُ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ وَاَبْسُ الْعٰوِيْذِ

وَاذْكُرْ اِبْرٰهٖمَ الْقَوٰىمَ مَنْ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

رَبَّنَا وَاَجْعَلْنَا مُسْلِمِيْنَ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّهٗ مُسْلِمَةً لَكَ وَاُولٰٓئِكَ سَكَنَّا وَاَكْبَرْنَا عَلَيْكَ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

رَبَّنَا وَاِنْعَمْ فِىْهِمْ حَسْرًا سُوْٓرًا وَنَهْنَمْ يٰسُبْحٰنَ اَعْلٰیهِمْ اَلْبَتَّكَ وَاَعْلٰیهِمْ الْكِتٰبُ وَاَلْحِكْمَةُ وَاِنِّىْ لَمِنْهُمْ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

وَمَنْ يُّزْعَبْ عَنْ قَوْلِ اِبْرٰهٖمَ

اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے

** S.A.W is abbreviation of Arabic homage to Muhammad-duur-Rasool Allah which is Sallallahoo Alaihe Wassallam—Allah's Blessings and Salutations on him. Never say P.B.U.H. as it is a misnomer coined by orientallists as if the Holy Prophet S.A.W fought with sword all the life and he needs peace in his Mausoleum.

religion except the one who befools himself. And certainly We (Allah) have selected him in this world and in the hereafter as he is among the righteous ones.

131. When his Rubb (Sustainer) asked him to submit, he submitted, "I surrender to the Rubb (Sustainer) of the universe."

132. And Ibraheem (Abraham) preached the same to his children and Yaqoob (Jacob) also told his sons that certainly Allah has selected this religion for you and do not die except as Muslims.

133. You were witness when death came to Yaqoob (Jacob) when he said to his sons, "whom you will worship after me"? They said, "we shall worship the only Being Who was worshipped by your forefathers, Ibraheem (Abraham) and Ismael and Ishaq (Isac) as the one worth worship and to Him we submit ourselves as Muslims.

134. This is an Ummah (grand community) of the past. For them is what they earned and for you is what you will earn. And you will not be questioned for their deeds.

135. And (the people of Book) say, "become Jews or Christians you will get guidance". Please declare, "I follow the faith of Ibraheem (Abraham), the straightforward, who was not amongst the pagans (idolators)".

136. Please say, "we believe in Allah and on what was

سوا اس کے جو دل کا احمق ہے اور بیگ ضرور ہم نے دنیا میں اسے جن لیا اور بیگ وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں ہے (130)

بجگہ اس سے اس کے رب نے فرمایا: گردن (اطاعت کر) رکھ عرض کی! میں نے گردن رکھی اس کے لئے جو رب ہے، سارے جہان کا (131)

اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کہ اسے میرے بیٹو! بیگ اللہ نے یہ دین ہمارے لئے جن لیا، تو نہ مرنا مگر مسلمان (132)

بلکہ تم میں کے خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جبکہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا: میرے بعد کس کی پوجا (عبادت) کرو گے؟ بولے! ہم پوچھیں (عبادت کریں) گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آباء ابراہیم و اسمعیل و ائحٰق کا، ایک خدا، اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں (133)

یہ ایک امت ہے کہ گذر چکی، ان کے لئے ہے جو انہوں نے کمایا، اور ہمارے لئے ہے جو تم کمائو، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش (پوچھ) نہ ہوگی (134)

اور کتابی بولے! یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، راہ پاؤ گے، تم فرماؤ! بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے، اور مشرکوں سے نہ تھے (135)

یوں کہو، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری صرف اتنا، اور جو ہمارا گیا

إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۳۰﴾

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْمِعْ قَالَ أَسْمَعُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۳۱﴾

وَوَحَّيْنَا إِلَيْهَا إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبَ لِيَبْقَىٰ إِنْ اللَّهُ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۲﴾

أَفَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَايَكَ وَإِبْرَاهِيمَ وَالْإِسْمَاعِيلَ وَالْإِسْحَاقَ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ لَكُمْ مَوْتٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۳﴾

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُنْزَلُونَ عَلَيْكُم مَّا أَنْتُمْ يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۴﴾

وَقَالُوا لَوْلَا نُوحُوا هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ تَبْتَدُوا قُلُوبَ مَلَائِكَةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳۵﴾

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا

revealed to us and to Ibraheem (Abraham) and Ismael and Ishaq (Isac) and Yaqoob (Jacob) and his children and what was bestowed to Moosaa (Moses) and Eesa (Jesus) and to the other Prophets from their Rubb (Sustainer). We do not make any difference between any of them and to Him we submit ourselves.

137. If they also believe as you believe then they will be surely the guided ones. But if they turn away they will be merely on their own schism (own type of religion). Allah suffices you against them. And He is the All-Hearer and the All-Knower.

138. Our color (of Islamic piety) is from Allah and except Allah whose such color (of Islamic piety) will be the best and we worship Him only.

139. Please declare, "do you dispute with us regarding Allah, though He is our Rubb (Sustainer) and your Rubb (Sustainer) and your deeds will be for us and your deeds will be for you and we are sincere only to Him.

140. Or do you say that Ibraheem (Abraham) and Ismael and Ishaq (Isac) and Yaqoob (Jacob) and his children were Jews And Christians? Please declare, "do you know better than Allah"? And who is more cruel than he who conceals the testimony he has from Allah. And Allah is not Unaware of what you do.

141. They were the Ummah (grand community) who have passed away. They shall have what they did and

ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد پر اور جو عطا کیے گئے موسیٰ و یحییٰ اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہیں (136)

پھر اگر وہ بھی یونسی ایمان لائے جیسا تم لائے، جب تو وہ ہدایت پا گئے اور اگر منہ پھیریں تو وہ نری (بکی) ضد میں ہیں تو اے محبوب! عنقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا اور وہی ہے سزا جاتا (137)

ہم نے اللہ کی ربی (رحمت) لی اور اللہ سے بجز کس کی ربی (رحمت)؟ اور ہم اسی کو پوجتے ہیں (138)

تم فرماؤ! کیا اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی، اور ہماری کئی (عمل) ہمارے ساتھ، اور تمہاری کئی (عمل) تمہارے ساتھ، اور ہم نرے (بچے) اسی کے ہیں (139)

بلکہ تم یوں کہتے ہو! کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کے بیٹے یسوی یا نصرانی تھے، تم فرماؤ! کیا تمہیں علم زیادہ ہے یا اللہ کو؟ اور اس سے بڑھ کر خاتم کون جس کے پاس اللہ کی طرف کی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ اور خدا تمہارے کو کونوں (اعمال) سے بے خبر نہیں (140)

وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیا، ان کے لے ان کی کمالی، اور تمہارے لے تمہاری

وَمَا آتَيْنَاكَ إِلَّا زَهْرًا وَاسْمِعِيلَ
وَاسْمِعِيلَ وَيَعْقُوبَ وَالْإِسْحَاقَ
وَمَا آتَيْنَا مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا آتَيْنَا
الْكَافِرِينَ مِنْ لَدُنْهُمْ إِلَّا نَفْسًا
بَيْنَ أَحَدٍ وَنَهْمًا وَنَحْنُ لَهُ
مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾

فَإِنْ آمَنُوا بِبِئْسَ مَا آمَنْتُمْ
بِهِمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ
تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ
مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ
عِبَادُونَ ﴿١٣٨﴾

قُلْ إِنَّمَا حَسِبُنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا
وَرَبُّكُمْ وَنَا أَعْمَالُنَا وَكُلُّكُمْ
أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ
مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْإِسْحَاقَ
كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ إِنَّمَا
أَعْلَمُهُمْ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ
كُنْتُمْ شُهَدَاءَ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَقُولُونَ ﴿١٤٠﴾

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا
كَسَبَتْ وَكُلُّكُمْ لَآتِكُمْ وَلَا

you shall have what you do. And you shall not be questioned about what were their deeds.

کائی، اور ان کے کاموں کی تم سے پریش (پوچھ) نہ ہوگی (141)

لَا تَسْأَلُونَ عَنْ أَعْمَالِكُمْ لَأَنْتُمْ كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۴۱﴾

PART 2

AL-BAQRAH (Contd.)

SECTION 17

142. The fool among the people said, "what has turned them (the Muslims) from their Qibla (Al-Quudas in Jerusalem) which they followed (in early Muslim Prayers)". (Beloved Prophet) please declare, "east and west belong to Allah. He guides to straight way whom He Wills".

143. And thus We (Allah) made you the justly balanced Ummah (A grand Muslim community) that you become guides for the mankind. And this Rasool (Messenger of Allah — Muhammad S.A.W.) is witness over you. (My beloved Prophet), We (Allah) appointed the Qibla, which you faced to test who follows the Rasool (Messenger of Allah Muhammad — S.A.W.) and who turns away (from the real faith). And surely it is hard except for those who have been guided by Allah, and Allah shall never let your faith go in vain. Surely Allah is the most Kind and Merciful to the mankind.

144. Certainly We (Allah) observed that repeatedly you raised your face towards the heaven. Therefore, We (Allah) allowed you (Muhammad) to turn your face towards that Qibla (grand Muslim center, the Ka'aba in Makkah for direction of Prayers) which you like. You just now turn

اب کہیں گے بیوقوف لوگ، کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پر تھے؟ تم فرما دو: کہ پررب مجھ (شرق و مغرب) سب اللہ ہی کا ہے، مجھے چاہے سیدھی راہ چلانا ہے (142)

سَيَقُولُ السُّفَهَاةُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ مَشِيقٌ وَ الْمَغْرِبِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۴۲﴾

اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں سب امتوں میں افضل کیا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ رسول تمہارے تمہیں د گواہ، اور اے محبوب! تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں، کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے؟ اور بے شک یہ ہماری تمہی نگرانی پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان آلات (ضائع) کرے، بیگ اللہ آدمیوں پر بہت مہربان مہربان (رحم) والا ہے (143)

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَ وَاجِعُنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا أَلَا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ وَ إِنْ كَانَتْ لَكِبْرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّكُمْ إِنَّمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۱۴۳﴾

ہم دیکھ رہے ہیں ہاں بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے، ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانو! تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ حَيْثُ كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي الدِّينِ أَوْ كُنْتُمْ لِيَعْمَلُونَ

your face towards Masjid-ul-Haram (Sacred Mosque around Ka'aba in Makkah). And (O the Muslims) wherever you be you should turn your faces (while Praying) towards it (Ka'aba). And those who had been bestowed the Book surely know that it is (true Command) from their Rubb (Sustainer). And Allah is not at all unaware of their deeds.

145. And if you bring all the signs to those given the Book, (Torah to Jews and Bible to Christians) neither they will follow your Qibla nor you should follow their Qibla. And nor some of them are the followers of the Qibla of others. And if you follow their desires, after you get this knowledge, you will be definitely the cruels.

146. The people whom We (Allah) bestowed the Book recognize it as they recognize their own sons. Yet surely a group of them knowingly conceals the truth.

147. (O Prophet listen) this is truth from your Rubb (Sustainer). Never be amongst those who become doubtful.

SECTION 18

148. And every one has a direction to turn his/her face. So strive to be uppermost in virtues from others. Wherever you may be, Allah will bring you all together. Certainly Allah has the power over everything.

149. And from whichever side you come turn you face towards Masjid-ul-Haram (sacred Mosque). And that indeed is the truth from your

یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ ان کے کوٹھوں (بد اعمالیوں) سے بے خبر نہیں (144)

اور اگر تم ان کتابوں کے پاس ہر نشان لے کر آؤ وہ تمہارے قلب کی بیروی نہ کریں گے اور نہ تم ان کے قلب کی بیروی کرو اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قلب کے تابع نہیں اور (اے سننے والے) اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا بعد اس کے کہ تجھے علم مل چکا تو اس وقت تو ضرور ستم گار ہو گا (145)

جنیس ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا بچاتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے اور بیگ ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں (146)

(اے سننے والے) یہ حق ہے تمہرے رب کی طرف سے (یا حق وہی ہے جو تمہرے رب کی طرف سے ہو) تو خبردار! تو شک نہ کرنا (147)

اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی کی طرف منہ کرنا ہے تو یہ ماہر کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جائیں تم کہیں ہو اللہ تم سب کو اکٹھا لے آئے گا بیگ اللہ جو چاہے کرے (148)

اور جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو اور وہ ضرور تمہارے رب کی

أَلَهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۴۵﴾

وَلَكِنَّ آيَاتِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ كَاتِبَةً وَتَعَوَّذَ بِتِلْكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قَوْلَهُمْ وَلَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قَوْلِ بَعْضٍ وَلَكِنَّ آيَاتِ اللَّهِ هُمْ وَرَبُّنَا كَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۱۴۶﴾

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۴۷﴾

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۱۴۸﴾

وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ مِّنْهُم مَّا تَلْبَسُوا فَاَسْتَبْشِرُوا الْخَيْرَاتِ ؕ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۴۹﴾

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَوَلِّ

Rubb (Sustainer). And Allah is not unaware of what you do.

150. And (O my beloved Prophet Muhammad) from whichever side you come turn your face towards Masjid-ul-Haram (Sacred Mosque in Makkah). And (O Muslims) wherever you are keep your face towards the same that mankind should have no other argument against you, except those of them who are cruel. You should not be afraid of them but fear Me only that I may fulfil My Blessings on you that you may get guidance.

151. Even as We (Allah) sent a Rasool (Messenger) from amongst you that he may recite My Verses to you and he (Muhammad) should purify you and bestow you with the Book and teach you the wisdom and educate you that which you did not know.

152. So you (Muhammad) remember Me, I shall remember you and be thankful to Me and never be ungrateful.

SECTION 19

153. O believers, get assistance from patience and Salaat (Muslim Prayer). Surely Allah is with those who are patiently steadfast.

154. And those who are killed for the cause of Allah do not call them dead. Surely they are alive but you cannot perceive it.

155. And We (Allah) will test you with some fear and hunger and with the loss of goods, lives or the reduction in fruit products. Therefore, give good news to the steadfast.

طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں (149)

اور اے محبوب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو اور اے مسلمانو! تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو کہ لوگوں کو تم پر کوئی جنت نہ رہے مگر جو ان میں ناانسانی کریں تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور یہ اس لئے ہے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور کسی طرح تم ہدایت پاؤ (150)

جیسا ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے، کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے، اور تمہیں پاک کرتا، اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا، اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا (151)

تو میری یاد کرو! میں تمہارا چرچا کروں گا اور میرا حق مانو! اور میری ناشکری نہ کرو! (152)

اے ایمان والو! مبر اور نماز سے مدد چاہو یہ تک اللہ صابروں کے ساتھ ہے (153)

اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں! تمہیں خبر نہیں (154)

اور ضرور! ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنانا مبر والوں کو (155)

إِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَتَمَنَّوْا نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُن تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

وَلَا تَقُولُوا الْبِرَّ يُكْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَهْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾

وَلَنَبِّئُكُمْ بِمَا فِي قُلُوبِ الْفَاسِقِينَ وَالنَّفِيسُ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّهْرَةِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

156. When some misfortune overtakes them, they say, "we surely belong to Allah and we are surely to return to Him".

157. These are the people on whom are bestowed Blessings of their Rubb (Sustainer) and they receive His Mercy and they are the people on perfect guidance.

158. Surely (mounds) Safa and Marwa (near Ka'aba in Makkah) are the landmarks of Allah. Whoso performs Hajj (Muslim pilgrimage) of the House (Ka'aba) or performs its Uumrah (devotional visit) there is no sin if such one also goes around both of these. And whoso voluntarily performs some good deeds Allah is Appreciative, Knowing.

159. Surely those who conceal My revealed clear directions and guidance, after I made the same clear to the mankind in this Book, they are the ones cursed by Allah and cursed by those who have the capability to curse;

160. except those who repent and reform themselves openly declaring this truth. I (Allah) shall accept their repentance and I am surely the most Relenting, the most Merciful.

161. Surely those who disbelieve and die as disbelievers, Allah's curse be on them and that of the Angels and of the entire mankind;

162. who will remain there forever. Neither their penalty will be reduced nor they will be given any respite.

163. And your Allah is the only One Allah to be worshipped. None is worth

کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں، اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا (156)

یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں (157)

بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے، اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے، تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا جزوار ہے (158)

بیکہ وہ جو ہماری آماری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت (159)

مگر وہ جو توبہ کریں اور سناویں اور ظاہر کریں، تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہی ہوں بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان (160)

بیکہ وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی (161)

بیش رہیں گے اس میں، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو، اور نہ انہیں مہلت دی جائے (162)

اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے

الَّذِينَ إِذَا أَصَابْتَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ﴿١٥٦﴾
أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا ضَرَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ ﴿١٥٩﴾

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّا فَاُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾

خُلِدُوا فِيهَا وَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٦٢﴾

وَاللَّهُ يَكْفُرُ عَنْكُمْ وَإِلَّا

worship except Him. He is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 20

164. Surely the creation of heavens and the earth, the change of the day and the night and the sailing of the ships through the oceans for the profit of mankind and what is sent from skies in the shape of rain water for tilling the dead soil and creatures of all kinds scattered on the earth and the turn about of the winds and the flow of the clouds in between heaven and earth, all have been established with His Command and in all of them there are signs (of Allah's sovereignty) for the wise people.

165. And among men are those who select someone else for worship except Allah and love such ones as Allah is loved. And the people who believe have the extreme love with Allah. And how it will be when the cruel people will see that day when Allah's penalty will come before their eyes as surely Allah is All Powerful. And surely Allah is severe in punishment.

166. When those who were followed shall disown their followers and will see the (Allah's) punishment, and all of their links will be cut off.

167. Then those who followed would say, "alas! could we go back (to the world again). We would disown them there as now they have disowned Us". As such Allah will show them their deeds ending in frustration. And they will not be able to come out of the fire.

سوا کوئی معبود نہیں، مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان (163)

بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات دن کا بدلنے آنا اور روشنی کے دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مرہہ زمین کو اس سے جلایا (زندہ کیا) اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلانے اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل کہ آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا پاندھا ہے ان سب میں عقلمندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں (164)

اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں اور کہیں ہو اگر دیکھیں ظالم وہ وقت جب کہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا اس لئے کہ سارا زور خدا کو ہے اور اس لئے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے (165)

جب ہزار ہوں گے پیٹھا اپنے پیروؤں سے اور دیکھیں گے عذاب اور کٹ جائیں گی ان سب کی ڈوریں (166)

اور کہیں گے پیرو (ماننے والے) کاش! ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا (دنیا میں) تو ہم ان سے توبہ دیتے جیسے انہوں نے ہم سے توبہ دی یعنی اللہ انہیں دکھائے گا ان کے کام ان پر حسرتیں ہو کر اور وہ دونوں سے نکلنے والے نہیں (167)

هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿۳۶﴾

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْغُلُوقِ
الَّتِي تَجْرِي فِي الْبِحَارِ مَا يَنْفَعُ
النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ
مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ
وَلَنْ يَرَى الْبُفُوفِ وَالرِّيحِ وَالسَّحَابِ
الْمُسَخَّرِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
لَا يَتَّبِعُونَ لِقَوْمٍ لِقَوْمٍ لِقَوْمٍ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ
اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ
يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَسْرُونَ
الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا
وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿۳۷﴾

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ
اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ
بِهِمُ الرِّبَابُ ﴿۳۸﴾

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا
كُرَّةٌ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا
كَذَلِكَ يُرِيدُهُمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ
حَسْرَتٍ عَلَيْهِمْ وَأَنَّهُمْ يَخِرُّونَ
مِنَ النَّارِ ﴿۳۹﴾

SECTION 21

168. O mankind! eat of whatever is Halal (lawfully clean) and never follow the footprints of Satan (devil). Surely he is your open enemy.

169. He (Satan) surely enjoins upon you to do only the evil and vulgarity and that you should attribute such things to Allah which you do not know.

170. And when they are told to follow what Allah has revealed, they say, "we will follow that on which we found our forefathers," even if their fathers had no sense at all and had no guidance.

171. And the state of the disbelievers is like him who calls someone who cannot hear anything except a shout or a shriek. They are deaf, dumb and blind, so they have no understanding.

172. O believers! eat out of My bestowed pure provisions and be grateful to Allah (for his bounties) if you worship Him only.

173. He has made unlawful on you only the dead (even if lawful animals) and the blood and flesh of swine and the flesh of the animals slaughtered invoking someone else's name, except Allah. But he who eats out of necessity and not due to his desire and does not eat more than the urgency, he has not sinned. Surely Allah is Forgiving, Merciful.

174. The people who conceal the Book revealed by Allah, and accept for it mean price, they fill in their bellies with fire only and Allah will not talk to them on the Day of

اے لوگو! کھاؤ جو کچھ زمین میں طہال پاکیزہ ہے، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، بلکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے (168)

وہ تو جس میں بھی حکم دے گا ہدی اور بے حیالی کا، اور یہ کہ اللہ پر وہ بات جوڑو جس کی حقیقت خبر نہیں (169)

اور جب ان سے کہا جائے اللہ کے آواز پر چلو، تو کہیں، بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں، نہ ہدایت (170)

اور کافروں کی کلمت (مثال) اس کی سی ہے، جو پکارے ایسے کو کہ خالی حج پکار کے سوا کچھ نہ سنے، بہرے، گونگے، اندھے، تو انہیں سمجھ نہیں (171)

اے ایمان والو! کھاؤ ہماری دی ہوئی تمہاری چیزیں، اور اللہ کا احسان مانو، اگر تم اس کو پرستے ہو (172)

اس نے ہی تم پر حرام کئے ہیں مردار، اور خون، اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا، تو جو تا چار ہو، نہ یوں کہ خواہش سے کھائے، اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے، تو اس پر گناہ نہیں، بلکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے (173)

وہ جو چھپاتے ہیں اللہ کی آٹاری کتاب اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لے لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا اٰخْتِرَاتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

اِنَّهَا يٰۤاَمْرٌ كَمِىۤا شِوٓءٍ وَّاَلْفَحْشٰوٓءٍ وَّاِنَّ تَقُوْا لَوْ اَعٰى اَللّٰهُ مَا لَتَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٩﴾

فَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ قَالُوْا اِنْ كُنَّا لَنَجِدُكُمْ عَلٰى اَبۡاۡءِنَاۤءٍ اَوْ اَبۡاۡءِنَاۤءٍ اَوْ لَوۡ كُنَّا اَبۡاۡؤُهُمْ لَا يَتَّبِعُوْنَ شَيْۤآءًا وَّاَلَّا يَمۡتَدُوْنَ ﴿١٧٠﴾

وَمَثَلُ الَّذِيۤنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيۤ يَدۡعُوۡنَ رَبَّآ اَلَّا يَسۡمِعَ لَهُۥ سَمۡعًا وَّلَئِنۡ اُذۡصَبۡتَ عَلَيْهِمۡ مَّۡءٌ مِّنۡ سَمٰٓءٍ لَّا يَقُوْلُوْنَ ﴿١٧١﴾

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۤنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِمَّا رَزَقۡنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنۡ كُنۡتُمْ اِيَّاهُ تَعۡبُدُوْنَ ﴿١٧٢﴾

اِنَّهَا حَرۡمٌ عَلٰىكُمۡ الْمَيۡتَةُ وَاَلۡدَمُّ وَاَلۡحَمُ الْخَوۡنِيۡرِ وَاَلۡاَمۡلُ بِهٖ لِغَيۡرِ اللّٰهِ فَمَنۡ اَضۡطُرَّ بِهٖ فَاِنَّهٗ لَاۤ اِثۡمٌ عَلٰٓىهٖ وَاَلَّاۤ اَعَادُوْا فَلَاۤ اِثۡمَ عَلٰٓىهٖۤ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٧٣﴾

اِنَّ الَّذِيۤنَ يَكۡتُمُوْنَ مَاۤ اَنْزَلْنَا اِلَيْهِمْ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَشۡتَرُوْا بِهٖ ثَمٰنًا قَلِيْلًاۤ اُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِىۤ بٰطۡنِۤ اٰۤءَانِهِمۡۤ اَلۡتَارۡ وَاَلۡنٰجۡۡءُ وَاَلۡحَمۡۡ

resurrection and will not justify them. And for them is grievous punishment.

75. They are the people who accept deviance instead of guidance and punishment instead of forgiveness. To what extent they will endure the fire?

76. This is because Allah revealed the Book with truth and surely the people who differ in the Book are gone far away as worst disputants.

GONE FOURTH OF PART 2 ENDS]

SECTION 22

77. (The real) virtue is not in this that you turn your faces towards the east or the west, but real virtue is of him who has faith in Allah and the Last Day and the Angels and the Book and the Ummah (Allah's Prophets) and spends money, for love for Him, on his relatives and orphans and the needy and the travellers and who ask it and for getting freed the enslaved necks, and establishes Salaat (Muslim Prayer) and pays Zakaat (compulsory due of have); and those who fulfil their promises when they make some agreements and those who show patience in poverty and hardship and at the time of panic (violence). These are the ones who are the truthful and they are the pious.

78. O, you believers! retaliation of blood of the murdered is obligatory upon you, the free for the free, the servant for the servant and a female for a female. If anyone is pardoned by his brother (heir of the murdered), then let it be pursued customarily,

مکا اور نہ انہیں ستمرا کرے، اور ان کے لیے درد ناک عذاب ہے (174)

وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، اور بخشش کے بدلے عذاب، تو کس درجہ انہیں آگ کی سزا (برداشت) ہے؟ (175)

یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ آناری اور بے شک جو لوگ کتاب میں اختلاف ڈالنے لگے، وہ ضرور پرلے سرے کے جھگڑالو ہیں (176)

اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَيُّدِ كَيْفَهُمْ
وَأَلْهَمَهُمْ عَذَابَ آلِيمٍ ﴿٧٥﴾
أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ
بِالْهُدَى وَالْعَذَابُ بِالْمَغْفِرَةِ
فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿٧٦﴾
ذَلِكَ يَأْتِي اللَّهُ تَوَلَّى الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
وَإِنَّ الَّذِينَ اختلفوا فِي الْكِتَابِ
لَمَّا لَفِيَ شِقَاقَ الْعِيدِ ﴿٧٧﴾

کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ہاں! اصل نیکی یہ کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہ گیر اور سالکوں کو، اور گردنیں چھوڑنے میں، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں، اور صبر والے مصیبت اور سختی میں، اور جہاد کے وقت، یہی ہیں جنہوں نے بات جی کی، اور یہی پرہیزگار ہیں (177)

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ
الْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى
الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَ
الْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٧٨﴾

اسے ایمان والو! تم پر فرض ہے کہ جو تین مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، تو جس کے لیے اس کے جانی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی، تو بھلائی سے تقاضا ہو، اور

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكُتُبَ عَلَيْكُمْ
الْقصاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرَامِ الْحَرَامِ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ
فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتِّبِئْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدْءِ
إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ

and the restitution (compensation) be made with kindness. This is concession from your Rubb (Sustainer) and His Mercy. Then after this whoso commits excess will meet the grievous punishment.

179. And for you in the retaliation of blood there is life, O people of insight, so that you may become pious.

180. It is obligatory on you that when death approaches anyone of you, and you leave some property, you should make some will for your parents and near relatives according to existing customs. This is compulsory for the pious.

181. Whoso changes it (the will) after hearing it, the sin thereof shall be for him who changes it. Surely Allah Hears and Knows.

182. But who fears that a testator has committed certain partiality or wrong, and then such one makes reconciliation between them, there is no sin on him/her. Surely Allah is Forgiving, Merciful.

SECTION 23

183. O believers! fasting has been made compulsory for you as it was compulsory for those before you so that you may become pious.

184. (Fasting is) for numbered days but whoso may be sick among you or is on a journey, shall fast for similar number on other days. And those who have no strength they should, in lieu thereof, feed the needy (for that period). Whoso gives more voluntarily, then that is better for such one. And if

اس کے لیے درود ناک عذاب ہے (178)

اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے 'اے احمقوں کو! تم کس بچ (179)

تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے، اگر کچھ مال چھوڑے، تو وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے موافق دستور یہ واجب ہے پر ہیزاروں پر (180)

تو جو وصیت کو سن سنا کر بدل دے، اس کا گناہ انہی بدلے والوں پر ہے، بے شک اللہ سنتا جاتا ہے (181)

پھر نیسے اندیشہ ہوا کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا، تو اس نے ان میں صلح کرادی، اس پر کچھ گناہ نہیں، بیگ اللہ بخشنے والا مہربان ہے (182)

اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے انہوں پر فرض ہوئے تھے کہ کس کس تمہیں پر ہیزاروں ملے (183)

گنتی کے دن ہیں، تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو، تو اتنے روزے اور دنوں میں اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو، وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہلا ہے

مَنْ رَكِبَهُ وَسَمِعَهُ فَمَنْ
اَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
الْبِئْسَ ۝

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا اُولِي
الْاَبْصَارِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدُكُمْ
الْمَوْتُ اَنْ تَرَكَ خَيْرَ الْوَصِيَّةِ
لِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ
حَقًّا عَلٰى الْمُسْتَوْيْنَ ۝

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ سَمْعِهَا فَسَبِيْحًا
اِنَّهُ عَلَى الَّذِيْنَ يَبْدِلُوْنَ كُرْهًا
اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَّرْضٍ اَوْ
سَفَرٍ فَاَقْلَمَ بَيْنَهُمْ فَلَائِمٌ عَلَيْهِ
۝ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ
الصِّيَامُ مِثْلَ مَا كُتِبَ عَلٰى الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةٌ فَلَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مَّرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ
اٰخَرَ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيقُوْنَهُ
فِدْيَةٌ طَعَامُ سَكِيْنٍ فَمَنْ
تَطَوَّعَ خَيْرًا فَبِهِ خَيْرٌ لَّكَ وَاَنْ
تَصُوْمُوا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ

you fast, it is better for you, if you know.

185. Ramadhan is the month in which Qura'an was sent down as a guide for mankind with clear signs of guidance and discrimination (between right and wrong). Therefore, whoso among you gets this month (at home) should keep the fasts compulsorily in it. But whoso is sick or is on a journey then such one should keep same number of fasts on other days. Allah wants ease for you and desires for you no hardship and that you may complete the number of days fixed and you glorify Allah that He guided you to make you grateful.

186. (O beloved Muhammad) when My devotees ask you about Me, I am very near to them. I answer their call when they submit to Me. Then they should obey My Command and should believe in Me so that they may get the correct direction.

187. You have been allowed to go to your wives in the nights of fasting. They are your dressings and you are their dressings. Allah knows that you have been betraying yourselves: He has accepted your repentance and pardons you. Now go to them and seek what Allah has prescribed for you and eat and drink until the white thread becomes clear to you from the black thread of the dawn. Then complete the fast up to the fall of night (sun set). Do not touch your wives, while you are in the mosques in devotion

اگر تم جانو (184)

رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے، ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو، تو اتنے روزے اور دنوں میں، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لئے کہ تم گنتی پوری کرو، اور اللہ کی بڑائی بولو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، اور کیس تم حق گزار ہو (185)

اور اے محبوب! جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں، تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں، پکارنے والے کی جب مجھے پکارے، تو انہیں چاہئے میرا حکم مانیں، اور مجھ پر ایمان لائیں، کہ کیس راہ پائیں (186)

روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس، اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، اور تمہیں معاف فرمایا، تو اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو، اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سپیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو، اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، جب تم

تَعْلَمُونَ ۞

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْهُ أَوْ آخَرٌ يُرِيدُ اللّٰهَ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَبَيِّنْ لِّهِمْ قَرِيبٌ أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا فَلَيْسَتْ جَبِيبًا نِي ۚ لِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۞

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الْوَيْسَاءِ أَوْ الرِّفْتِ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَّاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَّاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاطِلٌ مِّنْهُنَّ وَأَبْتَوْهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكَلُوا وَأَسْرَبُوا هِيَ يَبْسُكُن لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَبُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ وَلَا يُبَاطِلُوهُنَّ

(Aitakaf—remaining last ten days of fasting month for 24 hours in seclusion in the mosques for devotion to Allah). These are the limits of Allah. Do not come near them (do not violate them). Allah thus makes His Verses clear to the mankind so that they may become pious.

188. And do not eat up the properties of each other by falsehood in between yourselves and do not use the same to allure the authorities so that you may knowingly eat up some portion of such properties of the mankind sinfully.

SECTION 24

189. They question you regarding (appearance of) the new moon. Please declare, these (moon) are but symbols of the mankind and for periods of Hajj. (Muslim pilgrimage to Makkah). And it is not virtuous that you enter your houses from their backs but virtue is in piety that you enter your houses from the proper doors remaining pious to Allah which will give you prosperity."

190. And fight in the way of Allah with those who fight with you and do not transgress the limits. Allah surely does not like the transgressors.

191. And slay wherever you find them (the transgressors) and drive them away as they drove you. And disorder is worst than murder. And do not fight near the Masjid-ul-Haram (Sacred Mosque) around Ka'aba in (Makkah) unless they first fight with you there. And if they kill

مہدوں میں احکام سے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے پاس نہ جاؤ، اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی امتیں کہ کسیں انہیں پرہیزگاری لے (187)

اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ ماکوں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو جان بوجھ کر (188)

تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں، تم فرما دو، وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے، اور یہ کچھ بھلائی نہیں کہ گھروں میں بیچیت (بیچے سے) تو ذکر آؤ، ہاں! بھلائی تو پرہیزگاری ہے، اور گھروں میں دروازوں سے آؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ فلاح پاؤ (189)

اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، اللہ پسند نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو (190)

اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو! اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر تم سے لڑیں، تو انہیں قتل کرو، کافروں

فَاتَكُمُ عِلْقُونَ فِي الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا
وَالَّذِينَ يَبِئْتَنَ اللَّهُ إِلَيْهِمُ لِلنَّاسِ
أَعْلَاهُمْ يَتَّقُونَ ۝

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
بِتَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ مِنَ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْهَدْيِ قُلْ هِيَ
مَوَاقِبُ لِلنَّاسِ وَالْحِجَّةِ وَلَيْسَ
الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ
ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنَ اتَّقَى
وَأَتَى الْبُيُوتَ مِنْ أِبْوَابِهَا وَأَقْبَلُوا
إِلَى اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْخَحُونَ ۝

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ
يَقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝

وَأَقْتُلُوا هُمُ حَيْثُ نَفَعْتُمْهُمْ
وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجَكُمْ
وَالْوَقْتَنَ أَشَدَّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا
تَقْرَبُوا هُمْ مَدَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
حَتَّى يَقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ

you then kill them. This is the penalty of such disbelievers.

192. But if they desist then surely Allah is Forgiving, Merciful.

193. And fight with them until there is no more any disorder and there prevails obedience to the religion of Allah. But if they desist there should be no hostility except against the cruels.

194. The sacred month is in exchange for the sacred month and for the forbidden acts there is retaliation. One who does violence against you attach him in the like methods as he did against you. And fear Allah and know that Allah is with those who are pious.

195. And spend for the cause of Allah and do not get ruined by your own hands. Surely Allah loves those who are kind.

196. And perform the Hajj (compulsory Muslim Pilgrimage) and Uumrah (voluntary visit of Ka'aba in Makkah) for the sake of Allah. If you are besieged to do so then send your sacrifice offering as is available easily. And do not shave your heads until your offering (animal) reaches the destination. Then whosoever among you is sick or has some ailment in the head (to get shaved) such one, in compensation, either should fast or pay alms or offer sacrifice. But when you are in peaceful condition, if anyone of you wishes to take opportunity to combine the Uumrah with the Hajj (Pilgrimage) he/she must make a sacrifice (of animal)

کی جی سزا ہے (191)

پھر اگر وہ باز رہیں، تو بیکل اللہ بخشنے والا مہربان ہے (192)

اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے، اور ایک اللہ کی پوجا (عبادت) ہو، پھر اگر وہ باز آئیں، تو زیادتی نہیں مگر ظالموں پر (193)

ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام، اور اوب کے بدلے اوب ہے، جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے (194)

اور اللہ کی راہ میں خرچ کو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں (195)

اور حج اور عمرہ اللہ کے لئے پورا کرو، پھر اگر تم روکے جاؤ تو قرآنی بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قرآنی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے، پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو بدلہ دے روزے یا خیرات یا قرآنی، پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے، اس پر قرآنی ہے جیسی میسر آئے، پھر جسے مقدور نہ ہو تو تین روزے حج کے دنوں میں رکھے، اور سات جب اپنے گھر پلٹ کر جائے، یہ پورے دس ہونے، یہ علم اس کے لئے جو کہ کارہے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے

فَاتَتَلُوهُمُكَذَلِكَ جَزَاءُ

الْكُفْرِيْنَ ۝۱۹۱

فَإِنْ أَنْتَهُوَ إِنْ أَللَّهُ عَفُوٌّ

رَحِيْمٌ ۝۱۹۲

وَقِتْلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُوْنَ

فِتْنَةً وَيَكُوْنَ الذِّينَ لِلَّهِ فَإِنْ

أَنْتَهُوَ أَفْلَاحٌ وَإِنْ إِلَّا عَلَى

الظَّالِمِيْنَ ۝۱۹۳

الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَ

الْحَرَامِ قِصَاصٌ فَمَنْ عَتَدَى

عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا

أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَ

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۝۱۹۴

وَالْفُقْرَانِ سَبِيْلَ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا

بِحَدِّكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَصْنَوْا

إِنْ أَللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝۱۹۵

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ

أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ

الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ

مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ

فَعِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٌ

أَوْ نُسُكٌ فَإِذَا أَأْمَنْتُمْ فَمَنْ مَتَمَّهُ

بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ

مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا

رَجَعْتُمْ بَلَكَ عَشْرَةَ كَأَمَلَةِ ذَلِكَ

which he can afford. But if one cannot afford it he (she) should keep three days' fast during the Hajj and seven days' fasts on return (to home). These are ten days (fasts) in all. This is for him whose family does not reside near the Sacred Mosque (in Makkah). And be pious with Allah and beware that Allah is strict in punishment.

SECTION 25

197. (Season of) Hajj (Muslim Pilgrimage) is well known in the fixed months and who so compulsorily undertakes to perform Hajj in these (months) let there neither be foul talk or obscenity nor any wickedness and nor any dual during the Hajj period and whatever the good you do is known to Allah. And take full provisions with you for the journey, but the best of such provisions is your piety. So be pious with Me O! you who perceive.

198. It is no crime for you if you seek the bountiness of your Rubb (Sustainer). Then when you return back from (the grounds of) Arafat remember Allah near the sacred monument (Mashar-ul-Haram) and praise Allah as He guided you when you were on the wrong before.

199. Then you return back from the place from where mankind returns and seek forgiveness of Allah as Allah is Forgiving, Merciful.

200. Then on the completion of all the rites (of Hajj) remember Allah as you celebrate praises of your forefathers, rather do so with stronger remembrance than

رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے (196)

حج کے کنی میں سے جانے ہوئے تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو نہ کوئی گناہ نہ کسی سے جھڑاج کے وقت تک ہو تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے اور توش (سز کا خرچ) ساتھ لو کہ سب سے بہتر توش پرہیزگاری ہے اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والا! (197)

تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو تو جب عرفات سے پلڑے تو اللہ کی یاد کرو مشر حرام کے پاس اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی اور بیٹک اس سے پہلے تم تکے ہوئے تھے (198)

پھر بات یہ ہے کہ (اے قریشیو) تم بھی وہیں سے پلڑے جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگو بیٹک اللہ بخشنے والا مہربان ہے (199)

پھر حج اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے بلکہ ان سے زیادہ اور کوئی

لَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاجِرًا
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَأَتَقُوا اللَّهَ
فَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ
وَسَزَوْا وَأَقْرَبُوا خَيْرَ الذَّرَائِدِ
التَّقْوَى وَالْعَمَلُ بِمَا فِي الْأَنْبَاءِ

الْحَجُّ أَشْهَرُ مَعْلُومَاتٍ فَمَنْ
فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْثَ وَلَا
فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا
تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ
وَسَزَوْا وَأَقْرَبُوا خَيْرَ الذَّرَائِدِ
التَّقْوَى وَالْعَمَلُ بِمَا فِي الْأَنْبَاءِ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا
فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَبِينَ
الضَّالِّينَ

ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ
النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

فَإِذَا أَفَضْتُمْ فَمَا سَلِّمُوا فَاذْكُرُوا
اللَّهَ لِكُلِّ لِرَبِّكُمْ أَيْ أَلَّكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا

that. And of mankind there are some who say, "O our Rubb (Sustainer) confer on us (Your Bounties) in this world but they will have no share in the hereafter.

[HALF OF PART 2 ENDS]

201. And of them there are some who say O our Rubb (Sustainer) confer on us the best in this world and the best hereafter and defend us from the punishment of the fire.

202. Such ones will be conferred what they have earned. And Allah is swift in accounting.

203. And remember Allah during the numbered days (three days, after 9th Zilhajj being the day of Hajj). Whoso hastens (to complete) it within two days and departs, there is no sin in it. But who stays behind he is not doing any sin rather he is a pious one. And be pious with Allah and understand that you have surely to return to Him.

204. And there is one amongst the mankind who only speaks about this worldly life to please you but keep Allah witness to what is in your heart as that person is the most disputant.

205. And when he turns back, he runs about for spreading disorder in the earth and destroys the crops and the human generations and Allah dislikes such disorder.

206. And when he is told to be pious with Allah he exceeds in his arrogance to commit more crimes. For such people hell is enough. It definitely is a bad abode.

آوی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے!
ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا
کچھ حصہ نہیں (200)

اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے رب
ہمارے! ہمیں دنیا میں بھلائی دے، اور
ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں
عذاب دوزخ سے بچا (201)

ایسوں کو ان کی کمائی سے بھگ (حصہ)
ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے
(202)

اور اللہ کی یاد کرو گئے ہوئے دنوں میں تو
جو جلدی کر کے دو دن میں چلا جائے، اس
پر کچھ گناہ نہیں، اور جو رہ جائے تو اس پر
گناہ نہیں پرہیزگار کے لئے، اور اللہ سے
ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تمہیں اسی
کی طرف اٹھانا ہے (203)

اور بعض آدمی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں
اس کی بات تجھے بھلی لگے، اور اپنے دل
کی بات پر اللہ کو گواہ لائے، اور وہ سب
سے بڑھ کر جھگڑالو ہے (204)

اور جب پیٹھ پھیرے تو زمین میں فساد ڈالتا
پھرے، اور کھیتی اور اسے جانیں تباہ
کرتے، اور اللہ فساد سے راضی نہیں
(205)

اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے
ڈرو! تو اسے اور ضد چڑھے گناہ کی ایسے
کو دوزخ کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا
بھوتا ہے (206)

فَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا
آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَنَا فِي الْآخِرَةِ
مِنْ خَلْقٍ ۝

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي
الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا
وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا
إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا
إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّهُمُّ إِلَيْهِ
يُحْشَرُونَ ۝

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُحِبُّكَ قَوْلَهُ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهُ
عَلَىٰ نَافِثِ قَلْبِهِ وَهُوَ الَّذِي الْخَصَامُ ۝

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ
لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ
وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْفُسَادَ ۝

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ
الْعُرَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ
لَبِئْسَ الْمَبَادِئُ ۝

207. And of the mankind is he (she) who devotes life to the pleasure of Allah. And Allah is Compassionate to His devotees.

208. O believers! enter into Islam as a whole and never follow the footsteps of the satan (devil). Surely he is your open enemy.

209. And if you backout after you have received clear command then understand that Allah is Honorable, Wise.

210. Do they await only that Allah will come to them in the shape of canopies of clouds with Angels descending but their fate (of punishing them) would have been settled. And all the matters return back to Allah.

SECTION 26

211. Ask the children of Israel how many clear signs We (Allah) sent to them. And whoso changes Allah's Bounty, after it comes, then surely Allah is severe in punishment.

212. To the disbelievers this worldly life is attractive and they cut jokes of the believers (Muslims). But on the Day of Resurrection the pious will be placed high above them. Allah bestows in abundance without measuring whom He Wills.

213. The mankind was one Ummah (Grand community). Then Allah sent His Umbia (Prophets) as bearers of good news and warners along with revealing to them a truthful Book that it should decide amongst the mankind where they differ. And none differed (in the Book) except those on whom

اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے اور اللہ بندوں پر مہربان ہے (207)

اے ایمان والو! اسلام میں پورے داخل ہو، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بیشک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے (208)

اور اگر اس کے بعد بھی بیچ لو (اعراض کرو) کہ تمہارے پاس روشن حکم آچکے، تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے (209)

کا بے کے انتظار میں ہیں، مگر یہی کہ اللہ کا عذاب آئے چماتے ہوئے بادلوں میں، اور فرشتے اتریں، اور کام ہو چکے اور سب کاموں کی رجوع اللہ کی طرف ہے (210)

بنی اسرائیل سے پوچھو! ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دیں، اور جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نعمت کو بدل دے، تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے (211)

کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی آراستہ کی گئی، اور مسلمانوں سے ہنستے ہیں، اور ڈروالے ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، اور خدا جسے چاہے، بے گنتی دے (212)

لوگ ایک دین پر تھے، پھر اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دینے اور ڈر سنانے، اور ان کے ساتھ ہی کتاب اتاری، کہ وہ لوگوں میں ان کے اختلافوں کا فیصلہ کر دے، اور کتاب میں اختلاف انہیں نے والا جن کو دی گئی تھی، بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن حکم آچکے، آپس کی سرکشی سے، تو

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِي نَفْسَهُ
بِئْتِمَانٍ مَّرْضَابٍ اَللّٰهُ وَاَللّٰهُ
رَءُوْفٌ بِالْعِوَابِ ﴿۲۰۷﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ
كَآلَةً وَلَا تَكُونُوا مِثْلَ
اَلَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ اَلْأَعْمٰىءُ
اَللّٰهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۲۰۸﴾

فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ بِكُمْ
اَلْبَيِّنَاتُ فَاَعْلَمُوا اَنَّ اَللّٰهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۰۹﴾

هَلْ يَنْظُرُونَ اَلْاَنۡ اَنۡ يَّاتِيَهُمُ
اَللّٰهُ فِي ظُلُمٍ مِّنَ الْعَمٰىءِ
وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَاقْضٰى
اَلْاَمْرَ وَاِلَى اَللّٰهِ تَرْجِعُ
كُلُّ اَلْاُمُوْرِ ﴿۲۱۰﴾

سَلِّ بَنِيۤ اِسْرٰٓءِٖلَ كَمَا اَنۡبَاۡنَهُمْ
مِّنۡ اٰیٰتِنَا بَيِّنٰتٍ وَمَنۡ يُّبَدِّلْ
نِعْمَةَ اَللّٰهِ مِنۡ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ
فَاِنَّ اَللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۲۱۱﴾

رَبِّۤىۡنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَلْحَيٰوةَ
الدُّنْيٰٓءِ وَيَسْكُرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ اَنۡقَرٰٓءُوْا قُلُوْبُهُمْ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاَللّٰهُ يَرۡسُۡقُ
مَنۡ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۲۱۲﴾

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً
فَبَعَثَ اَللّٰهُ النَّبِيَّيۡنَ مُبَشِّرِيۡنَ
وَمُنۡذِرِيۡنَ وَاَنۡزَلَ مَعَهُمُ
اَلْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِحُكُمِ النَّاسِ
فِيۡمَا اَخْتَلَفُوْا فِيۡهِ وَمَا اَخْتَلَفَ فِيۡهِ

it was bestowed, even after the clear signs were given to them (not to do so) but (they did so) due to their mutual differences. Then Allah, by His Grace, guided the believers to the truth concerning which they differed. And Allah guides to the straight path whom He Will.

214. Are you in the impression that you will enter the Paradise without such (trial) as was faced by those who have passed away before you. They faced severe sufferings and tough distress with shaking earthquakes that even the Rasool (Allah's Messenger) and those who believed along with him cried out, "when comes the help of Allah". Yea, surely the help of Allah is always nearer.

215. They ask you what they should spend (in charity). Please declare, "whichever the good and wealth you spend should be for your parents and near relatives and the orphans and the needy and the way farers. And whatever the good you do Allah surely knows it very well.

216. Fighting (in the way of Allah) is made obligatory for you, though you dislike it. This may be so that you dislike a thing but actually it may be good for you. And may be that you love something but it may be evil for you. And Allah knows better but you do not know.

SECTION 27

217. They ask (beloved Prophet Muhammad — S.A.W.) regarding warfare in the prohibited month.

اللہ نے ایمان والوں کو وہ حق بات سوجھادی (سمجھا) جس میں جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے، اور اللہ جسے چاہے سیدمی راہ دکھائے (213)

کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، اور ابھی تم پر انگوں کی سی روادند آئی، پہنچی انہیں سختی اور شدت، اور ہلا ہلا والے گئے یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول، اور اس کے ساتھ کے ایمان والے، کہ آئے گی اللہ کی مدد؟ سن لو! بچک اللہ کی مدد قریب ہے (214)

تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ تم فرماؤ! جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو، تو وہ مال باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہ گیر کے لیے ہے، اور جو بھلائی کرو، بے شک اللہ اسے جانتا ہے (215)

تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا، اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے، اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے، اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے (216)

تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم، تم فرماؤ! اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا، اور اس پر ایمان نہ

إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ أَحْسَنِ بَدَائِهِ وَاللَّهُ يَقْدِرُ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صَوَابٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۲۱۴﴾

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمِبِينَ وَاللَّهُ وَالرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ الْإِنَّا نَصُرُ اللَّهَ قَرِيبٌ ﴿۲۱۵﴾

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ وَالَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَالرِّبَاطِ وَالسَّبِيلِ وَمَا أَنْفَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۲۱۶﴾

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ سُوءٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۲۱۷﴾

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ

Please declare, "it is a gravest offence to fight therein". But to prevent somebody from the path of Allah and disbelieve in Him and in sanctity of Masjid-ul-Haram (Sacred Mosque) and driving out its residents is still the gravest offence before Allah. And their such mischief is more grievous than killing. They will continue fighting with you till they force you to renounce your religion, if they can. And if any of you renounce the religion (of Allah) and dies as disbeliever then his (her) efforts will go in vain in this life and the hereafter. Such one is the dweller of fire to remain therein forever.

218. Surely those who believe and leave their homes and fight in the way of Allah they have the hope to receive Allah's benevolence. Allah is Forgiving, Merciful.

219. They question you regarding wine and gambling. Please declare, "in both of these there are the greatest sins". Though they have some profits for mankind; but "their sins are greatest than their profits." They ask you (Muhammad) how much they should spend? Please declare, "whatever is left (from your needs). By this Allah makes clear to you His verses (on the matter), that you may ponder";

220. (about the bad effects of wine and gambling) in this life as well as in the hereafter. And they question you concerning the orphans. Please declare, "improve their lot to the best". And if you mix with them then they are

لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے لئے والوں کو نکال دینا، اللہ کے نزدیک یہ گناہ اس سے بھی بڑے ہیں، اور ان کا نفاق سے سخت تر ہے، اور بیشک تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اگر میں پڑے، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے، پھر کافر ہو کر مرے، تو ان لوگوں کا کیا اکارت (نقصان) گیا، دنیا اور آخرت میں اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں بیشک رہنا (217)

وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھریا پھوڑے، اور اللہ کی راہ میں لڑے، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے (218)

تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو! ان کہ دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے کچھ دنیوی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے، اور تم سے پوچھتے ہیں، کیا خرچ کریں؟ تم فرماؤ! جو فاضل بچے، اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے، کہ کہیں تم دنیا اور آخرت کے کام سوچ کر کرو (219)

اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ! ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر اپنا ان کا خرچ ملتا، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور خدا خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو، سونارنے والے سے، اور اللہ جانتا تو

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَتُفْرِبُ وَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْحَرَامِ عَلَيْهِ
مِنْهُ أَنْ يَرْعَى اللَّهُ وَالْفِتْنَةَ
الْكَبِيرُونَ الْقَتْلُ وَلَا يَزِيدُ الْوَنُ
يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ
دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ
يُرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَبِمَتَّ
وَهُوَ كَاذِبٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۱۸﴾

إِنَّ الدِّينَ أَمْنٌ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا
وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ
يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۱۹﴾

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ
قُلْ فِيهِمَا لَكُمْ كِبِيرٌ وَمَنَافِعٌ
لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا آكِبَرُونَ
لَفَوْهُمَا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
يُنْفِقُونَ، قُلْ الْعَفْوَ، كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۲۰﴾

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ
عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ
خَيْرٌ وَأَنْ لَا يَاطُوهُمْ فَاعْرِضْ لَهُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ وَن

your brothers. And Allah better knows who indulges in mischief and who thinks of their betterment. Had Allah so desired he would have put you into hardships. Surely Allah is Honorable, Wise.

221. And do not marry 'mushrik' (idol associator) women till they believe (embrace Islam). A slave woman, who is believer (Muslim), is far better than a 'mushrik' (idol associator) woman, even if she attracts you. And never marry (your girls) to 'mushrik' (idol associator) till they become believers (Muslims). And surely a believer (Muslim) male slave is better than a 'mushrik' (idol associator) even if he (she) attracts you. They invite you to the fire but Allah invites you to the Paradise and forgiveness with His Command. He makes His verses clear to mankind so that they may up-keep (His) remembrance.

SECTION 28

222. And they ask you regarding menstruation (monthly course of women). Please declare, "it is an illness". So keep away from your wives at such time and do not approach them (for sex) until they are clean. When they become purified you may approach them in a good manner as Allah has Commanded you. Surely Allah loves those who repent and those who purify themselves.

223. Your wives are fields for you. Approach your fields at your will (when clean) and send forward for yourselves good deeds. And be pious

تمہیں شفقت میں والا، بیک اللہ
زبردست حکمت والا ہے (222)

اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو
جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، اور بیگ
مسلمان لونڈی، مشرک سے اچھی ہے اگرچہ
وہ تمہیں بھاتی (دل پسند) ہو، اور مشرکوں
کے نکاح میں نہ دو، جب تک وہ ایمان نہ
لائیں، اور بے شک مسلمان غلام، مشرک
سے اچھا ہے اگرچہ وہ تمہیں بھاتا (دل
پسند) ہو، وہ دونوں کی طرف بلا تے ہیں۔
اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلا تے ہے
اپنے حکم سے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے
لئے بیان کرتا ہے، کہ کہیں وہ نصیحت
مائیں (221)

الْمُضْلِحِ وَالْوَسَاءِ اللَّهُ
لَاَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿۲۱﴾

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّى
يُؤْمِنَ وَلَا أَمَةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا وَاعِجِبَتْكُمْ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَلَوْ أَحَبَبْتُمْ وَأُولَئِكَ يَدْعُونَ
إِلَى النَّارِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَدْعُوا إِلَىٰ الْإِبْرَةِ
وَالْمَغْفِرَةِ يَا دُونَ ذُنُوبِهِمْ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۲۲﴾

اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم، تم
فرماؤ! وہ ناپاک ہے، تو عورتوں سے الگ
رو حیض کے دنوں، اور ان سے نزدیکی نہ
کرو جب تک پاک نہ ہو لیں، پھر جب
پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، جہاں
سے تمہیں اللہ نے حکم دی، بیگ اللہ
پسند رکھتا ہے، بہت توبہ کرنے والوں کو،
اور پسند رکھتا ہے تمہوں کو (222)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمُهَيِّضِ قُلْ
هُوَ آذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
الْمُهَيِّضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى
يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُطَهِّرِينَ ﴿۲۲﴾

تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں
تو آؤ، اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو، اور
اپنے بھلے کام پیلے کرو، اور اللہ سے

نِسَاءَكُمْ حَرِّثَ لَكُمْ مِثْلَهُنَّ
حَرْثَكُمْ أَلَيْسَتْهُنَّ وَقَدْ مَوَّأ
لِلنَّفْسِمْ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

with Allah and know it clear that you have to meet Him. (O beloved Prophet) give happy news to those who obey.

224. And do not use Allah's Name for your oaths for not doing good or acting piously for making peace between mankind. Allah is Hearing and Knowing.

225. Allah does not take you to task what you have unknowingly committed vain in your oaths, but, He will take account of the intentions of your hearts. Allah is Forgiving, Forbearing.

226. Those who swear not to go to their wives should wait for four months. Then after that if they revert, Allah is surely Forgiving, Merciful.

227. And if they decide firmly to divorce (wives) then surely Allah Hears and Knows (everything).

228. And divorced women should wait for three months period (equal to three courses). It is not lawful that they should conceal what Allah has created in their wombs, if they have faith in Allah and the Last Day. And their husbands have the right to take them back in that period, if they (wives) wish such reconciliation. And the woman shall have similar rights of equity as is due from them (to husbands). But men have a degree upon them. And Allah is Honorable, Wise.

SECTION 29

229. A divorce can be twice only. After that either retain her (the wife) in good fellowship or release her with kindness. And you

دوستے رہو، اور جان رکھو کہ ہمیں اس سے ملنا ہے، اور اے محبوب! بشارت دو ایمان والوں کو (223)

اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کرو، اور اللہ سنتا جاتا ہے (224)

اللہ ہمیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں! اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دلوں نے کئے، اور اللہ بخشنے والا علم والا ہے (225)

اور وہ جو قسم کھا بیٹھے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، انہیں چار مہینے کی سہلت ہے، پس اگر اس مدت میں پھر آئے، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے (226)

اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لیا، تو اللہ سنتا جاتا ہے (227)

اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں تین حیض تک، اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے، اگر ملاپ چاہیں اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے (228)

أَنْتُمْ مُلَقَوَةٌ وَكَبِيرِ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۲۳﴾

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلِّتُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۲۴﴾

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۲۵﴾

لَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَوْهُمْ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُدٍ فَأَنْفَوهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۲۶﴾
وَلَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۲۷﴾

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعَثْتَهُنَّ فِي دُجُلٍ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِنْ ذَلِكَ الَّذِي عَلِيَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۲۸﴾

یہ طلاق دوبار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لیتا ہے یا نکولی (چھائی) کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور ہمیں دوا (جان)

الطَّلَاقِ مَرَّتَيْنِ فَإِذَا سَكَتَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَرَ بِهِنَّ يَلْحَسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمِيمَاتِ أَيْمَانِهِنَّ شَيْئًا

(husbands) are not authorised to get back the gifts given to them. But if you fear that both of you cannot observe the limits of Allah then there will be no sin if they (ex-wives) give something of freedom. Allah has fixed these limits so do not transgress them. And whoso transgresses the limits of Allah such one will be the cruel.

230. When she is divorced finally for the third time then keeping her will not be lawful to him (husband) afterwards till she marries another person as husband (as Halala—lawful method). Then if that second one (other husband) divorces her then there is no sin if they (ex-husband and ex-wife) again re-unite provided they feel that they can obey the limits of Allah. Such are the limits of Allah which He makes clear to the people who have the knowledge.

231. And when you divorce your wives and their periods (of Iddat—appointed period) are completed then till the completion (of equal to the four months' courses) you may retain them in the honoured way or release them with kindness but never detain them for torcher that you may not commit excess. And whoso does commit this, he commits a wrong-against himself. And do not cut joke of the verses of Allah. And remember Allah so much that He confers you His kindness. And the Book and wisdom He has revealed to you is to warn you (to guidance). And be pious with Allah and know

نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں تمہیک انہی حدوں پر نہ رہیں گے، تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو بدلا دے کر عورت چھٹی لے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے، تو وہی لوگ ظالم ہیں (229)

پھر اگر تیسری طلاق اسے دی، تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہو گی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے، پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے دے؟ تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں، اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدیں نبائیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، جنہیں بیان کرتا ہے دانشمندانوں کے لئے (230)

إِلَّا أَنْ يُخَافَاَ الْاَلَيْقِيْمَا حُدُودَ اللّٰهِ
فَإِنْ خِفْتُمْ الْاَلَيْقِيْمَا حُدُودَ اللّٰهِ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِ تِلْكَ حُدُودَ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الظّٰلِمُونَ ﴿٢٣٠﴾

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدِ
حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ
طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيْمَا
حُدُودَ اللّٰهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللّٰهِ يَبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣١﴾

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا
تَمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِلتَّعْتُدِ ۚ وَهِيَ
الَّتِي كُنْتُمْ تُعْتَدُونَ ۚ وَمَنْ يُفْعَلْ
ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللّٰهِ
هُزُوًا ۚ وَأُوَادُّوهُنَّ حَتَّىٰ يَمُوتَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ
وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَ
الْحِكْمَةِ ۚ يَعِظُكُمْ فِيهَا وَلَقَدْ أُنزِلَتْ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی
بیعت آگے، تو اس وقت تک یا بھلائی کے
ساتھ روک لو، یا نکلی (اچھالی) کے ساتھ
چھوڑ دو، اور انہیں ضرر دینے کے لئے
روکنا نہ ہو، کہ حد سے بڑھو، اور جو ایسا
کرتے، وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اللہ
کی آیتوں کو ٹھٹھا (مزاح) نہ بنا لو، اور یاد
کہو اللہ کا احسان جو تم پر ہے، اور وہ جو
تم پر کتاب اور حکمت اتاری تمہیں
صیحت دینے کو، اور اللہ سے ڈرتے رہو،

234. And those among you who die leaving wives their widows should wait by themselves for a period of four months and ten days. But when they complete their waiting term then there is no offence for what they (widows) choose for themselves according to prescribed way. And Allah is aware of what you do.

235. And there is no offence that you indirectly propose to such women for marriage in an open way or cherish so in your hearts. Allah knows that you cherish them. But make no secret pledge except to always speak to them in the prescribed way and do not undertake wedding with them until their waiting term reaches to its end. And know that Allah has full knowledge of what is in your selves, so fear Him and understand that Allah is Forgiving, Forbearing.

SECTION 31

236. There is no offence for you to divorce your wives while you did not touch them or fix for them any dower. And the wealthy should give them some provisions for use according to their resources and the poor should do so according to their resources. A prescribed provision is compulsory for the well doers. 237. And if you divorce them (wives) without touching them but you have fixed for them a dower, then what you fixed, you should pay half of it as obligation, except that the (wives) forgo something or that one should forgo in whose hand is the marriage tie. O men if you

اور تم میں جو مریں اور بیویاں چھوڑیں وہ چار مہینے دس دن اپنے آپ کو روکے رہیں، تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے، تو اے والیو! تم پر مواخذہ نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملہ میں موافق شرع کریں، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے (234)

اور تم پر گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پیام دو، یا اپنے دل میں چھپا رکھو، اللہ جانتا ہے کہ اب تم ان کی یاد کرو گے، ہاں! ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو، مگر یہ کہ اتنی بات کہو جو شرع میں معروف ہے، اور نکاح کی گہرہ بچی نہ کر۔ جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ لے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے، تو اس سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان والا ہے (235)

تم پر کچھ مطالبہ نہیں تم عورتوں کو طلاق دو، جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی مہر مقرر کر لیا ہو، اور ان کو کچھ برستے کو دو، مقدور والے پر اس کے لائق، اور تنگ دست پر اس کے لائق حسب دستور کچھ برستے کی چیز، یہ واجب ہے بھلائی والوں پر (236)

اور اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی، اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا مہر تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں، یا وہ زیادہ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گہرہ ہے، اور اسے مرد! تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری سے نزدیک تر

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنكُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
أُولَٰئِكَ يَلْفِظُونَ أَنفُسَهُمْ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَمَاذَا
بَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَزَّيْتُمْ
بِهِ مِنْ حُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ كُنْتُمْ
فِي أَنفُسِكُمْ عَلَيْهِمُ اللَّهُ أَنْتُمْ
سَتَدُّرُوهُنَّ وَلَا حَسْرَةَ لَكُمْ
تَوَاعَدْتُمْهُنَّ سِرًّا أَلَا أَنْ تَقُولُوا
قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرَضُوا عَقْدَةَ
النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ
فَأَحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ

حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾
لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ
مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً، وَمَتَّعْتُمُوهُنَّ عَلَىٰ الْهُجُومِ
قَدْرَهُ وَعَلَىٰ الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ، مِمَّا
بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
فَرِيضَةً، فَرِيضَةً مَّا فَرَضْتُمْ
إِلَّا أَنْ يَعْفُوَنَّ أَوْ يُعْفُوا بِذِي
يَبَدِّهِ عَقْدَةَ النِّكَاحِ وَإِنْ تَعَفَّوْا

forgo that is nearer to piety. And never forget to deal with each other with gracefulness. Surely Allah observes your deeds.

238. Be regular in all your Salaats (Muslim Prayers) specially the mid-day Salaat (Prayer) and stand submissively before Allah.

239. And if you are fearful from enemy then do so (establish Prayer) on foot or while riding. Then when you are secure remember Allah in the way He has taught you (that which you did not know).

240. And those among you, who die and leave behind wives, should make a will for their wives for payments of maintenance allowance for one year without expelling them out. Then if they (wives) themselves leave, you are not at fault for what they do not knowingly for themselves in a prescribed way. And Allah is Honorable, Wise.

241. And for the divorced women there shall be proper maintenance in the prescribed way. It is obligatory for the pious persons.

242. Allah makes clear His Verses to you that you may understand.

SECTION 32

243. (O My beloved Prophet Muhammad) did not you observe those who came out of their residences in thousands for fear of death. Then Allah Commanded them to die. Then He brought them to life. Surely Allah is Bountiful to the mankind. But most of the people are ungrateful.

ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو، بیشک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے (237)

تکساہی کو سب نمازوں کی اور سچ کی نماز کی اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے (238)

پھر اگر خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار مجھے بن پڑے، پھر جب اطمینان سے ہو تو اللہ کی یاد کو جیسا اس نے سکھایا، جو تم نہ جانتے تھے (239)

اور جو تم میں مرے اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں، سال بھر تک نان و نفقہ دینے کی بے نکالے، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس کا مواخذہ نہیں، جو انہوں نے اپنے معاملہ میں مناسب طور پر کیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے (240)

اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان و نفقہ ہے، یہ واجب ہے پر بیزارگوں پر (241)

اللہ یوسی بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں کہ کہیں تمہیں سمجھ ہو (242)

أَقْرَبَ لِلشَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ
بَيْنَكُمْ إِنْ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿٢٣٨﴾

حُفُوظُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ
الْوَسْطَىٰ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَنِينًا ﴿٢٣٩﴾

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا
فَلَا أَمْنٌ لَّكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا
عَلَّمَكُمْ خَالَهُمْ لِكُونُوا قَائِلِينَ ﴿٢٤٠﴾

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ
وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً
لِّأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ
غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي
أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤١﴾

وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤٢﴾

كَذَلِكَ يبينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٣﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ
دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلْوَفَّ حَذَرَ
الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا
ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ
عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرِ النَّاسِ
لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٤﴾

245. Who is the one who lends to Allah an interest free loan (to help the needy) good so that He may increase it many times. Allah will make it abundant and manifold and to Him you will have to return.

246. (O My beloved Prophet) did not you see a group of the chiefs of the children of Israael after Moosaa (Moses). They spoke to one of their Nabi (Prophet of Allah—the Communicater of hidden news), "Appoint for us a king that we may fight for the cause of Allah." He (Prophet) said, "May be that if the fighting is made compulsory for you, you will not fight?" They said, "What has happened to us that we should not fight for the cause of Allah whereas we have been expelled out from our homeland alongwith our children". But when fighting (to defend faith) was made obligatory for them they turned away, except a few of them. And Allah knows well the cruels.

247. And their Nabi (Prophet of Allah) said to them that surely Allah has made Taloot (Saul) as your sovereign. They said, "How he can be our sovereign when we have more right than him to be the sovereign, and he also has not been given ample wealth". He (Taloot) said "Surely Allah has selected him over them and has given him increased knowledge and good body. Allah confers sovereignty to whom He Pleases. Allah is Bountiful, Knowing.

اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سنا جاتا ہے (244)

ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے، تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بیجا دے، اور اللہ سخی اور کشائش (خزانی) کرتا ہے، اور ہمیں اسی کی طرف پھر جانا (245)

اے محبوب! کیا تم نے نہ دیکھا نبی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوا؟ جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے، ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں، نبی نے فرمایا: کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے؟ تو پھر نہ کرو، بولے! ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہم نکلے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے، تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، منہ پھیر گئے، مگر ان میں سے تھوڑے اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو (246)

وَقَالُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ سَهِيْبٌ عَلَيْهِمْ ۝
مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا فَيضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ
وَالَّذِي تَرْجَعُونَ ۝

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ لَمَّا كَانُوا
بَيْنَ يَدَيْ نَبِيِّ رَبِّكَ فَأَلَوْا
النَّبِيَّ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا
النَّبِيُّ لَهُمْ يَأْتِي الْفِتْنَةَ
وَكُنَّا لَهُمْ مَكْرَهُينَ ۝ قَالُوا
سَبِّحْ لِلَّهِ مَا هَلْ عَسَيْتُمْ
إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ
أَلَّا تَقَاتِلُوا قَالُوا وَوَاللَّهِ
أَلَّا نَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا
وَأَبْنَاؤُنَا كَانُوا يُكْتَبُ عَلَيْهِمُ
الْقِتَالُ تَوَلَّوْا الْأَقْلِيَّةَ مِنْهُمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِيْنَ ۝

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ
لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى
يَكُونُ لَهُ الْمَلِكَةُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ
أَحَقُّ بِالْمَلِكِ مِنْهُ وَهُوَ يَوْتُ
سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَدَّهُ بِمَطْطِ
فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي
مُلْكَةً مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ ۝

اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا: بیکہ اللہ نے طالوت کو ہمارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے، بولے! اسے ہم پر بادشاہی کیسے ہو گی، اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی، فرمایا: اسے اللہ نے تم پر چن لیا، اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے (247)

248. And their Nabi (Prophet of Allah) said to them, "the sign of his sovereignty is that you will get a heart providing tranquility from your Rubb (Sustainer) and the good legacy left by the family of Moosaa (Moses) and family of Haroon (Aaron) which the Angels will bring raising high. Surely, there are signs of Allah if you believe.

SECTION 33

249. When Taloot (Saul) left the city along with his armies he said, "surely, Allah will put you to test at the stream and whoso will drink its water will cease to be my follower and those who will not taste it will be my follower, except those who will sip a little by hand. Yet they drank except a few. When he crossed it he and those who believed with him said that they cannot cope with Jaloot (Goliath) and his forces. But those who were convinced that they are to meet Allah said, "how often a small force destroyed a big force with the Will of Allah". Allah is with those who are steadfast.

250. And when they advanced to face Jaloot (Goliath) and his forces, they prayed, "O our Rubb (Sustainer) make us steadfast, keep our steps firm, triumph us against the nation of disbelievers.

251. By Allah's Will, they routed them and Daoud (David) killed Jaloot (Goliath) and Allah conferred on him (David) the sovereignty and the wisdom and taught him (David) what He Willed. And

اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا: اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا یمن ہے، اور کچھ نبی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بیشک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے، اگر ایمان رکھتے ہو (248)

پھر جب حالات لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا، بولا! بیشک اللہ ہمیں ایک نسر سے آزمانے والا ہے، تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیئے وہ میرا ہے، مکروہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے تو سب نے اس سے یا مکروہوں نے، پھر جب حالات اور اس کے ساتھ کے مسلمان نسر کے پار گئے، بولے! ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کی بولے! وہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا کہ بارہا (کی بار) کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر، اللہ کے حکم سے، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے (249)

پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، عرض کی! اے رب ہمارے! ہم پر صبر انزل اور ہمارے پاؤں جے رکھ، کافر لوگوں پر ہماری مدد کر (250)

تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اور اسے جو چاہا سکھایا، اور اگر اللہ

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهَا الْمَلَائِكَةُ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ بَلِيٍّ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

فَلَمَّا نَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِنَيْبِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا بِالْيَوْمِ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا اللَّهَ كَذِبًا إِنَّمَا هِيَ إِفْكَةٌ فَبَدَّلَ اللَّهُ قَلِيلًا وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِمْ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٠﴾

فَبَدَّلَ اللَّهُ قَلِيلًا وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

did not Allah repell one set of mankind by means of another? Otherwise the earth would have been full of disorder. But Allah is full of Bounty to all the universe.

252. These are the Verses of Allah which (O beloved Prophet) We (Allah) recite to you with full truth. Surely you are one of our Muursals (Messengers of Allah).

لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے، تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے (251)

یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم اسے محبوب! تم پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں، اور تم بے شک رسولوں میں ہو (252)

دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ أَفْسَدَتِ الْأَرْضُ وَ لَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾

PART-3

S. AL-BAQRAH (Contd.)

SECTION 33 (Contd.)

253. Of these Rasools (Messengers) We (Allah) excelled some to the others. Allah had conversation with one of them while others were excelled in degrees of honor above others. And We (Allah) gave Eesa Ibne Maryam (Jesus Son of Mary) as clear proof (of Allah's sovereignty) and strengthened him with the Holy Spirit. And if Allah Willed, those who came after him would have not fought with each other, after they had received clear proofs. But they differed. Some of them became believers and the others became disbelievers. And if Allah Willed they would not have fought with each other. But Allah does what He Wills.

SECTION 34

254. O believers spend in the way of Allah out of the provisions We (Allah) have bestowed you before the appointed day reaches when there will be neither any bargaining (give or take) nor any friendship for the disbelievers and nor any recommendation And the

یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی، اور اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکیں، لیکن وہ مختلف ہو گئے، ان میں کوئی ایمان پر رہا اور کوئی کافر ہو گیا، اور اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہے کرے (253)

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَأَنْتَنَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الْبَتُّونَ وَأَيُّدُ اللَّهِ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾

اے ایمان والو! اللہ کی راہ میں ہمارے دینے میں سے خرچ کرو، وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے، نہ کافر، اہل کے لیے دوستی اور نہ شفاعت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ الَّذِي بَدَّلْنَا بَدَلًا بَاطِلًا لِيُنْفِقُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ لَا رِبَاحَ لَهُمْ فِيهِ وَلَا خَلَّةٌ وَلَا سَفَافَةٌ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ

disbelievers themselves are the cruel.

255. Allah, there is no one to be worship except Him. He is Self-subsisting, Eternal. He never slumbers nor sleeps. To him belongs whatever is in the heavens and in the earth. There is none who can make any recommendation to Him without His permission. He knows what has happened and what is to happen. And none can comprehend anything from His knowledge except His Will. His authority encircles all the heavens and the earth. And He Feels no strain for guarding them. He is the Highest and the Greatest.

256. There is no compulsion in the religion. Surely the path of virtue has been quite separated from wrongness. Then who rejects the satan (devil) and believes in Allah he holds the firm handle which never can break. Allah is Hearing, Knowing.

257. Allah is the protector of the believers (Muslims). He brings them out from darkness to light. And the disbelievers are the friends of devils (evil forces) who take them from light to darkness. They are the people of the hell where they are to reside forever.

SECTION 35

258. (O beloved Rasool Muhammad) did not you see the person who quarrelled with Ibraahcem (Abraham) about his Rubb (Sustainer) because Allah gave him the Kingdom. When Ibraahcem (Abraham) said my Rubb (Sustainer) is the one who

اور کافر خود ہی عالم ہیں (254)

اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور دروں کا قائم رکھے والا اسے نہ اونگھ آئے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، وہ کون ہے؟ جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے، اس کی کرسی میں سائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے بھاری نہیں ان کی تمگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا (255)

کچھ زبردستی نہیں، دین میں بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی سے، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے بڑی محکم گرہ تھامی جسے کبھی کھٹا نہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے (256)

اللہ والی ہے مسلمانوں کا، انہیں اندھیریوں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور کافروں کے حمایتی شیطان ہیں وہ انہیں نور سے اندھیریوں کی طرف نکالتے ہیں، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا (257)

اسے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو، ابراہیم سے جھگڑا، اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا، کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے، یوں!

هُم الظَّالِمُونَ ﴿۳۵﴾

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿۳۵﴾

لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَلَا الْوَجْدُ وَلَا يُحِيطُ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿۳۵﴾

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاهُمُ الظُّلُمَاتُ يُعْرِضُونَ عَنْهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۵﴾

الَّذِي قَالَ لِيَبْرَأْهُمُ رَبِّيَ الَّذِي يُعْرِضُ الْفَرَسَ إِلَى الدِّمِيِّ حَاطِرَ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي عَرَّاهُ إِذْ وَضَعَهُ يَدَافِعُ لَهُ اللَّهُ وَالْمَلَكُ إِذْ قَالَ لِيَبْرَأْهُمُ رَبِّيَ الَّذِي يُعْرِضُ

gives life and causes death", that person (cruel king Namrud) said to Ibraaheem, "I also give life and cause death".

Ibraheem (Abraham), said, "well, surely Allah causes the sun to rise from the east, you cause it to rise from the west. Thereupon he was confused and in arrogance rejected (Abraham's) faith. Allah does not guide the cruel nation.

259. Or (it is like him (Prophet Uzair) who passed by a desolate town which was ruined by up tops down. He said, "how Allah will give life to it after its such ruination."

Then Allah kept him dead for one hundred years and then gave him life. He (Allah) asked, "how long you stayed here"? He (Prophet Uzair) said, "I stayed here a full day or a part of it". He (Allah) told him no, you stayed for a hundred years. You look at your food and drinks. These are not rotted as yet. And look at your donkey also." We (Allah) make you a symbol for the mankind. And look at these bones. How We (Allah) set them together? Then cover them with flesh. So when it was made clear to him he said, "I know very well that Allah is powerful over all the things.

260. And when Ibraaheem (Abraham) submitted, "O my Rubb (Sustainer) show me how you will give life to the dead"? He said, "do not you believe so"? He submitted, "why not. I just want to give my heart full assurance (of this truth)." He (Allah) said, "well take four birds and tame them to get attached to

میں جلاتا (زندہ کرنا) اور مارتا ہوں' ابراہیم نے فرمایا: تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب (شرق) سے تو اس کو پیچھے (مغرب) سے لے آ، تو ہوش اڑ گئے کافر کے' اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو (258)

یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ دُھمی (سہارا پڑی تھی اپنی چھتوں پر' بولا! اسے کیونکر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد' تو اللہ نے اسے مرہ رکھا' سو برس' پھر زندہ کر دیا' فرمایا: تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کی' دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم' فرمایا: نہیں' تجھے سو برس گزر گئے' اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بو نہ لایا' اور اپنے گدھے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں' اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں' اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیونکر ہم انہیں اٹھان دیتے' پھر انہیں گوشت پساتے ہیں' جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا' بولا' میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے (259)

اور جب عرض کی ابراہیم نے' اے رب میرے! مجھے دکھا دے تو کیونکر مرہے جلائے (زندہ کریگا) فرمایا: کیا تجھے یقین نہیں' عرض کی یقین کیوں نہیں' مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو آجائے' فرمایا: تو اچھا! چار پرندے لے کر اپنے ساتھ بلا لے' پھر ان کا ایک ایک کترا ہر پہاڑ پر

يُؤَيِّدُ قَالَ أَنَا أَنحِي وَأُؤَيِّدُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَبِهِ حَائِذِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهِمَاءَ قَالَ أَنِّي نَحِي هَذِهِ وَاللَّهُ بَعْدَ مَوْجِعِهِ فَأَمَّا تِلْكَ الْمَائِدَةُ مَائِدَةٌ عَامِرَةٌ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا الْحَمَاءَ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

أَوْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِكَ لَتَوَكَّنَ لِي بَلِي وَلَكِن لِّيَطْبِئِنَّ قُلُوبِي قَالَ فخذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِنَّكَ تَمُنَّ بِمَا جَعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ

you. Then (after killing them) put a part (of their minced flesh) on every hill top. Then call them. They will come to you running on their feet. Know that Allah is Honorable, Wise.

SECTION 36

261. The example of those who spend their wealth for the cause of Allah is like a grain of wheat which grows into seven offshoots and each offshoot contains one hundred grains. And Allah multiplies such wealth more than that for whom He Wills. Allah is Bountiful, All-knowing.

262. Those who spend their wealth for the cause of Allah, then do not remind with taunt and insults its disbursement (to receivers), their reward is with their Rubb (Sustainer) and they shall have neither any fear, nor any grief.

263. The kind words and forgiving others' faults are better than a charity followed by injury. And Allah 'is All-Sufficient, Forbearing.

264. O believers! do not render vain your charities by reminders of your generosity or by hurting like the one, who spends his wealth for showing it to people but does not believe in Allah and the Last Day. The example of such person is like a hard barren rock with little soil on it. A heavy rain strikes it and leaves it as a bare stone. They will have no right on what they earned. Allah does not guide those who disbelieve.

265. And the example of those, who spend their wealth

رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس پلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے اور جان رکھ کر اللہ غالب حکمت والا ہے (260)

ان کی کمات جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس دانہ کی طرح جس نے اگائیں سات بائیں، ہر بال میں سو دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے (261)

وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر دینے بیچنے نہ احسان رکھیں، نہ تکلیف دیں، ان کا نیک (اجر) ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم (262)

ابھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پروا علم والا ہے (263)

اسے ایمان والو! اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان رکھ کر، اور ابراء دے کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے، اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے تو اس کی کمات ایسی ہے جیسے ایک چٹان کہ اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا جس نے اسے زرا پتھر کر چھوڑا، اپنی کمانی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے، اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دتا (264)

اور ان کی کمات جو اپنے مال اللہ کی رضا

اَدْعُهُمْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ سَعِيدًا ۖ
عَجَّ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ رَّحِيْمٌ ﴿۶۹﴾

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالِهِمْ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِيْ كُلِّ
سَبْلَةٍ مِّائَةٌ ۖ وَ اللّٰهُ
يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ وَّاسِعٌ
عَلِيْمٌ ﴿۶۹﴾

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالِهِمْ فِيْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ لَمْ يَلْتَبِعُوْنَ مَا
اَنْفَقُوْا مِمَّا كَانُوْا اَعْرَابًا
عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَّ
لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۷۰﴾

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ
مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَآ اِذْ يُوْءَدُّ
اللّٰهُ عَنِّيْ حَلِيْمٌ ﴿۷۱﴾

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَطْلُوْا
صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاِذْيِ
كَالَّذِيْ يُوْهِقُ مَالَهٗٓ مِنْ نَّاءٍ
النَّاسِ وَلَا يُوْنِسُ يٰۤاَللّٰهُ وَّ
النُّوْمِ الرَّجْدِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ
صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تَرَابٌ فَاَصَابَهُ
دَابٌّ فَكَرَّكَ صَدْقًا لِّاَيُّقِدْرُوْنَ
عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ۗ وَاللّٰهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ﴿۷۲﴾

to seek the pleasure of Allah to strengthen themselves, is like the garden high upon a hill on which heavy rain falls and it brings double fruits. But if heavy rain does not fall on it then dew is sufficient to it. And Allah observes what you do.

266. Does anyone of you like to have a garden of dates and grapes under which streams flow and in it there are all kinds of fruits. Then old age comes to him (owner) and he has weak children. Then a whirlwind with fire strikes it that it is burnt. Allah makes clear to you His Verses in this way that you may think upon.

SECTION 37

267. O believers give out of your (honest) good earnings and what We (Allah) have bestowed to you as a product of the earth. But do not even think to spend the bad stuff out of it that you yourself would not like to take unless you close your eyes. And know that Allah is All-Sufficient, All-Praise Worthy. 268. The satan (devil) threatens you of poverty and bids you to indecency. And Allah promises you His forgiveness with abundance. And Allah is All-Embracing, All Knowing.

269. Allah bestows wisdom to whom He Wills and whoso gets wisdom, he attains abundant benefit. And none pay attention to guidance but the men of understanding

چاہنے میں خرچ کرتے ہیں، اور اپنے دل جماعے کو، اس باغ کی سی ہے جو ہموڑ (ریگستان) پر ہو، اس پر زور کا پانی پڑا، تو رونے (دوگنے) میوے لایا، پھر اگر زور کا مینہ اسے نہ پہنچے، تو اس (مخیم) کافی ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے (265)

کیا تم میں کوئی اسے پسند رکھے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں اور انجوروں کا، جس کے نیچے ندیاں بہیں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھلوں سے ہے، اور اسے بڑھا پاتا ہے، اور اس کے پاتوں (کمزور) بچے ہیں، تو آیا اس پر ایک گولہ (انگڑہ) جس میں آگ تھی تو جل گیا، ایسا ہی بیان کرتا ہے اللہ تم سے اپنی آیتیں، کہ کہیں تم دھیان لگاؤ (266)

اسے ایمان والوں! اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، اور خاص باتیں کا ارادہ نہ کرو، کہ دو تو اس میں سے اور تمہیں ملے تو نہ لو گے، جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو، اور جان رکھو کہ اللہ بے پروا سراہا (مانا) گیا ہے (267) شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے (268)

اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے (269)

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا
مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ
أَصَابَهَا وَايٌ قَاتٌ أَكْلًا
ضَعِيفٌ فَإِنَّ لَمْ يَصِبْهَا وَايٌ
فَطُلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
أَيُّودٌ أَحَدُكُمْ ن تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ
مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ
الشَّرْبِ آبٌ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ
ذُرِّيَةٌ ضَعْفَاءٌ فَفَأَصَابَهَا أَعْصَابٌ
فِيهَا نَارٌ فَأَخْرَجَتْ كَذَلِكَ بُيُوتًا
عَنِ اللَّهِ لَكُمْ آيَاتٍ لِّعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٧﴾

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْفُقَرَاءُ مِنْ
طَبِئْتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَتَّبِعُوا
الْمَخِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغِيْضُوا فِئْتَهُ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّيْ حَئِيْدٌ
الشَّيْطٰنُ يُعِدُّكُمْ الْفَقْرَ وَ
يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشٰءِ وَاللَّهُ يُعِدُّكُمْ
مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيْمٌ ﴿٢٦٨﴾

يُوْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ
يُوْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا
كَبِيْرًا وَمَا يَدْرِي أَلَّا أُولُو

270. And what you spend in charity or in devotion, surely Allah knows it and there is no help for the cruel.

271. If you offer your charity openly it is well. But if you give it to the needy hidingly it is much better for you, and He will remove your sins. And Allah is aware of what you do.

272. Setting them on the right path is not your duty (O beloved Prophet Muhammad — S.A.W). Allah guides whom He Wills And whatever good thing you spend will benefit your own selves. And it is not proper for you to spend except to seek Allah's pleasure. And whatever good thing you spend will be repaid to you fully and you will not be dealt in a cruel way.

273. (Charity is) for the needy who were restricted (to travel) in the way of Allah and are unable to undertake a trade or work in the land. The ignorant men think them free of want because of their modesty (not to beg). You will recognize them from the marks on their faces. They do not beg from people with loud submissions. And what you give in charity (to them) is known to Allah Almighty.

[ONE FOURTH OF PART
3 ENDS]

SECTION 38

274. Those who spend their wealth (for the cause of Allah) by the night and the day secretly and openly have good reward with their Rubb (Sustainer). They will not face any fear or any grief.

275. Those who devour riba (usuary/interest) shall not

اور تم جو خرچ کرو یا سنت مالو، اللہ کو اس کی خبر ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں (270)

اگر خیرات اعلانیہ دو، تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اس میں تمہارے کچھ گناہ تمہیں گے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے (271)

انہیں راہ دینا تمہارے ذمہ لازم نہیں، ہاں! اللہ راہ دینا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی پھل ہے، اور جس خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے، اور جو مال دو، تمہیں پورا ملے گا، اور نقصان نہ دینے جاوے گا (272)

ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے، زمین میں چل نہیں سکتے، نادان انہیں تو گھر کبھی بچنے کے سبب تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا، لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑ گڑانا پڑے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے (273)

وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک (اجر) ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو، نہ کچھ غم (274)

وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ

الذیاب ﴿۳۸﴾
وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ
مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا
لِظَّالِمِينَ مِنَ النِّصَابِ ﴿۳۹﴾

إِنَّ تَبَدُّدَ الصَّدَقَاتِ فَبِعَمَلِهِمْ
وَأَنَّ تَطْوِئَهَا وَتَوَلَّوْهَا الْفُقَرَاءُ
فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مَن
سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۴۰﴾
لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ
اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا
تَنْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَفْسُكُمْ
وَمَا تَنْفَقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ
اللَّهِ وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ
يُوفَىٰ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تظَلُمُونَ ﴿۴۱﴾

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصُوا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْبَاهِلُ اغْنِيَاءَ مِمَّنْ تَعْقِفُ
تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ
النَّاسَ الْخَائِفَاتِ وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۴۲﴾

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُجْرَتُونَ ﴿۴۳﴾
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا

have any standing except like those who are driven to madness by satan (devil) by a touch. That is because they say that the trade is also like usuary. But Allah has made trade lawful and made interest as forbidden. So those, who after receiving direction from their Rubb (Sustainer) refrain, shall be pardoned whatever they received in the past (as interest). Their case is with Allah (to judge). And henceforth who ever shall repeat such offence will be the subject of fire to reside therein forever.

276. Allah negates usuary of all the blessings and flourishes charity and Allah does not love any thankless, wicked, who rejects it.

277. Those who believe and accept faith and do good deeds and establish regular Salaat (Muslim Prayers) and pay the Zakaat (obligatory dues for have nots) they shall have their reward from their Rubb (Sustainer) and there will be no fear on them nor they will have any grief.

278. O believers fear Allah and leave what remains of usuary if you are faithfuls.

(Muslims)

279. But if you do not do like this then beware of war from Allah and His Rasool (Messenger of Allah). And if you repent then take your principal sums, by which neither you will be doing any cruelty nor you will be dealt with cruel manner.

280. And if the debtor is in hardship then give him time of delay as ease (to pay debt).

وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کفرے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسب (مصیبت) نے چھو کر مخلوط (باگل) بنا دیا ہو، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا، بیچ بھی تو سود ہی کی مانند ہے، اور اللہ نے حلال کیا بیچ کو، اور حرام کیا سود، تو جسے اس کے رب کے پاس سے صیحت آئی اور وہ باز رہا، تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ

دورثی ہے، وہ اس میں مدتوں رہیں گے (275)۔

اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو، اور بڑھاتا ہے خیرات کو اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکر بڑا گنہگار (276)

بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا نیک (اجر) ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو، نہ کچھ غم (277)

اسے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود اگر مسلمان ہو (278)

پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو، اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ، نہ تمہیں نقصان ہو (279)

اور اگر قرض دار تکلی والا ہے تو اسے

يَقْوَمُونَ الْأَكْمِيَّةَ يَقْوَمُ الَّذِينَ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْمَنِ ذَلِكَ يَأْتِيهِمْ قَالُوا أَإِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَهَا فَلَهُ مَاسَلَفٌ وَأَمْرٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

يَبْحَثُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلِ الضَّيْقَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيحِيمٍ ۝

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۝

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرٍ فَنظِرَةٌ

Better it will be if you remit it in charity. This will be best for you if you knew.

281. And fear the day when you shall be made to return to Allah; then every self will be repaid in full what it earned and none shall be wronged.

SECTION 39

282. O believers (Muslims) when you borrow from each other for a fixed period, you should take it down in writing. And somebody should write down in your presence justly. And the writer should not refuse to write it as Allah has given him the distinction of this literacy. So the writing should be made with the dictation of the person who has the liability. And he (she) should fear Allah Who is his (her) Rubb (Sustainer). Never conceal anything out of the correct liability. Whoso is feeble minded or is unable to understand how to dictate terms then his (her) guardian should dictate justly. And there should be two witnesses from amongst your male persons. But if two men are not available then a man and two women which you choose with liking so that if one woman forgets then the other should remind her (the truth). When somebody is asked to witness that (person) should not refuse to give the evidence. Do not make it a burden on you, whatever may be its liability, big or small. Write it down with the period fixed (for the repayments). It is more equitable in the Sight of Allah as a more suitable method of evidence and more

ملت دو آسانی تک اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بھلا ہے اگر جانو (280)

اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف چھوڑے اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھری جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا (281)

اے ایمان والو! جب تم ایک مقرر مدت تک کسی دین (قرض) کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اے اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے اور جس پر حق آتا ہے وہ لکھاتا جائے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور حق میں سے کچھ رکھ نہ چھوڑے پھر جس پر حق آتا ہے اگر بے عمل یا تاوان ہو یا لکھنا نہ سکے تو اس کا ولی انصاف سے لکھائے اور دو گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ایسے گواہ جن کو پسند کرو کہ کس ان میں ایک عورت بھولے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے اور گواہ جب بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کریں اور اسے بھاری نہ جانو کہ دین (قرض) چھوٹا ہو یا بڑا اس کی میعاد تک کھت کر لو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی اور یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے مگر یہ کہ کوئی مردست کا سودا دست بدست ہو تو

إِلَىٰ مَنسُوقِهِ وَإِنْ تَصَدَّقْتُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾
وَالْقَوَاِيمَ مَا تَرْجِعُونَ فِيهِ إِلَىٰ
أَنفُسِكُمْ تُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ
بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ
لْيَسْقِ اللَّهَ رِيبَهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
شَيْئًا إِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَوْفِيًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ
أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ
بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ
تَقْضِيَ أَحَدُهُمَا قَدْ كُذِّبَ أَحَدُهُمَا
الرَّحْمَىٰ وَلَا يَأْبُ الشَّهَادَةَ إِذَا
مَادَعَوْا وَلَا تَسْمَأُ أَنْ تَكْتُبُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَإِذِي الْآتَاتُ بِالْبُورِ إِلَّا أَنْ تَكُونُ

convenient process of preventing doubts among you. But if there is a transaction which you deal from hand to hand on the spot amongst yourself, there is no sin on you, if you do not write it. But take always (oral) witnesses whenever you make commercial contracts. Neither any writing be defaced nor any witness be changed. If you do such harm it would be your wickedness. And be pious to Allah for what Allah teaches you. And Allah is well aware about everything.

283. And if you are on a journey and cannot find a writer then let there be oral pledge by handing over possessions (of traded things as payments). And if anyone of you deposits in trust with the others let the trustee discharge his (her) trust and he (she) should fear his (her) Rubb (Sustainer) and should not conceal true evidence. Whoso conceals it then surely his heart is sinful and Allah knows all your deeds.

SECTION 40

284. Whatever is in the heavens and whatever is in the earth belongs to Allah. Allah will account whatever you disclose or conceal in your selves. He will pardon whomso He Wills and He Will punish whomso He Wills. Allah is All-Powerful on everything.

The Rasool (Messenger of Allah) believes in whatever is revealed to him from his Rubb (Sustainer) and all the believers also believe in Allah and His Angels, and His Books, and His Rasools

اس کے نہ لکھنے کا تم پر گناہ نہیں، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو، اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر دیا جائے، نہ گواہ کو (یا نہ لکھنے والا ضرر دے نہ گواہ) اور جو تم ایسا کرو، تو یہ تمہارا فسق ہو گا، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکتاتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے (282)

اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پائو تو گرد (گردی رکھی ہوئی کوئی چیز) ہو قبضہ میں دیا ہوا، اور اگر تم میں ایک کو دوسرے پر اطمینان ہو، تو وہ جسے اس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گنہگار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے (283)

اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے، یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا، بخشے گا، اور جسے چاہے گا، سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے (284)

رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، اور ایمان والے سب نے مانا، اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول اور پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور

تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوْنَ وَاِذَا
بَيْنَكُمْ فُلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
اَلَّا تَكْتُبُوْهَا وَاَسْهَدُوْا اِذَا
تَبَايَعْتُمْ وَاَلَيْصَادُ كَاتِبَةٌ وَاَلَا
شَهِيدَةٌ وَاِنْ تَفَعَلُوْا فَاِنَّهُ فُسُوْقٌ
بِكُمْ وَاَتَقُوا اللّٰهَ وَاَعْلَمُكُمْ
اللّٰهُ وَاَللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۲۸۳﴾

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا
كَاتِبًا فَاِذْهَبُوْا مَقْبُوْضَةً وَاَلَّذِيْنَ
اَبْرَأَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَاَلَيْسَ
اَلَّذِيْ اَوْثَقِيْنَ اَمَّا نَتُّهُ وَّلِيْتِيْ
اَللّٰهُ رَبُّهُ وَاَلَا تَتَّقُوْنَ الشّٰهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اِتْمَ قَلْبِهٖ
بِجَا وَاَللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿۲۸۴﴾

وَاللّٰهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ
وَلَنْ يُّدْرِكَ مَا فِى الْاَنْفُسِ كُمْ اَوْ
تُخْفُوْهُ مِثْلًا مِّمَّا سَبَقَكُمْ بِهٖ اَللّٰهُ فَيَخْبُرُ
لِمَنْ يُّشَآءُ وَاَلَيْسَ ذٰلِكَ مِنْ كَيْدِ
وَاَللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۸۳﴾
اَمِّنَ الرَّسُوْلِ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْهِ
مِّنْ رَّبِّهٖ وَاَلْمُؤْمِنُوْنَ كُلِّ اَمِّنَ
بِاَللّٰهِ وَرَبِّكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَ
رُسُلِهٖ لَا تَفْرُقُ بَيْنَ اَحَدٍ
مِّنْ رُّسُلِهٖ وَاَقَالُوْا سَمْعًا وَاَوْ

(Messengers) proclaiming that we do not discriminate in faith about any of His Rasool (Messenger). And they say, we hear and we obey. Confer on us Your forgiveness O our Rubb (Sustainer). Let there be Your forgiveness as to You we have to return back.

286. Allah does not burden anybody beyond his (her) capacity. Whatever he (she) earns good is useful for him(her) and whatever he (she) earns bad is of loss to him(her). O our Rubb (Sustainer) do not take the notice of what we forget or miss (Your) standards. O our Rubb (Sustainer) do not burden us (for our wrongs) as You did on those before us. O our Rubb (Sustainer) do not burden us that we do not have strength to carry. And pardon us and forgive us and have mercy on us. You are our Protector, so help us against the disbelievers' nation.

عرض کی! کہ ہم نے سنا اور مانا، تمہری
مخانی ہو اے رب ہمارے! اور تمہری ہی
طرف پھرتا ہے (285)

أَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِنَّكَ
التَّوَّابُ ۝

اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا، مگر اس کی
طاقت بھر، اس کا فائدہ ہے جو اچھا کیا
اور اس کا نقصان ہے جو برائی کرائی، اے
رب ہمارے! ہمیں نہ پکڑا کر ہم بھولیں،
یا چوکیں، اے رب ہمارے! اور ہم پر
بھاری بوجھ نہ رکھ، جیسا تو نے ہم سے
انگوں پر رکھا تھا، اے رب ہمارے! اور
ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہارا
(برداشت) نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما
دے اور بخش دے اور ہم پر مہر (رحم) کر،
تو ہمارا مولیٰ ہے، تو کافروں پر ہمیں مدد
دے (286)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا
أَوْ
أَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ
عَلَيْنَا
إِصْرَ الْوَالِدِ الْمَهِمَّةِ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا
مَا
لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا
وَاعْفُ
مَوْلَانَا فَإِنَّ صَوْلَانَا عَلَى
الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ ۝

S : III

SURA-AALE IMRAAN (The Family of Imraan)

Revealed at Makkah

(200 Verses, 20 Sections)

(In) Allah's Name,

Who is the most Affectionate,
the most Merciful.

SECTION I

1. ALIF - LAAAM
MEEEM (A.L.M)*.

2. Allah is but there is
none to be worshipped except
Him. He is the ever Living,
the ever Existing.

3. He sent down to you
this truthful Book which
confirms (the previous Books)
revealed by Him before it. He
revealed the Touraat (Tourah
of Moses) and the Injeel
(Bible, Gospel of Jesus).

سورۃ آل عمران مکی ہے (اور اس میں دو
سو (200) آیتیں اور میں (20) رکوع
ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان
رحم والا
الم (1)

اللہ ہے جس کے سوا کسی کی پوجا
(عبادت) نہیں، آپ زندہ اوروں کا قائم
رکھے والا (2)

اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری، اگلی
کتابوں کی تصدیق فرمائی، اور اس نے اس
سے پہلے تورت اور انجیل اتاری (3)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ
الْقُرْآنَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ
الْقُرْآنَ

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ
التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۝

Gospel of Jesus).

4. He guided the mankind to the right path, and bestowed the criterion of right judgement. Surely those who denied the revelation of Allah will suffer the severest punishment. Allah is Honorable and Powerful in retribution.

5. Surely nothing is hidden from Allah in the heavens and the earth.

6. It is He Who forms your shape in the wombs of your mothers as He Will. Besides Him none is worth worship. He is the Honorable, the Wise.

7. It is He Who revealed this Book to you. There are Verses which are clearly understandable, which form the basis of the Book, and others are those meanings of which are subject to different interpretations. Those who have perverted hearts they follow such verses meanings of which are taken differently. They are those who seek to mislead, maintaining their own viewpoint of deviance. And Allah knows better the real interpretation. And those who are firm in knowledge say, "we believe in it, the whole of it is right from our Rubb (Sustainer). And none has grasp of the same to the best except those who perfectly understand.

8. O our Rubb (Sustainer) let not our hearts become perverse after You have guided us. And bestow on us Your Mercy. Surely only You are the Bestower.

9. O our Rubb (Sustainer) surely you are to assemble the mankind on the

لوگوں کو راہ دکھائی اور فیصلہ آمارا ہے
شک وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے
ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ
غالب بدل لینے والا ہے (4)

اللہ پر کچھ چھپا نہیں زمین میں نہ آسمان
میں (5)

وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں
کے پیٹ میں جیسی چاہے، اس کے سوا
کسی کی عبادت نہیں، عزت والا حکمت
والا (6)

وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری
اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں،
وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں
جن کے معنی میں اشتباہ ہے وہ جن کے
دلوں میں کجی ہے، وہ اشتباہ والی کے پیچھے
پڑتے ہیں گمراہی چاہنے اور اس کا پھلو
ڈھونڈنے کو، اور اس کا ٹھیک پھلو اللہ ہی
کو معلوم ہے، اور پختہ علم والے کہتے ہیں
ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب
کے پاس سے ہے، اور صیحت نہیں مانتے
مگر عقل والے (7)

اے رب ہمارے! دل نیزہ نہ کر بعد
اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور
ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، چٹک
تو ہے بڑا دینے والا (8)

اے رب ہمارے! چٹک تو سب لوگوں کو
جمع کرنے والا ہے اس دن کے لیے جس
میں کوئی شبہ نہیں، چٹک اللہ کا وعدہ

مِنْ قَبْلِ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ
الْقُرْآنَ هَإِنِ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ
فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ
كَيْفَ يَشَاءُ لَإِلَهِ إِلَّا هُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
وَمِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ
الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا
الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
فَيُتَّبِعُونَ مَا تُشَابِهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ
الْفِتْنَةِ وَالْبِغْيَةِ تَأْوِيلَهُ وَمَا
يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ
فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ
مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا
أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

رَبَّنَا لَا تَزِرْ كُفْرَنَا بَعْدَ إِذْ
هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ
أَلَدَّيْبُ فَيَوْمَئِذٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْزِفُ
عَنِ الْمُبَادَاةِ ۝

Day on which there is no doubt. Surely Allah does not break his promise.

SECTION 2

10. Surely, those who disbelieve neither their riches nor their children shall gain them anything against Allah. And they shall be the fuel of the fire.

11. (Their fate will be) like the people of the Fir'awn (Pharaoh) and those before them. They denied Our (Allah's) Verses, so Allah seized them to account for their sins. And Allah is severe in punishment.

12. Tell (O beloved Prophet) to the disbelievers, "you shall be overcome and driven to the hell — an evil place indeed to rest upon.

13. Certainly there have been verses revealed for you about two groups which fought among themselves. One group was fighting for the cause of Allah while the others as disbelievers resisted. They (disbelievers) saw with their own eyes twice the (believers) number. And Allah strengthens with His help whom He Wills. Surely in it there is a lesson for those who have the eyes to see (understand).

14. Highly impressive for the mankind is the love of the lusts of women, children and heaped up wealth of gold and silver, branded horses, cattle and crops. These are only the provisions of the worldly life. And with Allah is the best of the goals.

15. Please declare (O beloved Prophet), "should I inform you something better than that"? For the pious there is Paradise with their

نہیں بدلا (9)

بچک وہ جو کافر ہوئے، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے انہیں کچھ نہ بچا سکیں گے، اور وہی دوزخ کے ایدھن ہیں (10) جیسے فرعون والوں اور ان سے انگوں کا طریقہ، انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، تو اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑا اور اللہ کا عذاب سخت (11)

فرما دو! کافروں سے کوئی دم جاتا ہے کہ تم مغلوب ہو گے، اور دوزخ کی طرف ہانگے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا جھجھوتا (12)

بچک تمہارے لیے نشانی تھی دو گروہوں میں جو آپس میں بھڑپڑے، ایک جتنا اللہ کی راہ میں لڑتا اور دوسرا کافر، کہ انہیں آگہوں دیکھا اپنے سے دونا سمجھیں، اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بچک اس میں ٹھنڈوں کے لیے ضرور دیکھ کر سیکھنا ہے (13)

لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت عورتیں اور بیٹے، اور تلے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر، اور نشان کئے ہوئے گھوڑے، اور چوپائے اور کھیتیں، یہ جتنی دنیا کی پونجی ہے، اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانا (14)

تم فرماؤ! کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور تسمیٰ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّنْ نَعْلَمَ عَمَلَهُمْ
كُلُّ الْهَرَمِ وَلَا أَوْلَادَهُمْ مِنَ اللَّهِ
يُجَاوِزُونَكَ هُمْ وَقَوْمُ الْكَافِرِينَ
كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ
وَنَجَّبَهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ⑩

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْتٌ بَلْ يَظُنُّونَ
وَتَحْسَبُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَأَنْتُمْ
الْمُهَادَّاتُ ⑪

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ
الَّتِي نَقَضَتْ آيَةَ تَقَابُلِي فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ
مُسْتَضْرَبِي الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ
بِصُورِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ⑫

رَبِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ
مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمَمْتَلِئَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَ
الْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ

النَّامِ ⑬
قُلْ أَوْفَيْتُكُمْ بِعَهْدِي مِنْ ذِكْرِهِمْ
لِلَّذِينَ آمَنُوا إِعْدَادَهُمْ جَدَّتْ
تَجْرِبِي وَمِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خُلِدِينَ فِيهَا وَأُولَٰئِكَ مَطْفُورَةٌ

Rubb (Sustainer) underneath which streams flow, where they will reside forever with pure wives and Allah's Pleasure. And Allah is Seeing His devotees.

16. They are those who say, "O our Rubb (Sustainer) we believe, therefore, forgive us our sins and save us from the agony of the fire."

17. They are the steadfast and the obedient, and the humble and those who spend in the way of Allah and those who pray for forgiveness in the early hours of the morning (as the best).

18. Allah bears the witness that there is none worth worship except Him and so do the Angels and the men of knowledge. They maintain justice. There is none worth worship except He Who is the Honorable, the Wise.

[HALF OF PART 3 ENDS]

19. Surely the true religion with Allah is Islam; And those given the Book did not disagree till knowledge came to them and they became envious between themselves. And whoso denies the Verses of Allah, then surely Allah is quick in reckoning.

20. Then (O beloved Prophet) if they argue with you please declare, "I submit myself to Allah and so do my followers. And please declare to those given the Book and are unlettered, "Do you submit. Then, if they become Muslims (submit) they will get the right guidance. But if they turn away their faces then your duty is only to deliver them (My) Command. And Allah is Seeing His devotees.

یہ بیان اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے (15)

وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے! ہم ایمان لائے تو ہمارے! گناہ معاف کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے (16)
مہروالے اور سچے اور ادب والے اور راہ خدا میں خرچے والے اور پچھلے پر معافی مانگنے والے (17)

اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں عزت والا حکمت والا (18)

بیک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے اور پھوٹ میں نہ پڑے کتابی، مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا اپنے دلوں کی جبلت سے اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے (19)

پھر اے محبوب! اگر وہ تم سے حجت کریں تو فرما دو! میں اپنا منہ اللہ کے حضور جھکائے ہوئے ہوں اور جو میرے پیرو (فرمانبردار) ہوئے اور کتابوں اور ان پرہوں سے فرماؤ! کیا تم نے گردن رکھی؟ پس اگر وہ گردن رکھیں جب تو راہ پا گئے اور اگر منہ پھیریں تو تم پر تو یہی حکم پہنچا دیتا ہے اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا (20)

كِرْضًا وَمِنْ اِلٰهٍ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ
بِالْعِبَادِ ۝

الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِنَّا
فَاعُوْذُوْا لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاَنْتَ اَدْب
النَّارِ ۝
الضَّالِّيْنَ وَالضَّالِّيْنَ وَ
الْقٰرِيْنَ وَالْمُتَّقِيْنَ وَالْمُتَّقِيْنَ
بِالْاَسْحٰرِ ۝

شَهِدَ اِلٰهٌ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
وَالْمَلٰئِكَةُ وَاُوْلُو الْعِلْمِ قَايْمًا
بِالْقِسْطِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝
اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ
وَمَا اُخْتَلَفَ الدِّيْنُ اَوْ تَوَلَّوْا
الْكِتٰبَ الْاِلٰمِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ
الْعِلْمُ بَعِيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ
بَاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ
الْحِسَابِ ۝

فَاِنْ حَاجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ
وَجِهِي لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ
لِلَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيِّنَ
اَسْلَمْتُمْ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدْ
اِهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ
بِالْبَلٰغَةِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ۝

SECTION 3

21. The people who disbelieved in the Verses of Allah and killed Ambiya (Prophets — the Communicators of the hidden news) without right and killed those who teach justice between mankind, announce to them a painful penalty.

22. They are the one's whose deeds will bear them no fruit in this world and in the hereafter and they will have no helper.

23. Have you not seen those who were given their portion of the Book? They are called to the Book of Allah that it may judge between them. And then a party of them turns back and declines (arbitration of the Book).

24. They dare to do so saying that the fire will not touch them except for a few numbered days. And their falsehood deceives them about their own religion.

25. How will it be when We (Allah) will gather them on a Day about which there is no doubt. Every one will be paid in full what each earned and for them there will be no injustice.

26. Please declare (O beloved Prophet), "O my Allah You are the Master of all sovereignties. You give sovereignty to whom You Will. You take away the sovereignty from whom You Will, and confer honor whom You Will and let one go to disgrace whom You Will. The entire good is in Your control. Surely You are the Almighty over everything.

27. You cause the night to enter into the day and You make the day to enter into

جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے، اور اوصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی (21)

یہ ہیں وہ جن کے اعمال اکارت (ضائع) گئے دنیا و آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں (22)

کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ وہ ان کا فیصلہ کرے، پھر ان میں کا ایک گروہ اس سے روگردان ہو کر پھر جاتا ہے (23)

یہ جرات انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں، ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر کتنی کے دنوں، اور ان کے دین میں انہیں فریب دیا اس جھوٹ نے جو پاندتے تھے (24)

تو کیسی ہو گی جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس دن کے لیے جس میں شک نہیں اور ہر جان کو اس کی کھلی پوری بھردی جائے گی، اور ان پر ظلم نہ ہو گا (25)

یوں عرض کر، اے اللہ! ملک کے مالک! تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، بچک تو سب کچھ کر سکتا ہے (26)

تو دن کا حصہ رات میں ڈالے اور رات کا حصہ دن میں ڈالے، اور صبح سے زندہ

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ بَدَّعُوا لَهُمْ قَوْلَهُمْ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۝

أَلَمْ نَدْرَأِ الْكَافِرِينَ أَذُنًا لِّئَلَّا يُصِيبَا مِنَ الْكِتَابِ بِذُنُوبِهِمَا وَلِيَ آلِ الْكَتِبِ اللَّهُ لِيُحْكُمَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ تَوَلَّى فُرُوقَهُمْ وَهُمْ مَعْرِضُونَ ۝ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ نَسْتَأْذِنَكَ فِي الْأَكَامِ قَدْرًا وَذُوبًا وَعَدَّوْهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتُمْ لِيَوْمِ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ لَا رَيْبَ فِيهِ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِخُ بِهَا نُفُوسًا مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تَوَلَّى الْمَلِكُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُؤَلِّقُ مَنْ تَشَاءُ إِنَّ يَدَ الْكَافِرِينَ فِيكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

تَوَلَّى فِي النَّهَارِ وَتَوَلَّى فِي اللَّيْلِ وَتَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتَخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ

the night. You bring life out of the dead and You bring forth death to the living. And You provide (abundantly) without any measure whom You desire.

28. Believers (Muslims) should not make the disbelievers their friends in preference to the believers (Muslims). And whoso does that has no connection with Allah, in anything, unless you cautiously safe-guard yourself from them. And Allah warns you to fear Him. And (every one) is to return to Him.

29. Please declare (O beloved Prophet), "whether you conceal what is in your hearts or reveal it, Allah knows it and He knows whatever is in the heavens and whatever is in the earth. Allah has the power to do everything.

30. (Beware of) the Day when everybody will be confronted with all the good deeds it had done and all the evils it had done. They will wish that there should have been a long distance (of such Day). But Allah makes you to have fear of Him. Allah is very Kind to His devotees.

SECTION 4

31. Please declare, "if you love Allah you should follow me. (Only then) Allah will love you and will forgive you your faults. And Allah is Forgiving, Merciful.

32. Please declare (O beloved Prophet), "obey Allah and His Rasool (Messenger). But if they turn away then Allah does not like the disbelievers.

33. Allah had chosen Aadam and Nuh (Noah), the descendants of Ibrahim

نکالے اور زندہ سے مرہ نکالے اور جسے چاہے بے گنتی دے (27)

مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنالیں مسلمانوں کے سوا اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ نہ رہا مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پھرتا ہے (28)

تم فرما دو کہ اگر تم اپنے نبی کی بات چھوڑو یا ظاہر کرو اللہ کو سب معلوم ہے اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے (29)

جس دن ہر جان نے جو بھلا کام کیا حاضری پائے گی اور جو برا کام کیا امید کرے گی کاش! مجھ میں اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر مہربان ہے (30)

اسے محبوب! تم فرما دو کہ لوگو! اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما تیار ہو! جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے (31)

تم فرما دو کہ تمہارے مانو اللہ اور رسول کا پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر (32)

بیک اللہ نے جن لیا آدم اور نوح اور

الْمَيْتِ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَتُرْسِئُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ

حِسَابٍ ﴿٢٨﴾

لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَةَ وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٩﴾

قُلْ إِنْ تَخْفَوْنَ أَمَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٠﴾

يَوْمَ هَرَبَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْضَرَةً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَكًا يَبْعِدُ أَوْ يَمُخِّدُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣١﴾

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٢﴾

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٣﴾

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَ

(Abraham) and the descendants of Imran above all (the people) of the universe.

34. They are children of one another and Allah is Hearing, Knowing.

35. (Please remember) when the wife of Imran said, "O my Rubb (Sustainer) I dedicate to You what is within my womb for Your special devotion, so accept this from me. Surely only You Hear and Know.

36. So when she gave birth to her she said, "O my Rubb (Sustainer) I have given birth to a female." Allah knew best what she gave birth to — and the male is not like the female, and I have named her Maryam (Mary) and I seek refuge with You for her and her children from the satan (devil), the rejected.

37. Her Rubb (Sustainer) graciously accepted her and made her to grow in purity and excellence and made Zakariya her caretaker. Whenever Zakariya entered her prayer chamber, to see her, he found fresh food supplied to her. He asked, "O Maryam (Mary) where from it comes to you"? She said, "from Allah." Surely, Allah provides whom He Wills without measure (abundantly).

38. There and then Zakariya prayed to his Rubb (Sustainer) and said, "my Rubb (Sustainer) grant me from Your Greatness good children pure ones for only You Hear all the prayers.

39. And the Angels called him, when he stood in the prayer

ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو سارے
جان سے (33)

یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے اور
اللہ سنتا جاتا ہے (34)

جب عمران کی بی بی نے عرض کی اے
رب میرے! میں تیرے لیے منت مانگی
ہوں جو میرے پیٹ میں ہے، کہ خالص
تیری ہی خدمت میں رہے، تو تو مجھ سے
قبول کر لے، بیشک تو ہی ہے سنتا جاتا
(35)

پھر جب اسے جتا بولی! اے رب میرے!
یہ تو میں نے لڑکی جنی اور اللہ کو خوب
معلوم ہے جو کچھ وہ جنی اور وہ لڑکا جو
اس نے مانگا اس لڑکی سائیس اور میں
نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اسے
اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں
رانندہ ہوئے شیطان سے (36)

تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول
کیا اور اسے اچھا پروان چڑھایا اور اسے
زکریا (علیہ السلام) کی نگہبانی میں دیا، جب
زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی
جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے،
کہا اے مریم! یہ تیرے پاس کہاں سے
آیا؟ بولیں وہ اللہ کے پاس سے ہے،
بیشک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے (37)

یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو بولا: اے
رب میرے! مجھے اپنے پاس سے دے
تو تیری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے
والا (38)

تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی
نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، بیشک اللہ

الذابذہیمہ وال عمران علی
العلیین

ذریۃ بعضہامن بعضہم واللہ
سمیع علیہم

اذا قالت امراۃ عمران رب انی
نادت لک ما فی بطنی محرماً
فقبل منی انک انت السميع
العلیم

فلما وضعتہا قالت سریت انی
وضعتہا انثی واللہ اعلم بما
وضعت ولیس الذکر کالانثی
وانی سمیتہا مریم وانی اعیدھا
ربک وذریتہا من الشیطن
الرجیم

فقبلہا ربھا بقبول حسن
وانتہا نبأنا حسناً وکفلہا
زکریۃ کلما دخل علیہما زکریا
الیحراب وجد عندہما رزقاً
قال یمزجوا لی لک هذا قالت
ھو من عند اللہ ان اللہ
یزرق من یشاء بغیر حساب

ھذا لک دعا زکریا ربہ قال رب
ھب لی من لک ذریۃ طیبۃ
انک سمیع الدعاء

فلما دتہ الملیکۃ وهو قایم

chamber, "Allah gives you the good news of Yahya (John), who shall confirm the truthful 'Kalama' (sacred Words of Allah). He will be princely and chaste and will be a Nabi (Prophet — Communicator of hidden news) from among the righteous people.

40. He said, "O my Rubb (Sustainer) how shall I have a son when I have reached an old age and my wife is barren." He (Allah) Answered, "Allah does whatever He Wills."

41. He submitted, "O my Rubb (Sustainer) give me Your symbol. He (Allah) replied, "your symbol will be that you will not speak to (any one of) mankind for three days except by signs. And remember your Rubb (Sustainer) too much and glorify Him in the evening and in the early morning.

SECTION 5

42. And when the Angels said, "O Maryam (Mary) surely Allah has chosen you and made you purified and has exalted you above all the women of the world.

43. O Maryam (Mary) be obedient to your Rubb (Sustainer), prostrate to Him and bow down with those who bow themselves to Him.

44. These are the news of the things unseen which we reveal to you. And you were not with them when they were casting their arrows as to who should have the guardianship of Maryam (Mary) and you were not with them when they were arguing on (the point).

آپ کو مژدہ دیتا ہے یعنی 'کا' جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور سردار' اور بیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا' اور نبی ہمارے خاصوں میں سے (39)

بولنا: اے میرے رب! میرے لڑکا کس سے ہو گا؟ مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا' اور میری عورت بانجھ' فرمایا: اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے (40)

عرض کی' اے میرے رب! میرے لیے کوئی نشانی کر دے' فرمایا: تیری نشانی یہ ہے کہ تین دن تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارہ سے' اور اپنے رب کی بہت یاد کر' اور کچھ دن رہے اور ترکے اس کی پائی بول (41)

اور جب فرشتوں نے کہا' اے مریم! بیگ اللہ نے تجھے جن لیا اور خوب ستمرا کیا اور آج سارے جہان کی عورتوں سے تجھے پسند کیا (42)

اے مریم! اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو' اور اس کے لیے سجدہ کر اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کر (43)

یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں' اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں رہیں' اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے (44)

يُصَلِّي فِي الْمَحْرَابِ أَنْ اللَّهُ يُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ مُّصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا أَوْ حَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝۳۹

قَالَ رَبِّ اَنْىٰ يَكُوْنُ لِىْ عِلْمٌ وَّ قَدْ بَلَغَنِى الْكِبَرُ وَاْمْرًا لِىْ عَاقِرًا قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۝۴۰

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ اٰيَةً ۗ قَالَ اٰيَتُكَ اَلْاْتِكُمْ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ ۝۴۱

اِيَّامِ الْاَمْرَادِ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيْرًا وَّ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَاَلْبِكْرِ ۝۴۲

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاَعْلَمُ مَا يَخْفٰى عَلٰى نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ ۝۴۳

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاَسْجُدِيْ وَاَرْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ۝۴۴

ذٰلِكَ مِّنْ اٰنۡبَاِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَاَمَّا كُنْتِ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اِيْنَهُمْ يَخُطُّوْنَ مَرْيَمَ وَاَمَّا كُنْتِ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ۝۴۵

45. And remember when the Angels said to Maryam (Mary), "O Maryam (Mary) Allah gives you the glad news of Symbol from Him. His name will be Massih Eesa (Jesus Christ), the son of Maryam (Mary) who will be the most honored in this world and the hereafter, and will be among the exalted ones (with Allah);

46. And he shall speak to the people in the cradle and when of middle age, he shall be among the righteous.

47. She said, "O my Rubb (Sustainer) how shall I have a son when no man has touched me?" He said, "such is the way of Allah. He gives birth to whom He Wills. When He Orders an affair He only says it to "Be", it comes into being (at once).

48. And (Allah) will teach him the Book and wisdom and the Tourat (Torah) and the Injeel (Bible-Gospel).

49. And he shall be Rasool (Messenger of Allah) to the children of Israel saying, "I have come to you with the Sign of your Rubb (Sustainer) that I can make for you out of clay a figure of a bird, then breathe into it and it will become alive being by the Command of Allah. And I heal the blinds by birth and the disease of leprosy and I give life to the dead with Command of Allah. And I can tell you what you have eaten and what you have in the storages of your houses. Surely in these things there are signs for you if you have the belief.

50. And I confirm the previous Book (of Law)

اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم! اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمہ کی جس کا نام ہے مسیح، یعنی مریم کا بیٹا روداد (عزت دار) ہو گا دنیا اور آخرت میں اور قرب والا (45)

اور لوگوں سے بات کرے گا پالنے میں بچی عمر میں اور خاصوں میں ہو گا (46)

یوہی! اے میرے رب! میرے بچہ کہاں سے ہو گا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہ لگایا، فرمایا: اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے ہی کہتا ہے کہ ہو جاؤ فوراً ہو جاتا ہے (47)

اور اللہ سکھائے گا کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل (48)

اور رسول ہو گا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرمایا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، بیشک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو (49)

اور تصدیق کرتا آیا ہوں اپنے سے پہلے

لَوْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لَمِيزِيهَانِ
اللَّهُ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ وَمِنْهُ أُسْمُهُ
الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
وَجَعَلْنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ
مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا
وَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ
وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشْرًا قَالِ كَذَلِكَ
اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا أَقَضَى
أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۝

وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي
قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِنْ رَبِّكُمْ
أِنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ
كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانْفُخْ فِيهِ
فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَابْرَأِي
الْكَلِمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُنحِ الْمَوْتَى
بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَنْبِئْكُمْ بِمَا تَأْكُمُونَ
وَمَا تَدْخُلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِن
فِي ذَلِكَ لَكُمْ أَنْتُمْ
مُتَوَسِّئِينَ ۝

وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنْ

Tourat (Torah) which was revealed before me and for making lawful to you a part of what was forbidden to you. I have come to you with the Verses of your (Rubb) (Sustainer). So fear Allah and obey me.

51. Surely Allah is my Rubb (Sustainer) and your Rubb (Sustainer). Worship Him only as this is the straight path.

52. And when Eesa (Jesus) found them disobedient he said, "who will be my helpers in the way of Allah". The disciples said, "we are the helpers of Allah's (religion). We believe in Allah and you be the witnesses that we are the Muslims (obedients).

53. O our Rubb (Sustainer) we believe in what you have revealed, and we follow the Rasool (Messenger). Therefore, write us down among those who bear witness (to truth).

54. And the (disbelievers) devised their plot and Allah also devised His own plan. And Allah is the best Planner.

[THREE FOURTH OF

PART 3 ENDS]

SECTION 6

55. Remember when Allah said, "O Eesa (Jesus) I shall give you full life and cause you to be with Me and will clean you from the disbelievers and I shall make your followers superior to the disbelievers up to the Day of Resurrection. Then all of you will return to Me, then I shall make decision between you in what you disputed.

56. As for those who disbelieve I shall punish them with terrible agony in this

کتاب توریت کی اور اس لیے کہ حلال کردوں تمہارے لیے کچھ وہ چیز جو تم پر حرام تھیں اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو (50) بیچک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے تو اسی کو پوجو (عبادت کرو) یہ ہے سیدھا راستہ (51)

پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا بولا! کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف؟ حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں (52)

اے رب ہمارے! ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے آمارا اور رسول کے تابع ہوئے تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے (53)

اور کافروں نے کمر کیا اور اللہ نے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بتر جمی تدبیر والا ہے (54)

التَّوْرَةِ وَالْإِنجِيلِ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَحَسُنَتْ لَكُمْ آيَاتُ قُرْآنِهِمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا عَمَلًا

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ مِنَ الْمُكْرِمِينَ ﴿٥٤﴾

یاد کرو جب اللہ نے فرمایا: اے عیسیٰ! میں تجھے پوری عمر تک پیچھاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تمہرے پیروؤں (ماننے والوں) کو قیامت تک تمہرے منکروں پر غلبہ دوں گا پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو (55)

تو وہ جو کافر ہوئے میں انہیں دنیا و

إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْقُوبَ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعَكَ إِلَىٰ وَمُطَهِّرَكَ مِنَ الْبَدِينِ كَهَذَا وَجَاعِلَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ تَوْفِيقًا الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِنِّي مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَآعَدْتُ لَهُمْ عَذَابًا

world and in the hereafter. They will have none to help them.

57. As for those who believe and do right deeds, He (Allah) will pay them in full their reward. And Allah does not love the cruel.

58. This We (Allah) recite to you as the Verses and the message of wisdom.

59. Surely the precedent of (Jesus) before Allah is like the case of Adam who was created from dust. Then it was Said, "Be", and he (Adam) came into being quickly.

60. The truth comes from your Rubb (Sustainer) alone. So be not of those who doubt.

61. Yet (O beloved Muhammad) if they (Christians Jews) dispute in this matter (about Jesus) after the knowledge has come to you, please declare, "come let us get together with our sons and your sons, with our women and your women, ourselves and yourselves, then humbly pray and send Allah's Curse on the liars.

62. Surely this is the true statement. And there is none worth worship except Allah. And surely Allah is the most Honorable, the most Wise.

63. Yet if they turn back Allah has full knowledge of those who indulge in disorder.

SECTION 7

(Beloved Prophet) please declare, "O people of the Book! come to the Kalima (sacred Words) which is common between you and us that we worship none but Allah; that we do not associate any partner with

آخرت میں سخت عذاب کروں گا' اور ان کا کوئی مددگار نہ ہو گا (56)

اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اللہ ان کا نیک (اجر) انہیں بھرپور دے گا' اور ظالم اللہ کو نہیں بھاتے (57)

یہ ہم تم پر پڑھتے ہیں کچھ آیتیں اور حکمت والی نصیحت (58)

عیسیٰ کی کلمات (مثال) اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا: ہو جا' وہ فوراً ہو جاتا ہے (59)

اے سننے والے! یہ تمہرے رب کی طرف سے حق ہے، تو شک والوں میں نہ ہو (60)

پھر! اے محبوب! جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آچکا، تو ان سے فرما دو: آؤ! ہم تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اپنی جائیں اور تمہاری جائیں، پھر مباہلہ کریں، تو جموںوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں (61)

یہی بے شک سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے حکمت والا (62)

پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ فسادیوں کو جانتا ہے (63)

شَدِيدًا إِلَى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۝

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝

ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ۝

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ

قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۝

أَلْحَقْ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ۝

فَمَنْ حَاجَبَكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ

ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِينَ ۝

إِنَّ هَٰذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقِّيُّ، وَمَا مِن دِينٍ إِلَّا إِلَهُ الْإِلَٰهَةِ وَإِنَّ إِلَٰهًا لَّهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

لَٰن تَوَلَّوْا فَرَأَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ

بِئْسَ الْمَفْسِدِينَ ۝

قُلْ يَا هَلْهُنَّ الْكِتَابُ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا إِلَٰهًا وَلَا نُشْرِكَ بِهِ

تم فرماؤ! اے کتابیو! ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں یکساں ہے، یہ کہ عبادت نہ کریں مگر خدا کی، اور اس کا شریک کسی کو نہ کریں، اور ہم میں کوئی

قُلْ يَا هَلْهُنَّ الْكِتَابُ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا إِلَٰهًا وَلَا نُشْرِكَ بِهِ

Him, nor some of us take anybody else as our Rubb (Sustainer) and patron other than Allah." Even then if they do not accept you, tell them, "bear witness that we are Muslims (obedients).

65. O people of the Book why you dispute about Ibraaheem (Abraham). Were the Tourat (Torah) and the Injeel (Bible-Gospel) not revealed after him (Abraham)? Don't you have the wisdom?

66. (Do you listen) you are those who indulged in dispute in the matters of which you had some knowledge. But why you dispute in the matters in which you have no knowledge. And Allah Knows but you don't know.

67. Ibraaheem (Abraham) was neither a Jew nor a Christian but he was an upright Muslim, totally, separate from every falsehood and was not at all amongst the idolators.

68. Surely the more rightful claimant of Ibraaheem (Abraham), than all the people, were those who followed him including this Nabi (the Communicator of hidden news Muhammad S.A.W) and those who are his believers. And Allah is the Protector friend of those who are faithfuls.

69. A group of the people of the Book desire from their heart to take you to be mislead. And they do not know that they mislead none except themselves and they have no perception.

70. O people of the Book why do you disbelieve the

ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے اللہ کے سوا پھر اگر وہ نہ مانیں ' تو کہہ دو ' تم گمراہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں (64)

اے کتاب والو! ابراہیم کے باب (بارے) میں کیوں جھگڑتے ہو؟ توریت و انجیل تو نہ اتزی مگر ان کے بعد ' تو کیا تمہیں عقل نہیں (65)

سننے ہو ' جو تم ' ہو اس میں جھگڑے جس کا تمہیں علم تھا ' تو اس میں کیوں جھگڑتے ہو؟ جس کا تمہیں علم ہی نہیں ' اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے (66)

ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی ' بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے اور مشرکوں سے نہ تھے (67)

بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ تھے جو ان کے پیرو (تابعان) ہوئے ' اور یہ نبی اور ایمان والے اور ایمان والوں کا والی اللہ ہے (68)

کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں ' اور وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کرتے ہیں ' اور انہیں شعور نہیں (69)

اے کتابیو! اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر

شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا
أَرْبَابًا إِنَّهُمْ دُونَ اللَّهِ إِنْ تَوَكَّلُوا
فَقُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا مَسْلُومُونَ ﴿٦٤﴾

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحْجِرُونَ فِي
إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ
وَالْإِنْجِيلَ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا
تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾

هَآئِنْتُمْ هَآؤَآءَ حَآجِجْتُمْ فِي مَا لَكُمْ
بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجِرُونَ فِيمَا لَيْسَ
لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا
نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْرِمًا
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ
اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ
آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾

وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
لَوِ يَصُوبُوكُمْ - وَمَا يَصُوبُونَ إِلَّا
أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٩﴾

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ

Verses of Allah when you bear witness.

71. O people of the Book why do you intermingle truth with falsehood and conceal the reality while you have the knowledge (about the truth).

SECTION 8

72. And a group of the people of the Book said, "believe in what was revealed to the believers in the morning and disbelieve it in later part (revealed in the evening); perchance they may turn back.

73. And do not believe in such a person except that he follows your religion. Please declare, "surely the guidance is only that which is the Guidance of Allah, so what has been given to you (guidance) is to be given to others or they may dispute it before your Rubb (Sustainer). Please declare, all bountiness is alone in the hands of Allah. He gives it to whom He Wills. Allah is All-Embracing, Knowing.

74. He with His Mercy exalts anybody He Wills. And Allah is the most Bountiful.

75. And among the people of the Book there is some one that if you trust him with a heap of gold he will restore it back to you, but there is somebody else among them that if you trust him with a 'Dinar' (two dollars) he will not return it back to you, except that you keep standing over his head. That is because they say, "there is no accountability on us being unlettered and they attribute falsehood to Allah, knowingly. 76. Yes! why not, whose fulfils his promise and

کرتے ہو؟ حالانکہ تم خود گواہ ہو (70)
اے کتابوں! حق میں باطل کیوں ملاتے ہو
اور حق کیوں چھپاتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر
ہے (71)

اور کتابیوں کا ایک گروہ بولا! وہ جو ایمان
والوں پر اترنا صبح کو اس پر ایمان لاؤ
اور شام کو منکر ہو جاؤ، شاید وہ پھر جائیں
(72)

اور یقین نہ لاؤ مگر اس کا جو تمہارے دین
کا جیرو (تابعدار) ہو، تم فرما دو! کہ اللہ ہی
کی ہدایت ہے (یقین کا ہے کہ نہ لاؤ)
اس کا کہ کسی کو ملے جیسا تمہیں ملا، یا
کوئی تم پر حجت لائے، تمہارے رب کے
پاس، تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے
ہاتھ ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت
والاعلم والا ہے (73)

اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے
اور اللہ بڑے فضل والا ہے (74)

اور کتابیوں میں کوئی وہ ہے کہ اگر تو اس
کے پاس ایک ڈیڑھ امانت رکھے، تو وہ تجھے
ادا کر دے گا، اور ان میں سے کوئی وہ ہے
کہ اگر ایک اشرفی اس کے پاس امانت
رکھے، تو وہ تجھے پھیر کر نہ دے گا، مگر
جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے، یہ
اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے
مصلحہ میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، اور
اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں
(75)

ہاں! کیوں نہیں، جس نے اپنا عہد پورا کیا

الدُّو وَأَنْتُمْ كُفَّهْرُونَ ۝
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْمِزُونَ النَّاسَ
بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ وَأَنْتُمْ
عَاذِلُونَ ۝

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
أَيُّوَابُ الَّذِي آتَىٰ عَلَىٰ الْيَدَيْنِ
أَمْثَلُ وَوَجْهَهُ الْكِبَارُ وَالْطُّورُ الْخَوْرُ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

وَلَا تَتَّبِعُوا إِلَّا مَن سَبَّحَ بِحَمْدِ اللَّهِ
قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَنْ
يُؤْتِي أَحَدًا مِّثْلَ مَا أُوتِيَهُمْ أَوْ
يُخَافُكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ
الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن
يُشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۝
اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنِ ان
تَأْتِيَهُ بِقِطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ ۝
وَمِنْهُمْ مَنِ ان تَأْتِيَهُ يَدِي تَارِدًا
يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ الْأَمَّا ذَمَّتْ عَلَيْهِ
فَأَيُّهَا ذَلِكْ يَا أَيُّهَا قَالُوا الْيَسْ
عَلَيْنَا فِي الْأَمْتِنِ سَبِيلٌ ۝ وَ
يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبُ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

بَلِي مَن آذَىٰ يَعْتَدِيهِ وَالْحَقِّي

becomes pious, surely Allah loves such pious ones.

77. And those who sell Allah's Promise and their oaths for a mean price they will not have any share in the hereafter. And Allah will not speak to them nor He will see them on the Day of Resurrection. And He will not purify them and they will have a painful punishment.

78. And among them there are some who twist their tongue to change the Book that you may think it a part of the Book and that is not in the Book but they say, "it is from Allah", whereas it is not (at all) from Allah and thus they speak falsehood against Allah, knowingly.

79. No human being has any right that Allah should give him the Book, the Command and the Nabooowa (Prophethood—the method of Communication of hidden news). And after that such one should say to the people, "be my devotees leaving Allah. But (he should say) be the devotees of Allah because you teach the Book and because you deliver instructions.

80. And he (such person) cannot command you to take Angels and Prophets as Rubb (Sustainers). Will he command you to disbelieve after you have become Muslims.

SECTION 9

81. And recall when Allah got promise from all the Prophets that the Book and the wisdom I bestow to you but then comes to you the Rasool (Messenger Muhammad) who confirms

اور پرہیزگاری کی اور بیگ پرہیزگار اللہ کو خوش (پسند) آتے ہیں (76)

وہ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، اور اللہ نہ ان سے بات کرے، نہ ان کی طرف نظر فرمائے قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے (77)

اور ان میں کچھ وہ ہیں جو زبان پھیر کر کتاب میں میل (لٹایا) کرتے ہیں، کہ تم سمجھو یہ بھی کتاب میں ہے، اور وہ کتاب میں نہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے، اور وہ اللہ کے پاس سے نہیں، اور اللہ پر دیدہ و دانستہ جھوٹ باندھتے ہیں (78)

کسی آدمی کا یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکم و پیغمبری دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، ہاں! یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ، اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس سے کہ تم درس کرتے ہو (79)

اور نہ ہمیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا ٹھہرا لو، کیا جسیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو لے؟ (80)

فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾
إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَأَخْلَاقٌ لَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُذَكِّرُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْسِنَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُمْ مِنَ الْكِتَابِ يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾
مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي وَمِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّكُمْ مُقَرَّبِينَ بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾
وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُتَّخَذَ الْوَالِدُ وَالضُّلَّةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾

وَأَيُّكُمْ يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾

اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے

وَأَيُّكُمْ يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾

what (the Book) you possess. You should definitely believe in him and definitely should help him. Then (Allah) said, "do you agree and take this as My firm Agreement as binding on you?" They said, "we agree." He (Allah) said, "then be witnesses and I am also with you among the witnesses."

82. Then whoso turns back after this he will be the disobedient.

83. Do they seek something else (other religion) than the religion of Allah, while whatever is in the heavens and the earth, willingly or unwillingly bows to His Will, and to Him they will return.

84. Please declare, "we believe in Allah and what has been revealed to us and what has been revealed to Ibraaheem (Abraham), and Ismail and Ishaq (Isac) and Yaqoob (Jacob), and their sons and whatever was revealed to Moosaa (Moses) and Eesa (Jesus) and the Prophets from their Rubb (Sustainer). We make no distinction among them, one over another in our belief, and to Him we submit as Muslims.

85. And whoso seeks any other religion except Islam it will never be accepted from him (her) and such person will be loser in the hereafter.

86. How shall Allah guide those who disbelieve after believing and bearing witness that the Rasool (Messenger) is true and clear proofs had come to them. And Allah does not guide the cruel nation.

تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی حد کرنا فرمایا: کیں تم نے اقرار کیا؟ اور اس پر میرا ہماری ذمہ لیا، سب نے عرض کی، ہم نے اقرار کیا فرمایا: تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں

(81)

تو جو کوئی اس کے بعد پھرے، تو وہی فاسق ہیں (82)

تو کیا اللہ کے دین کے سوا اور دین چاہتے ہیں؟ اور اسی کے حضور گردن رکھے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں، خوشی سے اور مجبوری سے، اور اسی کی طرف پھیریں گے (83)

یوں کہو، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف آتا، اور جو اترا ابراہیم اور اسمعیل اور اسحق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں پر، اور جو کچھ ملا موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء کو ان کے رب سے، ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے حضور گردن جھکائے ہیں (84)

اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نیاں کاروں (نقصان والوں) سے ہے (85)

کیونکہ اللہ ایسی قوم کی ہدایت چاہے جو ایمان لا کر کافر ہو گئے، اور گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے، اور انہیں کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا (86)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَدْ اَقْرَبَتْ سَاعَاتُكُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ فَاصْبِرُوْا لِحٰكْمِ رَبِّكُمْ ۗ اَقْرَبْ زَمٰنًا قَالُوْا فَاَشْهَدُوْا اَنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ اٰيٰتٌ مِّنْ الشَّاهِدِيْنَ ۙ

فَمَنْ تَوَلٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۙ

اَلَّذِيْنَ دِيْنٌ اِلٰهُ يَبْعَثُ ۙ وَلَئِنْ اَسْلَمْتُمْ فِيْ النَّهْلِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّالَّذِيْ يُوْجَعُونَ ۙ كُلٌّ اٰمَنًا بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلَ عَلَيْنَا وَمَا اَنْزَلَ عَلٰى اٰبِهٖمُوَالْمَعْوِيْلَ وَالسَّخٰى وَيَقْتُوْبَ وَالْاَسْبٰطَ وَمَا اَوْفٰى مُوسٰى وَعِيسٰى وَالتَّوْبٰىوْنَ مِنْ رَبِّهٖمْ لَا نَفِرُكَ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَكُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۙ

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ نَّقْبَلْ مِنْهٗ وَهُوَ مِنَ الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۙ

كَيْفَ يَهْدِيْ اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا اَبْعَدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۙ

87. Their retribution is curse from Allah and the Angels and the mankind, altogether.

88. (They) will remain there forever. Neither their punishment will be reduced nor they will be given any relief;

89. Except those who repent, thereafter, and became righteous. Surely Allah is Forgiving, Merciful.

90. Surely those who disbelieve after they believe, then become violent in their disbelief, their repentance will not be accepted and such are those who have gone wrong.

91. Surely those who disbelieved and die as disbelievers, even the earthly of gold will not be accepted from them, though they offer it as ransom for themselves. They shall have a painful punishment and they shall find no helpers.

PART 4

AALE-IMRAAN (Contd.)

SECTION 10

92. You will not attain virtue until you spend that which is very dear to you (to help needy). And whatever you spend is well known to Allah.

93. All food was Halal (lawful) to the children of Israael, except what Israel (Yaqaob-Jacob) had forbidden for himself before the revelation of Tourait (Torah). Please declare (O beloved Muhammad), "bring the Tourait (Torah) and recite it, if you are truthful.

94. Those who forge lie against Allah, even after that,

ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں کی سب کی (87)

ہمیشہ اس میں رہیں نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہیں مہلت دی جائے (88) مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور آیا (اپنی حفاظت کی) سنبھالا تو ضرور اللہ بخشنے والا مہربان ہے (89)

بے شک وہ جو ایمان لا کر کافر ہوئے پھر اور کفر میں ہوئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور وہی ہیں جنکے ہوئے (90)

وہ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مرے ان میں کسی سے زمین بھر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ اپنی غلامی کو دے ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی یار نہیں (91)

أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُمْ أَنْ عَلَّمَهُمْ
لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ ۝

خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَخْفَىٰ عَنْهُمْ
الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۝
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ
أَصْحَابُ التَّوْبَةِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ
أُزِدُوا الْكُفْرَ أَلَّنْ نَقْبَلُ تَوْبَهُمْ وَ
أُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ۝

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ مَا تَوَّأَوْهُمْ كُفَرُوا
فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مَقْدُ
الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا يُؤْتَدَىٰ بِهِ
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا
يُلَٰئِقُهُمْ مِنْ تَصَدِّقِينَ ۝

تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے (92)

سب کھانے بنی اسرائیل کو حلال تھے مگر وہ جو یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا تورات اتارنے سے پہلے تو فرماؤ! تورات لا کر پڑھو اگر سچے ہو (93)

تو اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا
مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

كُلِّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَٰلًا لِّبَنِي
إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ
عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنزَلَ
التَّوْرَةُ ۚ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ
فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

فَمَنْ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَلِبَ

(consulting true Torah), they are indeed the cruel.

95. Please declare (O beloved Prophet Muhammad), "Allah speaks the truth, so follow the religion of Ibraaheem (Abraham), straight-forward, and he was never among the idolaters.

96. Surely the first House (of worship) established for mankind is Ka'aba in Makkah, full of blessings and guidance for the universe.

97. Therein are clear Signs (of Allah), with the platform of Ibraaheem (Abraham) (to pray), and who enters it he is in peace. And the Hajj (Muslim pilgrimage) to this House is obligatory from Allah to the mankind who can afford an access to it. And if anybody disbelieves to do so Allah indeed is independent of all the creatures of the universe.

98. Please declare, "O people of the Book why do you disbelieve in the Verses of Allah when Allah is witness of what you do.

99. Please declare (O beloved Prophet), "O people of the Book why do you bar a believer from the way of Allah making him crooked and you yourself are witnesses to it. Allah is not unaware of what you do.

100. O believers, if you obey a party of those given the Book (Jews and Christians) they will turn you back as disbelievers after you believed.

101. And how would you deny faith when Allah's Verses are recited to you and His Rasool (Messenger

وہی ظالم ہیں (94)

تم فرماؤ! اللہ سچا ہے ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے اور شرک والوں میں نہ تھے (95)

پہلے سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا، وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا، اور سارے جہان کا راہنما (96)

اس میں کئی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کمرے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں آئے امان میں ہو، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، اور جو مسک ہو، تو اللہ سارے جہان سے بے پروا ہے (97)

تم فرماؤ! اے کتابیو! اللہ کی آیتیں کیوں نہیں مانتے؟ اور تمہارے کام اللہ کے سامنے ہیں (98)

تم فرماؤ! اے کتابیو! کیوں اللہ کی راہ سے روکتے ہو اسے جو ایمان لائے؟ اسے ٹیڑھا کیا چاہتے ہو، اور تم خود اس پر گواہ ہو اور اللہ تمہارے کو تکوں (بد اعمالیوں) سے بے خبر نہیں (99)

اے ایمان والو! اگر تم کچھ کتابیوں کے کہے پر چلے، تو وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر کر چھو، میں گے (100)

اور تم کیوں کر کفر کرو گے اور تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور تم میں اس

وَمَنْ يُعَدِّدْ ذَلِكَ فَاذْيُكِبْهُ هُمْ
الظَّالِمُونَ ﴿۹۴﴾

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ
ابْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ﴿۹۵﴾

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى
لِّلْعَالَمِينَ ﴿۹۶﴾

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا كَفَرَ
ابْرَاهِيمَ وَمَنْ وَّحَلَّهٖ كَانَ
أُومًا وَّوَلَّهُ عَلَى
النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
لِلَّهِ سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی
عَنْ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿۹۷﴾

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَدْ آتَاكُمُ
سُورَةُ عَلٰی
مَا تَعْمَلُونَ ﴿۹۸﴾

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصَدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَنْ
تَتَّبِعُونَهَا وَعِجَابًا أَنْتُمْ
شَاهِدُونَ ﴿۹۹﴾

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۰۰﴾
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَطِيْعُوْا
فَرِيْقَاتٍ مِّنَ الَّذِيْنَ اٰوْتُوْا
الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ
بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كُفْرًا ﴿۱۰۰﴾

وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ
عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلٌ

(Muhammad S.A.W.) is among you. And whoso holds a fast to Allah, he is guided to the straight path.

SECTION 11

102. O believers, be pious to Allah, as one should be pious to Him, and you must not die but as a Muslim.

103. And hold fast, altogether, the rope of Allah and never be divided and remember the Bounties of Allah upon you when you were enemies of each other and He joined your hearts in love that His Blessings made you brothers. And how you were on the brink of the pit of fire and He saved you from it. So Allah makes clear to you His Verses that you may be guided.

104. And there should be a group of people amongst you who should invite to all what is good and command what is right and forbid what is wrong. They are the ones who attain prosperity.

105. And be not like those who are divided among themselves and become indifferent after receiving clear Verses (of Allah). For them is a great punishment--

106. on that some faces shall be bright and other faces will be black. Those whose faces will be black (it will be said to them), "did you become disbelievers after becoming believers? Taste now the punishment of becoming disbelievers.

107. And those whose faces will be bright they will be in the Mercy of Allah dwelling therein forever.

کا رسول تشریف فرما ہے، اور جس نے اللہ کا سارا لیا، تو ضرور وہ سیدھی راہ دکھایا گیا (101)

۱۰۲۔ ایمان والو! اللہ سے ڈرو! جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان (102)

اور اللہ کی رسی مضبوط تمام لو سب مل کر اور آپس میں پھٹ (فروق میں بٹ) نہ جانا، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم میں بیز (دشمنی) تھا، اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا، تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے، اور تم ایک غبارِ دوزخ کے کنارے پر تھے، تو اس نے تمہیں اس سے بچا دیا، اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کسین تم ہدایت پاؤ (103)

اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں، اور اچھی بات کا حکم دیں، اور برائی سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے (104)

اور ان جیسے نہ ہونا جو آپس میں پھٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی، بعد اس کے کہ روشن نشانیاں انہیں آچکی تھیں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے (105)

جس دن کچھ منہ اونچالے (چمکتے) ہوں گے اور کچھ منہ کالے، تو وہ جن کے منہ کالے ہوئے، کیا تم ایمان لا کر کافر ہوئے؟ تو اب عذاب چکھو اپنے کفر کا بدلہ (106)

اور وہ جن کے منہ اونچالے (چمکتے) ہوئے وہ اللہ کی رحمت میں ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے (107)

وَمَنْ يَتَصَمَّرْ بِرِأْسِهِ فَقَدْ هَدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

وَأَعِزُّوا نَجْوَىٰ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرُقُوا ۚ وَأذْكُرُوا بِنِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ

مِنَ النَّارِ فَإِنَّكَ لَكُمْ فِيهَا نَذِيرٌ ۝ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝

وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

108. These are the Verses of Allah We recite to you with truth. And Allah does not desire any injustice to any one in the universe.

109. To Allah belongs whatever is in the earth and whatever is in the heavens. And to Allah all matters will be returned (for decision).

SECTION 12

110. You are the best Ummah (grand Muslim community) raised for the good of mankind. You enjoin what is right and forbid what is wrong and believe in Allah. Had the people of the Book (Jews and Christians) also believed, it would have been better for them. Some of them are the believers (Muslims) but most of them are perverted.

111. They will do you no harm except a little hurt. And if they come to fight with you they will turn their backs (run away). Then they will not be helped.

112. Disgrace has been imposed on them, where-ever they are. They will have no security except under an umbrella of protection from Allah and an umbrella of the protection of mankind. They have incurred the wrath of Allah and poverty has been imposed upon them. That is because they disbelieved the revelations of Allah and killed the Umbia (Prophets of Allah—the Communicators of hidden news) without right. This is because of their disobedience and transgression.

113. They are not all alike. There is an upright Ummah (grand community) among

یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم ٹھیک ٹھیک تم پر پڑھتے ہیں اور اللہ جان والوں پر ظلم نہیں چاہتا (108)

اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے (109)

تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا، ان میں کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ کافر (110)

وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے مگر یہی ستانا اور اگر تم سے لڑیں، تو تمہارے سامنے سے پینہ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد نہ ہو گی (111)

ان پر بجا (ذال) دی گئی خوارگی جہاں ہوں ایمان نہ پائیں مگر اللہ کی ڈر اور آدمیوں کی ڈر سے اور غضب الہی کے سزاوار ہوئے اور ان پر بجا دی گئی محتاجی، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے، یہ اس لیے کہ نافرمانیہ دار اور سرکش تھے (112)

سب ایک سے نہیں کتابوں میں، کچھ وہ ہیں کہ حق پر قائم ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں رات کی گھڑیوں میں اور سجدہ کرتے ہیں (113)

اللہ اور بچھے دن پر ایمان لاتے ہیں اور

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالنُّزُولِ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٨﴾
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١٠٩﴾

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَذُووْهُنَّ بِاللَّهِ وَكُلُوا مِمَّا أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَكَانَ اللَّهُ أَكْثَرُهُمُ فَسِيقُونَ ﴿١١٠﴾

لَنْ يَضُرَّكُمْ إِلَّا أذىً وَإِنْ يَهَابُوا لَكُمْ فَيُؤْذِكُمْ إِلَّا ذُبَابًا مِّنْهُمُ لَا يُضُرُّونَ ﴿١١١﴾

ظَهَرَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ الْيَوْمَ مَا تَفْعَلُونَ إِلَّا الْيَحْيَىٰ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءَ وَيَغْضَبُ مِنَ اللَّهِ وَظَهَرَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

كُنْتُمْ أَشْوَآءَ مِمَّنْ أَهْلَ الْكِتَابِ اللَّهُ قَائِمَةٌ تَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾
يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ

the people of the Book who recite the Verses of Allah during parts of the night and they prostrate themselves (in devotion).

114. They believe in Allah and the Last Day and they enjoin what is right and prohibit from what is wrong and hasten forward for the noble tasks. And these people are the righteous.

115. And those who do the good will not be deprived of their rights. And Allah knows those who are pious.

116. And those who disbelieve neither their wealth nor their children will avail anything to them against Allah. They will be the companions of fire to remain therein forever.

117. What they spend in the life of this world is like a wind which brings an icy frost bitterly cold. It strikes and destroys their harvests as they are the nation of cruels who commit wrongs. It is not Allah Who is cruel to them but they are cruel to themselves.

118. O believers, do not make strangers your intimate confidants. They do every thing to corrupt you with their evils. They aspire to put you to troubles. Their hatred is apparent from their facial appearances. And what their hearts conceal is more worse. We have made clear revelations for you if you understand.

119. (Do you listen) it is you who love them but they do not love you. You believe in all the Books. And when they meet you they say, "we also believe." But when they are

بھلائی کا حکم اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں پر دوڑتے ہیں اور یہ لوگ لائق ہیں (114)

پور وہ جو بھلائی کریں ان کا حق نہ مارا جائے گا اور اللہ کو معلوم ہیں ڈروالے (115)

وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور اولاد ان کو اللہ سے کچھ نہ بچائیں گے اور وہ جنسی ہیں، بلکہ کو ہمیشہ اس میں رہنا (116)

کماوت (مثال) اس کی جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، وہ ایک ایسی قوم کی کہیں پر پڑی جو اپنا ہی برا کرتے تھے، تو اسے بالکل مار (تباہ کر گئی) اور اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا ہاں! وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں (117)

اے ایمان والو! غیروں کو اپنا راز دار نہ بناؤ وہ تمہاری برائی کی (کی) نہیں کرتے، ان کی آرزو ہے جتنی ایذا تمہیں پہنچے، یہ ان باتوں سے جھک اٹھا اور وہ جو سنے میں چھپائے ہیں اور بڑا ہے، ہم نے نشانیاں تمہیں کھول کر سنا دیں، اگر تمہیں عقل ہو (118)

سننے ہو یہ جو تم ہو، تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں نہیں چاہتے، اور حال یہ کہ تم سب کتابوں پر ایمان لاتے ہو اور وہ جب تم سے ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایمان

يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

وَمَا يَنْفَعُ لَهُمْ خَيْرٌ لِّئَلَّا يُكْفَرُوا
وَأَللَّهُ عَلَيْهِمُ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّا تَعْلَمَهُمْ
أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ
شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَاعٌ
أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا
أَنْفُسَهُمْ فَهَلْكَتُمْ وَمَا ظَلَمْتُمْ
اللَّهَ وَلَكِنْ أَنْفُسَكُمْ يُظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
بِطَانَةَ مَنْ دُونَكُمْ أَلَا يَأْتِيكُمْ
خَبْرًا دُونََ مَا نَعْنِئَكُمْ قَدْ بَدَتِ
الْبَعْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ
وَمَا تَحْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ
قَدْ بَدَتِ أَلْسِنَتُهُمْ لَأَن يَكْتُمُوا
تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

هَآئِنَّمَا أَوْلَادُكُمْ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا
يُحِبُّونَكُمْ وَتُمْ مُمَّنُونَ بِأَلِكُتَابِ
كَلِمَةً وَإِذَا الْقَوْمُ فَالِقُوا أَمْنًا وَ

alone they bite their own fingers against you in rage. You declare, "perish in your rage." Allah Knows well all the secrets of the hearts.

120. If some fortune is bestowed to you it grieves them but if some misfortune overtakes you they rejoice on it. But if you are steadfast and pious their such cunningness will not do any harm to you. Surely Allah surrounds whatever they do.

SECTION 13

121. And remember (O beloved Prophet Muhammad) that morning when you came out of your residence at dawn to assign the positions to the believers (Muslims) at their posts in the battle. And Allah Hears and Knows all things.

122. When your two groups were about to lose heart Allah was their supporter (to shun their such cowardice). And the believers (Muslims) should put their full trust in Allah.

123. And (definitely) Allah helped you at Badr (War), when you were resourceless. So be pious to Allah that you may become grateful.

124. (O beloved) when you said to the believers (Muslims), "was it not enough for you that Allah should help you with reinforcement by three thousand swooping Angels.

125. Yes why not if you remain steadfast and become pious, and they (disbelievers) instantly pounce upon you, your Rubb (Sustainer) will help you with reinforcement of five thousand Angels swooping down (with a vehement) onslaught.

لائے' اور اکیس ہوں تو تم پر اٹھیں چاہیں غصہ سے' تم فرما دو! کہ مر جاؤ! اپنی ٹخنوں میں' اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی بات (119)

تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بُرا لگے' اور تم کو برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوں' اور اگر تم مہربان اور پرہیزگاری کیے رہو تو ان کا دواؤں (قریب) تمہارا کچھ نہ پکاڑے گا' بیشک ان کے سب کام خدا کے گھیرے میں ہیں (120)

اور یاد کرو! اے محبوب! جب تم صبح کو اپنے دولت خانہ سے برآمد ہوئے' مسلمانوں کو لڑائی کے موقعوں پر قائم کرتے' اور اللہ سنتا جانتا ہے (121)

جب تم میں کے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں' اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے' اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے (122)

اور بیشک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سرور سامان تھے' تو اللہ سے ڈرو' کیسے تم شکر گزار ہو (123)

جب اے محبوب! تم مسلمانوں سے فرماتے تھے' کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے تین ہزار فرشتے اتار کر (124)

ہاں! کیوں نہیں! اگر تم مہربان تقویٰ کرو' اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں' تو تمہارا رب تمہاری مدد کو پانچ ہزار فرشتے نشان والے بھیجے گا (125)

وَإِذْ أَخَذُوا عَصَاكُمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ
وَمِنَ الْعِظَامِ قُلُوبًا لَّا يَفْقَهُوْنَ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾
إِنْ تَسْتَكْبِرُوا فَسَاءَ نُكُوتُكُمْ
وَإِنْ تَتُوبُوا فَإِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ الرَّحِيمُ
يَكْتُبُ لَكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَمَا يَذُرُّكُمْ
بِمَا كُنتُمْ تُصِيبُونَ إِنَّ اللَّهَ بِمَا
فَعَلْتُمْ لَظِيمٌ ﴿١٢٠﴾

وَإِذْ عَدَّدْتَ مِنَ الْأَهْلِيَّةِ تَبَوَّئِي
الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْقِتَالِ وَ
اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾

إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتٌ مِّنْكُمْ أَن
تَفْشَلُوا وَاللَّهُ وَلِيٌّ لِّلْمُؤْمِنِينَ
وَاللَّهُ فَالِقَ الْبُحُورِ ﴿١٢٢﴾
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ
أَذِلَّةٌ فَأَقْبَرَكُمُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾

إِذْ تَقُولُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ لَنَا
أَنْ يَمْدُدْكَ رَبُّكَ يُثَبِّتُ لَكَ
الْقَبْضَ مِنَ الْمَلَكِ مَدْرَيْنِ ﴿١٢٤﴾
بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَ

يَأْتِيَكُم مِّنْ فَزَعِنَا هَذَا يَمْدُدْكُمْ
رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ
لِيَهْلِكَ الْمُشْرِكُونَ ﴿١٢٥﴾

[ONE FOURTH OF PART 4 ENDS]

126. And this (conquest) was made a cheerful news for you by Allah that your hearts may be satisfied. There is no help except from Allah Who is the most Dominant, the most Wise;

127. that He may cut off a part of the disbelievers or overpower them that they should turn back frustrated (in their designs).

128. You have no concern in this matter, whether He forgives them or punishes them, because they are indeed the cruels (disobey you).

129. Whatever is in the heavens and whatever is in the earth belongs to Allah. He forgives whom He Wills and He Punishes whom He Wills. And Allah is Forgiving, Merciful.

SECTION 14

130. O believers! do not devour interest (usury) by double and multiples and be pious to Allah that you may prosper.

131. And be pious to get saved from the fire which is made ready for the disbelievers.

132. And obey Allah and the Rasool (Messenger Muhammad S.A.W.) that you may be bestowed mercy.

133. And make haste to get the forgiveness of your Rubb (Sustainer) and for the Paradise with a width of heavens and earth. It is ready to receive the pious ones;

134. who spend money in the way of Allah in their prosperity or adversity and

اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے، اور اسی لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس سے (126)

اس لیے کہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل کرے، کہ نامراد بچر جائیں (127)

یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں، یا انہیں توبہ کی توفیق دے، یا ان پر عذاب کرے، کہ وہ ظالم ہیں (128)

اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشے والا مہربان (129)

اے ایمان والو! سود دونا دون نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں ظلاح ملے (130)

اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے (131)

اور اللہ و رسول کے فریادہ دار رہو، اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ (132)

اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی میں سب آسمان و زمین آجائیں، پر ہیرو گاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے (133)

وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں، اور غصہ پینے والے اور

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ۗ وَالنَّاصِرَ الْأَيْمَنَ عِنْدَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴿١٢٧﴾

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٩﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينِ الْغَيْظِ

restrain in anger and pardon the mankind. And Allah loves those who are generous. 135. And such people who do an indecency (shameful act) or commit some wrong for themselves they remember Allah and pray for forgiveness of their sins. And who can forgive sins of anyone except Allah? And they should not persist in their wrong deeds.

136. The reward of such ones will be forgiveness from their Rubb (Sustainer) and Paradise under which streams flow wherein they will remain for ever as a bountiful reward of those who work.

137. Many civilizations have passed away before you. Travel through the earth and see the end of those who indulged in falsehood.

138. This is a plain statement about the mankind, a guidance and instruction to those who are the pious.

139. And do not be lazy and never be grieved. You will be the dominant, if you are the believers.

140. If you are injured then similar injury has been received by them also. These are the days which We (Allah) change in turn among the mankind that Allah may make known to those who believe and that He may take witnesses from your ranks. And Allah does not love the cruels.

141. And that Allah may purify the believers and wipe out the disbelievers.

142. Do you think that you will enter the Paradise and it

لوگوں سے درگزر کرنے والے اور ایک لوگ اللہ کے محبوب ہیں (134)

اور وہ کہ جب کوئی بے حیالی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور گناہ کون بخشنے سوا اللہ کے اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں (135)

ایسوں کو بدلا ان کے رب کی بخشش، اور جنتیں ہیں، جن کے نیچے سرس روان، بیش ان سرور ہیں، اور کامیوں کا کیا اچھا نیک (136) ہے

تم سے پہلے کچھ طریقے برتاؤ میں آچکے ہیں، تو زمین میں چل کر دیکھو! کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا؟ (137)

یہ لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا اور پرہیزگاروں کو نصیحت ہے (138)

اور نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ، تمہیں غالب آئے، اگر ایمان رکھتے ہو (139)

اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو وہ لوگ بھی کسی ہی تکلیف پا چکے ہیں، اور یہ دن ہیں جن میں ہم نے لوگوں کے لیے باریاں رکھی ہیں، اور اس لیے کہ اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے، اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو (140)

اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کا نکھار کر دے، اور کافروں کو مٹا دے (141)

کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ

وَالْعَاقِبِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٥﴾

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ لَعَلَّ يُصْهِرَهُ عَلَىٰ مَآعَلِنَا وَأَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٦﴾

أُولَٰئِكَ جَزَاءُ مَا كَفَرُوا بِمَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّتْ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وَفَعَلُوا جَزَاءَ الْعَمِلِينَ ﴿١٣٧﴾

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ، فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴿١٣٨﴾ هَٰذَا آيَاتُ النَّاسِ وَهُدًى وَ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٩﴾

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٤٠﴾

إِن يُسْأَلْكُمْ قَوْمٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُكَ وَلَٰئِكَ الْآيَاتُ لِنَدَائِهِمْ إِنَّا لَنَكْتُبُ لَكُمْ شَهَادَاتٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤١﴾

وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴿١٤٢﴾

أَفَرِحْتُمْ بِأَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ

will be without the knowledge of Allah. But He knows such people from you who fought hard in Jihaad (war for truth) and remained steadfast.

143. And certainly you longed for death before you met it. Now you have certainly seen it and that with your own eyes.

SECTION 15

144. And Muhammad (S.A.W — Sallallahu Alyhe Wassallam — Allah's Blessings and Salutations on him) is but a Rasool (Messenger of Allah). Like him there were other Rasool (Messengers). If he dies or he is martyred will you turn back on your heels? And whose turns back on his heel will not harm Allah to any extent. Allah will soon reward the thankfuls.

145. No self can die without the Command of Allah at a term appointed. And whose desires the reward of this world We (Allah) bestow him thereof. And whose desires the reward of hereafter We (Allah) shall bestow him thereof. And We (Allah) shall reward the grateful.

146. And how many Umbia (Allah's Prophets) have been fighting (Jehad) who were accompanied by many devotees of Rubb (Sustainer). They did not become lazy from any of the disaster which they had to face in the way of Allah and they also did not show any weakness of giving-in. And Allah loves the steadfast.

147. And they uttered not more than this prayer, "O our Rubb (Sustainer) forgive our sins and anything we have done in excess in our matters and make us steadfast and

کے، اور ابھی اللہ نے تمہارے عزیزوں کا استحسان نہ لیا، اور نہ مہربانوں کی آزمائش کی (142)

اور تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس کے نلے سے پہلے تو اب وہ تمہیں نظر آئی آتھوں کے سامنے (143)

اور محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں، تو تم اٹلے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو اٹلے پاؤں پھرے گا، اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور عقربت اللہ شکر والوں کو صلہ دے گا (144)

اور کوئی جان بے حکم خدا مر نہیں سکتی سب کا وقت لکھا رکھا ہے، اور جو دنیا کا انعام چاہے ہم اس میں سے اسے دیں، اور جو آخرت کا انعام چاہے ہم اس میں سے اسے دیں، اور قربت ہے کہ ہم شکر والوں کو صلہ عطا کریں (145)

اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت خدا والے تھے، تو نہ سست پڑے ان معیتوں سے جو اللہ کی راہ میں آئیں پیچھے، اور نہ کمزور ہوئے اور نہ دے، اور مہربانوں کو اللہ کو محبوب ہیں (146)

اور وہ کچھ بھی نہ کہتے تھے سوا اس دعا کے کہ اے ہمارے رب! بخش دے ہمارے گناہ، اور جو زیادتیاں ہم نے اپنے کام میں کیں، اور ہمارے قدم جما دے، اور

وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ الضَّالِّينَ ﴿١٤٣﴾

وَلَقَدْ نُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَجَاءَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿١٤٤﴾

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَلَا يَنْفَكُتْ أَوْ قَبِلَ أَنْفَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يَنْفَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَذَنَّ يَضْرِبْهُ اللَّهُ سَيِّئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَلَّةً وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَيَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِضِيُونَ كَثِيرٌ مِمَّا وَهَنُوا بِمَا أُصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الضَّالِّينَ ﴿١٤٦﴾

وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَالضَّرَّكَ

help us against the disbelievers".

148. So Allah gave them a reward in this world and the excellent reward of the hereafter. Allah keeps dear those who are generous.

SECTION 16

149. O believers if you follow the line of the disbelievers they will drive you back on your heels and you will become losers.

150. Allah is your Protector and he is the best Helper.

151. Soon I (Allah) shall infuse frightening awe into the hearts of the disbelievers that they made somebody else as partner with Allah for which He had not given them any authority. And they will dwell in the hell, which is worst dwelling place for those who indulge in cruel acts.

152. And surely Allah fulfilled His promise to you when you routed the enemy with His permission until you indulged in cowardice and disputed the Command and committed disobedience after He had shown you what you loved. Some of you desired this world and some of you desired the Hereafter. Therefore, He made you free from them that he might try you. Then He pardoned you (in what you indulged) and Allah is Bountiful to the believers (Muslims).

153. When you went up (the hill) and did not look back anyone though the Rasool (Messenger of Allah) was calling you back from your rear (in Uhud war). Therefore, He gave you grief after grief that you might have no sorrow for (the

ہمیں ان کافروں پر مدد سے (147)
تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام دیا اور
آخرت کے ثواب کی خوبی اور نیکی والے
اللہ کو پیار سے ہیں (148)

اے ایمان والو! اگر تم کافروں کے کپے پر
چلے تو وہ تمہیں اگلے پاؤں لوٹا دیں گے،
پھر لوٹا کھا کے پلٹ جاوے گا (149)

بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، وہ سب سے بہتر
مددگار (150)

کوئی دم جاتا ہے کہ ہم کافروں کے دلوں
میں رعب ڈالیں گے، کہ انہوں نے اللہ
کا شریک ٹھہرایا جس پر اس نے کوئی سمجھ
نہ آئی، اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے، اور
کیا برا ٹھکانا بالظالموں کا (151)

اور بیک اللہ نے تمہیں جگ دکھایا اپنا
وعدہ، جبکہ تم اس کے حکم سے کافروں کو
قتل کرتے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے
بزدلی کی اور حکم میں جھگڑا ڈالا اور غامضی
کی، بعد اس کے کہ اللہ تمہیں دکھا چکا
تمہاری خوشی کی بات، تم میں کوئی رہنا چاہتا
تھا، اور تم میں کوئی آخرت چاہتا تھا، پھر
تمہارا منہ ان سے پھیر دیا کہ تمہیں
آزمائے، اور بیک اس نے تمہیں حاف
کر دیا، اور اللہ مسلمانوں پر فضل کرتا ہے
(152)

جب تم منہ اٹھائے چلے جاتے تھے اور پیٹھ
پھیر کر کسی کو نہ دیکھتے، اور دوسری
جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار
رہے تھے، تو تمہیں غم کا بدلا غم دیا، اور
مخانی اس لیے سنائی کہ جو ہاتھ سے گیا،
اور جو اٹھاؤ پڑی اس کا رنج نہ کرو، اور

عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٤٩﴾
فَاتَّخَذَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَ
حَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ دُونَ ذَلِكَ
مُحِبِّبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٥٠﴾

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَطِيعُوا
الَّذِينَ كَفَرُوا أَيْرُدُّوكُمْ عَلَى
أَعْقَابِكُمْ فَتَقْبَلُوكُمُ الْخَسِرِينَ ﴿١٥١﴾
بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ
الْمَوْلَىِٰينَ ﴿١٥٢﴾

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا
الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَهُمْ
يُكْرَهُ لَهُمْ سُلْطَانًا وَمَا بِهِمُ النَّارُ
وَيَبْسُ سُنُوقِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٣﴾

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ
اتَّخَذْتُمُوهَا ذُنُوبَكُمْ حَرَامًا إِذَا
فَسَدْتُمْ وَمَتَّأْتُمْ فِي الْأُمُورِ
عَصَيْتُمْ قَوْلَ بَعْدِ مَا أَرْسَلَكُمْ
مُنَادِيًا مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا
وَوَنِمْتُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ تَكُونُ
صَرَفَكُمُ عَنْهُمْ لَيْسَتْ بِتَبِيبِكُمْ
وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ دُونَ ذَلِكَ
فَضَّلَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٤﴾

إِذْ تَضَعُونَ وَكَلَّا تَلُونَ عَلَى
أَحِبِّوَا الرَّسُولَ يَدْعُوكُمْ فِي
الْمَضْجِعِ فَأَنَابَكُمْ عَنْهُ بَعِيرٌ
لَكُمْ لِيَلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ
وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا

booty) that you gained and that you expected. Allah is well aware of what you do.

154. After the distress He bestowed down to you sleep of calmness overcoming a group of you while another group was anxious by their own suspicious feelings about Allah without truth and by mere misconception due to ignorance. They asked, "had we any power in the management of this affair". Please declare, "the governance of this affair is fully in hands of Allah. They hide in their hearts what they dare not reveal to you". They say, "If we had anything to do with management of this affair we would not have been killed here." Please declare, "even if you had remained in your homes those for whom death was prescribed would certainly have gone forth at the place of their death. Allah wanted to test you what was in your breasts and what was in your hearts. Allah knows well the secrets of the hearts.

155. Surely those of you who turned their back on the day when two forces met each other, it was the satan (devil) who caused them to slip because of the evil they had done. But Allah has pardoned them. Surely Allah is Forgiving, Forbearing.

SECTION 17

156. O believers, be not like the disbelievers who say of their brothers, who travelled through the earth or went out for the battle, "if they had been with us they would not have died nor would have been killed, that Allah may

اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے (153)

پھر تم پر غم کے بعد جین کی نیند اتاری کہ تمہاری ایک جماعت کو گھیرے تھی اور ایک گروہ کو اپنی جان کی پڑی تھی اللہ پر بے جا گمان کرتے تھے جاہلیت کے سے گمان کئے، کیا اس کام میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے؟ تم فرما دو! کہ اختیار تو سارا اللہ کا ہے، اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے، کہتے ہیں ہمارا کچھ بس ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے، تم فرما دو! کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا اپنی قتل گاہوں تک نکل کر آتے، اور اس لیے کہ اللہ تمہارے سینوں کی بات آدماغے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے کھول دے، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے (154)

بیکہ وہ جو تم میں سے پھر گئے جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں، انہیں شیطان ہی نے لغزش دی ان کے بعض اعمال کے باعث، اور بیکہ اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، بیکہ اللہ بخشنے والا علم والا ہے (155)

تَعْمَلُونَ ﴿۱۵۳﴾

تَمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَنَمِ لَمَنَةً نُّعَاسًا أَغْتَثَى طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهْتَتُمْ أَنْفُسُهُمْ يَطْمَئِنُّ بِاللَّهِ عَنَدَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةُ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قَاتَلْنَا هَهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بَيِّنَةٍ لَمَا كُنْتُمْ كَاتِبِينَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ

الصُّدُورِ ﴿۱۵۴﴾

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يُوَفِّرُ التَّقَى الْجَمْعُ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۵۵﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا الْإِحْوَانُ بَيْنَهُمْ إِذَا حُرِبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا خُرَىٰ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا كَانُوا تَوَّابًا وَمَا قَاتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكُ

make it cause of regret in their hearts. And Allah gives life and death. And Allah sees well, what you do?

157. And what if you are slain in the cause of Allah or you die? Surely Allah's Pardon and Mercy are better than all you collect.

158. And if you die or are slain, you will be gathered together before Allah.

159. (O beloved) it is by the Mercy of Allah that you (Muhammad S.A.W.) are so gentle to them. Had you been severe or hard hearted to them they would have deserted you. Forgive them and pray for their pardon and counsel them in the conduct of affairs. When you take decision put your trust in Allah. Surely Allah loves those who put (in Him) their trust.

160. If Allah helps you then none can overcome you. And if he leaves you then after this who is there to help you? And the believers (Muslims) should always trust in Allah alone.

161. It never can be that any Nabi (Prophet of Allah) conceals anything (from mankind). But whoso conceals anything he, on the Day of Resurrection, will bring it to light. Then every one shall be paid in full what it earned. And no cruelty will be committed to anyone.

162. Is he who follows the pleasure of Allah like that one who has earned the wrath of Allah and whose abode is the hell! And what a worst place is that to return.

اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں میں اس کا الموس رکھے، اور اللہ جلاتا اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے (156)

اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ، تو اللہ کی بخشش اور رحمت ان کے سارے دامن دولت سے بہتر ہے (157)

اور اگر تم مرو یا مارے جاؤ، تو اللہ کی طرف اٹھنا ہے (158)

تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے، کہ اسے محبوب! تم ان کے لیے نرم دل ہوتے، اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے، تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے، تو تم انہیں معاف فرماؤ، اور ان کی شفاعت کرو، اور کاموں میں ان سے مشورہ لو، اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو، تو اللہ پر بھروسا کرو، بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں (159)

اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، تو ایسا کون ہے جو پھر تمہاری مدد کرے؟ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسا چاہیے (160)

اور کسی نبی پر یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ چھپا رکھے، اور جو چھپا رکھے، وہ قیامت کے دن اپنی چھپائی چیز لے کر آئے گا، اور پھر ہر جان کو ان کی کمائی بھر پور دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہ ہو گا (161)

تو کیا جو اللہ کی مرضی پر چلا، وہ اس جیسا ہو گا جس نے اللہ کا غضب اوڑھا، اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے، اور کیا بری جگہ پلٹنے کی (162)

صَبْرًا فِي كَلْبِهِمْ وَاللَّهُ يَحْيِي مَوْتًا وَاللَّهُ يَمَّا تَقْمَلُونَ ﴿١٥٦﴾

لَكِن قَاتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَاتُمْ لَكُمْ عُقُوبَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ مِّنْهُ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٥٧﴾

وَلَكِن لَّمَّا تَوَلَّيْتُمْ لَوْلَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ لَمَنْعْتُمْ مِّنْهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٨﴾

لَهُمَا عِصْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لَوْلَا نَدْتُمْ لَهُمْ وَلَا وَكُنْتُمْ لَفْظًا عَنِ ظَنِّ الْقَلْبِ لَا تَقْضُوا مِنْ حَوْلِكُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

إِنْ يَتَّبِعْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَتَّخِذْكُمْ كُفْرًا فَذَلِكَ حَالُ الَّذِي يَتَّبِعْكُمْ فَغَضِبُوا عَلَى اللَّهِ فَاذْكُرُوا لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٠﴾

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغْلِبَ وَوَسُنَّ يُغْلَبُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تَوَلَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

أَفَمَنْ أَتَّبِعْ رِضْوَانِ اللَّهِ كَمَنْ بَاتَّ بِسَخَطِ اللَّهِ وَمَا أَوْدَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦٢﴾

163. They will be in different grades with Allah. And Allah Sees their deeds.

164. Surely Allah has conferred favour on the believers that He sent a Rasool (Messenger of Allah) from amongst them who recites to them His Verses and purifies them and teaches them the Book and the wisdom. And previous to that they were clearly in error.

[HALF OF PART 4 ENDS]

165. What if some trouble befalls on you that you (Muslims) have twice inflicted on them (disbelievers). You began to say, "where from it comes"? Please declare, "it is from yourself." Surely Allah is Powerful over everything.

166. And what suffered you on the day when two armies encountered with the command of Allah and this was that He should distinguish the believers;

167. and that He should also distinguish the hypocrites who were told, "come and fight in the way of Allah or defend yourselves." They said, "had we known how to fight we would have aided you." They were nearer to disbelief than belief on that day saying from their mouths what was not in their hearts. Allah knows what they hide.

168. Those who said about their brothers, themselves sitting behind, "had they obeyed us they would not have been killed. Please declare, "avert your own death if you are truthful."

169. Do not think about those, who are martyred in the way of Allah, as dead

وہ اللہ کے یہاں درجہ درجہ ہیں اور اللہ ان کے کام دیکھتا ہے (163)

بیشک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، اور انہیں پاک کرتا ہے، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کلی گمراہی میں تھے (164)

کیا جب ہمیں کوئی مصیبت پہنچے کہ اس سے دوئی تم پہنچا چکے ہو، تو کہنے لگو: کہ یہ کہاں سے آئی؟ تم فرما دو! کہ وہ تمہاری ہی طرف سے آئی، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے (165)

اور وہ مصیبت جو تم پر آئی جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں، وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے کہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی (166)

اور اس لیے کہ پہچان کرا دے ان کی جو منافق ہوئے، اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو! دشمن کو ہٹاؤ، بولے! اگر ہم لڑائی ہوتی جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے، وہ اس دن ظاہری ایمان کی بہ نسبت کلمے کفر سے زیادہ قریب ہیں، اپنے منہ سے کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں، اور اللہ کو معلوم ہے جو چھپا رہے ہیں (167)

وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، اور آپ بیٹھ رہے، کہ وہ ہمارا کما مانتے تو نہ مارے جاتے، تم فرما دو! تو اپنی ہی سوت ٹال دو! اگر سچے ہو (168)

اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، ہرگز

ہم درجت عند اللہ و اللہ

بصیرت بما یعملون ﴿۱۶۳﴾

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ

أَنْفُسِهِمْ لِيُأْوِئَهُمْ إِلَىٰ

أَيْدِيهِمْ وَيُخْرِجَهُمُ مِنَ الْكُفْرِ

وَالْحِكْمَةِ وَإِنَّ كَانُوا مِن قَبْلُ

لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۱۶۴﴾

أَوَلَمْ أَصَابَكُم مَّصِيبَةٌ قَدْ

أَصَابَتْكُمْ مُّطْرِبًا قُلْتُمْ أَنَا هِيَ

أَفَلَمْ نَكُفِّرْكُمْ عَنْ

أَفْسَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۶۵﴾

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ

فِي آيَاتِنَا اللَّهُ لِيُخَلِّقَ مَا يَشَاءُ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴿۱۶۶﴾

لَهُمْ تَعَالَىٰ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

أَوَْادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قَاتِلًا

لَا اتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَافِرِينَ مَدِينٌ

أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ

بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿۱۶۷﴾

أَلَّذِينَ قَالُوا الْإِحْوَانُ هُمْ وَ

قَعَدُوا وَالْوَاطِعُونَ مَا قَاتَلُوا

قُلْ قَاتِلُوا عَن أَنْفُسِكُمْ الْيَوْمَ

إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۶۸﴾

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي

They are alive with their Rubb (Sustainer) Who gives them provisions.

170. They rejoice with the bounties provided to them by Allah and they are jubilant with regard to their successors, who have not joined them so far. That there will be no fear upon them nor they will be grieved.

171. They rejoice with what has been bestowed to them of the Bounties of Allah. And Allah does not waste the wage of the believers.

SECTION 18

172. Those who responded to the call of Allah, and the Rasool (Messenger of Allah), after being wounded, will get a great reward for being righteous and remaining pious.

173. Those to whom mankind said, "people have assembled against you, therefore, be frightened from them. But their faith increased and they said, "for us Allah is Sufficient as an Excellent Guardian.

174. So they returned with Blessings and Bounty of Allah, no evil touching them, they followed the Pleasure of Allah. And Allah is highly Bountiful.

175. It is only the Satan (devil) who frightens you from the fear of his own friends but do not be fearful of them. Fear Me, if you are believers.

176. And (O beloved) you should not be grieved for

انہیں مرہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں' روزی پاتے ہیں (169) شاد ہیں' اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے' اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے بچھوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے' کہ ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے' اور نہ کچھ غم (170)

خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی' اور یہ کہ اللہ ضائع نہیں کرتا اجر مسلمانوں کا (171)

وہ جو اللہ و رسول کے بلائے پر حاضر ہوئے بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا' ان کے کمو کاروں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے (172)

وہ جن سے لوگوں نے کہا' کہ لوگوں نے تمہارے لیے جتھا جوڑا' تو ان سے ڈرو' تو ان کا ایمان اور زائد ہوا' اور بولے! اللہ ہم کو بس' ہے اور کیا اچھا کارساز (173)

تو پلے اللہ کے احسان اور فضل سے کہ انہیں کوئی برائی نہ پہنچی' اور اللہ کی خوشی پر چلے' اور اللہ بڑا فضل والا ہے (174)

وہ تو شیطان ہی ہے کہ اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے' تو ان سے نہ ڈرو' اور مجھ سے ڈرو' اگر ایمان رکھتے ہو (175)

اور اے محبوب! ان کا کچھ غم نہ کرو جو

سنبیل اللہ اَفَوَاثَابُ بَلْ اَحْيَاہُمْ
وَعَلَا رِقَبہُمْ یُرَدُّ قَوْنٌ ۝۱۶۹

فَرِحَیْنِ بِمَا اَنْتَہُمْ اللہُ وَمِنْ
فَضْلِہٖ وَکَسَبَتْشُرُوْنَ بِالْکَوْنِ
لَمْ یُحَقِّقْ اِیْہُمْ مِّنْ خَلْفِہُمْ
الْاَخْرَافِ عَلَیْہُمْ وَلَا ہُمْ
یَحْزَنُوْنَ ۝۱۷۰

یَسْتَبِشِرُوْنَ بِنِعْمَۃِ مِّنْ اللّٰہِ
وَفَضْلِہٖ وَاَنَّ اللّٰہَ لَا یُضِیْعُ
اَجْرَ الْمُؤْمِنِیْنَ ۝۱۷۱

الَّذِیْنَ اسْتَجَابُوا لِلّٰہِ وَالرَّسُوْلِ
مِنْۢ بَعْدِ مَا اَصَابَہُمْ الْقَرْحُ
الَّذِیْنَ اَصْتَوٰوْا مِنْہُمْ وَاَتَقَوْا
اَجْرَ عَظِیْمٍ ۝۱۷۲

الَّذِیْنَ قَالَ لَہُمْ النَّاسُ اِنَّا
النَّاسُ قَدْ جَمَعُوْا اِلَیْکُمْ
فَاخْشَوْہُمْ فَزَادَہُمْ اِیْمَانًا
وَقَالُوا اللّٰہُ اَحْسَبُنَا اللّٰہُ وَرِغْمَ
الْوَکِیْلِ ۝۱۷۳

فَاَنْقَضُوْا بِنِعْمَۃِ مِّنْ اللّٰہِ وَ
فَضْلِہٖ لَمْ یَسْسِہُمْ سُوْءًا وَّوَلَّوْا
اَبْغَاوِیْرًا وَاَوْلَیَا اللّٰہُ وَالدُّوْ
فَضْلِ عَظِیْمٍ ۝۱۷۴

اِنَّمَا ذَلِکُمُ الشَّیْطٰنُ یُخَوِّفُ
اَوْلِیَاہُ فَلَا تَخَافُوْہُمْ وَخَافُوْنَ
اِنۡ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝۱۷۵

وَلَا یُحْزَنُ لَکَ الَّذِیْنَ یَسَارِعُوْنَ

those who hastily fall into disbelief. They will not harm Allah in any way. Allah desires no share for them in the hereafter and they will face a severe punishment.

177. Surely who bought disbelief for belief will not harm Allah at all. And they shall have a grievous punishment.

178. And the disbelievers should not think that the leniency We (Allah) give them is good for them. We (Allah) give them leniency that they grow in their sins. And they will have a disgraceful punishment.

179. Allah will not leave the believers (Muslims) in the state in which you are now till He distinguishes the wicked from the good. And it is not for Allah to disclose to everyone the secrets of the unseen. But He chooses from his Rasools (Messengers of Allah) whom He Will. Believe in Allah and His Rasools (Messengers) and if you believe and become pious you will get a great reward.

180. And those who are miser in what has been Bestowed to them by Allah, by His Grace, should not take it as better for them. It is indeed evil for them. For what they were miser, will on the Day of Resurrection be tied from their necks like a twisted collar. All the heritage of the heavens and the earth belongs to Allah. And Allah is quite aware of what you do.

SECTION 19

181. Allah certainly Hears the utterance of those who said, "Allah is needy and we

کفر پر دوڑتے ہیں، وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑیں گے، اور اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے (176)

وہ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر مول لیا اللہ کا کچھ نہ بگاڑیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے (177)

اور ہرگز کافر اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ جو ہم انہیں ذمیل دیتے ہیں کچھ ان کے لیے بھلا ہے، ہم تو اسی لیے انہیں ذمیل دیتے ہیں کہ اور گناہ میں بڑھیں، اور ان کے لیے زلت کا عذاب ہے (178)

اللہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو، جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے، اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگو! تمہیں غیب کا علم دے، ہاں! اللہ جن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جیسے چاہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر ایمان لاؤ، اور پرہیزگاری کرو، تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے (179)

اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے بڑا ہے، مغرب وہ جس میں بخل کیا تھا، قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہو گا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے (180)

بیک اللہ نے سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ

فِي الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَنْ يَصُرُوا لِلّٰهِ
شَيْئًا سَرِيًّا اِنَّ اللّٰهَ اَلَا يَجْعَلُ
لَهُمْ حِطٰىنَ الْاٰخِرَةَ وَ لَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۷۶﴾

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰسْتَرَوْا اَللَّكْفُرَ
بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَصُرُوا لِلّٰهِ
شَيْئًا وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۷۷﴾

وَلَا يَحْسَبُنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
اَنَّهٗمْ اَمَلُوْا لَهُمْ خَيْرًا لِّنَفْسِهِمْ
اِنَّهٗمْ اَمَلُوْا لَهُمْ لِيُرُوْا اَلْاَسْمٰٓءَ
وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۱۷۸﴾

مَا كَانَ لِلّٰهِ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ
عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ
الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ مَا كَانَ
اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلٰى الْغَيْبِ وَ
لٰكِنَ اللّٰهُ يَجْتَبِيْ مِنْ اُسْلُبِهِ مَنْ
يَّشَآءُ اَلَا تَذَكَّرُوْنَ اِنَّ
تُؤْمِنُوْا وَ تَتَّقُوْا لَكُمْ اَجْرٌ
عَظِيْمٌ ﴿۱۷۹﴾

وَلَا يَحْسَبُنَ الَّذِيْنَ يَبْخُلُوْنَ
بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ
خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ وَ
سَيَطُوْقُوْنَ مَا يَبْخُلُوْنَ اِنَّ
الْقَبِيْةَ وَ ذٰلِكَ وَ ذٰلِكَ السَّمٰوٰتِ
وَ الْاَرْضِ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
خَبِيْرٌ ﴿۱۸۰﴾

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْا

are rich." I (Allah) record what they say and their slaying of the Umbia (Prophets of Allah) without right. And I (Allah) shall say, "you taste the punishment of burning."

182. This is because of what your hands have sent forth. Allah surely does not harm those who are His devotees.

183. Those who say, "Allah has given us a promise that we may not believe in a Rasool (Messenger of Allah) unless he shows us such a sacrifice which is eaten away by fire. Please declare, "there came to you Rasools (Messengers) before me with clear signs and even with that which you ask for. Then why did you slay them if you are truthful ?

184. If they falsify you, (O beloved), they also falsified the Rasools (Messengers) before you who came with clear signs, scriptures of prophecies and the Book of light.

185. Everybody will taste the death. And only on the Day of Resurrection you will be fully paid your reward. Then whoso is removed away from the fire and admitted to the Paradise will attain the real goal. And the life of this world is nothing but an illusory enjoyment.

186. Surely, you will be tested in your possessions and your own persons. And you will certainly hear many insulting things from the people who were given the Book before you and from the pagans. But if you endure and are pious then it is the work of strong determination.

حجاج ہے اور ہم فنی، اب ہم لکھ رہیں گے، ان کا کما، اور انبیاء کو ان کا ناحق شہید کرنا، اور فرمائیں گے کہ جھکو آگ کا عذاب (181)

یہ بلا ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا (182)

وہ جو کہتے ہیں اللہ نے ہم سے اقرار کر لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک ایسی قربانی کا حکم نہ لائے جسے آگ کھائے، تم فرما دو! مجھ سے پہلے بت رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں، اور یہ حکم لے کر آئے جو تم کہتے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں شہید کیا؟ اگر سچے ہو (183)

تو اے محبوب! اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو تم سے اگلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے، جو صاف نشانیاں اور صحیفے اور چمکی کتاب لے کر آئے تھے (184)

ہر جان کو موت چھنی ہے اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ٹیس گئے، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا، وہ مراد کو پہنچا، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے (185)

بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہو گی تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں، اور بے شک ضرور تم اگلے کتاب والوں اور مشرکوں سے بہت کچھ برا سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور پیچھے رہو، تو یہ جہنم سے بچنے کا کام ہے (186)

إِنَّ اللَّهَ يَقْبِضُ كُنُحَ الَّذِينَ كَفَرُوا
سَنُذِيبُهُمْ مَّا قَالُوا وَوَقَّتْ لَهُمُ
الْآيَاتِ بِمَا يَفْعَلُونَ حَتَّىٰ أَكْفُرُوا
بِقَوْلِ دُونِ مَا قَالُوا

اللَّهُ لَيْسَ بِظَالِمٍ لِّلْعَالَمِينَ
الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عٰهَدُ
بِالَّذِينَ الْأَنْبِيَاءُ لِيُرْسِلُنَا حَتَّىٰ
يَأْتِينَا بَقَرَةٍ أَمْ يَأْكُلُهُمُ الْبَخْسُ
قُلْ فَذَجَابَ لَهُمْ رُسُلُ مِن قَبْلِي
بِالْبَيِّنَاتِ وَإِن لِّدِينِي قَلِيلٌ
فَلَمَّا هَوَّوْهُمُ إِن لِّكُلِّ صِدْقٍ مِّن لَّدُنِّي

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلًا
مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَ
الرُّبُوبِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ
كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَ
إِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فَمَن زُجِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ
الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيٰوةُ
الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْغُرُورِ
لَيَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ
وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ مِنَ الَّذِينَ
أَشْرَكُوا الَّذِي كَفَرُوا وَإِن لِّتَصْطَرِّفُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِّنْ عَذَابِ
الْأَلْمُوسِ

187. And remember when Allah took a promise from the people bestowed the Book to make it known and clear to the mankind and never conceal it. But they threw it away behind their backs and exchanged the same for a mean price. How evil was their such bargain?

188. Do not think that those who rejoice in what they have done and they like to be praised for what they have not done. Do not think that they are secure from punishment. And for them there will be a grievous punishment.

189. To Allah belongs the Kingdom of the heavens and the earth and Allah is Powerful on everything.

SECTION 20

190. Surely in the creation of heavens and earth and in the difference of the nights and the days there are signs for the men of understanding.

191. These are the people who remember Allah standing and sitting and lying on their sides and think about the creation of heavens and the earth, (saying), "O our Rubb (Sustainer) You have not created anything in vain. You are Glorified. Save us from the punishment of the fire."

192. "O our Rubb (Sustainer) surely any one whom You cause to enter the fire that one is definitely disgraced." And the cruel people have no helpers.

193. "O our Rubb (Sustainer) we have surely heard the call of a proclaimer who calls towards faith, that

اور یاد کرو جب اللہ نے حمد لیا ان سے جنہیں کتاب عطا ہوئی کہ تم ضرور اس لوگوں سے بیان کرونا اور نہ چھپانا تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپیک دیا اور اس کے بدلے ذلیل دام حاصل کئے تو کتنی بری خریداری ہے (187)

ہرگز نہ سمجھا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کئے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جانا اور ان کے لیے درد ناک عذاب ہے (188)

اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے (189)

چمک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیوں میں عقلمندوں کے لیے (190)

جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کھڑے پر لیٹے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، اے رب ہمارے! تو نے یہ بے کار نہ بنایا، پاکی ہے تجھے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا (191)

اے رب ہمارے! چمک جسے تو دوزخ میں لے جائے، اسے ضرور تو نے رسوائی دی اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں (192)

اے رب ہمارے! ہم نے ایک منادی کو سنا کہ ایمان کے لئے نرا فرماتا ہے کہ

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ
أُوْتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّ لِلنَّاسِ
وَلَتَنبَذُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ
ظُهُورِهِمْ وَأَشْرَكُوا بِهِ ثَمَنًا
قَلِيلًا لِّبَشَرٍ مَّا شَاءُوا ۗ
لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا
أُوتُوا وَيَحْسِبُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا
يَفْعَلُؤْا فَمَا لَتَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ
مِّنَ الْعَذَابِ وَلَئِنَّ عَذَابَ
الَّذِينَ ۙ

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اٰيٰتٍ
لِّرُوٰىى الْاَلْبٰبِ ۙ

الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ اللّٰهَ قِيَمًا وَّ
تَعُوْذًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ
فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اٰيٰتًا
مَّا خَلَقْتَ هٰذَا اَبًا طَلًّا سَبْعُ مَلٰٓئِكَةٍ
فَقَبَلَا عَذَابَ النَّارِ ۙ

رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تَدْخُلُ النَّارَ فَقَدْ
اُخْرَجْتَ كَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ
اَنْصَارٍ ۙ

رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي
لِلْاِيْمَانِ اَنْ اِسْمُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۙ

believe your Rubb (Sustainer) and we believed". "O our Rubb (Sustainer) forgive us our sins and remove from us our misdeeds and cause us to die alongwith the straightforwards."

194. "O our Rubb (Sustainer) bestow us what You have promised to us through Your Rasool (Messenger of Allah) and do not disgrace us on the Day of Resurrection. Surely You do not break Your Promise."

195. Their Rubb (Sustainer) accepted their prayer and answered to them, "I surely never waste the reward of any one's labor among you, be that a male or a female, as you are offsprings of one another. Those who left their homeland or were driven out from their homes and suffered torture in My Way and fought and were killed, I shall surely wipe out from them their sins and admit them to the Paradise under which streams flow as a reward from Allah. And with Allah is the best reward.

196. The moving about of the disbelievers in the land (upper hand in Ouhud war) should not deceive you (O beloved Muhammad).

197. It is but a little enjoyment (to disbelievers) but their ultimate abode is hell (in the hereafter). What an evil place to rest.

198. But those who fear from their Rubb (Sustainer) for them there is Paradise under which streams flow. They will remain there for ever with the hospitality from Allah. And that which is

اپنے رب پر ایمان لاؤ! تو ہم ایمان لائے
اے رب ہمارے! تو ہمارے گناہ بخش
دے! اور ہماری برائیاں محو فرما دے! اور
ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر (193)

اے رب ہمارے! اور ہمیں دے وہ جس
کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے
رسولوں کی معرفت! اور ہمیں قیامت کے
دن رسوا نہ کر! بیشک تو وعدہ خلاف نہیں
کرتا (194)

تو ان کی دعائیں لی ان کے رب نے، کہ
میں تم میں کام والے کی محنت امارت
نہیں کرتا، مرد ہو یا عورت، تم آپس میں
ایک ہو، تو وہ جنہوں نے ہجرت کی اور
اپنے گھروں سے نکالے گئے، اور میری راہ
میں ستائے گئے، اور لڑے اور مارے
گئے، میں ضرور ان کے سب گناہ آتار دوں
گا، اور ضرور انہیں باغوں میں لے جاؤں
گا، جن کے نیچے نہریں رواں، اللہ کے
پاس کا ثواب، اور اللہ ہی کے پاس اچھا
ثواب ہے (195)

اے سننے والے! کافروں کا شہروں میں
اگلے کیلے (خوشیاں منانے) پھرتا، ہرگز تجھے
دھوکا نہ دے (196)
تھوڑا برتا، ان کا ٹھکانا دوزخ ہے، اور کیا
ہی برا بھجوتا (197)

لیکن وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان
کے لئے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں
ہیں، بیشک ان میں رہیں، اللہ کی طرف کی
مسماں، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ کیوں

رَبَّنَا فَاعْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ
عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مِنَ
الْآبِتَاتِ ۝

رَبَّنَا وَإِنَّمَا وَعَدْنَا عَلَى
رُسُلِكَ وَلَا نَخْزِيكَ يَا أَيُّهَا الْقَيُّمُ ۝
إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا
أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ وَتَمَكَّرُ مِنْ
ذِكْرِي أَوْ أَتَمَّتْ بِبَعْضِكُمْ مِنْ بَعْضٍ
فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ
دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَ
قَتِلُوا أَوْ قُتِلُوا أَلَا تَفْقَهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ وَلَئِذَا خَلْتَهُمْ جُنُودٌ
مُتَجَرِّمِينَ مِنْ خَلْتَهُمُ الْأَنْهَارُ تَوَّابًا
مَنْ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الثَّوَابِ ۝

لَا يَغْرِبُكَ تَلَقُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا
فِي الْبِلَادِ ۝
مَتَّاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ نَأْوِيهِمْ جَهَنَّمَ
وَيَسُئُ الْمَوَاعِدَ ۝

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ
جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ مِنَ عِبَادِ اللَّهِ ۝

from Allah is the best for the straightforwards.

[THREE FOURTH OF PART 4 ENDS]

199. And surely among the people of the Book there are some men who believe in Allah and what has been sent to you and what has been revealed to them and are humble to Allah. They do not sell the Verses of Allah for a mean price. Surely they will have their reward with their Rubb (Sustainer). And Allah is swift in accounting.

200. O believers, be steadfast and excel in patience (against the enemies) in guarding (the Islamic country) with strength together. And be pious to Allah that you may prosper.

S: IV SURA UN-NISAA' (THE WOMEN) (24 SECTIONS, 177 VERSES)

Revealed at Madina
Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. O mankind! be pious to your Rubb (Sustainer) Who created you from a single person and from it created its mate and from them spread many men and women. And be pious to Allah in Whose Name you appeal to each other. And be careful about your relations. Surely Allah watches you all the times.

2. And give to the orphans their property. And do not exchange the worthless things for the good ones (of the orphans) and do not eat their property mixing

کے لیے سب سے بہلا (198)
اور بے شک کچھ کتابی ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف اترا اور جو ان کی طرف اترا ان کے دل اللہ کے حضور جگمگے ہوئے اللہ کی آجتوں کے بدلے ذلیل دام نہیں لیتے یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے (199)

اے ایمان والو! صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ کامیاب ہو (200)

سورہ نساء مکی ہے (اور اس میں) ایک سو چھتر آیتیں (176) اور چوبیس (24) رکوع ہیں

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا
اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت پھیلا دیئے اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر جگمگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو! بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے (1)

لَقَدْ مَاعُنَدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّكَرِيمًا ﴿١٩٨﴾
وَلَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنْ يُوَفَّى
بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ
إِلَيْهِمْ خُرُوعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ
سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ
صَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

لَقَدْ مَاعُنَدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّكَرِيمًا ﴿١٩٨﴾
وَلَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنْ يُوَفَّى
بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ
إِلَيْهِمْ خُرُوعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ
سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ
صَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ
خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا
تَسْتَبَدُّوا بِهَا الْخَيْرَ بِهَا الطَّيِّبِ
وَلَا تَكُلُوا أَمْوَالَهُمْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ

it up with your own property. Surely, this is a great crime.

3. And if you fear that you will not be able to do justice to the orphan girls marry such women who are agreeable to you, two or three or four; but if you fear that you cannot do justice (to so many) then marry only one, or have the captives which your right hand owns. That will be more suitable to prevent you from injustice.

4. And give the women their dowries as a free gift, willingly. And if they, by their own pleasure, remit any part of it to you utilize it with pleasure and wholesome,

5. and do not give to the unsound minded their property under your control which has been made by Allah means of support for you (humanity). But feed and cloth them out of it and speak to them with kindness.

6. And keep the orphans until they reach the age of marriage. Then if you find in them right sense of proportion return them their property. And do not consume it wastefully in haste that they are reaching maturity. And whoso (guardian) is rich he should abstain (generously). And if anyone is needy he should utilize it to equity. But when you deliver to them their property take witnesses of the fact, in their presence. And Allah is Sufficient as Reckoner (to take the account).

7. The males have a share of what the parents and relatives leave and the females have a share from

گناہ ہے (2)

اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش (پسند) آئیں، دو دو اور تین تین اور چار چار پھر اگر ڈرو کہ دو لی بیویں کو برابر نہ دیکھ سکو گے تو ایک ہی کو یا کئی بیویوں جن کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ

ہو (3)

اور عورتوں کو ان کے سرخوشی سے دو پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے سر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے کھاؤ رہتا چلتا

(اچھی طرح) (4)

اور بے عقلوں کو ان کے مال نہ دو جو تمہارے پاس ہیں، جن کو اللہ نے تمہاری بسر اوقات کیا ہے اور انہیں اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ، اور ان سے اچھی بات کو

(5)

اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں تو اگر تم ان کی سمجھ ٹھیک دیکھو تو ان کے مال انہیں سپرد کرو، اور انہیں نہ کھاؤ حد سے بڑھ کر، اور اس جلدی میں کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں، اور جسے حاجت نہ ہو وہ چلتا رہے، اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھائے، پھر جب تم ان کے مال انہیں سپرد کرو تو ان پر گواہ کرو اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو (6)

اِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا كَرِيْمًا
وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلَا تَقْسُطُوْا فِي
الْيَتِيْمِيْنَ فَاَنْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَنَعْتُمْ وَاَنْكِحُوْا
فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَا تَعْدِلُوْا فَاَوْحِدُوْا
اَوْ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَدْنٰى
اَلَا تَعْوَدُوْنَ

وَ اَتُوْا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ فِحْلَةً
فَاِنْ طَلَبْنَ لَكُمْ مِّنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
فَنَفْسًا فَكُلُوْهُ هَرِيْمًا مُّؤْتِيًّا
وَ لَا تُوْتُوْا السُّفِيَّاءَ اَمْوَالَكُمُ
الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّ
اٰزْوٰجَهُمْ فِيْهَا وَاَسْوِءَهُمْ وَاَقْوٰوْا
لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

وَ اٰتٰوْا النِّسَاءَ مِمَّا مَنَعْتُمْ
اَلْيَتِيْمِيْنَ حَتّٰى اذْاَبَلَغُوْا
الرِّتٰكٰهَ فَاِنْ اَسْتَمْتُمْ فَمَا مِّنْكُمْ
رِّسْدًا فَاذْفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ وَاَلَا
تَأْكُلُوْهَا سِرًّا وَّ اَعْيٰنًا اِنَّ
يَكْبُرُوْنَ وَاَمِنْ كَانَ غَدِيْبًا
فَلَيْسَتْ تُعَوِّفُ وَاَمِنْ كَانَ قُوْبًا
فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِذَا دَفَعْتُمْ
اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهَدُوْا عَلَيْهِمْ
وَ كَفٰى بِاللّٰهِ حٰصِدًا

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ

what their parents and their relatives leave behind, be it little or much, their (legal) share is fixed.

8. But if at the time of division (of anybody's property) the relatives and orphans and the needy come forth give them also from that and speak to them with kindness.

9. And let the people (disposing orphans' property) have the same fear in their minds as if they would have for their own properties, had they left behind a similar destitute family. Therefore, they should be pious to Allah and speak right words.

10. Surely, who devour unjustly the property of orphans, they fill in their bellies with fire and they will soon be burnt in a big blaze.

SECTION 2

11. Allah Commands you concerning your children. Male shall have portion equal to two females. If they are only females, more than two, their share is two-thirds of the inheritance. If there be only one female (daughter) her share is half. And to the parents of the deceased, each one has the one-sixth of what is left, if the deceased leaves one child. But if the deceased has no child and the heirs are the parents only then one-third to the mother of deceased. And if deceased has left many brothers and sisters the mother has one sixth after the payment of the will and the debts (of the deceased owner). You do not know whether your parents or your children are profitable to you. These are settled

عورتوں کے لئے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، ترکہ تمھوڑا ہو یا بہت، حصہ ہے اندازہ باندھا ہوا (7)

پھر بانٹتے وقت اگر رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آجائیں، تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دو، اور ان سے اچھی بات کہو (8) اور ڈرین وہ لوگ اگر اپنے بعد اتناں (کنزوں) اولاد چھوڑتے، تو ان کا کیا انہیں خطرہ ہو نا؟ تو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کریں (9)

وہ جو یتیموں کا مال باقیں کھاتے ہیں، وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں، اور کوئی دم جاتا ہے کہ بجڑکتے دھڑے میں جائیں گے (10)

اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں برابر ہے، پھر اگر نری لڑکیاں ہوں اگرچہ دو سے اوپر، تو ان کو ترکہ کی دو تہائی، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کا آدھا، اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کو اس کے ترکہ سے چھٹا، اگر میت کے اولاد ہو، پھر اگر اس (میت) کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کا تہائی، پھر اگر اس کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا چھٹا بعد اس وصیت کے جو کر گیا اور دین (قرض) کے، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم کیا جانو، کہ ان میں کون تمہارے زیادہ کام آئے گا، یہ حصہ باندھا ہوا ہے اللہ کی طرف

نُصِيبَ وَمِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا نُصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿۷﴾

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَنْزِلُوهُمْ مِنْهُ ذِكْرًا وَاللَّهُ لَمَّا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿۸﴾

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿۹﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿۱۰﴾

يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا

مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِلَّذَكَرِ ثُلُثُ

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمَرْءِ الشُّدُّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُؤْتِي بِنَهَاؤِ الدِّينِ الْآبَاءُ وَالْأُمَّهَاتُ وَأَبْنَاؤُكُمْ لِأَنْتُمْ دُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنْ

specially from among you, and when they testify (the truth of adultery), then confine (such women) in houses till they are taken away by death or Allah opens some other way for them.

16. And if the two (males and females) from among you commit such act punish both of them. If they repent and reform leave them. Surely Allah is Relenting, Merciful.

17. Allah accepts repentance of only those, with His Bountiness, who commit evil in ignorance and then repent soon afterwards. Allah accepts it from them with His Mercy. And Allah is Knowing, Wise.

18. And that repentance is of no effect from such people who continuously commit evil deeds till death comes to them and they say, "now I repent indeed". It will not also be accepted from those who die as disbelievers. I (Allah) have prepared a painful punishment for them.

19. O people who believe, it is not 'Halal' (lawful) to inherit women (of your deceased kinsmen) against their will. Do not detain them wrongfully with the intention that what you gave them with kindness you should take some of it (dower) back except when they commit a serious lewdness. And deal with them with kindness. Then if you dislike them, it is likely that you dislike something but Allah places in it much good.

20. And when you want to change one wife in place of other, and you had given the first one a heap of wealth, do

ان پر خاص اپنے میں چار مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو، یہاں تک کہ انہیں موت اٹھائے، یا اللہ ان کی کچھ راہ نکالے (15)

اور تم میں جو مرد عورت ایسا کام کریں ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیک ہو جائیں، تو ان کا بیچا چھوڑ دو، چیک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے (16)

وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ انہیں کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں، پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں، ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے (17)

اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں گمے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے، تو کہے اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان کی جو کافر مرے، ان کے لیے ہم نے درد ناک عذاب تیار کر رکھا ہے (18)

اے ایمان والو! تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، اور عورتوں کو روکو نہیں، اس نیت سے کہ جو مرد ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ صریح بے حیائی کا کام کریں، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے (119)

اگر تم ایک بی بی کے بدلے دوسری بدلنا چاہو، اور اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا

رِسَابِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا بَعْضُهُمْ
أَلْبَعَةَ مَنكُم مِّنْ شَهِدَاتِ
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى
يَتَوَقَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ

اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝۱۵

وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّامَنكُم فَاذْهَبُوا
فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا

عَنهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۝۱۶

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ
يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ
يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ
يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ

عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۱۷

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
السُّوءَاتِ حَتَّى إِذْ لَحَضُرُوا أَحَدَهُمْ
الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي بُدِّئْتُ النَّوَءَ وَلَا

الَّذِينَ يَتُوبُونَ وَهُمْ نَفَارًا وَأُولَئِكَ
أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۱۸

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِدُ
لَكُمْ أَنْ تَرْتَدَّ إِلَيْهَا كُرْهًا
وَلَا تَتَّصِلُوهُنَّ لِنَدَابِهِنَّ بَعْضُ
مَا آتَيْنَاهُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشَرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ

اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝۱۹

وَأَنْ أَرْتَدُّوا عَلَيْكُمْ شَيْئًا مَّا كُنْتُمْ

أَرْتَدُّوا عَلَيْكُمْ شَيْئًا مَّا كُنْتُمْ

not take anything of it. Would you take that by mere blame as an open sin?

اسے واہیں لو گے جھوٹ بانٹھ کر اور کئے
گناہ سے؟ (20)

21. And how you could take it back when each one of you have gone into the other (in intercourse) and they have taken from you a solemn pledge.

اور کیونکر اسے واہیں لو گے، حالانکہ تم
میں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو
لیا، اور وہ تم سے گاڑھا عمد لے چکیں
(21)

22. And do not marry such women whom your fathers married except what was done in the past. Surely that is shameful, hateful and evil way.

اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو مگر
جو ہو گذرا وہ بے شک بے حیائی اور
فضیحہ کا کام ہے، اور بہت بُری راہ (22)

SECTION 4

23. Forbidden to you are your mothers, your daughters, your sisters, your father's sisters, your mother's sisters, your brother's daughters, your sister's daughters, any of your foster sisters and your mothers in law, your step-daughters under your guardianship born from your wives with whom you have gone-in (intercourse). But there is no prohibition (to such ladies) if you have not gone-in (intercourse) with them (as wives). And the wives of your sons who are from your lineage and two real sisters together, (are also forbidden), except for what has been done in the past. Surely Allah is Forgiving, Merciful.

حرام ہوئیں تم پر تمہاری مائیں، اور
بیٹیاں، اور بہنیں، اور پھوپھیاں،
اور خالائیں، اور بھتیجیاں، اور بھانجیاں،
اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا،
اور دودھ کی بہنیں، اور عورتوں کی مائیں،
اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں
ان بی بیوں سے جن سے تم محبت کر چکے
ہو، پھر اگر تم نے ان سے محبت نہ کی ہو
تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں، اور
تمہاری نسلی بیٹیوں کی بیسیبیوں اور
دو بہنیں انہیں کرنا مگر جو ہو گزرا بے شک
اللہ بخشنے والا مہربان ہے (23)

PART-5

SURA-NISAA'-IV (Contd.)

24. And the married women are (also prohibited) for you except the women of the disbelievers who come to your possession (in defensive

اور حرام ہیں شوہر دار عورتیں مگر کافر لو
کی عورتیں جو تمہاری ملک میں آجائیں
یہ اللہ کا نوشتہ ہے تم پر، اور ان کے سوا

كَانَ رُوحٌ وَأَتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ
وَنظَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ سَفِيهًا
أَتَاخُذُوا مِنْهُ بِمَهْتَابٍ وَإِذَا

فُجِئْتُمْ
وَكَيْفَ تَأْخُذُوا مِنْهُ وَقَدْ أَقْبَضَى
بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ

مِنْكُمْ وَمِنْهَا مَا غَلِبَ عَلَيْهَا
وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ
النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّكَانَ

بِئْسَ مَا كَانَتْ تَفْعَلُونَ وَأَسَاءَ سَبِيلًا
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَ
أُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أُمَّرُضْتُمْ
وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعِ وَ

أَكْفَهْتُمْ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ
الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنَ نِسَائِكُمْ
الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَوَانِ لَيْتَكُنَّ

وَأَخْوَاتُكُمْ مِنْكُمْ فَلَا ضَرَّ عَلَيْكُمْ
وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ
مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا

بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ

war). This is prescribed for you by Allah. And beyond them all the others are lawful for you, provided you seek them with your wealth for right conduct (lawful marriage) but not for lust. And for benefits you receive from them, give them their dowries, as fixed. But there is no sin in what you mutually agree upon after fixation (of their prescribed dower for marriage with them). Allah is surely Knowing, Wise.

25. And if any of you can not afford to marry the free faithful women they may marry such faithful girls whom your right hand possesses. And Allah has full knowledge about your faith. You are all alike (in religion). Marry them with permission of their masters and give them their dowers justly to fair convention for bringing them in marriage being honorable, chaste and pure but neither for lust nor for taking secret love affairs. And when they are wedded if they commit any shameful act then their punishment is half than the penalty to free women. This (permission of marriage) is for those among you who fear to fall in sexual sin. But it is better for you to restrain. And Allah is surely Forgiving, Merciful.

SECTION 5

26. Allah wants to make (His commands) clear to you and guides you about the ways of previous people and turn toward you Mercifully.

And Allah is Knowing, Wise.

27. Allah Desires to turn to you with His Mercy but those

جو رہیں وہ ہمیں حلال ہیں کہ اپنے اپنیوں کے عوض تلاش کرو، قید لاتے نہ پائی گراتے، تو جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو ان کے بندھے ہوئے مرا نہیں دو، اور قرار داد کے بعد اگر تمہارے آپس میں رضامندی ہو جاوے تو اس میں گناہ نہیں، بیگ اللہ علم و حکمت والا ہے (24)

اور تم میں بے مقدوری کے باعث جن کے نکاح میں آزاد عورتیں ایمان والیاں نہ ہوں، تو ان سے نکاح کرے جو تمہارے ہاتھ کی ملک ہیں، ایمان والی کنیزیں، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے تم میں ایک دوسرے سے ہے، تو ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور حسب دستور ان کے مرا نہیں دو، قید میں آتیاں، نہ مستی نکالنی اور نہ یار بنائی، جب وہ قید میں آجائیں، پھر بڑا کام کریں، تو ان پر اس سزا کی آدمی ہے جو آزاد عورتوں پر ہے، یہ اس کے لیے نیچے تم میں سے زنا کا اندیشہ ہے، اور مبرا کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے (25)

اللہ جانتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان کر دے، اور ہمیں انگوں کی روشیں (عادتمیں) بتا دے، اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے (26)

اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرماتا ہے، اور جو اپنے مزوں کے بیچے

عَلَيْكُمْ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ
أَنْ تَبْتَغُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هُمْ صَنِينَ
غَيْرِ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ
بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
فَرِيضَةً وَأَجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
تَرَاضِيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٥﴾

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا
أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ
فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِأَيْمَانِكُمْ تَعْضَلُكُمْ مِنْ بَعْضٍ
فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِبِهِنَّ وَ
أَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ
الْأَخْدَانِ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنَّ أَتَيْنَ
بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا
عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ
ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ
وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ
عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٦﴾

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
رِجْسَ الَّذِينَ هُمْ كُفْرًا وَيُذْهِبَ
عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَجْمَعًا وَاللَّهُ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٢٧﴾

who indulge in lusts desire to turn you far away (from right path).

28. Allah Desires to make things easy for you as the man was created weak (to forbear hardship).

29. O believers ! do not devour your properties among yourselves unjustly except that it is through trade by your mutual consent. And do not kill your own selves (by misuse of other's properties). Surely Allah is Merciful to you.

30. And if any of you indulges in such injustice and commits wrong We (Allah) will throw him soon in the fire. And this is very easy for Allah.

31. If you abstain from the major sins, which are forbidden for you, We (Allah) shall forgive you your other sins and admit you to the honored entrance.

32. And do not long for that under which Allah has bestowed superiority to some of you above others. There is a share for men what they earn and a share for women what they earn. And request Allah for His Bounty. Surely Allah perfectly Knows everything.

33. And to every one We (Allah) have appointed heirs who will inherit what parents and near kinsmen leave. As for those with whom you have entered into agreements, for them too, is their due. And surely Allah is a Witness to all things.

پڑے ہیں وہ چاہے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت آگ ہو جاؤ (27)

اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے اور آدمی کو کمزور بنایا گیا (28)

اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی سوراہہ سماری یا ہی رضا مندی کا ہو، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے (29)

اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو عترتیں ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے (30)

اگر بیچے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں عفو و مغفرت ہے، تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے، اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے (31)

اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی، مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے (32)

اور ہم نے سب کے لیے مال کے مستحق بنا دیئے ہیں، جو کچھ چھوڑ جائیں ماں باپ اور قربات والے، اور وہ جن سے تمہارا حلف بندھ چکا، انہیں ان کا حصہ دو، بیچک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے (33)

وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ أَنْ تَبُولُوا مِثْلًا عَظِيمًا ۝

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلُقِ الْإِنْسَانِ ضَعِيفًا ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِنَاءٍ عَنِ تَرَاحُصٍ مَتَّكُمُ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ۝

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدَّوَانًا وَظَلَمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبِيرَاتِهِمْ يَغْفِرَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا ۝

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبْنَ وَرَسُولُ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيكُمْ لِوَالِدَيْكُمْ وَالذَّوِّينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَاتُّوهُم بِنَصِيْبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّابِقِينَ ۝

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّابِقِينَ ۝

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّابِقِينَ ۝

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّابِقِينَ ۝

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّابِقِينَ ۝

SECTION 6

34 Men are guardians of

مرد امر ہیں عورتوں پر، اس لیے کہ اللہ

women because Allah has excelled one over the other and because the men spend their wealth on them. Therefore, the virtuous women are obedient that they guard secret (sex) behind their husbands, as Commanded by Allah. And for those (women) about whom you have the fear of disloyalty admonish them and sleep separate from them and give them (light) beating. Then if they become obedient to you never do anything against them. Allah is surely High, Great.

35. And if you fear a breach between them (the husband and wife) then appoint one arbiter from his (husband) side and one arbiter from her (wife). If they (arbitrators) desire reconciliation between them Allah will cause their unity again. Surely Allah is Knowing, Aware.

36. And worship Allah and associate none with Him and be kind to the parents and with the relatives and the orphans and the needy and the kinship neighbors and the stranger neighbors and the companions of your side and the travellers and to those whom your right hands possess. Allah surely does not like the arrogant and boastful;

37. and those who are miser and enjoin others to become misers and conceal what Allah has given them of His Bounty. And for the disbelievers We (Allah) have prepared a humiliating punishment.

نے ان میں ایک کو دوسرے پر نفیحت دی، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے، تو نیک بخت عورتیں اوب والیاں ہیں، خاندان کے پیچھے خفایت رکھتی ہیں، جس طرح اللہ نے خفایت کا حکم دیا، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو، تو انہیں سمجھاؤ، اور ان سے الگ سوؤ اور انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آجائیں، تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو، بے شک اللہ بلند بڑا ہے (34)

اور اگر تم کو میاں بی بی کے جھگڑے کا خوف ہو، تو ایک بیچ (خالث) مرد والوں کی طرف سے بھیجو، اور ایک بیچ (خالث) عورت والوں کی طرف سے، یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں صلح کر دے گا، بیشک اللہ جاننے والا خبردار ہے (35)

اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کرٹ کے ساتھی اور راہ گیر اور اپنے باندی غلام سے، بیشک اللہ کو خوش (پسند) نہیں آتا کوئی اترا نے (کبیر) والا، بڑائی مارنے والا (36)

جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کے لئے کہیں، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، اسے چھپائیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے (37)

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَالصَّالِحَاتُ قِنْدَتٌ حَافِظَةٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالرِّبَى تَنَافُؤُنْ تُشُوْرُهُنَّ فِعْظُوهُنَّ وَهَجْرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِيوُهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا ﴿۳۴﴾

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَكُلًّا مِنْ أَهْلَيْهَا إِنْ يُرِيدُوا الصَّلَاحَ يُؤْفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۳۵﴾

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّالِحِينَ بِالنَّيْبِ وَالَّذِينَ يَسْتَلِمْوْنَ أَمْوَالَكُمْ لِيَأْتِيَهُمْ مِنْ اللَّهِ لَا يُعِيْبُ مَنْ كَانَ فِتْنًا لَمْ تُخَوْرًا ﴿۳۶﴾

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ وَيَكْمُرُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿۳۷﴾

38. And those who spend their wealth to show off to the people and do not believe in Allah and the Last Day and whose companion is satan (devil), what a worst companion is he.

39. And what would have harmed them if they believed Allah and the Last Day and would have spent in the way of Allah which He provided them. And surely Allah knows them fully well.

40. Allah does not do any cruelty to anyone to an atom's weight. If there is any good deed He doubles it and gives from Himself a great reward.

41. When We (Allah) will bring from every 'Ummah (grand community) a witness, how it will be felt and (O beloved Muhammad) you are a witness against them.

42. On that day those who disbelieved and disobeyed the Rasool (Messenger of Allah) will wish that the earth were levelled for them again (after burying them). And they never will (be able to) hide a single fact from Allah.

SECTION 7

43. O believers ! never approach the Salaat (Muslim Prayer) when you are intoxicated (totally prohibited later) until you have so much sense that what you say you understand. And also in the state of impurity without taking bath, except when you are traveller. And if you are sick, or on a journey, or one of you becomes polluted due to natural discharge in sleep or you had intercourse with your women and did not find water then take clean dust

اور جو وہ اپنے مال لوگوں کے دکھانے کے خرچے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اللہ اور نہ قیامت پر اور جس کا مصاحب شیطان ہوا تو کتنا برا مصاحب ہے (38)

اور ان کا کیا نقصان تھا اگر ایمان لاتے اللہ اور قیامت پر اور اللہ کے دینے میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے اور اللہ ان کو جانتا ہے (39)

اللہ ایک ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دہنی (دگنی) کرتا اور اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے (40)

تو کسی ہو گی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں اور اسے محبوب! ہمیں ان سب پر گواہ و گنہگار بنا کر لائیں (41)

اس دن تمنا کریں گے وہ جنسوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی کاش! انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے اور کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے (42)

اے ایمان والو! نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کچھ اسے سمجھو اور نہ نپاکی کی حالت میں بے نئے مگر مسافری میں اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں یا تم میں سے کوئی فقراء حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں کو جموا اور پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ۗ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۝

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ شَيْئًا ذَرَّةً وَإِن تَكَ حَسَنَةً يُّضَعِفْهَا إِلَىٰ نَوْتٍ مِّن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۝

يَوْمَئِذٍ يُدْعَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَصْوَا الرَّسُولَ لِيَأْتِسُوا بِهِمُ الرِّاضُ وَلَا يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ حَرِيثًا ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِذَا بَرَأْتُمُ الْمَسْجِدِ حَتَّىٰ تَغْسِلُوا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

and wipe it on your faces and your hands (do 'Tayamum' as oral cleaning). Surely Allah is Forgiving, Pardoning.

44. Have you not seen those who were given a part of the Book. They adopted an erring path and wanted that you should also take the wrong path.

45. And Allah knows best your enemies and Allah is enough as Protector. And Allah is enough as Helper.

46. Some of the Jews displace words of the revealed Book from the right place and say, "we have heard and we disobey," and "you listen to us but donot make us to listen and twisting their tongues and by taunting the religion. (Actually they say, "Racena" (O our shepherd) to disgrace the Holy Prophet which Allah never can tolerate for a moment). Had they said (with respect), sir, "we have heard and we obey. 'Uunzuurna'- please hear to us and also stare us with kindness." It would have been better for them and more upright for them. But Allah has cursed them for their disbelief so a few of them become believers.

47. O the receivers of the Book believe in what We (Allah) have revealed confirming that which is with you before. We (Allah) change the faces and turn them on their back or curse them as We (Allah) cursed the people of Sabbath (Saturday Jewish prohibition) breakers. And surely, Allah's Command is to be carried out.

کر، بیشک اللہ معاف فرمائے والا ۴ بخشنے والا ہے (43)

کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کو کتاب سے ایک حصہ ملا، مگر ای مول لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے ہٹ جاؤ (44)

اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور اللہ کافی ہے والی، اور اللہ کافی ہے مددگار (45)

کچھ یہودی کلاموں کو ان کی جگہ سے پھیرتے ہیں، اور کہتے ہیں، ہم نے سنا اور نہ مانا، اور سننے آپ سنائے! نہ جائیں، اور "راعنا" کہتے ہیں زبانیں پھیر کر، اور دین میں طعن کے لیے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری بات سنیں اور حضور ہم پر نظر فرمائیں تو ان کے لیے بھلائی اور راستی میں زیادہ ہوتا، لیکن ان پر تو اللہ نے لعنت کی ان کے کفر کے سبب، تو یقین نہیں رکھتے مگر تمہارا (46)

اسے کتاب والو! ایمان لاؤ! اس پر جو ہم نے اتارا تمہارے ساتھ والی کتاب کی تصدیق فرماتا، قبل اس کے کہ ہم بگاڑیں کچھ مومنوں کو، تو انہیں پھیر دیں ان کی بیٹے کی طرف، یا انہیں لعنت کریں جیسی لعنت کی ہفتہ والوں پر، اور خدا کا حکم ہو کر رہے (47)

فَأَمَّا حَوَارِئُ جَوْهَرًا وَأَيْدِي يَكْفُرْنَ
اللَّهُ كَانَ عَاقِبَةَ أَعْمَالِهِمْ ۝۳۱

الَّذِينَ آتَوْنَا الصِّبْيَانَ
الْكِتَابَ يَشْرَوْنَ الضَّلِيلَةَ وَ
يُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ ۝۳۲
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْمَالِكُمْ وَكَفَى
بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ تَصَدِيرًا ۝۳۳

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُخَرِّفُونَ الْكَلِمَ
عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا
وَعَصَيْنَا وَإِنَّمَا كُنَّا مِنْكُمْ
بَشَرًا مِثْلُكُمْ وَأَضَلَّ اللَّهُ
سَبِيلَكُمْ فَأَتَوْهُم بِآيَاتِنَا
لِيُكَلِّمَهُمُ الْبَشَرِ الْغَافِلِينَ ۝۳۴
لَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
وَإِنَّا لَنَاصِحُونَ لَأَرْخَبْنَا اللَّهَ
وَأَرْخَبْنَا الْوَالِدِينَ وَكَانَ خَيْرًا
لَهُمْ وَأَقْوَمًا وَوَلَا لَكِن لَعَنَهُمُ
اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝۳۵

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آتَوْنَا الْكِتَابَ
بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ
مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا
عَلَى آذَانِهَا أَلْوَنًا لَعْنَةُ اللَّهِ
أَصْحَابِ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرًا لِلَّهِ
مَفْعُولًا ۝۳۶

48. Surely, Allah never forgives those who associate with Him anyone, but He will forgive whatever is short of that to whom He Wills And whoso associates partners with Allah has indeed devised a great sin.

49. Donot you know the people who take themselves to be pure? It is Allah Who purifies, whom He Wills. And they will not be done any cruelty to the date-seed (smallest extent)

50. See how they forge falsehood against Allah which itself is sufficient as a very clear sin.

SECTION 8

51. Have not you seen those (people) who were bestowed a part of the Book. They believe in the idols and the evils and say about the disbelievers that they are more on the right path than the Muslims.

52. They are the one who are cursed by Allah and whom Allah curses such one will not find any helper.

53. Have they a share in the Kingdom of the Powerful? If that be they will not give a little bit (small seed) to the mankind.

54. Or are they jealous of the people whom Allah has bestowed from His Bounty? But We (Allah) gave Ibraaheem's (Abraham's) children Book and the wisdom and We (Allah) bestowed them a mighty Kingdom.

55. Some of them believed in him (Muhammad S.A.W.) and some of them turned away from him. And the hell with the burning fire is enough (for them)

بلك الله اے نہیں بخش کر اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرماتا ہے اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑے گناہ کا طوفان پانہما (48)

کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو خود اپنی ستمرائی بیان کرتے ہیں؟ بلکہ اللہ جسے چاہے ستمرا کرے اور ان پر ظلم نہ ہو گا وہ ان سے زیادہ ظالم ہے اور ان پر ظلم نہ ہو گا دیکھو! کیا اللہ پر جھوٹ بانہہ رہے ہیں! اور یہ کافی ہے صریح گناہ (50)

کیا تم نے وہ نہ دیکھے جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا؟ ایمان لاتے ہیں بت اور شیطان پر اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ راہ پر ہیں (51)

یہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جسے خدا لعنت کرے تو ہرگز اس کا کوئی یار نہ پائے گا (52)

کیا ملک میں ان کا کچھ حصہ ہے ایسا ہو تو لوگوں کو تل بھرنے دیں (53)

یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا تو ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا (54)

تو ان میں کوئی اس پر ایمان لایا اور کسی نے اس سے منہ پھیرا اور دوزخ کافی ہے بھڑکتی آگ (55)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزُكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُرِي مَا يَشَاءُ وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٤٩﴾
أَنْظُرْ كَيْفَ يَصِفُونَ عَلَى اللَّهِ عِجَابَ الذُّبَابِ وَالْفِىٰ بِهِنَّ إِثْمًا قَبِيحًا ﴿٥٠﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا النِّبْيَا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِأَحِبِّهِمْ وَ الطَّاغُوتِ وَأَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾
أَفَرَأَيْتُمْ نَصِيبَ مِنَ الْمَلِكِ إِذَا أَلْيَبُوتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٣﴾

أَفَرَأَيْتُمْ دُونَ النَّاسِ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مَدَنًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾

فِيهِمْ مَن آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾

56. Those who disbelieved Our (Allah's Verses We (Allah) shall throw them in fire soon. When their skins will be burnt-up We (Allah) shall change the same with fresh skins that they may taste the punishment. Surely Allah is Honorable, Wise.

[ONE FOURTH OF PART 5 ENDS]

57. And those who believe and do the righteous deeds We (Allah) shall soon admit them to the Paradise, under which streams flow, to remain there forever. They shall have spouses therein chaste (purified) and We (Allah) shall admit them to the pleasure of plenteous shades.

58. Surely Allah Commands you to deliver back the trust to their owners and when you judge between men judge with justice. Surely Allah advises you best. Surely Allah Hears, Sees.

59. O believers obey the Command of Allah and obey the command of the Rasool (Messenger Muhammad S.A.W) and of those charged with authority among you. Then if you develop a dispute in any matter refer it to Allah and the Rasool (Messenger), if you believe in Allah and the Last Day. It will be better and commendable in the final end.

SECTION 9

60. Did not you see those people who pretend that they believe what has been revealed to you and what was revealed before you? Then they prefer to seek judgement from the rebellious ones, whereas they were

جنوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا عقرب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، جب کہیں ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے، کہ عذاب کا مزہ لیں، بیشک اللہ غالب حکمت والا ہے (56)

اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے عقرب ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے، جن کے پچھے سرس رواں، ان میں بیشک رہیں گے، ان کے لیے وہاں ستھری بیسیاں ہیں اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہو گا (57)

بیشک اللہ تمہیں حکم دتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں پر دکر دو اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بیشک اللہ سنتا دیکھتا ہے (58)

اے ایمان والو! حکم مانو! اللہ کا اور حکم مانو رسول کا! اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں، پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرو، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے، اور اس کا انجام سب سے اچھا (59)

کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا، اور اس پر جو تم سے پہلے اترا پھر چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا بیچ (مالٹ) بنائیں، اور ان کو تو حکم یہ تھا کہ اسے

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَأْتِيَنَّكَ سُورَةٌ تُصَلِّيهِمْ نَارًا كَلِمًا تَضَجُّتْ جَلُودُهُمْ فِيهَا لَنْ يُعْمِرُهَا لِئَلَّا يَرْوَا الْعَذَابَ إِنَّ آدَمَةَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَبُوعًا فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا مُنْقَلَبُونَ ﴿٥٧﴾

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذْ أَكَلْتُمْ مِمَّا بَيْنَ الْأَيْدِي أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ

commanded to reject them totally. And satan (devil) wants to lead them away on the wrong way.

61. And when it is said to them "come to (the Book) Allah has revealed and to the Rasool (Messenger of Allah)", you will see the hypocrites turning away their faces from you.

62. How it will be when a misfortune falls on them as a retribution of their deeds which their hands have sent forth. Then O beloved they will come to you swearing by Allah and saying, "we only wanted good will and harmony".

63. Allah knows better what is in their hearts. So you just excuse them and admonish them and speak to them in convincing words to affect their selves.

64. And We (Allah) have not sent any Rasool (Messenger of Allah) but that he should be obeyed by the Command of Allah. And when they commit cruelties to their own selves then (O beloved Muhammad S.A.W.) they come to you and pray for forgiveness of Allah. But if the Rasool (Messenger of Allah) recommends it only then they will find Allah Pardoning, Merciful.

65. O beloved (Muhammad S.A.W.) by your Rubb (Sustainer) they will not at all be faithfals until they make you Judge in their disputes, then do not find in their hearts any dislike about what you decide and they surrender in submission (their hearts) to you.

اصلاً نہ مانیں اور انہیں یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور بھاگوسے (60)

اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی آداری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں (61)

کسی ہو گی جب ان پر کوئی افتاد پڑے بدلا اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا پھر اے محبوب! تمہارے حضور حاضر ہوں اللہ کی قسم کھاتے کہ ہمارا مقصد تو بھلائی اور میل ہی تھا (62)

ان کے دلوں کی تو بات اللہ جانتا ہے تو تم ان سے چشم پوشی کرو اور انہیں سمجھا دو اور ان کے معاملہ میں ان سے رسا (دل پر اثر کرنے والی) بات کہو (63)

اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب! تمہارے حضور حاضر ہوں پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور! اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں (64)

تو اے محبوب! تمہارے رب کی قسم! وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں پھر جو کچھ حکم فرماو! اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں (65)

يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ صُلًّا لَّا يَرْجِعُونَ

وَإِذِ اقْبَلْتُمْ لَهُمْ قَوْلَ الْوَالِي مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَالِي الرَّسُولِ آيَاتِ اللَّهِ لِيُفِيقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا

فَكَفَرُوا بِهَا وَأَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ مِمَّا قَدِمْتُمْ عَلَيْكُمْ لَمَّا جَاءَتْكُمْ يَتْلِفُونَ بِآيَاتِهِ إِنْ أَسْرَدْنَا إِلَّا لِحِسَابِنَا وَتَوَفِينَا

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءَتْكُمْ فَاسْتَعْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَعْفَرُوا لَهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

فَلَا ذَرْبَكَ لَا يَتُوبُونَ حَتَّى يَكْفُورُوا فِيمَا سَجَرْتُمْ لَهُمْ قَوْلًا يَجْتُمِعُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ حِجَابًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا إِلَيْهِمْ

66. Had We (Allah) made obligatory for them saying, "kill yourselves or leave your homes," only a few would have done so. And had they done what they were advised, it would have been best for them and would have confirmed them best (in faith).

67. And if it had been so We (Allah) would have surely given them a great reward from Ourselves (Allah).

68. And We (Allah) would have surely shown them the straight path.

69. And he who obeys the Command of Allah and His Rasool (Messenger of Allah) and remains in the company of those who are blessed by Allah including the Uumbia (Prophets of Allah), the Siddiques, (truthfuls) the Shohadaa (martyred) and the Saleheen (the righteous). How excellent they are as companions.

70. Such is the Bounty from Allah and Allah is Sufficient, Knower.

SECTION 10

71. O believers! take your precautions, then move forward in separate parties or move forward altogether (towards the enemy).

72. And surely among you is the one (hypocrite) who lags behinds. If you (believers) face some misfortune he (hypocrite) says, "Allah has blessed me that I was not present with them (faithfuls)".

73. And if you are successful by the Grace of Allah then he will surely say, as if there was no connection

اور اگر ہم ان پر فرض کرتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھریاں چھوڑ کر نکل جاؤ، تو ان میں تمہوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر وہ کرتے جس بات کی انہیں نصیحت دی جاتی ہے، تو اس میں ان کا بھلا تھا، اور ایمان پر خوب جتنا (66)

اور ایسا ہوتا تو ضرور ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتے (67)

اور ضرور ان کو سیدھی راہ کی ہدایت کرتے (68)

اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ لے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں (69)

یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کافی ہے جاننے والا (70)

اے ایمان والو! ہوشیاری سے کام لو! پھر دشمن کی طرف تمہوڑے تمہوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو (71)

اور تم میں کوئی وہ ہے کہ ضرور دیر لگائے گا، پھر اگر تم پر کوئی آفت (مصیبت) پڑے تو کہے، خدا کا مجھ پر احسان تھا کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا (72)

اور اگر تمہیں اللہ کا فضل لے تو ضرور کہے، گویا تم میں اس میں کوئی دوستی نہ

وَلَوْ كُنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ أَوْ ائْخِرْ جُؤَامِنَ دِيَارِكُمْ
مَا فَعَلُوهُ إِلَّا كَلِيلٌ فَمِنْهُمْ
وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ
بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا ۝

وَلَا إِذْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۝

وَلَكِنْ يَنْهَوْنَ عَنِ اتِّقَاتِ قِيَامًا ۝

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ
مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشَّهِيدِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ۝

ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى
بِاللَّهِ عَلِيمًا ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخذوا حذرکم
فانفروا اثباتاً أو انفروا جميعاً ۝
ولاء منكم لمن ليبطئن، فان
أصابكم مصيبة قال قد أعم
الله علي إذ لم أكن معكم شهيداً ۝

وَلَكِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ
لَيَقُولُنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَ

between you and him, "would that I had been with them, I would have got them achieve a great triumph".

74. Those who fight in the way of Allah, sell the life of this world for the hereafter. And whose struggle is in the way of Allah and then is killed becomes victorious. We (Allah) shall soon give him the great reward.

75. What happened to you that you do not fight in the way of Allah and for the weak men, women and children who say, "O our Rubb (Sustainer) take us out from this town whose people are cruel, and appoint for us from Yourself a protector and appoint from You our helper.

76. The believers fight in the way of Allah and the disbelievers (fight) in the way of satan (devil). So fight against the friends of the satan (devil) as the cunning strategy of the satan (devil) is weak.

SECTION 11

77. Have not you seen the people to whom it was said, "Restrain your hands and establish your Salaat (Muslim Prayers) and pay the Zakaat (compulsory dues for the have not Muslims) and when the execution of rebellious was made obligatory, a group of them started to fear from people as if they fear from Allah. Even they had a greater fear, and said, "O our Rubb (Sustainer) why have You made the execution (of rebels) obligatory for us. Would you not keep us alive for a while." You tell them (O dear Muhammad S.A.W.), "The enjoyment of this world

تمی، اے کاش! میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد پاتا (73)

تو انیس اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو دنیا کی زندگی بچ کر آخرت لیے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے، پھر مارا جائے یا غالب آئے، تو عقرب ہم اسے بڑا ثواب دیں گے (74)

اور تمہیں کیا ہوا کہ نہ لڑو! اللہ کی راہ میں اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے جو یہ دعا کر رہے ہیں، کہ اے ہمارے رب! ہمیں اس ہستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی دے دے، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے (75)

ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، تو شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے (76)

کیا تم نے انہیں نہ دیکھا؟ جن سے کہا گیا اپنے ہاتھ روک لو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں بعضے، لوگوں سے ایسا ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرے، یا اس سے بھی زائد، اور بولے! اے رب ہمارے! تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تمہاری مدت تک ہمیں اور جینے دیا ہوتا، تم فرماؤ کہ دنیا کا برتا (میں رہتا) تمہو ہے، اور ڈر والوں کے لیے آخرت اچھی، اور تم پر

بَيْنَهُمْ وَمَوَدَّةٌ بَلِيغَةٌ كُنْتُمْ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنَكَ دُونَهَا وَإِنَّا نَجْعَل لَنَا مِنَكَ دُونَكَ نَصِيرًا ۝

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا إِنَّا لَنَرَاهُمْ كَاتِبِينَ الْقِتَالِ كَؤُلاً أَخْرَجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ

little and the hereafter is better for those who are pious and you will not be dealt with unjustly to the seed of a date (to the least).

78. Wherever you may be death will over take you even though you were on the highest towers. If some good reaches them, they say, "it is from Allah, but if some evil befalls them, they say, "this is from you (Muhammad S.A.W.)". Please declare, "everything is from Allah. What has happened to these people that they fail to understand such a single fact.

79. Whatever good comes to you is from Allah, and whatever the evil falls on you is from your own self. We (Allah) have made you (O beloved Muhammad S.A.W.) the Rasool (Messenger of Allah) for all the mankind. And Allah is sufficient Witness (to that).

80. He who obeys the Rasool (Messenger of Allah) he indeed obeys Allah. But anyone who turns his face away then. We (Allah) have not sent you keeper over them.

81. And they say we obey, but when they leave you, a section of them plans whole the night such things which are very different what you had said. And Allah notes such nightly plots. Therefore (O beloved) leave them and trust in Allah. And Allah is enough as best Trustee.

82. Will they not then ponder on the Qura'an? If it had been from other than Allah they would have found their much differences.

مَتَاعَ الدُّنْيَا قَرِيبٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ

آگے (دعا کے) برابر علم نہ ہو گا (77)

تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آئے گی
گرچہ مضبوط قلعوں میں ہو، اور انہیں
کوئی بھلائی پہنچے تو کہیں، یہ اللہ کی طرف
سے ہے، اور انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہیں،
یہ حضور کی طرف سے آئی، تم فرما دو!
سب اللہ کی طرف سے ہے، تو ان لوگوں
کو کیا ہوا، کوئی بات سمجھتے معلوم ہی نہیں
ہوتے (78)

اے سننے والے! تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ
کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچے وہ
تمہاری اپنی طرف سے ہے، اور اے
محبوب! ہم نے تمہیں سب لوگوں کے
لیے رسول بھیجا اور اللہ کافی ہے گواہ (79)

جس نے رسول کا حکم مانا، چیک اس نے
اللہ کا حکم مانا اور جس نے منہ پھیرا، تو ہم
نے تمہیں ان کے بجائے کو نہ بھیجا (80)
اور کہتے ہیں ہم نے حکم مانا، پھر جب
تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں، تو
ان میں ایک گروہ جو کہہ گیا تھا اس کے
خلاف رات کو منصوبے کا منتظر ہے، اور
اللہ لکھ رکھتا ہے ان کے رات کے
منصوبے، تو اے محبوب! تم ان سے چشم
پوشی کرو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ
کافی ہے کام بنانے کو (81)

تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں؟ اور اگر
وہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا، تو ضرور اس
میں بہت اختلاف پاتے (82)

لَهُنَّ أَنْفُسٌ وَأَلْطَمُونَ فَبَيْلًا ۝
أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِيَنَّكُمُ الْمَوْتُ وَ
لَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ
تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ
يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ
كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ
الْقَوْمِ لِيَاذُونَ يَقُولُونَ حَدِيثًا ۝
مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ
اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ
نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا
وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
حَفِيظًا ۝
وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَدُوا مِنَ
عِنْدِكَ يَنْبَغُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ
عَبْرًا لِمَنْ يَكُفُّ وَاللَّهُ يَكْتُبُ
مَا يُبْتَغُونَ فَاغْرُضْ عَنْهُمْ
وَكُلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝
أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ
مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ
اِخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝

83. And when some news comes to them of satisfaction or of fear they propagate it. Had they referred it to the Rasool (Messenger of Allah) and their men of authority they would have known its reality. Had there been no Bounty from Allah and no Mercy from Him, you would have followed satan (devil), except a few of you.

84. (O beloved) fight in the way of Allah. You are held responsible only for yourself and urge the Muslims that Allah will soon diminish the disbelievers' might. And Allah is strongest in might and most severe in punishment.

85. Whoso recommends something justly shall get a share of it and whoso makes an evil recommendation shall bear the consequence of it. And Allah is most Powerful on all the things.

86. When someone greets you courteously return it with a better greeting tone or with similar courtesy. Surely Allah is very careful in accounting all the things.

[HALF OF PART 5 ENDS]
87. Allah is He except Whom none is to be worshipped. Surely He will collect you together on the Last Day, about which there is no doubt at all. And who has more truthful announcement than Allah?

SECTION 12

88. What happened to you that you were divided into two groups about the hypocrites and Allah has turned them back for their evil deeds. Do you desire to guide him who has been left on the wrong way by Allah

اور جب ان کے پاس کوئی بات اطمینان یا ڈر کی آتی ہے اس کا چرچا کر بیٹھے ہیں اور اگر اس میں رسول اور اپنے ذی اختیار لوگوں کی طرف رجوع لائے تو ضرور ان سے اس کی حقیقت جان لیتے۔ جو بعد میں کاوش کرتے ہیں اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے، مگر تھوڑے (83)

تو اے محبوب! اللہ کی راہ میں لڑو، تم تکلیف نہ دینے جاؤ گے مگر اپنے دم کی اور مسلمانوں کو اٹھا کر! قریب ہے کہ اللہ کانٹوں کی تختی روک دے اور اللہ کی آج (جنگی طالت) سب سے سخت تر ہے اور اس کا عذاب سب سے کرا (خفت) (84)

جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے اور جو بُری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے (85)

اور جب ہمیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہ دو، بیشک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے (86)

اللہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں اور وہ ضرور ہمیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، جس میں کچھ تک نہیں اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی (87)

تو ہمیں کیا ہو کہ منافقوں کے بارے میں دو فرق ہو گئے اور اللہ نے انہیں اونٹھا کر دیا ان کے کونکوں (بد اعمالیوں) کے سبب، کیا یہ چاہتے ہو کہ اسے راہ دکھاؤ

فَلَا جَاءَهُمْ أَتَمُّنَ الْأَرْضِ وَالْحَوْنِ
أَذْوَابُهُمْ وَأَوْرَدُوهُمَا إِلَى الرَّسُولِ وَ
إِلَى أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُ الَّذِينَ
يَكْسِبُ طَوْلَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ
اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ
الشَّيْطَانَ الْأَقْبَلِيَّ ۗ

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكْفُلُ
الْأَنْفُسَ وَخَرَضَ الْمُرْسَلِينَ
عَنِ اللَّهِ أَنْ يَكْفُفَ بِأَسْ الذِّنِّ
كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ
تَنْكِيلًا ۗ

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ
لَهُ أَجْرٌ بِرَبِّهِ وَمَنْ يَشْفَعْ
شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَكُ الْكُفْلِ
يَوْمَئِذٍ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا
وَلَا أَحْسَبُ أَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ
وَإِنَّمَا أَوْرَدُوا هَٰذَا إِلَى اللَّهِ كَمَا كَانَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ حَصِيرًا ۗ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى
يَعْلَمُ الْغُيُوبَ ۗ لَا يُرِيبُكَ وَمَنْ
بِمَا أَصْدَقَ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ۗ

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةً
وَاللَّهُ أَكْثَرُ عِلْمًا كَسِبُوا
أَنْتِبَادُونَ أَنْ تُكْفِرُوا مِنْهُمْ
اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ
يَهْدِيَهُ ۗ

For those who are left on the wrong way by Allah for such ones you will not be able to find a way.

89. They wish that you should become disbeliever, as they disbelieve, so that all of you come at par with. But do not take friend from them unless they also emigrate (leave homes in the way of Allah). Then if they turn back (to enmity) get hold of them and kill them wherever you find them. And never make anybody a friend from them or a helper from their ranks.

90. Except those who join such a people between whom and you there is a treaty of peace or those who approach you from their hearts that they are fearful to fight with you or fight against their own people. Be patient to them. Had Allah Willed He could have given them power over you and then they would, surely, have fought with you. So if they withdraw from you and do not fight with you and offer you peace then Allah does not oppose to you any way (of aggression) against them.

91. You will find such others who wish to gain safety from you and security from their own people. Whenever their people turn towards mischief they are plunged into it. If they do not withdraw from you and neither offer you peace nor restrain their hands then catch them and kill them where ever you find them. And against them We (Allah) have given you clear authority.

جسے اللہ نے گمراہ کیا؟ اور جسے اللہ گمراہ کرے تو ہرگز تو اس کے لیے راہ نہ پائے گا (88)

وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں تم بھی کافر ہو جاؤ، جیسے وہ کافر ہوئے، تو تم سب ایک ہو جاؤ، تو ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، جب تک اللہ کی راہ میں گمراہ نہ چھوڑیں، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں کسی کو نہ دوست ٹھہراؤ، نہ مددگار (89)

مکر وہ جو ایسی قوم سے علاقہ رکھتے ہیں کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے، یا تمہارے پاس یوں آئے کہ ان کے دلوں میں شک نہ رہی کہ تم سے لڑیں، یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر قابو دیتا، تو وہ بیکم تم سے لاتے، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کریں، اور نہ لڑیں، اور صلح کا پیام ڈالیں، تو اللہ نے تمہیں ان پر کوئی راہ نہ رکھی (90)

اب کچھ اور تم ایسے پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امان میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امان میں رہیں جب کبھی ان کی قوم انہیں فساد کی طرف پھیرے، تو اس پر اوندھے (منہ کے بل) کرتے ہیں، پھر اگر وہ تم سے کنارہ نہ کریں، اور صلح کی گردن نہ ڈالیں، اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو اور یہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں صریح اختیار دیا (91)

يُحَدِّثُكَ سَبِيلًا ۝

وَذُوَالْوَالِئَاتُ كَمَا كَفَرُوا
فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَحْزَنُوا لَهُنَّ
أَهْلِيَاءَ حَتَّىٰ يَبْجُرُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَإِنْ لَوَّكُوا فَعَذَابُ اللَّهِ أَشَدُّ لَهُمْ
حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا
مِنْهُمْ وُليَاءَ وَلَا نَصِيرًا ۝

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءَتْكُمْ حِصْرَةٌ
صَدُورُهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِكُمْ أَوْ يَفْعَلَ
بِكُمْ قَوْمُهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ
عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ وَإِنْ عَازَلْتُمْ
فَلَمْ يَفْعَلُوا بِكُمْ وَالْقَوْلُ إِلَيْكُمْ السَّلَامُ
فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۝

سَيَجِدُونَ الَّذِينَ يَرِيدُونَ أَنْ
يَأْمَنُوا بِكُمْ وَيَآمِنُوا بِقَوْمِهِمْ كُلَّمَا
رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا
فَلَنْ تَجْعَلُوا لَهُمْ سَبِيلًا ۝
سَلَامٌ وَيَقُولُوا إِلَيْكُمْ فَجَدُّوا لَهُمْ
وَأَتَانَهُمْ حَيْثُ تَقَعْتُمُوهُمْ وَلَا يُؤْتِي
بِحُجَّتِهِمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ يُدْعَى ۝

SECTION 13

92. And it is definitely not proper for a believer (Muslim) to kill a believer (Muslim) except by mistake. If any one kills a believer (Muslim) by mistake he will free a believer (Muslim) in bondage and pay blood money (restitution) to the family of the slain, unless they remit it as charity. If he(she) (the victim) be of a people hostile to you and be a believer (Muslim) then let him get a believer (Muslim) freed from bondage. And if he is from such people between whom and you is a treaty then let such one pay blood money (restitution) to victim family and get freed a believer (Muslim) in bondage. But if there is none such to be freed, then he (killer) should fast for two consecutive months as a repentance to Allah. Allah is Knowing, Wise.

93. And whose intentionally kills a believer (Muslim) his end is in the hell to remain there forever with Allah's wrath upon him and His curse and for him a dreadful punishment has been prepared.

94. O believers (Muslim) when you move out for Jahaad (voluntary sacred war in self defence) investigate carefully and do not say anything to those who offer you greetings of peace that you are not a believer (Muslim). You seek the goods of the present life only. But with Allah are the abundant rewards. Such were your customs before this but now Allah Bestowed special favor on you. So a careful

اور مسلمانوں کو نہیں پہنچتا کہ مسلمان کا خون کرے مگر ہاتھ بٹک کر اور جو کسی مسلمان کو ناوانست قتل کرے تو اس پر ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا ہے اور خون بجا کہ محتول کے لوگوں کو سپرد کی جائے مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں پھر اگر وہ اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور خود مسلمان ہے تو صرف ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا اور اگر وہ اس قوم میں ہو کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے تو اس کے لوگوں کو خون بجا سپرد کی جائے اور ایک مسلمان مملوک آزاد کرنا تو جس کا ہاتھ نہ پہنچے وہ نگار دو مہینے کے روزے رکھے یہ اللہ کے میل اس کی توبہ ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے (92)

وَلَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا
إِخْطَاءً ، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ
مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَكْفِدُوا
فَأَنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ
إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
عَهْدٌ فَلِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فَوْسِحًا مُّشْرَبِيْنٍ مُّتَدَاعِيْنٍ
تَوْبَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلا جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے تیار کر رکھا ہے بڑا عذاب (93)

اے ایمان والو! جب تم جہاد کو چلو! تو تحقیق کر لو! اور جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں تم جھٹی دنیا کا اسباب چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہتری نہیں ہیں پہلے تم بھی ایسے ہی تھے پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو تم پر تحقیق کرنا لازم ہے بیٹک اللہ کو

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا
فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَهُوَ
غَضِبٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةٌ وَأَعْدَاءُ عَدَا
بِهَا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ
سَبِيلَ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا
لِمَنْ آتَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامُ كُنتُمْ
مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَعَالِمٌ كَثِيرَةٌ
كُذِّبَتْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ
عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا

investigation is compulsory for you. Surely Allah is aware of what you do.

95. Those of the believers who stay back without being disabled and those who strive in the Way of Allah with their wealth and their persons are not equal. Allah exalts those in ranks who strive in His Way with their wealth against persons who stay back. And to each Allah has promised good. And Allah Will exalt those who strive hard with great reward against those who hold back;

96. the ranks of excellence, forgiveness and mercy from Him (is their reward). Allah is surely Forgiving, Merciful.

SECTION 14

97. Surely those whom the Angels take away (to death from their souls) while still they were committing cruelties on themselves, Angels say to them, "in what circumstances were you on the earth"? They will reply, we were weak in the earth".

They (Angels) will say, "was not Allah's earth spacious enough for you that you might have emigrated (left homes) from it (away from the evil)". Such men will find their end in the hell which is the worst place to return;

98. except those who were the oppressed men, women and children, who could not plan anything to get a way of escape. (All others will remain in hell).

99. It is likely that Allah may forgive such one's sins. Allah is Pardoner of sins and Forgiving.

تمہارے کاموں کی خبر ہے (94)

برابر نہیں وہ مسلمان کہ بے عذر جماد سے بیٹھ رہیں اور وہ کہ راہ خدا میں اپنے مالوں اور جانوں سے جماد کرتے ہیں، اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جماد کرنے والوں کا درجہ بیٹھے والوں سے بڑا کیا، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا، اور اللہ نے جماد والوں کو بیٹھے والوں پر بڑے ثواب سے فیض دیا ہے (95)

اس کی طرف سے درجے اور بخشش اور رحمت، اور اللہ بیٹھے والا مہربان ہے (96)

وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے ان سے فرشتے کہتے ہیں، تم کا ہے میں تھے کہتے ہیں، کہ ہم زمین میں کمزور تھے، کہتے ہیں، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ تو ایسوں کا ٹھکانا جہنم ہے اور بہت بری جگہ بیٹھے کی (97)

مگر وہ جو ہالے گئے مرد اور عورتیں اور بچے، جنہیں نہ کوئی تدبیر بن پڑے نہ راستہ جائیں (98)

تو قریب ہے اللہ ایسوں کو معاف فرمائے، اور اللہ معاف فرمانے والا بیٹھے والا ہے (99)

تَعْمَلُونَ خَيْرًا ۱۴

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَبِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَلَا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۱۵

دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۱۶ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۱۷

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأُولَٰئِكَ نَسُفُكُلُوا كَمَا أَسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا لِمَ تَكُنِ الْأَرْضُ وَالسَّعَةُ فَمَا جُزِئْنَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۱۸

إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَتَّطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَتَّذَرُونَ سَبِيلًا ۱۹ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۲۰

100. Whoso migrates in the way of Allah, will find in the earth many refuges and plenty for his life. And whoso goes forth from his home as an emigrant for Allah and His Rasool (Messenger of Allah), and death overtakes him(her) during that period, his(her) reward becomes obligatory on Allah. And Allah is Forgiving, Merciful.

SECTION 15

101. And when you travel in the earth it is no fault on you if you shorten Salaat (Muslim Prayers), in case you fear that the disbelievers may attack you. In truth the disbelievers are surely your open enemies.

102. And (O beloved Holy Prophet Muhammad S.A.W.) when you are among them then lead the Salaat (Muslim Prayer) There should be a group of them who should be your colleagues and let them take their weapons in defence. When they have finished their prostration, let them go on your rear. Then let the other group, which has not yet prayed come up to complete their prayer with you taking all defensive precautions and bearing arms. The disbelievers wish that you should be careless about your arms and baggage to thrust upon you in a single attack. And there is no fault on your part if you put away your arms because of inconvenience of rain or because you are ill. But take every precaution for protection of yourselves. For the disbelievers Allah has prepared a humiliating punishment.

اور جو اللہ کی راہ میں گمراہ چھوڑ کر نکلے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور نجاش پائے گا اور جو اپنے گھر سے نکلا اللہ و رسول کی طرف ہجرت کرتا پھر اسے موت نے آیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ پر ہو گیا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے (100)

اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے بے شک کفار تمہارے کلمے دشمن ہیں (101)

اور اے محبوب! جب تم ان میں تشریف فرما ہو پھر نماز میں ان کی امامت کرو تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لے رہیں پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں اور اب دوسری جماعت آئے جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی اب وہ تمہارے مقتدی ہوں اور چاہیے کہ اپنی پناہ اور اپنے ہتھیار لے رہیں اور کافروں کی تمنا ہے کہ کہیں تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ تو ایک دلدہ تم پر جگ پڑیں اور تم پر مضائقہ نہیں اگر تمہیں سینہ (بارش) کے سبب تکلیف ہو یا تیار ہو کہ اپنے ہتھیار کھول رکھو اور اپنی پناہ لے رہو بے شک اللہ نے کافروں کے لیے خوارگی کا عذاب تیار کر رکھا ہے (102)

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَرْغَبًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

وَإِذَا خَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ الْكُفْرَانُ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ الْأَمَّ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا آسَلِحَتَهُمْ فَإِذَا اسْجَدُوا فَليُكُونُوا مِنْ وَّرَائِكُمْ وَسَوَّآتٍ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حُدُوسَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَٰلِكُمْ لِكُفْرِهِمْ وَلِتُغْلِبُوا عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِكُمْ لَعَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمْ لِيَاكُفُّوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ إِذَى مِنْ غَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ أَنْ تَقْعُرُوا وَرُءُوسَكُمْ وَخَدُّوْا جُذُوعَكُمْ إِنْ اللَّهُ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُبِينًا

110. And whoso commits crime or indulges in wrongs then prays for the forgiveness of Allah he shall find Allah Forgiving, Merciful.

111. And whoso indulges in misdeed he commits it against himself. And Allah is Knowing, Wise.

112. And whoso earns a misdeed or a sin and then casts it on some innocent certainly he bears that falsehood and a clear cut sin.

SECTION 17

113. (And O beloved Prophet) had not the Bounty of Allah and His Mercy been with you a group of them would have certainly tried to deceive you. But they deceive their own selves and they cannot do any harm to you. And Allah has revealed to you the Book and the wisdom and taught you what you did not know. And Allah's Bounty to you is surely great.

[THREE FOURTH OF PART 5 ENDS]

114. In most of their secret conferences their is no good, except for him who does a deed of charity and kindness or settles things rightly between the people. Whoso does that seeking Allah's pleasure, We (Allah) shall bestow on him a great reward.

115. If anyone makes a breach with the Rasool (Messenger of Allah) after the right guidance has become clear to him, and follows a path other than that of the believers (Muslim). We (Allah) shall leave him over to perform what he has chosen, and shall throw him in the

اور جو کوئی برائی یا ایسی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخش جائے، تو اللہ کو بخشے والا مہربان پائے گا (110)

اور جو گناہ کمائے، تو اس کی کمائی اسی کی جان پر پڑے، اور اللہ ظلم و حکمت والا ہے (111)

اور جو کوئی خطا یا گناہ کمائے، پھر اسے کسی بے گناہ پر توہم دے، اس نے ضرور ہستان اور کلام گناہ اٹھایا (112)

اور اے محبوب! اگر اللہ کا فضل و رحمت تم پر نہ ہوتا، تو ان میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے کہ تمہیں دھوکا دیں، اور وہ اپنے ہی آپ کو بھگت رہے ہیں، اور تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے، اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری، اور تمہیں سکھایا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے (113)

ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں میں صلح کرنے کا، اور جو اللہ کی رضا چاہنے کو ایسا کرے، اسے عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے (114)

اور جو رسول کا خلاف کرے بعد اس کے کہ حق راست اس پر کھل چکا، اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے، اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے، اور کیا

وَمَنْ يَفْعَلْ سُوءًا أَوْ يظلم نفسه ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١١٠﴾

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١١﴾
وَمَنْ يَكْسِبْ كُفْرًا ثُمَّ يَتُوبْ يَنْوِبْ بِهِ وَيُرَى أَنفَدًا حَسَمًا بُعْتًا نَا كَلَامًا لَّيِّنًا ﴿١١٢﴾

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَصُدُّوكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ جُورِهِمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ

hell. What an evil destination that is.

SECTION 18

116. Surely, Allah does not forgive that anything is associated with Him but shall forgive apart from that whom He Wills. Whoso associates any thing will Allah he goes on the wrong path, far away.

117. Such ones worship none except some lifeless objects; rather they worship satan (devil) who is a rebel;

118. He (satan) has been cursed by Allah. He (satan) said, "I will surely take some specific share out of your devotees" (to the wrong path);

119. "and I (satan) surely shall lead them on the wrong path and induce in them wrong and vicious desires and shall tell them to cut off the ears of the cattle and shall certainly order them to alter the creation of Allah. Whoso takes the satan (devil) as friend, apart from Allah, surely suffers a clear loss.

120. He (devil) gives them promises and induces them with vicious desires but the satan (devil) only deceives them with vanities,

121. Hell shall be their destination wherefrom they shall find no way out.

122. Those who believe and do right deeds We (Allah) shall admit them to the Paradise, shortly, under which streams flow, where they will remain forever. Such is true promise of Allah. And who is truthful in promise more than Allah.

123. It goes neither according to your wish nor the desire of the people of the Book. Whoso indulges in evil

عی بری جگہ پلنے کی (115)

عَجِبْتُمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٦﴾

اللہ سے نہیں بٹھا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرماتا ہے اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دوزخ کی گمراہی میں پڑا (116)

یہ شرک والے اللہ کے سوا نہیں پوجتے مگر کچھ عورتوں کو اور نہیں پوجتے مگر سرکش شیطان کو (117)

جس پر اللہ نے لعنت کی اور بولا، قسم ہے میں ضرور تیرے بندوں میں سے کچھ ٹھہرایا ہوا حصہ لوں گا (118)

قسم ہے میں ضرور ہمکا دوں گا اور ضرور انہیں آرزوئیں دلاؤں گا اور ضرور انہیں کموں گا کہ وہ چہایوں کے کان چیریں گے اور ضرور انہیں کموں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے وہ صریح ٹوٹے (خسارے) میں پڑا (119)

شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزوئیں دلاتا ہے اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر فریب کے (120) ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے (121)

اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کچھ دیر جاتی ہے کہ ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے، جگے نیچے نرسیں ہمیں بیٹھ بیٹھ ان میں رہیں اللہ کا سچا وعدہ اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی (122)

کام نہ کچھ تمہارے خیالوں پر ہے اور نہ کتاب والوں کی ہوس پر جو برائی کرے گا

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ لِمَنْ يَشْرِكْ بِهِ وَهُوَ يُغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ صَلِيلًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾

إِنَّ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ آيَاتًا وَلَنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴿١١٧﴾

لَعْنَةُ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْعِبَادَةِ تَبِيءًا مَقْرُونًا ﴿١١٨﴾

وَالَّذِينَ هُمْ وَأَصْفَادُهُمْ وَأَمْثِلُهُمْ فَلْيَبْتَئِنَّا أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَوْلَاهُمْ فَيَلْبِغُونَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَبْغِضِ

الشَّيْطَانَ وَلِإِيقَانِ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

يَعِدُّهُمْ وَيُوعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾

أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَخْرَجًا ﴿١٢١﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿١٢٢﴾

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ

deeds will get its return and will not find for him(her) any friend or helper, except Allah. 124. And whoso does right deeds, whether a male or a female, and is a believer (Muslim), such shall enter the Paradise and will not be given a trouble to the smallest bit (to a date-stone).

125. Who is better in religion than the one who turns his face to Allah and submits. He is the pious person who follows the religion of Ibraaheem (Abraham), the Hanifa (upright). And Allah has made Ibraaheem (Abraham) his special friend.

126. To Allah belongs all that is in the heavens and all that is in the earth. And Allah encircles all things (universe).

SECTION 19

127. They ask you your decree concerning the women. Please declare, "Allah decrees to you about them and what is recited to you in the Book (Qura'an) concerning the orphan girls to whom you do not give what is prescribed for them and yet you refuse to marry them. And concerning the helpless children He has instructed you to stand for justice for the orphans. Allah Knows whatever the good you do.

128. If a woman fears ill-treatment or desertion from her husband there is no sin for both of them that they reconcile between each other. Mutual reconciliation is the best. But human hearts are in the grip of greed. And if you do good and become

اس کا بدلہ پائے گا اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا مددگار پائے گا نہ مددگار (123)

اور جو کچھ بھلے کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان تو وہ جنت میں داخل کئے جائیں گے اور انہیں تل بھر نقصان نہ دیا جائے گا (124)

اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی والا ہے اور ابراہیم کے دین پر جو ہر باطل سے جدا تھا اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا کرا دوست بنایا (125)

اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے (126)

اور تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں تم فرما دو کہ اللہ تمہیں ان کا فتویٰ دیتا ہے اور وہ جو تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے ان سیم لڑکیوں کے بارے میں کہ تم انہیں نہیں دیتے جو ان کا مقرر ہے اور انہیں نکاح میں بھی لانے سے منہ پھیرتے ہو اور کمزور بچوں کے بارے میں اور یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو اور تم جو بھلائی کرو تو اللہ کو اس کی خبر ہے (127)

اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رنجی کا اندیشہ کرے تو ان پر گناہ نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں اور صلح خوب ہے اور دل لالچ کے پھندے میں ہیں اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو تو

الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ وَ لَا يُجِدْ لِنَفْسِهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ۝

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا لِمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۝

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخِطًا ۝

وَلَمَّا تَفَقَّهْتُمْ فِي النِّسَاءِ قُلْ لِلَّهِ يُقَدِّمُهُمْ وَيُؤَخِّرُهُمْ وَمَا يُشِئُ عَلَيْهِمْ فِي الْكِتَابِ فِي يُنْفِئُ النَّسَاءَ الَّتِي لَا تَوَدُّنَّ أَنْ يُكْتَبَ لَهُنَّ وَرَحْمَةٌ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ۝

وَإِنْ أَهْرَأَ أَحَدُكُمْ مِنَ بَعْلِهَا فَشَوْرًا أَوْ عَارَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ

pious Allah is aware of what you do.

129. And you will not be able to equally treat more wives however you may desire so. Yet do not incline altogether towards only one (wife) that the other is left in suspense. And if you do the right and become pious surely Allah is Forgiving, Merciful.

130. And if they (wives) separate, Allah will make you plentiful with His Bounty. And definitely Allah is Bountiful, Wise.

131. And all that belongs to Allah whatever is in the heavens and whatever is in the earth. And certainly those who were bestowed the Book before you and to you also We (Allah) Commanded to be pious with Allah. But if you disbelieve then surely to Allah belongs all that is in the heaven and all that is in the earth. And Allah is definitely All sufficient, All-Praise worthy.

132. To Allah belongs all that is in the heaven, and all that is in the earth. Allah is enough as a great Care-taker.

133. O Mankind! He may remove you away if He Wills and surely Allah is Powerful to do that.

134. Whoso desires the reward of this world then know that the reward of this world and that of the hereafter is with Allah and Allah is Hearing and Seeing.

SECTION 20

135. O believers stand firm for justice while giving witness for Allah even though it may be against your own selves or your parents or your

اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے (128)

اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو اور چاہے کتنی ہی حرص کرو تو یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف پورا بجک جاؤ کہ دوسری کو ادھر (درمیان) میں لٹکی چھوڑ دو اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو تو

بجک اللہ بخشنے والا مہربان ہے (129)

اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی کھائش (دوست) سے تم میں ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا اور اللہ کھائش (دوست) والا حکمت والا ہے

(130)

اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور بیگنہ ناپید فرما دی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اگر کفر کرو تو بیگنہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور اللہ بے نیاز ہے سب خوبیوں سربراہ (131)

اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور اللہ کافی ہے کارساز (132)

اسے لوگو! وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور اوروں کو لے آئے اور اللہ کو اس کی قدرت ہے (133)

جو دنیا کا انعام چاہے تو اللہ ہی کے پاس دنیا و آخرت دونوں کا انعام ہے اور اللہ سنا دیکھتا ہے (134)

اسے ایمان والو! انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ! اللہ کے لئے گواہی دیتے چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا

اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾
وَلَنْ نَسْتَبِيْعَهُمْ أَنْ تَعْدُوا لِيَوْمِنَ
النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمِيلِ فَيُكَلِّمَهُمُ الْمَعْلُومَةَ
وَإِنْ تَصْبَحُوا وَتَتَّظِقُوا أَنْ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

لَنْ يَتَّفِقُوا يَتَّفِقُوا أَنْ اللَّهَ كَانَ قَسِيمًا
سَعِيْبُهُ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ
وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا
حَمِيدًا ﴿١٣١﴾

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَكُنْفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٣٢﴾

إِنْ يَشَاءُ يُغْفِرْ لَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَ
يَأْتِ بِالْخَيْرِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيًّا
ذَلِكُمْ قَدِيرًا ﴿١٣٣﴾

مَنْ كَانَ يُرِيدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا
فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
بِئْسَ مَا يَكْسِبُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مِنْ
بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنْفُسِكُمْ أَوَالِي الدِّينِ وَالْآقْرَبِينَ

kings. And whether it (witness) be against rich or poor, Allah is more near to both of them. Donot follow the passions and donot fail in justice to tell truth. And if you conceal or avoid (truthful witness) then surely Allah is well aware of what you do.

136. O believers believe in Allah and His Rasool (Messenger of Allah) and the Book which He has revealed to His Rasool (Messenger) and the Books which He revealed to the previous ones. Whoso disbelieves in Allah and His Angels and His Books and the last day, surely he goes far away on the wrong way.

137. Surely the people who believe, then disbelieve, then again return back to belief and then again reject faith and increase in their disbelief Allah will neither pardon them nor will guide them on the right path.

138. Give the clear news to the hypocrites that for them there will be sever punishment.

139. Those who choose disbelievers as friends than the believers what honor they get out of it that all honor is for Allah.

140. And certainly He has already revealed to you in His Book that when you see the Verses of Allah being refused and ridiculed you should not sit with such people unless they engage in some other conversation. Otherwise you will also be like them. Allah will collect all the hypocrites and all those who refute faith, in the hell.

رشتہ داروں کا جس پر گواہی دے وہ فنی ہو یا فقیر ہو، بہر حال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے، تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ، کہ حق سے الگ پڑو، اور اگر تم بہر پھیر کرو، یا تم پھیرو، تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے (135)

اسے ایمان والو! ایمان رکھو اللہ اور اللہ کے رسول پر! اور اس کتاب پر جو اپنے ان رسول پر آئی، اور اس کتاب پر جو پہلے آئی، اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کو، تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا (136)

بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے، پھر کافر ہوئے، پھر اور کفر میں بڑھے، اللہ ہرگز نہ انہیں بخشنے، نہ انہیں راہ دکھائے (137)

خوش خبری دو منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے (138)

وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے (139)

اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں آتا چکا کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو، کہ ان کا انکار کیا جاتا اور ان کی ہنسی بتائی جاتی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، جب تک وہ اور بات میں مشغول نہ ہوں، ورنہ تم بھی انہیں جیسے ہو، بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اٹھا کرے گا (140)

إِنْ يَكُنْ عَيْنًا أَوْ كَفِيًّا أَمَا لِلَّهِ أَقْبَلُ
بِهِمَا فَلَا تَجْعَلُوا الْهُدَىٰ أُنْتِ
تَعْبُدُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا
فَلِإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٦﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلْنَا مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَمْرًا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٧﴾

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَذُوا كَفَرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُمْ وَلَا يُفِيدُهُمْ سَبِيلًا ﴿١٣٨﴾
بَشِيرًا الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٩﴾

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكُفْرَانَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلْيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾
وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيَسْتَهْزِئُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ تَخْرُجُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذْ لَمِثْلُهُمْ إِنْ اللَّهُ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾

141. They are the ones who wait for good news about you. They watch the occasion that if you get a victory from Allah they say, "were we not with you?" And if the disbelievers meet with it (success) they say "had we not gained an advantage over you and guarded you from the believers (Muslim)?" But Allah will judge between you on the Day of Resurrection. And Allah will not grant the disbelievers any (success) against the believers (Muslima).

SECTION 21

142. The hypocrites think that they are betraying Allah. But Allah will overtake them. When they stand up in Salaat (Muslim Prayer) they stand up with defeated hearts, just to show off to the mankind. But they have no concern with the remembrance of Allah except a little.

143. They have confusion in their minds being neither on this side nor with that group. Whom Allah leaves to go to wrong way none can take such one to right path.

144. O believers do not make the disbelievers your friends against the believers (Muslims). Would you like it to be a clear proof against you before Allah ?

145. Surely the hypocrites will be thrown in the lowest depth of fire. They will find no helper for them;

146. except those who repent and amend and hold fast to Allah and purify their religion for Allah only. They

وہ جو تمہاری حالت کا کرتے ہیں، تو اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے، کیا تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کا حصہ ہو، تو ان سے کہیں، کیا ہمیں تم پر قابو نہ تھا؟ اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا، تو اللہ تم سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا (141)

بے شک منافقین لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا جاتے ہیں، اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہمارے جی سے، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تمہارا (142)

بچ میں ڈنگا رہے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا (143)

اے ایمان والو! کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت کر لو؟ (144)

بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نیچے طبقہ میں ہیں، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا (145)

مگر وہ جنہوں نے توبہ کی، اور سنوے، اور اللہ کی رسی مضبوط تھامی، اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا، تو یہ مسلمانوں

الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ بِكُمْ قَانَ كَانُ لَكُمْ فَتَحَرَّ مِنْ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانُ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَالذَّالِمُ بِمَا يُكْمِرُ كَيْفَ يُكْمِرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ بِغِ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾

مَنْذِبًا بَيْنَ بَيْنِ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أُوْرِيدُونَ أَنْ يُجْعَلُوا بِرَبِّهِمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَبُيِّنَّا ﴿١٤٤﴾

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الذَّرَابِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ

are among the believers. And Allah will soon Bestow the believers with best reward.

147. Allah has no gain by punishing you if you are grateful and believe in Him. Allah is All-Appreciative, All-Aware.

PART 6

S. IV

UN-NISAA' (Contd.)

THE WOMEN-Contd.)

SECTION 21 (Contd.)

148. Allah does not like the use of fowl words by any one in public except by that (person) who is a victim. And certainly Allah is Hearing, Knowing.

149. If you do any right deed openly in public or in secret or forgive anyone's misdeeds then surely Allah is Pardoning, Powerful.

150. Those disbelieve who in Allah and His Rasools (Messengers) and desire to separate Allah from Rasools (Messengers) and say, "we believe in some (Prophets) but we deny others (Prophets) and wish to evolve a way in between" (faithfulness and infidelity);

151. (In truth) they are the disbelievers and We (Allah) have already prepared a degrading punishment for the disbelievers.

152. And the people who have belief in Allah and in all of His Rasools (Messengers) and have made no distinction between any of them, in believing them so, Allah soon will give them their reward. And Allah is Forgiving, Merciful.

SECTION 22

153. (O beloved Prophet Muhammad S.A.W²) the

کے ساتھ ہیں اور مغرب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا (146)

اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ اور اللہ ہے صلہ دینے والا جاننے والا (147)

اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم سے اور اللہ سنتا جانتا ہے (148)

اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرنا چاہتے ہو یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو چیک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے (149)

وہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دیں اور کہتے ہیں ہم کسی پر ایمان لائے اور کسی کے منکر ہوئے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال لیں (150)

یہی ہیں ٹھیک ٹھیک کافر اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے (151)

اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہ کیا انہیں مغرب اللہ ان کے ثواب دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے (152)

اے محبوب! اہل کتاب تم سے سوال

مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ
الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾
مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ
شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ
شَاكِرًا عَرِيفًا ﴿١٤٧﴾

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْبَهْرِيَّ الشَّؤْمَ
وَمِنَ الْقَوْلِ الْآمَنُ ظَلَمٌ وَكَانَ
اللَّهُ سَمِيعًا عَرِيفًا ﴿١٤٨﴾
إِنْ تَبْتَغُوا عِزًّا أَوْ يُخَفِّوْهُ أَوْ تَعْفُوا
عَنْ سُوءِهِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا
قَدِيرًا ﴿١٤٩﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضِ
وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ وَنُرِيدُونَ أَنْ
يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سُبُلًا ﴿١٥٠﴾

أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٥١﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ
يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ
سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمُ وَكَانَ
عِنْدَ اللَّهِ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٥٢﴾

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تَنزِلَ

people of the Book ask you to reveal to them another book from the heaven, but they also asked Moosaa (Moses) a greater thing than this. They said (to him), "show us Allah openly". Then the thunder overtook them due to their cruelties. Then they adopted for worship the calf after clear verses were revealed to them. But We (Allah) forgave them even that and gave (Moses) a clear authority;

154. and then We (Allah) raised the mount Toor over them for their undertaking saying to them, "enter the gate prostrating", and told them never to violate the prescription of Sabbath (Saturday Halt for Jews). And We (Allah) took from them a firm undertaking.

155. Then they violated their undertaking due to which We (Allah) cursed them because they denied the verses of Allah and killed unjustly the Uumbia (Prophets of Allah—the communicators of hidden news) and for their statement that their hearts are wrapped in safe. But Allah has left their hearts sealed because of their disbelief. They have no belief except a little.

156. And for their disbelief and their very grave charge against Maryam (Mary);

157. and their saying, "We killed Massih (Jesus son of Mary), the Rasool (Messenger) of Allah, although neither they could crucify him nor could kill him at all. But one similar type (of person) was shown to them (being killed). And surely there are the people who differ in that as they are

کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دو، تو وہ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے، کہ بولے! ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھا دو، تو انہیں کڑک (بھلی) نے آیا، ان کے گناہوں پر، پھر چمڑا لے بیٹھے بعد اس کے کہ روشن آیتیں ان کے پاس آجائیں، تو ہم نے یہ صاف فرما دیا اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ دیا (153)

پھر ہم نے ان پر طور کو اونچا کیا ان سے عہد لینے کو، اور ان سے فرمایا: کہ دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو، اور ان سے فرمایا: کہ ہفتہ میں حد سے نہ بدھو، اور ہم نے ان سے گاڑھا عہد لیا (154)

تو انکی کسی بد عہدوں کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور اس لیے کہ وہ آیات الہی کے منکر ہوئے، اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مر لگا دی ہے، تو ایمان نہیں لاتے مگر تمہوڑے (155)

اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم پر بڑا ہتسان اٹھایا (156)

اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیحیح بن مریم، اللہ کے رسول کو شہید کیا اور ہے یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے ان کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا، اور وہ جو اس کے بارہ میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور

عَلَيْهِمْ رَبُّنَا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا
مُوسَىٰ الْكَبِيرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا
اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذْتَهُمُ الصَّوَاعِقُ
يَظْلِمُهُمْ ثُمَّ أَنزَلْنَا مِنَ الْعِصَىٰ
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ
فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَإِنَّ مُوسَىٰ
سُلْطٰنًا مُّبِينًا ﴿١٥٣﴾

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِبَيِّنَاتٍ لِّرَبِّم
وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ
وَإِخْرَاجًا مِنْهُمْ مِيثَاقًا عَظِيمًا ﴿١٥٤﴾

فَبِمَا نَقَضْتُمْ هَؤُلَاءِ عَهْدَهُمْ وَفَضَّلْتُمْ
بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلْتُمُ الرِّبِّيَّاءِ
بِغَيْرِ حَقٍّ ذُكِّرْتُمُ قُلُوبِنَا غُلْفًا
بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ
فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٥﴾

وَيَكْفُرُ بِهِمْ وَقَوْلُهُمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ
بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴿١٥٦﴾

وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ
ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ
وَمَا صَلَّبُوهُ وَلَكِنْ شَبَّهَهُمْ لَهُمْ
وَأَنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي

in doubt about it. Because they have no knowledge of it except following their conjectures about it and they definitely did not kill him;

158. but Allah raised him up to Himself. And Allah is Honorable, Wise.

159. And there is none among the people of the Book but every one of them will surely believe in him before his death. And he (Jesus) will be a witness against them on the Day of Resurrection.

160. Due to the great cruelties of the Jews, We (Allah) made unlawful for them some of the pure things that were permissible to them because of the fact that they barred many people from the right path of Allah;

161. and because they received usury (interest) which was prohibited for them and for their consumption of the wealth of the mankind wrongfully. And those of them who became disbelievers We (Allah) have prepared a severe punishment for them.

162. But those of them who are firm in knowledge and belief, they believe in what has been revealed to you, (O beloved Prophet), and what has been revealed before you. And they establish the Salaat (Muslim prayer) and pay Zakat (compulsory due to the have nots) and those who believe in Allah and the Last Day We (Allah) shall certainly give them great reward.

SECTION 23

163. Surely (O beloved Prophet) We (Allah) have bestowed to you such

اس کی طرف سے شہدے ہوئے ہیں، انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں، مگر یہی گمان کی جیروی اور جیک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا (157)

بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے (158)

کوئی کتاب ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا (159)

تو یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب ہم نے وہ بعض ستمی چیزیں کہ ان کے لیے حلال تھیں، ان پر حرام فرما دیں، اور اس لیے کہ انہوں نے بتوں کو اللہ کی راہ سے روکا (160)

اور اس لیے کہ وہ سود لینے، حلالاکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے، اور لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے اور ان میں جو کافر ہوئے ہم نے ان کے لیے درد ناک عذاب تیار کر رکھا ہے (161)

ہاں! جو ان میں علم میں یکے اور ایمان والے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے محبوب! تمہاری طرف اترا، اور جو تم سے پہلے اترا، اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے، اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے، ایسوں کو مقرب ہم بڑا ثواب دیں گے (162)

جیک اے محبوب! ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے وحی نوح اور اس کے بعد

شَاقِبَةً مَّا لَمْ يَهْرَبِهِمْ مِنْ وَّلَاةٍ
إِلَّا آتِيَاءَ الظَّنِّ وَمَا تَكُونُوا
يُوقِنُوا ۝

بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ
عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْيَاقِينِ
يَهْتَدُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۝

فَيُظَاهَرُونَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا وَّحَرَمْنَا
عَلَيْهِمْ طَبِيبَاتِ أَحْكَامِ الْكُفْرِ
يَصَدِّقُهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَذِبًا ۝

فَأَخَذْنَاهُم بِالرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ
وَكَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ وَالَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَنُكَفِّرُهُمْ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَأَجْرًا كَبِيرًا ۝

لَكِنِ الَّذِينَ سَخِرُوا فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ
وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ
إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
وَالْمُؤْمِنِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا
عَظِيمًا ۝

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى
نُوحٍ وَالشُّعْثَانِ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا

revelation as was given by us (Allah) to Nuuh (Noah) and the Uumbia (Prophets of Allah) after him. And then We (Allah) sent revelations to Ibraaheem (Abraham) and Ismael and Ishaq (Isac) and Yaqoob (Jacob) and his children and Eesa and Ayyub and Yunus and Haroon (Aron) and Sulaimaan (Solomon), and We (Allah) gave to Dawood (David) the Book (Zaboor—Psalms).

164. And to the Rasools (Messengers) who have already been mentioned to you before and to those Rasools (Messengers) who have not been mentioned by Us (Allah) to you before. And Allah infact particularly spoke to Moosaa (Moses).

165. The Rasools (Messengers of Allah) bear the good news and the warnings so that the mankind might have no argument against Allah after the coming of the Rasool (Messenger Muhammad). And Allah is Honorable, Wise

166. But (O beloved Prophet) Allah is witness to what He has revealed to you with His Knowledge and the Angels are also witness to it. And Allah is sufficient as Witness.

167. Those who disbelieve and hinder others away from the way of Allah they have gone on the wrong way, far away.

168. Surely those who disbelieve and commit wrongs, Allah would not forgive them nor will guide them to the right way;

169. except the road leading to hell in which they will

کے پیغمبروں کو بھیجی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحق اور یعقوب اور اس کے بیٹوں اور یحییٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کو وحی کی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمایا (163)

إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَنْبِيَاءِ وَعِيسَىٰ وَيُوحَنَّا وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ نَبَأَ بُورِآنِ ﴿١٦٣﴾

اور رسولوں کو جن کا ذکر آگے ہم تم سے فرمایا ہے، اور ان رسولوں کو جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا (164)

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْوِيمًا ﴿١٦٤﴾

رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سنااتے کہ رسولوں کے بعد اللہ کے میاں لوگوں کو کوئی نذر نہ رہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے (165)

رُسُلًا قَبْرَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ لِيَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

لیکن اے محبوب! اللہ اس کا گواہ ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا، وہ اس نے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے گواہ ہیں، اور اللہ کی گواہی کافی ہے (166)

لَٰكِنَ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَاللَّيْلِيَّةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾

وہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، چنگ وہ دداری گمراہی میں پڑے (167)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلًّا بَعِيدًا ﴿١٦٧﴾

چنگ جنہوں نے کفر کیا اور حد سے بڑھے، اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا، اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے (168)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾

مگر جہنم کا راستہ کہ اس میں بیٹھ بیٹھ

إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا

remain forever. And this is very easy for Allah.

170. O the mankind! this Rasool (Messenger Muhammad) has come to you with truth from your Rubb (Sustainer). Therefore, believe in Him for your own betterment. And if you commit disbelief then surely whatever is in the heavens and is in the earth belongs to Allah. And Allah is Knowing, Wise.

171. O People of the Book! do not commit excesses in your religion and do not attribute to Allah anything except truth. The Massih Eesa bin Maryam (Jesus son of Mary) is only a Rasool (Messenger) of Allah and His Kalima (Symbol). He was sent to Maryam (Mary) with a Spirit from Him. Then believe in Allah and in the Rasools (Messengers of Allah) and do not say, "they are three". Refrain for your own good. Allah is only One to be worshipped. Far is it from His Holyness that He should have a son. To Him belongs whatever is in the heavens and in the earth. And Allah is sufficient as a Caretaker.

SECTION 24

172. Massih (Jesus) does not refrain to be a devotee of Allah nor the closest Angels hesitate (to worship Allah). Whoso refrains to worship Allah and indulges in pride, he will gather them altogether towards Himself.

173. As for those who believe and do righteous deeds He will Pay their full reward and will Bestow them more from His Bounties. And those who refrain and

رہیں گے اور یہ اللہ کو آسان ہے (169) اے لوگو! تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تعریف لائے ہیں تو ایمان لاؤ اپنے بھلے کو اور اگر تم کفر کرو تو بیشک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے (170)

اے کتاب والو! اپنے دین میں زیادتی نہ کرو اور اللہ پر نہ کوا! مگرج مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا اللہ کا رسول ہی ہے اور اس کا ایک کلمہ کہ مریم کی طرف بھیجا اور اس کے میاں کی ایک روح تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تین نہ کوا! باز رہو اپنے بھلے کو اللہ تو ایک ہی خدا ہے پکی اسے اس سے کہ اس کے کوئی بیٹہ ہو اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور اللہ کافی کارساز (171)

مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ نفرت نہیں کرتا اور نہ مقرب فرشتے اور جو اللہ کی بندگی سے نفرت اور تکبر کرے تو کوئی دم جاتا ہے کہ وہ ان سب کو اپنی طرف ہانکے گا (172)

تو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کی مزدوری انہیں بھرپور دے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا اور وہ جنہوں نے نفرت اور تکبر کیا تھا انہیں

أَيُّدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ
بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ
وَلَنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾

يَا هَلْ الْكِتَابَ لَاتَقُولُوا أَنِي ذُنُوبُهُ
لَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا
الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ
اللَّهِ وَكَلِمَةً أَلْقَاهُ إِلَى مَرْيَمَ وَ
رُوحَ مِنْهُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً إِنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ
إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ الْوَحِيدِ سُبْحَانَ اللَّهِ
عَنْ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ لَمْ يَمَأْنِي السَّمَوَاتِ
فِي وَمَأْنِي الْأَرْضِ وَكُنِيَ بِاللَّهِ وَكَذَّابًا ﴿١٧١﴾

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ
عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلِيكَةُ الْمُقَرَّبُونَ
وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ
يَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْمِلْ حِمْلَهُ يَوْمَئِذٍ ﴿١٧٢﴾

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَيُؤْتُونَهُمْ أَمْجَورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ
مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا

become proud He will award them a severe punishment. And they will not find a friend or a helper for themselves, except Allah.

174. O mankind, a clear proof has come to you from your Rubb (Sustainer) and I have bestowed to you a magnificent Light (Noor-e-Mobeen).

175. Then those who believe in Allah and hold His Rope firm soon Allah will enter them to His Mercy and Bounty and will show them His straight path.

176. (O beloved Prophet Muhammad S.A.W.) they ask you for a decree and Kalala (consultation about property rights). Say, "Allah Decrees you regarding a dead person who leaves neither father nor children but he has a sister, she shall have a half of what he leaves and he will be her heir if she has no children (and she dies). And if there are two sisters they shall have two-thirds of what he leaves and if there be brothers and sisters the male shall have portion equal to two females. Allah makes clear to you lest you go on the wrong way. Allah Knows everthing.

S. V

SURA AL-MAA'IDAH

(THE TABLE SPREAD)

Revealed at Madina

(16 Sections, 120 Verses)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. O believers! fulfil your agreements. The mute animals have been made lawful to you (for eating their flesh) except such ones which

دردناک سزا دے گا اور اللہ کے سوا نہ اپنا کوئی حمایتی پائیں گے، نہ مددگار (173)

اے لوگو! بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا (174)

تو وہ جو اللہ پر ایمان لائے، اور اس کی رسی مضبوط تھامی، تو عنقریب انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا، اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا (175)

اے محبوب! تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں تم فرما دو، کہ اللہ تمہیں کلالہ میں فتویٰ دیتا ہے اگر کسی مرد کا انتقال ہو جو بے اولاد ہے اور اس کی ایک بہن ہو، تو ترکہ میں اس کی بہن کا آدھا ہے، اور مرد اپنی بہن کا وارث ہو گا، اگر بہن کی اولاد نہ ہو، پھر اگر دو بہنیں ہوں، ترکہ میں ان کا دو تہائی، اور اگر بھائی بہن ہوں مرد بھی اور عورتیں بھی، تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر، اللہ تمہارے لیے صاف بیان فرماتا ہے کہ کہیں تک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ (176)

وَأَسْتَكْبِرُوا وَفَاعِلٌ بِهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ۝

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَأَعْتَصَمُوا بِهِمْ فَسَيْدُ خَلْفِهِمْ فِي رَحْمَةِ رَبِّهِمْ وَفَضْلٍ وَيَمِينٌ يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِنُهُمْ فِي الْكَلْبَةِ إِنَّ أَمْرًا أَهْلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْبَانِ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۝ وَلِلرِّجَالِ مِثْلُ مَا لِلنِّسَاءِ ۝ وَأَلْفٌ كَرِهُوا حِطُّ الْأَنْثِيَّتَيْنِ ۝ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

سورۃ المائدہ میں آیت ۱۲۰ اور سورۃ المائدہ میں آیت ۱۲۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے
اے ایمان والو! اپنے قول پورے کرو
تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَقْرِبُوا الصَّلَاةَ
أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا
مَا يُبَيِّنُ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيْدِ

will be pointed out to you, further. But hunting may not be considered lawful when you are in the pilgrimage garbs. Surely Allah Commands what He Will.

2. O believers! never make symbols (prohibitions) of Allah Halal (permissions) and neither the sacred months and nor the sacrificial animals sent to the sacred House (Bait ul Haram) and nor those (animals) bearing sings in their necks and nor the property and the honor of those who come for Allah's worship on the Masjid ul Haram (sacred Mosque around Ka'aba in Makkah) seeking the Grace and the Pleasure of their Rubb (Sustainer). And when you take off the pilgrimage garbs, then you may hunt (out of sacred territory). And let not the enmity of such people, who prevent you to enter the Masjid ul Haram (sacred Mosque), instigate you to commit any excesses. And cooperate with each other in virtue and piety but never cooperate with one another in sin and transgression. And fear Allah. Surely Allah's punishment is severe.

3. You are forbidden (to eat) the dead and the blood and the flesh of swine and that on which any one else's name has been pronounced, except that of Allah, at the time of slaughtering, and that which dies by strangulation, and that which is beaten to death and that killed by falling and that which is beaten to death by the horn (beating of other animal) and that which has been eaten by

مکروہ جو آگے بتایا جائے گا تم کو، لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو،
بچک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے (1)

اے ایمان والو! حلال نہ ٹھہراؤ اللہ کے نشان، اور نہ ادب والے مہینے، اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں، اور نہ جن کے گلے میں علامتیں آویزاں، اور نہ ان کا مال و آمد جو عزت والے گھر کا قصد کر کے آئیں، اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی چاہئے، اور جب احرام سے نکلو تو شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا زیادتی کرنے پر نہ ابھارے، اور نیکی اور پرہیز گاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بچک اللہ کا عذاب سخت ہے (2)

وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يُخَلِّمُ
مَا يَشَاءُ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْعَلُوا شَعَائِرَ
اللَّهِ وَلَا الشُّهُمَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمُومِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا لِيُذَاقُوا طَعْمًا ذُوًّا
وَلَا يَجْرِمُكُمْ سُنَّانَ قَوْمِهِمْ أَنْ
صَدَّقْتُمْ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالْتَقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

تم پر حرام ہے مردار، اور خون، اور سوراہا گوشت، اور وہ جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا، اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے، اور بے دھار کی چیز سے مارا ہوا، اور جو گر کر مرا، اور جسے کسی جانور نے سینگ مارا، اور جسے کوئی درندہ کھا گیا مگر جنہیں تم ذبح کر لو، اور جو کسی تھان (پھندے) پر ذبح کیا گیا، اور پانسے ڈال کر

حَرَمْتُمْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ
وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ الْبَغْيِ إِنَّ اللَّهَ
بِهِ وَالْمُنْحَنِقَةَ وَالْمَوْقُودَةَ
وَالْمَمْرُورِيَّةَ وَالنَّطِيجَةَ وَمَا أَكَلَ
السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذَيْبٌ عَلَى
النَّصَبِ وَإِنْ تَسْقَطُوا مِنْ الْأَرْوَاحِ
فَذَلِكُمْ فَسَقٌ يَوْمَئِذٍ لِلَّذِينَ

wild animal (are unlawful to eat), except those (caught by such beasts but) you have lawfully slaughtered alive, or that of which has been slaughtered at a sacrificial place and that on which you divide lottery drawing by arrows. All that is disobedience. Today the disbelievers are dejected from your religion. Do not be fearful of them but fear Me only. Today I (Allah) have perfected your religion for you and I (Allah) have completed My Blessings on you, and I am pleased to make Islam (submission to Allah) as your (universal) religion. But whoso is forced by hunger (eats something banned) without indulging in sin wilfully, then surely, Allah is Forgiving, Merciful.

[ONE FOURTH OF PART 6 ENDS]

4. They ask you (O beloved Prophet) what is Halal (lawful) to them? Please declare, "pure and nice things have been made permissible to you and such hunt caught by hunting animals who have been trained in hunting methods as Allah has taught you. You may eat what they (hounds) bring for you after hunting, on which you pronounce the name of Allah. And be pious with Allah. Surely, Allah is swift in taking the account.

5. Today all the clean and nice things are made permissible to you and food of the people of the Book is lawful to you, and your food is also lawful to them. You can marry the chaste Muslim women and the chaste women of those, who were

بائٹا کرنا، یہ گناہ کا کام ہے، آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آس نوٹ مئی تو ان سے نہ ڈرو، اور مجھ سے ڈرو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا، تو جو بھوک پیاس کی شدت میں ناچار ہو، یوں کہ گناہ کی طرف نہ جھکے، تو بیگ اللہ بخشے والا مہربان ہے۔ (3)

كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْسَبُوهُمْ
وَاحْسَبُوا الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ
دِينَكُمْ وَأَنْتُمْ عَلَىٰكُمْ بِعَمَّتِي
رَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ
اضْطُرَّ فِي غَضَبٍ عَيْنٍ مَجْذُوفٍ
إِلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳﴾

اے محبوب! تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہو، تم فرما دو کہ حلال کی گھنٹیں تمہارے لیے پاک چیزیں، اور جو شکاری جانور تم نے سدھا لے انہیں شکار پر دوڑاتے، جو علم تمہیں خدا نے دیا اس میں سے انہیں سکھاتے، تو کھاؤ اس میں سے جو وہ مار کر تمہارے لیے رہنے دیں، اور اس پر اللہ کا نام لو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بیگ اللہ کو حساب کرتے دیر نہیں لگتی (4)

آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہوئیں، اور کتابوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پارسا عورتیں مسلمان، اور پارسا عورتیں ان میں سے جن کو تم سے

يَسْأَلُونَكَ نَأْذًا أَجَلٌ لَهُمْ قُلْ
أَجَلٌ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمُ
مِنَ الْجَوَارِ مِ مَكِينٍ تُعَلِّمُوهُنَّ
مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَمَا لُبَّائِي أَفْسَنُ
عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ
وَأَقْوِ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ سَرِيعُ
الْحِسَابِ ﴿۳﴾

الْيَوْمَ أَجَلٌ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَ
طَعَامُ الَّذِينَ أَدْتُوا إِلَيْكُمُ
جَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جَلٌ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ

given the Book before you to whom you give their dowries while taking them in (matrimonial) possession neither for lust nor for making secret love (but for lawful marriage). Whoso detracts from the faith, after becoming a Muslim, his entire labor is destroyed and he is a loser in the hereafter.

SECTION 2

6. O believers when you stand up for Salaat (Muslim Prayers) wash your faces and your hands up to the elbow and pass your wet hands over your heads (for Masah or oral cleansing) and wash your feet up to the ankles. And if you need obligatory bath then cleanse yourself. And if you are sick or you are on a journey, or if any of you comes from the privacy (impurity in dream) or you have an intercourse with your wife and in such circumstances you do not find water then (for Masah) you take clean dust and wipe with it your faces and your hands (for Tayamum—oral cleansing). Allah does not desire to put you to any hardship. He just desires to keep you clean and to complete His Blessings upon you that you may be grateful.

7. And remember Allah's blessings on you and the promise He took from you when you said, "we hear and we obey". And be pious with Allah. Surely, Allah Knows the thoughts of your hearts.

8. O believers be steadfast in the cause of Allah bearing witness in equity; and let not the hatred of any people incite you that you should

پہلی کتاب لی، جب تم ان کے مراد میں لاتے ہوئے نہ سستی نکالتے اور نہ آشنا بناتے اور جو مسلمان سے کافر ہو، اس کا کیا دھرا سب اکارت (ضائع) گیا اور وہ آخرت میں زیاں کار (نقصان) میں ہے (5)

اسے ایمان والو! جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھوؤ اور کھنٹیوں تک ہاتھ اور سرول کا مسح کرو اور منٹوں تک پاؤں دھوؤ اور اگر تمہیں نہالے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی تھکے ہو تو تھکے سے آیا یا تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تم کو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، ہاں! یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے، کہ کہیں تم احسان مانو (6)

اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر اور وہ عہد جو اس نے تم سے لیا جب کہ تم نے کہا، ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرو بیگم اللہ دلوں کی بات جانتا ہے (7)

اسے ایمان والو! اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ انصاف کے ساتھ گواہی دیتے اور

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي لَعْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَرَمًا وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

وَأَذِّكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ حِينَ وَبِئَاتِهِ الَّذِي وَأَقْرَبَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ يَدُوتِ الصُّدُورِ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا قَوْمَ اللَّهِ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَالْقِسْطَ وَلَا تَجْرِمُوهُنَّ

become unjust. Always do justice as it is nearest to piety. And be pious with Allah. Surely, Allah is aware of what you do.

9. Allah has promised the believers and those who do the right deeds that they will have forgiveness and a great reward.

10. And those who disbelieve and falsify our (Allah's) Verses, they are the people of the hell.

11. O believers remember Allah's Blessing on you when a nation intended to stretch out their hands against you, but He withheld their hands from you. Therefore, be pious to Allah. And the Muslims should rely only on Allah.

SECTION 3

12. And surely, Allah took a promise from the children of Israa'el. And, We (Allah) raised among them twelve chiefs. And Allah said, "Surely, I am with you. If you establish the Salaat (Muslim Prayer) and pay the Zakaat (obligatory due of the have nots) and believe in My Rasools (Messengers) and pay them respect and lend to Allah a loan (advance money to the needy as loan free of interest) surely, I shall acquit you of your sins and shall admit you to the Paradise under which streams flow. But if any of you disbelieves, after that, then surely, such one adopts way, away from the right path.

13. Then for breaking of their promise We (Allah) cursed them and made their hearts hard. They change the words of Allah from right places (change verses of the

تم کو کسی قوم کی عداوت اس پر
ہمارے کہ انصاف نہ کرو، انصاف کرو وہ
پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ
سے ڈرو، بیشک اللہ کو تمہارے کاموں کی
خبر ہے (8)

ایمان والے نیکو کاروں سے اللہ کا وعدہ
ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب
ہے (9)

اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں
جھٹلائیں، وہی دوزخ والے ہیں (10)

اسے ایمان والو! اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد
کرو جب ایک قوم نے چاہا کہ تم پر دست
درازی کریں، تو اس نے ان کے ہاتھ تم
پر سے روک دیئے، اور اللہ سے ڈرو اور
مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسا چاہیے (11)

اور بیشک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد
لیا، اور ہم نے ان میں بارہ سردار قائم
کیئے، اور اللہ نے فرمایا: بیشک میں تمہارے
ساتھ ہوں، ضرور اگر تم نماز قائم رکھو
اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان
لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض
حسن دو، بیشک میں تمہارے گناہ تار دوں
گا، اور ضرور تمہیں باغوں میں لے جاؤں
گا جن کے نیچے نہریں رواں پھر اس کے
بعد جو تم میں سے کفر کرے، وہ ضرور
سیدھی راہ سے بھکا (12)

شَتَانٌ قَوْرٍ عَلَىٰ الْأَعْيُنِ لَوْ أَعْدَلُوا
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۸﴾

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا

عَظِيمًا ﴿۹﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۱۰﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا وَعِثَّتْ

اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ تَبْطُغُوا

إِلَيْكُمْ أَيْدِيهِمْ فَفَكَرَّ أَيْدِيَهُمْ

عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَسَىٰ اللَّهُ

بِأَنَّ فَلَيتُ وَكُلِّ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۱﴾

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي

إِسْرَائِيلَ وَوَعَّيْنَا مِنْهُمْ آسَافِي

عَشْرَ نَفِيًّا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ

لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ

الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَ

عَدَدْتُمْ مَوَافِقَهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ

قَرْضًا حَسَنًا لَّا أَكْفِرَنَّ عَنْكُمْ سِيئَاتِكُمْ

وَلَا دَخَلْتُمْ عَلَيْكُمْ جَنَّتِي مَنْ

تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ

ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ

السَّبِيلِ ﴿۱۲﴾

فِيمَا نَقَضْتُمْ فَوَيْتْنَا فِيهِمْ لَعْنَتَهُمْ

وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ

Holy Books) and they forgot the main portion of the advices given to them. And you will continue to be informed of their treachery on their part, except a few of them. Forgive and get apart from them. Surely, Allah loves those who are kind.

14. And those who claimed to be Christians We (Allah) took a promise from them but they also forgot main portion of the advices given to them. Thus We (Allah) caused enmity and hatred among themselves up to the Day of Resurrection. And soon Allah will let them know what they had been doing.

15. O people of the Book surely, Our (Allah's) this Rasool (Messenger Muhammad S.A.W.) has come to you who makes clear to you much of what you had hidden about the Book and he pardons you much. Surely, there has come to you from Allah a Noor (light of enlightenment) and a very clear Book.

16. Allah Guides those who follow the peaceful ways according to His Wish. And He takes them out from darkness to light by His Command and guides them to a straight path.

17. Surely, they have become disbelievers who said, 'Allah is Massih Bin Maryam (Jesus son of Mary). Please declare, "who can do anything against Allah in anyway, when He Desires to destroy Massih Bin Maryam (Jesus son of Mary) and his mother and everything on the earth". And to Allah belongs the kingdom of heavens and

ہیں اور بھلا بیٹھے برا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی گئیں اور تم بیشک ان کی ایک نہ ایک دغا (دھوکہ) پر مطلع ہوتے رہو گے سوا تمہاروں کے تو انہیں معاف کر دو اور ان سے دو گندرو، بیگ احسان والے اللہ کو محبوب ہیں (13)

اور وہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصاریٰ ہیں ہم نے ان سے عہد لیا، تو وہ بھلا بیٹھے برا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی گئیں، تو ہم نے ان کے آپس میں قیامت کے دن تک بیز (دشمنی) اور بغض ڈال دیا، اور عقرب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ کرتے تھے (14)

اسے کتاب والو! بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے، کہ تم پر ظاہر فرماتے ہیں بہت سی وہ چیزیں جو تم نے کتاب میں چھپا ڈالی تھیں، اور بہت سی معاف فرماتے ہیں، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، اور روشن کتاب (15)

اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے اسے جو اللہ کی مرضی پر چلا سلاستی کے راستے اور انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے حکم سے، اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے (16)

بے شک کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح بن مریم ہی ہے، تم فرما دو! پھر اللہ کا کوئی کیا کر سکتا ہے اگر وہ چاہے، کہ ہلاک کر دے مسیح بن مریم اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین اور ان

الکفر عن قواضعہ ونسوا حفظا
وما کذروا بآیہ ولا توال تطلم
على خابئہ فمنہم الاقل الا لایمنہم
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاَصْفَحْ اِنَّ اَدَلَّة
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳﴾

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّا ناصروا اخذنا
ويناظروهم فنسوا حفظا وما کذروا
بہم فَاَعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ
الْبَغْضَاءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ
يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۱۴﴾

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا
يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ
مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ
قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ
قَرِيْنٌ ﴿۱۵﴾

يَهْدِيْهِ اللّٰهُ مِنَ اَتَمِّ رِضْوَانٍ
سَبِيْلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ
الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهِ وَيَهْدِيْهِمُ
اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴿۱۶﴾

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ
الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ مَنْ مَلِكُ
مِنَ اللّٰهِ شَيْْءًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُنْزِلَ
الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاَمَةً وَّمَنْ
فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَاِلِلّٰهِ مُلْكُ
السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

the earth and all that is between them. He creates what He pleases. And Allah has the power to do all the things.

18. And the Jews and the Christians say, "we are the sons of Allah and His loved ones." Please declare, "why does He punish you for your sins? You are but only mortal human beings among those whom He has created. He forgives whom He Wills and punishes whom He Wills. The kingdom of the heavens and the earth and whatever is between them belongs to Allah. And everything is to return to Him.

19. O the followers of the Book surely, after a break there has come to you Our (Allah's) this Messenger (Holy Prophet Muhammad S.A.W.) lest you say, "There came none to us as a bearer of good news nor as a warner. Therefore, he (Muhammad S.A.W.) has come to you as a bearer of good news and as a warner. And Allah is powerful to do all the things.

SECTION 4

20. And when Moosaa (Moses) said to his nation, "O my people remember the Benevolence of Allah upon you when He made from among you Prophets and made you the kings and gave you what He had not given to any in the world up to this day."

21. (Moses said to Jews) O my nation enter this Holy land which Allah has prescribed for you and do not turn on your backs because that will lead you to loss.

کے درمیان کی جو چاہے پیدا کرتا ہے اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے (17)

اور یہودی اور نصرانی بولے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، تم فرما دو پھر ہمیں کیوں تمہارے گناہوں پر عذاب فرماتا ہے؟ بلکہ تم آدمی ہو اس کی مخلوقات سے، جسے چاہے بخشا ہے اور جسے چاہے سزا دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی، اور اسی کی طرف پھرنا ہے (18)

اسے کتاب والوں بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے کہ تم پر ہمارے احکام ظاہر فرماتے ہیں، بعد اس کے رسولوں کا آنا مدتوں بند رہا تھا، کہ کبھی کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشی اور ڈر سنانے والا نہ آیا، تو یہ خوشی اور ڈر سنانے والے تمہارے پاس تشریف لائے ہیں، اور اللہ کو سب قدرت ہے (19)

اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم! اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو کہ تم میں سے پیغمبر کیے، اور ہمیں بادشاہ کیا، اور ہمیں وہ دیا جو آج سارے جہان میں کسی کو نہ دیا (20)

اے قوم! اس پاک زمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، اور پیچھے نہ پلٹو کہ نقصان پر پلٹو گے (21)

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ مُدَبِّرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَاللَّهُ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُولِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِرُ ادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾

يُقَوْمِرُوا ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴿٢١﴾

22. They said, "O Moosaa! (Moses) therein (that land) dwell mighty people and we will not enter it until they go away from it, and when they go away from it only then we will enter there."

23. Thereupon two men from among those who feared Allah, whom Allah had Blessed, said, "enter the gate forcibly against them. If you enter it you will be the victors. Put your full trust in Allah if you are believers".

24. They said, "O Moosaa (Moses) we shall never enter it so long as they dwell therein". "Therefore, you and your Rubb (Sustainer) should go there and both of you fight with them while we will remain sitting here".

25. He (Moses) submitted, "O my Rubb (Sustainer) I have no power over anything except on myself and on my brother. Therefore, you keep us apart from the rebellious people".

26. (Allah) said, "then surely, this is forbidden to enter it for forty years to wander in it. Therefore, feel no grief for this rebellious nation".

SECTION 5

27. And relate to them the true story of the two sons of Aadam when each of them offered a sacrifice. It was accepted from the one but was rejected from the other. He said (Qabeel, the elder), "I swear that I shall kill you." The other (Aabeel, the younger) said, "Allah accepts (offering) only from the pious".

[HALF OF PART 6 ENDS]

بولے، اے موسیٰ! اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں، اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل جائیں، وہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں جائیں (22)

دو مرد کہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، اللہ نے انہیں نوازا، بولے! کہ زبردستی دروازے میں ان پر داخل ہو، اگر تم دروازے میں داخل ہو گے تو تمہارا ہی غلبہ ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے (23)

بولے، اے موسیٰ! ہم تو وہاں بھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں ہیں، تو آپ جائیے اور آپ کا رب، تم دونوں کو ہم یہاں بیٹھے ہیں (24)

موسیٰ نے عرض کی: کہ اے رب میرے! مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھ (25)

فرمایا: تو وہ زمین ان پر حرام ہے چالیس برس تک، بھگتے پھرن زمین میں، تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ (26)

اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی عجیب خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی، تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی، بولا! قسم ہے میں تجھے قتل کروں گا، کما اللہ اسی سے قبول کرنا ہے جسے ڈر ہے (27)

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِيْنَ ۗ
وَلَا اِنَّ نَدْخُلُهَا حَتَّىٰ يُخْرُجُوْا مِنْهَا
فَاِنْ يُخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دُخَلُوْنَ ۝۲۲

قَالَ رَجُلَيْنِ مِنَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنَا
اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا اَدْخَلُوْا عَلَيْهِمُ
الْبَابَ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاتَّكُمُ
غُلُوْبَةٌ وَّعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنَّ
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝۲۳

قَالُوا يَا مُوسَىٰ اِنَّ اِلٰنَا نَدْخُلُهَا اِنْ
مَا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرُكَّتُكَ
فَقَاتِلْ اِنَّ اِهْمَنَا فَعِدْوَن ۝۲۴

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ لَا اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَا
اِخِي فَاَقْرُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ
الْفٰسِقِيْنَ ۝۲۵

قَالَ فَاِنَّمَا تُخَوِّمُهُمْ اَنْ يَّجْعِلُوْا
سَنَةً يَّتِيْهِمْ فِي الْاَرْضِ فَلَا يَأْسُ
عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ۝۲۶

وَاٰتِلْ عَلَيْهِمْ نَبِيًّا بَنِي اٰدَمَ بِالْحَبِيْمِ
اِذْ قَرَّبَا قُرْبٰنًا فَتَقَبَّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا
وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ وَقَالَ
لَا اَتَقَبَّلُكَ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ
مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ۝۲۷

28. "Surely, if you stretch out your hands against me to kill me, then I shall not stretch out my hands against you to kill you. I fear Allah, the Rubb (Sustainer) of the universe"

29. "I leave you to be loaded with my sins and your own sins, that you may be amongst the inhabitants of the hell and this is the penalty of the cruels".

30. But his self prompted him to kill his brother, and he killed him and then he became one of the losers.

31. Then Allah sent forth a crow (raven), scratching the earth so that he might show him how he (Qabeel the killer) can bury the dead body of his brother? He said, "woe to me, I could not be able to hide (bury) the dead body of my brother like this crow (raven). Then he was amongst the remorsefuls (repentful).

32. Due to this fact we prescribed for the children of Israael that if anyone kills some one without the right of retaliatory revenge of a person (murdered), or for sedition (committing rioting on the earth) is like murdering of the entire mankind. And whoso gave life to a person that is if he had given life to the entire mankind. And surely, Our (Allah's) Rasools (Messengers) came to them with clear arguments. But even then many of them committed excesses on the earth".

33. The only retribution (return) of those who fight

بیگ اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک سارے جہان کا (28)

میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میرا اور تمرا گناہ دونوں تیرے ہی پلہ پڑے، تو تو دوزخی ہو جائے اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے (29)

تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ (خواہش) دلایا، تو اسے قتل کر دیا، تو رہ گیا نقصان میں (30)

تو اللہ نے ایک کوا بھیجا زمین کھینچتا، کہ اسے دکھائے، کیوں کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے، بولا! ہائے خرابی! میں اس کو تے جیسا بھی نہ ہو سکا، کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پچھتا (پچھتا) رہ گیا (31)

اس سب سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے، یا زمین میں فساد کیے، تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو جلایا (زندہ کیا) اس نے گویا سب لوگوں کو جلایا (زندہ کیا) اور بیگ ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیوں کے ساتھ آئے، پھر بیگ ان میں بہت اس کے بعد زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں (32)

وہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے

لَيْسَ بِسَطِّكَ إِلَى يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي
مَا أَنَا بِسَاطِئِكَ إِلَى يَدِكَ لِأَقْتُلَنَّكَ
إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۸﴾

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبْوَأَ أَبَاتِي وَإِنَّكَ
تَتَّبَعُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ذَلِكَ
جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿۲۹﴾

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ
فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخَاسِرِينَ ﴿۳۰﴾

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي
الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُبَايِعُ
سُوءَةَ أَخِيهِ قَالَ يُوبِئُكَ بِمَا
أَنْتَ كَاوُنُ وَمِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ
فَأَوَارَى سُوءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ
الذَّالِمِينَ ﴿۳۱﴾

فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي
إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ
ثُمَّ لَئِن شَاءُوا لَفَنَنَّهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي
الْأَرْضِ لَمُسْرِقُونَ ﴿۳۲﴾

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ

against Allah and His Rasool (Messenger) and wander about in the earth, committing disorder, is that they should be killed or crucified or their one side hand and opposite side foot be chopped off or they be expelled from the earth (in life imprisonment). This is their disgrace in this world and in the hereafter. There will be severe punishment for them.

SECTION 6

34. Except those who repent before you keep them under your power. So know that Allah is Forgiving, Merciful.

35. O believers be pious with Allah and seek the means of approach to Him and struggle in His Way that you may prosper.

36. Surely, those who became disbelievers if they possess all that is in the earth and they have as much more of the same they will not be able to save themselves with that from punishment on the Day of Resurrection. It shall not be accepted from them and for them is painful punishment.

37. They will desire to come out of the fire but they will not be able to come out of it and for them there is an everlasting punishment.

38. And the men or the women who commit theft cut off their hands as retaliation of what they have done as an example which is a punishment from Allah. And Allah is Honorable, Wise.

39. Then whoso repents (is remorseful) after doing wrong and amends himself (herself)

اور ملک میں لٹا کر بھرتے ہیں، ان کا بدلہ یہی ہے کہ گن گن کر قتل کیے جائیں، یا سول دیئے جائیں، یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹے جائیں، یا زمین سے دور کر دیئے جائیں، یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب (33)

مکروہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے (34)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو! اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو! اور اس کی راہ میں جہاد کرو! اس امید پر کہ فلاح پاؤ (35)

بے شک وہ جو کافر ہوئے جو کچھ زمین میں ہے سب اور اس کی برابر، اور اگر ان کی ملک ہو کہ اسے دے کر قیامت کے عذاب سے اپنی جان چھڑائیں، تو ان سے نہ لیا جائے گا، اور ان کے لیے دکھ کا عذاب ہے (36)

دونہی سے لٹکانا چاہیں گے اور وہ اس سے نہ نکلیں گے، اور ان کو دوائی سزا ہے (37)

اور جو مرد یا عورت چور ہو، تو ان کا ہاتھ کاٹو، ان کے کئے کا بدلہ، اللہ کی طرف سے سزا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے (38)

تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو اللہ اپنی سے اس پر رجوع فرمائے

وَأَسْأَلُكَ وَيَسْأَلُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا أَن يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأرجلهم من خلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ نَجْوَى فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْبَلَ وَ عَلَىٰ هُمْ فَاعْتَمُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الزَّوَانِ لَيْسَ لَهُمْ مَآبٍ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِمْ مِنْ عَذَابٍ يُدْرِكُ الْيَقِينَةَ مَا تَقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

يُرِيدُونَ أَن يُخْرَجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِمُخْرَجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٧﴾

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾
فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ

then Allah will turn to him (her) with His Mercy. Suely Allah is Forgiving, Merciful
40. Don't you know that to Allah belongs the kingdom of heavens and the earth. He punishes whom He Wills and rewards whom He Wills. Allah has the power to do everything.

41. O Rasool (Messenger of Allah Prophet Muhammad S.A.W.) the people who hasten towards disbelief should not grieve you. Some of them say from their mouths, "we believe", but their hearts are not Muslims. And some of the Jews listen falsehood with deep interest and listen very well to other people who have not come to you. They change the script of Allah from the right places and say, "if you get this Command then accept it (their insertions) and if you do not get it then save yourself from it. And to whom Allah leaves to remain in misguidance you will not be able to reclaim them back towards Allah. Those are the people whose hearts are not purified by Allah. They will have degradation in this world and they will face severe punishment in the hereafter.

42. They are habitual to listen to the falsehood and devour forbidden things. If they come to you judge between them or turn away your face from them. And if you will turn your face away from them they will not be able to harm you at all. And if you judge between them then judge with justice. Allah loves the just ones.

۴۱ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے
(39)
کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، سزا دیتا ہے جسے چاہے، اور بخشتا ہے جسے چاہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے (40)

اے رسول! تمہیں غمگین نہ کریں وہ جو کفر پر دوڑتے ہیں، کچھ وہ جو اپنے منہ سے کہتے ہیں، ہم ایمان لائے، اور ان کے دل مسلمان نہیں، اور کچھ یہودی جمہوت خوب سننے ہیں، اور لوگوں کی خوب سننے ہیں جو تمہارے پاس حاضر نہ ہوئے، اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں کے بعد بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں، یہ حکم ہمیں ملے تو مانو! اور یہ نہ ملے تو بچو! اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو ہرگز تو اللہ سے اس کا کچھ بنا نہ سکے گا، وہ ہیں کہ اللہ نے ان کا دل پاک کرنا نہ چاہا، انہیں دنیا میں رسوائی ہے اور انہیں آخرت میں بڑا عذاب (41)

بڑے جمہوت سننے والے، بڑے حرام خور تو اگر تمہارے حضور حاضر ہوں تو ان میں فیصلہ فرماؤ! یا ان سے منہ پھیر لو! اور اگر تم ان سے منہ پھیر لو گے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے، اور اگر ان میں فیصلہ فرماؤ! تو انصاف سے فیصلہ کرو، بیشک انصاف والے اللہ کو پسند ہیں (42)

فَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّبُ عَلَيْهِمْ إِنْ أَدْلَهُ
عَقُورًا رَّحِيمًا ﴿٣٩﴾
الْمَوْعُظُونَ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ
يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا حَزَنُكَ الَّذِينَ
يَسَارِعُونَ فِي الظُّلْمِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا
أَمْثَلًا بَلَاغًا هِبَةً لَمْ تَوْمِنُ قُلُوبُهُمْ
مَعَ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا وَسَمِعُونَ
الْكَذِبَ سَمِعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ
لَهُمْ آتَاؤُكَ يَخْرُفُونَ الْكَلِمَةَ مِنْ
بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِينَا
هَذَا فَخَدَّارًا وَمِنْ لَدُنْكَ شَيْءٌ
فَأَحْذَرُوا لَوْ أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ
فَلَنْ تَهْتِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنُوا اللَّهُ أَنْ يُطَهَّرَ
قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حِزْبٌ
لَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤١﴾

سَمِعُونَ لَلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلشُّعْبِ
فَإِنْ جَاءَكَ وَكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ
أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تَعَرَّضْ عَنْهُمْ
فَلَنْ يَضُرَّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ
فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

43. And how they will make you a judge when they have Tourait (Tourah) with them, wherein there is Allah's judgement. Then thereafter, they turn away their faces from the same. And they will not become believers.

SECTION 7

44. Surely, we have bestowed Tourait (Tourah) which provides guidance and Noor (enlightenment). According to it the Jews were instructed by Our (Allah's) obedient Umbia (Prophets) and scholars of learning and jurists, for it was required from them to preserve the Book of Allah and they were guardians to it. Have no fear of the people but fear Me and never accept a mean price (selling) of My Verses. And whoso does not judge according to what Allah has revealed they are the disbelievers.

45. And We (Allah) made obligatory on them in it (for Jews in Tourait) a person be executed (in retaliation for a murdered person) and an eye for a murdered person) and an eye for an eye, and a nose for a nose and an ear for an ear and a tooth for a tooth and for other injuries similar (injuries) as Qisas (equal retaliation as tit for tat). Then whoso waives its compensation with happy heart then that will be the restitution (for such crime). And whoso does not judge according to what Allah has revealed to them they are the people who will be cruel.

46. And We (Allah) caused Eesa Bin Maryam (Jesus son

اور وہ تم سے کیو کر فیصلہ چاہیں گے
ملائکہ ان کے پاس توریت ہے جس میں
اللہ کا حکم موجود ہے، بایں ہمہ اسی سے
منہ پھرتے ہیں، اور وہ ایمان لانے والے
نہیں (43)

بیک ہم نے توریت اتاری اس میں
ہدایت اور نور ہے، اس کے مطابق یہود کو
حکم دیتے تھے ہمارے فرمانبردار نبی اور
عالم اور فقیر، کہ ان سے کتاب اللہ کی
حفاظت چاہی گئی تھی، اور وہ اس پر گواہ
تھے، تو لوگوں سے خوف نہ کرو، اور مجھ
سے ڈرو اور میری آیتوں کے بدلے ذلیل
قیمت نہ لو، اور جو اللہ کے آمارے پر حکم
نہ کرے، وہی لوگ کافر ہیں (44)

اور ہم نے توریت میں ان پر واجب کیا کہ
جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے
آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان
کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے
دانت، اور زخموں میں بدلا ہے، پھر جو دل
کی خوشی سے بدلا کر دے تو وہ اس کا گناہ
اتار دے گا، اور جو اللہ کے آمارے حکم
نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں (45)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا لِقَوْمِكَ وَوَعَدْنَا لِقَوْمِكَ
فِي مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ مِنْ بَعْدِهِ
فِي ذَلِكَ وَمَا أَوْلِيكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۝

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَ
نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ
أَسْلَمُوا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا وَالزَّيْنُوبُونَ
وَالْأَصْحَابُ الَّذِينَ اسْتَضِيئُوا مِنَ كِتَابِ
اللَّهِ وَكَانُوا عَالِمِينَ شُهُدَاءُ فَلَا تَحْزَنْ
الْإِنْسَاءُ وَالضَّالُّونَ وَلَا تَشْتَرُوا
بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَوْ يَبْخُلُكُمْ
بِمَا أَنْزَلْنَا اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْكَافِرُونَ ۝

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسِ
بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارًا لَهُ وَمَنْ
لَوْ يَبْخُلُكُمْ بِمَا أَنْزَلْنَا اللَّهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

اور ہم ان نبیوں کے پیچھے ان کے نشان

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ

of Mary) to follow their footsteps confirming what was in Tourait (Tourah) revealed before him. And We (Allah) Bestowed to him Injeel (Gospel—Bible) which is guidance and Noor (enlightenment) which confirms what is in the Tourait (Tourah) that had come before it. And it is guidance and advice for the pious ones.

47. And the people of Injeel (Gospel—Bible) should judge according to what Allah has revealed in it. And whoso does not judge by what Allah has revealed, they are the rebellious.

48. And (O beloved Prophet) We (Allah) have revealed to you the Book comprising the truth, confirming the Books preceding it and as a guardian and witness over them. So you judge between them according to what Allah has revealed and do not follow their desires leaving the truth that has come to you. We ordained a Shariah law and left (secular) folkways for all of you. And if Allah had Willed, He would have made you all a single Ummah (universal community). But He desires to test you in what He has given you. So aspire to excel one another in good deeds. You are all to return to Allah. Then He will warrant you regarding what you used to dispute.

49. And (O Muslims) decide according to what Allah has revealed and do not follow their desires and save yourself from them that they should not cause you to

قدم پر بھی بن کر ایمان لائے، تصدیق کرتا ہوا تورت کی جو اس سے پہلے تھی اور نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے اور تصدیق فرمائی ہے تورت کی کہ اس سے پہلے تھی اور ہدایت اور نصیحت پر بھی گزاروں کو (46)

اور چاہیے کہ انجیل والے حکم کریں اس پر جو اللہ نے اس میں آمارا اور جو اللہ کے آمارے پر حکم نہ کریں، تو وہی لوگ فاسق ہیں (47)

اور اے محبوب! ہم نے تمہاری طرف ہی کتاب آماری، اگلی کتابوں کی تصدیق فرمائی اور ان پر محافظ و گواہ تو ان میں فیصلہ کرو اللہ کے آمارے سے اور اے سننے والے! ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر، ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ رکھا اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کرتا مگر منظور یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا اس میں تمہیں آزمائے تو بھلائیوں کی طرف سبقت چاہو، تم سب کا پھرنا اللہ ہی کی طرف ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے (48)

اور یہ کہ اے مسلمان! اللہ کے آمارے پر حکم کر اور ان کی خواہشوں پر نہ چل

مُرِيَهُمْ مَّصَدًّا قَالِمْ بَيْنَ يَدَيْهِ
وَمِنَ التَّوْرَةِ وَآيَاتِنَا الَّتِي نُنزِلُ
فِيهِ هُدًى وَنُورًا وَمُصَدِّقًا لِّمَا
بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى
وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾

وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنَ
الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ
بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ
لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَ
مِنْهَا جَاءَ أَوْشَاءُ اللَّهِ لِيَجْزِيَ
أُمَّةً ذَاتِ حُدُودٍ وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي
مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى
اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

وَأَنْ حَكَمُوا بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحِدًا رَهُمْ

detract from the Command of Allah revealed to you. Then if they return back to you, you should note that Allah would like to punish them for some of their crimes. And surley, many people are transgressors.

50. Do they want to get the commands of the illiterates. And whoso can command better than Allah for the nation of the faithfuls.

SECTION 8

51. O believers do not make the Jews and the Christians friends. They are only friends of each other. And whoso of you makes them friends then he is also one of them. Surely, Allah does not guide the cruel people.

52. You will come across such people who have a disease in their hearts and they run towards the Jews and the Christians, saying, "we fear lest a misfortune encircles us". Due to it Allah may bring a victory soon or a Commandment from Himself. Then they will be regretful for what they had been hiding in their hearts.

53. And the people who believed said, "are they the same who swore by Allah in their solemn oaths with full strength that surely, they were with you." Their deeds were in vain and they were left in loss.

[THREE FOURTH OF PART 6 ENDS]

54. O believers whoso of you will deviate from his(her) religion, then Allah soon will replace them with such nation who will be dear to

اور ان سے پتہ رہے کہ کس جسے لعنہ نہ دے دیں کسی حکم میں جو تیری طرف اترے پھر اگر وہ منہ پھیریں تو جان لو! کہ اللہ ان کے بعض گناہوں کی سزا ان کو پہنچایا جاتا ہے اور بیشک بہت آدمی بے حکم ہیں (49)

تو کیا جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں اور اللہ سے بہتر کس کا حکم یقین والوں کے لیے؟ (50)

اے ایمان والو! یہود و نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ وہ تمہیں میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہیں میں سے ہے بیشک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا (51)

اب تم انہیں دیکھو گے جن کے دلوں میں آزار (بیماری) ہے کہ یہود و نصاریٰ کی طرف دوڑتے ہیں کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی گردش آجائے تو نزدیک ہے کہ اللہ فتح لائے یا اپنی طرف سے کوئی حکم پھر اس پر جو اپنے دلوں میں چھپایا تھا بچتا رہ جائیں (52)

اور ایمان والے کہتے ہیں کیا میں جنہوں نے اللہ کی قسم کھائی تھی اپنے حلف میں پوری کوشش سے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں ان کا کیا دھرا سب اکارت ہو گیا تو وہ مجھے نقصان میں (53)

أَنْ يَفْتَنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثُرَ مِنْ النَّاسِ لَفَيْسِقُونَ ﴿٥٠﴾

أَفَلَمْ تَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَبِعُقُوبِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَلُوبٌ ﴿٥١﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَهُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا آيَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصِيبُوا عَلَيَّ مَا أَسْرَوُا فِي الْفُسُوقِ وَذُنُوبِهِمْ ﴿٥٣﴾

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ أَنَّهُمْ لَعَنَكُمْ حَبِطَتْ أَعْيَانُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴿٥٤﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِهَوْرٍ حُمْقُهُ مُضْتَرٌّ وَيَعْبُدُ غُيُوبَةً أُولَئِكَ عَلَى

Him and He will be dear to them. They will be humble towards the Muslims and stern towards the disbelievers. They will fight in the way of Allah and will not fear the accusation of any fault finder. This is Allah's Benevolence. He gives it whom He Wills. And Allah is All Embracing, All Knowing.

55. Only Allah and His Rasool (Messenger) and such people are your real friends who believe that they establish the Salaat (Muslim Prayer) and pay the Zakaat (obligatory due of the have notes) and bow down (before Allah).

56. And whoso takes Allah and His Rasool (Messenger) and the Muslims as friends, then surely, only the party of Allah is dominant.

SECTION 9

57. O believers do not make any one of those people your friends who cut a joke against your religion and make its mockery from among those bestowed the Book before you and the disbelievers also should not be taken as friends. And be pious with Allah, if you are believers.

58. And when you call the people to the Salaat (Muslim Prayer) they cut its joke and make its mockery that is because they are merely a people without understanding.

59. Please declare "O people of the Book which of our acts look to you bad, only that we believe in Allah and believe in what has been revealed to us and what was revealed before us. And that

کا پیارا، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت، اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسبی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے (54)

تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے، کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے حضور بیٹھے ہوئے ہیں (55)

اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے، تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے (56)

اے ایمان والو! جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے، وہ جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے اور کافر، ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر ایمان رکھتے ہو (57)

اور جب تم نماز کے لئے اذان دو تو اسے ہنسی کھیل بتاتے ہیں، یہ اس لئے کہ وہ نرسے بے عقل لوگ ہیں (58)

تم فرماؤ! اے کتابدار! تمہیں ہمارا کیا برا لگا، یہی نہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور اس پر جو ہماری طرف اترا، اور اس پر جو پہلے

الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ
يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا
يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِيهِ ذَلِكِ
فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾

اِنَّهَا وَاٰيَاتُكَ اللَّهُ وَّرَسُولُهُ وَالَّذِينَ
اٰمَنُوا بِالَّذِينَ يَقِيْمُونَ الصَّلٰوةَ
وَيُوْتُونَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ ﴿٥٥﴾

وَمَنْ يَتَّوَلِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ
اٰمَنُوا فَاِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٥٦﴾

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَخِنُوْا
اَلَّذِيْنَ اٰتٰكُمُ الْكِتٰبَ هٰذَا وَاَوْ
لِعِبَادِمِنَ الَّذِيْنَ اٰتٰوْا الْكِتٰبَ مِن
قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرِيْنَ اُولٰٓئِكَ
اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٥٧﴾

وَإِذْ اَنۡاٰدِيۡتُمۡ اِلَى الصَّلٰوةِ اَتَّخِذُوۡهَا
هٰذَا وَاَوْ لِعِبَادِ ذٰلِكَ بِاَنۡهَمۡ قَوْمٌ
لَّا يَعْقِلُوْنَ ﴿٥٨﴾

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلۡ تَعْبَهُونَ
مِمَّا لَانَۤا اَمۡنًا بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيْنَا
وَمَاۤ اُنۡزِلَ مِنۡ قَبۡلِ وَاِنۡ اَكۡثَرُكُمْ

most of you surely, are rebellious.

60. Please declare, "should I tell you about those who have the worst rank with Allah and those who have been cursed by Allah. On them is His Wrath that He made some of them monkeys and pigs and they were converted into the worshippers of the devil". "They have worst plight and they have adopted the wrong path".

61. And when they come to you they say, "we are Muslims". Whereas they were disbelievers when they entered (the religion) and they were infidels when they departed. Allah knows best what they conceal.

62. You will see many of them hasten towards sinfulness and disorderly behaviour and eat what is forbidden. Indeed they are practising evil thing.

63. Why their clergymen and priests do not forbid them from uttering sinful words and eating things forbidden? They are indeed performing evil deeds.

64. The Jews said, "the hand of Allah is tied up. Their own hands shall be tied up and on them be the curse of Allah for their such sayings. But His (Allah's) hands are wide open. He gives whom He pleases. And (O beloved Prophet) what has been revealed to you from your Rubb (Sustainer) will increase many of them in wickedness and infidelity. And We (Allah) have left among them enmity and hatred till the Day of

اترا اور یہ کہ تم میں اکثر بے رحم ہیں
(59)

تم فرماؤ! کیا میں بتا دوں جو اللہ کے یہاں اس سے بدتر درجہ ہیں؟ وہ جس پر اللہ نے لعنت کی، اور ان پر غضب فرمایا، اور ان میں سے کر دیئے بندر اور سور اور شیطان کا پوجاری، ان کا ٹھکانا زیادہ بُرا ہے، اور یہ سیدھی راہ سے زیادہ نیچے
(60)

اور جب تمہارے پاس آئیں، تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور وہ آتے وقت بھی کافر تھے، اور جاتے وقت بھی کافر، اور اللہ خوب جانتا ہے جو چھپا رہے ہیں (61)

اور ان میں تم بتوں کو دیکھو گے کہ گناہ اور زیادتی اور حرام خوری پر دوڑتے ہیں
پیکہ بہت ہی بُرے کام کرتے ہیں (62)

انہیں کیوں نہیں منع کرتے ان کے پادری اور دوش گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے؟ پیکہ بہت ہی بُرے کام کر رہے ہیں (63)

اور یہودی بولے، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ان پر اس کئے سے لعنت ہے، بلکہ اس کے ہاتھ کشاہ ہیں، عطا فرماتا ہے جیسے چاہے، اور اے محبوب! یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، اس سے ان میں بہتوں کو شرارت اور کفر میں ترقی ہو گی، اور ان میں ہم نے قیامت

فَسَقُونَ ﴿٥٩﴾

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِمَّنْ ذَٰلِكَ
مُتَوَيْتٍ عِنْدَ اللَّهِ مِمَّنْ لَعَنَتِ اللَّهُ
غَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفُرْدَ
وَالْخَنَازِيرَ يُرَوِّعُونَ النَّاسَ
شَرِّ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٦٠﴾

وَأَذَىٰ أَجْرًا وَأَلَمَّا وَقَدْ دَخَلُوا
بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ حَرَّجُوا بِهِ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْمُرُونَ ﴿٦١﴾

وَنَزَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ
لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾

لَوْلَا نَيْبُهُمْ لَازْتِنَبُونَ
عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمُ وَأَكْلِهِمُ
لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ
عَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعْنُوا إِيْمًا قَالُوا
بَلْ يَدُهُ مَبْسُوطَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ
وَلَا يُزِيدُ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزَلَ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالْبَعْضُ

Resurrection. Whenever they kindle the fire of war, Allah extinguishes it. And they run about on the earth for disorder. And Allah does not love the mischief mongers.

65. And had the people of the Book believed and became pious, then indeed We (Allah) would have removed their sins and We (Allah) would surely, have caused them to enter Paradises of Bliss.

66. And had they maintained the Tourait (Tourah) and Injeel (Bible—Gospel) and what had been revealed to them from their Rubb (Sustainer) they would have received provisions from above them and from underneath their feet. Is there a group among them which is moderate? And most of them are doing most evil things.

SECTION 10

67. O Rasool (Messenger of Allah (beloved Prophet Muhammad S.A.W) effectively deliver what has been revealed to you from your Rubb (Sustainer). And if you are unable to do so then you will not have delivered any message. And Allah will protect you from the mankind. Allah does not guide the disbelievers' nation.

68. Please declare, "O people of the Book, you are not on anything until you stand by Tourait (Tourah) and the Injeel (Bible—Gospel) and what has been revealed to you from your Rubb (Sustainer). And surely, (O beloved Prophet) what has been bestowed from your Rubb (Sustainer) on you will increase many of them in

تک آپس میں دشمنی اور ہیر پال دیا جب کسی لڑائی کی آگ بجھاتے ہیں، اللہ اسے بجھاتا ہے، اور زمین میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور اللہ فسادوں کو نہیں چاہتا (64)

اور اگر کتاب والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے، تو ضرور ہم ان کے گناہ اتار دیتے، اور ضرور انہیں جہنم کے باغوں میں لے جاتے (65)

اور اگر وہ قائم رکھتے توریت اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اترا، تو انہیں رزق ملتا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، ان میں کوئی گروہ اگر احتمال پر ہے، اور ان میں اکثر بہت ہی بُرے کام کر رہے ہیں (66)

اے رسول! پہنچا دو! جو کچھ اترا حمیس تمہارے رب کی طرف سے، اور ایسا نہ ہو تو تم نے اس کا کوئی پیام (پیغام) نہ پہنچایا، اور اللہ تمہاری عیبانی کرے گا لوگوں سے، بیشک اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا (67)

تم فرما دو! اے کتابیو! تم کچھ بھی نہیں ہو جب تک نہ قائم کرو توریت اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، اور بے شک اے محبوب! وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، اس سے ان میں بہتر کو شراعت اور کفر کی اور (زیادہ) ترقی ہو

إِلَى بُيُوتِهِمْ كُلَّمَا آوَدُوا وَإِنَّا رَأَى لِّلْخُرْبِ أَطْفَالَهَا اللَّهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٥﴾
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَدَخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٦٦﴾
وَلَوْ أَنَّهُمْ آتَوْا تُورَتَهُ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْضِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٧﴾

يَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُتَيَّمُوا تُورَتَهُ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَئِيذَانِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى

punishment if they remain disbelievers.

74. Then why they do not turn towards Allah and ask for His forgiveness? And Allah is Forgiving, Merciful.

75. Massih Bin Maryam (Jesus son of Mary) was only a Rasool (Messenger of Allah). Many Rasools (Messengers) have passed before him. And his mother is a truthful lady. Both used to take food. See how clear signs We (Allah) explain for them. Then see how they turned away.

76. Please declare (O beloved Prophet), "do you worship, besides Allah such one who neither has power to harm you nor can do to you any good". And Allah is the Hearing, the Knowing.

77. Please declare (O beloved Prophet) "O people of the Book! do not commit any excess in your religion, unjustly. And do not follow the desires of the people who have already gone on the wrong way and caused many to go astray and have strayed away from the right path.

SECTION 11

78. Those who disbelieved from amongst the children of Israael We (Allah) cursed them through the tongue of Dawood (David) and Eesa (Jesus) son of Maryam (Mary). This was due to their disobedience and transgression.

79. Whatever bad they did they did not prohibit one another among themselves from that. They definitely used to do evil things.

80. You will see many of them befriending

ضرور دردناک عذاب پہنچے گا (73)
تو کیوں نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف
اور اس سے بخشش مانگتے اور اللہ بخشنے والا
مہربان (74)

مسیح بن مریم نہیں مگر ایک رسول، اس
سے پہلے بہت رسول ہو گزرے، اور اس
کی ماں صدیقہ ہے، دونوں کھانا کھاتے
تھے، دیکھو! تو ہم کسی صاف نشانیوں ان
کے لئے بیان کرتے ہیں؟ پھر دیکھو! وہ کیسے
اوندھے جاتے ہیں (75)

تم فرماؤ! کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو
جو تمہارے نقصان کا مالک، نہ نفع کا، اور
اللہ ہی سنتا جانتا ہے (76)

تم فرماؤ! اے کتاب والو! اپنے دین میں
ناحق زیادتی نہ کرو، اور ایسے لوگوں کی
خواہش پر نہ چلو جو پہلے گمراہ ہو چکے، اور
بتوں کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ سے
بیک گئے (77)

لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا، بنی
اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی
زبان پر، یہ بدلا، ان کی نافرمانی اور سرکشی
کا (78)

جو بڑی بات کرتے آپس میں ایک
دوسرے کو نہ روکے، ضرور بہت ہی بڑے
کام کرتے تھے (79)

ان میں تم بہت کو دیکھو گے کہ کانروں

عَذَابِ الْعِلْمِ ۝
أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمَّةُ
صِدِّيقَةٌ كَانُوا يَاكُلُونَ الطَّعَامَ
وَأَنْظُرُوا كَيْفَ تُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّ
أَنْظُرُوا يَوْمَ يَكُونُ ۝

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا
لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي
دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا

أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ
أَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ

السَّبِيلِ ۝

لَعْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي
إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى
ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا
يَعْتَدُونَ ۝

كَانُوا الْآيَاتِ هَؤُلَاءِ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوا
لَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝
تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَكَّلُونَ عَلَى الَّذِينَ

disbelievers. What an evil thing they have sent forth for themselves that Allah's Wrath fell upon them and they will under-go perpetual punishment.

81. And if they had believed in Allah and his Prophet (Muhammad S.A.W.) and what has been revealed to him, then they would not have taken the disbelievers as friends, but many of them are disobedients.

82. You shall surely, find the Jews and the idolators the bitter enemies of the Muslims. And surely, you shall find the nearest in friendship to the Muslims those who say, "we are the Christians." That is because among them are men of learning and piety who are not proud.

PART 7

SURA AL-MAA'IDAH

(Contd.)

SECTION 11 (Contd.)

83. And when they hear what has been revealed to this Rasool (Messenger of Allah Holy Prophet Muhammad S.A.W.) you see that their eyes are overflowing with tears that they have recognized the Truth. They say, "O our Rubb (Sustainer) we believe. Therefore, write us also among the witnesses (to Truth).

84. What has happened to us that why we should not have faith in Allah and in the Truth that has been revealed to us, when we are eager that our Rubb (Sustainer) should admit us with the nation of the straightforwards.

سے دوستی کرتے ہیں 'کیا ہی بُری چیز اپنے لیے خود آگے بھیجی' یہ کہ اللہ کا ان پر غضب ہوا' اور وہ عذاب میں بیش رہیں گے (80)

اور اگر وہ ایمان لائے، اللہ اور ان نبی پر اور اس پر جو ان کی طرف اترا، تو کافروں سے دوستی نہ کرتے، مگر ان میں تو بہترے فاسق ہیں (81)

ضرور! تم مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے، اور ضرور! تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے، جو کہتے تھے، ہم نصاریٰ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور درویش ہیں، اور یہ غرور نہیں کرتے (82)

لَقَدْ كَرِهَ الْإِنسَانُ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ
أَنْفُسَهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾
وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ مَا أَتَيْنَاهُمْ
أُولَئِكَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
فَاسِقُونَ ﴿٨١﴾

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ
آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ
آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُوكَ
ذَلِكَ يَأْتِيهِمْ مِنْهُمْ قَسِيصٌ
وَرُحْبَانَةٌ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾

اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا، تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے اوہل رہی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے، کہتے ہیں، اے رب ہمارے! ہم ایمان لائے تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے (83)

اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائیں، اللہ پر اور اس حق پر کہ ہمارے پاس آیا اور ہم طمع کرتے ہیں، کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے (84)

وَإِذْ أَسْمِعُ مَا أُنزِلَ لِي الرَّسُولِ
تَتَنَزَّلُ أَعْيُنُهُمْ فَيُحِضُّ مِنَ الدَّمْعِ
مِمَّا كَفَرُوا مِنِّي الْحَقُّ يَقُولُونَ رَبَّنَا
أَفْئَاتُ أَكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾

وَمَا كُنَّا لَنُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا
مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا
مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾

85. So Allah will reward them for such admission with the Paradise under which streams flow and they will remain there forever. And that is the reward of those who are beneficent (to others).

86. But those who disbelieved and falsified Our (Allah's) Verses they will be the inhabitants of the hell.

SECTION 12

87. O believers ! do not make unlawful the clean things which Allah has made lawful to you and do not trespass the limits of Allah. Allah does not love the trespassers.

88. And eat of that which Allah has provided you as lawful and clean, and be pious with Allah in whom you believe.

89. Allah will not take you to account for the oaths taken in vain. But He will take you to account for oaths which you undertook deliberately. The penalty of breaking of such oaths is the feeding of ten needy people with average food with which you usually feed your family members, or clothing them or the freeing of a person in yoke. Then whoso does not find anything of these, then he should fast for three days. These are the alternate penalties of your oaths when you have faithfully taken the same (but break them). And guard your oaths. Thus does Allah explain His Verses to you so that you may be grateful.

90. O believers ! wine and gambling and idols and foretelling through arrows are altogether nasty satanic

تو اللہ نے ان کے اس کئے کے بدلے انہیں باغ دے دیے، جن کے نیچے سرس روان ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بدلا ہے کیوں کا (85)

اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں بھٹلائیں، وہ ہیں دوزخ والے (86)

اسے ایمان والو! حرام نہ ٹھہراؤ! وہ تمہاری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کیں اور حد سے نہ بڑھو! بیشک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں (87)

اور کھاؤ! جو کچھ تمہیں اللہ نے روزی دی حلال پاکیزہ اور ذرو اللہ سے جس پر تمہیں ایمان ہے (88)

اللہ تمہیں نہیں پھرتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر، ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا، تو ایسی قسم کا بدلا دس مسکینوں کو کھانا دینا، اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے، یا انہیں کپڑے دینا، یا ایک برہہ (غلام) آزاد کرنا، تو جو ان میں سے کچھ نہ پائے، تو تین دن کے روزے، یہ بدلا ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھاؤ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے، کہ کیسے تم احسان مانو (89)

اسے ایمان والو! شراب اور جوا اور بت اور پانسے ٹاپک ہی ہیں، شیطانی کام، تو ان

فَاتَايَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا وَاجْتَبَتْ جَنَّتِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
إِنَّهُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ نَارٍ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْتُمُوا طَيْبَاتِ
مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝
وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝

لَا يَأْتِيكُمْ اللَّهُ بِغَيْرِ إِيمَانِكُمْ
وَلَكِنْ لِيَأْخُذَ كُفْرِيًا بِمَا عَقَّدْتُمُ
الْإِيمَانَ فَكَفَّارَتَهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ
مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَخْرِيجُهُمْ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
ذَلِكَ تَفْأَرَةٌ إِيْمَانِكُمْ إِذْ حَلَفْتُمْ
وَاحْفَظُوا إِيْمَانَكُمْ ذَٰلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

يَذِيْبُ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهَا الْخَمْرُ
بِالْهَيْبَةِ وَالْانصَابِ وَالْأَزْلَامِ

(devilish) deeds. So shun them that you may prosper.

91. The satan (devil) desires only to infuse hatred and enmity among you through wine and gambling and to bar you from the remembrance of Allah and from Salat (Muslim Prayer). Will you then desist?

92. And obey Allah and obey Rasool (Holy Messenger of Allah) and be careful, then if you turn back, know then that the duty of Our (Allah's) Rasool (Messenger of Allah) is only to deliver the message clearly.

93. On those who believe and do pious deeds there is no sin for what they eat remaining pious and faithful and commit to the right deeds. Again they remain pious and keep faith, then continue to be pious and righteous. And Allah loves the righteous.

SECTION 13

94. O believers Allah will surely test you with such hunting game which your hands and spears may undertake, in order that Allah may make known those who fear Him without seeing. Then after this who crosses the limits for him is a painful punishment.

95. O believers ! donot undertake hunting game while you are in 'Ehram' (pilgrimage garb). And whoso among you kills it intentionally then his compensation is that he should give a like animal from amongst the stock as judged by two just persons among you. This offering should reach the Ka'aba (the Sacred

سے بچے رہنا کہ تم فلاح پاؤ (90)

شیطان کی ہانتا ہے کہ تم میں حیر اور دشمنی ڈلا دے، شراب اور جوئے میں اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے تو کیا تم باز آئے (91)

اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ہوشیار رہو، پھر اگر تم پھر جاؤ، تو جان لو کہ ہمارے رسول کا ذمہ صرف واضح طور پر حکم پہنچانا ہے (92)

جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر کچھ گناہ نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے کھیا جب کہ ڈریں، اور ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں، پھر ڈریں اور ایمان رکھیں، پھر ڈریں اور نیک رہیں، اور اللہ انہوں کو دوست رکھتا ہے (93)

اے ایمان والو! ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا ایسے بعض شکار سے جس تک تمہارا ہاتھ اور نیزے پہنچیں، کہ اللہ پہچان کرا دے ان کی جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو حد سے بڑھے اس کے لیے دردناک سزا ہے (94)

اے ایمان والو! شکار نہ مارو! جب تم اجرام میں ہو، اور تم میں جو اسے قصداً قتل کرے، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ ویسا ہی جانور موٹی سے دے، تم میں کہ دو ٹھہ آدمی اس کا حکم (فیصلہ) کریں، قربانی ہو

رُجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۹۰﴾

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿۹۱﴾

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۹۲﴾

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۹۳﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْلُغُوا إِلَىٰ آلِهِم مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ آيِدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۗ مَن ائْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۹۴﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَ مِنكُمْ مَّتَعِدًا فَجِزَاءُ مَقْتَلٍ مِّنَ النَّعْمِ بِحَدِّ مَا بِهِ ذُو عُدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَلِغَةً لِّلْكَعْبَةِ ۚ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ

House in Makkah) or as an alternate compensation he should give food to some needy persons or should fast to its equivalent, so that he may taste the penalty of his deed. Allah has pardoned what happened in the past. But if anyone repeats it Allah will take retribution from him. And Allah is Mighty in retribution (for settlement of wrongs not adjudged).

96. Lawful to you is game (fishing) at sea and eating its catch for the benefit of you and the travellers. And forbidden to you is the game of the land, so long you are in 'Ehram' (pilgrimage garments). And be pious with Allah towards whom you are to be gathered.

97. Allah has made Ka'aba (the sacred house in Makkah) the inviolable place of maintenance for betterment of mankind as is the sacred month and the offering (animal) with collars (in their necks). That is so that you may know that Allah has the knowledge of what is in the heavens and what is in the earth and that Allah knows everything.

98. Know that the torment of Allah is severe in retribution but Allah is Forgiving, Merciful.

99. The Rasool (Messenger) has no obligation but to deliver the Message. And Allah knows what you reveal and what you conceal.

100. (O beloved Prophet) please declare, "the pure and the impure are not equal, even though the abundance of the impure may surprise you. And fear Allah, O men of

کعبہ کو پہنچنے یا کفارہ دے' چند سینوں کا کھانا یا اس کے برابر روزے' کہ اپنے کام کا وبال پچھے' اللہ نے معاف کیا جو ہو گزرا' اور جو اب کرے گا اللہ اس سے بدلا لے گا اور اللہ غالب ہے بدلا لینے والا (95)

حلال ہے تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا' تمہارے اور مسافروں کے فائدے کو' اور تم پر حرام ہے خشکی کا شکار جب تک تم احرام میں ہو' اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں لٹھنا ہے (96)

اللہ نے اوب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا باعث کیا' اور حرمت والے مینہ اور حرم کی قربانی' اور گلے میں علامت آویزاں جانوروں کو' یہ اس لیے کہ تم یقین کرو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے' اور جو کچھ زمین میں' اور یہ کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے (97)

جان رکھو! کہ اللہ کا عذاب سخت ہے' اور اللہ بخشنے والا مہربان (98)

رسول پر نہیں مگر حکم پہنچانا' اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو (99)

تم فرما دو! کہ عمدہ اور ستھرا برابر نہیں اگرچہ تجھے عمدے کی کثرت بھائے' تو اللہ سے ڈرتے رہو' اے عقل والو! کہ تم

أَوْعَدَلُ ذَلِكَ حَيْثُ مَا لَيْدَوْنَ وَيَأَلُ
أَمْرُهُ عَفَا اللَّهُ عَنْمَا سَلَفَ وَمَنْ عَاذَ
فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾

أَحِلُّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ
مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيْرَةِ وَحُرْمَ الْبَرِّ
صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَالْقَوَا
اللَّهُ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

جَعَلَ اللَّهُ الْكَبْعَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ
قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَيْدَى
وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴿٩٧﴾

رَاعُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩٨﴾

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٩﴾

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ
لَوْ أَنَّجِبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا

understanding, that you may get prosperity.

SECTION 14

101. O believers ! donot question about such things which if made known to you may displease you. Yet if you ask questions while the Qur'aan is being revealed then they would be made clear to you. Allah has already overlooked (such questioning). And Allah is Forgiving, Forbearing.

102. The people before you questioned the same way but became disbelievers therein.

103. Allah has neither appointed any "Bahira," nor "Sai-ba", nor "Wasila" and nor "Hami" (names of sacred she camels and she goats worshipped in the times of paganism) but the unbelievers fabricate lie against Allah and most of them do not make use of their understanding.

104. And when it is said to them, "come to what Allah has revealed and to the Rasool (Messenger)", they say, "enough for us is that where on we found our fathers". What! even though their fathers knew nothing nor were they on the right way?

105. O believers ! you are accountable for yourselves. He who has gone or the wrong way will not harm you when you are on the right way. Towards Allah is the return of you all. Then He will tell you what were your deeds?

106. O believers! be witnesses among yourselves, when death approaches any

لَا حَاجَ لَكُمْ بِهِ

عَلَى اللَّهِ يَأْتِي الْبَابَ لَكُمْ تَفْهَمُونَ

اے ایمان والو! ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، اللہ انہیں معاف کر چکا ہے اور اللہ بخشنے والا عظیم والا ہے (101)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنُوا عَنْ أَسْيَافٍ أَنْ يَبْدُلُوكُمْ تَسْلُوكُمْ عَنْ حَاجَتِنِ بِزَلِّ الْقُرْآنِ يُبَدِّلُكُمْ عَنِ اللَّهِ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

تم سے اگلی ایک قوم نے انہیں پوچھا پھر ان سے منکر ہو بیٹھے (102) اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے کان چرا ہوا اور نہ بجا (خوب سمجھتے اور سننے) اور نہ میل اور نہ حامی ہاں! کافر لوگ اللہ پر جھوٹا افتراء باندھتے ہیں اور ان میں اکثر نرے بے عقل ہیں (103)

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْحَبُوهَا كُفْرًا ۗ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَيِّنَةٍ وَلَا مِثْلَ بَيِّنَةٍ وَلَا أَوْصِيئَةَ وَاللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَتَفَرَّدُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

اور جب ان سے کہا جائے: آؤ! اس طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف، کہیں: ہمیں وہ بہت ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانیں، نہ راہ پر ہوں (104)

لَاذِ اقْبَلْ لَهُمْ تَعَالَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى الرَّسُولِ قَالُوا اصْبِرْنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَئِكَ كَانُوا أَبَاءَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

اے ایمان والو! تم اپنی فکر رکھو! تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا، جب کہ تم راہ پر ہو، تم سب کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے (105)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لِيُضْرَّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَجِيعَةً جَمِيعًا تَنْبِتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

اے ایمان والو! تمہاری آپس کی گواہی

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَهُمْ

of you. At the time of making a will, there be two just persons from among you or two other (tribesmen) not from among you, when you are a traveller on the earth and the calamity of death befalls you. Detain them, both after Salaat (after Prayer to testify). They should swear by Allah saying that if you are in any doubt, then we shall not sell our testimony in lieu of such oath, even though he (dying person) may be a near relation, and will not hide the testimony of Allah (when asked). If we do so, we would surely be among the sinners".

107. Then if it is discovered that they became guilty of any wrong then two others should stand up in their place for amongst those nearer to the deceased whose right has been injured by this wrong (testimony). Then they should swear by Allah that our testimony is more correct than the testimony of those two, and we have not transgressed the limits. If it be so then we should be the cruel".

108. That is more likely that they may give the testimony truly, according to facts, or they will be afraid that some oaths may be rebutted after their oaths. And be pious with Allah and listen to His Commands. And Allah does not guide the disobedient.

SECTION 15

109. The day when Allah will gather the Rasools (Messengers), and say, "what answer you received?" They will say, "we have no knowledge. Surely You are

جب تم میں کسی کو موت آئے وصیت کرتے وقت، تم میں سے دو سچے شخص ہیں یا غیروں میں سے دو، جب تم ملک میں سفر کو جاؤ پھر تمہیں موت کا حادثہ پہنچے، ان دونوں کو نماز کے بعد روکنا، وہ اللہ کی قسم کھائیں، اگر ہمیں کچھ شک پڑے، ہم حلف کے بدلے کچھ مال نہ خریدیں گے، اگرچہ قریب کا رشتہ دار ہو، اور اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے، ایسا کریں تو ہم ضرور گناہگاروں میں ہیں (106)

پھر اگر پتہ چلے کہ وہ کسی گناہ کے سزاوار ہوئے، تو ان کی جگہ دو اور کھڑے ہوں، ان میں سے کہ اس گناہ یعنی جھوٹی گواہی نے ان کا حق لے کر ان کو نقصان پہنچایا، جو حیت سے زیادہ قریب ہوں، تو اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی زیادہ ٹھیک ہے ان دو کی گواہی سے، اور ہم حد سے نہ بڑھے، ایسا ہو تو ہم ظالموں میں ہوں (107)

یہ قریب تر ہے اس سے کہ گواہی جیسی چاہیے ادا کریں، یا ڈریں کہ کچھ قسمیں رد کر دی جائیں ان کی قسموں کے بعد، اور اللہ سے ڈرو! اور حکم سنو! اور اللہ سے کھم کو راہ نہیں دتا (108)

بس دن اللہ جمع فرمائے گا رسولوں کو، پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا؟ عرض کریں گے! ہمیں کچھ علم نہیں، بیشک تو ہی سب

اِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ أَحْسَنُ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ صَرِيحُونَ فِي الْأَرْضِ فَاصْبِرُوا لِمَا صَبَّأَتْ الْمَوْتُ تَحْسَبُوا بِهَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيَقْسِمْنَ بِاللَّهِ إِنْ إِيْتَيْنَا لَأَنشُرَنَّيَ بِهِ تَمَنَّاؤُكُمْ وَتُؤَكِّدُنَّيَ وَلَا تَكْتُمَنَّ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا الْيَمِينُ الْإِيمَانِ ﴿١٠٦﴾

فَإِنْ عُدَّ عَلَىٰ إِلَيْهِمَا اسْتَحْقَقْنَا لِمَا فَاخَرْنَ بِقَوْلَيْنِ عَقَابَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولِيَّيْنَ فَيَقْسِمْنَ بِاللَّهِ شَهَادَتَنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا عَدْتُنَا نِيًّا إِنَّا إِذًا الْيَمِينُ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٧﴾

ذَلِكَ أَذَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَحْتَفُونَ أَنْ تَرُدَّ إِيْمَانُ بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَالْمَحْضُورًا بِحُجَّةٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٠٨﴾

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا جِئْتُمْ قَالُوا لَوِ الْإِعْلَامُ لَنَا إِنَّا نَكُ

the All-Knowing of the hidden things".

1.0. When Allah will say O Eesa bin Maryam (Jesus son of Mary) remember My blessings, on you and your mother when I strengthened you with the help of the Holy Spirit to speak to mankind while in the cradle age and when I taught you the Book, the Wisdom, the Towraat (Torah) and the Injeel (Gospel Bible). You were created out of clay a form like that of the birds by My Command and then breathed into it and it became a flying bird by My Command. And you healed the blinds by birth and the leaper by My Command. And you brought to light from death the dead by My Command. And then I prohibited the Children of Israael from you (putting you to death) when you came to them with My clear Signs. The unbelievers among them said, "it is nothing but clear magic."

111. And when I (Allah) inspired in the hearts of the disciples to believe in Me and in My Rasool (Messenger), they said, "we believe and you bear witness that we are Muslims".

112. When the disciples said, "O Eesa Bin Maryam (Jesus son of Mary) is your Rubb (Sustainer) able to send down on us from heaven a table full of eatables"? He said "be pious with Allah if you are the believers".

113. They said, "we desire that we should eat of it and our hearts may be at rest and we should see with our eyes that you spoke truth to us

نہیں کا جانے والا (109)

جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے یحییٰ! یاد کرو میرا احسان اپنے اوپر اور اپنی ماں پر، جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی، تو لوگوں سے باہم کرنا پالنے میں، اور یہی عمر ہو کر، اور جب میں نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت اور قورت اور انجیل، اور جب تو مٹی سے پرند کی سی صورت میرے حکم سے بنانا، پھر اس میں پھونک مارنا، تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتی، اور تو مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے، کو میرے حکم سے شفا دیتا، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا، جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا، تو ان میں کے کافر بولے، کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو (110)

اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ! بولے! ہم ایمان لائے، اور گواہ رہ کر ہم مسلمان ہیں (111)

جب حواریوں نے کہا، اے یحییٰ بن مریم! کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتارے؟ کہا، اللہ سے ڈرو! اگر ایمان رکھتے ہو (112)

بولے! ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں، اور ہمارے دل ٹھہریں، اور ہم آنکھوں سے دیکھ لیں، کہ آپ نے ہم

أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝

إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْقُوبَ إِنِّي مَرْيَمَ أَزْوَاجِي وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْنَاكَ بِرُوحِ الْقُدُّوسِ لِكَلِمَةٍ أُنسِلَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا إِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخَلَّقْنَا مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَذْنِي فَتَنفَعُ حَرْقًا فَتَكُونُ طَيْرًا بِأَذْنِي وَتَبْرِئِي الْأَكْمَامَ وَالْأَبْرَصَ بِأَذْنِي وَإِذْ نَخْرَجُ الْمُؤْمِنِي بِأَذْنِي وَإِذْ نَقَفْتُ بِرَبِّي إِذْ أَوَيْلَ عَنْكَ إِذْ جُنَّهْمُ بِأَيْمِنَتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ إِذْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ قَبِيحٌ ۝

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّنَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنفُسِنَا ۝

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لِيَعْقُوبَ ابْنِ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ أَتَقْرَأُونَ إِنَّ نَسْتَمُؤْمِنِينَ ۝

قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَنَطْمَئِنُّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَ وَأَوْ

and we may become witness to it."

[ONE FOURTH OF PART 7 ENDS]

114. Eesa Bin Maryam (Jesus son of Mary) said, "O Allah, our Rubb (Sustainer) send down on us a table full of eatables from the heavens which will be an Eid festival) for us and for our successors and a sign from Your honor and provide us provisions from you that you are the best Provident (of all the creatures)."

115. Allah said, "I (Allah) am sending it down to you but if any of you disbelieves, thereafter then surely I (Allah) shall punish him with such a penalty which I never awarded to anyone else in the universe".

SECTION 16

116. And when Allah will say, "O Eesa Bin Maryam (Jesus son of Mary) did you say to the mankind, "take me and my mother as two gods beside (One) Allah? He will submit, "you are Holy. It was not myself who could say so as I had no right of it. If I had said it you would have surely known it. You know what is in my heart and I do not know what is in Your Knowledge". "Surely only You are the Knower of the hidden things".

117. "I did not say to them anything except what You Commanded me that, "worship Allah Who is my Rubb (Sustainer) and your Rubb (Sustainer). And I was a witness over them so long as I remained among them. But when You raised me up from amongst them You were

سے حج فرمایا، اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں (113)

عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے اللہ! اے رب ہمارے! ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے انگوں بچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے (114)

اللہ نے فرمایا، کہ میں اسے تم پر اتارنا ہوں، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا، تو بیٹک میں اسے وہ عذاب دوں گا، کہ سارے جہان میں کسی پر نہ کروں گا (115) اور جب اللہ فرمائے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ! کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو اللہ کے سوا، عرض کرے گا! پائی ہے تجھے، مجھے روا نہیں کہ وہ بات کہوں جو مجھے نہیں پہنچتی، اگر میں نے ایسا کہا ہو، تو ضرور تجھے معلوم ہو گا، تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بیٹک تو ہی ہے سب فیروں کا خوب جاننے والا (116)

میں نے تو ان سے نہ کہا مگر وہی یہ تو نے مجھے حکم دیا تھا، کہ اللہ کو پوجو! جو میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب، اور میں ان پر مطلع تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر

نَكُونُ عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١٣﴾
قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١٤﴾

قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَرْسِلٌ لَكُمْ مَائِدَةً فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أَعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أَعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا مِنِّي وَآلِي الْمِيثَمِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَتْ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحُجَّةٍ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١٦﴾

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا

Yourself keeping an eye on them and you are Witness over everything."

118. "If You punish them they are Your devotees and if You forgive them You are Mighty, Wise."

119. Allah will say, "this is a Day when the truth will benefit the truthful". They will have the Paradise under which streams flow in which they will remain forever. Allah is pleased with such ones and they are pleased with Him. That is the greatest success (salvation).

120. To Allah belongs the Kingdom of the heavens and the earth and whatever is in them and He is Powerful over everything.

S. VI

SURA AL-AN'AM

Revealed at Makkah

(165 Verses, 20 Sections)

Allah's Name, Who is the Most Affectionate, the Most Merciful.

SECTION 1

1. All praise be to Allah Who created the heavens and the earth and established the darkness and light; yet the disbelievers ascribe (some others equal to their Rubb (Sustainer).

2. It is He Who created you from dust then commanded your stay for a period. And then a term is fixed with Him. Yet you doubt.

3. And He is the (One) Allah in the heavens and in the earth. He knows your secrets and your open affairs and He knows what are your deeds.

4. And there came to them sign out of the signs of

جب تم نے مجھے اٹھایا، تو تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا اور ہر چیز تم سے سامنے حاضر ہے (117)

اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے، تو بیک توی ہے غالب حکمت والا (118)

اللہ نے فرمایا: کہ یہ ہے وہ دن جس میں جنوں کو ان کا سچ کام آئے گا، ان کے لیے باغ ہیں، جن کے نیچے نرسروں، بیش بیش ان میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ ہے بڑی کامیابی (119)

اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین، اور جو کچھ ان میں ہے سب کی سلطنت، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے (120)

سورۃ انعام کی ہے (اور اس میں) ایک سو پینسٹھ (165) آیتیں اور میں (20) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا

سب خوبیاں اللہ کو جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور اندھیرا اور روشنی پیدا کی اس پر کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں (1)

وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ایک میعاد کا حکم رکھا، اور ایک مقررہ وعدہ اس کے میاں ہے، پھر تم لوگ شک کرتے ہو (2)

اور وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین کا، اسے تمہارا چمپا اور ظاہر سب معلوم ہے اور تمہارے کام جانتا ہے (3)

اور ان کے پاس کوئی بھی ننگالی اپنے رب

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّحِيمُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شهِيدٌ ۚ إِنَّ لَعْنَتَهُمْ وَأَنْتَ عَمَادُكَ ۚ وَإِنَّ تَقْوَىٰ لَهُمْ لَأَنْتَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ نَبِّئِ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

وَلِلَّهِ الْمُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۝

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ۝

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ فِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَنَجْوَىٰكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۝

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِنَا

their Rubb (Sustainer) but they turned their faces away from it.

5. Then certainly they falsified the truth when it came to them but they will get the news of that of which they were cutting jokes.

6. Have they not seen that how many generations We (Allah) destroyed before them whom We (Allah) established on the earth to the extent that We (Allah) have not established you. And We (Allah) send the clouds from the sky and We** (Allah) cause the streams to flow beneath them. So We (Allah) destroyed them for their sins and raised up another generation after them.

7. And had I revealed to you (Muhammad) something written on a paper and they had touched it with their hands, the disbelievers will have said, 'this is not but merely a magic.'

8. And they say "why has not an Angel been sent on them". If I (Allah) had sent an Angel the matter would have been settled and no concession would have been allowed to them.

9. Had We (Allah) appointed an Angel (as Messenger) We (Allah) surely had made him a man (to speak to men) and would have kept them in same doubt as they have the doubt now.

10. And (O beloved Prophet Muhammad S.A.W.) surely the Rasools (Messengers) before you have been joked and those who

کی نشانیوں سے نہیں آتی، مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں (4)

تو بیشک انہوں نے حق کو بھلا یا جب ان کے پاس آیا، تو اب انہیں خبر ہوا چاہتی ہے اس چیز کی جس پر ہنس رہے تھے (5)

کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں (قومیں) کھپا دیں انہیں ہم نے زمین میں وہ جماد دیا (دنیاوی اسباب کی کثرت دی) جو تم کو نہ دیا اور ان پر موسلا دھار پانی بھیجا اور ان کے نیچے نہریں بہائیں، تو انہیں ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا، اور ان کے بعد اور سنگت اٹھائی (6)

اور اگر ہم تم پر کاغذ میں کچھ لکھا ہوا آمارتے، کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے، جب بھی کافر کہتے کہ یہ نہیں مگر کھلا جادو (7)

اور بولے! ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہ آمارا گیا، اور اگر ہم فرشتہ آمارتے تو کام تمام ہو گیا ہوتا، پھر انہیں صلت نہ دی جاتی (8)

اور اگر ہم نبی کو فرشتہ کرتے جب بھی اسے مرد ہی بناتے، اور ان پر وہی رُہبہ رکھتے جس میں اب پڑے ہیں (9)

اور ضرور اے محبوب! تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ٹٹا (مزاح) کیا گیا

الَّذِينَ كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤﴾
فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ
فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ لَمَّا كَانُوا
بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٥﴾

الَّذِينَ كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤﴾
فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ
فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ لَمَّا كَانُوا
بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٥﴾

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ قَوْمٍ آخَرِينَ
فَلَقَالُوا يَا أَيُّدٍ لَهُمْ قَوْلَ الَّذِينَ
كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا أَلْسَانُ سَاحِرِينَ ﴿٦﴾

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ سَرًّا
يُنظَرُونَ ﴿٨﴾

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا
وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ ﴿٩﴾

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلِ مَنْ قَبْلِكُمْ
فَلَقَدْ يَا الَّذِينَ سَخَّرْنَا مِنْهُمْ لَمَّا كَانُوا

mocked them were overtaken by their mockery with which they joked.

SECTION 2

11. Please declare, (O beloved Prophet), "travel in the land, then observe what was the end of those who were the liars".

12. Please declare, "to whom belongs what is in the heavens and in the earth"? Please declare, "it belongs to Allah. He has made it obligatory for Himself (to confer) His Mercy (with generosity). He will surely gather you on the Day of Resurrection about which there was no doubt. Those who have put their own selves to loss will not believe.

13. And to Him belongs whatever constitutes the night and the day. And He is the All-Hearing, the All-Knowing.

14. Please declare (O beloved Prophet), "should I make anybody else as protector other than Allah, the Originator of the heavens and the earth, Who feeds but is free of being fed." Please declare (O beloved Prophet), "I have been commanded to be the first of those who submit (to Him) and never were the muushrik (pagans).

15. Please declare (O beloved Prophet), "if I disobey my Rubb (Sustainer) I am so much dreadful of the punishment of the Mightiest Day.

16. From whom-so-ever this punishment will be diverted on that Day he will be the one selected by Allah for His Mercy and that is the clear success.

تو وہ جو ان سے ہنسنے تھے ان کی ہنسی انہیں
کو لے بھی (10)

تم فرما دو! زمین میں سر کرو! پھر دیکھو کہ
جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا؟ (11)

تم فرماؤ! کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور
زمین میں ہے؟ تم فرماؤ! اللہ کا ہے! اس
نے اپنے کرم کے ذمہ پر رحمت لکھ لی
ہے، بیک ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع
کرے گا! اس میں کچھ شک نہیں، وہ
جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی،
ایمان نہیں لائے (12)

اور اسی کا ہے جو کچھ رات ہے اور
دن میں، اور وہی ہے سنتا جانتا (13)

تم فرماؤ! کیا اللہ کے سوا کسی اور کو والی
بتاؤ! وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین پیدا
کیے، اور وہ کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک
ہے، تم فرماؤ! مجھے حکم ہوا ہے کہ سب
سے پہلے گردن رکھوں اور ہرگز شرک
والوں میں سے نہ ہوں (14)

تم فرماؤ! اگر میں اپنے رب کی نافرمانی
کروں، تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر
ہے (15)

اس دن جس سے عذاب پھیر دیا جائے
ضرور، اس پر اللہ کی مہربانی ہوئی، اور یہی
کلی کامیابی ہے (16)

بَارِبِهِمْ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿۱۰﴾

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظروا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴿۱۱﴾

قُلْ لَيْسَ لِي فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
قُلٌّ إِنَّهُ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ
يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَآ رَبَّ
غَيْرَ الَّذِيْنَ حَسِبُوْا اَنْفُسَهُمْ يَفْتَمُّ
لَآ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۲﴾

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۳﴾

قُلْ اعْبُدُوْا اللّٰهَ اَحَدًا وَّلِيًّا فَاَطِرُ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ
وَلَا يُطْعَمُ قُلٌّ اِنِّيْ اُؤْتِرُ اَنْ اَكُوْنَ
اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَّلَا تَكُوْنُوْنَ مِنْ
الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۱۴﴾

قُلْ اِنِّيْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ
عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۵﴾

مَنْ يُضَلِّفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ
رَحِمَهُ وَاُولٰٓئِكَ الْقَوْمُ الْبٰسِيْنَ ﴿۱۶﴾

17. And if Allah afflicts you with some trouble none is there to remove it, except Him. And if He bestows you with His Bounty then He is Powerful over everything.

18. And He is Supreme over His devotees; and He is the Wise, the All-Aware.

19. Please declare (O beloved Prophet) what thing is most weighty as testimony"? Please declare, "Allah is the Witness between you and me and this Qur'aan has been revealed to me (Muhammad S.A.W.) that it may thereby warn you and everyone else to whom it is conveyed. Do you indeed bear witness that there are other gods along with Allah"? Please declare, "He is One Allah to be worshipped and I totally disassociate from what you associate with Him.

20. Those people to whom we have given the Book recognise him (Prophet Muhammad) as they recognize their sons. Yet those who ruin their own selves do not believe.

SECTION 3

21. And who is more cruel than he who forges a lie against Allah or belies His Verses. Surely, the cruel will never be prosperous.

22. And on the Day when We (Allah) shall collect them all together; then We (Allah) shall say to the muushrikeen (pagans / idolators), "where are your those associates whom you used to assert?"

23. Then there will be left no agitation for them but to say, "by Allah, our Rubb

اور اگر تجھے اللہ کوئی برائی پہنچائے، تو اس کے سوا اس کا کوئی دوسرے نہ کرے، والا نہیں، اور اگر تجھے بھلائی پہنچائے، تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے (17)

وہی غالب ہے اپنے بندوں پر، اور وہی ہے حکمت والا خبروار (18)

تم فرماؤ! سب سے بڑی گواہی کس کی، تم فرماؤ! کہ اللہ گواہ ہے مجھ میں اور تم میں، اور میری طرف اس قرآن کی وحی ہوئی ہے، کہ میں اس سے تمہیں ڈراؤں اور جن جن کو بچنے، تو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور خدا ہیں، تم فرماؤ! کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا، تم فرماؤ! کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور میں تیزاروں ان سے جن کو تم شرک ٹھہراتے ہو (19)

جن کو ہم نے کتاب دی، اس نبی کو پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی، وہ ایمان نہیں لاتے (20)

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یا اس کی آیتیں جھٹلائے؟ بیشک ظالم ظالم نہ پائیں گے (21)

اور جس دن ہم سب کو اکٹائیں گے، پھر مشرکوں سے فرمائیں گے، کہاں ہیں تمہارے وہ شرک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ (22)

پھر ان کی کچھ بناوٹ نہ رہی مگر یہ کہ بولے! ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم کہ ہم

وَأِنْ يَسْأَلْكَ اللَّهُ بِصُفْوَةٍ
كَأَيْفَ لَدَّ الرَّاهُودِ وَإِنْ يَسْأَلْكَ
بِخَيْرٍ فَيَقُولُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ
الْخَبِيرُ ﴿١٨﴾

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ سَبَادَةً قَبْلَ اللَّهِ
شَيْئًا مِنْ بَنِي رَيْبِنَا وَمِمَّا رَجَعْنَا
هَذَا الْقُرْآنَ لِأَنَّذَرُكُمْ بِهِ وَمَنْ
بَلَغَ أَيْتُمُكُمْ تَشْهَدُونَ أَنْ مَعَ اللَّهِ
الْهَيْهَاتَ أَخْرَى قُلُوبًا لَا شَهِدَ قُلُوبُنَا
هُوَ إِلَهُ وَوَاحِدٌ ذَرَأْتُنِي بَرِيٍّ مَعَنَا
تَشْرِكُونَ ﴿١٩﴾

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ
فَكَيْفَ يَعْرِفُونَ أَيْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَبَرُوا
أَنْفُسَهُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ
عَنْهُمْ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ
كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْقَهُ
الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا لَتَمَنَّوْا
لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءُكُمْ
الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾

تَمَنَّوْا لَنْ تَنْفَعَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا

(Sustainer) we were not mu.shrik (pagans)."

24. Please look ! how they lie (against) themselves and the thing which they had coined failed them.

25. And among them are some who listen to you but We (Allah) have left their hearts under cover so they do not understand and in their hearts is an illness. And even if they see all the Verses they will not believe in them. When they come to you with dispute these disbelievers say, these (verses) contain only the stories of the past (generations).

26. And they forbid from it and keep away from it and thus they ruin their own selves and they do not understand it.

27. And if you could see when they will be made to stand before the fire then they will say, "would that we are returned (to earth). Then we will not falsify the Verses of our Rubb (Sustainer) and become Muslims.

28. But it has become clear to them what they used to conceal before. And if they were sent back they would do the same from which they were forbidden and surely they are liars.

29. And they say, "this is the only life we have in this world and we are not to be raised alive again."

30. And if you could see when they shall be made to stand before their Rubb (Sustainer). He will say, "is not this (second life) the truth"? They will say, "yea, by our Rubb (Sustainer). He (Allah) will say, "then now

شرك نہ تھے (23)

دیکھو! کیا جھوٹ باندھا خود اپنے اوپر اور تم کہیں ان سے جو باتیں بتاتے تھے (24) اور ان میں کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگاتا ہے، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیئے ہیں، کہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے کان میں ٹینٹ (سیر) اور اگر ساری نشانیاں دیکھیں تو ان پر ایمان نہ

لائیں گے، یہاں تک کہ جب تمہارے حضور تم سے جھگڑتے حاضر ہوں تو کافر کہیں، یہ تو نہیں مگر انہوں کی داستاںیں (25)

اور وہ اس سے روکتے، اور اس سے دور بھاگتے ہیں، اور ہلاک نہیں کرتے مگر اپنی جائیں، اور انہیں شعور نہیں (26)

اور کبھی تم دیکھو! جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے، کاش! کسی طرح ہم واپس بھیجے جائیں، اور اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں، اور مسلمان ہو جائیں (27)

بلکہ ان پر کھل گیا جو پہلے چھپاتے تھے اور اگر واپس بھیجے جائیں، تو پھر وہی کریں جس سے منع کیے گئے تھے، اور بیکہ وہ ضرور جھوٹے ہیں (28)

اور بولے وہ! تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، اور ہمیں اٹھائیں (29)

اور کبھی تم دیکھو! جب اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، فرمائے گا؟ کیا یہ حق نہیں؟ کہیں گے؟ کیوں نہیں ہمیں اپنے رب کی قسم! فرمائے گا، تو اب

وَاللّٰهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾
أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يَقْتَدُونَ ﴿٢٤﴾

وَوَنَّهُمْ مِّنْ يَّمَعْرِبَيْكَ وَجَعَلْنَا
عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ كِتَابَةً أَنْ يَفْقَهُوهُ
وَإِذَا رَأَوْهُمُ فَقَدُوا لَهُنَّ عِلْمًا
أَلَيْسَ لِرَبِّكَ آيَاتٌ مِّمَّا يَكْفُرُونَ
إِذَا
جَاءُوكَ يُبْجِدُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ
كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ

الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾
وَهُمْ يَبْغُونَ عَنْهُ وَيَمْنُونَ عَنْهُ
وَإِنْ يُهْدِكُونَ إِلَّا لِنَفْسِهِمْ وَمَا
يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ لَقَالُوا
يَلَيْسَ لَنَا نَصْرٌ وَلَا نَكِدَّةٌ بِرَبِّكَ
رَبَّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾

بَلْ بَدَّ لَهُمْ مَا كَانُوا يُحْضَرُونَ مِنْ
قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا
عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾

وَقَالُوا لَإِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا
وَمَا نَحْنُ بِبَعْعُوثِ رَحِلٍ ﴿٢٩﴾

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ
الَّذِي هَذَا أَلْحَقٌ قَالَوا أَيْلَىٰ وَ
رَبَّنَا قَالَ فَذُقُوا الْعَذَابَ بِمَا

taste the punishment as the retribution of your disbelief".

SECTION 4

31. Certainly, they remain losers who falsify being brought before Allah. As such when the Hour will come to them, suddenly, they will say, "Oh ! we are sorry that we committed mistake in accepting it and that we bear our burden on our backs". O ! what an evil burden they are bearing ?

32. And this worldly life is nothing but a (temporary) sport and amusement. And surely, the last abode is far better for those who are pious. Do not you then understand ?

33. I know that whatever the (disbelievers) say grieves you (O Muhammad S.A.W.) but they do not falsify you except that the cruel deny the Verses of Allah.

34. And the Rasools (Messengers of Allah) were falsified before you but they endured patiently when they were falsified and were persecuted, until Our (Allah's) help came to them. And there is none to change the words of Allah. And the news of those Rasools (Messengers of Allah) have already reached you.

35. And if their turning away of faces (indifference) has grieved you, then if you can do, seek a way down (trench), in the earth or up by a ladder into the heaven, and bring a Verse for them. And had Allah Willed He would have gathered them on the right way. So (O listener) never be amongst the ignorants.

عذاب پھکو، بدل، اپنے کفر کا (30)

بیگ بار میں رہے وہ جنہوں نے اپنے رب سے لئے کا انکار کیا، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت اچانک آگئی، بولے، ہائے! افسوس! ہمارا اس پر کہ اس کے ماننے میں ہم نے تقصیر کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہیں، ارے کتنا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں (31)

اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود، اور بیگ پھلا مگر بھلا، ان کے لئے جو ڈرتے ہیں، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں (32)

ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں رنج دینی ہے وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں (33)

اور تم سے پہلے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے مبر کیا اس جھٹلانے اور ایڑائیں پانے پر، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آئی، اور اللہ کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں، اور تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آتی چکی ہیں (34)

اور اگر ان کا منہ پھیرنا تم پر شاق مگرا ہے، تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو، یا آسمان میں ریزہ، پھر ان کے لئے نشانی لے آؤ، اور اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، تو اسے سننے والے! تو ہرگز نادان نہ بن (35)

كُنْتُمْ كَفَرُونَ ﴿٣٠﴾

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا ائْسُرْنَا عَلَىٰ مَا قَدَرْنَا فَأِينَمَا وَهُمْ يُخْمَلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۗ أَلَا أَسَاءَ مَا يَزِيدُونَ ﴿٣١﴾

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّ الَّذِينَ يُتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُنَاكَ الْدِينُ يُعْقِلُونَ ۗ فَاِنَّهُمْ لَا يَكْتُمُونَكَ وَ لَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يُجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾

وَلَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا وَآوَدُوا حَتَّىٰ أَنصَبَهُمْ صَبْرًا وَلَا يُبَدِّلُ كَلِمَاتِ اللَّهِ ۗ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبِيٍّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾

وَإِنْ كَانَ كِبْرًا عَلَيْهَا إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سَلْمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ۖ وَالْوَسْءُ اللَّهُ جَمْعُهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَاتَتَوَنَّنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾

[HALF OF PAR. 7 ENDS]

36. Only those can accept who listen. And Allah will raise those who are dead. Then towards Him they will be returned.

37. And they say, "why not a Verse has been revealed to them from their Rubb (Sustainer)"? Please declare, "Allah has the power to reveal such Verse but most of them have no knowledge".

38. And there are no animals (that crawl) in the earth nor any bird that flies on its wings but they are the communities like you. We (Allah) have left out nothing in the Book. Then to their Rubb (Sustainer) they shall be gathered.

39. And those who falsified Our (Allah's) Verses are deaf and dumb in utter darkness. Allah leaves those on the wrong way whom He Wills, and places on the straight path whom He Wills.

40. Please declare (O beloved Prophet), "have you seen when the penalty of Allah comes to you or the Hour is established. Will you call upon any other than Allah. (Answer) if you are truthful"?

41. But you will call Him alone. So if He Pleases He would remove that for which you call Him, and you would forgive those whom you associate (with Him).

SECTION 5

42. And indeed We (Allah) sent Messengers towards the Animals (grand communities) before you. Then seized them with misery and hardship so that they might become humble.

ماتے تو وہی ہیں جو سنتے ہیں، اور ان مردوں کو اللہ اٹھائے گا، پھر اس کی طرف ہانکے جائیں گے (36)

اور بولے! ان پر کوئی نشانی کیوں نہ آری ان کے رب کی طرف سے؟ تم فرماؤ! کہ اللہ قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے، لیکن ان میں بہت ترے جاہل ہیں (37)

اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرند کہ اپنے پروں پر اڑتا ہے، مگر تم جیسی امتیں، ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہ رکھا، پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں (38)

اور جنہوں نے ہماری آیتیں بھلائیں بہرے اور گمگئے ہیں، اندھیروں میں اللہ جسے گمراہ کرے، اور جسے چاہے سیدھے راست ڈال دے (39)

تم فرماؤ! بھلا بتاؤ تو! اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت قائم ہو، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے، اگر ہے تو (40) بلکہ اسی کو پکارو گے تو وہ اگر چاہے جس پر اسے پکارتے ہو اسے اٹھائے، اور شریکوں کو بھول جاؤ گے (41)

اور چیک ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے، تو انہیں سختی اور تکلیف سے پکڑا، کہ وہ کسی طرح گمراہیں (42)

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمْ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَئِذٍ ۗ

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمِّرُوا كَمَا مَآرِطُنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ نَعْمَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُغُرُوا فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ يُضِلِّهُ وَمَنْ يَشَاءُ يُجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَدَابِ اللَّهِ أَوْ أَنْتُمْ السَّاعَةُ أَغْيَرِ اللَّهُ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۗ بَلْ آيَاتُهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ عَمَّا أَنْتُمْ كَاذِبُونَ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَاصْبَرْنَا حَتَّىٰ آتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ لَا يَعْلَمُهُ يَتَصَدَّقُونَ

43. When Our (Allah's) punishment came upon them, why they did not become humble? Instead their hearts became hard and the satan (devil) made fair to them their such deeds.

44. Then when they forgot that with which they were admonished We opened on them the gates of everything, until they rejoiced at what they were given. Then We (Allah) seized them suddenly (for their misdeeds) and they were left in despair.

45. Then the just were unrooted completely. And all praise be to Allah, the Rubb (Sustainer) of all the universe.

46. Please declare, "have you considered if Allah seals your ears, takes away your eyes and covers-up your hearts, then who is worth worship except Allah Who could restore these back to you? See how in different manners We (Allah) make plain Our (Allah's) Verses. But they turn away their faces.

47. Please declare (O beloved Prophet), "have you considered if the punishment of Allah comes upon you suddenly or openly, shall any be destroyed except the cruel nation.

48. We (Allah) do not send the Muursaleen (Messengers) but as the bearers of good news and warners. Then those who believe and reform themselves, for them there will be no fear nor any grief.

49. And those who falsified Our (Allah's) Verses punishment shall overtake

تو کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گمراہے ہوتے، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے کام ان کی نگاہ میں بخیلے کر دکھائے (43)

پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے، یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملتا، تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے (44)

تو جزا کا دی گئی ظالموں کی، اور سب خوبیوں سراہا اللہ رب سارے جہان کا (45)

تم فرماؤ! بھلا بتاؤ تو! اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھ لے لے اور تمہارے دلوں پر مهر کر دے، تو اللہ کے سوا کون خدا ہے کہ جس میں یہ چیزیں لادے، دیکھو! ہم کس کس رنگ سے آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں (46)

تم فرماؤ! بھلا بتاؤ تو! اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے! اچانک یا کلمہ کھلا، تو کون تباہ ہو گا سوا ظالموں کے؟ (47)

اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشی اور ڈر سنائے، تو جو ایمان لائے اور سنوے ان کو نہ کچھ اندیشہ، نہ کچھ غم (48)

اور جسوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں انہیں عذاب پہنچے گا، بدلا ان کی بے حکمی

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَ لَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۴۳﴾

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿۴۴﴾

فَقَطَّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۴۵﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَ أَبْصَارَكُمْ وَ خَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفَ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذَقُونَ ﴿۴۶﴾

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْزَلْنَا إِلَهُ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُؤْمِنُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴿۴۷﴾

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَ اصْلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۴۸﴾ وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يُمْسِكُهُمُ

them because of their disobedience.

30. Please declare, "I neither say to you that I possess the treasures of Allah, nor I say, that I know the unseen myself, and nor do I say to you that I am an Angel. I follow only that which is revealed to me". Please declare, "are the blind and the seeing equal? Why do not you then think about?"

SECTION 6

51. And warn those people with it (Qur'aan) who fear that they will be gathered to their Rubb (Sustainer) that without Allah they will have no protector and no one will recommend them. As such they may become pious.

52. And do not drive away those who pray to their Rubb (Sustainer) in the morning and the evening seeking His Mercy. Neither you are accountable for them nor they are accountable for you, that you should keep them away as this is only the work of the cruel.

53. And thus We (Allah) try some of them by others that when they (wealthy pagans) see the needy Muslims they say, "are these the people whom Allah has blessed among us"? Does not Allah know well those who are the grateful.

54. And when those who believe in Our (Allah's) Verses come to you, please tell them, "peace be upon you Your Rubb (Sustainer) has prescribed for Himself Mercy so that whoso of you commits some misdeed due to ignorance and repents

کا (49)

تم فرما دو! میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ فیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اسی کا تابع ہوں، جو مجھے وحی آتی ہے، تم فرماؤ! کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور اکھیرے؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے (50)

الْعَذَابَ بِمَا كَانُوا يُفْسِقُونَ ﴿٤٩﴾
قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ
اللَّهُ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ
لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنَّمَا أَنبِئُكُمُ
بِأَنَّ قَوْلَ هَذَا سْتَوَى الْأَعْمَى
وَالْبَصِيرَ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

اور اس قرآن سے انہیں ڈراؤ، جنہیں خوف ہو کہ اپنے رب کی طرف یوں اٹھائے جائیں، کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہو، نہ کوئی سفارشی، اس امید پر کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں (51)

اور دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام اس کی رضا چاہتے، تم پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں پھر انہیں تم دور کرو، تو یہ کام انصاف سے بعید ہے (52)

اور یونہی ہم نے ان میں ایک کو دوسرے کے لیے قند بنایا، کہ مالدار کافر، مسلمانوں کو دیکھ کر کہیں، کیا یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا؟ ہم میں سے؟ کیا اللہ خوب نہیں جانتا حق ماننے والوں کو (53)

اور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، تو ان سے فرماؤ! تم پر سلام، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کریم پر رحمت لازم کر لی ہے، کہ تم میں جو کوئی نادانی سے کچھ بُرائی کر بیٹھے، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور سنو

وَأَنْذِرْهُمُ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ
يُخْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ
دُونَهُ دِينٌ وَلَا سَفِيحٌ لَّهُمْ
يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
بِالْعَدْوَةِ وَالْعُرَيْشِ يَرِيذُونَ
وَجِهًا مَّا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ
وَمِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ
عَلَيْهِمْ وَمِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ
مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾

وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ
رَّيْقُولُوا أَهْلَ الْاٰرَامِ مِنَ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ
مِنْ بَيْنَاتٍ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ
بِالشّٰكِرِيْنَ ﴿٥٣﴾

وَإِذْ آجَأكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا
فَقُلْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ
نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ
سُوْءًا إِيْجَاهًا لِّئَلَّا تُعْرَابَ مِنْ بَعْدِهِ

hereafter and amends himself, then surely Allah is Forgiving Merciful".

25. And as such We (Allah) explain the Verses in detail at the end of the criminals becomes clear.

SECTION 7

26. Please declare, (O beloved Prophet), "I have been forbidden to worship those whom you call except Allah." Please declare, "I shall not follow your evil inclinations. In that case I shall become lost and I shall not be among the guided ones.

27. Please declare (O beloved Prophet), "I have the clear proof from my Rabb (Sustainer) and you falsify it. I have not readily that (punishment) with me for which you are in such a haste. There is no command except that of Allah alone. He explains the truth and He is the best of the judges."

28. Please declare, "if I had that thing (punishment) in my power for which you are in such a haste, the matter would have been decided between you and me. And Allah Knows best the cruel.

29. And with Him are the keys of the unseen. None knows them except Him. And He knows whatever is on the land and in the sea. And no leaf falls but he knows it. Neither a grain is there in the darkness of the earth nor anything green or dry, but it is recorded in a clear book.

30. And it is He Who takes away your sense at night (in sleep) and knows that which you earn during the day. Then He raises you up to life

جائے تو بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے (54)

اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان فرماتے ہیں اور اسی لیے کہ مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے (55)

تم فرماؤ! مجھے منع کیا گیا ہے کہ انہیں پوجوں جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، تم فرماؤ! میں تمہاری خواہش پر نہیں چلنا، یوں ہو تو میں ہمک جاؤں اور راہ پر نہ رہوں (56)

تم فرماؤ! میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم اسے جھٹلاتے ہو میرے پاس نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، حکم نہیں مگر اللہ کا، وہ حق فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرے والا (57)

تم فرماؤ! اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو، تو مجھ میں اور تم میں کام ختم ہو چکا ہوتا، اور اللہ خوب جانتا ہے ستم گاروں کو (58)

اور اسی کے پاس ہیں کتابیں غیب کی انہیں دہی جانتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ خلقی اور تری میں ہے اور جو پتا کرتا ہے وہ اسے جانتا ہے اور کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں اور نہ کوئی تر اور نہ خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو (59)

اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ، پھر تمہیں دن میں اٹھاتا ہے کہ

أَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٤﴾
وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْأَلْيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ
سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٥﴾

قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ
أَهْوَاءَكُمْ قَدْ صَلَّيْتُ إِذْ أَوْمَأَ أُنَا
مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ
بِدَعَائِجِي مَا سَتَجِدُونَ بِهِ
إِن الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يُفْضِلُ الْسَّعْيَ
وَهُوَ خَيْرُ الْفَاعِلِينَ ﴿٥٧﴾

قُلْ لَوْ أَن عُنْدِي مَا سَتَعْبُدُونَ
بِدَلِيلِ الْقَضَىٰ الْأَمْرِيَّةِ وَبَيْنَكُمْ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا
إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرُوجِ وَالْبَحْرِ وَمَا
تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا
حَبَّةٍ فِي ظِلْمِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ

وَلَا يَأْبِسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾
وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ
مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ

in the process that a fixed term may be completed. And you have to return to Him. Then He will tell you what were your deeds.

SECTION 8

61. And He is the Supreme over His devotees and He sends guards over you until death comes to any of you. Our Messengers (Angels) take your life and they do not fail in such act.

62. Then they are returned back towards Allah, their Protector, the Just. His is the command. And He is the Quickest in taking account.

63. Please declare, "who saves you in the darkness of the land and the sea whom you call in humility and secrecy that if He saves us from this (problem) we shall be the grateful".

64. Please declare, "Allah saves you from this and from every distress even then you assign with Him associates."

65. Please declare, "He is powerful to award you punishment from above you or from beneath your feet or leave you confused in different sects to let you taste the tyranny of each other. See how We explain the verses in different ways that they may understand."

66. And your (Muhammad) nation falsified it though it is the truth. Please declare, "I am not an attorney for you."

67. For every prophecy a time has been fixed and you will soon come to know it.

68. And (O listener) when you see those who engage in discussions about Our (Allah's) Verses turn away

نصرانی ہوئی عباد پوری ہو پھر اسی کی طرف تمہیں پھرتا ہے، پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے (60)

اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آتی ہے، ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں، اور وہ تصور نہیں کرتے (61)

پھر پھیرے جاتے ہیں اپنے سچے مولیٰ اللہ کی طرف، سنتا ہے اسی کا حکم ہے، اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا (62)

تم فرماؤ! وہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جنگل اور دریا کی آلتوں سے؟ جسے پکارتے ہو گڑگڑا کر اور آہستہ، کہ اگر وہ ہمیں اس سے بچا دے، تو ہم ضرور احسان مانیں گے (63)

تم فرماؤ! اللہ تمہیں نجات دیتا ہے اس سے اور ہر بے چینی سے، پھر تم شریک نصراتے ہو (64)

تم فرماؤ! وہ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے تلے سے، یا تمہیں بھڑا دے مختلف گروہ کر کے، اور ایک کو دوسرے کی تختی چکھائے، دیکھو! ہم کیوں کر طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں، کہ کہیں اس کو سمجھ ہو (65)

اور اسے جھٹلایا تمہاری قوم نے، اور یہی حق ہے، تم فرماؤ! میں تم پر کچھ کڑواؤ (زہ دار) نہیں (66)

ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور عقرب جان جاؤ گے (67)

اور اسے سننے والے! جب تو انہیں دیکھے

يُقَضَىٰ أَجَلَ سُنَّتِي نُفُورًا لِّبَنِيهِ
مِنْ عَمَلِكُمْ فَمَنْ لَبَّىٰكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَقْمَلُونَ ﴿٦٠﴾

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ
مَتِيكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ
أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا
وَهُمْ لَا يَفْطِنُونَ ﴿٦١﴾

تَوَرَّادًا إِلَىٰ إِلَهِهِمْ مَوْلَاهُمْ الْحَقِّ
إِلَّا إِلَهُ الْحُكْمِ وَهُوَ أَسْرَمُ الْخَسِيِّينَ ﴿٦٢﴾

قُلْ مَنْ يُنْفِقْكُمْ قَبْلَ ظُلْمَتِ الْبَرِّ
وَالْبَرِّ تَذَعُونَ تَضَاعًا وَخَفِيَّةً
لَّيِّنًا أُنَجِّدُنَا مِنْ هَذِهِ لَنُكُونَنَّ
مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٣﴾

قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَتَّبِعُكُمْ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ
كَلْبٍ لَّمَّا كُنْتُمْ تَشْرِكُونَ ﴿٦٤﴾
قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ
عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ

أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ سِمْطًا بِدِينِكُمْ
بَعْضُكُمْ بِأَسْبَعْضٍ أَنْظُرْ كَيْفَ
نَضْرِبُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾
وَلَكَذِبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ
لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿٦٦﴾

لِكُلِّ نَبَأٍ مَقْدُورٍ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾
وَأَذَارِ آيَاتِ الَّذِينَ يُخَوِّضُونَ فِيهَا

from them until they switch to some other topic. But if satan (devil) takes to forget to do so then do not sit with the nation of cruels after recollecting.

69. And nothing is to be accounted from the pious people except to remind them above their assessment. But only admonishing them may make them pious.

70. And leave those alone who have made their religion mockery and sport thing whom the life of this world has deceived. You admonish them (with this Qur'aan) so that a single self from among them may not be caught on account of what it did. None shall have any helper nor any one to recommend except Allah. And though someone may offer compensation (for wrong deeds) it will not be accepted. Those are they who will be caught for their misdeeds to be perished. They will have to drink boiling water and will face painful punishment as a result of their disbelief.

SECTION 9

71. Please declare, "should we worship, except Allah, someone who neither can give us any benefit nor can bring us any loss And should we turn back on our heels after Allah has guided us. It is like the one whom the satans (devils) have left in darkness to forget the way on the earth. Who has companions who call him to guidance? Please declare, "the guidance of Allah is the only guidance and we are commanded to submit to Him Who is the

جو ہماری آجوں میں پڑتے ہیں، تو ان سے منہ پھیر لے، جب تک اور بات میں پڑیں، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے، تو یاد آئے نہ ظالموں کے پاس نہ جمیو (68) اور پرہیزگاروں پر ان کے حساب سے کچھ نہیں! ہاں! صیحت دینا، شاید! وہ باز آئیں (69)

اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنا دین نہیں کھیل بنا لیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا، اور قرآن سے صیحت دو، کہ کہیں کوئی جان اپنے کیے پر کڑی نہ جائے اللہ کے سوا، نہ اس کا کوئی ساتھی ہو، نہ سفارشی، اور اگر اپنے عوض سارے بدلے دے تو اس سے نہ لے جائیں، یہ ہیں وہ جو اپنے کیے پر پکڑے گئے، انہیں پینے کو کھولنا پانی، اور درد ناک عذاب، بدلا ان کے کفر کا (70)

اَيُّدِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِمْ ۚ وَإِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٩﴾
وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرِي لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ ﴿٧٠﴾

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَعَزَاهُ ظُهُورُ الدُّنْيَا ۗ وَذُرِّبَتْ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ۖ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وِئَاءٌ وَلَا شَفِيعٌ ۖ وَإِنْ تَعَدَّلَ كُلُّ عَدْلٍ لَّا يُؤَخِّدُ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۗ لَهُمْ شُرَآءٌ مِنْ حِينِهِمْ ۖ وَعَذَابُ الْيَوْمِ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧١﴾

تم فرماؤ! کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پوجیں جو ہمارا نہ بھلا کرے، نہ برا؟ اور اگلے پاؤں پلٹا دیئے جائیں، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں راہ دکھائی، اس کی طرح جسے شیطان نے زمین میں راہ بھلا دی، حیران ہے اس کے رفق اسے راہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ ادھر آ، تم فرماؤ! کہ اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے لیے گردن رکھ دیں، جو

قُلْ اَنْدَعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُوْنَ وَلَا يَضُرُّوْنَ ۗ وَنُرَدُّ اَعْقَابِنَا ۚ بَعْدَ اِذْ هَدٰنَا اللّٰهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشّٰيْطٰنُ فِي الْاَرْضِ حَيْرٰنًا ۗ لَئِذَا اَصْحَبْتُمْ يَدْعُوْنَ اِلٰى الْيَهُدٰى اَيُّدِنَا قُلْ اِنْ هَدٰى اللّٰهُ هُوَ الْهُدٰى

Rubb (Sustainer) of the universe.

72. And to establish the Salaat (Muslim Prayer) and to be pious with Him (is real life). And it is He towards Whom you are to be gathered.

73. And it is He Who created the heavens and the earth rightly, and the day on which the destruction will occur. He will say to everything, "BE and it will come into being at once." His Word is true and the Kingdom belongs to Him, when the trumpet will be blown. He knows the visible and the invisible and He is the Wise, the Aware.

[THREE FOURTH OF PART 7 ENDS]

74. And (remember) when Ibraaheem (Abraham) said to his father, "Aazar, do you take the idols for worship"? Surely, I find you and your people in clear error.

75. And thus We (Allah) showed him (Abraham) the Kingdom of the heavens and the earth that he might be of those who have certainty of faith.

76. When the darkness of night came on him, he (Abraham) saw a star. He said, "this is my Rubb (Sustainer)". But when it set, he said, "I do not like the setting ones."

77. Then when he saw the moon shining, he exclaimed, "this is my Rubb (Sustainer). But when it set he said, "had my Rubb (Sustainer) not guided me, I would also have been surely among the nation who go on the wrong way".

78. Then when he saw the sun shining, he cried "this is

رب ہے سارے جہان کا (71)

اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرو اور وہی ہے جس کی طرف ہمیں انصاف ہے (72)

اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین ٹھیک بنائے اور جس دن فابولی ہر چیز کو کسے گا ہو جائے وہ فوراً ہو جائے گی اس کی بات سچی ہے اور اسی کی سلطنت ہے جس دن صور بھونکا جائے گا ہر چہے اور ظاہر کا جاننے والا اور وہی ہے حکمت والا خبردار (73)

اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ بتیک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں (74)

اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے (75)

پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا ایک تارا دیکھا بولے! اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا بولے! مجھے خوش (بہند) نہیں آتے ڈوبنے والے (76)

پھر جب چاند چمکتا دیکھا بولے! اسے میرا رب بتاتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہیں گمراہوں میں ہوتا (77)

پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا بولے! اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا

وَأُولَٰئِكَ سَلَّمَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾
وَأَن أَيْمُونُ الصَّلَاةِ وَالتَّقْوَىٰ وَهُوَ
الَّذِي إِلَيْهِ تَخْتَرُونَ ﴿٧٢﴾

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
بِأَنۡحٰى وَيُؤَمِّرُ قَوْلُ كُنۡ فَيَكُونُ قَوْلُهُ
اِنَّ كَوْلَهُ الْمَلٰٓئِكُ يُؤَمِّرُ فَمۡ فِي
الصُّوۡرِ عَلٰمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَ
هُوَ الْحَكِيۡمُ الْخَبِيۡرُ ﴿٧٣﴾

وَاذۡ قَالِ اِبْرٰهِيۡمُ لِاٰبِيۡهِ اَسۡتَـٰرَ
اَتَتَّخِذُ اَصۡنَافًاۙ اِلٰهَةً اِنۡىۡ اُرِيۡكَ
قَوْلَكَ فِىۡ صٰلِحِۡنَ مُبِيۡنٍ ﴿٧٤﴾
وَكَذٰلِكَ تُوۡرِىۡ اِبْرٰهِيۡمُ مَلَكُوۡتَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَلۡكُوۡنُ مِنَ
الصُّوۡفِيۡنَ ﴿٧٥﴾

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيۡلُ رَا كَوْكَبًا
قَالَ هٰذَا رَبِّىۡ فَلَمَّا اَفۡلَ قَالَ لَا
اِحۡبَۡبُ الْاِلٰهِيۡنَ ﴿٧٦﴾

فَلَمَّا رَا الْقَمَرَ يٰۤاٰرۡضُ اَقَالَ هٰذَا رَبِّىۡ
فَلَمَّا اَفۡلَ قَالَ لِيۡنۡ لَمۡ يُهۡدِىۡ رَبِّىۡ
لَاۡكُوۡنُ مِنَ الْقَوۡمِ الضَّالِّيۡنَ ﴿٧٧﴾

فَلَمَّا رَا الشَّمۡسَ يٰۤاِرۡضَۃۙ قَالَ هٰذَا

my Rubb (Sustainer). This is the biggest of all". Then when it set, he said, "O my nation I am surely away from all those things which you associate (with Allah).

79. "I turn straight my face towards Him Who has originated the heavens and the earth, and I am not among the muushrikeen (pagans/ idolators)".

80. And his nation began to argue with him. He said, "do you argue with me in respect of Allah. He has shown me the straight way, and I do not fear those that you make His associates. But if my Rubb (Sustainer) Wills anything else. My Rubb (Sustainer). Comprehends everything in His Knowledge. Will you not ponder"?

81. "And why should I be afraid of those whom you associate (with Allah)? Why you do not fear to associate with Allah for which He has given you no authority? Which of such two groups is more entitled for security? (Answer) if you know".

82. Those who believe and mix no wrong with their faith, these are the people for whom there is security and they are the guided ones.

SECTION 10

83. And this is Our (Allah's) argument that We (Allah) gave to Ibraaheem (Abraham) against his people. We (Allah) raise in degrees whom We (Allah) Will. Surely your Rubb (Sustainer) is Wise, Knowing.

84. And I bestowed upon him Ishaque (Isaac) and Yaqoob (Jacob). We (Allah)

ہے، پھر جب وہ ڈوب گیا، کہا، اے قوم! میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو (78)

میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، ایک اسی کا ہو کر اور میں مشرکوں میں نہیں (79)

اور ان کی قوم ان سے بھڑکنے لگی، کہا، کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے بھڑکتے ہو؟ تو وہ مجھے راہ بتا چکا، اور مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو، ہاں! جو میرا ہی رب کوئی بات چاہے، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، تو کیا تم صیحت نہیں مانتے (80)

اور میں تمہارے شریکوں سے کیونکر ڈروں اور تم نہیں ڈرتے، کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی تم پر اس نے کوئی سند نہ آئی، تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ سزاوار کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو (81)

وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہ کی، انہیں کے لیے امان ہے، اور وہی راہ پر ہیں (82)

اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم عطا فرمائی، ہم سے چاہیں ورجوں بلند کریں، بیکگ تمہارا رب علم و حکمت والا ہے (83)

ورہم نے انہیں اعحق اور یعقوب عطا

رَبِّي هَذَا الْكَبِيرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُعْقِرُ ابْنِي رَبِّي وَمَا تَشْرِكُونَ ﴿٧٩﴾
ابْنِي وَجْهَتْ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٠﴾

وَحَلَّجَتْ قَوْمَهُ قَالَ اتَّخَذْتُمْ ابْنِي دُلَّةً وَقَدْ هَدَيْتُمْ وَلَا خَافُ مَا تَشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨١﴾

وَكَيْفَ خَافُوا مَا اشْرَكُوا تَعْمُولًا تَخَافُونَ أَلَهُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَهُمْ يَنْزِلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَتَأْتِي الْفَرِيقَيْنِ آحْقُ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٢﴾

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ يُكْرَمُونَ ﴿٨٣﴾

وَذَلِكَ جَدَّتْنَا إِنَّا نَبِّئُهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنْ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٤﴾

وَوَهَبْنَا لِدَاؤِ اسْمٰعٰق وَيَعْقُوبَ كَلًا

guide rightly every one. And We (Allah) showed the path to Nuuh (Noah) before them, and to his progeny. (We Guided) Daood (David) and Suulemaan (Solomon) and Ayyoob (Job) and Yusuf (Joseph) and Moosaa (Moses) and Haroon (Aron) and thus We (Allah) reward the beneficents.

85. And We (Allah) guided Zakaria (Zacharia) and Yahya (John) and Eesa (Jesus) and Ilyas. These are all among the righteous.

86. And (We guided) Ismail (Ishmaiel) and Yasa (Elisha) and Yonus (Jonah) and Luut (Lot). And every one We (Allah) excelled above all universe.

87. And We (Allah) also exalted fathers of some of them and their children and some of their brothers. And We (Allah) selected them and We (Allah) guided them to the right path.

88. This is the guidance of Allah. He Guides whom He wills from His devotees. And had they become muushriks (pagans/idolators) then surely all that they had done would have been made vain.

89. Those are they to whom We (Allah) gave the Book and dominion and Naboowat (Prophethood). Then if these people reject it, We (Allah) can replace them with such a people who will not at all be disbelievers.

90. Those are they whom Allah has guided. Therefore, you follow their path. Please declare, (O beloved Prophet Muhammad S.A.W.) "I ask you no wage for it (Qur'aan)." "It is (eternal) guidance to the

کئے ' ان سب کو ہم نے راہ دکھائی ' اور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی ' اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ' اور ہم ایسا ہی دلا دیتے ہیں نیکو کاروں کو (84)

اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ' یہ ہمارے قرب کے لائق ہیں (85)

اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی (86)

اور کچھ ان کے باپ دادا اور اولاد ' اور بھائیوں میں سے بعض کو ' اور ہم نے انہیں جن لیا ' اور سیدھی راہ دکھائی (87)

یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے دے ' اور اگر وہ شرک کرتے ' تو ضرور ان کا کیا اکارت (ضائع) جاتا (88)

یہ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی ' تو اگر یہ لوگ اس سے منکر ہوں ' تو ہم نے اس کے لیے ایک ایسی قوم لگا رکھی ہے جو انکار والی نہیں (89)

یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی ' تو تم انہیں کی راہ چلو ' تم فرماؤ! میں قرآن پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ' وہ تو نہیں مگر

هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾

وَأِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَنُوحًا وَكَانَ نَصْنَانًا عَلَى الْغَابِقِينَ ﴿٨٦﴾
وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ الَّذِي هُمْ فِيهَا مُخْتَلِفُونَ
وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾

ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِمَنْ يَشَاءُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنَّبُوءَةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكُنَّا بِمَا كُفَرُوا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَبِهِدْمِهِمْ
اقتداءً قل! اسلّمك عليه اجراً

entire universe (for all times to come).'

SECTION 11

91. And they (Jews) could not visualize the respect of Allah, as such respect was necessary to be visualized. Then they said, "Allah had not revealed anything on any man." Please declare (to Jews), "who has revealed that Book which was brought by Moosaa (Moses), as a light and guidance for the mankind, of which you have made separate parchments to show. And much of which you conceal." "And you were taught that which you did not know, yourselves, nor your fathers (knew it)". Please proclaim Allah. Then leave them to amuse themselves with their (vain) discourse.

92. And this is a blessed Book which We (Allah) have revealed confirming those (Books) which were (revealed) before it in order that you may warn the Mother of all cities (Makkah) and to all those around it (in the entire world). And those people who believe in the here-after believe in this Book and guard their Salaat (Muslim Prayer).

93. And who is more cruel than the one who coins a lie against Allah or says, "I have received a revelation, though nothing was revealed to him. And who says," "I can also make-out a book like the one Allah has revealed". And could you see the cruels when they are in the agonies of death and the Angels stretch their hands (saying), "yield us your souls." This day you

صیحت سارے جہان کو (90)

﴿۹۱﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

اور یہود نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی، جب بولے! اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا، تم فرماؤ! کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے؟ روشنی اور لوگوں کے لیے ہدایت، جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے، ظاہر کرتے ہو اور بہت سے چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا، نہ تمہارے باپ دادا کو، اللہ کو، پھر انہیں چھوڑ دو، ان کی بیوقوفی میں انہیں کھلیا (91)

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ لِيَجْزِيَوهُ قَرِيطِينَ تَبْدُوهَآ وَتَحْفَقُونَ كُتُبَهَا وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوهَا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ كَتَبَ ذِكْرَهُمْ فِي حُجُورِهِمْ لِيَعْلَمُونَهُ ﴿۹۱﴾

اور یہ ہے برکت والی کتاب کہ ہم نے اتاری تصدیق فرماتی ان کتابوں کی جو آگے تھیں، اور اس لیے کہ تم ڈر سناؤ سب بتیوں کے سردار کو، اور جو کوئی سارے جہان میں اس کے گرد ہیں، اور وہ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں (92)

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُكًا مُّصَدِّقًا الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿۹۲﴾

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ وہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یا کہے، مجھے وحی ہوئی اور اسے کچھ وحی نہ ہوئی، اور جو کہے، ابھی میں اتارتا ہوں ایسا جیسا اللہ نے اتارا، اور کبھی تم دیکھو! جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں خوارگی کا عذاب دیا جائے گا، بدلا اس کا

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَوَدَّى الظَّالِمُونَ فِي عَمَصَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةَ بَاسِطُوْا أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوْا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ

will be awarded the punishment of disgrace for you used to forge lie against Allah without right and because you turned away scornfully against His revelation".

94. And certainly you have come to Us (Allah) alone as We (Allah) created you for the first time and you have left behind your backs whatever We (Allah) bestowed on you. And We (Allah) donot see your helpers whom you associated as your partners in your affairs. Surely, the ties between you (and them) are broken and what you asserted has gone away from you.

SECTION 12

95. Surely Allah makes the corn grain and the date stone ready for growth. He brings forth the living from the dead and (only) He brings forth the dead from the living. That is Allah. Where then are you to return ?

96. He brings forth the dawn (day light out of darkness) and He has made the night for rest and the sun and the moon for counting (periods). This is fine measurement of the All-Mighty, the All-Knowing.

97. And it is He Who has made the stars for you that you may get the way in deep darkness of the land and the sea. We (Allah) have explained (Our) Verses in detail for the nation who know.

98. And it is He Who has produced you from a single person. Then you have to stay somewhere and have to remain as repository (after

کہ اللہ پر جھوٹ لگاتے تھے، اور اس کی آجوں سے تکبر کرتے) (93)

اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور پتھر جیسے جموڑ آئے جو مال حرام ہم نے تمہیں دیا تھا، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کا تم اپنے میں سا جھا (شرک) بتاتے تھے بیگ تمہارے آپس کی ڈور کٹ گئی اور تم سے گئے جو دعوے کرتے تھے (94)

بیگ اللہ دانے اور سمٹل کو چرنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالے اور مردہ کو زندہ سے نکالے والا، یہ ہے اللہ، تم کہاں اوندھے (غلط راہ) جاتے ہو؟ (95)

تاریکی چاک کر کے صبح نکالے والا اور اس نے رات کو چین بتایا، اور سورج اور چاند کو حساب، یہ سادھا (سداھا یا ہوا) ہے زبردست جاننے والے کا (96)

اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے، کہ ان سے راہ پاؤ، خشکی اور تری کے اندھیروں میں، ہم نے نشانیاں مفصل بیان کر دیں علم والوں کے لیے (97)

اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر کہیں تمہیں ٹھہرنا ہے، اور

تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ عَذْرًا جَبْرًا وَكَنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾

وَالَّذِينَ جَاءُوا نَادِيًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ نَقَطَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ غَیْرُ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾

إِنَّ اللَّهَ لَبَلِيغُ الْحَقِّ وَالتَّوْبَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمْ اللَّهُ فَأَلَى تَوَكُّونَ ﴿٩٥﴾

فَأَلَى الْأَصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حَسْبَانَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَذَٰلِكَ فَضْلُنَا أَلَا تَفْقَهُوْنَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ

death in graves). Certainly We (Allah) have explained the Verses in detail for the nation who have the understanding.

99. And it is He Who sends down water from the sky. Then We (Allah) bring forth every thing to growth and out of it We (Allah) bring forth the green (foliage) from which We (Allah) bring forth clustered grains (as seeds) and out of the date-palms the bunches thereof, close to one another, and gardens of grapes and olive and pomegranates, similar in some respect and dissimilar in some other respects. Look upon at fruit (trees) when they bear fruits and its ripening. Surely there are signs in this for the nation of believers.

100. And they have made jinns as associates of Allah whereas He created them. And they falsely ascribe to Him sons and daughters without any knowledge. Holy is He and exalted much above their such descriptions.

SECTION 13

101. The Originator of the heavens and the earth, how He could have a son whereas He has no woman as His wife? He created everything and He has the knowledge of all the things.

102. Such is Allah, your Rubb (Sustainer), except whom there is none to be worshipped. He is the creator of everything, so worship Him, only. And He is the Caretaker of everything.

103. The eyes cannot comprehend Him and all the eyes are within His

کس امت رہتا، بیگ ہم نے مفصل آیتیں بیان کر دیں سمجھ والوں کے لیے (98)

اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے ہرائے والی چیز نکالی، تو ہم نے اس سے نکالی سبزی جس میں سے دانے نکالتے ہیں، ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے، اور کھجور کے گامبے سے پاس پاس کچھے، اور انجور کے باغ اور لہجوں اور انار، کسی بات میں ملنے اور کسی بات میں الگ اس کا پھل دیکھو! جب پھلے، اور اس کا پکنا، بیگ اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے (99)

اور اللہ کا شریک ٹھہرایا جنوں کو اور حالانکہ اسی نے ان کو بنایا، اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گڑھ لیں جنات سے پاکی اور برتری ہے اس کو ان کی باتوں سے (100)

بے کسی نمونہ کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، اس کے بچہ کہاں سے ہو؟ حالانکہ اس کی عورت نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور وہ سب کچھ جانتا ہے (101)

یہ ہے اللہ تمہارا رب! اور اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، ہر چیز کا بنانے والا، تو اسے پوجو، وہ ہر چیز پر تمہارا ہے (102)

آکھیں اسے احاطہ نہیں کرتیں، اور سب

قَدْ فَضَّلْنَا الْاٰلِيْنَ لِقَوْمٍ يُفْقَهُوْنَ ﴿۹۸﴾

وَهُوَ الَّذِي اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَخَرَجْنَا مِنْهُ نَبَاتٌ كَثِيْرَةٌ فَخَرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مَّاخْرُجًا مِنْهُ حَبًا مَّا تَرٰكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَدَّتْ مِنْ اَعْنَابٍ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرَّيْحَانَ مُشْتَبِهًا وَعَيْرُ مُشْتَابِهٍ اَنْظُرُوْا اِلَى ثَمَرِهِ اِذَا اَشْمَرُوْا وَيَنْعَمِ اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۹۹﴾

وَجَعَلُوْا اِلٰهًا شُرَكَآءَ الْاِيْمٰنِ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا اِلٰهَ بَنِيْنَ اِيْمٰنٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿۱۰۰﴾

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَلِيْ يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهٗ صَاحِبَةً وَخَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۰۱﴾

ذٰلِكُمْ اِلٰهٌ رَبُّكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ ﴿۱۰۲﴾ لَا تَدْرِيْهُ اِلَّا بَصَاۗرٌ وَّهُوَ يَدْرِكُ

comprehension. And He is the Subtle and the All-Aware.

104. Indeed the proofs have come to you from your Rubb (Sustainer). Then whoso saw it, it is for his own good and whoso is blind to it is for his own harm. And I am not a custodian over you.

105. And thus We (Allah) variedly explain Verses that they (the disbelievers) may not say (to you, Muhammad) that you have studied (from scholars of the previous Books). And We (Allah) make it clear to the nation who have the knowledge.

106. You follow what has been revealed to you from your Rubb (Sustainer). None is to be worshipped except Him and turn away from the muushriks (pagans/idolators).

107. And had Allah Willed, they would not have been muushriks (pagans). And We (Allah) have not made you a custodian over them nor you are an attorney for them.

108. And do not abuse whom they worship besides Allah. Then out of spite they will abuse (your true) Allah due to ignorance. Thus We (Allah) have made fair the deeds of every Ummah (grand community) to look fair in their estimation. Then they have to return back towards their Rubb (Sustainer). And He will tell them what they used to do.

109. And they swear by Allah that if there comes to them any Verses then they would surely believe that. Please declare, "the Verses are with Allah" and what will make you realize is that when

آئیں اس کے احاطہ میں ہیں اور وہی ہے نایت باطن پورا خبردار (103)

تمہارے پاس آئیں کھولنے والی دلیلیں آئیں تمہارے رب کی طرف سے، تو جس نے دیکھا تو اپنے بھلے کو اور جو اندھا ہوا اپنے بڑے کو اور میں تم پر نگہبان نہیں (104)

اور ہم اسی طرح آئیں طرح سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کہ کافر بول اٹھیں کہ تم تو پڑھے ہو اور اس لیے کہ اسے علم والوں پر واضح کر دیں (105)

اس پر چلو جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور مشرکوں سے منہ پھیر لو (106)

اور اللہ چاہتا تو وہ شرک نہیں کرتے اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں کیا اور تم ان پر کڑوڑے (پکڑ) نہیں (107)

اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے، یعنی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل بھلے کر دیئے ہیں، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرتا ہے اور وہ انہیں بتا دے گا جو کرتے تھے (108)

اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے طرف میں پوری کوشش سے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے، تم فرما دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ

الْأَبْصَارَ وَهُوَ الْلَطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ لَعَلَّكُمْ أَبْصَارٌ فَلْيَنْفُسُوا مِنْ عَمَلِهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِمَفْظٍ ﴿١٠٤﴾

وَكَذَلِكَ نَضَعُ الْآيَاتِ وَ لِيَعْلَمُوا أَدْرَسْتَ وَلِيُبَيِّنَنَّ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٥﴾

إِتَّبِعْ مَا أُرْسِيَ إِلَيْكَ مِنَ الرِّبَاغِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٦﴾

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٧﴾

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ تَحَدَّى رُبُّهُمْ فَمَنْ رَجَعْتُمْ فَيَنْبِتْهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا

these (Verses) would come they will not believe.

110. And We (Allah) shall keep confounded their hearts and their eyes as they did not believe therein at the first time. And We (Allah) leave left them to wander about blindly in their transgression.

PART 8

SURA AL-AN'AAM (Contd.)

SECTION 14

111. And if We (Allah) send down Angels to them and cause the dead speak to them and We (Allah) gather all things before them, even then they would not believe, except that Allah Wills so. But most of them are totally ignorant.

112. And in the like-manners We (Allah) have kept for every Prophet, enemies from amongst men and jinns, as satans (devils) that inspires another secretly with concocted story in order to deceive. And had your Rubb (Sustainer) Willed, they would not have done so. Therefore, leave them alone with their fabrications.

113. And because that the hearts of these who do not believe in the hereafter may incline towards it, and that they may like it, and may earn (sin) that they are to earn (by such deeds).

114. Then, shall I seek the order of someone else other than Allah, when it is He Who has revealed towards you this detailed Book? And those whom We (Allah) have given the Book (rightly) know that it has been revealed by your Rubb (Sustainer) as (full) Truth. So be never among those who doubt.

آئیں تو یہ ایمان نہ لائیں گے (109)

اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو جیسا وہ پہلی بار اس پر ایمان نہ لائے تھے، اور انہیں جھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں (110)

اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے آرتے اور ان سے مرے باتیں کرتے، اور ہم ہر چیز ان کے سامنے اٹھا لاتے، جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ خدا چاہتا، لیکن ان میں بہت نرے جاہل ہیں (111)

اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کیے ہیں آدمیوں اور جنوں میں سے، شیطان کہ ان میں ایک دوسرے پر خبیہ ڈالتا ہے بناوٹ کی بات دھوکے کو، اور تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو انہیں ان کی بناوٹوں پر چھوڑ دو (112)

اور اس لیے کہ اس کی طرف ان کے دل جھکیں جنہیں آخرت پر ایمان نہیں، اور اسے پسند کریں، اور گناہ کمائیں جو انہیں کماتا ہے (113)

تو کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کا فیصلہ چاہوں، اور وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری، اور جن کو ہم نے کتاب دی، وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے سچ اترا ہے، تو اسے سننے والے! تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو (114)

يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾

وَنَقَلِبْ أَيْدِيَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾

وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا لِلْيُؤْمِنِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١١﴾

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غَدُورًا وَأَلْوَشَاءَ رَبَّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْعَلُونَ ﴿١١٢﴾

وَلِيَتَصَفَّى النَّبِيُّ إِفِدَةَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيُرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴿١١٣﴾

أَفَعَدَّ اللَّهُ لِتَّبِعِي حُكْمًا أَهْوَى الَّذِينَ أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مَفْضَلًا وَأَلَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّهِمْ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١١٤﴾

115. And the word of your Rubb (Sustainer) is perfect in truthfulness and justice. There is no one to change His Words. And He is the All Hearing, the All Knowing.

116. And there are majority of those on earth that if you follow their saying, they mislead you from the way of Allah. They are only behind their imaginations and they

are in mere conjectures and preach falsehood.

117. Your Rubb (Sustainer) knows well who has gone on the wrong way from His path, and He knows well the guided ones.

118. Then eat of that on which the Name of Allah has been pronounced, if you believe in His Verses.

119. And what reason have you that you do not eat out of that on which the Name of Allah has been pronounced. He has explained in detail to you that what He has forbidden to you, unless you take it otherwise due to some compulsions? And surely, many mislead others by their own desires without knowing. Surely your Rubb (Sustainer) knows well the transgressors.

120. And leave the apparent and secret sins. Those who commit sins, soon will get punishment for what they are earning.

121. And eat not that over which the Name of Allah has not been pronounced for surely that is disobedience. And surely the satans (devils) inspire their friends that they may quarrel with you, and if you obey them, then indeed you are the idolators.

اور پوری ہے تم سے رب کی بات صحیح اور انصاف میں اس کی باتوں کا کوئی بدلے والا نہیں اور وہی ہے سنا جاتا (115)

اور اے سنے والے! زمین میں اکثر وہ ہیں کہ تو ان کے کہے پر پلے تو تجھے اللہ کی راہ سے بگا دیں، وہ صرف گمان کے پیچھے ہیں اور نری انجلیں دوڑاتے ہیں (116)

تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون بگا اس کی راہ سے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو (117)

تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو (118) اور تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، وہ تم سے منسل بیان کر چکا جو کچھ تم پر حرام ہوا، مگر جب تمہیں اس سے مجبوری ہو اور بیچک بھیرے اپنی خواہشوں سے گمراہ کرتے ہیں، بے جانے بیچک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے (119)

اور جھوڑ دو کھلا اور چمپا گناہ، وہ جو گناہ کھاتے ہیں، مغرب اپنی کمائی کی سزا پائیں گے (120)

اور اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، اور وہ بیچک حکم عدولی ہے، اور بیچک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ تم سے جھڑپیں، اور اگر تم ان کا کھانا تو اس وقت تم مشرک ہو (121)

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾

وَأِنْ تَطِعُوا لَأَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَصِلُونَكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١١٧﴾

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ بِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا يَصْنَعُونَ بَاهُوا بِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنْ تَرْتَأْتُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيَجْزُونَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٢٠﴾

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يذُكِّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيُؤْخِطُونَ إِلَى أُولِي سُلُوبِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِتَّكَلْتُمْ لَمَشْرُكُونَ ﴿١٢١﴾

SECTION 15

122. And will he (she) who was dead, then We (Allah) gave him (her) life, and made for him (her) a light by which he (she) walks among mankind, become like that who is in darkness from which he (she) is not to come out? Thus, in the eyes of disbelievers their deeds have been made attractive.

123. And thus have We (Allah) placed in every town arch transgressors to lead the criminals so that they may devise plot there-in. And they donot devise plot except against their own selves and they have no perception (of the same).

124. And when any Verse is revealed to them, then they say, "we shall never believe unless we receive the like of what has been revealed to the Rasools (Messengers) of Allah. But Allah knows best where to bestow His Risalat (Messengership). So the criminals will receive humiliation before Allah and severe punishment for their such scheming.

125. And whom Allah Wishes to guide, He opens his heart for Islam, and whom He leaves on the wrong way, He leaves his breast narrow and tight as if he is climbing up into the sky forced by some one else. And thus Allah inflicts punishment on those who do not believe.

126. And this is the straight path of your Rubb (Sustainer). I have explained the Verses in detail for the people who accept the advise.

127. For them is the house of peace with their Rubb

اور کیا وہ کہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا، اور اس کے لیے ایک نور کر دیا جس سے لوگوں میں چلتا ہے، وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیروں میں ہے، ان سے نکلے والا نہیں، یونہی کافروں کی آنکھ میں ان کے اعمال بھلے کر دیئے گئے ہیں (122)

اور اس طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کے سرخند کیے، کہ اس میں داؤں کھیلیں، اور داؤں نہیں کھیلتے مگر اپنی جانوں پر، اور انہیں شعور نہیں (123)

اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں، ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جیسا اللہ کے رسولوں کو ملا، اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے، عقرب مجرموں کو اللہ کے یہاں زلت پہنچے گی، اور سخت عذاب، بدلا ان کے مکر کا (124)

اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ خوب روکا ہوا کر دیتا ہے، گویا کسی کی زبردستی سے انسان پر چڑھ رہا ہے، اللہ یونہی عذاب دلاتا ہے ایمان نہ لانے والوں کو (125)

اور یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے ہم نے آیتیں مفصل بیان کر دیں، نصیحت ماننے والوں کے لیے (126)

ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اپنے رب

أَوْ مَن كَانَ مَدِينًا لِّلْحَيِّينَ ۚ وَجَعَلْنَا
لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهَا فِي النَّاسِ ۚ كَمَن
مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ
مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِّلْكَافِرِينَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ
كُفْرًا يَمْشِي بِهَا لَيْسَ بِخَارِجٍ
مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِّلْكَافِرِينَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٣﴾

وَإِذْ آجُرْتُمُوهُ ۖ إِنَّهُ قَالُوا لَنُكُونَنَّ
حَتَّى تَوْتِيَ وَمَثَلُ مَا أُوتِيَ رُسُلَ اللَّهِ
أَلَّهُ أَغْلَقَهُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ
سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ
عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ لِّبَنِي
كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾

فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ
صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۚ وَمَن يُرِدْ أَن
يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا
حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ
كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ
عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾

وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۚ
فَصَلِّنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُدْكِرُونَ ﴿١٢٦﴾
لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُمْ

(Sustainer) and He is their Friend. This is the reward of their deeds.

128. And on the day He will gather all of them (and will say), "O the aggregate of Jinns! you have gathered many a human beings," and their associates among the men will say, "O our Rubb (Sustainer) we benefitted from each other and we have reached the term you had determined for us." He will say, "fire is your resort, you will dwell there-in forever, except as Allah Wills. (O beloved) surely your Rubb (Sustainer) is Wise, Knowing. 129. And thus We (Allah) thrust the cruels on each other in lieu of their deeds.

SECTION 16

130. O the aggregates of the Jinns and the human beings did not the Rasools (Messengers) come to you from amongst yourselves reciting My Verses to you, and warning you of seeing this Day. They will say, "We bear witness against our selves". And the worldly life deceived them and they will bear witness against themselves that they were disbelievers.

131. This is so because your Rubb (Sustainer) does not destroy any settlements while their people are unaware.

132. And for every one there are degrees in accordance with their deeds. And your Rubb (Sustainer) is not unaware of their deeds.

133. And (O beloved Prophet!) your Rubb (Sustainer) is self-Sufficient, Merciful. O mankind! if He

کے یہاں' اور وہ ان کا مولیٰ ہے' یہ ان کے کاموں کا پھل ہے (127)

اور جس دن ان سب کو گھائے گا' اور فرمائے گا: اے جن کے گروہ! تم نے بت آدمی گھیر لیے' اور ان کے دست آدمی عرض کریں گے' اے ہمارے رب! ہم میں ایک نے دوسرے سے قائمہ اٹھایا' اور ہم اپنی اس عیادت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی' فرمائے گا' آگ تمہارا ٹھکانا ہے' بیش اس میں رہو مگر جسے خدا چاہے' اے محبوب! بیشک تمہارا رب حکمت والا علم والا ہے (128)

اور یوحیٰ ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں' بدلا ان کے کیے کا (129)

اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ! کیا تمہارے پاس تم میں کے رسول نہ آئے تھے؟ تم پر میری آیتیں پڑھتے اور تمہیں یہ دن دیکھنے سے ڈراتے' کہیں گے' ہم نے اپنی جانوں پر گواہی دی' اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا' اور خود اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے (130)

یہ اس لیے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا' کہ ان کے لوگ بے خبر ہیں (131)

اور ہر ایک کے لیے ان کے کاموں کے درجے ہیں' اور تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں (132)

اور اے محبوب! تمہارا رب بے پروا ہے رحمت والا' اے لوگو! وہ چاہے تو تمہیں لے جائے' اور جسے چاہے تمہاری جگہ

وَلِيْمُهُمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٢٨﴾
وَيَوْمَ نَشْرُهُمْ صِبْغًا يُبَدِّلُ
الْبَيْنَ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْاٰیٰتِ
وَقَالَ اُولٰٓئِكَ لَوْ كُنَّا نَدْبُرُ
اَسْمَعْتُمْ بَعْضًا مِّنْ بَعْضٍ وَّلَوْلَا
بِحَبْلِنَا الَّذِيْ اَبْجَلْتُمْ لَنَا قَالِ النَّارُ
مَثْوٰٓئِكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اِلَّا مَنۡ اَشَاءَ
اَللّٰهُ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٢٩﴾

وَلَدٰٓئِكَ نُوْتِيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ
بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٣٠﴾
يَمْشُرُ الْبَيْنَ وَالْاٰیٰتِ اَلَمْ يَأْتِكُمْ
رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ اٰیٰتِيْ
وَيُنذِرُوْنَكُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هٰذَا
قَالُوْا اَشْهَدُ نَاعَلٰی اَنْفُسِنَا وَا
عَرَفْنٰمُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَاَشْهَدُ اَعَلٰی
اَنْفُسِنَا اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿١٣١﴾

ذٰلِكَ اِنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكِ
الْقَرْيٰ ظِلْمًا وَّاَهْلًا غٰفِلُوْنَ ﴿١٣٢﴾
وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مَّا عَمِلُوْا وَّمَا
رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٣﴾

وَرَبُّكَ الْعَلِيْمُ ذُو الرَّحْمَةِ اِنْ يَشَآءُ
يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ

Wills, He may take you away and bring some other generation whom He Wills instead of you just as He created you from the children of previous people.

134. Surely, that which is promised to you is definitely to come and you cannot get it frustrated.

135. Please declare, "O my people! you do your business in your place and I do my work." Now you want to know who has the ultimate end result of last home? Surely, the cruels do not prosper.

136. And whatever Allah has produced from the crops by tillage and created cattle they say, "this is for Allah, and this is for our idols."

Then that which is of their idols does not reach Allah and that which is for Allah reaches their idols. What an evil estimation they ordain?

137. And thus their idols made to appear fair the killing of their children in the eyes of their idolators, that they may kill them and may confuse them in these religion. And had Allah Willed, they would not have done so, therefore you leave them to what they concoct.

138. And they said, "such and such are the tabooed animals and tillage. Only those can eat them whom We accept so they have false notions. And there are some cattle over which riding was prohibited by them and on some cattle they did not pronounce the name of Allah (at the time of slaughtering). This is all sin with Allah.

لائے، جیسے تمہیں اوروں کی اولاد سے پیدا کیا (133)

بیچک جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، ضرور آنے والی ہے، اور تم تمکا نہیں سکتے (134)

تم فرماؤ، اے میری قوم! تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں تو اب جانا چاہتے ہو، کس کا رہتا ہے آخرت کا گھر؟ بیچک ظالم فلاح نہیں پاتے (135)

اور اللہ نے جو کھیتی اور موٹی پیدا کیے ان میں سے ایک حصہ دار ٹھہرایا تو بولے، یہ اللہ کا ہے ان کے خیال میں اور یہ ہمارے شریکوں کا، تو وہ جو ان کے شریکوں کا ہے، وہ تو خدا کو نہیں پہنچتا، اور جو خدا کا ہے، وہ ان کے شریکوں کو پہنچتا ہے، کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں (136)

اور یونسی بہت مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل بھلا کر دکھایا ہے کہ انہیں ہلاک کریں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں، اور اللہ جانتا تو ایسا نہ کرتے، تو تم انہیں چھوڑ دو، وہ ہیں اور ان کے انزواء (137)

قَائِلِينَ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ
أَخْرَجْنَا ۝

إِنْ مَا تَوَعَدُونَ لَأْتِي، وَمَا أَنْتُمْ
بِمُحْذَرِينَ ۝

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ
إِنِّي عَامِلٌ فَمَا سَوْفَ تَعْمَلُونَ ۝
تَكُونُونَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا
يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ
وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ
يَرْزُقُهُمْ وَهَذَا لِلشَّرْكَائِ مَا تَمَّا كَانُوا
لِلشَّرْكَائِهِمْ فَلَا يُصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا
كَانَ لِلَّهِ فَيَقُولُ يُصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ
سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝

وَكَذَلِكَ زَيْنٌ لِكَيْ يَوْمِنَ الْمُشْرِكِينَ
قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيُرَوْهُمْ
وَلِيُنَبِّئُوا عَلَيْهِمْ وَيُنَبِّئَهُمْ وَلَوْ شَاءَ
اللَّهُ مَا تَعَالَوْهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْقَرُونَ ۝

وَقَالُوا هَذِهِ الْأَنْعَامُ وَالْحَرْثُ حِجْرٌ لَنَا
يَطْعَمُهَا الْأَمْنُ نَشَاءُ يَرْزُقُهُمْ وَ
الْأَنْعَامُ حَرَمٌ ظَهَرُوا هَذَا الْأَنْعَامُ لَا
يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَفَتَرَاءُ

اور بولے! یہ موٹی اور کھیتی روکی ہوئی ہے، اسے وہی کھائے جسے ہم چاہیں اپنے جموں نے خیال سے، اور کچھ موٹی ہیں جن پر چڑھنا حرام ٹھہرایا، اور کچھ موٹی کے زنج پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب اللہ پر جھوٹ بانڈھنا، غنہ غنہ وہ انہیں بدلا دے

Soon He will give them the award for their such concoction.

139. And they say, "whatever is in the bellies of such and such cattle is purely for our males and is forbidden to our females and if it is born dead, then they all are shareholders in that. Soon Allah will award them penalty for their such descriptions. Surely He is Wise, Knowing.

140. Certainly, those who kill their children by ignorance and foolishness are ruined, and make unlawful what Allah has provided them forging a lie against Allah. Certainly, they have adopted wrong way and have not adopted the correct path.

[ONE FOURTH OF PART
8 ENDS]

SECTION 17

141. And He it is Who brings to flourish gardens with creepers intercrossing, trimmed and untrimmed, and date palms and crops in which are various kinds of food and olive and pomegranates similiar in some respects and dissimilar in some other respects. Eat of their fruits when such fruit is plucked. Pay their dues on the day of harvest and do not exceed the bounds. Surely, those who spend wastefully are not loved by Him;

142. and of the cattle some are for carrying burden and some are for slaughtering. Eat of what Allah has provided to you and do not follow the foot-steps of satan (devil) Surely, he is your open enemy;

گا ان کے افتراؤں کا (138)
اور بولے! جو ان موٹی کے پیٹ میں ہے
وہ نرا ہمارے مردوں کا ہے، اور ہماری
عورتوں پر حرام ہے، اور مرا ہوا نکلے تو وہ
سب اس میں شریک ہیں، قریب ہے کہ
اللہ انہیں ان کی باتوں کا بدلا دے گا،
چیک وہ حکمت علم والا ہے (139)

بیگ تباہ ہوئے وہ جو اپنی اولاد کو قتل
کرتے ہیں احمقانہ جملات سے، اور حرام
ٹھہراتے ہیں وہ جو اللہ نے انہیں روزی
دی، اللہ پر جھوٹ باندھنے کو، بیگ وہ نیکنے
اور راہ نہ پائی (140)

اور وہی ہے جس نے پیدا کیے باغ، کچھ
زمین پر پیچھے ہوئے، اور کچھ بے پیچھے
ہوئے اور کجور اور کھیتی جس میں رنگ
رنگ کے کھانے اور زیتون اور انار، کسی
بات میں ملتے اور کسی میں الگ، کھاؤ!
اس کا پھل جب پھل ملے، اور اس کا
حق دو جس دن کئے، اور بے جا نہ خرچو!
بیگ بچا خرچنے والے اسے پسند نہیں
(141)

اور موٹی میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے
اور کچھ زمین پر پیچھے، کھاؤ! اس میں سے
جو اللہ نے تمہیں روزی دی، اور شیطان
کے قدموں پر نہ چلو، بیگ وہ تمہارا صریح
دشمن ہے (142)

عَلَيْهِمْ سَيِّئَاتِهِمْ بِمَا كَانُوا يُفْتَرُونَ ﴿١٣٨﴾
وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ
خَالِصَةٌ لِّذُنُورِنَا وَمَعْزَرَةٌ عَلٰى
أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ
فِيهِ شُرَكَاءُ سَيِّئَاتِهِمْ وَصَفَّاهُمْ
إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٩﴾

تَدَخَسُوا الْبَيْنَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ
سَفَهًا لِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَمُوا مَا رَزَقَهُمُ
اللَّهُ افْتِرَاءً عَلٰى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا
وَرَبَّ مَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ
وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا وَالزَّيْتُونَ وَالرِّمَّانَ
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلًّا مِنْ
ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآوَا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ لِّكُلِّ
وَمَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا
خَطْوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٢﴾

of oxen and sheep, except what is on backs or intestines or attached to their bones. We (Allah) penalized them for their rebellion. And surely, what We (Allah) say is Truthful.

147. Again if they falsify you please declare, "your Rubb (Sustainer) has unlimited Mercy and His wrath will not be set aside from the nation of the cruels."

148. The idolators will say, "if Allah had Willed neither we nor our forefathers would have associated (idol worship) with Him nor had we forbidden (made haram) anything." In the same manner falsified those who were before them until they tasted Our (Allah's) Wrath. Please declare, "Have you any knowledge you bring it forth to us? You believe in conjectures and you follow only falsehood.

149. Please declare, "the argument of Allah is conclusive If He had Wished, He would have guided you all."

150. Please declare, "bring your those witnesses who testify that Allah has made it 'haram' (forbidden)." Then if they testify, "you do not prefer your witness with them and follow not the desires of those who falsify Our (Allah's) Verses, and who do not believe in the hereafter, and they take others equal to their Rubb (Sustainer)."

SECTION 19

151. Please declare "come I shall read out to you what your Rubb (Sustainer) has made 'haram' (unlawful) to

پر حرام کی، مگر جو ان کی پیٹھ میں لگی ہو یا آنت یا ہڈی سے لٹی ہو، ہم نے یہ ان کی سرکشی کا بدلہ دیا اور بھگ ہم ضرور سچے ہیں (146)

پھر اگر وہ تمہیں جھٹلائیں، تو تم فرماؤ! کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرموں پر سے نہیں ٹالا جاتا (147)

اب کہیں گے مشرک کہ اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، نہ ہم کچھ حرام ٹھہراتے، ایسا ہی ان سے انگوں نے جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ ہمارا عذاب چمکا، تم فرماؤ! کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ اسے ہمارے لیے نکالو؟ تم تو زے گمان کے پیچھے ہو اور تم یوں ہی سمجھتے کرتے ہو (148)

تم فرماؤ! اللہ ہی کی حجت پوری ہے تو وہ چاہتا تو ہم سب کو ہدایت فرماتا (149)

تم فرماؤ! لاؤ اپنے وہ گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا، پھر اگر وہ گواہی دے بیٹھیں، تو اسے سننے والے! ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اور ان کی خواہشوں کے پیچھے، نہ ہماری آیتیں جھٹلاتے ہیں، اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور اپنے رب کا برابر والا ٹھہراتے ہیں (150)

عَلَيْهِمْ شُكُّهُمْ مَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمْ أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمِهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُكُمْ بِبَغْيِكُمْ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٤٦﴾

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٧﴾

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَمَلْنَا مِن شَيْءٍ مِّنْ ذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا نَارًا قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مَوْتٌ عَلِيمٌ فَتَحْذَرُوهُ إِنَّا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ أَنْتُمْ لِأَلْتَحِضُّونَ ﴿١٤٨﴾

قُلْ لِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَاذْهَبُوا وَلَا تَلْهَبْهُمْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَغَابُونَ ﴿١٥٠﴾

تم فرماؤ! تو! میں تمہیں پڑھ کر سناؤ جو تم

قُلْ تَعَالَىٰ اَللّٰهُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ كُفْرًا عَلَيَّكَ اَلَا تَتَّشَرُّوْا كُفٰوٰهٖ سَهِيْمًا وَّ

you, "that you will not associate anyone with Him, and that you will do good to parents and that you will not kill your children because of poverty. It is We (Allah) Who provide you and them, and you should not commit the shameful acts whether open or hidden; and you will not kill illegally the living one whom Allah has made sacred. This has been Commanded by Him to you that you may understand."

152. "And do not take in hand the property of the orphans, except in the best manner, until they reach the maturity. And upkeep the measure and weight justly with equilibrium. We (Allah) do not burden any person but to his (her) capacity. And when you speak, observe justice even though it be a matter of your relatives. And fulfil your undertakings with Allah. That is what He has enjoined you that you may upkeep the remembrance."

153. "And this is My straight path. So follow it and follow not other ways for they will deviate you from His Way. He has ordered you so that you may guard yourself (against evil).

154. Again I gave the Book to Moosaa (Moses) for full favour him who is righteous, and the details of every thing, and (provide) guidance and mercy that his people might believe in the meeting of their Rubb (Sustainer).

SECTION 20

155. And this blessed Book has been revealed by Us (Allah). Therefore, follow it

پر تمہارے رب نے حرام کیا، یہ کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور اپنی اولاد قتل نہ کرو، مغسی کے باعث، ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ، جو ان میں مکمل ہیں اور جو چھپی، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اسے ناخن نہ مارو، یہ تمہیں حکم فرمایا ہے کہ تمہیں عقل ہو (151)

اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقہ سے، جب تک وہ اپنی جوانی کو پہنچے، اور باپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، ہم کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کے مقدور بھر، اور جب بات کو تو انصاف کی کہو، اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ ہی کا عمدہ پورا کرو، یہ تمہیں تاکید فرمائی کہ کہیں تم نصیحت مانو (152)

اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، تو اس پر چلو، اور راہیں نہ چلو، کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گی یہ تمہیں حکم فرمایا کہ کہیں پر بیہزگاری ملے (153)

پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی پورا احسان کرنے کو، اس پر جو نیکو کار ہے، ہر چیز کا تفصیل اور ہدایت اور رحمت، کہ کہیں وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں (154)

اور یہ برکت والی کتاب ہم نے تمہاری تو اس کی پیروی کرو، اور پر بیہزگاری کرو کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْسَلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِنَ إِمْلَاقِي فَتَحْنُ
نَزْوَكُمْ وَيَأْتِيَهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْلُوبُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
الْإِبْرَاطِي ذَلِكُمْ
وَضَعَمَ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ
الَّذِي آتَىٰ هِيَ أَحْسَنَ حَتَّىٰ
يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ
لَا تَكْلِفُوا نَفْسًا
الْوَسْعًا أَوْ إِذَا قَدَّمْتُمْ
فَاعْدِلُوا
وَالْوَكَانَ ذَا ذُرِّيَّةٍ
وَعِيْدٍ اللَّهُ
أَوْفُوا ذَلِكُمْ
وَضَعَمَ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي
مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ
وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ
الَّتِي تَفْتَرِقُ بِكُمْ عَنْ
سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ
وَضَعَمَ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى
الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى
الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا
لِكُلِّ شَيْءٍ وَهَدَى
رُوحَنَا لَهُمُ الْبَلَاءَ
لَعَلَّهُمْ يَلْقَاءُ رَبَّهُمْ
يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٤﴾

وَهَذَا كِتَابُنَا أَنْزَلْنَاهُ
مُبْرَكًا فَاتَّبِعُوهُ

and be pious that you may be conferred (Allah's) Mercy.

156. Lest you should say, "the Book was revealed to the two groups of peoples before us, and we were unaware of what they read."

157. Or lest you should say, "if the Book had been revealed to us, then we would certainly have been better guided than they. So indeed there has come to you an enlightened argument from your Rubb (Sustainer), and a guidance, and a blessing. Who is more unjust than he who falsifies the Verses of Allah and turns away from them (His Verses). Soon We (Allah) shall punish those who turn away from Our (Allah's) Verses for turning away their faces.

158. Are they waiting for the Angels should come to them, or your Rubb (Sustainer) should come Himself, or that a Sign of your Rubb (Sustainer) is received by them. The Day when Sign of your Rubb (Sustainer) will come, believing in that will not benefit any one who did not believe before or had not earned any good by its belief. Then please declare, "wait, we also wait."

159. surely, those who have devided their religion and have become many sects, (O beloved Prophet), you have no concern at all with them what they do. Their case is with Allah (to decide). He will tell them what were their deeds.

160. Whoso brings one virtue, then for him there are ten credits like there-of, and

تم پر رحم ہو (155)

کبھی کو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر اتری تھی، اور ہمیں ان کے پڑھنے پڑھانے کی کچھ خبر نہ تھی (156)

یا کو کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ ٹھیک راہ پر ہوتے، تو تمہارے پاس تمہارے رب کی روشن دلیل، اور ہدایت اور رحمت آئی، اور اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ پھیرے عنقریب وہ جو ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں ہم انہیں بڑے عذاب کی سزا دیں گے بدلا ان کے منہ پھرنے کا (157)

کاہے کے انتظار میں ہیں، مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، یا تمہارے رب کا عذاب، یا تمہارے رب کی ایک نشانی آئے، جس دن تمہارے رب کی وہ ایک نشانی آئے گی، کسی جان کو ایمان لانا کام نہ دے گا، جو پہلے ایمان نہ لائی تھی، یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کرائی تھی، تم فرماؤ! رستہ دیکھو ہم بھی دیکھتے ہیں (158)

وہ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالیں، اور کئی گروہ ہو گئے، اے محبوب! تمہیں ان سے کچھ علاقہ نہیں، ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالہ ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے (159)

جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس

وَأَتَقُوا الْعَمَلَهُمْ تَرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾
أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ وِدَائِهِمْ لَفَعْلِينَ ﴿١٥٦﴾

أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَئِيرَىٰ الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنِ آيَاتِنَا سَوَاءٌ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا نَمْتَرِرُونَ ﴿١٥٨﴾

إِنَّ الَّذِينَ فَتَرُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَأَسْتَأْذِنُ مِنْ نَّبِيِّ إِيمَانًا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يَتَّبِعُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥٩﴾

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرَ مِثَالٍ

whoso brings an evil, shall not be penalized except to its equal and they shall not be treated with cruelty.

161. Please declare, "surely, my Rubb (Sustainer) has shown me the straight path, a right religion, the creed of Ibraaheem (Abraham) the upright and he was not at all an idolator."

162. Please declare, "surely, my Salat (Muslim Prayer) and my sacrifices, and my living and my dying are all for Allah Who is the Rubb (Sustainer) of all the universe."

163. There is no associate to Him and I have been Commanded so. And I (Muhammad) am the first Muslim.

164. Please declare, "should I seek a Rubb (Sustainer) other than Allah, while He is the Rubb (Sustainer) of everything. And what ever person earns it is against its own self. And no bearer of burden will bear the burden of another. Then you have to return towards your Rubb (Sustainer). He will inform you of that in which you used to differ.

165. And it is He Who has made you Khalifa (successor/viceregent) in the earth and has raised some of you over others in degrees that He may try you in what He has bestowed you. Sure'y your Rubb (Sustainer) is quick in punishment. And

surely, He is Forgiving, Merciful.

[HALF OF PART 8 ENDS]

جیسی دس ہیں، اور جو برائی لائے تو اسے بدلا نہ ملے گا، مگر اس کے برابر اور ان پر ظلم نہ ہوگا (160)

تم فرماؤ! بیشک مجھے میرے رب نے سیدھی راہ دکھائی، ٹھیک دین ابراہیم کی ملت، جو ہر باطل سے جدا تھے، اور شرک نہ تھے (161)

تم فرماؤ! بیشک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا، سب اللہ کے لیے ہے، جو رب سارے جہان کا (162)

اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہ حکم ہوا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں (163)

تم فرماؤ! کیا اللہ کے سوا اور رب چاہوں؟ حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے اور جو کوئی کچھ کمائے وہ اسی کے ذمہ ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے (164)

اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب کیا، اور تم میں ایک کو دوسرے پر درجوں بلندی دی، کہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو تمہیں عطا کی، بیشک تمہارے رب کو عذاب کرتے دیر نہیں لگتی، اور بیشک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے (165)

وَمَنْ جَاءَ بِالسُّيْئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا
مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

قُلْ إِنِّي هَدَيْتَنِي رَبِّيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ۖ دِينًا قِيمًا ۖ اٰمَلْتُ اِبْرٰهِيْمَ
حَنِيفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٦١﴾

قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَوَمَاتِي
صَلَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٢﴾

لَا شَرِيكَ لَهٗ وَّيُذٰلِكَ اٰمُرْتُ وَاَنَا
اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٦٣﴾

قُلْ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ اَبْعٰى رَبِّيَ وَاَهْوَآءَ
كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا
عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اٰخَرٰى ۗ
تَمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٦٤﴾

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفًا فِى الْاَرْضِ
وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْىٰ بَعْضٍ ۖ لِيُبَيِّنَ
لَكُمْ فِى مَا اُنْتُمْ اِنْ رَبَّكَ سَرِيْعٌ
بِ الْعٰقَابِ ۗ وَاِنَّهُ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٦٥﴾

S. VII
SURA AL-A'ARAA'F
(THE HEIGHTS)
Revealed at Makkah
(24-Sections,
206-Verses)
SECTION 1

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

1. ALIF, LAAAM, MEEEM SAAAD-(A.L.M.S).

2. (O beloved Prophet) a Book has been revealed to you, so that there should be no reservation in your heart because of it, that you may warn therewith and make it a reminder (advise) to the believers (Muslims).

3. Follow what has been revealed to you from you Rubb (Sustainer) and do not follow any one else as your guardian except He. But (O people you seldom take warnings.

4. And how many a settlements We (Allah) have destroyed, so Our (Allah's) punishment came to them by night or while they were drowsing at the mid-day.

5. Then nothing came out from their mouths when Our (Allah's) punishment came to them but they only said, "we were the cruel people."

6. Then most certainly, We (Allah) shall question those to whom Messengers were sent and most certainly, We (Allah) shall also question the Rasools (Messengers) (about the transmission of their mission).

7. Then most certainly We (Allah) shall tell them with knowledge (about their deeds) and We (Allah) are never absent (in their life span).

سورہ اعراف کی ہے (اور اس میں) دو سو پچیس (206) آیتیں اور چوبیس (24) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا

اے محبوب! (1)

ایک کتاب تمہاری طرف اتاری گئی تو تمہارا ہی اس سے نہ رکے، اس لیے کہ تم اس سے ڈر سناؤ اور مسلمانوں کو نصیحت (2)

اے لوگو! اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا اور اے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ! بہت ہی کم سمجھتے ہو (3)

اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کیں، تو ان پر ہمارا عذاب رات میں آیا، یا جب وہ دوسرا کو سوتے تھے (4)

تو ان کے منہ سے کچھ نہ نکلا جب ہمارا عذاب ان پر آیا، مگر یہی بولے! کہ ہم ظالم تھے (5)

تو بیک ضرور ہمیں پوچھتا ہے ان سے جن کے پاس رسول گئے، اور بیک ضرور ہمیں پوچھتا ہے رسولوں سے (6)

تو ضرور ہم ان کو بتا دیں گے اپنے علم سے اور ہم کچھ غائب نہ تھے (7)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدٰنَا لِحَقِّ الذِّیْقِ
 وَرَحْمَةً لِّرَحْمٰتِیْهِ
 وَرَحْمَةً لِّرَحْمٰتِیْهِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْمَصِّی
 الْقَصِّی

كُتِبَ اَنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا

يَلِكُ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ وَفَنَّهُ لَتَنْتَبِذَ

بِهِ وَذِكْرِي لِلْمُؤْمِنِيْنَ

اَتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ اَوْ اٰیَةً قَلِيْلًا

مَا تَنْذَرُوْنَ

رَبِّكُمْ قَرِيْبًا اَهْلَكْنَا بِمَا فَجَّأْنَا

بِاسْتِغْيَابِنَا اَوْ هُمْ قَالُوْنَ

فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بِاسْتِنَا

اِلَّا اَنْ قَالُوْا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ هُوَ

لَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ

فَلَنَقْضَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمِهِ وَاَنَا كٰتِبٌ

غٰیْبِيْنَ

8. And the measuring (of deeds) on that Day will be just. Then those whose scales (of good deeds) will be heavy will be the ones who prosper.

اور اس دن تول ضرور ہوتی ہے، تو جن کے پلے بھاری ہوئے، وہی مراد کو پہنچے (8)

9. And as for those whose measures (of good deeds) are light, those are they who have made themselves to suffer loss as return to that indifference which they used to commit with with Our (Allah's) Verses.

اور جن کے پلے ہلکے ہوئے، تو وہی ہیں جنہوں نے اپنی جان گھاٹے میں ڈالی، ان زیادتیوں کا بدلا جو ہماری آیتوں پر کرتے تھے (9)

10. And certainly, We (Allah) established you in the earth, and have provided there-in the means of your livelihood. But you are seldom thankful.

اور بیشک ہم نے ضرور تمہیں زمین میں جمادیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے، بہت ہی کم شکر کرتے ہو (10)

SECTION 2

11. And certainly, We (Allah) create you, then make your shapes. We (Allah) said to the Angels, "prostrate before Adam. Then all of them fell prostrate, except Iblis (satan-devil). He was not of those who prostrate (submit).

اور بیشک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے نقشے بنائے، پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا: کہ آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گرے، مگر ابلیس! یہ سجدہ والوں میں نہ ہوا (11)

12. He (Allah) asked, "what prevented you (O satan) that you did not fell in prostration when I Commanded you? He said "I am better than he, You created me of fire while you made him from clay.

فرمایا: کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا؟ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا، بولا: میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اور اسے مٹی سے بنایا (12)

13. He (Allah) said "you get down from here (Paradise). It is not for you that you may behave boastfully here. Get out, you are amongst the degraded ones.

فرمایا: تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر فرود کرے، نکل! تو ہے زلت والوں میں (13)

14. He (devil) said, "give me time till the day they (mankind) are raised-up."

بولا! مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں (14)

15. He (Allah) said, "surely you are given time."

فرمایا: تجھے مسلت ہے (15)

16. He (devil) said, "now since you have adjudged me

بولا: تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۸﴾

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بَمَا كَانُوا يَأْتِينَ وَيُظْلَمُونَ ﴿۹﴾

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا قَلِيلًا تَشْكُرُونَ ﴿۱۰﴾

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿۱۱﴾

قَالَ مَا مَنَعَكَ الْأَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿۱۲﴾

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿۱۳﴾

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿۱۴﴾

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿۱۵﴾
قَالَ فِيمَا أُغْوِيْتَنِي لِأَقْعُدَنَّ لَهُمْ

to go perverted, I shall necessarily sit to (block) them from your straight path (mislead the mankind).

17. Then, certainly I will attack them, from before them and from behind them, and from their right and from their left and you will not find most of them thankful.

18. He (Allah) said, "get out from here rejected, banished. Certainly those of them who will follow you, I shall fill hell with you all."

19. And O Aadam! you and your wife may stay in the Paradise, then eat there-from wherever you like, and do not go near this 'shajar' (family lineage tree), otherwise you will be among the cruel ones.

20. Then the devil (satan) whispered to them (evil suggestion) to open to them their shameful parts and said, "your Rubb (Sustainer) has prohibited you from this tree only because you may not become two Angels or immortals."

21. And he swore to them both that I am surely well wisher of you both.

22. Then caused them deceitfully to fall down in disobedience. Then when they tasted that tree, their evil inclinations became manifest to them, and they began to cover themselves with leaves of the Paradise. And their Rubb (Sustainer) said to them, "did I not forbid you from that tree and told you that the devil satan is your open enemy.

23 Both of them submitted. "O our Rubb

میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی تاک میں بیٹھوں گا (16)

پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے، ان کے داہنے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا (17)

فرمایا: یہاں سے نکل جا، رو کیا گیا راندہ ہوا، ضرور جو ان میں سے تیرے کے پر چلا، میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا (18)

اور اے آدم! تو اور تیرا جوڑا جنت میں رہو، تو اس میں جہاں چاہو کھاؤ، اور اس بیڑ کے پاس نہ جانا، کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو گے (19)

پھر شیطان نے ان کے جی میں خطرہ ڈالا کہ ان پر کھول دے، انکی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھیں۔ اور وولا! تمہیں

تمہارے رب نے اس بیڑ سے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دو فرشتے ہو جاؤ یا بیٹھ جینے والے (20)

اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں (21)

تو اتار لایا انہیں فریب سے، پھر جب انہوں نے وہ بیڑ چکھا، ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئیں، اور اپنے بدن پر جنت کے پتے چپانے لگے، اور انہیں ان کے رب نے فرمایا: کیا میں نے تمہیں اس بیڑ سے منع نہ کیا؟ اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ (22)

دونوں نے عرض کی اے رب ہمارے، ہم

وَصَرَاطِكُ الْمَسْتَقِيمِ ﴿١٦﴾

كُفْرًا لَّيْتَيْتَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ يَبْعَثْكَ مِنْهُمْ لَرَمَنَّا مِنْكُمْ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَائِكَةً أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾

وَقَسَمْتُ لَكُمْ أَنْي لَأَكُونَنَّ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢١﴾

فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا مَخْضُبِينَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٢﴾

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنَّ لَنَا

(Sustainer) we have committed cruelty to ourselves. If You do not forgive us and have no mercy on us, then certainly we are among losers."

24. He (Allah) said, "get down, your descendants as the enemy of each others and you are to stay in earth till a fixed time and there is provision for a time (for you).

25. He (also) said, "you will live in it, and will die into it, and there from you will be raised-up."

SECTION 3

26. O the children of Aadam! indeed, We (Allah) have sent down for you such a dress with which you may cover your shameful (sex) parts and that it be for beauty to you. And this is dress of piety which is the best. This is one of Allah's prescriptions that the (human beings) may remember.

27. O children of Aadam! (be at your guards), let not the satan (devil) put you to similar problem, as he got expelled your parents out from the Paradise, tempting them to take off their dress that they may see their shameful (sex) parts. Surely, he and his tribe see you whereas you can not see them. Surely, We (Allah) have made the satan (devil) friend of those who do not believe.

28. And when they commit any indecency, they say, "we found our forefathers doing it and Allah Commanded us to do so." Please declare, "Allah does not enjoin indecency, do you say against Allah what you do not know."

29. Please declare, "my

نے اپنا آپ مبرا کیا، تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے (23)

فرمایا: اترو! تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے، اور تمہیں زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور برتنا ہے (24)

فرمایا: اسی میں جیو گے اور اسی میں مرے گے، اور اسی میں سے اٹھائے جاؤ گے (25)

اسے آدم بکرا اولاد! بیگم ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانیں (26)

اسے آدم کی اولاد! خبردار! تمہیں شیطان قندہ میں نہ ڈالے، جیسا تمہارے ماں باپ کو بھت سے نکالا، اترو دینے ان کے لباس، کہ ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑیں، بیگم وہ اور اس کا کتبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں، کہ تم انہیں نہیں دیکھتے، بیگم ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا ہے جو ایمان نہیں لاتے (27)

اور جب کوئی بے حیائی کریں، تو کہتے ہیں ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا، تم فرماؤ! بیگم اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا اللہ پر وہ بات لگاتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں (28)

تم فرماؤ! میرے رب نے انصاف کا حکم دیا

تَقَفَرْنَا وَوَرَحْمَةً لَّنَكُونْنَا مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝۲۳

قَالَ اِهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدٰوٍ وَّلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ۝۲۴
قَالَ فِىْهَا تَحْيَوْنَ وَفِىْهَا تَمُوْتُوْنَ وَهٰمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ۝۲۵

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰىكَ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاَتِكَ وَرِيْشًا وَّلِبَاسٌ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۝۲۶

يٰۤاٰدَمُ اَلَيْفَ تَتَّبِعُكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبٰٓءَكَ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمْ لِبَاسًا لِّيُرِيَهُمْ اَسْوَآءَهُمْ اِنَّهٗ يَرُكْمُ هُوَ وَقَبِيْلَهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاً لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝۲۷

وَاِذَا نَعَلُوْا فَاَجْشَثُ قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَا اٰبَآءَنَا وَاَللّٰهُ اَمْرًا لِّبِهٖٓا قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ اَتَقُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۲۸

قُلْ اَمْرًا لِّيْٓ بِالْقِسْطِ وَاَقِيْمُوْا

Rubb (Sustainer) has Commanded justice and set your faces upright at the time of each Salaat (Muslim Prayer) and worship Him exclusively being sincere to Him in religion. As He

originated you so you will return (to Him)."

30. Some of them He has guided to right way and some others He has left to go on the wrong way. They have taken satan (devils) as guardian leaving Allah and they think that they are the guided ones.

31. O children of Aadam! keep yourselves well dressed whenever you go to the mosque and eat and drink and do not cross the limits. Surely, the persons crossing the limits are not liked by Him.

SECTION 4

32. Please declare, "who has prohibited you to wear beautiful (gifts) of Allah which He produced for His devotees and good things of food. Please declare, "that is for the believers in the life of this world and is exclusively for them on the Day of Resurrection. Thus We (Allah) explain fully the Verses for the people who have knowledge.

33. Please declare, "my Rubb (Sustainer) has forbidden indecencies which are open and which are hidden, and sins, and unjust excesses, and that you associate with Allah against which He has not bestowed (anyone) any authority and that you say about Allah of which you have no knowledge.

ہے اور اپنے منہ سے کہے کہ ہر نماز کے وقت اور اس کی عبادت کو نہ اس کے بندے ہو کر، جیسے اس نے تمہارا آغاز کیا ویسے ہی پلٹو گے (29)

ایک فرقے کو راہ دکھائی اور ایک فرقے کی گمراہی ثابت ہوئی، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو والی بنایا، اور سمجھتے ہیں کہ وہ راہ پر ہیں (30)

اے آدم کی اولاد! اپنی زینت کو جب مسجد میں جاؤ اور کھاؤ اور پیو، اور حد سے نہ بڑھو، بیشک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں (31)

تم فرماؤ! کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاک رزق، تم فرماؤ! کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیا میں، اور قیامت میں تو خاص انہیں کی ہے، ہم یونسی مفصل آیتیں بیان کرتے ہیں علم والوں کے لیے (32)

تم فرماؤ! میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی اور گناہ اور ناحق زیادتی، اور یہ کہ اللہ کا شریک کو جس کی اس نے سند نہ آدری، اور یہ کہ اللہ پر وہ بات کہو جس کا علم نہیں رکھتے (33)

وَجَزَّهَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿۲۹﴾

فَوَيْقَاهُدَىٰ وَفَرِّقَا حَقِّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةَ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنََّّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿۳۰﴾

يَذَّبَنِي أَذْفَرُضًا وَإِزِينَتِكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿۳۱﴾

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۳۲﴾

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِتَعَدُّ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُعْزِرْ لَهُ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾

34. And for every nation there is a fixed period (term), then when their term will come (to an end), they can not postpone it for a moment nor they can forward it.

اور ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے تو جب ان کا وعدہ آئے گا، ایک گھڑی نہ پیچھے ہو نہ آگے (34)

35. O children of Aadam! if the Rasools (Messengers) come to you from amongst you, reciting to you My Verses, then whoso refrains from evil and amends, for them there is no fear nor any grief.

اے آدم کی اولاد! اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں، میری آیتیں پڑھتے تو جو پرہیزگاری کرے اور سنورے، تو اس پر نہ کچھ خوف اور نہ کچھ غم (35)

36. And those who falsify Our (Allah's) Verses and become arrogant against them, they are the inmates of the hell, where they are to remain forever.

اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا، وہ دوزخی ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا (36)

37. Then who is more cruel than he who has concocted lie against Allah or has falsified His Verses. They will receive what is their in the record until when our (Allah's) messengers (Angels) come to them causing them to die. They will say to them, "where are those whom you used to worship besides Allah." They will say, "they have left us in dark. And they bear witness against their own selves that they were disbelievers."

تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، یا اس کی آیتیں جھٹلائیں انہیں ان کے نصیب کا لکھا پیچھے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان نکالے آئیں، تو ان سے کہتے ہیں، کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے تھے، کہتے ہیں، وہ ہم سے گم گئے اور اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے (37)

38. He (Allah) will say to them, enter the same fire where other 'Ummahs' (grand communities) passed away before you from among jinns and human beings when an Ummah (grand community) shall enter it, it shall curse the other; until when all will have arrived therein. Then the last of them will say pointing to the first, "O our Rubb (Sustainer) they led us to the wrong way. Therefore,

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ الْأُخْرَىٰ كُلَّمَا دَخَلُوا فِيهَا جُمُوعًا قَالَتْ أُخْرَيْنَهُمْ لِوَأُولَهُمُ رَبُّنَا هَؤُلَاءِ ضَلُّوا نَا

punish them to the double in the fire. He (Allah) will say, "all have double (punishment) but you know not."

39. And the first (group) will say to the last, "you have then no preference on us, therefore, taste the punishment as the return of what you did."

SECTION 5

40. Surely those who falsify Our (Allah's) Verses and become boastful, neither the gates of heaven will be opened for them, nor they will enter the Paradise until the camel enters through the hole of a needle. And thus We (Allah) retribute the criminals.

41. The fire will be their bed and the fire will be the covering. And thus We (Allah) retribute the cruels.

42. And those who believe and do good deeds We (Allah) do not burden anybody beyond capacity. They are companions of Paradise where they are to live for ever.

43. And We (Allah) shall remove the retaliation from their hearts. Beneath them will flow streams, and they will say, "all praise to Allah Who has guided us to this, and we could not have found the way, if Allah had not guided us to that. Certainly, the Rasools (Messengers) of our Rubb (Sustainer) brought the truth." And it shall be proclaimed to them, "this is the Paradise you have inherited as the reward of your deeds".

[THREE/FOURTH OF
PART 8 ENDS]

انہیں آگ کا دوٹا عذاب دے، فرمائے گا
سب کو دوٹا ہے مگر ہمیں خبر نہیں (38)

اور پہلے بچپلوں سے کہیں گے، تو تم کچھ
ہم سے اچھے نہ رہے، تو کچھ عذاب بدلا!
اپنے کیے کا (39)

وہ جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، اور
ان کے مقابل تکبر کیا ان کے لیے آسمان
کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، اور
نہ جنت میں داخل ہوں جب تک سوئی
کے ٹانگے اونٹ داخل نہ ہو، اور مجرموں
کو ہم ایسا ہی بدلا دیتے ہیں (40)

انہیں آگ ہی چھوٹا اور آگ ہی اوڑھنا
اور خالوں کو ہم ایسا ہی بدلا دیتے ہیں
(41)

اور وہ جو ایمان لائے اور طاعت بھرا اچھے
کام کیے، ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ
نہیں رکھتے، وہ جنت والے ہیں، انہیں
اس میں بیش رہنا (42)

اور ہم نے ان کے سینوں میں سے کہنے
سمجھنے لیے، ان کے نیچے سرس برسیں گی،
اور کہیں گے، سب خوبیاں اللہ کو جس
لے ہمیں اس کی راہ دکھائی، اور ہم راہ نہ
پاتے اگر اللہ ہمیں راہ نہ دکھاتا، بیک
ہمارے رب کے رسول حق لائے، اور خدا
ہوئی کہ یہ جنت ہمیں میراث ملی، صلہ
تھمارے اعمال کا (43)

فَأْتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفَيْنِ مِنَ النَّارِ قَالَ
لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾

وَقَالَتْ أُولَئِكَ لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ بِهُمْ مِمَّا كَانُوا
لَكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ
عَٰ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۳۹﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا
عَنَّا لَا تَفْتَحُ لَهُمُ الْبَابُ السَّمَوَاتِ
وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَمِيزَ
الْجَمَلُ فِي سَمِّهِ النَّيْطَاطِةَ وَكَذَلِكَ
نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿۴۰﴾

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ وَمِمَّا ذُوقُوا نَارِهِمْ
عَوَاقِبٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿۴۱﴾
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنُدْخِلَنَّهُمْ
الْجَنَّةَ الَّتِي هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۴۲﴾

وَنُزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلْبٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا
كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ
لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلًا مِنَّا بِالْحَقِّ وَنُودُوا
أَنْ تَبْلُغُوا الْجَنَّةَ أَوْرَثْتُمْوهَا
بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۴۳﴾

44. And the companions of the Paradise will call the companions of the hell, "we have surely achieved what our Rubb (Sustainer) had promised us to be true; then have you also achieved what your Rubb (Sustainer) had promised you to be true? They will say, "yes" and in between them an announcer will announce, "the curse of Allah be on the cruels";

45. who hinder (people) from the way of Allah and by this they want wrongness and disbelieve the hereafter.

46. And between the two (the Paradise and the hell) there shall be a veil, and on the most elevated places there shall be some men who will recognize both groups by their forehead, and they will call the people of the Paradise, (saying) peace be upon you. They shall not have entered (the Paradise) though will be wishful for that.

47. And when their eyes will turn towards the people of the hell, they will say, "our Rubb (Sustainer) do not column us with the cruel people.

SECTION 6

48. And the people of the elevated places will call out men whom they will recognize by their foreheads, and will say to them, "what benefit did your band provide you and that in which you were boastful?"

49. Are these the people on whom you used to swear that Allah would not bestow His Mercy to the least to them? They were rather told, "enter

اور جنت والوں نے دوزخ والوں کو پکارا کہ ہمیں تو بل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا تو کیا تم نے بھی پایا جو تمہارے رب نے سچا وعدہ تمہیں دیا تھا؟ بولتے ہاں! اور سچ میں متادی نے پکار دیا کہ اللہ کی لعنت ظالموں پر (44)

جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اسے کبی چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار رکھتے ہیں (45)

اور جنت دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں فریق کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ سلام تم پر یہ جنت میں نہ گئے اور اس کی طرح رکھتے ہیں (46)

اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھریں گی، کہیں گے، اے ہمارے رب! ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر (47)

اور اعراف والے کچھ مردوں کو پکاریں گے، جنہیں ان کی نشانی سے پہچانتے ہیں کہیں گے، تمہیں کیا کام آیا تمہارا جنتا اور وہ جو تم غور کرتے تھے (48)

کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر تم تمہیں کھاتے تھے، کہ اللہ ان پر اپنی رحمت کچھ نہ

وَنَادَى أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفُورُونَ ﴿٤٥﴾

وَيَدِينُهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمِهِمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْهِمْ لَمَّا رَوَوْا وَهُمْ يُصْطَفُونَ ﴿٤٦﴾

وَأِذَا صُرِفَتِ الْأَبْصَارُ إِلَيْهِمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾

وَنَادَى أَصْحَابَ الْأَعْرَافِ بِرِجَالٍ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمِهِمْ قَالُوا مَا آتَيْنَاكُمْ جَعَلَكُمْ جُجُوعًا وَمَا تَشْتَرُونَ بِرَحْمَةِ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَسْمَتُمْ لَأَنبَاءُ اللَّهِ بِرَحْمَتِهِ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا تَخْوَفُوا

وَأِذَا صُرِفَتِ الْأَبْصَارُ إِلَيْهِمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾

وَنَادَى أَصْحَابَ الْأَعْرَافِ بِرِجَالٍ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمِهِمْ قَالُوا مَا آتَيْنَاكُمْ جَعَلَكُمْ جُجُوعًا وَمَا تَشْتَرُونَ بِرَحْمَةِ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَسْمَتُمْ لَأَنبَاءُ اللَّهِ بِرَحْمَتِهِ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا تَخْوَفُوا

وَأِذَا صُرِفَتِ الْأَبْصَارُ إِلَيْهِمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾

وَأِذَا صُرِفَتِ الْأَبْصَارُ إِلَيْهِمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾

the Paradise; no fear will be upon you nor any grief."

50. And the inmates of the hell will call upon the dwellers of the Paradise to pour on them some benefit of the water (of Paradise) or of that Allah has bestowed upon them. They will say, "surely, Allah has held 'haram' (unlawful) on the disbelievers both of these (benefits):"

51. Those who made their religion as a play thing and the life of the world deceived them, they will be set free that day as they had left the conception of meeting of this Day and as they used to deny Our Verses.

52. And certainly We (Allah) have bestowed them a Book which We (Allah) have enriched with great knowledge, a guidance and mercy to the believers.

53. Do they look for the fulfilment of the interpretations thereof? On the day when the interpretations thereof shall come, those who had forgotten it before shall surely say that the Rasools (Messengers) of our Rubb (Sustainer) had brought the truth. Then will any helper recommend us or will we be sent back to life to do something otherwise as we did in the past. Indeed they commit loss to their own selves and what they forged will fail them utterly.

SECTION 7

54. Surely, your Rubb Sustainer is Allah, Who created the heavens and the earth within six periods. He is firm in power; to His

کرسے گا ان سے 'تو کہا گیا کہ جنت میں جاؤ' نہ تم کو اندیشہ نہ کچھ فہم (49) اور دوزخی ہستیوں کو پکاریں گے کہ ہمیں اپنے پانی کا کچھ فیض دو' یا اس کمانے کا جو اللہ نے ہمیں دیا، کس گے' بیک اللہ نے ان دلوں کو کافروں پر حرام کیا ہے (50)

جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی (زیست) (زندگی) نے انہیں فریب دیا، تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے جیسا انہوں نے اس دن کے نلنے کا خیال چھوڑا تھا، اور جیسا ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے (51)

اور بیک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے، جسے ہم نے ایک بڑے علم سے منضصل کیا، ہدایت و رحمت ایمان والوں کے لیے (52)

کا ہے کی راہ دیکھتے ہیں مگر اس کی کہ اس کتاب کا کہا ہوا انجام سامنے آئے جہنم اس کا بتایا انجام واقع ہوگا، بول انہیں گے وہ جو اسے پہلے سے بھلائے بیٹھے تھے کہ بیک ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے، تو ہیں کوئی ہمارے سفارشی جو ہماری شفاعت کریں، یا ہم واپس بھیجے جائیں کہ پہلے کاموں کے خلاف کام کریں، بیک انہوں نے اپنی جائیں نقصان میں ڈالیں، اور ان سے کھوئے گئے جو بہتان اٹھاتے تھے (53)

عَلَيْكُمْ وَلَا تَنْتَوُا فَخْرًا ۝
وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ النَّارِ
أَنْ أَوْفِقُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ الَّذِي
رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ خَرَجَهُمَا
عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَ
عَرَّبَهُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَايُؤْمِرُ
نَفْسَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ
هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا أَتَّخَذُونَ ۝
وَلَقَدْ جِئْتُم بِبُكْبٍ فَوَسَّلْنَا لَهُ
عَلَيْهِمْ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ۝

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَوَّلَ يَوْمٍ يَأْتِي
تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ
قَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ مِنَّا بِالْحَقِّ قَبْلُ
لَنَا مِنْ شَفَعَاءٍ فَيُشْفَعُونَ النَّاسَ أَذُودًا
فَنَعْمَلُ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ
خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا
يَكْفُرُونَ ۝

بیک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین چھ دن میں بنائے، پھر عرش پر

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى

Dignity). He makes the night to cover the day by each other swiftly, and He made the sun and moon and stars. All are subject to His Command. Behold! His is the creation and the Command. Allah is Bountiful, the Rubb (Sustainer) of the universe.

55. Call your (Rubb (Sustainer) humbly and secretly. Surely, He does not like those who cross the limits.

56. And do not spread mischief on the earth after it has been brought to peace and call Him fearing and hoping. Surely the Mercy of Allah is nearest to the benevolents.

57. He Who sends forth the winds bringing good news of His Mercy till the heavy clouds are carried. We advise it go towards a dead land, then We (Allah) shower water therewith, then cause varied fruit to grow there with. Thus We (Allah) shall bring forth the dead, so that you may keep the remembrance.

58. And the land which is fertile, its vegetation comes out with the Command of Allah but that which is saline produces nothing but hardly a little. Thus we explain Our (Allah's) Verses like this, for those who are grateful.

SECTION 17

59. Surely I sent Nuuh (Noah) towards his nation. He said, "O my nation! worship Him. There is none worth worship except Him. Surely, I fear for you the punishment of the Mighty Day."

استواء فرمایا، جیسا اس کی شان کے لائق ہے، رات کو ایک دوسرے سے ڈھانکتا ہے، کہ جلد اس کے پیچھے لگا آتا ہے، اور سورج اور چاند تاروں کو بنایا سب اس کے حکم کے دیے ہوئے، من لو! اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا، اور حکم دینا بڑی برکت والا ہے، اللہ رب سارے جہان کا (54)

اپنے رب سے دعا کرو گزرتے اور آہستہ پیچک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں (55)

اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کے سنورنے کے بعد، اور اس سے دعا کرو ڈرتے اور طبع کرتے، پیچک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے (56)

اور وہی ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے، اس کی رحمت کے آگے مڑوہ سناٹی، یہاں تک کہ جب اٹھائیں بھاری ہائل، ہم نے اسے کسی مردہ شہر کی طرف چلایا، پھر اس سے پانی اتارا، پھر اس سے طرح طرح کے پھل نکالے، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے، کیس تم نصیحت مانو (57)

اور جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا بمشکل، ہم یونہی طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں، ان کے لیے جو احسان مانیں (58)

پیچک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو اس نے کہا، اے میری قوم! اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، پیچک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے (59)

عَلَى الْعَرْشِ يُعِيشِي النَّيْلَ الْقَمَارَ
يَطْلُبُهُ حَبِثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
وَالنَّجْمُ مَسْحَرَاتٍ بِأَمْرِ اللَّهِ الطَّائِقِ
وَالْأَمْرُ تَبْرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٩﴾

أُدْعُوا رَبَّكُمْ لِقَاءَ وَخَفِيَّةٍ إِتَانَهُ
لَا يَجِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾

وَلَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ
إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْثًا مُطْمَعِينَ
إِنْ سَأَلْتُمُ اللَّهَ قَرِيبًا مِّنَ
الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَابِئِينَ
يَدْرِي رَحْمَتَهُ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ

سَحَابًا نَّفَخَ فِي سَفْتِنِهِ مِن مَّيْمَنِهِ
فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ
تَحْتِ الشَّجَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

وَالْبَدُنَ الْغَظِيْبَ يُخْرِجُ بِئَاتِهِ بِأَدْنَىٰ
رَبِّهِ وَالَّذِي حَبِثَ لَدُنْهُ يُرَىٰ أَنَّىٰ
يَكْبَدُ أَكْذَبُكَ نَضْرَفُ الْأَيْتِ
فَ يَقُومُ يُشْكِرُونَ ﴿٥٨﴾

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ
يَقَوْمِ أَسْبُدُوا لِلَّهِ مَا لَكُمْ مِن دَالِهِ
عِبْرَةً إِنَّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ
يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٩﴾

60. The chiefs of his nation said, "surely, we see you in clear misguidance."

61. He (Noah) said, "O my nation there is no misguidance in me; but I am a Rasool (Messenger) of Rubb (Sustainer) of the universe."

62. I transmit to you the message of my Rubb (Sustainer), offer you good advice and I have the knowledge from my Allah which you do not possess.

63. And has this surprised you that an advice has come to you from your Rubb (Sustainer) through a male from amongst you, so that he may warn you and you become pious and thus you may be bestowed mercy?

64. But they falsified, so We (Allah) saved him (Noah) and those who were with him in the Ark. And We (Allah) drowned those who falsified Our (Allah's) Verses. Surely they were a blind people."

SECTION 9

65. And to Aad (We sent) from amongst their brotherhood Huud. He said, "O my nation! worship Allah, you have none worth worship except Him." Then do you not become pious?

66. The disbelieving chiefs amongst his people said, "surely, we find you in foolishness and we surely take you to be one of the hars"

67. He (Noah) said, "O my nation I have no concern with the foolish ones. I am indeed a Rasool (Messenger) from the Rubb (Sustainer) of the universe."

68. I transmit to you the messages of my Rubb

اس کی قوم کے سردار بولے! بیشک ہم تمہیں سبھی گمراہی میں دیکھتے ہیں (60)

کہا، اے میری قوم! مجھ میں گمراہی کچھ نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں (61)

تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا اور تمہارا بھلا ہاتھ اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے (62)

اور کیا تمہیں اس کا چہنچا ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی، تم میں سے ایک مرد کی معرفت، کہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم ڈرو اور کس تم پر رحم ہو (63)

تو انہوں نے اسے جھٹلایا، تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی اور اپنی آیتیں جھٹلانے والوں کو ڈبو دیا، بیشک وہ اندھا گروہ تھا (64)

اور عادی کی طرف ان کی برادری سے ہود کو بھیجا، کہا، اے میری قوم! اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں (65)

اس کی قوم کے سردار بولے! بیشک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بیشک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں (66)

کہا، اے میری قوم! مجھے بیوقوفی سے کیا علاقہ، میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں (67)

تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں

قَالَ الْمَلَأُونَ قَوْمَهُ الْاَلْتَرِكِ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝۶۰
قَالَ يَقْوَرُ لَيْسَ فِي ضَلَالَةٍ وَذَلِكَ بِرِسْوَلٍ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۶۱

اَبْلَغْتُمْ رِسَالَتِ رَبِّيْ وَاَنْصَحْتُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۶۲
اَوْ جِئْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ وَكُرُوْنَ زَيْكُمْ عَلٰی رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاْتَمْتَقُوا وَلَعَلَّكُمْ تَرْحَمُوْنَ ۝۶۳

لَكَذَّبُوهُ فَاَجْحَبْنَاهُ وَالدَّيْنِ مَعَدَّةٌ فِي الْفُلْكِ وَاَعْرَفْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِلَانٌ ۝۶۴

فَالِيْ عَادِ اَخَاهُمْ هُوْدًا قَالَ يَقْوَرُ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنَ الدِّوْعَلَاةِ اَلَّا تَتَّقُوْنَ ۝۶۵
قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ اِنَّ الْاَلْتَرِكِ فِيْ سَفَاهَةٍ وَاِنَّا لَلْكٰتِبُكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝۶۶

قَالَ يَقْوَرُ لَيْسَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَذَلِكَ بِرِسْوَلٍ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۶۷
اَبْلَغْتُمْ رِسَالَتِ رَبِّيْ وَاِنَّا لَكُم نٰصِحٌ

(Sustainer) and I am your trusted counsellor.

69. And have this surprised you that an advice was bestowed to you from your Rubb (Sustainer) through a man from amongst you, so that he may warn you? And remember that He appointed you as successors of the nation of Nuh (Noah) and increased the number of your community. Then remember the bounties of your Allah that you may prosper.

70. They said, "have you come to us that we should worship one Allah and leave what our forefathers used to worship? You bring that you are threatening us, if you are truthful.

71. He said, "surely there has befallen on you the punishment and wrath of your Rubb (Sustainer). Are you disputing with me only about such names which you and your forefathers have adopted for which Allah has revealed no authority? Wait then, I am among those who wait.

72. Then We (Allah) saved him and those with him by showing Our (Allah's) mercy and We (Allah) cut off the roots of those who used to falsify Our (Allah's) Verses and they were not believers.

SECTION 10

73. And to Samood (Thamood) We (Allah) sent Saleh as their brethern. He said, "O my nation! worship Allah, you have none to worship except Him. Surely, there has come to you a clear probf from your Rubb (Sustainer). This is a she

اور تمہارا مستند خیر خواہ ہوں (68)

اور کیا تمہیں اس کا اچھا ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی، تم میں سے ایک مرد کی معرفت کہ وہ تمہیں ڈرائے، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین کیا، اور تمہارے بدن کا پھیلاؤ بڑھایا تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ تمہیں تمہارا بھلا ہو (69)

بولے! کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو، اگر

سچے ہو (70)

کما، ضرور تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب بڑھ گیا، کیا مجھ سے خالی ان ناموں میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، اللہ نے ان کی کوئی سند نہ اتاری، تو راستہ دیکھو! (انتظار کرو) میں بھی تمہارے ساتھ دیکھتا

ہوں (71)

تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ والوں کو اپنی ایک بڑی رحمت فرما کر نجات دی اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان والے نہ تھے (72)

اور شمرد کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا، کہا، اے میری قوم! اللہ کو پوجو! اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بیشک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کا ناطہ

أَمِينٌ ﴿۶۹﴾

أَوْحَيْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذُنُوكُمْ إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً ۗ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْشَرُونَ ﴿۷۰﴾

فَالْوَأحِيثُنَا النَّعِيذَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَنَذْرًا مَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَاتَّبَعْنَا مَا تَوَعَّدْنَا أَن كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۷۱﴾

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ حِسَابٌ وَغَضَبٌ أَتَّجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَبَّيْتُمُوهَا أَنْ تَدْعُوا آبَاءَكُمْ مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانظُرُوا إِلَىٰ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ ﴿۷۲﴾

فَأَنبِئِيهِمْ وَأَلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَقَطِّعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۗ وَمَا كَانُوا مَوْمِنِينَ ﴿۷۳﴾

وَالَّذِينَ مَعَهُ صَالِحًا قَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ

camel of Allah a symbol for you. So leave her that she may graze on Allah's earth and touch her not with evil intentions, lest a painful punishment overtakes you.

74. And remember when He made you successors of Aad, and assigned you an abode in the land that you build palaces in its plains and cut out houses in its mountains. Remember, therefore, the Bounties of Allah and commit no disorder in the earth.

75. The boastful chiefs of his nation said, to the weak believers (Muslims), "do you know that Saleh is a Rasool (Messenger) of his Rubb (Sustainer)?" They said, "we believe in what has been revealed to him."

76. The boastful ones said, "in that which you believe we surely disbelieve."

77. Then they chopped the legs of the she camel and rebelled against the Command of their Rubb (Sustainer) and said, "O Saleh! bring upon us that which you are threatening us, if you are truly one of Rasools (Messenger)."

78. Then the earthquake overtook them. They fell down faced on earth in their homes in the morning.

79. Then he (Saleh) turned away from them and said, "O my nation! certainly, I did deliver to you the message of my Rubb (Sustainer) and wished your good. But you do not love those who give good advice.

80. And We (Allah) sent Luat, when he said to his nation, "do you commit

(ادبھی) ہے، تمہارے لیے نشان، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ، کہ تمہیں درد ناک عذاب آئے گا (73)

اور یاد کرو جب تم کو عاد کا چاشین کیا اور ملک میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو، اور پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو، اور زمین میں فساد پھانتے نہ چھو (74)

اس کی قوم کے تکبر والے کمزور مسلمانوں سے بولے! کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کے رسول ہیں! بولے! وہ جو یکم لے کر بھیجے گئے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں (75)

تکبر بولے! جس پر تم ایمان لائے ہمیں

اس سے انکار ہے (76)
ہیں نانو (ادبھی) کی کوہیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور بولے! اے صالح! ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو، اگر تم رسول ہو (77)

تو انہیں زلزلے نے آیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے (78)

تو صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا، اے میری قوم! بیٹک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی، اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کے غرضی (پسند کرنے والے) ہی نہیں (79)

اور لوٹ کو بھیجا، جب اس نے اپنی قوم

نَاقَةَ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ لِلَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ الْيَوْمِ ۝

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ زُرَّكَوًّا فِي الْأَرْضِ فَتَوَخَّذُونَ مِنْ سَهْمِهَا تَصَوُّرًا وَتَنْجَحُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَادْكُرُوا الْآيَةَ لِلَّهِ وَ

لَا تَعْتَدُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ قَالَ الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنَ الْقَوْمِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا إِلَيْنَا أَمْنًا مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنَّا بِهِ كَافِرُونَ ۝

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ إِنَّا بِمَا أَتَيْتَنَا بِرَبِّكَ كَذِبٌ مِمَّنْ كَذَبَتْ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصَابُوا حَوَارِفَ دَارِهِمْ جُثَمِينَ ۝

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولًا لِي بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأَمْثَلْتُكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ التَّصْحِيحَ ۝

وَلَوْ طَإِدُ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ

indecent which was not committed by any one in the world before you”?

81. You surely, approach males for lust instead of females. On the contrary you cross the limits.

82. And there was no answer with his nation. But they only said, “turn them out of your town. Surely, these people aspire to remain pure.”

83. Then We (Allah) got him and his followers saved but his wife was among those who remained behind.

84. And We (Allah) showered upon them a rain. Then see what was the end of the criminals?

SECTION 11

85. And to Madyan (We sent) Shuaib, their brother. He said, “O my people worship only Allah. There is none worth worship for you except Him. Surely, there has come to you a clear proof from your Rubb (Sustainer). Give full measures and full weights properly, and do not give the people their things in reduction. And spread no disorder in the earth after setting its fair management. This is good for you, if you believe.

86. And sit not on every path threatening and barring from Allah's ways the wayfarers who have believed in Him, desiring crookedness in it. And remember, when you were few, He multiplied you. And behold! what was the end of those who indulged in disorder.

87. And if there are some among you who believe in

سے کہا کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی؟ (80) تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے (81)

اور اس قوم کا کچھ جواب نہ تھا، مگر یہ کہتا کہ ان کو اپنی ہستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں (82)

تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت رہ وہ جانے والوں میں ہوئی (83)

اور ہم نے ان پر ایک مینہ برسایا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا؟ (84)

اور مدین کی طرف ان کی برادری سے شعیب کو بھیجا، کہا، اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بیشک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، تو ناپ اور تول پوری کرو، اور لوگوں کی چیزیں گننا کر نہ دو، اور زمین میں انعام کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارا بھلا ہے، اگر ایمان لاؤ (85)

اور ہر راستہ پر یوں نہ بیٹھو کہ راہ گیزوں کو ڈراؤ، اور اللہ کی راہ سے انہیں روکو، جو اس پر ایمان لائے اور اس میں کئی چاہو، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اس نے تمہیں بڑھا دیا، اور دیکھو! فسادوں کا کیسا انجام ہوا؟ (86)

اور اگر تم میں ایک گروہ اس پر ایمان لایا

الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ بِمَا كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَ تَكْوِينُ بَيِّنَاتٍ لَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخُسُوا الْبِئْسَ أَسْمَاءُ لَهُمْ وَلَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعَدُونَ وَتَصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُوا نَهْلًا عِوَجًا وَأَذْكَرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَبِيلاً كَثُرْتُمْ وَالنَّظْرُ أَوْ

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾
وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا

that with which I have been sent but some others disbelieve it, be patient till Allah decides between us; and Allah's Judgement is the best.

PART 9

SURA AL-AARAAF

(Contd.)

SECTION 11 (Contd)

88. The boastful elders of his nation said, "O Shuaib, we swear that we will certainly turn you out from our town alongwith those (Muslims) who are with you or you revert back to our faith." He said, "what! even though we (Muslims) hate it?

89. Certainly we shall forge a falsehood against Allah, if we return to your religion after Allah has saved us from it. And (Shuaib said) it is not for we (Muslims) that we should come back in the fold of your creed except that Allah who is our Rubb (Sustainer) so desires. The knowledge of our Rubb (Sustainer) comprehends every thing. We put our trust in Allah. O our Rubb (Sustainer) decide between us and our people with truth and Your Decision is the best.

90. And the disbeliever elders of his nation said, "if you follow Shuaib, you shall surely be the losers."

91. Then an earth-quake overtook them; so in the morning they fell upside down in their homes.

92. Those who falsified Shuaib (vanised) as if they had never lived in such houses. Those who falsified Shuaib were the people who were the losers.

جو میں لے کر بھیجا گیا اور ایک گروہ نے نہ مانا تو پھرے رہو، یہاں تک کہ اللہ ہم میں فیصلہ کرے اور اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے (87)

اس کی قوم کے شکبر سردار بولے! اے شعیب! تم ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی ہستی سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ! کہا اگرچہ ہم ہزار ہوں (88)

ضرور! ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے اگر تمہارے دین میں آ جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہے اور ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب! ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر (89)

اور اس کی قوم کے کافر سردار بولے! کہ اگر تم شعیب کے تابع ہوئے تو ضرور تم نقصان میں رہو گے (90)

تو انہیں زلزلے نے آلیا، تو صبح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے (91)

شعیب کو جھٹلانے والے گویا ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہ تھے، شعیب کو جھٹلانے والے ہی جہاں میں پڑے (92)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسلُّوا لَهُمْ سَلًّا مِّنَ اللَّيْلِ مِنْ مَّوَارِيثِهِمْ فَسُحَّرُوا مُخَلِّفِينَ لَيْلِهِمْ وَكَاذِبِينَ ۝۸۷
لَمَّا تَوَسَّوْا لَهُمْ فَلَمَّ لَّهُمُ اللَّيْلِ مِنْ مَّوَارِيثِهِمْ فَسُحَّرُوا مُخَلِّفِينَ لَيْلِهِمْ وَكَاذِبِينَ ۝۸۸
اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝۸۹

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لنعُودُنَّ فِي مِلَّتِكَ قَالَ أَوْلَوْكُنَّا كُوفِينَ ۝۸۸

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِن عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّسَ اللَّهُ مِنهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يُشَاءَ اللَّهُ رَبَّنَا وَسِعَ رَبَّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحِرْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ۝۸۹

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِن اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخٰسِرُونَ ۝۹۰

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثْمِينَ ۝۹۱

الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَعْنُوا فَيَسَاءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَعْنُوا هُمْ الْخٰسِرِينَ ۝۹۲

93. Then he (Shuaib) turned away his face from them and said, "O my nation, I have already delivered to you the messages of my Rubb (Sustainer) and have advised you sincerely for your good. How then should I be sorrowful about the disbelieving nation.

تو شعیب نے ان سے منہ پھیرا اور کہا
اے میری قوم! میں تمہیں اپنے رب کی
رسالت پہنچا چکا اور تمہارے بھلے کو
نصیحت کی، تو کیونکر غم کروں کافروں کا
(93)

SECTION 12

94. And We (Allah) have not sent any Nabi (Prophet — communicator of hidden news) in any town but We (Allah) seized the people thereof with misery and hardship that anyway they might be remorseful.

اور نہ بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی
مگر یہ کہ اس کے لوگوں کو سختی اور
تکلیف میں پکڑا کہ وہ کسی طرح زاری
کریں (94)

95. Then We (Allah) changed the evil with good until they grew in number and said, "surely hardship and happiness touched our fathers." Then we seized them suddenly while they did not perceive.

پھر ہم نے برائی کی جگہ بھلائی بدل دی
یہاں تک کہ وہ بہت ہو گئے اور بولے!
بیک ہمارے باپ دادا کو رنج و راحت
پہنچے تھے تو ہم نے انہیں اچانک ان کی
فطرت میں پکڑ لیا (95)

96. And had the people of the town believed and become pious We (Allah) would surely have opened upon them blessings from heavens and earth. But they falsified. So We (Allah) seized them on account of their deeds.

اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور
ڈرتے، تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین
سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے تو
جھٹلایا، تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر
گرفتار کیا (96)

97. Do the people of the towns not fear that Our (Allah's) punishment may come upon them at night, while they remain asleep.

کیا بستیوں والے نہیں ڈرتے کہ ان پر
ہمارا عذاب رات کو آئے جب وہ سوئے
ہوں (97)

98. Do the people of the towns feel secure that Our (Allah's) punishment may come upon them in the morning while they are playing?

یا بستیوں والے نہیں ڈرتے کہ ان پر ہمارا
عذاب دن چڑھے آئے، جب وہ کھیل
رہے ہوں (98)

99. Are they unaware of the plan of Allah? And none becomes secure against the plan devised by Allah except the people who shall perish.

کیا اللہ کی فتنی (چھپی ہوئی) تدبیر سے بے
خبر ہیں، تو اللہ کی فتنی تدبیر سے بچنے
ہوتے مگر تہائی والے (99)

فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ
أَبْلَغْتُمْ رِسَالَتِي رِئَاسَةً وَأَنْصَحْتُ لَكُمْ
فَأَكْفَيْتُمْ أَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٩٣﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا
أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْأَسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
لَعَلَّهُمْ يَضُرَّوْنَ ﴿٩٤﴾

ثُمَّ بَدَّلْنَا لِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
حَسَنًا عَفْوًَا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا
الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩٥﴾

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ
الْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ
بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

أَفَلَا يَمُنُّ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ
بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٩٧﴾
أَوَلَمْ يَأْمُرْ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ
بَأْسُنَا نَهَارًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ
اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾

SECTION 13

100. Does it not guide those who inherited the earth from its (earlier) people, that had We (Allah) willed, We (Allah) would have sent calamity on them for their sins and put a seal upon their hearts that they may not hear anything.

101. Such are the towns the news of which We (Allah) relate to you. And surely, there came to them their Rasools (Messengers) with clear proofs, but they were not able to believe what they had earlier falsified. Thus Allah puts a seal upon the hearts of disbelievers.

102. And We (Allah) did not find most of them true to their promise and certainly, found most of them transgressors.

103. Then after them, We (Allah) sent Moosaa (Moses) towards Firawn (Pharaoh) and his chiefs with Our (Allah's) Verses, but they ignored them (Verses). See then how was the end of these mischief mongers.

104. And Moosaa (Moses) said, "O Firawn (Pharao)! I am a Rasool (Messenger) from the Rubb (Sustainer) of the universe;

105. so it is my duty not to ascribe anything to Allah except the truth. I have brought to you the clear signs from your Rubb (Sustainer) so send with me the children of Israael.

106. He said, "if you have brought forth any sign, then produce it if you are truthful."

107. Then Moosaa (Moses) cast down his rod which at

اور کیا وہ جو زمین کے مالکوں کے بعد اس کے وارث ہوئے، انہیں اتنی ہدایت نہ ملی کہ ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں پر آفت بھجائیں، اور ہم ان کے دلوں پر سر کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سنتے (100)

یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم تمہیں سناتے ہیں، اور جیسا ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے، تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ وہ اس پر ایمان لاتے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے، اللہ ہی جھاپ لگا رہتا ہے کافروں کے دلوں پر (101)

اور ان میں اکثر کو ہم نے قول کا سچا نہ پایا، اور ضرور ان میں اکثر کو بے حکم ہی پایا (102)

پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان نشانیوں پر زیادتی کی، تو دیکھو! کیسا انجام ہوا مفسدوں کا؟ (103)

اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون! میں پروردگار عالم کا رسول ہوں (104)

مجھے سزاوار ہے کہ اللہ پر نہ کون مگر جی بات، میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے (105)

بولاً، اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ! اگر سچ ہو (106)

تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، وہ فوراً ایک

اور ہم ہدایت والوں پر کون الارضی
ومن بعد اهلها ان لو نشاء
اصبنم بذنوبهم ونطمع على
قلوبهم فمهل لا سمعون ﴿۱۰۰﴾

تلك القرى نقص عليك من
انباءها وقد جاءتهم رسلهم
بالبينات فما كانوا اليؤمنوا بما
كذبوا من قبل كذلك نطمع الله
على قلوب الكافرين ﴿۱۰۱﴾

وما وجدنا الا اكثرهم من عبدا
وإن وجدنا ناكثهم ففسقین ﴿۱۰۲﴾

ثم بعثنا من بعدهم موسىٰ بايتنا
الى فرعون وملآيه فظلموا بها
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ﴿۱۰۳﴾
وقال موسىٰ لفرعون انا رسول
من رب العالمين ﴿۱۰۴﴾

حقيق على ان لا اقول على الله
الا الحق قد جئتكم ببينات من
ربكم فارسل معي بني اسرائيل ﴿۱۰۵﴾

قال ان كنت جئت باية فارت
بها ان كنت من الصادقين ﴿۱۰۶﴾
فلقى عصاه فذا هي ثعبان

once became clearly visible serpent.

108. And he drew out his hand (from his armpit). It began to shine before the observers.

SECTION 14

109. The chiefs of the people of Firawn (Pharaoh) said, "you are indeed a magician full of knowledge."

110. He (Moses) wishes to expel you out from your land. What is your advice in it?

111. They said, "put him and his brother off for a while and send into the cities callers

to collect the people;

112. that they may bring to you every magician full of knowledge (to counter Moses).

113. And the magicians came to Firawn (Pharaoh) and said, "surely shall we get some remuneration if we are victorious?"

114. He (Pharaoh) said, "yes and then you shall become favourites (to me)".

115. They said, "O Moosaa (Moses), will you throw (serpent rod) first or should we be the (first) casters?"

116. He (Moses) said, "you throw" (first). When they threw (serpent strings) they put the people's eyes in a spell and frightened them and brought forth a great magic.

117. And We (Allah) revealed to Moosaa (Moses), throw your rod, then suddenly it began to swallow that they forged.

118. So the truth succeeded and what they did became false.

119. Then they were defeated and they turned about disgraced.

اُثْرًا ظَاهِرًا كَمَا (107)

اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جھگگنے لگا (108)

قوم فرعون کے سردار بولے! یہ تو ایک علم والا جاادوگر ہے (109)

تمہیں تمہارے ملک سے نکالا جاتا ہے، تو تمہارا کیا مشورہ ہے (110)

بولے! انہیں اور ان کے بھائی کو ٹھہرا اور شہروں میں لوگ جمع کرنے والے بھیج دے (111)

کہ ہر علم والے جاادوگر کو تیرے پاس لے آئیں (112)

اور جاادوگر فرعون کے پاس آئے، بولے! کچھ ہمیں انعام لے گا اگر ہم غالب آئیں (113)

بولے ہاں! اور اس وقت تم مقرب ہو جاؤ گے (114)

بولے! اے موسیٰ! یا تو آپ ڈالیں یا ہم ڈالنے والے ہوں (115)

کہا، تمہیں ڈالو! جب انہوں نے ڈالا لوگوں کی نگاہوں پر جاادوگر دیا اور انہیں ڈرا دیا اور بڑا جاادو لائے (116)

اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ اپنا عصا ڈال! تو ناگہ (جھاگ) ان کی بناؤں کو نلکے لگا (117)

تو حق ثابت ہوا اور ان کا کام باطل ہوا (118)

تو یہاں وہ مغلوب پڑے اور ذلیل ہو کر نلکے (119)

قَبِيلٍ ۝۱۸

وَنُرِيكَ يَدَهُ فَادَاهِيَ بِيَمِينِهِ ۝۱۹
بِالنَّظِيرِينَ ۝۲۰

قَالَ الْمَلَأَمِنْ تَوْفِرُوعُونَ إِنَّ هَذَا

لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ۝۱۰۹

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكَ مِنْ أَرْضِكَ

فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۝۱۱۰

قَالُوا الرَّجْهَ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي

الْمَدَائِنِ حَشِيرِينَ ۝۱۱۱

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيمٍ ۝۱۱۲

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ

لَنَا الضَّرَّانَ كَمَا مَنَّ الْغَالِبِينَ ۝۱۱۳

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝۱۱۴

قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ

نَنبُتَ نَحْنُ الْمُطْلَقِينَ ۝۱۱۵

قَالَ الْقَوْمُ فَلَمَّا الْقَوْمُ اسْحَرُوا وَاعْيَنَ

النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا

بِسِحْرِ عَظِيمٍ ۝۱۱۶

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ

فَأَذَاهِيَ تَلْقَفَ مَا يَأْكُلُونَ ۝۱۱۷

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ۝۱۱۸

فَغَلَبُوا هَذَاكَ وَأَنْقَلَبُوا

ضَعِيرِينَ ۝۱۱۹

120. And all the magicians fell down in prostration (to Allah).

121. They said, "we believe in the Rubb (Sustainer) of the universe."

122. Who is the Rubb (Sustainer) of Moosaa (Moses) and Haroon (Aron).

123. Firawn (Pharaoh) said, "you have believed in him before I gave you permission. This is surely a big plot which you all have devised in the city that you may expel its people therefrom. But you shall know its consequences".

124. "Surely I (Firawn) shall cut off your hands and your feet from alternate side.

Then I shall crucify you all".

125. They said, "we are surely to return towards our Rubb (Sustainer)".

126. "And what looks you bad in us that we have believed in the Verses of our Rubb (Sustainer) as bestowed upon us. O our Rubb (Sustainer) fill us with patience and cause us to die as Muslims.

SECTION 15

127. And the chiefs of the nation of Firawn (Pharaoh) said, "do you leave Moosaa (Moses) and his nation to cause disorder in the land and reject you and whom (idols) you worship"? He (Pharaoh) said, "henceforth we shall kill their males (sons) but keep alive their females, and surely we (Pharaoh) are fully powerful over them.

128. Moosaa (Moses) said to his nation, "seek the help of Allah and remain patient. Surely to Allah belongs the earth. He makes its heirs

اور جاوے کر سجدے میں گرا دیئے گئے (120)

بولے! ہم ایمان لائے جہاں کے رب پر (121)

جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا (122)

فرعون بولا: تم اس پر ایمان لے آئے قتل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں یہ تو بڑا جمل ہے جو تم سب نے شرمیں پھیلایا ہے، کہ شکر والوں کو اس سے نکال دو، تو اب جان جاؤ گے (123)

تم ہے! کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا پھر تم سب کو سولی دوں گا (124)

بولے! ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں (125)

اور تجھے ہمارا کیا برا لگا! یہی نہ کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے، جب وہ

ہمارے پاس آئیں، اے رب ہمارے! ہم پر صبرائیل دے، اور ہمیں مسلمان اٹھا

(126)

اور قوم فرعون کے سردار بولے! کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑتا

ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، اور موسیٰ تجھے اور تیرے ٹھہرائے ہوئے

معبودوں کو چھوڑ دے، بولا: اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، اور ان کی

بیٹیاں زندہ رکھیں گے، اور ہم بیٹک ان پر غالب ہیں (127)

موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا: اللہ کی مدد چاہو اور صبر کرو! بیٹک زمین کا مالک اللہ ہے، اپنے بندوں میں جسے چاہے دلرث

وَأَلْقَى السَّحَابَ سَحَابًا مِّن سَحَابٍ
قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢١﴾

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿٢٢﴾

قَالَ فِرْعَوْنُ إِنَّمَا أَنتم بِيهِ قَبْلَ أَنْ أَدْنٰ
لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَكُرْمٌ مِّن مَّوَدِّى
الْمَدِينَةِ لَتُفَضَّرْنَ بِهَا كَأَهلَهَا
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣﴾

لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَنْجُلكُمْ قُرْ
خُلَايَ ثُمَّ لَأَوْسِبَنَّكُمْ أَصْحَابُونَ ﴿٢٤﴾

قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٢٥﴾
وَمَا نُنْفِىءُ مَنَّا إِلَّا أَنْ أَمْثَالَ يَأْتِ رَبَّنَا
لِنُجَاةٍ نُنَارِئُ رَبَّنَا أَفَرَأَوْ عَلَيْنَا صَبْرًا
يَوْمَ نُوَفِّىئُكَ مَسْلُومِينَ ﴿٢٦﴾

وَقَالَ الْمَلَأِينَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّخَذَ
مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِى الْأَرْضِ
وَيَذَرُوكَ وَالْبَنَاتَ كَالسَّكْوَاتِ
ابْنَاتَهُمْ وَلَسْتَخِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا
نُوفِّئُهُمْ قِهْرُونَ ﴿٢٧﴾

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ
وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا

whom He will from amongst his devotees. And the best end is for the pious.

129. They said, "we were oppressed before you were deputed to us and since your arrival to us." He said, "shortly your Rubb (Sustainer) may destroy your enemy and make you the successors of the land to see your deeds."

SECTION 16

130. And surely I held the people of Firawn (Pharaoh) with years of calamity and scarcity of fruits, that they may accept the advice.

131. But when affluence came to them they used to say, "this is due to our own efforts". And when their evil deeds gave them loss they considered it as a bad omen

due to Moosaa (Moses) and his followers. Take it granted, their ill fate is with Allah only, but most of them did not have the knowledge.

132. And they said, "whatever type of a sign you may bring to us to spell us, we are not at all to believe you".

133. So We (Allah) loosened upon them the flood, and the locusts and the lice and the frogs and the blood as clear signs but they became boastful as they were the criminal nation.

134. And then the plague was administered to them, they said, "O Moosaa (Moses) pray for us to your Rubb (Sustainer) because He has given an undertaking to you. Surely, if you remove from us this punishment, we would definitely believe in you and

بنائے اور آخر میدان پر بیزارگروں کے ہاتھ ہے (128)

بولے! ہم ستائے گئے آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد، کہا، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے، اور اس کی جگہ زمین کا مالک تمہیں بنائے، پھر دیکھے! کیسے کام لرتے ہو؟ (129)

اور بیٹک ہم نے فرعون والوں کو برسوں کے قحط اور پھلوں کے گھٹانے سے پکڑا کر کہیں وہ نصیحت مانیں (130)

تو جب انہیں بھلائی ملنی کہتے، یہ ہمارے لیے ہے، اور جب برائی پہنچتی، تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں سے بدگھلنی لیتے، سن لو! ان کے نصیب کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے، لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں (131)

اور بولے! تم کیسی بھی نشانی لے کر ہمارے پاس آؤ، کہ ہم پر اس سے جاو کر وہ کسی طرح تم پر ایمان لانے والے نہیں (132)

تو سمجھا ہم نے ان پر طوفان اور مڈھی اور کھن (یا کبکھن یا جوکھن) اور مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا، اور وہ مجرم قوم تھی (133)

اور جب ان پر عذاب پڑا، کہتے، اے موسیٰ! ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بیٹک اگر تم ہم پر عذاب اٹھا دو گے، تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے، اور نبی

مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادَةٍ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٩﴾

قَالُوا أَوِذْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ

أَنْ يُهْلِكَ عَذَابُكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٣٠﴾

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِنَ الشُّمُورِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣١﴾

فَإِذْ جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ الْأَلْبَابُ أَظْهَرَهُمْ

عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾

وَقَالُوا هَمَّهُمْ تَأْتِيَابِهِمْ مِنْ آيَةٍ تَسْحَرْنَ بِهَا إِنَّمَا أَنْحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٣﴾

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادَ وَالِدَّمَارَ أَيُّ مَفْضَلَةٍ قَسَمْتَ لَنَا لَوْ كَانُوا اقْوَامًا فَخِرِينَ ﴿١٣٤﴾

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي

will allow you to take with you the children of Israael."

135. But when We (Allah) removed their plague for a term to which they were to reach, just they broke it.

136. Therefore, We (Allah) took them to retribution and drowned them in the river, because they falsified Our (Allah's) Verses and were careless to the same.

137. And We (Allah) made the nation, who were already oppressed, heirs of the east and the west parts of that land in which We (Allah) blessed them best. And the (heavenly) promise of your Rubb (Sustainer) was fulfilled for the children of Israael, as a reward of their patience. And I destroyed whatever Firawn (Pharaoh) and his nation made and what they had been building.

(ONE FOURTH OF PART NINE ENDS)

138. And We (Allah) brought the children of Israael across the river. Then they became a nation sitting devotedly before their idols. They said, "O Moosaa (Moses), make for us a god for worship just as they have so many gods. He said, "surely you are an ignorant people."

139. Surely conditions, in which they fell were wrong and whatever they did was to be fully vanished.

140. He (Moses) said, "should I seek for you a god (for worship) except Allah, whereas He has given preference to you throughout the universe.

141. And remember, he got you freed from the people of Firawn (Pharaoh), who

اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے
(134)

پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے، ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے جیسی وہ پھر جاتے (135)

تو ہم نے ان سے بلا لیا، تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے، اور ان سے بے خبر تھے (136)

اور ہم نے اس قوم کو جو وہابی مگنی تھی اس زمین کے پورب بچیم (شرق و مغرب) کا وارث کیا، جس میں ہم نے برکت رکھی، اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا، بلا ان کے مہربا، اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کی قوم بنائی اور جو چٹائیاں اٹھاتے تھے (137)

اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار اتارا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ اپنے بچوں کے آگے آسن (جم کر بیٹھے) مارے، تھے! بولے اے موسیٰ! ہمیں ایک خدا بنا دے، جیسا ان کے لیے اتنے خدا ہیں، بولا: تم ضرور جاہل لوگ ہو (138)

یہ حال تو بربادی کا ہے جس میں یہ لوگ اور جو کچھ کر رہے ہیں نرا باطل ہے (139)

کہا، کیا اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی خدا تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں تمہیں زمانے بھر پر فضیلت دی (140)

اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تمہیں مہری مار

إِسْرَاءَ يٰلَٓٔ

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجَالَ إِلَىٰ أَحْمَلٍ
هُمْ بِلِقَاؤِهِ إِذَا هُمْ يَنْكَبُونَ ﴿١٣٥﴾
فَأَنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ
بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا
غَافِلِينَ ﴿١٣٦﴾

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا
يَسْتَضَعِفُونَ مِشَارِقَ الْأَرْضِ وَ
مَغَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ
كَلِمَاتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي
إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا
كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا
كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧﴾

وَجَوْرًا بِبَنِي إِسْرَاءَ يٰلَٓٔ
فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَبْقُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ
لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا
لَهُمْ آلِهَةٌ قَالِ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَبْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَمُتَّبِعَاتُهُمْ فِيهِ وَيَطِلُّ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾
قَالَ أَعْبُدُوا اللَّهَ الَّذِي بَرَكْنَا لَكُمْ الْهَاءَ وَهُوَ
فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٤٠﴾

وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ

instruction and details of everything and said, "O Moosaa (Moses), observe these with steadfastness and advise your nation to follow what is best in them. Soon I shall show you the house of the transgressors."

146. "And I shall soon take away My Verses from those who become arrogant in the earth unjustly. And even if they see all the Verses, they will not believe therein and if they see the path of guidance, they would not like to take its way; and if they see the way full of wrongness they will get ready to adopt it. This is so because they falsified Our (Allah's) Verses and kept themselves heedless from the same.

147. And as to those who falsify Our (Allah's) Verses, and the meeting of the hereafter, their all deeds will be wasted. What they will get in reward except what they used to do.

SECTION 18

148. And after the absence of Moosaa (Moses) his nation made a calf out of their ornaments, a lifeless body, producing a (low) sound (of cow). Did they not see that neither it talked to them nor guided them to any way? They took it (for worship) and they were the cruels.

149. And when they repented and understood that they had gone on the wrong way they said, "if our Rubb (Sustainer, does not take mercy upon us and does not forgive us then we will be ruined."

دی ہر چیز کی صیحت اور ہر چیز کی تصحیل اور فرمایا: اے موسیٰ! اسے مضبوطی سے لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کی اچھی باتیں اختیار کریں، مغتریب میں ہمیں دکھاؤں گا بے شکوں کا گھر (145)

اور میں اپنی آفتوں سے انہیں پھیروں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں

اور اگر سب نشانیاں دیکھی، ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر ہدایت کی راہ دیکھیں، اس میں چلنا پسند نہ کریں، اور گمراہی کا راستہ نظر پڑے تو اس میں چلنے کو موجود ہو جائیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، اور ان سے بے خبر بنے (146)

اور جنہوں نے ہماری آیتیں اور آخرت کے دربار کو جھٹلایا، ان کا سب کیا دھرا اکارت (ضائع) گیا، انہیں کیا بدلا ملے گا مگر وہی جو کرتے تھے (147)

اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک چھڑا بنا بیٹھی بیان کا دھڑ گانے کی طرح آواز کرتا، کیا نہ دیکھا کہ وہ ان سے نہ بات کرتا ہے، اور نہ انہیں کچھ راہ بتائے، اسے لیا اور وہ ظالم تھے (148)

اور جب بچتائے اور سمجھے کہ ہم نیسکے ہوئے، اگر ہمارا رب ہم پر مہر (رحمی) نہ کرے، اور ہمیں نہ بخشے تو ہم تباہ ہوئے (149)

شَيْءٍ مَّوعُظَةٍ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخَذَهَا يَاقُوذًا وَأَمَرَ مُوسَىٰ أَنْ يَأْخُذَ بِالْبَاصِنِ مَّا سَأَوْرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٤٥﴾

سَاهِرُونَ عَنِ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْعَذَابِ يُجَادُوا سَبِيلًا فَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٤٦﴾

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاللَّيْلَةَ الْجَزَّةَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ مِنَ الْأَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٧﴾

وَأَخَذَ قَوْمٌ مِّنْ مَّوْصَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا آلَهُ خَوَّارًا أَلَمٌ يَرَوْنَ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يُجِيبُهُمْ سَبِيلًا فَخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿١٤٨﴾

وَلَمَّا سَقَطْنَا مِنْ آيَاتِنَا وَمَرَّوْنَا نَهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَيْن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٤٩﴾

150. And when Moosaa (Moses) returned to his nation full of anger, and sorrowful, he said, "how badly you (Aron) acted in my place after me? Were you in a haste to detract from the Commands of your Rubb (Sustainer)? And threw down the Tables and began to pull his brother (Haroon) towards him catching hold his brother's beard. He said, "O son of my mother, surely the nation deemed me weak and were about to kill me. So do not make the enemies laugh over me and donot place me amongst the cruel people."

151. (He) submitted, "O my Rubb (Sustainer) forgive me and my brother, and cause us to enter Your Mercy and You are the most Merciful of the mercifuls.

SECTION 19

152. Surely, those who had already taken the calf for themselves (as worship idol) the wrath of their Rubb (Sustainer) and disgrace is to reach them in the life of this world. And thus We (Allah) retribute the forgers.

153. And those who committed evils and thereafter repented and accepted faith, then after that your Rubb (Sustainer) is Forgiving, Merciful.

154. And when the anger of Moosaa (Moses) cooled down he took up the Tables, and in their writings there is guidance and mercy for those who fear their Rubb (Sustainer).

155. And Moosaa (Moses) chose seventy men of his nation for Our (Allah's)

اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا غصہ میں بھرا جھنجھلیا ہوا، کہا، تم نے کیا بری میری جانشینی کی، میرے بعد کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی، اور تختیاں ڈال دیں، اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا، کہا، اے میرے ماں جانے! قوم نے مجھے کزور سمجھا، اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا، اور مجھے ظالموں میں نہ ملا (150)

عرض کی! اے میرے رب! مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے، اور ہمیں اپنی رحمت کے اندر لے لے، اور تو سب مر (میرانوں) والوں سے بڑھ کر مروالا (151)

بیکک وہ جو پھڑالے بیٹھے، مغرب انہیں ان کے رب کا غضب اور ذلت پہنچاتا ہے دنیا کی زندگی میں، اور ہم ایسا ہی بدلا دیتے ہیں بہتان بایوں (بانڈھنے والوں کو) (152)

اور جنہوں نے برائیاں کیں اور ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے، تو اس کے بعد تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے (153)

اور جب موسیٰ کا غصہ تھا، تختیاں اٹھا لیں اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت ہے، ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں (154)

اور موسیٰ نے اپنی قوم سے ستر مرد ہمارے

وَلَمَّا رَجِعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعْمَلْتُمْ أَمْرًا لَّيْسَ بِكُمُ وَالْقَىٰ ۚ الْأَعْوَابُ وَأَخِذُوا بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجْحَدُ بِإِيْمَانِهِ قَالَ ابْنُ أَمْرِئَانَ الْقَوْمِ اسْتَضَعِفُونِي وَكَادُوا يُقْتَلُونِي ۖ فَلَا تَسْمِعْتَنِي الْأَعْدَاءُ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٠﴾

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِإِخِي وَادْخُلْنَا بِكَ فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٥١﴾

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيِّئًا لَّهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْسِدِينَ ﴿١٥٢﴾

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَأَمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥٣﴾

وَلَمَّا سَأَلْتَعْنِ مُوسَىٰ الْغَضَبَ أَخَذَ الْأَعْوَابَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِأَرْبَابِهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٤﴾

وَاخْتَارُوا مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ

promised appointment. Then when earthquake overtook them, Moosaa (Moses) submitted, "O my Rubb (Sustainer)! had You wished, You would have destroyed them and me, before. Will You kill us for what our foolish ones have done? That is nothing but trial from You. You leave to go on wrong path whom You Will, and guide whom You Will. You are our Protector. You forgive us, and have mercy upon us, and You are the best of the forgivers".

156. "And prescribe for us in this world what is good and also in the hereafter. Surely we have to return to You". He (Allah) said, "I award My punishment to whom I Will, and My Mercy embraces every thing. Then soon I shall prescribe it for those who are pious with Allah and pay the Zakaat (compulsory due) and believe in our (Allah's) Verses".

157. Those who follow the unlettered Rasool (Messenger—the Holy Prophet Muhammad S.A.W.), whose name they will find written down in Tourait (Torah) and Injeel (Bible-Gospel). He (Muhammad) will bid them to do good and shall forbid them from doing evil, and shall make 'Halal' (lawful) for them 'Haram' (clean things and shall forbid for them (unclean) things, and shall remove from them their burden and neck shackles in which they were kept. Then those who believe in him (Muhammad S.A.W.) and honor him and help him and follow that Light which

لے وعدہ کے لیے ہے، پھر جب انہیں زلزلہ نے لیا۔ موسیٰ نے عرض کی! اے رب میرے! تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا! کیا تو ہمیں اس کام پر ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا؟ وہ نہیں مگر تیرا آزمانا، تو اسے برکائے نیسے چاہے، اور راہ دکھائے جسے چاہے، تو ہمارا موٹی ہے تو ہمیں بخش دے، اور ہم پر مہر (رحم) کر، اور تو سب سے بہتر بخشے والا ہے (155)

رَجُلًا لِّيُؤَمِّقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلِ وَرَأَىٰ أَنفُسِنَا بِمَا فَعَلَ الشَّقِيَاءُ وَمَا كَانَ مِنِّي إِلَّا فِتْنَتِكَ يُضِلُّ بِهِم مَّن تَشَاءُ وَ تَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَرَبُّنَا فَأَعِزِّنَا وَآمُرْهُمْ بِحَمَانَا أَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿١٥٦﴾

اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ اور آخرت میں، بیشک ہم تیری طرف رجوع لائے، فرمایا: میرا عذاب، میں جسے چاہوں دوں، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے، تو مغترب میں نصرتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں (156)

وہ جو غلامی کریں گے اس رسول ہے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی، جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں، وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور بُرائی سے منع فرمائے گا، اور چیزیں ان کے لیے طلال فرمائے گا، اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا، تو وہ جو اس پر ایمان لائیں، اور اس کی تعظیم کریں، اور اسے مدد دیں، اور اس نور کی پیروی کریں جو

وَكَتَبْنَا لِنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ وَأَنَّا هَدَيْنَاكَ الْبَيْتَ قَالَ عَدَاؤِي أَصِيبُ بِهِم مِّنْ أَمْرٍ وَأَرْحَمِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَلْتَهُمُ الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزُّكُوتَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٧﴾

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي أَنزَلَ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ مَن تَبِعُوا عِندَهُ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْعَزْوَةِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ التَّنَكُّرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْفَاحِشَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا التَّوْرَةَ الَّتِي أَنزَلَ

has been sent down with him, they will be the persons who attain success.

SECTION 20

158. Please declare, "O mankind I am Rasool (Messenger) to all of you from Allah to Whom belongs the kingdom of the heavens and of the earth. None is to be worshipped except Him. He gives life and causes death. Believe in Allah and His Ummi Rasool, (unlettered Messenger whom none taught reading or writing but Allah perfected him with all knowledges to convey His hidden Messages) who only believes in Allah and His Words. So follow him that you may be guided.

159. And amongst the nation of Moosaa (Moses) there was an Uummah (grand community) that guided others with truth and imparted justice.

160. And We (Allah) divided them in twelve tribes as various communities. And We (Allah) revealed to Moosaa (Moses), when his people asked him for water that strike with your rod on this rock. There gushed forth from it twelve springs. Every community recognized its drinking place. And We (Allah) caused the clouds to cast shade over them, and sent down Munna and Sulva upon them (ready made heavenly dishes of fast food). Eat of the clean things provided by Us (Allah). They

did not commit cruelty to Us (Allah) but they were cruel to their own selves.

161. (And remember) when it was said to them, "reside in

اس کے ساتھ اترا' وہی یا مراد ہوئے
(157)

تم فرماؤ! اے لوگو! میں تم سب کی طرف
اس اللہ کا رسول ہوں کہ آسمانوں اور
زمین کی بادشاہی اسی کو ہے، اس کے سوا
کوئی معبود نہیں، جلائے (زندہ کرے) اور
مارے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے
رسول پر بڑھے غیب جاننے والے پر کہ!
اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں
اور ان کی غلامی کرو کہ، تم راہ پاؤ (158)

اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے کہ
حق کی راہ تاتا، اور اسی سے انصاف کرتا
(159)

اور ہم نے انہیں بانٹ دیا بارہ قبیلے گروہ
گروہ' اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ کو، جب
اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا کہ اس
چتر پر اپنا عصا مارو، تو اس میں سے بارہ
جسے پھوٹ نکلے، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ
پہچان لیا، اور ہم نے ان پر ابر (بارش)
ساتبان کیا اور ان پر من و سلوی اتارا،
کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزیں، اور
انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا، لیکن
اپنی ہی جانوں کا برا کرتے تھے (160)

بِ مَعْنَةٍ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۵۸﴾

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ
فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَرِيقِ
الَّذِي يَدْعُونَ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ ۚ وَ
اتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۵۹﴾

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٍ يَدْعُونَ
بِأَحْمَقَ وَيُبْهِدُونَ ﴿۱۶۰﴾

وَقَطَعْنَا لَهُمْ شِنَقَىٰ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا
أُمَمًا ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَمَ
قَوْمُهُ ۖ إِنِ اصْطُرِبَ بِعَصَاكَ الْجَبْرُ
فَأَنْبَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۚ
قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ قَشْرَهُمْ ۖ وَ
ظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْعَمَامَ ۚ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ
الْمَنَّٰنَ وَالسَّلٰوِي كُلَّوَمِنْ طَبِيبَتٍ
مَا رَزَقْتُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلٰكِن كَانُوا
أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۶۱﴾

اور یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا: اس شہر

this town and eat from it whatever you like, and say, "our sins may be removed". Then enter the gate, prostrating, We (Allah) shall forgive you your sins. Soon We (Allah) shall provide more to the righteous ones.

162. But the cruel ones of them changed the words contrary to that what was Commanded to them. Hence We (Allah) sent down upon them punishment from the sky of their such cruelties.

SECTION 21

163. And ask them the condition of the town that was on the seashore. When they crossed the limit in the matter of Sabbath, (Saturday prohibition) their fish came swimming on surface before them, and the day on which they did not keep the Sabbath, they did not come. Thus I tried them on account of their disobedience.

(ONE HALF OF PART NINE ENDS)

164. When a community among them said, "why do you admonish those whom Allah is to kill or to inflict them with a severe punishment," they said "this is an excuse before your Rubb (Sustainer) and may be that they may become pious".

165. When they neglected what they had been warned of We (Allah) saved those who prohibited others from the evil, and sized the cruel in an evil punishment because they were rebellious.

166. When they rebelled against the command of prohibition, We (Allah) said to them, "be you apes, the hared and driven away."

میں بسو اور اس میں جو چاہو کھاؤ اور کھو گناہ اتارے اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے عتریب کیوں کو زیادہ عطا فرمائیں گے (161)

تو ان میں کے خالوں نے بات بدل دی اس کے خلاف جس کا انہیں حکم تھا تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا بدلا ان کے ظلم کا (162)

اور ان سے حال پوچھو اس ہستی کا کہ دریا کے کنارے تھی جب وہ پھٹنے کے بارے میں مد سے بڑھے جب پھٹنے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تھرتی ان کے سامنے آئیں اور جو دن پھٹنے کا نہ ہوتا نہ آئیں اسی طرح ہم انہیں آزما تے تھے ان کی بے حکمی کے سبب (163)

اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو! اور شاید انہیں ڈر ہو (164)

پھر جب بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے بچا لے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے اور خالوں کو برے عذاب میں پکڑا بدلا ان کی نافرمانی کا (165)

پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندرہ مکارے ہوئے (166)

وَكُلُوا مِنَّا حَيْثُ شِئْتُمْ وَ قُولُوا حِطَّةً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦١﴾

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ جُرُودًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٦٢﴾

وَسَأَلْتَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً لَكُمُ الْأَمْرَ إِذْ يَعْدُونَ فِي النَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِثَابُهَا يُؤْمَرُ سَبْعَ مَرَّاتٍ سَرْعًا وَإِوْمَرُ اللَّائِي يَتَوَنَّنُونَ لَأَتَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ بِنُورٍ هُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَدِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَبْنَا الَّذِينَ يَنْبَغُونَ عَنِ السَّوْءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابِ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٦٦﴾

167. And behold when your Rubb (Sustainer) proclaimed that necessarily till the Day of Resurrection I would appoint on them such ones who would make them taste evil punishment. Surely, your Rubb (Sustainer) is swift in retribution, and surely, He is the most Forgiving, the most Merciful.

168. And We (Allah) left them to scatter into many groups in the earth, some of them are righteous, and some of them are otherwise, and We (Allah) tried them with good things and evil ones that perhaps they may return.

169. Then in their place after them came such degenerate successors who inherited the Book. They took the goods of this life and said, "now we shall be forgiven our sins. But if more fortunes like that came to them, they would have taken them. Was not the promise taken from them in the Book that they should say nothing concerning Allah except the truth, and they have studied what is therein. And surely, the last house is better for those who are pious. Have you then no sense?

170. And those who strictly observe the Book and are steadfast in their -Salaat (Muslim Prayer) then surely We (Allah) donot waste the reward of such righteous ones.

171. And when We (Allah) suspended the mountain over them as canopy and they feared that it was going to fall upon them. We (Allah) said, "Hold fast what We (Allah) have given to you and

اور جب تمہارے رب نے حکم دیا کہ ضرور قیامت کے دن تک ان پر ایسے کو بھیجتا رہوں گا جو انہیں بری مار پھکائے بیٹک تمہارا رب ضرور جلد عذاب والا ہے، بیٹک وہ بخشنے والا مہربان ہے (167)

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۶۷﴾

اور انہیں ہم نے زمین میں متفرق کر دیا گروہ گروہ، ان میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اور طرح کے، اور ہم نے انہیں بھلائیوں اور برائیوں سے آزمایا، کہ کہیں وہ رجوع لائیں (168)

پھر ان کی جگہ ان کے بعد وہ ناخلف آئے کہ کتاب کے وارث ہوئے، اس دنیا کا مال لیتے ہیں، اور کہتے، اب ہماری بخشش ہو گی، اور اگر دوسرا ہی مال ان کے پاس اور آئے، تو لے لیں، کیا ان پر کتاب میں عہد نہ لیا گیا کہ اللہ کی طرف نسبت نہ کریں مگر حق، اور انہوں نے اسے پڑھا، اور بیٹک بچھلا گھر بستر ہے پر بیٹک گاروں کو، تو کیا تمہیں عقل نہیں (169)

وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمْ الضَّالُّونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْأَسْخَابِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۱۶۸﴾

تَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلَ ذَلِكَ فَهُمْ يُؤْخَذُونَ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالِدَارَ الْأُخْرَى خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۶۹﴾

اور وہ جو کتاب کو مضبوط تھامتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم رکھی، ہم نیکوں کا نیک (بدلہ) نہیں گنواتے (170)

وَالَّذِينَ يَمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُتَصَلِّينَ ﴿۱۷۰﴾

اور جب ہم نے پہاڑ ان پر اٹھایا، گویا وہ سائبان ہے، اور سمجھے کہ وہ ان پر گر پڑے گا، لہذا جو ہم نے تمہیں دیا زور سے، اور یاد کرو جو اس میں ہے، کہ کہیں تم

وَإِذْ نَسَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ

remember what is therein, that perhaps you may become pious.

SECTION 22

172. And (O beloved Prophet!) remember, when your Rubb (Sustainer) brings forth from the backs of Adam's children their generations, and will make them witnesses against their own selves saying, "am I not your Rubb (Sustainer)?" All will say, "why not, we all bear witness". This is lest you should say on the Day of Resurrection that we were not aware of it.

173. Or lest you may say, "paganism was committed by our forefathers before, and we were their children. Will You then destroy descendants for what was committed by the false forefathers.

174. And thus We (Allah) explain Our (Allah's) Verses in details so that they may return to right path.

175. And (O beloved Prophet) relate to them the story of the person to whom We (Allah) gave Our (Allah's) Verses; Then how he turned away from them; Then satan (devil) mislead him and he became one of those who go on the wrong way.

176. And if We (Allah) had Willed, We (Allah) would have exalted him on account of Our (Allah's) Verses but he stuck to the earth and followed his lusts. His condition is like a dog, that you attack him but it brings its tongue out and if (you) leave him he again will bring his tongue out. This is the condition of those who do not heed Our (Allah's) Verses,

پر ہیتر گزار ہو (171)

﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

اور اے محبوب! یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی، اور انہیں خود ان پر گواہ کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب بولے، کیوں نہیں! ہم گواہ ہونے کے کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی (172)

وَاذْخُرْذَلِكْ مِنْ بَنِي آدَمَ مَنْ
ظَهَرُوا مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ وَأَشْفَدَهُمْ
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُوا
لَوْلَا بَلَىٰ شَهِدْنَا إِنَّ تَقْوَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

یا کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا، اور ہم ان کے بعد سچے ہوئے، تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا (173)

اور ہم اسی طرح آیتیں رنگ رنگ سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کہ کہیں وہ پھر آئیں (174)

اور اے محبوب! انہیں ان کا احوال سناؤ! جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں، تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا، تو گمراہوں میں ہو گیا (175)

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ
قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ
أَفْتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُجْتَورُونَ ﴿١٧٣﴾

وَكَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿١٧٤﴾

وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا
فَأَسْلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ
مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿١٧٥﴾

اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے مگر وہ تو زمین پکڑ گیا، اور اپنی خواہش کا تابع ہوا، تو اس کا حال کتنی کی طرح ہے، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے، اور چھوڑ دے تو زبان نکالے، یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی، تو

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ
إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ
كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحَمَّلَ عَلَيْهِ
يَلْهَثَ أَوْ تَرَكَهٗ يُلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ
الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصِصْ

So you relate them this story that they may ponder.

177. What a bad example is of those who falsify Our (Allah's) Verses, and thus they wrong their own selves.

178. Whom Allah guides, he is on the right path, and whom Allah leaves to go on the wrong way they remain in loss.

179. Certainly, many jinns and men whom We (Allah) created will go to the hell. They have hearts but they do not understand therewith and they have eyes but they do not see therewith and they have ears but they do not hear therewith. They are like cattle, even they are more misguided. They are indeed very careless.

180. And Allah has the best Names. So call Him by them, and leave alone those who go out from truth with regard to His Names. They will soon get (punish for) what they did.

181. And to those whom We (Allah) have created guide people with truth and do the justice according to it.

SECTION 23

182. And those who falsify Our (Allah's) Verses, We (Allah) lead them step by step towards punishment about which they will have no knowledge.

183. And We (Allah) shall let them get respite. Surely My plan is definite.

184. Do not they ponder that their companion has not at all an unsound mind. He (Muhammad S.A.W.) is only a plain warner.

185. Why do they do not consider the kingdom of the

تم نصیحت سناؤ، کہ کس نے وہ دھیان کریں (176)

کیا بڑی کماوت ہے ان کی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور اپنی ہی جان کا برا کرتے تھے (177)

جسے اللہ راہ دکھائے تو وہی راہ پر ہے اور جسے گمراہ کرے تو وہی نقصان میں رہے (178)

اور بیچک ہم نے جنم کے لیے پیدا کیے بت جن اور آدمی وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں اور وہ آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں اور وہ کان جن سے سنتے نہیں وہ چڑیاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ وہی غفلت میں پڑے ہیں (179)

اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام تو اسے ان سے پکارو اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلے ہیں، وہ جلد اپنا کیا پائیں گے (180)

اور ہمارے بنائے ہوؤں میں ایک گروہ وہ ہے کہ حق بتائیں اور اس پر انصاف کریں (181)

اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں جلد ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے، جہاں سے انہیں خبر نہ ہو گی (182)

اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بیچک میری خفیہ تدبیر بہت ہی ہے (183)

کیا سوچتے نہیں کہ ان کے صاحب کو جنوں سے کچھ علاقہ نہیں، وہ تو صاف ڈر سنانے والے ہیں (184)

کیا انہوں نے نگاہ نہ کی آسمانوں اور زمین

الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾
سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٧٧﴾

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَمَيِّدِي وَمَنْ
يُضِلِّ فَمَا لَمَيِّدِي هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿١٧٨﴾
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ
وَالِإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ

بِمَا أُولِيَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِمَا
وَلِيَهُمْ أَادَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِمَا أُولِيَهُمْ
كَأَلْأَعْمٰرِ بَلْ هُمْ آصْلٌ أُولِيَهُمْ
هُمُ الْغٰفِلُونَ ﴿١٧٩﴾

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوهُ
بِهَا وَذُرُوا الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ فِي
أَسْمَائِهِ سَبِيحًا مَّا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ
بِالْحَقِّ وَإِلَيْهِ يُعْذَبُونَ ﴿١٨١﴾

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ
مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾

وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١٨٣﴾

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ
جَنَّةٍ إِن هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مِّمَّنْ
أَوَّلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ

heavens and the earth and whatever things Allah has created. That may be due to their term may have drawn near. Then in what type of other revelation they will believe thereafter?

186. Whom Allah leaves to go on the wrong way, none can guide him (or her), and He leaves them in their excesses wandering blindly.

187. They ask you (Muhammad S.A.W.) concerning the Hour (Last Day) that when it shall arrive? Please declare, "the knowledge of it is only with my Rubb (Sustainer). He alone will disclose it at its proper time. It will be instantly heavy on the heavens and earth. It shall not come upon you but of a sudden". They ask you, as if you are already well informed about it. Please declare, "its knowledge is only with Allah, but most people do not know."

188. Please declare; "I donot control any profit or loss for my own self, but what Allah may Will. And if I would have known the unseen, then I would have gathered ample good, and no mishap would have touched me. I am only a warner and a carrier of good news to the people who believe.

SECTION 24

189. It is He Who created you from a single self, and made there from spouse that man may find rest in woman. Then when man covers woman, she bears a light burden and moves about keeping it (conception). Then when she grows heavy, both

کی سلطنت میں 'اور جو چیز اللہ نے بنائی' اور یہ کہ شاید ان کا وعدہ نزدیک آگیا، ہو تو اس کے بعد اور کوئی بات پر یقین لائیں گے (185)

جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھائے والا نہیں' اور انہیں چھوڑنا ہے کہ اپنی سرکشی میں مبتلا کریں (186)

تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کو ٹھہری ہے؟ تم فرماؤ! اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا، ہماری پڑ رہی ہے آسمانوں اور زمین میں 'تم پر نہ آئے کی مگر اچانک' تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے، تم فرماؤ! اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے لیکن بہت لوگ جانتے نہیں (187)

تم فرماؤ! میں اپنی جان کے بدلے بڑے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا، تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی، اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچی، میں تو بھی ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں انہیں جو ایمان رکھتے ہیں (188)

وہی ہے جس نے ہمیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا کہ اس سے جین پائے، پھر جب مرد اس پر چھایا اسے ایک ہلکا سا بیٹہ رہ گیا، تو اسے لیے ہجرا کی، پھر جب بوجھل پڑی دونوں نے اپنے رب سے دعا کی، ضرور

وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۗ وَإِن عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ إِلَيْهِمْ لَيَالِي حَيَاتِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ يَوْمًا ۝۱۸۵

مَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُادَىٰ لَعْنَةُ يَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝۱۸۶

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِمُهَا قُلْ إِنَّمَا عَلَيْهَا بَعْدُ بِرَبِّي

لَا يُخَبِّرُهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ تَنقَلَّتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ

إِلَّا بَعَثَ لِمِثْلِ نَذْرِكُمْ كَأَنكَ حَقِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عَلَيْهَا بَعْدُ مِنَ اللَّهِ وَلَكِن

أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝۱۸۷

قُلْ لَا أَمْرُكَ لِنَفْسِي نَفَعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتَ عَالِمَ الْغَيْبِ

لَا سَأَلْتُكَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْتَأْتِي مِنَ السُّوءِ إِنِّي أَنَا الْآزِيدُ وَالْبُيُوتُ

بِأَعْيُنِنَا ۝۱۸۸

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا ذَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلٌ خَفِيٌّ فَتَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَ دَعَا اللَّهَ

دَعَا اللَّهَ

pray to their Rubb (Sustainer) if You give us a good child we shall be surely grateful".

190. But when He gives them a good child, they associate with Him partners, in respect of what He bestows them. But Allah is exalted about from what they equate with Him.

191. Do they aquate with Him those who make nothing and they are themselves created ones ?

192. And neither they have power to give any help to anyone, nor can they help themselves.

193. And if you call them towards guidance, they will not follow you. It is same to you whether you invite them or you remain silent.

194. Surely, those whom you worship besides Allah, are subjects like you. Therefore, call upon them and let them respond to you, if you are truthful.

195. Have they feet to walk with ? Or have they hands to hold with? Or have they eyes to see with? Or have they ears to hear with? Please declare, "call upon your associates and then try your tricks on me (Muhammad S.A.W.) and give me no time to escape.

196. Surely, my protector is Allah Who sent down the Book and He befriends the righteous.

197. And those whom you worship besides Him, cannot help you, nor they can help themselves.

198. And if you call them towards guidance, they Do not hear, and you see them

اگر تو ہمیں جیسا چاہیے بچہ دے گا تو
بیک ہم شکر گزار ہوں گے (189)

پھر جب اس نے انہیں جیسا چاہیے بچہ
عطا فرمایا انہوں نے اس کی عطا میں اس
کے ساتھی (شریک) ٹھہرائے، تو اللہ کو
برتری ہے ان کے شرک سے (190)

کیا اسے شریک کرتے ہیں جو کچھ نہ
بنائے اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں (191)

اور نہ وہ ان کو کوئی مدد پہنچا سکیں، اور نہ
اپنی جانوں کی مدد کریں (192)

اور اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ، تو
تمہارے پیچھے نہ آئیں، تم پر ایک سا بے
چاہے انہیں پکارو یا چپ رہو (193)

بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے
ہو، تمہاری طرح بندے ہیں تو انہیں پکارو
پھر وہ تمہیں جواب دیں، اگر تم سچے ہو
(194)

کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں یا ان
کے ہاتھ ہیں جن سے گرفت کریں یا ان
کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں یا ان کے
کان ہیں جن سے سنیں تم فرماؤ! کہ اپنے
شریکوں کو پکارو، اور مجھ پر داؤں چلو، اور
مجھے سہلت نہ دو (195)

بیک میرا ولی اللہ ہے جس نے کتاب
اتاری، اور وہ تیکوں کو دوست رکھتا ہے
(196)

اور جنہیں اس کے سوا پوجتے ہو وہ
تمہاری مدد نہیں کر سکتے، اور نہ خود اپنی
مدد کریں (197)

اور اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ، تو نہ
سنیں اور تو انہیں دیکھے کہ وہ ہماری طرف

رَبِّهِمَا إِلَيْنَا أَسْتَأْذِنُ لَوْلَا
مِنَ الشُّكْرِيِّينَ ﴿١٨٩﴾

فَلَمَّا آتَيْنَاهُمْ أَصْحَابًا جَعَلُوا لَهُ شُرَكَاءَ
فِي مَا آتَيْنَاهُمْ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا
يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾

أَيُشْرِكُونَ مَا لَمْ يَخْلُقْ شَيْئًا وَهُمْ
يَخْلُقُونَ ﴿١٩١﴾

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لِنَمِّ نَصْرًا وَلَا
أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٢﴾

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ
سِوَاءَ عَلَيْهِمْ أَدْعَاؤُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ
صَافِيُونَ ﴿١٩٣﴾

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا
لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٤﴾

أَلَمْ نَأْتِ بِكُم مِّن دُونِهَا أَمْ لَكُمْ
أَيْدٍ يَبِيْطُونَ بِهَا أَمْ لَكُمْ أَعْيُنٌ
يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَكُمْ أذانٌ
يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ
فَتَكْفُرُوا فَلَا تَنْظُرُونَ ﴿١٩٥﴾

إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ
وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿١٩٦﴾

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٧﴾

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا

looking at you, but they see nothing.

199. (O beloved Prophet)! adopt forgiveness and advise to do justice and turn away from the ignorants.

200. And if the Satan (devil) gives you any pricking, then seek refuge of Allah. Surely, it is He Who is Hearing, Knowing.

201. Surely, those who fear (Allah), when a temptation of satan (devil) affects them, they start (Allah's) remembrance at the time their eyes are opened rightly.

202. And their brethren (satans) drag them towards error, then they relax not.

203. And (O believer Prophet) when you do not bring to them any Verses, they say, "why have you not made it yourself?" Please declare, "I follow only what is revealed to me from my Rubb (Sustainer). This is an eye opener from you Rubb (Sustainer) and a guidance and mercy for the believers (Muslims).

204. And when the Qur'aan is recited, hear it patiently and be silent so that you may get mercy.

205. And remember, your Rubb (Sustainer) within yourself, humbly and fearfully and without loudness of speech in the morning and evening and be not among the neglectfulness.

206. Surely, those who are near your Rubb (Sustainer) do not become boastful of His

دیکھ رہے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں سوستا (198)

اے محبوب! معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو (199)

اور اے سننے والے! اگر شیطان تجھے کوئی کونچا (گمراہ کرے) دے تو اللہ کی پناہ مانگ، بیچک وہی سنتا جانتا ہے (200)

بیچک وہ جو ذر والے ہیں جب انہیں کسی شیطان خیال کی ٹھیس لگتی ہے، ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں (201)

اور وہ جو شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں، پھر کی نہیں کرتے (202)

اور اے محبوب! جب تم ان کے پاس کوئی آیت نہ لاؤ تو کہتے ہیں، تم نے دل سے کیوں نہ بنا لی، تم فرماؤ! میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب سے وحی ہوتی ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولتا ہے، اور ہدایت اور رحمت مسلمانوں کے لیے (203)

اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سناؤ اور خاموش رہو! کہ تم پر رحم ہو (204)

اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو زاری اور ڈر سے، اور بے آواز نکلے زبان سے صبح اور شام، اور ناکلوں میں نہ ہوتا (205)

بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور

يَسْمَعُوا وَأَعْيُنُهُمْ يَشْهَدُونَ أَلَيْسَ لَكَ
وَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ ﴿١٩٩﴾
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ
عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿٢٠٠﴾

وَأَعْيُنُهُمْ يَشْهَدُونَ أَلَيْسَ لَكَ
فَأَسْتَعِذُّ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠١﴾
إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الصُّمَّ طَيْفًا
مِّنَ الشَّيْطَانِ تَدْرِكُوا فِئَادَهُمْ
فَبَصُرُوا ﴿٢٠٢﴾

وَأَخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الضَّلَالَةِ
لَا يُقِصِرُونَ ﴿٢٠٣﴾

وَأَذِ لَمْ تَأْتِهِمْ بآيَةٍ قَالُوا أَلَمْ نَحْمِلْهَا
قَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ مَا يُوعَىٰ إِلَىٰ مِنْ رَبِّهِمْ
هَذَا صَاحِبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَ
رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٤﴾

وَأَذِ أَمْرِي الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ
أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٥﴾

وَأَذِ لَمْ تَأْتِهِمْ بآيَةٍ قَالُوا أَلَمْ نَحْمِلْهَا
قَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ مَا يُوعَىٰ إِلَىٰ مِنْ رَبِّهِمْ
هَذَا صَاحِبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَ
رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٤﴾

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الصُّمَّ طَيْفًا
مِّنَ الشَّيْطَانِ تَدْرِكُوا فِئَادَهُمْ
فَبَصُرُوا ﴿٢٠٢﴾

worship, but glorify Him and only to Him they prostrate. [A Muslim who recites this verse or listens its recitation should prostrate with forehead on the ground in ablution facing Ka'abal.

(THREE FOURTH OF PART NINE ENDS)

S. VIII

SURA-ANFALL

(THE SPOILS OF WAR)

Revealed at Madina

SECTION 1

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

1. (O beloved Prophet) they question you regarding the spoils of war. Please declare, "the spoils belong to Allah and Rasool (Allah's Messenger). So fear Allah and keep things right among yourselves. And obey Allah and His Rasool (Messenger), if you are believers.

2. Believers are only those whose hearts tremble when Allah's Name is mentioned, and when His Verses are recited to them. It increases their faith and they put their trust in their Rubb (Sustainer).

3. They establish the Salaat (Muslim Prayer) and spend something of what We (Allah) have provided them.

4. They are the true believers (Muslims). For them are exalted ranks with their Rubb (Sustainer) and forgiveness and the honorable provisions.

5. (O beloved Prophet)! your Rubb (Sustainer) brought you out safe from your house with truth (from Makkah) and surely even a group of believers (Muslims)

اس کی پاکی بولتے، اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں (206)

سورۃ انفال مدنی ہے (اور اس میں) بچتر آیتیں اور دس (10) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا

اے محبوب! تم سے غنیمتوں کو پوچھتے ہیں تم فرماؤ، غنیمتوں کے مالک اللہ و رسول ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس میں میں میل رکھو، اور اللہ اور رسول کا حکم مانو، اگر ایمان رکھتے ہو (1)

ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے، ان کے دل ڈر جائیں اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں، ان کا ایمان ترقی پائے، اور اپنے رب ہی پر بھروسا کریں (2)

وہ جو نماز قائم رکھیں اور ہمارے پیسے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں (3)

یہاں سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور بخشش ہے اور عزت کی روزی (4)

جس طرح اے محبوب! تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا، اور جنگ مسلمانوں کا ایک گروہ

عَنْ عِبَادَاتِهِ وَيَسْتَحُونَ وَكَلَهُ
رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ
لَا يُدْرِكُ الْبَصَرُ شَيْئًا مِنْ عِندِهِ
وَلَا يَحِيطُ بِشَيْءٍ مِنْ عِندِهِ
وَلَا يَسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ عِنْدَهُ
وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ عِندِهِ
وَلَا يَسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ عِنْدَهُ
وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ عِندِهِ

سُورَةُ الْاِنْفَالِ نَزَّلَتْ فِي رَجَبِ سَنَةِ ۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ
الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ فَاَتَقُوا اللّٰهَ
وَاَطِيعُوا اَوْامِرَ اللّٰهِ
وَاَطِيعُوا رَسُوْلَهُمْ
اِنَّكُمْ لَعِنْدَ اللّٰهِ
لَمُقْتَدِرُونَ

اِنَّهَا لِلّٰهِ الْمُوْمِنُوْنَ
الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ
وَجِلَّتْ لُؤْلُؤُهُمْ
وَإِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمْ
آيٰتِنَا زَادَتْ فِيْهِمْ
اِيْمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ

الَّذِيْنَ يَقِيْمُونَ الصَّلٰوةَ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

اُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ
حَقًّا لَهُمْ دَرَجٰتٌ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ

كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ
بِالْحَقِّ وَانْزَلْنَا مِنْ اَمَّا
الْمُوْمِنِيْنَ

was unhappy over it (Your emigration);

6. disputing with you concerning the truth, after it had become clear, as if they were being driven towards death with their eyes seeing it actually.

7. And remember, when Allah promised you that in both these parties, one group is yours, and you wished that you should have that one which has no weapons and Allah Willed that truth be proved by His Words and the roots of the disbelievers be cut off.

8. That He may establish the truth and abolish the falsehood, though the criminals may dislike it.

9. When you were calling up your Rubb (Sustainer), for help, He answered to you that I am going to help you with a thousand Angels, coming one after the other.

10. And Allah gave you this prophesy to please you that your hearts might be at rest. And there is no help but from Allah. Surely, Allah is Honorable, Wise.

SECTION 2

11. When He covered you with slumber, just as His security measure, and sent down water upon you from sky that He might make you cleaned therewith and remove from you the filth of the satan (devil) and might give courage to your hearts and thereby make your steps firm.

12. (O beloved Prophet) when your Rubb (Sustainer) was revealing to the Angels that, "I am with you, "you keep the believers (Muslims)

اس پر ناخوش تھا (5)

جی بات میں تم سے جھگڑتے تھے بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی، گویا وہ آنکھوں دیکھی موت کی طرف ہانگے جاتے ہیں (6)

اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لیے ہے اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھٹکا نہیں، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے جوج کو بچ کر دکھائے، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے (7) کہ جوج کو بچ کر دے اور جھوٹ کو جھوٹا پڑے برا مانیں مجرم (8)

جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں ہزار فرشتوں کی قطار سے (9)

اور یہ تو اللہ نے کیا مگر تمہاری خوشی کو اور اس لیے کہ تمہارے دل چین پائیں اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے، بیشک اللہ غالب حکمت والا ہے (10)

جب اس نے تمہیں اونگھ سے گھیر دیا تو اس کی طرف سے چین تھی، اور آسمان سے تم پر پانی اتارا، کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے، اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے، اور تمہارے دلوں کو دھاراس (تسلی) بندھائے، اور اس سے تمہارے قدم جمادے (11)

جب اے محبوب! تمہارا رب فرشتوں کو بھیجا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت رکھو! عنقریب

لَكُمْ هُونَ ۝
يُجَادِلُونَكَ فِي النَّسْرِ إِذْ مَا تَبَيَّنَ
كَانُوا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ
يَنْظُرُونَ ۝

وَإِذْ يُعِيدُكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ
أَنْهَأَ لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنْ عَدُوًّا رَأَتْ
الشُّوْكَةَ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ
يُخَيِّقَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيَقْطَعُ دَابِرَ
الْكَافِرِينَ ۝
لِيُخَيِّقَ النَّاسَ وَيُرِيْلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ

كُرْهُ الْمُجْرِمُونَ ۝
إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ
لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِئَةِ مِنَ الْمَلَكَةِ
مُرْسَلِينَ ۝

وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝
وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

إِذْ يُغِيثُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مِنْهُ
يُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
لِيُطَهِّرَ بِكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ
الشُّيْطَانِ وَيُرِيْلَ بَطْءَ قُلُوبِكُمْ وَ
يُثَبِّتُ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝

إِذْ يُخَيِّقُ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَكَةِ أَنِّي
مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْتُ

firm. I shall shortly cast terror in the hearts of the disbelievers. Therefore strike their necks and strike every finger tip of them.

13. This is because, they opposed Allah and His Rasool (Messenger) and whoso opposes Allah and His Rasool (Messenger) then surely, Allah is severe in punishment for such one.

14. That is so, taste it and know that for the disbelievers is the punishment of the fire.

15. O believers! when you encounter the army of disbelievers, turn not your backs to them.

16. And whoso will turn his back to them on that day, except as a war tactics or for the sake of joining self contingent, then he returns in the wrath of Allah and his abode is hell; and what an evil place that is to return to.

17. You did not kill them (disbelievers who thrust War of Badr) actually Allah got them killed (during the war). And (O beloved Prophet) the dust that you did throw, actually it was not thrown by you, but Allah threw it that He wanted to confer on the (Muslims) a better reward than it. Surely, Allah is Hearing, Knowing.

18. That (is what happened) and with it Allah weakens the plot of the disbelievers!

19. O disbelievers! if you demand judgement, then this judgement has indeed come to you. And if you desist, it is better for you; but if you repeat mischief, then We (Allah) shall again punish

میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈالوں گا، تو کافروں کی گردنوں سے اوپر مارو، اور ان کی ایک ایک پور پر ضرب لگاؤ (12)

یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے، تو بیشک اللہ کا عذاب سخت ہے (13)

یہ تو چھو! اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کافروں کو آگ کا عذاب ہے (14)

اے ایمان والو! جب کافروں کے لام (شکر) سے تمہارا مقابلہ ہو، تو انہیں پیٹھ نہ دو (15)

اور جو اس دن انہیں پیٹھ دے گا، مگر لڑائی کا ہنر کرنے، یا اپنی جماعت میں جا ملنے کو، تو وہ اللہ کے غضب میں پلٹا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا بری جگہ پلٹنے کی (16)

تو تم نے انہیں قتل نہ کیا، بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے محبوب! وہ خاک جو تم نے چھینکی تم نے نہ چھینکی تھی، بلکہ اللہ نے چھینکی، اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے، بیشک اللہ سنا جاتا ہے (17)

یہ تو! اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کافروں کا واڈسست کرنے والا ہے (18) اے کافرو! اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو یہ فیصلہ تم پر آ چکا، اور اگر باز آؤ! تو تمہارا بھلا ہے، اور اگر تم پھر شرارت کرو، تو ہم پھر سزا دیں گے، اور تمہارا جہنم (گردہ) تمہیں

فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١١﴾

ذٰلِكَ بِاَنْهُمْ شَاقُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ وَ مَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١٢﴾

ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاِنَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْدًا ﴿١٣﴾

يَآٰيَهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمْ الْكٰفِرِيْنَ كُفِّرُوْا سَحِيْحًا فَلَا تُوَلُّوْهُمْ الْاَدْبَارَ ﴿١٤﴾

وَمَنْ يُّوَلِّمْهُم يَوْمَ ذٰلِكَ لَمَّا لَقِيْتَالِمْ اَوْ مَتَّعُوْا اِلَيْهِ فِتْنَةً فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَا وَّاهُ جَهَنَّمَ ﴿١٥﴾

وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٦﴾ فَلَمْ يَكْتٰبُوْهُمْ وَّلٰكِن اللّٰهُ قَتَلَهُمْ وَّ مَا رَضِيْتَ اِذْ رَضِيْتَ وَّلٰكِن اللّٰهُ رَضِيَ وَّلِيْلِي الْمُوْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٧﴾

ذٰلِكُمْ وَاِنَّ اللّٰهَ مُرْسِلُ الْكَافِرِيْنَ اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَاِنْ تَنْتَهُبُوْا فَاِنَّهُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاِنْ تَعُوْذُوْا فَاِنَّكُمْ لَنْ تَخْفٰى عَنْكُمْ

you, and your party shall be of no help to you, however numerous it may be. Surely Allah is with the believers (Muslims).

SECTION 3

20. O believers! obey Allah and His Rasool (Messenger) and do not turn away from Him (Allah) after listening to him (the Messenger).

21. And do not be like those who say, "we hear," but they do not obey.

22. Surely, the worst of beasts in the Sight of Allah are those who are the deaf and the dumb, who have no sense.

23. And if Allah had known any good in them, He would have caused them to listen. And if He had made them to hear, even then in the end, they would have turned away, their faces.

24. O believers! respond to the Call of Allah and the Rasool (Allah's Messenger). When he calls you that will give you life; and know that Allah's Command stands between man and his heart and you are to be gathered towards Him.

25. And fear the calamity which will not fall exclusively upon only the cruel among you. And know that Allah is terrible in retribution.

26. And remember, when you were few appeared in the land, and were fearful that people will take you away, then He gave you shelter, and straightened you with His help, and provided you with clean things, that perhaps you might be thankful.

27. O believers! do not be dishonest with Allah and the

کچھ کام نہ دے گا' چاہے کتابی بہت ہو' اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے (19)

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو' اور سن کر اس سے نہ پھرو (20)

اور ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے کہا 'ہم نے سنا' اور وہ نہیں سنے (21)

بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو ہرے گھسٹے ہیں، جن کو عقل نہیں (22)

اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا' اور اگر سنا دیتا' جب بھی انجام کار تم پر پھیر کر پلٹ جاتے (23)

اے ایمان والو! اللہ اور رسول کے بلائے پر حاضر ہو' جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے گی' اور جان لو! کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دل ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے' اور یہ کہ تمہیں اس کی طرف اٹھانا ہے (24)

اور اس فتنہ سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں ہی کو نہ پہنچے گا' اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے (25)

اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے ملک میں رہے ہوئے' ڈرتے تھے' کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں' تو اس نے تمہیں جگہ دی' اور اپنی مدد سے زور دیا اور ستمی چیزیں تمہیں روزی دیں' کہ کہیں تم احسان مانو (26)

اے ایمان والو! اللہ اور رسول سے دغا نہ

فَتَاتَمَّ شَيْئًا وَلَوْ كُرِهَتْ وَأَنَّ اللَّهَ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا طَائِعِينَ ۝

وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عُنُقَهُمْ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ۝

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُرُ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يُعْقِلُونَ ۝
وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ
وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتِجَابًا لِلَّهِ
وَالرَّسُولِ إِذَ ادْعَاكُمْ لِمَا كُنْتُمْ كُفْرًا
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَمُولُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ
وَالْمُؤْمِنَةِ وَأَنَّ اللَّهَ مُمْسِكُكُمْ
بِيَمِينِهِ وَأَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ كُلَّ شَيْءٍ ۝

وَأَنْتُمْ تَقْتَضُونَ ۝
وَأَنْتُمْ تَقْتَضُونَ ۝
وَأَنْتُمْ تَقْتَضُونَ ۝
وَأَنْتُمْ تَقْتَضُونَ ۝

وَأَنْتُمْ تَقْتَضُونَ ۝
وَأَنْتُمْ تَقْتَضُونَ ۝
وَأَنْتُمْ تَقْتَضُونَ ۝
وَأَنْتُمْ تَقْتَضُونَ ۝

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتِجَابًا لِلَّهِ

Rasool (Messenger) and do not be dishonest to your trust knowingly.

28. And know that your wealth and your children are all a temptation (worldly attractions), and surely with Allah is the great reward.

SECTION 4

29. O people who believe! if you fear Allah, He will give you distinction between right and wrong and will acquit you of your evils and will forgive you, and Allah is Greatest, Bounteous.

30. (O beloved Prophet Muhammad S.A.W.) remember, when the disbelievers were plotting against you to confine or martyr you or expel you. And when they were planning so Allah was also Planning (to His status) and Allah's Plan is the best.

31. And when Our (Allah's) Verses are recited to them, they say, "yes, we have heard. If we wished, we could surely utter the like of this. These contain the stories of the ancients."

32. And when they said, 'O Allah, if this Qur'aan indeed be the truth from You then rain down upon us stones from the sky or bring down upon us any painful punishment.

33. But Allah would not punish them, till (O beloved Prophet) you are in their midst. And Allah also would not punish them, while they seek forgiveness.

34. And what excuse they have that Allah should not punish them, when they are hindering from the sacred Mosque (Masjid-e-Haram),

کرو، اور نہ اپنی امانتوں میں وائست خیانت
(27)

اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے، اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے (28)

اے ایمان والو! اگر اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں وہ دے گا جس سے حق کو باطل سے جدا کرو، اور تمہاری برائیاں آثار دے گا، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے (29)

اور اے محبوب! یاد کرو! جب کافر تمہارے ساتھ کر کرتے تھے کہ تمہیں بند کر لیں یا شہید کر دیں یا نکال دیں، اور وہ اپنا سا کر کرتے تھے، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر (30)

اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو کہتے ہیں، ہاں! ہم نے سنا، ہم چاہتے تو ایسی ہم بھی کہہ دیتے، یہ تو نہیں مگر انہوں نے کئے (31)

اور جب بولے! کہ اے اللہ! اگر یہی (قرآن) تیری طرف سے حق ہے، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائے یا کوئی درد ناک عذاب ہم پر لا (32)

اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے، جب تک اے محبوب! تم ان میں تشریف فرما ہو، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں، جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں (33)

اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ کرے، وہ تو مسجد حرام سے روک رہے ہیں، اور وہ اس کے اہل نہیں، اس کے

وَالرَّسُولِ وَتَخَوُّوْا اٰمَنْتُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝۷

وَاعْلَمُوْا اَنَّهَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۝۸

وَ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝۹

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ ۝۱۰

يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقٰنًا وَّيَغْفِرْ لَكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ۝۱۱

وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاَللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝۱۲

وَ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُبْتَلُوْكَ اَوْ يَحْتَلُوْكَ وَاَيْحٰزِبُوْكَ وَاَيْمَكُرُوْنَ ۝۱۳

وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاَللّٰهُ خَيْرُ الْبٰرِكِيْنَ ۝۱۴

وَ اِذْ اَتٰتٰنِيْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا لَوَ اِذْ سَمِعْنَا لَوْ نَشِآءُ لَقُلْنَا مَثَلُ هٰذَا اِنَّ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝۱۵

وَ اِذْ قَالُوْا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِّنَ السَّمَآءِ اَوْ اسْتِنَا بِعَذَابِ السَّيْءِ ۝۱۶

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ هُمْ يَسْتَفْزِرُوْنَ ۝۱۷

وَمَا لَهُمْ اِلَّا يَعْذِبُوْهُ اللّٰهُ وَّهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاَنْتَ وَاَكَانُوْا اَدْبٰىءًا اِنْ اَرٰوْا وَّهُوَ اِلَّا

and they are not its guardians. Its guardians are the pious ones only, but most of them do not know.

35. And their prayer at the Holy House (Ka'aba) is nothing but whistling and clapping. Then taste the punishment for your disbelief.

36. Surely, the disbelievers spend their wealth to prevent from the path of Allah. They will surely continue to spend it so. It will become regretful for them. Then they will be overpowered. And the disbelievers shall be gathered towards hell.

37. Thus Allah will separate the pure from the impure. And He will pile the impure over each others, and piling them together will cast them into the hell. It is they who are the losers.

SECTION 5

38. Please declare to the disbelievers, "if they desist, that which is past will be forgiven. But if they persist in the sin then the precedence of (punishing) their forefathers is already recorded."

39. And fight with them till there remains no mischief and the entire religion is only

of Allah. And if they desist, then Allah is Seeing their deeds.

40. But if they turn back then know that Allah is your Protector, what an excellent Protector and what an excellent Helper (He is).

اور! تو پرہیزگاری ہیں، مگر ان میں اکثر کو علم نہیں (34)

اور کعبہ کے پاس ان کی نماز نہیں مگر سہی اور تالی، تو اب عذاب چکھو! بدلا اپنے کفر کا (35)

بے شک کافر اپنے مال خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، تو اب انہیں خرچ کریں گے، پھر وہ ان پر بچتا ہوں گے، پھر مطلوب کر دیئے جائیں گے، اور کافروں کا حشر جنم کی طرف ہو گا (36)

اس لیے کہ اللہ گندے کو سترے سے جدا فرما دے، اور نجاستوں کو تلے اوپر رکھ کر سب ایک ڈھیر بنا کر جنم میں ڈال دے، وہی نقصان پانے والے ہیں (37)

تم کافروں سے فرماؤ! اگر وہ باز رہے تو جو ہو گذرا وہ انہیں معاف فرما دیا جائے گا اور اگر پھر وہی کریں، تو انہوں کو دستور گذر چکا ہے (38)

اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے، اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز رہیں تو اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے (39)

اور اگر وہ پھرتے تو جان لو کہ اللہ تمہارا مولیٰ ہے، تو کیا ہی اچھا مولیٰ، اور کیا ہی اچھا مددگار (40)

الْمُتَّقُونَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ الْأَقْدَمِ تَصَدِيدَةً فُذُّوا الْعَذَابَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُفْعَلُ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُشْرُونَ ﴿٣٧﴾

يَجْعَلُ اللَّهُ الْعَذِيبَ مِنَ الظُّلُمِ وَيَجْعَلُ الْعَذِيبَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيُرَكِّمُهُمْ فِيهَا فَيُجْعَلُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٣٨﴾

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتُوبُوا يُعْفَرُوا لَهُمْ مَآذٍ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينَ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ اتَّهَمُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾

وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا اللَّهَ مَوْلَاهُ وَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٤٠﴾

PART - 10

S. ANFALL (Contd.)
(THE SPOILS OF WAR)
SECTION 5 (Contd.)

41. And know that whatever spoils (of war) you take, one-fifth of it belongs exclusively to Allah and to His Rasool (Messenger) and to his (Rasool's) kindred and the orphans and the needy and the wayfarers, if you believe in Allah and what We (Allah)* have revealed upon Our (Allah's)* devotee on the day of Victory (at Badr), the day when the two armies met. And Allah has full power over everything.

42. And (remember) when you were camped on a side of the valley (of Badr) and the disbelievers on the farther side, and the caravan was below you (on the plain), had you made any mutual appointment with them (to keep on such positions) surely you would have failed to keep it but this was planned so that Allah wanted to accomplish as was ordained; so that whoever was to perish may perish with proof, and who was to survive may survive with proof. And surely, Allah is Hearing, Knowing.

43. (O beloved Prophet remember) Allah made them (enemy) to appear only a few to you in your estimation. And if He had shown them as a big army then surely your courage would have failed and you would have quarrelled about the matter, but Allah saved you. Surely, He knows what is in the hearts.

44. And at the time of encounter, the disbelievers

اور جان لو کہ جو کچھ نعمت لو تو اس کا پانچواں حصہ خاص اللہ اور رسول اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلہ کے دن اتارا جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے

(41)

جب تم نبلے کے اس کنارے تھے اور کافر پرلے کنارے، اور قافلہ تم سے ترائی میں (ساحل کی طرف) اور اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور وقت پر برابر نہ پہنچتے، لیکن یہ اس لیے کہ اللہ پورا کرے جو کام ہوتا ہے، کہ جو ہلاک ہو دیکھ سے ہلاک ہو، اور جو جیے، دیکھ سے جیے اور بیشک اللہ ضرور سنتا جاتا ہے

(42)

جبکہ اے محبوب! اللہ تمہیں کافروں کو تمہاری خواب میں تھوڑا دکھاتا تھا، اور اے مسلمان! اگر وہ تمہیں بہت کر کے دکھاتا، تو ضرور تم بزدلی کرتے، اور معاملہ میں جھگڑا ڈالتے، مگر اللہ نے پھلایا، بیشک وہ دلوں کی بات جانتا ہے (43)

اور جب لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑے

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ۖ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَاقِ ۚ الْجُمُعِينَ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدَّةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدَّةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبِ أَسْفَلَ وَنُكْرًا وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَخُتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ ۚ لَكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۚ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَلَا يُجِنِّي مَنْ حَىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَايِكٍ قَبِيْلًا وَّ لَوْ رَأَيْكُمْ كَثِيرًا لَفَتَيْتُمْ وَكُنْتُمْ أَنْعَمَ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنِ اللَّهُ سَلَّمَ أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ ۖ بِدَارِ الصُّدُورِ ﴿٤٣﴾

وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ إِذَا التَّفَاقُتُمْ فِي آخِرِنَاكُمْ

were shown to you as few, and made you to appear few in their eyes, so that Allah might accomplish what was ordained. And all the matters are to return to Allah.

SECTION 6

45. O believers! when you encounter any army, then stand firm, and remember Allah much, that you may attain the goal.

46. And obey Allah and His Rasool (Messenger) and do not quarrel together. Thus you will lose heart and your collective power will be lost from you. And be steadfast. Surely, Allah is with the steadfast.

47. And be not like those who came out of their homes boastfully and showing off to people, hindering men from the way of Allah. All their deeds are comprehended by Allah.

48. And (remember) when the satan (devil) decked out their works fair in their eyes, and said, "no one is to prevail against you today (war of Badr) and you are under my protection." Then when both armies confronted each other, he ran upon his heels and said, "I have nothing to do with you. I see what you do not see. I fear from Allah." And severe is the punishment of Allah.

SECTION 7

49. The hypocrites and the ones having sick hearts used to say, "these (Muslims) are proud of their religion." And then surely, whoso depends on Allah then Allah is Honorable, Wise.

50. And if you could see the Angels putting to death

کر کے دکھائے اور ہمیں ان کی لاکھوں میں تمہارا کیا کہ اللہ پورا کرے جو کام ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے (44)

اے ایمان والو! جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کی یاد بہت کرو کہ تم مراد کو پہنچو (45)

اور اللہ اور اس کے رسال کا حکم مانو اور آپس میں جھگڑو نہیں کہ پھر بڑی کر کے اور تمہاری بندھی ہوئی ہوا جاتی رہے گی اور صبر کرو چنگ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے (46)

اور ان جیسے نہ ہوتا جو اپنے گھر سے نکلے اترتے (کبیر کرتے) اور لوگوں کو دکھانے کو اور اللہ کی راہ سے روکے اور ان کے سب کام اللہ کے قابو میں ہیں (47)

اور جبکہ شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے کام بھلے کر دکھائے اور یولا! آج تم پر کوئی گھص غالب آئے والا نہیں اور تم میری پناہ میں ہو تو جب دونوں ٹکڑے آئے ساتھ ہونے لگے پاؤں بھاگا اور یولا! میں تم سے الگ ہوں میں وہ دیکھتا ہوں جو ہمیں نظر نہیں آتا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کا عذاب سخت ہے (48)

جب کہتے تھے منافق اور وہ جن کے دلوں میں آزار ہے کہ یہ مسلمان اپنے دین پر مغرور ہیں اور جو اللہ پر بھروسا کرے تو چنگ اللہ غالب حکمت والا ہے (49)

اور کبھی تو دیکھے جب فرشتے کافروں کی

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿٤٥﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٦﴾

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٧﴾

وَلَا تُكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرَأَيْتُمُ النَّاسَ وَمُؤْمِنَهُمْ أَعْيُنَ سَاجِدٍ يَلُودُونَ لِلَّهِ يَمِينُونَ فَيُحِيطُوا بِوَدَّعِهِمْ وَلَئِنَّ لَكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ أَعْمَلَ لِلْعَرَبِ قَالَ لَغَابَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ ذُو الْإِنْفِ جَالِلٌ كَمْ فَتَنَّا تَرَاهُ مِنَ الْوَفَاءِ تَنْجِصَ عَلَى حَقِّهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ وَمَنْ ظَلَمَ لِي فِئَةً مَلَائِكَتِي إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾

لَا يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّهُوا إِتْرَابَهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عِزُّهُ عَزِيزٌ ﴿٤٩﴾

وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ

the disbelievers, striking their faces and their backs (saying) you now taste the punishment of burning.

51. This is because of what your hands have sent forward and Allah is not unjust to His devotees.

52. Their case is like the people of Firawn (Pharaoh) and those before them was that they disbelieved the Verses of Allah. Therefore, Allah destroyed them for their sins. Surely Allah is strongly severe in punishment.

53. This is so because Allah does not change the favor that He confers upon a nation, until they change themselves, and surely Allah Hears, Knows.

54. The pattern of the people of Firawn (Pharaoh) and those before them, was that they falsified the Verses of their Rubb (Sustainer). We* (Allah) destroyed them for their sins, and We (Allah) drowned the people of Firawn (Pharaoh), and they were all cruels.

55. Surely, the worst of beasts in the sight of Allah are those who disbelieve and then they do not become faithfuls;

56. Those are with whom you had entered into a promise, then they break their undertaking every time and do not become pious.

57. Therefore, if you find them anywhere in the war, kill them in such a manner that their remaining ones on the rear may be scattered that they may become mindful.

جان نکالتے ہیں، مار رہے ہیں ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھ پر، اور چکمو آگ کا عذاب (50)

یہ بدلا ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا (51)

جیسے فرعون والوں اور ان سے آگوں کا دستور، وہ اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا، بیشک اللہ قوت والا سخت عذاب والا ہے (52)

یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم سے جو نعت انہیں دی تھی، بدلتا نہیں، جب تک وہ خود نہ بدل جائیں، اور بیشک اللہ سنتا جانتا ہے (53)

جیسے فرعون والوں اور ان سے آگوں کا دستور، انہوں نے اپنے رب کی آیتیں جھٹلائی، تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا، اور ہم نے فرعون والوں کو ڈبو دیا، اور وہ سب ظالم تھے (54)

بیشک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، اور ایمان نہیں لاتے (55)

وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، پھر ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں، اور ڈرتے نہیں (56)

تو اگر تم انہیں کہیں لڑائی میں پاؤ، تو انہیں ایسا قتل کرو جس سے ان کے پسماندوں کو بھگاؤ اس امید پر کہ شاید انہیں عبرت ہو (57)

يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾

ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَالِمٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٥١﴾

كَذَّٰبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَآلِ الْأَيْمُنِ مِمَّنْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذْتُمُ اللَّهَ يُدْرِكُهُمْ إِنَّا اللَّهُ عَزِيزٌ مُّشِيدٌ لِّلْعُقَابِ ﴿٥٢﴾

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مَعِيًّا نِعْمَةً ۖ أَنعَمْنَا عَلَىٰ قَوْمٍ مَّحِيٍّ يُعَذِّبُوا آلِي الْقُرْبِيِّمْ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

كَذَّٰبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَآلِ الْأَيْمُنِ مِمَّنْ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنزَلْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَاذِبٍ فِي الْيَمِّ ﴿٥٤﴾

إِن شَاءَ الذَّوَابُ عِنْدَ اللَّهِ الذَّيْنِ الْكَفَرُوا بِهِمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾

الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾

فَإِن تَشَقَّقْتُمْ فِي الْعُرَبِ فَضَرْبِ دَبْرِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ رِعَايَةً يَكُونُونَ ﴿٥٧﴾

65. O Nabi (Prophet of Allah—the communicator of the hidden news) urge the believers to do Jihad (fight against the evil). If there will be twenty of you steadfast, they will overcome two hundreds; and if there are a hundred they will route a thousand disbelievers, because they (disbelievers) are a nation who do not understand.

66. Allah has lightened your burden for He knows that you are weak. Therefore, if there be a hundred of you steadfast, they shall overcome two hundreds; and if there be a thousand of you, they shall overcome two thousands by the Command of Allah. And Allah is with the steadfasts.

67. It is not befitting to any Nabi (Prophet of Allah—communicator of the hidden news) that he should make captives until he has fought and triumphed in the land. You desire the goods of the world, and Allah Desires the good of the hereafter. And Allah is Honorable, Wise.

68. Had Allah not prescribed as ordinance before, surely (O Muslims) a great admonishment would have come as to you why you took as ransom from the disbelievers.

69. Then eat of what you have obtained as spoils (abandoned things of the enemy at the front of the war). These are lawful and pure. And remain pious to Allah. Surely, Allah is Forgiving, Merciful.

SECTION 10

اے نبی کی خبریں بتانے والے! مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو! اگر تم میں کے بیس مبر والے ہوں گے دو سو پر غالب ہوں گے، اور اگر تم میں کے سو ہوں تو کافروں کے ہزار پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے (65)

اب اللہ نے تم پر سے تخفیف فرمائی، اور اسے معلوم ہے کہ تم کمزور ہو، تو اگر تم میں سو مبر والے ہوں دو سو پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں کے ہزاروں ہوں تو دو ہزار پر غالب ہوں گے، اللہ کے حکم سے، اور اللہ مبر والوں کے ساتھ ہے (66)

کسی نبی کو لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہائے، تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے (67)

اگر اللہ پہلے ایک بات لکھ نہ چکا ہوتا، تو اسے مسلمانوں! تم نے جو کافروں سے بدلے کا مال لے لیا، اس میں تم پر بڑا عذاب آتا (68)

تو کھاؤ! جو غنیمت تمہیں ملی، حلال پاکیزہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے (69)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ شِصْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا إِمَّاؤَاتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَائَةٌ يُغْلِبُوا النَّفَاتِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنَّمَا لَهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾

الذَّيْنِ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا إِمَّاؤَاتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا النَّفَاتِينَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٦﴾

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَكَ أَسْرَى حَتَّى يُجْحِزَ فِي الْأَرْضِ تَرْبِيدًا وَنَ عَدْرَضِ الدُّنْيَا: وَاللَّهُ يُرِيدُ الْأُخْرَةَ: وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾

لَوْلَا كَتَبْنَا مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمُ فِيهَا مَا أَخَذْتُمْ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٦٨﴾

فَكُلُوا وَمِمَّا عَرَضْتُمْ حَلَالَ طَيِّبًا: وَالْقَوَا بِ: اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٩﴾

75. And those who believe afterwards and migrate and wage the Jihad (self defensive fighting against the enemy of Islam and offensive war against the evil) along with you, they also are from you. And the blood relations are nearer to one another to get inheritance according to the the Book of Allah. Surely Allah knows all the things.

اور جو بعد کو ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور رشتے والے ایک سے دوسرے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کی کتاب میں، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے (75)

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَابُوا
وَجَاهِدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ
وَأُولَٰئِكَ أَرْكَانُ بَعْضُهُمْ
أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(ONE-FOURTH OF PART 10 ENDS)

S. IX

SURA TAUBA

(THE REPENTANCE)

Revealed at Madina

(16 Sections, 129 Verses)

SECTION 1

1. By this proclamation a disassociation of Allah and His Rasool (Messenger) is made from the idolators with whom you (Muhammad S.A.W.) had entered into an agreement and they did not keep it.

2. So go about in the land for four months and know that you cannot weaken Allah and Allah will disgrace the disbelievers.

3. And a declaration from Allah and His Rasool (Messenger) is to all the people on the day of Hajj-e-Akbar (Grand Muslim Pilgrimage on Friday) that Allah and His Rasool (Messenger) are free from any liability to the idolators. So if you repent, it is good for you, and if you turn away then know that you cannot weaken Allah. And announce for disbelievers a painful punishment;

4. except those of the idolators with whom you had an agreement, and they did

سورہ توبہ مکی ہے (اس میں) ایک سو اسی (129) آیتیں اور سولہ (16) رکوع (ہیں)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سُورَةُ التَّوْبَةِ مكية
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لهذا
وَمَا كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَابُوا
وَجَاهِدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ
وَأُولَٰئِكَ أَرْكَانُ بَعْضُهُمْ
أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا، اور وہ قائم نہ رہے (1)

بِرَاءةٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ
عٰهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

تو چار مہینے زمین پر چلو پھرو! اور جان رکھو کہ تم اللہ کو تمکھا نہیں سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے (2)

فَسَبِّحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ
مُعْزِي الْكَافِرِينَ ۝

اور منادی پکار دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں میں بڑے حج کے دن، کہ اللہ بیزار ہے مشرکوں سے، اور اس کا رسول، تو اگر تم توبہ کرو تو تمہارا بھلا ہے، اور اگر منہ پھیرو تو جان لو کہ تم اللہ کو تمکھانہ سکو گے، اور کافروں کو خوشخبری سناؤ درود ناک عذاب کی (3)

وَأَذِّنْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ
يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ إِنَّا أَنْتَبَهُمْ
فَهُوَ حَبِيبٌ لَهُمْ وَإِنَّ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا
أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا يَبْغُوا ۝

مگر وہ مشرک جن سے تمہارا معاہدہ تھا پھر انہوں نے تمہارے عہد میں کچھ کی نہ

إِلَّا الَّذِينَ عٰهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَهُمْ
مَا نَفَقْتُمْ لَهُمْ سِيًّا أَذَلَّكُمْ يَبْغُوا

not detract from it, and did not help any one else against you then fulfil their agreement till the appointed term Surely, Allah loves the pious ones.

5. Then when the sacred months have passed, kill the idolators wherever you find them (for violation) and catch them, and confine (imprison) them and establish picket for them at every place for ambush (as defence). If they repent and establish Salaat (Muslim Prayer) and give the Zakaat (compulsory due for have motts) then clear their way. Surely, Allah is Forgiving, Merciful.

6. And (O beloved Prophet) if any of the idolators ask your protection, then give him (her) protection that he (she) hears the word of Allah. Then send him (her) to his (her) place of security. This is because they are the ignorant nation.

SECTION 2

7. How can there be any agreement of the idolators with Allah and His Rasool (Messenger) except those with whom you made such agreement near Masjid-ul-Haram (Sacred Mosque). Then as long as they keep it for you, you should also stand for them. Surely, Allah loves the pious ones.

8. How will it be that they dominate you? They will not observe any kinship nor would they care for any treaty. They please you from their mouths but refuse you from their hearts. And most of them are disobedients.

9. They have sold the Verses of Allah for a meagre

کی اور تمہارے مقابل کسی کو مدد نہ دی تو ان کا عہد ٹھسری ہوئی مدت تک پورا کرو' بیچک اللہ پر بیہگاروں کو دوست رکھتا ہے (4)

پھر جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو مشرکوں کو بارو' جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور قید کرو' اور ہر جگہ ان کی آگ میں بیجو! پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں' تو ان کی راہ چھوڑ دو' بیچک اللہ بخشنے والا مہربان ہے (5)

اور اے محبوب! اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے' تو اسے پناہ دو' کہ وہ اللہ کا کلام سنے' پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو' یہ اس لیے کہ وہ نادان لوگ ہیں (6)

مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے پاس کوئی عہد کیونکر ہو گا مگر وہ جن سے تمہارا معاہدہ مسجد حرام کے پاس ہوا' تو جب تک وہ تمہارے لیے عہد پر قائم رہیں تم ان کے لیے قائم رہو' بیچک پر بیہگار اللہ کو خوش (پسند) آتے ہیں (7)

بھلا کیونکر! ان کا حال تو یہ ہے کہ تم پر قابو پائیں' تو نہ قربت کا لحاظ کریں' نہ عہد کا' اپنے من سے تمہیں راضی کرتے ہیں' اور ان کے دلوں میں انکار ہے' اور ان میں اکثر بے حکم ہیں (8)

اللہ کی آیتوں کے بدلے تمہوڑے دام

عَلَيْكُمْ لِكُلِّ آيَةٍ مِنْكُمْ عَهْدٌ وَإِلَىٰ مَكَدَتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُتَّقِينَ ﴿٥﴾
فَإِذَا انقَضَ عَمَلُ أَشْهُرِكُمُورُوا قَاتِلُوا
الشُّرُكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ
خَذُواهُمْ وَأَحْصَوْهُمْ وَأَقْعُدُوا
لَهُمْ كُلَّ مَوْضِعٍ لَّئِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦﴾

وَأَنْ أَحَدًا مِنَ الشُّرُكِيِّنَ اسْتَجَارَكَ
فَأَجْرُهُ حَتَّىٰ يَمْسَعَ كَلِمَةَ اللَّهِ ثُمَّ
يُؤْتِيَهُمْ مِمَّا مَنَّهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

كَيْفَ يُكُونَ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ
اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُوا
عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا
لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُونَ عَلَيْكُمْ لَا يَنْبَغُوا
بَيْعُكُمْ إِلَّا بِرِضَا ذِمَّةٍ يُرَضُونَكُمْ
فَأَنْتُمْ بِهِمْ وَمَنْ تَابِلَوْا بِهَذَا وَكَثُرُوا
فَسَقُونِ ﴿٨﴾
إِنَّ شَرَّ الْبَايِعَاتِ لِلَّهِ مِمَّا قِيلَ لَا تَصَدُّوا عَن

price, then they barred others from His way. Surely, they do evil deeds.

10. They neither have any regard for any kinship nor for any treaty with any believers (Muslim). And they are the transgressors.

11. Then if they repent and establish Salaat (Muslim Prayer) and pay the Zakaat (compulsory due to the have nots) then they are your brothers in faith. And We (Allah) explain the Verses in detail for a nation who know.

12. If they break their oaths after their agreement, and (openly) taunt at your religion, then fight with the leaders of the disbelievers. Surely, their oaths are nothing. Thus they may desist.

13. Will you not fight with a nation who broke their oaths and resolved to expel the Rasool (Allah's Messenger), although they made the commencement of hostility against you. Do you fear them? But Allah is most worthy of being feared, if you believe;

14. fight with them. Allah will punish them at your hands and disgrace them and He will help you against them, and will heal the hearts of the believing nation;

15. and will remove the anger of their hearts, and Allah accepts the repentance of whoso He pleases and Allah is Knowing, Wise.

16. Do you think that you would be left alone, and Allah has not yet made known those of you who will fight (in His way) and will not take any one as a confident except

مول لے، تو اس کی راہ سے روکا، بیگ وہ
بست ہی بڑے کام کرتے ہیں (9)

کسی مسلمان میں نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ
عہد کا اور وہی سرکش ہیں (10)

پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں
اور ذکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں،
اور ہم آیتیں مفصل بیان کرتے ہیں جاننے
والوں کے لیے (11)

اور اگر عہد کر کے اپنی قسمیں توڑیں اور
تمہارے دین پر منہ آئیں، تو کفر کے
سرفروں سے لڑو، بے شک ان کی قسمیں
کچھ نہیں، اس امید پر کہ شاید وہ باز
آئیں (12)

کیا اس قوم سے نہ لڑو گے جنہوں نے
اپنی قسمیں توڑیں اور رسول کے نکالنے کا
ارادہ کیا، حالانکہ انہی کی طرف سے پھل
ہوئی ہے، کیا ان سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ
اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو!
اگر ایمان رکھتے ہو (13)

تو ان سے لڑو! اللہ انہیں عذاب دے گا
تمہارے ہاتھوں، اور رسوا کرے گا اور
تمہیں ان پر مدد دے گا، اور ایمان والوں
کا جی ٹھنڈا کرے گا (14)

اور ان کے دلوں کی ٹھنڈ دور فرمائے گا
اور اللہ جس کی چاہے توبہ قبول فرمائے
اور اللہ علم و حکمت والا ہے (15)

کیا اس گمان میں ہو کہ یونہی چھوڑ دیئے
جاؤ گے، اور ابھی اللہ نے پہچان نہ کرائی
ان کی جو تم میں سے جہاد کریں گے، اور
اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے

سَيَّبِلُهُمْ أَنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩﴾

لَا يَرْبِطُونَ فِي مَوَاقِفِ الْأَوْلِيَاءِ وَلَا يُفْتِنُونَ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿١٠﴾

وَإِن يَابَدُوا بِمَا كَانُوا الصَّالِحِينَ وَالْوَالِدَاتُ
ذُرِّيَّتُهُنَّ فِي الدِّينِ وَنَفْسُهُنَّ الْأُولِيَاءِ
لَقَوْمٌ يَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

وَإِن لَّكُنَّ الْأَيْمَانَ مِنِّي وَعِدْتُهُمْ
طَعْنًا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا إِنَّكُمْ
بِئْسَ الْأَيْمَانَ لِكَيْفَ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾

الْإِنْفَاتُونَ قَوْمًا نَّكَلُوا الْأَيْمَانَ وَهِيَ
بِأَخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَاءٌ وَكَفَرُوا
أَوَّلَ مَرَّةٍ أَن تَخْشَوْهُمْ فَنَقَلَهُ
أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

فَاتِلُوا هُمُ يَعْنِي بِنَهْجِ اللَّهِ بِأَيْدِيكُمْ
وَيُخَوِّهُمُ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيُشْفِئُ
صُدُورَكُمْ مَوْمِنِينَ ﴿١٤﴾

وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ بِرِيبِ اللَّهِ
عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾

أَلْحَسِبْتُمْ أَن تَتْرَكُوا أَن تَعْلَمُوا أَنَّهُ
الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَبْتَغُوا وَاهِنٌ

Allah and His Rasool (Messenger) and the believers (Muslims). Allah is aware of what you do?

SECTION 3

17. The idolators have no right to visit the mosques of Allah self-confessing their own disbelief. Their entire deeds are in vain, and they shall remain in the fire, forever.

18. Only such ones can visit the mosques of Allah who believe in Allah and the Last Day and establish Salaat (Muslim Prayer) and pay Zakaat (compulsory dues of have nots) and fear none except Allah. So these are the people who are among the guided ones.

19. Do you consider the offering of water to the Hujjaj (Muslim pilgrims) and service of the Masjid-ul-Haram (sacred mosque) equal to one who believes in Allah and the Last Day and fights in the way of Allah? They are not equal before Allah. And Allah does not guide the cruel nation.

20. Those who believe and migrate and fight with their property and sacrificing their person in the way of Allah have the highest ranks with Allah. And they are the one who are successful.

21. Their Rubb (Sustainer) gives them good news of His Mercy and of His Pleasure and of such Paradise wherein there is lasting bliss for them; 22. to dwell therein for ever. Surely, there is great reward with Allah.

23. O believers! do not take even your fathers and brothers as friends, if they

سوا کسی کو اپنا محرم راز نہ بنائیں گے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے (16)

مشرکوں کو نہیں پہنچا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں خود اپنے کفر کی گواہی دے کر ان کا توبہ کیا دھرا اکارت (ضائع) ہے، اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے (17)

اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لائے، اور نماز قائم کرتے، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں (18)

تو کیا تم نے حاجیوں کی سبیل اور مسجد حرام کی خدمت اس کے برابر ٹھہرائی جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں، اور اللہ خالصوں کو راہ نہیں دیتا (19)

وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں لڑے، اللہ کے یہاں ان کا درجہ بڑا ہے، اور وہی مراد کو پہنچے (20)

ان کا رب انہیں خوشی سنانا ہے اپنی رحمت اور اپنی رضا کی، اور ان بانگوں کی جن میں انہیں دائمی نعمت ہے (21)

ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، بیشک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے (22)

اسے ایمان والو! اپنے باپ اور اپنے

ذوق اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین
بِأَلْبَابِهِ وَأَلْمَسُوا بِرَبِّهِمْ أَتَمَّ لَأُولَئِكَ

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَقْرَأُوا
مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ
بِأَلْبَابِهِ وَأُولَئِكَ فِي سَعِيرٍ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَسَنَجْزِيهِمْ
جَزَاءً عَظِيمًا

أُولَئِكَ سَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَسَنَجْزِيهِمْ جَزَاءً عَظِيمًا
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَسَنَجْزِيهِمْ
جَزَاءً عَظِيمًا

أَلَمْ نَجْعَلِ لَكَ حَرْجًا مِّمَّا كَرِهْتَ
مُحْرَمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا سَيُجْزَوْنَ
أَجْرًا عَظِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْزِيهِمْ
جَزَاءً عَظِيمًا

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا جِهَادًا
وَأَقْرَبُوا سَبِيلَ اللَّهِ الْأُولَىٰ
أَعْلَمُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ سَنَجْزِيهِمْ جَزَاءً
عَظِيمًا

يُخْبِرُهُمْ خَيْرًا مِّمَّا كَرِهُوا
وَأُولَئِكَ سَنَجْزِيهِمْ جَزَاءً
عَظِيمًا

خَلْقَيْنَ فِيهَا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ
وَأَزْوَاجَهُمْ يُجْزَوْنَ أَجْرًا
عَظِيمًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَلَا

prefer disbelief over belief. And whoso of you will be their friend, then they are the cruel.

24. Please declare, "if your fathers, and your sons and your brothers and your wives and your clan and the wealth that you have acquired and the commerce in which you fear loss and the houses of your choice, are the things dearer to you than Allah and His Rasool (Messenger) and Jihad (fighting for the cause Allah against evil). Then wait till Allah sends His Command." And Allah does not guide the disobedients.

SECTION 4

25. Certainly, Allah has helped you at many battle-fields and on the day of (war of) Hunain when your army appeared marvellous to you but it did not avail you anything that the land being so vast, became narrowed on you; and you turned your backs in retreat.

26. Then Allah sent down His tranquillity on His Rasool (Messenger) and upon believers (Muslims), and sent down the forces that you did not see and He punished the disbelievers. And such is the award for the disbelievers.

27. Allah accepts the repentance of those whom He Pleases. And Allah is Forgiving, Merciful.

28. O believers! know that the idolators are nothing but unclean. So they shall not approach the Masjid-uul-Haram (sacred Mosque around Ka'aba in Makkah) after this year. And if you fear poverty, then soon Allah shall enrich you with His

بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہیں (23)

تم فرماؤ! اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کتبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سوا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، اور تمہاری یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راست دیکھو! یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا (24)

بے شک اللہ نے بت جگہ تمہاری مدد کی اور حنین کے دن، جب تم اپنی کثرت پر اترا (تکبر کر) گئے تھے، تو وہ تمہارے کیم کلام نہ آئی، اور زمین اتنی وسیع ہو کر تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دے کر پھر گئے (25)

پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول پر، اور مسلمانوں پر اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہ دیکھے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور منکروں کی یکن سزا ہے (26)

پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا توبہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے (27)

اے ایمان والو! مشرک نہ بناؤ! جس میں تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آئے پائیں، اور اگر تمہیں عمامی کا ڈر ہے تو عقرب اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے، اگر چاہے، چیک

وَإِخْوَانِكُمْ أُولِي آبَاءِ آبَانِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَبِئْسَ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۲۳﴾

تَلَّ إِنَّ كَانَ آبَاءُكُمْ وَآبَاءُكُمْ وَإِخْوَانِكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَعَشِيرَتِكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَبْتُمُوهَا وَبُيُوتٌ تَرْضَوْنَ كَمَا كَانُوا يَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَفِعُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿۲۴﴾

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ يُدْرِكُونَ حُنَيْنَ إِذْ أَعْجَبَتْ لَكُمُ التُّرُكُ فَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ وَأَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَابَسَتْ لَكُمْ يَدَايُهَا وَمَدَّ يَدَايُهَا وَمَدَّ يَدَايُهَا وَمَدَّ يَدَايُهَا ﴿۲۵﴾

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَابَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَذَابًا لَّهُمْ جَزَاءً الْكَافِرِينَ ﴿۲۶﴾

ثُمَّ يُتُوبُ اللَّهُ مَنْ تَابَ وَعَدْلُكَ عَلَىٰ مَنْ يُشَاءُ، وَاللَّهُ عَفُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۲۷﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ مَا هَيَّأَهُمْ هَذَا، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَتَكُمْ فَامْسُقُوا

34. O believers! surely many of the rabbis, priests and monks devour the wealth of the people wrongfully and bar them from the Way of Allah. And those who hoard-up gold and silver and spend it not in the Way of Allah, give them the exact news of a painful punishment;

35. On that day their treasure shall be heated in the fire of the hell. Then their foreheads and sides and backs shall be branded. This is what you had hoarded for yourselves. Now taste the penalty of such hoarding.

36. Surely, the number of months with Allah is twelve only in the Book of Allah since the day He made the heavens and earth, four of them are sacred. This is the right reckoning. Therefore, do not wrong yourselves regarding them, and fight the disbelievers all together as they fight with you all together. And know that Allah is with the pious ones.

37. Surely their postponement (of sacred month) is an increase in disbelief, with which the disbelievers are further misguided. They make it lawful in one year and forbid in another year, thus they cover up the number (of months) which Allah has prohibited, and violate what Allah has forbidden. Their evil deeds seem fair in their own eyes. And Allah does not guide the disbelievers' nation.

SECTION 6

38. O believers what has happened to you that when it is said to you, "go ahead in the way of Allah, you sink

اے ایمان والو! بے شک بہت پادری اور جوگی لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ، درد ناک عذاب کی (34)

جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیوں اور کمریوں اور پیٹھیں، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزا اس جوڑنے کا (35)

بیشک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے چار حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پر ہمیں گاروں کے ساتھ ہے (36)

ان کا مہینے پیچھے ہٹانا نہیں مگر اور کفر میں بڑھنا، اس سے کافر بکائے جاتے ہیں، ایک برس اسے حلال ٹھہراتے ہیں اور دوسرے برس اسے حرام مانتے ہیں، کہ اس گنتی کے برابر ہو جائیں جو اللہ نے حرام فرمائی، اور اللہ کے حرام کیے ہوئے حلال کر لیں، ان کے بڑے کام ان کی آنکھوں میں بھلے لگتے ہیں، اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا (37)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الرَّحْبِ
وَالرَّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُقِفُّونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابِ الْيَوْمِ ۝

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي كَابِئِهِمْ كَمَا كَانُوا
يَجْمَعُوهَا وَمِنْ وَجُوهِهُمْ يُنْفِثُهَا
مَأْكِنُهُمْ لِيَقْبَلَهُمُ اللَّهُ ذَوَاتِهَا
كَأَنَّهُمْ كَانِزُونَ ۝

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ
شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ
دِينُ الْقَدِيمِ فَلَا تَظْلِمُوا
بَعْضَ الْبَعْضِ أَنفُسَكُمْ وَأَقَاتُوا
الشُّرَكَاءَ كَمَا كُنْتُمْ كَانُوا
اللَّهُ مَعَ الصَّادِقِينَ ۝

إِنَّمَا الْكُفْرُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِحُجُوتِهَا عَمَّا
رَبُّهُمُ وَإِنَّمَا كُنْتُمْ كَانُوا
اللَّهُ زَيْنَ لَكُمْ سَاءَ أَصْحَابُ
اللَّهِ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْكُفْرُ
بِالْيَوْمِ الْآخِرِ كَمَا كُنْتُمْ كَانُوا
اللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

اے ایمان والو! تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ خدا کی راہ میں کوچ (سفر)

heavily down to the ground. Have you chosen the life of this world in preference to the hereafter"? But the goods of the present life of the world are little in comparison with that of the hereafter.

39. If you will not move forwards He will penalize you with a severe punishment and will replace you by another nation, and you can do no harm to Him. And Allah has full power over every thing.

40. If you will not help him (the beloved Prophet Muhammad S.A.W.) then surely, Allah has already aided him, when the disbelievers expelled him (from his home town Makkah), he being the second of the two (accompanied by his best companion Abu Bakr Siddeeq). When they both were in the cave he said to his companion (Abu Bakr) "do not despair." Then Allah sent down on him His tranquility, and aided him with the force invisible warriors, and turned down the word of the disbelievers. It is the Word of Allah alone which is always supreme, and Allah is Honorable, Wise.

41. Go forth with light self-defence or with heavy arms but do Jihad (fight evil for the cause of Allah) with your property and person. It is better for you, if you know.

42. If there had been immediate gain, or short journey, then they (less firm believers of Makkah) would have certainly gone with you, but the hard journey distance was too long for them. And now they swear by Allah, that

جماں کرو، تو بوجھ کے مارے زمین پر بیٹھ جاتے ہو، کیا تم نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے پسند کر لی؟ اور جیتی دنیا کا اسباب آخرت کے سامنے نہیں مگر تھوڑا

(38)

اگر نہ کوچ (سفر جماں) کرو گے تو تمہیں سخت سزا دے گا، اور تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا، اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے

(39)

اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو، تو بیگ اللہ نے ان کی مدد فرمائی، جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، صرف دو جان سے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے، تم نہ کہا، بیگ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنا سیکڑا اتارا اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھیں، اور کافروں کی بات نیچے ڈالی اور اللہ ہی کا بول بالا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے (40)

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ

کوچ (جماں) کرو بھلی جان سے چاہے بھاری دل سے، اور اللہ کی راہ میں لڑو اپنے مال اور جان سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر جانو (41)

إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَالْجَاهِدُوا بَأْسَابِقِكُمْ
وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

اگر کوئی قریب مال یا متوسط سفر ہوتا، تو ضرور تمہارے ساتھ جاتے مگر ان پر تو مشقت کا راستہ دور پڑ گیا، اور اب اللہ کی

لَوْ كَانُوا عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا
لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ
الْمَسَافَةُ فَسَيَخْتَرُونَ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

if we had been able we would definitely have gone forth with you. They ruined their own selves, and Allah knows that they are surely the liars.

SECTION 7

43. Allah pardons your accommodating them in staying back, as it became clear to you who spoke the truth and you knew the liars clearly.

44. And those who believe in Allah and the Last Day would not ask leave of you from Jehad (fight against evil) with their wealth and their lives. And Allah knows well the pious ones.

45. Only they ask exemption who do not believe in Allah and the Last Day and their hearts are in doubts, then in their doubts they fluctuate.

46. Had they willed to go forth, they would have made some preparation for it. But Allah disliked their such rising. So He left them to lag behind. And it was said to them, "remain held back with those who hold back."

47. If they would have come out along with you, they would have added you nothing except corruption and would have run to and fro in your midst seeking to cause sedition among you by their spies. And Allah Knows well the cruels.

48. Certainly they had sought disorder before, and turned the plans upside down for you, till the truth came and Allah's Command appeared though they were averse.

49. And among them is he who submits before you like

قسم کھائیں گے، کہ ہم سے بن پڑتا تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے، اپنی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ بیچک ضرور جھوٹے ہیں (42)

اللہ تمہیں معاف کرے تم نے انہیں کیوں اذن (اجازت) دے دیا، جب تک نہ کھلے تھے تم پر سچے، اور ظاہر نہ ہوئے تھے جھوٹے (43)

اور وہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم سے چھٹی نہ مانگیں گے، اس سے کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں اور اللہ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو (44)

تم سے یہ چھٹی وہی مانگتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں، تو وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہیں (45)

انہیں لکھنا منظور ہوتا تو اس کا سامان کرتے، مگر خدا ہی کو ان کا اٹھنا پابند ہوا تو ان میں کابلی (سستی) بھردی، اور فرمایا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ (46)

اگر وہ تم میں نکلتے تو ان سے سوا نقصان کے تمہیں کچھ نہ بڑھتا، اور تم میں فتنہ ڈالنے کو تمہارے بیچ میں غزائیں دوڑاتے (فساد کرتے) اور تم میں ان کے جاسوس موجود ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو (47)

بیچک انہوں نے پہلے ہی فتنہ چھاپا تھا، اور اے محبوب! تمہارے لیے تدبیریں اپنی پیشیں، یہاں تک کہ حق آیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہوا، اور انہیں ناگوار تھا (48)

اور ان میں کوئی تم سے یوں عرض کرتا

لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْدِيكُمُ اللَّهُ إِلَيْنَا إِنَّا كُنَّا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٤٢﴾

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ إِذْنْتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعِنَ لَكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ قَوْلًا كَذِبًا ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَهْدِ اللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ لَانفُسِهِمْ يَوْمَئِذٍ ﴿٤٣﴾

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٤٤﴾

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ أَذْنَابُ قُلُوبِهِمْ فِيهِمْ ۖ فِي ذُرِّيَّتِهِمْ مِرَادٌ دُونَ ﴿٤٥﴾

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ۚ وَ لَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ لَهُمْ قَاعِدُوا مَعَ الْمُقَدِّمِينَ ﴿٤٦﴾

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زادوكمُ الْاِحْزَالَ ۗ وَلَا اَوْصَوْا بِجَانِبِكُمْ لِيُقَاتِلَكُمْ اَلَّذِينَ اَلْفَتَنَ ۗ وَ فِيكُمْ لَمُحْرَبُونَ ۗ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾

لَقَدْ اِنْبَعَاثُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ وَ كَلَبُوا لَكَ الْاُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَ كَلَّمَكَ اللَّهُ وَ هُوَ كَرِيمٌ ﴿٤٨﴾

وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ اَنْذَرْنِي وَاَنْتَ قَرِيْبٌ

this, "give me leave, and do not put me to trial." Listen, they have already fallen down into trial. And surely, the hell surrounds the disbelievers.

50. If good befalls you, then it hurts them, and if any misfortune comes to you, they say, "we had already taken precautions to set right our works before". And they turn away rejoicing."

51. Please declare, "nothing shall reach us, but what Allah has ordained for us. He is our Protector, and the believers (Muslims) should keep trust in Allah only".

52. Please declare, "do you wait for us, but for one of the two excellent things" "And we are waiting for you that Allah awards you punishment from Himself, or by our hands. So wait, we also are waiting with you."

53. Please declare, "spend willingly or unwillingly, it shall not be accepted from you. Surely, you are a disobedient nation".

54. And what they spend, its acceptance was not barred, but because they rejected Allah and His Rasool (Messenger). And they come to Salaat (Muslim Prayers) half-heartedly and spend unwillingly.

55. Their wealth and children should not astonish you. Allah only intends to punish them with these things in the life of this world that their souls may depart while they are disbelievers.

56. They swear by Allah that they are from amongst you. But they are not from

ہے کہ مجھے رخصت دیجئے اور قند میں نہ ڈالے، من لو! وہ قند ہی میں پڑے اور بیک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو (49)

اگر تمہیں بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، تو کہیں ہم نے اپنا کام پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا اور خوشیاں مناتے پھر جائیں (50)

تم فرماؤ! ہمیں نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہ ہمارا مولیٰ ہے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسا چاہیے (51)

تم فرماؤ! تم ہم پر کس چیز کا انتظار کرتے ہو، مگر دو خوبیوں میں سے ایک کا، اور ہم تم پر اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تم پر عذاب ڈالے، اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں، تو اب راہ دیکھو! ہم تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہے ہیں (52)

تم فرماؤ! کہ دل سے خرچ کرو یا ناگواری سے، تم سے ہرگز قبول نہ ہو گا، بے شک تم بے حکم لوگ ہو (53)

اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اس کا قبول ہوتا بند نہ ہوا، مگر اسی لیے کہ وہ اللہ اور رسول سے منکر ہوئے اور نماز کو نہیں آتے مگر جی ہارے، اور خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری سے (54)

تو تمہیں ان کے مال اور ان کے اولاد کا تعجب نہ آئے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان چیزوں سے ان پر دیال ڈالے، اور کفر ہی پر ان کا دم نکل جائے (55)

اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں

الَّذِينَ الْفِتْنَةَ سَكَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾

إِنْ تُوْبِكُمْ حَسَنَةٌ لِّسَوْءِهِمْ وَإِنْ تُوْبِكُمْ مُصِيبَةٌ لِّئَلَّا تُؤْتُوا مَا أَخَذْنَا بِكُم لَئِن كُنْتُمْ تَابُونَ لَئِن تُوْبُوا لَمَّا كُنْتُمْ كَافِرِينَ ﴿٥١﴾

قُلْ لَنْ يُغِيْبَنَّ الْإِلَهَ الْأَلَمُ الْكَلْبَ اللَّهُ لَنَّهُ هُوَ السَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَلَئِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

قُلْ هَلْ تَرْتَضُونَ بِنَاءَ الْإِلَاحِ دِي الْحَسَنَاتِ وَيَنْفَعُنَّ تَرْتَضُونَ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بَعْدَ إِذْ بَرَّ مِنْ عِنْدِي أَوْ يَأْتِيَنَّكُمْ تَرْتَضُونَ لَمَّا كُنْتُمْ كَافِرِينَ ﴿٥٣﴾

قُلْ الْبَقِيَّةَ أَطْعَمًا أَوْ كَرِهًا لَنْ يُغْتَبَلَ مِنْكُمْ لَكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٤﴾

وَلَا تَأْتِيهِمْ أَنْ تُغْتَبَلَ مِنْهُمْ لِقَعْتِهِمْ إِلَّا اللَّهُ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْأَكْفُونَ الصَّلَاةَ وَالَّذِينَ كَسَالُوا وَلَا يُفْقِرُونَ إِلَّا دَاهِمًا كَرِهُونَ ﴿٥٥﴾

فَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِمَا فِي الصُّلُوبَةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ النَّفْسُ بِهَرَمِهِمْ يُفْرُونَ ﴿٥٦﴾

وَيَحْتَلُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ

amongst you. Yes they are timid people.

57. If they could find a place of refuge, or cave or a place to creep into, they would certainly have turned to it rushing.

58. And of them there are those who speak ill about you (Muhammad S.A.W.) in respect of the distribution of charities. Then if they get something of it, they are pleased, and if they get nothing, then they get angry.

59. What good it had been if they would have been pleased with what Allah and His Rasool (Messenger) had given them and would have said, "sufficient for us is Allah." "Allah gives us of His Bounty, and so the Rasool (Messenger) of Allah. To Allah only we turn in submission".

SECTION 8

60. Zakaat (compulsory due for the have nots) is only for those who are poor and needy and those who collect it, and for those in whose hearts love of Islam is to be reposed and for the freeing of persons in bondage, and for debtors, and for spending in the way of Allah and for the travellers. This is the Command of Allah. And Allah is Knowing, Wise.

61. And of them are those who molest the Nabi (Prophet—the Almighty's communicator of hidden news) and say, "he gives an ear to all things he hears." Please declare, "his giving ear to all is good for you. He believes in Allah and accepts the words of believers, and he (Muhammad S.A.W.) is a

سے ہیں اور تم میں سے ہیں نہیں! وہ لوگ ڈرتے ہیں (56) اگر پائیں کوئی پناہ یا غار یا ساجے کی جگہ تو رسیاں تڑاتے اور پھر جائیں گے (57)

اور ان میں کوئی وہ ہے کہ صدمے بانٹنے میں تم پر طعن کرتا ہے، تو اگر ان میں سے کچھ ملے تو راضی ہو جائیں، اور نہ ملے تو جیسی وہ ناراض ہیں (58) اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ و رسول نے ان کو دیا، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، اب دتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے (59)

زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے محتاج اور نرے نادار، اور جو اسے تحصیل کر کے لائیں اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گردنیں چھڑانے میں اور قرضداروں کو اور اللہ کی راہ میں اور مسافر کو یہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا اور اللہ علم و حکمت والا ہے (60)

اور ان میں کوئی وہ ہیں کہ ان غیب کی خبریں دینے والے کو ستاتے ہیں، اور کہتے ہیں وہ تو کان ہیں تم فرماؤ! تمہارے بطنے کے لیے کان ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں اور جو تم میں مسلمان ہیں ان کے واسطے

تَنْسَكُوا وَلِذُنُّهُمُ قُوَّةٌ يَفْقَهُونَ ﴿٥٦﴾
لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأًا وَغُرُبَاتٍ أَوْ مَدَاجِلًا
لَوَكُنُوا إِلَيْهِمْ دَاهِيَةً يُجْحِقُونَ ﴿٥٧﴾

وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ
أَعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا

إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

وَقَالُوا أَحْسَبِنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَنَا اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ أَيْدِي اللَّهِ الْعَبْدُونَ ﴿٥٩﴾

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَ
الْعَمِلِينَ عَلَيْهِمْ أَوْ الْمَوْلَاتِ لِقَوْلِهِمْ ذِي
الْإِقَابِ وَالْغَرَمِينَ ذِي سَبِيلٍ لِلَّذِينَ
السَّبِيلِ ذُرِّيَّةً مِّنْ لَّدُنْهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ النَّبِيَّ وَلَوْ كَانُوا

هُوَ أَذُنُ كُلِّ أَذُنٍ خَسِرَ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ بِإِلَهِهِ

وَيَوْمَئِذٍ الْمُسْتَوِينِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ بَازِلَةٌ

Blessing for the believers (Muslims) among you." And those who molest the Rasool (Allah's Messenger), they shall have a painful punishment.

62. They swear (before you) by Allah that you may be pleased and Allah and His Rasool (Messenger) had greater right, that they should please Him, if they are believers.

(THREE FOURTH OF PART 10 ENDS)

63. Are they not aware that whoso opposes Allah and His Rasool (Messenger) for such one is the fire of hell to remain there for ever? This is the great degradation.

64. The hypocrites fear lest a Surah (Chapter) should be revealed to them informing them what is (concealed) in their hearts. Please declare, "mock on, surely Allah is about to reveal what you fear."

65. And (O beloved Prophet) if you question them they say, "we were only talking idly and jesting." Please declare, "were you mocking at Allah and His Verses and His Rasool (Messenger)?"

66. Make no excuses, you have already become disbelievers after becoming believers (Muslims). If We (Allah) forgive some of you, We (Allah) shall punish others because they were the criminals.

SECTION 9

67. The hypocrite men and women are the birds of same feather; they bid evil and forbid from doing good, and keep their hands closed.

رحمت ہیں، اور جو رسول اللہ کو اذہام دیتے ہیں، ان کے لیے درد ناک عذاب ہے (61)

تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ تمہیں راضی کر لیں، اور اللہ و رسول کا حق زائد تھا، کہ اسے راضی کرتے اگر ایمان رکھتے تھے (62)

کیا انہیں خبر نہیں کہ جو خلاف کرے اللہ اور اس کے رسول کا، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، کہ بیش اس میں رہے گا، یحییٰ بری رسوا ہے (63)

مناحق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی سورۃ الہی اترے جو ان کے دلوں کی چھپی جتا دے تم فرماؤ! ہنہ جاؤ! اللہ کو ضرور ظاہر کرنا ہے جس کا تمہیں ڈر ہے (64)

اور اسے محبوب! اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے، کہ ہم تو یونہی ہنسی کھیل میں تھے، تو تم فرماؤ! کیا اللہ اور اس کی آغوش اور اس کے رسول سے ہنسنے ہو (65)

ہمانے نہ بناؤ! تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر، اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کریں تو اوروں کو عذاب دیں گے، اس لیے کہ وہ مجرم تھے (66)

مناحق مرد اور منافق عورتیں ایک حیل کے چنے بنے ہیں (ایک جیسے) برائی کا حکم دیں اور بھلائی سے منع کریں، اور اپنی

وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ رَسُولَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ عَدَابُ الرَّبِّ ۗ

يَعْتَصِمُونَ بِاللَّهِ وَلِكُلِّ أَصْحَابِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَلْحَقُ أَنْ يَرْتَدَّ عَنْ قَائِلِهِمْ ۗ

الَّذِي يَصْلُوهُ أَنْ يَصِلَ إِلَى اللَّهِ وَالَّذِي يَدْرَأْهُ فَيُوقَدِ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ ۗ

يَخَذُ الْمُتَّقُونَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ مِنْهُمْ بِمَا كَفَرُوا بِهِمْ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَإِنْ لَمْ يَخُذْ دُونَ

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ لِيُؤَدُّوا إِلَيْكَ الْخَوَافِ وَيُنَاصِحُوا إِلَيْكَ وَيُؤَدُّوا إِلَيْكَ وَالرَّسُولِ لَنْ يَكْفُرَ سَمْعَهُمْ وَلَا

لَا يَعْزُبُونَ عَنْكَ وَلَا يَكْفُرُونَ بِمَا كَفَرُوا وَلَا يَنْصَحُونَكَ مِنْ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ وَعَنْ نَفْسِكَ يَأْتِيكَ طَائِفَةٌ يَأْتِيهِمْ كَانُوا يَجْرِمُونَ ۗ

الْمُتَّقِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَصِفُونَ يُؤَدُّونَ إِلَيْكَ وَالرَّسُولِ لَنْ يَكْفُرَ سَمْعَهُمْ وَلَا

They have left Allah so Allah has left them. Surely, the hypocrites are the confirmed disobedients.

68. Allah has promised the hypocrite men and hypocrite women and disbelievers, the fire of hell; wherein they will remain for ever. That is sufficient for them, and the curse of Allah is upon them and for them is the lasting punishment.

69. Even those before you, were mightier than you in strength, and more abundant in wealth and children. They enjoyed their share so you enjoy your share, just as those before you enjoyed their share, and you indulged in ludeness just as they indulged. Their deeds are wasted in this world and the hereafter, and they are the losers.

70. Have they not received the news of those before them, the nation of Nuh (Noah) and Aad and Samood (Thamud) and the nation of Ibrahim (Abraham), and the people of Madyan and of those towns which were ruined. Their Rasools (Allah's Messengers) had brought to them clear Verses. We (Allah) did not wrong them, but they were cruel to their own selves.

71. And the believer (Muslim) men and women are friends to one another. They bid for good and forbid evil and establish Salaat (Muslim Prayer) and pay Zakaat (the compulsory due for have nots) and obey Allah and His Rasool (Messneger). These are they on whom soon Allah will have Mercy.

مشی بند رکھیں، وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا، بے شک منافق وہی کچے بے حکم ہیں (67)

اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ دیا ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ انہیں بس ہے، اور اللہ کی ان پر لعنت ہے، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے (68)

جیسے وہ تم سے پہلے تھے، تم سے زور میں بڑھ کر تھے، اور ان کے مال اور اولاد تم سے زیادہ، تو وہ اپنا حصہ برت گئے، تو تم نے اپنا حصہ برتا جیسے اگلے اپنا حصہ برت گئے، اور تم بے ہودگی میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے، ان کے عمل اکارت (مناج) گئے دنیا اور آخرت میں، اور وہی لوگ گماتے میں ہیں (69)

کیا انہیں اپنے سے اگلوں کی خبر نہ آئی نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ابراہیم کی قوم اور عین والے اور وہ بتیاں کہ الٹ دی گئیں، ان کے رسول روشن دلیلیں ان کے پاس لائے تھے، تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا بلکہ وہ خود ہی باپنی جانوں پر ظالم تھے (70)

اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیں اور ہر برائی سے منع کریں، اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں، اور اللہ و رسول کا حکم مانیں، یہ ہیں جن پر مقرب اللہ رحم

وَيَقِضُونَ أَيُّدِيَهُمْ لَوْلَا اللَّهُ فَتَرَاهُمْ فِي
إِنِ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿٦٨﴾

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتُ وَالْكٰفِرَاتُ
نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدَاتٍ فِيهَا هُنَّ فِيهَا هُنَّ حٰسِبٰتُهُمْ
لَعْنَةُ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّبِينٌ ﴿٦٩﴾

كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا اسْتَدْرٰجًا مِّنْكُمْ
قُوَّةً وَّ اٰكْرَامًا وَّ اَوْلَادًا اِنَّا سَمِعْتُمُوهُ
بِخَلْقِنٰهَا سَمِعْتُمْ مَخْلٰقًا لَّا تَسْمَعُوْنَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مَخْلٰقَهُمْ وَخَضَعُوْا
كَالَّذِيْ نَافِيْ خَاصُوْا اِلَيْكَ حٰسِبٰتُ اَكْرَامِهِمْ
فِي الدُّنْيَا وَاٰخِرَةِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٧٠﴾

اَللّٰمُ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قُوْمٌ
نُّزِحٌ وَّ عَادٌ وَّ ثَمُوْدٌ وَّ قَوْمٌ اٰتٰىهُمُ
وَاصِبٌ سٰدِيْنَ وَاَلْمَوْتُ قَلَبَتْ اَنۡفُسَهُمْ
رُسُلَهُمْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ نَافِيْ اَكْرَامِهِمْ
وَالَّذِيْنَ كَانُوْا اَنۡفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٧١﴾

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۗءُ
بَعْضٍ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰىهُمُ وَاٰخِرَةُ
عَنِ الْمُشْكِرِ وَالَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ
الرُّكُوۡةَ وَيُطِيعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اُولٰٓئِكَ

Surely, Allah is Honorable, Wise.

72. Allah has promised to believer (Muslim) men and believer (Muslim) women Paradise under which streams flow, wherein they shall remain for ever in clean houses. And the pleasure of Allah is the greatest. This is the supreme triumph.

SECTION 10

73. O Nabi (Prophet — communicator of the hidden news) fight against the disbelievers and the hypocrites and be strict to them. Their destination is hell, what an evil place to return.

74. They swear by Allah that they spoke nothing but certainly they uttered the words of infidelity and became disbelievers after accepting Islam and they had determined that which they could not get; and what they felt bad was only this that Allah and His Rasool (Messenger) has enriched them with bounties. If they repent, it is good for them, and if they turn away their faces then Allah will penalize them with a severe punishment in this world and in the hereafter. And on the earth they shall have neither any supporter nor any helper.

75. And of them there are some who had promised with Allah that if He will give them out of His Bounties then they will surely give in charity and they will surely become good people.

76. So when Allah gave them out of His Bounties, they became miser and

کرے گا، ہے لک الله غالب حکمت والا ہے (71)

اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو باغوں کا وعدہ دیا ہے، جن کے نیچے نہریں رواں، ان میں ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ مکانوں کا، بسنے کے باغوں میں اور اللہ کی رضا سب سے بڑی عطا ہے بڑی مراد پائی (72)

اے غیب کی خبریں دینے والے! (نبی) جہاد فرماؤ کافروں اور منافقین پر، اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا ہی بڑی جگہ پلٹنے کی (73)

اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہ کہا، اور بیگ ضرور انہوں نے کفر کی بات کہی، اور اسلام میں آکر کافر ہو گئے اور وہ جاہا تھا جو انہیں نہ ملا، اور انہیں کیا برا لگا ہی نہ کہ اللہ و رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، تو اگر وہ توبہ کریں تو ان کا بھلا ہے، اور اگر نہ پھیریں تو اللہ انہیں سخت عذاب کرے گا دنیا اور آخرت میں، اور زمین میں کوئی نہ ان کا حجاجی ہو گا نہ مددگار (74)

اور ان میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا، تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے (75)

تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا

سَيُصَلُّونَ فِيهَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ۝۷۰

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَسُكُنُوكَ فِيهَا فِي جَنَّاتٍ وَعْدَنُ وِرْدُونَ بِهَا مِنَ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝۷۱

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَأْمُرْهُمْ بِجَهَنَّمَ وَيَسْأَلِ الْمَعْصِيَةَ ۝۷۲

يَتْلِفُونَ بِاللَّهِ مَآثًا وَالْقَدَآءَ وَالْوَكْمَةَ الْكُفْرَ وَالْكُفْرَ وَابْعَادِ إِسْلَامَهُمْ هُمْ وَمَعْلَمِيَا لَكُمْ سَبَأًا وَمَا تَقْتُلُوا إِلَّا أَنْ أَنْتُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنِ يَتُوبُوا إِلَيْكَ خَيْرٌ لَّهُمْ وَإِنِ يَكُونُوا يُعَدِّبُهُمْ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا إِنِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَالْمَالُ فِي الْأَرْضِ مِنْ كَرِيٍّ وَلَا نُصِيرُ ۝۷۳

وَمِنْهُمْ مَنُ عَاهَدَ لِلَّهِ لَئِنِ آتَاهُمْ فَضْلُهُ لَيُصَدَّقُنَّ بِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الضَّالِّينَ ۝۷۴

فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ خَنَوْا بِيَهُمْ وَكَانُوا

turned away their faces and withdrew.

77. Therefore, after He (Allah) left them with their hypocrisy in their hearts until the Day, they meet Him that they failed in what they had promised to Allah and that they were telling lies.

78. Are they not aware that Allah knows the secrets of their hearts and their conspiracies and Allah quite well knows all the hidden things.

79. Those who find faults with believers (Muslims) who give charity willingly and who give out of their hard labor, they are the disbelievers who laugh at them. Allah will pay back their jocking and for them is the painful punishment.

80. (It is equal that) you ask or donot ask forgiveness for them. Even if you ask forgiveness for them, seventy times, Allah will never forgive them. That is because they disbelieved in Allah and His Rasool (Messenger). And Allah does not guide the disobedient people.

SECTION 11

81. Those who were left behind delighted at this that they remained sitting behind the Rasool (Allah's Messenger) and they did not like that they may fight in the way of Allah with their wealth and lives and said, "do not go out in this heat;" please declare, "the fire of the hell is the hottest (For them); could they understand?"

82. They shall laugh a little but weep much, due to the retribution of what they earned.

اس میں بخل کرنے لگے، اور منہ پھیر کر پلٹ گئے (76)

تو اس کے پیچھے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا اس دن تک کہ اس سے ملیں گے، بدلا اس کا کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ جھوٹا کیا، اور بدلا اس کا کہ جھوٹ بولتے تھے (77)

کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ان کے دل کی چھین اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب غیروں کا بہت جاننے والا ہے (78)

وہ جو عیب لگاتے ہیں ان مسلمانوں کو کہ دل سے خیرات کرتے ہیں، اور ان کو جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت سے، تو ان سے ہنستے ہیں، اللہ ان کی ہنسی کی سزا دے گا، اور ان کے لیے درد ناک عذاب ہے (79)

تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو! اگر تم ستر بار ان کی معافی چاہو گے تو اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے منکر ہوئے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا (80)

پیچھے رہ جانے والے اس پر خوش ہوئے کہ وہ رسول کے پیچھے بیٹھ رہے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں لڑیں، اور بولے! اس گرمی میں نہ نکلو، تم فرماؤ! جہنم کی آگ سب سے سخت گرم ہے، کسی طرح انہیں سمجھ ہوتی (81)

تو انہیں چاہیے کہ تمہارا نہیں اور بہت روکیں، بدلا اس کا جو کماتے تھے (82)

وَهُمْ مَعْرِضُونَ ۝

فَاَعْبَيْتُمْ نِيقَاتِي فَمَلَّ بِهِنَّ إِلَىٰ يَوْمِ يُلْقَوْنَ رَبَّهُمْ أَبَدًا وَعَدْوًا ۝
وَبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سُرُوسَهُمْ ۝
يَجْزِيهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝

الَّذِينَ لَمْ يَبْرؤُوا الْمُطْرِبِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جَهَنَّمَ كَمَا كَانُوا مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يَخْرُجُوا إِلَىٰ أُوْلِي الْأَنْفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يَخْرُجُوا فِي الْحَرِّ نَارِ جَهَنَّمَ لَشِدِّ جَوْلًا لَوْ كَانُوا أَيْقِينُونَ ۝

لَيَضْحَكُوا وَلَئِنْ لَمْ يَكُفُّوا أَلَيْسَ لِيَوْمِهِمْ أَجْرًا ۝
بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

remain in eternity therein. This is the supreme triumph.

SECTION 12

90. And the defaulters from the desert Arab who had an excuse came begging leave to stay behind while those who lied to Allah and His Rasool (Messenger) remained idle at home. Soon a painful punishment shall befall to the disbelievers among them.

91. There is no fault on the weak, and on the sick and nor on those who are not capable to spend, when they are sincere to Allah and His Rasool (Messenger). There is no accountability for the kind ones. And Allah is Forgiving, Merciful;

92. nor on those who came to you that you may provide conveyance to carry them (to battle field) You said to them, "I have nothing where on to carry you mounted." So they returned back and their eyes overflowing with tears because of the grief that they could not find means that which they should spend.

93. The accountability is only for those who ask permission from you and they are rich. They liked to sit behind and Allah has sealed their heart so they know nothing.

PART - 11

SURA TAUBA (Contd.)

SECTION 12 (Contd.)

94. They will make excuses to you when you will return to them. Please declare, "make no excuses. We will never believe you. Allah has already given information to us about matters relating to you". Now Allah and His Rasool (Messenger) will see

ان میں رہیں گے، یہی بڑی مراد ملی ہے (89)

اور بھانے بنانے والے گنوار آئے کہ انہیں رخصت دی جائے اور بیٹھ رہے وہ جنہوں نے اللہ و رسول سے جھوٹ بولا تھا، جلد ان میں کے کافروں کو درد ناک عذاب پہنچے گا (90)

ضعیفوں پر کچھ حرج نہیں اور نہ بیماروں پر، اور نہ ان پر جنہیں خرچ کا مقدر نہ ہو، جب کہ اللہ اور رسول کے خیر خواہ رہیں، نیکی والوں پر کوئی راہ نہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے (91)

اور نہ ان پر جو تمہارے حضور حاضر ہوں کہ تم انہیں سواری عطا فرماؤ، تم سے یہ جواب پائیں کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس پر تمہیں سوار کروں، اس پر یوں واپس جائیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو اچلتے ہوں، اس غم سے کہ خرچ کا مقدر نہ پایا (92)

مواضع تو ان سے ہے جو تم سے رخصت ہاتھتے ہیں اور وہ دولت مند ہیں، انہیں پسند آیا، کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، تو وہ کچھ نہیں جانتے (93)

تم سے بھانے بتائیں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، تم فرمنا: بھانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے، اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دیں ہیں، اور اب اللہ و رسول تمہارے کام دیکھیں

الَّذِينَ خَلَدُوا فِيهَا ذٰلِكَ الْقَوْنُ
يَا الْعَظِيمُ ﴿٩٠﴾

وَجَاءَ الْمُعَذَّبُونَ مِنَ الْأَغْطَابِ يَلْعَنُونَ
لَهُمْ وَعَعَدَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
سَيَصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿٩١﴾

لَيْسَ عَلَى الضَّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَ
أَعْلَىٰ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ
حُجْرًا إِذَا أَصْحَابُ اللَّهِ وَرَسُولِهِمْ مَا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ عَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿٩٢﴾

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلْتُمْ لَمَجِّمُهُمْ
قُلْتُمْ لَا أُجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ تَوَكَّلُوا وَإِ
أَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا
يَجِدُوا مَا يَنْفِقُونَ ﴿٩٣﴾

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَنتَظِرُونَ تَوَكُّ
وَهُمْ عُتْبَاءُكُمْ، كَضُوْءِ الْبَاطِنِ الَّذِي يُؤْتُوا مَعَ
النُّجُورِ وَكَلِمَةِ اللَّهِ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٤﴾

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْنَا إِذْ رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
قُلْ لَكُمْ عَذَابُ ذٰلِكُمْ الَّذِي تَمُنُّونَ
بِكُمْ كَذَّبْتُمْ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
فَبَدَّلَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ

your deeds, then you will be returned to Him Who knows all the unseen and the seen. He will tell you what you used to do.

95. They will swear by Allah before you, when you return to them that you may leave them. Therefore, you turn aside from them because they are completely unclean and their destination is hell as a retribution of what they used to earn.

96. They used to swear before you that you may be pleased with them. But if you are pleased with them, surely Allah is not pleased with disobedient people.

97. They being dwellers (Arabs) of desert are more stubborn in infidelity and hypocrisy and they are only worthy of this that they should remain ignorant of the Commands which Allah has sent down upon His Rasool (Messenger). And Allah is Knowing, Wise.

98. And among the dwellers (Arabs) of desert, some are those who regard what they spend in the way of Allah as fine, and remain aspirant of misfortune befalling on you. On them is the evil calamity. And Allah Hears, Knows.

99. And among the dwellers (Arabs) of the desert some are those who believe in Allah and the Last Day, and regard that what they spend brings nearer to Allah and enables to get the blessings of the Rasool (Messenger of Allah). Yes, that is the means of such nearness for them. Allah will

کے پھر اس کی طرف پلٹ کر جاؤ گے جو پیچھے اور ظاہر سب کو جانتا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے (94)

اب تمہارے آگے اللہ کی قسم کھائیں گے، جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے، اس لیے کہ تم ان کے خیال میں نہ پڑو، تو ہاں! تم ان کا خیال چھوڑو، وہ تو نرے پلید ہیں، اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے، بدلا اس کا جو تمہارے آگے قسمیں کھاتے تھے (95)

تمہارے آگے قسمیں کھاتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تو اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ، تو بیک اللہ تو قاسم لوگوں سے راضی نہ ہو گا (96)

گنوار (بالکل جاہل) کفر اور فحاشی میں زیادہ سخت ہیں، اور اسی قابل ہیں کہ اللہ نے جو حکم اپنے رسول پر اتارے اس سے جاہل رہیں، اور اللہ علم و حکمت والا ہے (97)

اور کچھ گنوار (جاہل) وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں اسے تاوان سمجھیں اور تم پر گردش آنے کے انتظار میں ہیں، انہیں پر ہے بری گردش، اور اللہ سزا جانتا ہے (98)

اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو خرچ کریں اسے اللہ کی نزدیکیوں اور رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھیں، ہاں! ہاں! وہ ان کے لیے باعث قرب ہے، اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا،

عَمَلِكُمْ وَرَسُولِهِ لَمْ يَرَوْهُنَّ اِلَىٰ عَلَيْهِمُ
الْغَيْبِ وَاللَّهَاقِ وَيُؤْتِيَهُم مِّمَّا يَلْتَمِسُونَ ﴿٩٥﴾

سَيُطِئُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ الْغَيْبِ لَمْ يَرَوْهُنَّ
يَعْرِضُوا عَنْكُمْ لَمْ يَرْضُوا عَنْكُمْ اِنْ يَرْضَوْا
عَنْكُمْ وَمَا يَرْضَوْنَ لَكُمْ لَمْ يُغْنِ عَنْهُمْ
كَافُوًا يَكْفُرُونَ ﴿٩٦﴾

يَكْفُرُونَ لَكُمْ لَمْ يَرْضَوْا عَنْكُمْ لَنْ يَرْضَوْا
عَنْكُمْ وَلَنْ يَرْضَىٰ عَنْ الْقَوْمِ
الْفَرِيقِينَ ﴿٩٧﴾

الْاَعْرَابِ اسْتَفْرَضُوا وَقَدِ اجْعَدُ
الْاَيُّكُمْ مَوَاحِدًا وَمَا تَرْكُ
اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولٍ ؕ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٩٨﴾

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُوقِفُ مَعْرُوفًا
وَيَتَّخِذُ بِكُمْ الْاَلْبَابَ وَيُرِيدُ بِكُمْ
السُّوءَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٨﴾

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ
الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُوقِفُ قُرْبًا
عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوَاتُ الرَّسُولِ اَلَا اِنَّهَا كَنْزٌ
لَّهُمْ سَيَدْخُلُهَا اللّٰهُ فِي رَحْمَتِهِ اِنَّ

Mercy. Surely, Allah is Forgiving, Merciful.

بیک اللہ بخشے والا مہربان ہے (99)

بیتدرون ۱۱
اللہ غفورٌ رحیمٌ ﴿۹۹﴾

SECTION 13

100. And the first and the foremost are Mookhajirs (migrants) and Ansaars (helpers) and those who followed them with good intention. Allah is pleased with them and they are Pleased with Allah. And for them He has prepared Paradises under which streams flow. They will remain there for ever. This is the greatest success.

اور سب میں اگلے پہلے مہاجر و انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں یاغ جن کے نیچے نہریں ہیں، بیش بیش ان میں ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے (100)

وَالشَّيْقُونَ الَّذِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالانصارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱۰۰﴾

101. And some dwellers (Arabs) of desert around you are hypocrites and some of the dwellers of Madina too. Hypocrisy has become their habit. You know them not, We (Allah) know them. We (Allah) shall soon punish them again. They will be returned to a grievous torment.

اور تمہارے آس پاس کے کچھ گنوار (جامل) منافق ہیں، اور کچھ مدینے والے ان کی خو (عاتت) ہو گئی ہے نفاق تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں جلد ہم انہیں دوبارہ عذاب کریں گے، پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے (101)

وَمَنْ حَزَنَ حَزَنًا مِنَ الْإِنْفِاقِ فَتُحِبُّونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَىٰ النَّفَقِ لَا تَقْلَمُ لَهُمْ سُنْعُهُمْ سُنْعُهُمْ لِيَوْمِ تَأْتِيَنَّهُمُ الْبُرُودُ نَالِي عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿۱۰۱﴾

102. And there are some others who acknowledge their sins and mix up a good deed with evil. It is near that Allah may accept their repentance. Surely, Allah is Forgiving, Merciful.

اور کچھ اور ہیں جو اپنے گناہوں کے مقرر ہوئے اور ملایا ایک کام اچھا اور دوسرا برا، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے، بیک اللہ بخشے والا مہربان ہے (102)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُؤْتِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَمَنْ يَتُوبْ عَلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۰۲﴾

103. (O beloved Prophet) realize the Zakaat (compulsory due for have nots) out of their wealth, to purify and clean them. And pray for them. Surely, your prayer brings good relief for them. And Allah Hears, Knows.

اے محبوب! ان کے مال میں سے زکوٰۃ جمع کر، جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کرو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بیک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چھین ہے، اور اللہ سنتا جانتا ہے (103)

خُذُوا مِنْ أَقْوَابِهِمْ صَدَقَاتِهِمْ لِيُطَهَّرُوا وَتُؤْتُوا لَهُمْ وَرُحْمًا يُبَسِّطُهَا وَأُصْلِحْ عَلَيْهِمْ إِنْ صَلَاتُكَ سَكُنَ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۰۳﴾

104. Are they not aware that only Allah accepts the repentance of His devotees and takes the charities in His Hand, and that Allah is the Relenting, the Merciful?

کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا، اور مدد سے خود اپنے دست قدرت میں لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے (104)

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۰۴﴾

105. And please declare, "work, Allah observes your

اور تم فرماؤ! کام کرو، اب تمہارے کام

وَقُلْ أَعْمَلُوا النَّاسِ بِي اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَا

work and so does His Rasool (Messenger) and the believers (Muslims). And you will soon be returned to Him Who Knows all the unseen and the seen. Then He will inform you what you used to do.

106. And others' actions have been deferred to Allah's judgement, whether He punishes them or accepts their repentance. And Allah is Knowing, Wise.

107. And those who have built a mosque in order to commit mischief spread disbelief and to cause disunity among the Muslims and provide refuge for him who thrusts war against Allah and His Rasool (Messenger) from the past. And they will surely swear that they desired only good. But Allah bears witness that they are certainly liars.

108. You never enter that mosque. Surely, the mosque whose foundations have been laid on righteousness from the very first day, is much worthy that you may stand therein. There are such people who desire to be well purified and Allah loves the pure.

109. Then is he/she better who laid foundation upon the fear of Allah and His Pleasure or he who laid his foundation on the brink of a falling pit and then fell with it in the fire of the hell; And Allah does not guide to the right way the cruel people.

110. The edifice which they have built will continue to inspire their hearts until their hearts may be cut into pieces. And Allah is Knowing, Wise.

دیکھے گا اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان اور جلد اس کی طرف پلٹو گے جو چھپا اور کھلا سب جانتا ہے، تو وہ تمہارے کام تمہیں بتا دے گا (105)

اور کچھ موقوف رکھے گئے اللہ کے حکم پر یا ان پر عذاب کرے یا ان کی توبہ قبول کرے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے (106)

اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو، اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو، اور اس کے انتقام میں جو پلٹے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور تمہیں کھائیں گے ہم نے تو بھلائی چاہی، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں (107)

اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا، بیٹک وہ مسجد کہ پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پر بیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو، اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستمرا ہونا چاہتے ہیں اور ستمرے اللہ کو پیارے ہیں (108)

تو کیا جس نے اپنی بنیاد رکھی اللہ سے ڈر اور اس کی رضا پر، وہ بھلایا وہ جس نے اپنی نحو جہی (بنیاد رکھی) ایک گراؤ (ٹوٹے ہوئے کناروں والے) گڑھے کے کنارے، تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں ڈھ پڑا، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا (109)

وہ تعمیر جو جہنم میں ان کے دلوں میں کلکتی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ علم و حکمت والا ہے (110)

رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَيُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْعَالِيْنَ وَالْعَالِيْنَ سَائِرًا وَفِي زَيْتُونَةٍ مَّا تَنْظُرُونَ ﴿١٠٥﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمَرُوا بِالْقَوْلِ الْغَيْرِ الْمُبِينِ وَيَسْتَعِزُّونَ بِالْحِجَابِ وَإِنَّهُمْ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ ﴿١٠٦﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمَرُوا بِالْقَوْلِ الْغَيْرِ الْمُبِينِ وَيَسْتَعِزُّونَ بِالْحِجَابِ وَإِنَّهُمْ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ ﴿١٠٦﴾

لَا تَقْرَبُهَا الْقِبْلَةُ الْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمَرُوا بِالْقَوْلِ الْغَيْرِ الْمُبِينِ وَيَسْتَعِزُّونَ بِالْحِجَابِ وَإِنَّهُمْ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ ﴿١٠٧﴾

الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمَرُوا بِالْقَوْلِ الْغَيْرِ الْمُبِينِ وَيَسْتَعِزُّونَ بِالْحِجَابِ وَإِنَّهُمْ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ ﴿١٠٧﴾

لَا تَقْرَبُهَا الْقِبْلَةُ الْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمَرُوا بِالْقَوْلِ الْغَيْرِ الْمُبِينِ وَيَسْتَعِزُّونَ بِالْحِجَابِ وَإِنَّهُمْ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ ﴿١٠٧﴾

SECTION 14

111. Surely, Allah has bought from the faithfuls their lives and properties for this in return, that for them is Paradise as they fight in the way of Allah. Then they kill and are killed: There is true promise as His generous responsibility in the Tauraat (Torah) and the Injeel (Bible-Gospel) and the Qur'aan. And who is more true to his words than Allah? Rejoice then in your bargain which you have done with Him. And it is the greatest achievement.

112. They are those (believers) who repent, who worship, who praise, who observe Saum (Muslim Fasting), who bow, who prostrate, who enjoin what is the good and forbid from evil and who keep the limits of Allah. And let this be a glad news for the believers (Muslims).

113. It is not for the Nabi (Prophet of Allah) and the believers (Muslims) to beg forgiveness for the pagons, even though they be relatives, after it has been made clear to them that they are the inmates of hell.

114. And Ibraaheem's asking forgiveness for his father was a not but on account of a promise, he had made to him. But when it was made clear to him that he is an enemy of Allah he detracted himself from him. Surely Ibraaheem (Abraham) was most tender hearted and forbearing.

115. And it is not (attributable to) Allah that He leads astray any nation after He has guided them,

بیک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں، اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے، اللہ کی راہ میں لڑیں تو ماریں اور مریں، اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ تورت اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ قول کا پورا کون؟ تو خوشیاں مناؤ اپنے سوسے کی، جو تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے (111)

توبہ والے، عبادت والے، سراہنے والے، روزے والے، رکوع والے، بھلائی کے بتانے والے، اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدیں نگاہ رکھنے والے، اور خوشی مناؤ مسلمانوں کو (112)

نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ مشرکوں کی بخشش چاہیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جبکہ انہیں کھل چکا کہ وہ دوزخی ہیں (113)

اور ابراہیم کا اپنے باپ کی بخشش چاہنا وہ تو نہ تھا مگر ایک وعدے کے سبب جو اس سے کر چکا تھا، پھر جب ابراہیم کو کھل گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اس سے تنگ توڑ دیا، بیک ابراہیم ضرور بست آئیں کرنے والا تمہل ہے (114)

اور اللہ کی شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے گمراہ فرمائے، جب تک

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمْ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ لِيُقَاتِلَهُمْ وَعَدَا
عَلَيْهِمْ حَقَّاقِ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ
وَمَنْ أوفى بعهده من الله فاستبشروا
بِعِيقِهِمُ الذِّمَىٰ بِأَيْمَانِهِمْ وَذَلِكَ هُوَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
الَّذِينَ كَانُوا يُشْرِكُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالظَّالِمُونَ يُخَدُّونَ
اللَّهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا
لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾

وَمَا كَانَ السَّعْفَاءُ ابْنِ إِبرَاهِيمَ لِابْتِغَاءِ الرَّحْمَنِ
مَعُونَةً وَعَدَاةً لِكُلِّ أَهْلِ الْآيَاتِ لَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ
عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ ابْنُ إِبرَاهِيمَ لِأَدَاءِ
حَلِيمٍ ﴿١١٤﴾

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ

until He makes clear to them as to what they have to guard against. Surely Allah Knows every thing.

116. Surely Allah's is the kingdom of heavens and earth. He gives life and causes death. And you have no Protector nor Helper besides Allah.

117. Surely, Blessings of Allah are conferred on the Nabi (Prophet of Allah) and those immigrants and helpers who sided with him in the hour of hardship, after it that the hearts of some of them were about to deviate. Then He turned towards them with Blessings. Surely, He is most Kind, Merciful to them.

118. And to the three who were left behind, so much so that the earth being so vast became closed to them, and they became tired of their own lives, and they were certain that there is no refuge from Allah except Him. Then, He turned to them to forgive that they might repent. Surely, it is Allah Who is Relenting, the most Merciful.

SECTION 15

119. O believers! fear Allah and stand with the truthful.

120. It was not proper for the inhabitants of Madina and those around them from amongst the dwellers (Arabs) of desert to stay behind the Rasool (Messenger) of Allah, nor that they should consider their own lives more dear than his life. This is so because whatever they face as thirst or distress or hunger for the cause of Allah or they take a step on a place which provokes the disbelievers or

انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے، بلکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے (115)

بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، جلاتا ہے اور مارتا ہے اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی والی اور نہ مددگار (116)

بلکہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوئیں ان نبی کی خبر بتانے والے (نبی) اور ان ماجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل کی گمڑی میں ان کا ساتھ دیا بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ان میں کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں، پھر ان پر رحمت سے متوجہ ہوا، بلکہ وہ ان پر نہایت مہربان رحم والا ہے (117)

اور ان تین پر جو موقوف رکھے گئے تھے یہاں تک کہ جب زمین اتنی وسیع ہو کر ان پر تنگ ہو گئی، اور وہ اپنی جان سے تنگ آئے اور انہیں یقین ہوا کہ اللہ سے پناہ نہیں سحر اسی کے پاس، پھر ان کی توبہ قبول کی کہ تائب رہیں، بلکہ اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے (118)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور جہنم کے ساتھ ہو (119)

عینہ والوں اور ان کے گرد و بہات والوں کو لاق نذ تھا، کہ رسول اللہ سے پیچھے بیٹھ رہیں، اور نہ یہ کہ ان کی جان سے اپنی جان پیاری سمجھیں، یہ اس لیے کہ انہیں جو پیاس یا تکلیف یا بھوک اللہ کی راہ میں پہنچتی ہے، اور جہاں ایسی جگہ قدم رکھتے ہیں جس سے کافروں کو غیظ آئے، اور جو کچھ کسی دشمن کا بگاڑتے ہیں، اس

هُدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمُ مَا يَشَاءُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُبَدِّلُ الشَّيْءَ ۖ عَلَيْهِمُ

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي أَلْمِيقَاتِ قُوَّةٌ وَلَا نَصْرٌ ۝۱۱۶

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْحُسْرَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ لَقَدْ تَابَ عَلَيْهِمْ لِقَابُهُمْ رِءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝۱۱۷

وَسَكَتَ الشُّعْبَةُ الَّذِينَ خَرَفُوا حَتَّىٰ إِذَا صَافَتْ لَهُمُ الْأَرْضَ بِمَا رَحِمَتْ وَ صَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّمْ يَلْبَسُوا مِنَ اللَّهِ إِلَّا الْيَدُ الَّتِي تَتَابَعْتُمْ عَلَيْهَا ۚ يَسْتَأْذِنُ بَٰرِئُ اللَّهِ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ۝۱۱۸

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝۱۱۹

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْجِعُوا بِأَنفُسِهِمْ مِنْ نَفْسِهِ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُمْ لَيَصِيدُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْصَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَلْبِطُونَ مِنْ طَمَأً لَّيْظًا كَيْفِظُ الْكُفْرَانِ وَلَا يَأْتِي الْكُفْرَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ

whom they do any harm to the enemy, it shall be written as good deed for them. Surely Allah does not waste reward of the kind ones.

121. And whatever they spend, small or great and the valley they cross, all is written in their credit, so that Allah may reward them for their best deeds.

122. And it is not possible for believers (Muslims) that all should come out (for war). A party from them should come out and some should stay behind that they may understand religion and be able to instruct them after coming back that they may be careful (in deeds).

SECTION 16

123. O believers! fight the pagans who dwell around you, and let them find in you a firmness, and know that Allah is with the pious.

124. Whenever a Soora (Chapter of the Holy Qur'aan) is revealed, then some of them say, "which of you has increased in strength of faith? But those who believe, it has increased them in faith, and they are rejoicing.

[ONE FOURTH OF PART 11 ENDS]

125. And those in whose hearts there is disease, it increases their dirtyness with more dirtyness and they die while they are disbelievers.

126. Do not they observe that they are tried every year once or twice? Even then neither they repent nor accept advice.

127. And whenever any Soora (Chapter) is sent down, they begin to look at each

سب کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے، بیک اللہ نیکوں کا نیک (اجر) ضائع نہیں کرتا (120)

اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں جھوٹا یا بڑا اور جو نالا (ازاد بند) ملے کرتے ہیں سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے، تاکہ اللہ ان کے سب سے بہتر کاموں کا انہیں صلہ دے (121)

اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکلیں، تو کویں نہ ہو کہ ان کے ہر گمروہ میں سے ایک جماعت نکلے، کہ دین کی سمجھ حاصل کریں، اور واپس آکر اپنی قوم کو ڈر سنائیں، اس امید پر کہ وہ بچیں (122)

اے ایمان والو! جہاد کرو ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں، اور چاہے کہ وہ تم میں سختی پائیں، اور جان رکھو کہ اللہ پر ہیزگاروں کے ساتھ ہے (123)

اور جب کوئی سورت اترتی ہے، تو ان میں سے کوئی کہنے لگتا ہے، کہ اس نے تم میں کس کے ایمان کو ترقی دی؟ تو وہ جو ایمان والے ہیں، ان کے ایمان کو اس نے ترقی دی، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں (124)

اور جن کے دلوں میں آزار (بیماری) ہے انہیں اور پلیدی پر پلیدی برصالی، اور وہ کفری پر مر گئے (125)

کیا انہیں نہیں سوسمتا کہ ہر سال ایک یا دو بار آزمائے جاتے ہیں، پھر نہ تو توبہ کرتے ہیں، نہ نصیحت مانتے ہیں (126)

اور جب کوئی سورت اترتی ہے، ان میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگتا ہے، کہ کوئی

الرَّكِبَ لِيُجْرِبَهُمْ عَلَى صَالِحٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾

وَلَا يُفْقِرُونَ لِقَعَنَ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا أَلَّا يَكْتُوبَ لَهُمْ جِزْيَتُهُمْ إِنَّ اللَّهَ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا

نَفَرْنَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

يَأْتِيَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ غَلظَةً ﴿١٢٣﴾

وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً فَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هُدًىٰ أَمَانًا إِنَّهَا فَأَتَى الَّذِينَ آمَنُوا فَأَذَاتُ فَمِنْ بَيْنَهُمْ يَمَانًا وَمِنْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٥﴾

أَلَّا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ ﴿١٢٦﴾

وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً لَّفِظَتْ بِهَا

other, does any one watch you? Then they turn away. Allah has left their hearts to go exhausted, because they are senseless people.

128. Surely there has come to you a Nabi (Messenger of Allah) from among yourselves. Your suffering is felt very heavily by him and he seriously desires your welfare. To the believers (Muslims) he is most kind and merciful.

129. But if they turn back their face then please declare, "Allah is enough for me. There is no Allah but only He. In Him I trust; and He is the Rubb (Sustainer) of the Glorious power."

S. X

SURA YUNUS (JONAH)

(Revealed at Makkah)

(109 Verses, 11 Sections)
Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. ALIF LAAM RAA (A.L.R.) These are the Verses of the Book of Wisdom.

2. Is it a wonder for the people that We (Allah) revealed to a male among them to warn the people, and give glad news to the believers, that they have a sure position of truth with their Rubb (Sustainer). The disbelievers said, "surely he is a clear magician."

3. Surely, Your Rubb (Sustainer) is Allah Who created the heavens and earth in six periods and is firm in power. He manages to regulate all the affairs. No one can make any recommendation except by

ہمیں دیکھا تو نہیں، پھر پلٹ جاتے، انہی نے ان کے دل پلٹ دیئے، کہ وہ تا کب لوگ ہیں (127)

بیک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان (128)

پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو، کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے (129)

بَعْضٌ هُمْ لِيُرِيَكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ
اللَّهُ يَوْمَ يُنَادِيهِمْ لِيُرِيَهُمْ بِأَنفُسِهِمْ
يَوْمَ لَا يُفْقَهُونَ ۝۱۲۸

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ
عَلَيْكُمْ وَمَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ۝۱۲۹

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ ۝۱۲۹

سورۃ یونس کی ہے (اس میں) ایک سو نو (109) آیتیں اور گیارہ (11) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

سورۃ یونس صیغۃ یونس

یہ: بِرَبِّكَ الْوَكِيمِ

یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں (1)

کیا لوگوں کو اس کا اچھا ہوا، کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کو وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈر سناؤ! اور ایمان والوں کو خوشخبری فرماؤ، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے، کافر بولے! بیک یہ تو کھلا جادوگر ہے (2)

بیک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین چھ دن میں بنائے، پھر عرش پر استوی فرمایا، جیسا اس کی شان کے لائق ہے، کام کی تدبیر فرماتا ہے، کوئی سفارشی نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد، یہ ہے

كَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ
مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ
آمَنُوا أَنْ لَهُمْ قَدَرٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ
قَالَ الْمُكَفِّرُونَ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ
قَبِيلٌ ۝۱۲۸

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى
الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأُمُورَ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا

and their greeting word is "Peace" and they end their prayer as "all praise be to Allah, Who is the Rubb (Sustainer) of the entire universe".

SECTION 2

11. And had Allah hastened the punishment to the human beings, as they demand in haste the good, their fate would have been finished. But We (Allah) leave those who do not aspire to meet Us (Allah), that they blindly may wander in their excesses.

12. And when misfortune befalls a man, he (she) calls Us (Allah) lying down and sitting down and standing up; but when We (Allah) remove his (her) trouble, he (she) passes on as if he (she) never prayed to Us (Allah) at the time of any trouble touching him (her). Thus it appears fair to the transgressors for what they do.

13. Surely, We (Allah) ruined generations before you, when their Rasools (Messengers of Allah) came to them with clear arguments, but they were not such as to believe. Thus We (Allah)* punish in retribution the criminals.

14. Then We (Allah)* appointed you viceroys on earth to succeed them, that We (Allah) may observe how you act?

15. And when Our (Allah's)* clear Verses are recited to them, then those who do not hope to meet Us (Allah)* say, bring the Qur'aan other than this, or change it. Please declare, "it is not for me to change it by

پاکی ہے، اور ان کے لئے وقت خوشی کا پھلا بول سلام ہے، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ سب خوبیوں سربراہ اللہ جو رب ہے سارے جہان کا (10)

اور اگر اللہ لوگوں پر برائی ایسی جلد بھیجتا جیسی وہ بھلائی کی جلدی کرتے ہیں، تو ان کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا، تو ہم چھوڑتے انہیں جو ہم سے لئے کی امید نہیں رکھتے، کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں (11)

اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے ہمیں پکارتا ہے، لیٹنے اور بیٹھے اور کھڑے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں، چل رہتا ہے، گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا، یونہی بھٹک کر دکھائے ہیں حد سے بڑھنے والے کو ان کے کام (12)

اور بیکہ ہم نے تم سے پہلے سنگتیں ہلاک فرمادیں، جب وہ حد سے بڑھے، اور ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے، ہم یونہی بدلا دیتے ہیں مجرموں کو (13)

پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین کیا، کہ دیکھیں تم کیسے کام کرتے ہو (14)

اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو وہ کہنے لگتے ہیں جنہیں ہم سے لئے کی امید نہیں، کہ اس کے سوا اور قرآن لے آئیے، یا اسی کو بدل دیجئے تم فرماؤ! مجھے نہیں پہنچتا کہ میں اسے اپنی

فِيهَا سَلَامٌ وَأَعْرَاجُ دَعَاؤُهُمْ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

وَلَوْ يَخْتَلِفُ اِلَهُ لَلنَّاسِ لَشَرَّ مَا يَتَّبِعُونَ
بِالْخَيْرِ لِقَوْلِ الْيَوْمِ لَجَعَلْنَاهُمْ فِتْنَةً
الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي
طَعْنِائِهِمْ رِعْمَهُمْ ۝

وَاذْهَبْ اِلَى الْاِنْسَانِ الضَّالِّ عَنَّا لِحَيْثُهَا
لَوْ كَانُوا اَوْفَا بِمَا كُنَّا كَشَفْنَا عَنْهُ
صُحْرَهٗ مَكَانَ لَمْرٍ اِنَّا لَنَصْرَفُنَّ
كَذَلِكَ رُؤْيُ الْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ۝

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا
فَلَكُوا اَوْجَاعًا نُهْمَرُ سُلُوبَهُمْ بَايْبِنَاتٍ
وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا اذْكَالِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ
الْمُجْرِمِينَ ۝

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْاَرْضِ مِنْ
بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝

وَاذْاَسْئَلُ عَلَيْهِمْ اِيَّا تَنَا بِنَدْبِ كَا ل
الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي بَعْدِ اِي
عَبْرَهُنَّ اَوْ يَدْبُلُهُنَّ فَا لَمَّا يَكُوْنُ فِي اِي

my own choice. I only follow, what is revealed to me. If I disobey my Rubb (Sustainer), then I fear the punishment of the mighty Day.

16. Please declare, "if Allah had Willed, I would not have recited it to you, nor would He have taught it to you. I have lived a life time among you before it. Even then you do not understand.

17. Then who is more cruel than the one who forges a lie against Allah or behes His Verses? Surely, the criminals will not succeed.

18. And they worship instead Allah such one which neither can harm them nor can give them any favor. And they say, "these are our helpers with Allah". Please declare, "do you presume to tell Allah the thing as if it is neither in His knowledge, nor in heavens or on earth. Holy and exalted is He from what they associate (with Him).

19. And the mankind are not but one community, but they differ. And had this thing not been settled so from your Rubb (Sustainer) before, the matter would have been decided between them concerning which they disagree.

20. And they say, why has not a verse been sent down to him from his Rubb (Sustainer)? Please declare, "the unseen belongs to Allah." "Now wait, I am also surely among those who wait with you."

SECTION 3

21. And when We (Allah) let the people taste mercy after any hardship touches them, forth with they begin to

طرف سے بدل دوں' میں تو اس کا تابع ہوں جو میری طرف وحی ہوتی ہے' میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں' تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے (15)

تم فرماؤ! اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑھتا، نہ وہ تم کو اس سے خبردار کرتا تو میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تمہیں عقل نہیں (16)

تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یا اس کی آیتیں جھلٹائے، بیشک مجرموں کا بھلا نہ ہو گا (17)

اور اللہ کے سوا ایسی چیز کو پوجتے ہیں جو ان کا کچھ بھلا نہ کرے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں، تم فرماؤ! کیا اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں، نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں، اسے پائی اور برتری ہے ان کے شرک سے (18)

اور لوگ ایک ہی امت تھے پھر مختلف ہوئے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی، تو ہمیں ان کے اختلافوں کا ان پر فیصلہ ہو گیا ہوتا (19)

اور کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ تم فرماؤ! غیب تو اللہ کے لیے ہے، اب راستہ دیکھو! میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہا ہوں (20)

اور جبکہ ہم آدمیوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچتی

أَتَدْرِكُهُ مِنْ تَبَعَاتِي فَسُرِّي أَنْ أُنَبِّئَهُ
إِلَّا مَا يُؤْتِيَنِ الْوَحْيَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ عُصِبْتُ
رَبِّيَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ⑩

فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا
أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا
تَرَى قِبَلَهُ أَعْيُنًا تُفْقَهُونَ ⑪

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ
كُذُوبًا أَذْكَبَ بَيِّنَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْقَهُونَ
الْمُجْرِمُونَ ⑫

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ

وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوَإِلَّا شَفَاعَاؤُنَا

عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَدْرِبُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَفْعَلُ
فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحٰنَهُ وَ
تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ⑬

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً
فَأَخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ
لَقَضَىٰ إِلَيْنَهُمْ قِيمَاتِهِمْ يَخْتَصِمُونَ ⑭

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ مَا تَنْتَهِرُونَ
أَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَنْ نَبَّأَنَّكُمْ أَنَّكُمْ
أَبْرَارٌ ⑮

وَأَذَانًا لِلنَّاسِ رُحْمَةً يُعْرَضُونَ

play trick with Our (Allah's) Verses. Please declare, "Allah is swift in secret devise". Surely Our (Allah's) Angels are writing what are your tricks.

22. It is He Who helps you to journey on the land and sea until you are in the ships and they sail in both of them with a fair breeze and they rejoice thereby. Then there comes upon them a violent wind and the waves from every side overtake them, and they think that they were encircled. Then at that time, they call Allah declaring purely to be His obedients that if you would save us from this, we shall then surely be grateful.

23. But when Allah saves them, they without right rebel in the earth to commit excesses in the land without right. O mankind your rebellion is only against your ownelves, till your living in this world. Then you are to return to Us (Allah). At that time We (Allah) will inform you what were your deeds.

24. The example of this life of the world is like that water which We (Allah) send down from the sky, on account of which the vegetation of the earth grows in abundance, of which men and cattle eat, till, when the earth glitters as gold and is adorned fully and its owners think that it is so under their tilling authority. Our (Allah's) Command comes upon it by night or by day We (Allah) make it barren as if it had not existed till yesterday. Thus We (Allah) explain fully Our

حق، جیسی وہ ہماری آیتوں کے ساتھ واؤں چلے ہیں، تم فرما دو! اللہ کی غیبی تدبیر سب سے جلد ہو جاتی ہے، بیشک ہمارے فرشتے تمہارے مکر لکھ رہے ہیں (21)

وہی ہے کہ تمہیں خشکی اور تری میں چلانا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہو اور وہ اچھی ہو، اسے انہیں لے کر چلیں اور اس پر خوش ہوئے، ان پر آمدگی کا جھوٹا آیا اور ہر طرف اسے لہروں نے انہیں آبا، اور سمجھ لے کہ ہم گھر گئے، اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں نرے اس کے بندے ہو کر کہہ، اگر تو اس سے ہمیں بچا لے گا، تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے (22)

پھر اللہ جب انہیں بچا لیتا ہے یہی وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں اسے لوگو! تمہاری زیادتی تمہارے ہی جانوں کا وبال ہے، دنیا کے جیتے جی برت لو، پھر تمہیں ہماری طرف پھرتا ہے، اس وقت ہم تمہیں جتا دیں گے جو تمہارے کو تک (بد اعمال) تھے (23)

دنیا کی زندگی کی کمات تو ایسی ہی ہے جیسے وہ پانی، کہ ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں سب گھسی ہو کر گھسیں، جو کچھ آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا سنگار لے لیا اور خوب آراستہ ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ یہ ہمارے بس میں آگئی، ہمارا حکم اس پر آیا رات میں یا دن میں، تو ہم نے اسے کر دیا کالی ہوئی، گویا کل حق ہی نہیں، ہم یونسی آیتیں مفصل بیان کرتے ہیں غور کرنے والوں

مَنْهُمْ إِذْ أَلْمَزُواكَ فِي آيَاتِنَا فَدَخَلَ إِلَهُهُمُ الْمَسْكُوتُونَ وَإِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ

(21)

هُوَ الَّذِي يُسَلِّطُكَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذْ أَنْتَ فِي الْفُلِ لَمَّا يَبْرِئُ بِيَدِ يَوْمِ نَجْوٍ ظَلِمْتَهُ وَأَقْرَبْتَهُ بِجَانِبِهِ غَافٍ وَأَجَاءَهُهُ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَكِنِ ابْتِغَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَتَلَكُنْ مِنْ الشَّاكِرِينَ (22)

لَمَّا أَنْجَيْنَاهُمْ إِذْ أَلْمَزُواكَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ لِيَأْتِيَ النَّاسُ إِيَّاكَ كَذِبًا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّهُمُ اللَّهُمَّ الَّذِينَ آتَمَّ إِلَهُتَهُمْ حُجُومًا فَذَرَبْنَا مُؤَدِّيَاتِهِمْ

إِنَّمَا نَسَلُ الْخَلْقَ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذْ أَنْتَ فِي الْفُلِ لَمَّا يَبْرِئُ بِيَدِ يَوْمِ نَجْوٍ ظَلِمْتَهُ وَأَقْرَبْتَهُ بِجَانِبِهِ غَافٍ وَأَجَاءَهُهُ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَكِنِ ابْتِغَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَتَلَكُنْ مِنْ الشَّاكِرِينَ (22)

(Allah's) Verses for a people who ponder.

25. And Allah calls towards the home of peace. And He guides whom He Wills to the straight path.

26. For those who do good is a good reward and even more than that. And neither darkness nor disgrace will cover their faces. It is they who are the inhabitants of Paradise and they will reside there for ever.

27. And those who earn evils, the retribution of the evil is the like of it, and disgrace will cover them. There will be none to defend them from Allah, as if their faces have been covered by lairs of the pitch darking night. It is they who are the inhabitants of the hell to dwell there for ever.

28. And on the day when We (Allah) shall raise all of them together, then We (Allah) shall say to the idolators, "remain at your places, you and your idols." Then We (Allah) shall separate them one from another and their associates will say to them "it was not us that you used to worship."

29. Therefore, Allah is sufficient as witness between you and us (idols), that we were not aware of your worship to us.

(HALF OF PART 11 ENDS)

30. Here every self will be tested what it sent before, and they shall be returned to Allah, Who is their true Protector and all their fabrications shall vanish from them.

کے لیے (24)

اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے، اور جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے (25)

بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد اور ان کے منہ پر نہ چڑھے گی سیاہی، اور نہ خواری، وہی جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے (26)

اور جنہوں نے برائیاں کیں تو برائی کا بدلا اسی جیسا، اور ان پر ذلت چڑھے گی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہو گا گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے کلکے چڑھا دیئے ہیں، وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے (27)

اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے، اپنی جگہ رہو تم اور تمہارے شریک، تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے، تم ہمیں کب پوچھتے تھے؟ (28)

تو اللہ گواہ کافی ہے ہم میں اور تم میں کہ ہمیں تمہارے پوجنے کی خبر بھی نہ تھی (29)

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾
وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قُرْءَانٌ وَلَا ذِكْرٌ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦﴾

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ
بِسَيِّئَةٍ مَا تَرْجِعُهُمْ فِئَةٌ مَّا لَهُمْ مِنْ
اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَمْآءٍ أُعْشِبَتْ
وُجُوهُهُمْ فَطُعَاةٍ مِّنَ النَّارِ لَوْلَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾

يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَسْرَفُوا
مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَذُكِّرْناكُمْ لَكُمْ
شُرَكَاءُكُمْ فَانْتُمْ أَكْثَرُ الْعَادِينَ ﴿٢٨﴾

فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا لِّبَنِي آدَمَ إِنَّ
كُنَّا عَن عِبَادِكُمْ لَغَفِيلِينَ ﴿٢٩﴾

یہاں ہر جان جانچ لے گی جو آگے بھیجا اور اللہ کی طرف پھیرے جائیں گے جو ان کا سچا مولیٰ ہے، اور ان کی ساری بناوٹیں ان سے گم ہو جائیں گی (30)

هٰذَا لِكَيْتَلَوُا كُلَّ نَفْسٍ مَّا اسْتَلَفَتْ وَ
رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مُمْلِئِينَ لَهَا الْحَقَّ وَصَلَّوْهُمْ
فَمَا كَانُوا لِيُفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

SECTION 4

31. Please declare, Who provides you from the heaven and the earth: or who has endowed you hearing and sight, and who brings out the living from the dead and brings out the dead from the living and who manages all affairs"? They will say, "It is Allah". You declare please, "Then why do not they become pious"?"

32. This then is Allah, your true Rubb (Sustainer). What is not the truth ends in falsehood. Then how you can turn away from Him.

33. Thus the word of your Rubb (Sustainer) proved true against the law breakers that they do not believe.

34. Please declare, "Are there any of your associate gods who originate creation, then reproduce same after destruction. Please declare, "Allah originates, then will reproduce after destruction. Then where are you turning away blindly"?"

35. Please declare, "Is there any of your associate gods who may guide to the truth". Please declare, "Only Allah guides to the truth." Then should He Who guides to the truth be followed: or the one who himself finds no guidance, unless he is guided? Then what happened to you? How do you judge?"

36. And most of them follow only imagination. Surely, imagination avails nothing against truth. Surely Allah Knows what they do.

37. And this Quraan could not have been produced by anyone apart from Allah and definitely it is a confirmation

تم فرماؤ! تمہیں کون روزی دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے؟ اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو اب کہیں گے کہ اللہ، تو تم فرماؤ! تو کہیں نہیں ڈرتے؟ (31)

تو یہ اللہ ہے تمہارا سچا رب، پھر حق کے بعد کیا ہے مگر گمراہی، پھر کہاں پھرے جاتے ہو (32)

یوں ہی ثابت ہو چکی ہے تیرے رب کی بات فاسقوں پر، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے (33)

تم فرماؤ! تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ اول بنائے، پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے، تم فرماؤ! اللہ اول بناتا ہے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے گا، تو کہاں اوندر سے جاتے ہو؟ (34)

تم فرماؤ! تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ حق کی راہ دکھائے، تم فرماؤ! کہ اللہ حق کی راہ دکھاتا ہے، تو کیا جو حق کی راہ دکھائے اس کے حکم پر چلنا چاہیے، یا اس کے جو خود ہی راہ نہ پائے، جب تک راہ نہ دکھایا جائے، تو تمہیں کیا ہوا، کیسا حکم لگاتے ہو (35)

اور ان میں اکثر تو نہیں چلے مگر گمان پر چپکے گمان حق کا کچھ کام نہیں دیتا، چپکے اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے (36)

اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے بنائے، بے اللہ کے

قُلْ مَنْ يُزِدُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً إِلَّا يَأْكُفُّ مِنْ قَبْلِهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ يَكْفُرُ أَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ الْجِبَالِ مَصَارِعَ وَمَنْ فِيهَا خَائِفَةٌ يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ فِيهَا أَنْهَارٌ فَمَنْ فِيهَا مِنْ نَسْوٍ يَمُنُّ بِاللَّهِ فَأَمَّا لِمُتَكَبِّرِينَ ۝

قُلْ لَكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ تَعَالَى أَبَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَةُ فَأَلْفَوْهُ لَوِئَلَّوُنَ ۝

كَذَلِكَ حَقَّتْ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَى الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ لَأَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَأَلْفَوْهُ لَوِئَلَّوُنَ ۝

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يُبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يُبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلْ لَوْلَا نُوحُوا لَكُنَّا ۝

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يُهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يُهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ لَوْلَا يُهْدِي إِلَى الْحَقِّ لَكُنَّا ۝

وَمَا يَتَّبِعُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا الظَّنُّ لَا يَفْعَلُونَ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفَعَلَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ نَحْنُ الَّذِي بَيْنَ

of the former revelations, and is the detailed explanation of what is in the details of the Book. There is no doubt in it, it is from the Rubb (Sustainer) of the universe.

38. Or do they say, "Some one (Muhammad) has fabricated it"? Please declare, "Then bring a SURA (Chapter) like it, and get help from all whom you can bring together, besides Allah, if you are truthful".

39. Instead they falsify that of which they have no knowledge because they could not comprehend the same and they have not yet got its interpretation. In the same manner those who were before them rejected (the truth). Then see what was the end of the cruels?

40. And among them is he who believes in it, and among them is he who does not believe in it and your Rubb (Sustainer) knows well those who cause disorder.

SECTION 5

41. And if they falsify you, then please declare, "for me are my deeds and for you are your deeds. You are not responsible for what I do, and I am not responsible for what you do."

42. And among them are those who listen to you, but can you make the deaf hear, even though they are incapable to understand?

43. And among them is he who looks at you, but will you guide the blind, even though they do not see?

44. Surely, Allah is not at all unjust to mankind, but men are unjust to themselves.

اتارے، ہاں! وہ اگلی کتابوں کی تصدیق ہے، اور لوح میں جو کچھ لکھا ہے سب کی تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں پروردگار عالم کی طرف سے ہے (37)

کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے بنا لیا ہے، تم فرماؤ! تو اس جیسی کوئی ایک سورۃ لے آؤ، اور اللہ کو چھوڑ کر جو مل سکیں سب کو بلا لاؤ، اگر تم سچے ہو (38)

بلکہ اسے بھلایا جس کے علم پر قابو نہ پایا، اور ابھی انہوں نے اس کا انجام نہیں دیکھا، ایسے ہی ان سے اگلوں نے بھلایا تھا، تو دیکھو! ظالموں کا کیا انجام ہوا؟ (39)

اور ان میں کوئی اس پر ایمان لاتا ہے اور ان میں کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا ہے، اور تمہارا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے (40)

اور اگر وہ تمہیں بھلائیں تو فرما دو! کہ میرے لیے میری کرنی (کمانی)، اور تمہارے لیے تمہاری کرنی (کمانی) تمہیں میرے کام سے علاقہ نہیں اور مجھے تمہارے کام سے تعلق نہیں (41)

اور ان میں کوئی وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سنا دو گے، اگرچہ انہیں عقل نہ ہو (42)

اور ان میں کوئی تمہاری طرف نہکتا ہے کیا تم اندھوں کو راہ دکھا دو گے، اگرچہ وہ نہ سوجھیں (43)

بیکہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، ہاں! لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں

(44)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَقُوْلُوْا اِنْ كُنَّا لَنَرٰۤى سَمٰۤىۤاتٍ مُّكْتٰبٍۭنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝۳۷

اَمْ يَكْفُرُوْنَ اَفَرٰى لَهُمْ كَلۡفَاۤءُ السُّوۡرٰتِۙ وَتٰۤیۡبُهُۥ وَاذۡرَۡاۤءِۙنَۙ اَسۡتَطَعۡتُمۡۙ قَبۡلَۙ ذٰۤلِکَۙ اَلۡکِتٰۤبَ الَّذِیۡۤیۡنَ عَلَیۡہِۙمۡ یَقِیۡنَ ۝۳۸

بَلۡ كَذَّبُوۡا بِمَا لَمۡ يَحِطُوۡا بِالۡعِلۡمِ الَّذِیۡۤیۡنَ یَاۡتِیۡہِمۡۙ وَاُوۡیۡلُہٗۙ ذٰۤلِکَۙ كَذَّبَ الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِہِمۡۙ فَانظُرۡ كَیۡفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِیۡنَ ۝۳۹

وَمِنۡہُمۡ مَّنۡ یُّؤۡمِنۡ بِہٖۙ وَمِنۡہُمۡ مَّنۡ لَا یُؤۡمِنۡ بِہٖۙ وَہُمۡ بِکَۙ اَعۡمٰۤیۡنَ ۝۴۰

اِنَّ كَذَّبُوۡتَۙ فَخَلۡ فِیۙ عَمۡیۡقِ وَاۡنۡكُرۡ عَمۡلِکُمۡۙ اِنَّہُمۡ یَرِیۡوۡنَ مَاۤ اَعۡمَلُوۡۙ اِنۡۡاَبَرِیۡۙ وَمَاۤ اَعۡمَلُوۡنَ ۝۴۱

وَمِنۡہُمۡ مَّنۡ یُّنۡصِتۡۙ سَمۡعُوۡنَ الَّذِیۡۤیۡنَ اِنۡۡاَنۡتَ تَشۡہَرُ الصَّمۡۙ وَلَوْ کَانَوۡا اِلَّاۤ اَبۡصٰۤءُ ۝۴۲

وَمِنۡہُمۡ مَّنۡ یُّنظَرُ الَّذِیۡۤیۡنَ اِنۡۡاَنۡتَ تَہۡدٰی الْعٰیۡیۡ وَلَوْ کَانَوۡا اِلَّاۤ اَبۡصٰۤءُ ۝۴۳

اِنَّ اللّٰہَ لَا یَظۡلِمُ النَّاسَ شَیۡۤاَۤا لَّیۡکُنَ النَّاسُ اَنۡفُسَہُمۡ یَظۡلِمُوۡنَ ۝۴۴

45. And on the day when He will gather them, as if they had not stayed in the world but a moment of that day. They shall mutually recognize each other. Surely, those who falsified the meeting with Allah, will remain fully perished and they were not rightly guided.

46. And if We (Allah) show you some of the things, We (Allah) threatened them, or We (Allah) call you to Us (Allah) before, as they also have to return to Us (Allah). Allah is Himself witness of what they did.

47. And for every nation there has been a Rasool (Messenger). When their (Messenger) had come to them it was judged between them justly and they were not wronged.

48. And they say, "when this threat will be fulfilled, if you are truthful?"

49. Please declare, "I have no power of doing good or bad myself but whatever Allah Pleases. For every nation there is a fixed term. When their term will complete, then neither they can stay behind for a moment, nor can they advance it by a moment.

50. Please declare, "tell me, if His punishment comes upon you by night or in the day, then what is there for which the criminals are in haste?"

51. Will you then believe therein when it would occur actually? Do you now believe, where as you were in a hurry for it in advance?

52. Then it will be said to the criminals, "taste the punishment, everlasting. You

اور جس دن انہیں اٹھائے گا، گویا دنیا میں نہ رہے تھے مگر اس دن کی ایک گھڑی، آپس میں پہچان کریں گے کہ پورے گھانٹے میں رہے، وہ جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا اور ہدایت پر نہ تھے (45)

اور اگر ہم تمہیں دکھا دیں کچھ اس میں سے جو انہیں وعدہ دے رہے ہیں، یا تمہیں پہلے ہی اپنے پاس بلا لیں، بہر حال انہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے، پھر اللہ گواہ ہے ان کے کاموں پر (46)

اور ہر امت میں ایک رسول ہوا، جب ان کا رسول ان کے پاس آیا، ان پر انصاف کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور ان پر ظلم نہ ہوتا (47)

اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو (48)

تم فرماؤ! میں اپنی جان کے برے بھلے کا (زانی) اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے، جب ان کا وعدہ آئے گا تو ایک گھڑی نہ بیچھے نہیں، نہ آگے بڑھیں (49)

تم فرماؤ! بھلا تو! اگر اس کا عذاب تم پر رات کو آئے یا دن کو، تو اس میں وہ کوئی چیز ہے کہ مجرموں کو جس کی جلدی ہے (50)

تو کیا جب ہو پڑے گا، اس وقت اس کا یقین کو گئے، کیا اب مانتے ہو؟ پہلے تو اس کی جلدی چا رہے تھے (51)

پھر ظالموں سے کہا جائے گا، بیشک کا عذاب

وَيَوْمَ يُنْفَخُ عَنْهُمْ حَيْكَتُهُمْ لِيُرْجَوْا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي كَانُوا فِيهَا يَدْعُونَ ۚ وَنَسُوا اللَّهَ الَّذِي كَفَرُوا بِهِمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كَانُوا يُفْعَلُونَ ﴿٤٥﴾

وَإِنَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَكَّلُكَ فَيَلْجَأَنَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَهُمْ كَانُوا لِلَّهِ شُهَدَاءَ ۚ عَلَيَّ مَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾

ذٰلِكُمْ اِمْتِحَانٌ فَغَلَبَ اَجْرُهُمْ فَاتَّخَذُوهُمْ بَيْنَهُمْ وَالْبَاطِلِ اَوْلِيَاءَ ۗ لَوْلَا اِنَّا كُنَّا لَمَعَٰلَمٍ لَّا يَظْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

ذٰلِكُمْ اِمْتِحَانٌ فَغَلَبَ اَجْرُهُمْ فَاتَّخَذُوهُمْ بَيْنَهُمْ وَالْبَاطِلِ اَوْلِيَاءَ ۗ لَوْلَا اِنَّا كُنَّا لَمَعَٰلَمٍ لَّا يَظْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

قُلْ لَا اَمْرَ لَكُم بِنَفْسِيْ صَرِيحًا وَلَا نَفْعًا ۗ اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۗ اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا فَلَا يَسْتَاخِرُوْنَ سَاعَةً ۗ وَلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٤٨﴾

قُلْ اَرَايْتُمْ اِن كُنْتُمْ عَدَايَةَ بَيِّنَاتٍ اَوْ نَهَايَا لَّا تَسْتَجِئُوْنَ مِنْهُ الْمَجْرُمُوْنَ ﴿٤٩﴾

اَلَمْ تَرَ اَنَّا مَادَعْنَا اَنْفُسَهُمْ اَلَنْ وَاَقْدٰ نُنْفَرِهِمْ فَسَتَجِئُوْنَ ﴿٥٠﴾

تَعْرُوْلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَاذْهَبُوْا عَذَابَ

will get nothing more as retribution but whatever you earned."

53. And they ask you, "is that true". Please declare, "yes by my Rubb (Sustainer) surely, that is true. And you cannot escape.

SECTION 6

54. And if each person who commits injustices possesses all that is in the earth will offer it as ransom for self. But such ones would hide the remorse in their hearts, when they would see the punishment, but it will be decided between them justly and they will not be dealt with unjustly.

55. Behold, surely, it belongs to Allah only what ever is in the heavens and the earth. Behold, surely, Allah's promise is true, but most of them do not know.

56. He gives life and causes death, and to Him you shall return.

57. O mankind, there has come to you a warning to you from your Rubb (Sustainer), and healing what is in your hearts, and a guidance and a mercy for the believers.

58. Please declare, "only Allah's Bounty and only His Mercy, be depended upon. Therefore, let them rejoice, that is better than all their wealth.

59. Please declare, "think what Allah has bestowed to you of provisions. You have yourselves made some part of it lawful and an another unlawful." Please declare, "has Allah permitted you so or you forge falsehood against Allah"?

چسکو! تمہیں کچھ اور بدلا نہ ملے گا مگر وہی جو کماتے تھے (52)

اور تم سے پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے؟ تم فرماؤ! ہاں! میرے رب کی قسم! بیکہ وہ ضرور حق ہے، اور تم کچھ تمکا نہ سکو گے (53)

اور اگر ہر ظالم جان زمین میں جو کچھ ہے سب کی مالک ہوتی، ضرور اپنی جان چھوڑانے میں دیتی، اور دل میں پچکے پچکے پشیمان ہوتے، جب عذاب دیکھا، اور ان میں انصاف سے فیصلہ کر دیا گیا، اور ان پر ظلم نہ ہو گا (54)

سن لو! بیکہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، سن لو! بیکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر ان میں اکثر کو خبر نہیں (55)

وہ جلاتا (زندہ کرتا) اور مارتا ہے، اور اسی کی طرف پھرو گے (56)

اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے صیحت آئی، اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے (57)

تم فرماؤ! اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت، اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے (58)

تم فرماؤ! بھلا بتاؤ تو! وہ جو اللہ نے تمہارے لیے رزق آمارا، اس میں تم نے اپنی طرف سے حرام و حلال ٹھہرا لیا، تم فرماؤ! کیا اللہ نے اس کی تمہیں اجازت دی، یا اللہ پر جھوٹ باندھے ہو (59)

الْخَلْدِ هَلْ يُجْزَوْنَ الْاٰيْمَانُ كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٥٣﴾

وَكَيْفَ تَتَذَكَّرُوْنَ اِنْ هُوَ قَوْلِي وَاِنْ كُنِيَ اِنَّهُ لَكُنْيٌ وَّمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٥٤﴾

وَاِنْ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَالِي الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهَا وَاَسْرُوْا لِنَدْوٰتِنَا وَاَنْتُمْ لَنَا رَاوِدُوْا الْعَدَابِ وَاَنْتُمْ بِالْفُسْطِ وَاَنْتُمْ لَاطْمَعُوْنَ ﴿٥٥﴾

الْاٰرَانَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْاٰرَانَ وَعَدَّ اللّٰهُ حَقًّا وَّلٰكِنِّي اَكْفُرْتُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٦﴾

هُوَ حَيُّ وَّيُمِيْتُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٥٧﴾
يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِعْرٌ اَلْمٰنٰنِ الصِّدْقِ وَاُوْحٰى
رُحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٨﴾

ثَلْبُ بَعْضِ اللّٰهِ وَاَوْحٰى مِّنْهُ فَيَذٰلِكَ لَكُمْ مَخْرَجًا وَاُوْحٰى مِّنْهُ اَتَجْعَلُوْنَ

ثَلْبُ اَرَادَ يَتَمَرُّ اَنْزَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ مَنٍّ رِّزْقًا

فَيَعْلَمُوْنَ مِنْهُ حَرَامًا وَاَحْلٰلًا ثَلْبُ اللّٰهُ اَوْحٰى لَكُمْ اَمْرًا عَلَى اللّٰهِ تَتَفَرَّقُوْنَ ﴿٥٩﴾

60. And what do they think who forge falsehood against Allah, that what will be their fate on the Day of Resurrection? Surely Allah is Bountiful to mankind, but most of them are not thankful.

SECTION 7

61. And when you are busy in any work, or you recite any part of the Qur'aan from Him, and you perform any act, We (Allah) are witnesses over you when you commence it. And there is nothing hidden from your Rubb (Sustainer) even to an atom's weight in the earth or in the heavens, and there is nothing smaller than that or greater but it is in the enlightened Book.

62. Behold carefully that surely, there is no fear nor any grief upon the friends of Allah;

63. They are those who believe and are pious to their duty.

64. For them are the rejoiceful news in the life of this world and in the hereafter. The words of Allah are not changeable. That indeed is the highest success.

65. And let not their sayings grieve you. Surely all the Glory belongs to Allah. He is the Hearing, the Knowing.

66. Behold, surely whatso is in the heavens and whatso is in the earth belongs to Allah. And what they are following those who call gods as associates besides Allah? They follow nothing but fancy. And they are doing nothing but conjectures.

اور کیا گمان ہے ان کا جو اللہ پر جھوٹ ہاندستے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا حال ہو گا؟ بیشک اللہ لوگوں پر فضل کرتا ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے (60)

اور تم کسی کام میں ہو اور اس کی طرف سے کچھ قرآن پڑھو اور تم لوگ کوئی کام کرو، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس کو شروع کرتے ہو اور تمہارے رب سے ذرہ بھر کوئی چیز غائب نہیں زمین میں نہ آسمان میں اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو (61)

من لو! بیشک اللہ کے دلوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم (62)

وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں (63)

انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتیں، یہی بڑی کامیابی ہے (64)

اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو، بیشک عزت ساری اللہ کے لیے ہے، وہی سنتا جانتا ہے (65)

من لو! بیشک اللہ ہی کے ملک ہیں بستے آسمانوں میں ہیں اور بستے زمینوں میں اور کابے کے پیچھے جا رہے ہیں وہ جو اللہ کے سوا شریک بکار رہے ہیں وہ تو پیچھے نہیں جاتے مگر گمان کے اور وہ تو نہیں مگر اطمینان دوڑاتے (66)

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُبْعَثُونَ بِهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦٠﴾

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُبْعَثُونَ بِهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦٠﴾

إِلَّا أَنْ أُولِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾
الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٢﴾
لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَا يَبْدِلُ كَلِمَتِ اللَّهِ ذَلِكُمْ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾

وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٤﴾

إِلَّا أَنْ يَلَّهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٥﴾

67. It is He Who has made night for you, that you may rest there-in, and made the day full of light. Surely there-in are signs for those who listen.

68. They (Christians) say, "Allah has begotton a son". "Allah is Holy; He is All-sufficient; To Him belongs whatever is in the heavens and what ever is in the earth. You certainly have no authority for this. Do you say about Allah that you do not know.

69. Please declare, "those who forge falsehood against Allah they will never be successful".

70. They have achieved a little credit only in this world. They are to return to Us (Allah). Then We (Allah) shall make them taste a severe punishment, as the retribution of their disbelief.

[THREE FOURTH OF

PART 11 ENDS]

SECTION 8

71. And recite to them the story of Nuuh (Noah) when he said to his people, "O my people if my standing up and reminding you the Verses of Allah has offended you then I trust only in Allah. You plan your actions unitedly with your false associate gods so that nothing may be obscured to you in your works. Then make any decision against me and allow me no respite".

72. "But if you turn away your faces then I do not ask you for any return. My return is only with Allah, and I have been commanded to be amongst the Muslims".

73. But they disbelieved him. Then We (Allah) saved

وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں جہنم پاؤ اور دن بنایا تمہاری آنکھیں کھولنا، چیک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے (67)

بولے! اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی، پاکی اس کو وہی ہے نیاز ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، تمہارے پاس اس کی کوئی بھی سند نہیں، کیا اللہ پر وہ بات بتاتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں (68)

تم فرماؤ! وہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہ ہو گا (69)

دنیا میں کچھ برت (زندگی گزارنا) لیتا ہے پھر انہیں ہماری طرف (واپس) آنا، پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے، بدلا ان کے کفر کا (70)

اور انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سناؤ! جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم! اگر تم پر شاق گزرا ہے میرا کہنا ہوتا اور اللہ کی نشانیاں یاد دلانا، تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، تو مل کر کام کرو اور اپنے جھوٹے معبودوں سمیت اپنا کام بچا کر لو، تمہارے کام میں تم پر کچھ ٹھنک نہ رہے، پھر جو ہو سکے میرا کر لو، اور مجھے صلت نہ دو (71)

پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو نہیں مگر اللہ پر، اور مجھے حکم ہے کہ میں مسلمانوں سے ہوں (72)

تو انہوں نے اسے جھٹلایا، تو ہم نے اسے

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُجْرِبًا لَكُمْ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ ﴿٦٧﴾

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَلَئِن سَأَلْتَهُم لَمَنْ خَلَقَ سَمَاوَاتٍ وَالأَرْضِ لَآتَيْنَهُمْ قُرْآنًا وَعَسَى أَتَقْوُونَ عَلَى الأَعْيُنِ مَا لَتَفْقَهُونَ ﴿٦٨﴾

قُلْ إِنَّ الَّذِي يَتَّبِعُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يَهْدِيهِمْ اللَّهُ

مَتَاعًا فِي الدُّنْيَا إِنَّهُمْ إِنَّمَا يَمْرُجُونَ فِيهَا لِيُقِيمَهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٦٩﴾

وَإِن تَلَّمَّ عَلَيْهِمُ أَنَّ نُوْحًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنِّي أُنذِرُكُمْ لِكَيْفَ تَعْبُدُونَ إِن كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٧٠﴾

بِأَيِّ آلَاءِ اللَّهِ تَعْبُدُونَ اللَّهُ تَوَكَّلْتُ فَأَجِيعُوا أَهْلَكُمْ وَشُرَكَاءِكُمْ إِن كُنْتُمْ عَائِدِينَ ﴿٧١﴾

عَسَى أَتَقْوُونَ عَلَى الأَعْيُنِ وَلَا تَنْظُرُونَ ﴿٧٢﴾

فَإِن تَوَلَّيْتُمْ مِمَّا سَأَلْتُمُونِ أَجْرًا لَّنْ أَجْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ الْمُنْسَلِبِينَ ﴿٧٣﴾

كَذَّبُوهُ فَجَبْنَاهُ وَمَنْ مَعَنِي مِنَ الْعَالَمِ

him and those who were with him in the ark; and We (Allah) made them rulers. And We (Allah) drowned those who belied Our (Allah's) Verses. Behold what was the end of those who were warned.

74. Then after him We (Allah) sent other Rasools (Messengers) towards their nations. They brought to them clear signs but they were not to believe what they had already belied previously. Thus We (Allah) seal the hearts of the transgressors.

75. Then after them We (Allah) sent Moosaa (Moses) and Haroon (Aron) to Firawn (Pharaoh) and his courtiers with Our (Allah's) Verses. But they turned out to be boastful and they were criminal people.

76. When the truth came to them from Us (Allah) they said this is surely a manifest magic.

77. Moosaa (Moses) said, "do you say such with regard to the truth when it came to you? Is this magic? And magicians do not attain any success.

78. They said, "have you come to us so that you may detach us from that upon which we found our forefathers, and that you (Moses and Aron) may gain power in the land. But we do not believe you".

79. And Firawn (Pharaoh) said, "bring to me every skilful magician".

80. Then when the magicians came Moosaa (Moses) said to them, cast down whatever you are to cast."

اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی، اور انہیں ہم نے نائب کیا، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں ان کو ہم نے ڈبو دیا، تو دیکھو! ڈرائے ہوؤں کا انجام کیا ہوا؟ (73)

پھر اس کے بعد اور رسول ہم نے ان کی قوموں کی طرف بھیجے، تو ان کے پاس روشن دلیلیں لائے، تو وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے اس پر جسے پہلے جھٹلا چکے تھے، ہم یونسی مرگا دیتے ہیں سرکشوں کے دلوں پر (74)

پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیاں لے کر بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا، اور وہ مجرم لوگ تھے (75)

تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا، بولے! یہ تو ضرور کھلا جادو ہے (76)

موسیٰ نے کہا، کیا حق کی نسبت ایسا کہتے ہو؟ جب وہ تمہارے پاس آیا، کیا یہ جادو ہے؟ اور جادوگر مراد کو نہیں سمجھتے (77)

بولے! کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور زمین میں تمہیں دونوں کی بڑائی رہے؟ اور ہم تم پر ایمان لانے کے نہیں (78)

اور فرعون بولا! ہر جادوگر علم والے کو میرے پاس لے آؤ (79)

پھر جب جادوگر آئے، ان سے موسیٰ نے کہا، والو جو تمہیں ڈالنا ہے (80)

وَجَعَلْنَاهُمْ خُلَفَاءَ وَأَعْتَدْنَا لَكِنِينَ كَذِبًا وَإِنِّي لَأَنتَظِرُكَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكِبِينَ ﴿٧٣﴾

ثُمَّ بَعَثْنَا لِقَوْمِهِم رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِبَيِّنَاتٍ فَكَانُوا يُسْرِفُونَ ﴿٧٤﴾ بِمَا كَذَّبُوا بِهِمْ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُتَكِبِينَ ﴿٧٥﴾

ثُمَّ بَعَثْنَا لِقَوْمِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ بِالْبُرْهَانِ وَالْمَلَائِكَةُ آتَيْنَاهُمَا التَّكْوِيْنُ وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٧٥﴾

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا آتَاهُمُ الْإِنشَاءَ السَّحِرُونَ ﴿٧٦﴾

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٧٧﴾

قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتُمْ جَادُونَ ﴿٧٨﴾ إِنَّا وَجَدُوا آبَاءَنَا وَكُنَّا لَكُمْ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧٩﴾ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨٠﴾

وَقَالَ فِرْعَوْنُ إِنَّتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٨٠﴾

فَلَمَّا جَاءَ السَّحِرَةَ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ الْقُوا مَا أَنْتُمْ مُّفْعَلُونَ ﴿٨٠﴾

81. Then when they had cast down, Moosaa (Moses) said, "what you have brought is magic. Now Allah will vanish it. Surely Allah does not set right the work of the mischief makers".

82. "And Allah will prove the truth by His Words, however averse the criminals may be".

SECTION 9

83. But none believed Moosaa (Moses) except some people of his nation, for the fear of Firawn (Pharaoh) and his chiefs that they would persecute them. And surely Firawn (Pharaoh) was a tyrant in the land, and surely he crossed the limits.

84. And Moosaa (Moses) said, O my people, if you believe in Allah, then repose your trust into Him alone, if you are Muslims".

85. They said, "we repose our trust only in Allah. Our Rubb (Sustainer) do not make us a subject to the persecution of the wrong doing people;

86. and deliver us by Your Mercy from the disbelievers' ration.

87. And We (Allan) revealed to Moosaa (Moses) and his brother, saying, "take houses for your nation in Egypt, and make your houses in the Qibla direction and establish Salaat (Muslim Prayer) and give good news to the Muslims".

88. And Moosaa (Moses) submitted, "O our Rubb (Sustainer) You have bestowed Firawn (Pharaoh) and his chiefs splendour and wealth in this life of the world so that, O our Rubb

پھر جب انہوں نے ڈالا، موسیٰ نے کہا، یہ جو تم لائے یہ جاو ہے، اب اللہ اسے باطل کر دے گا، اللہ مفسدوں کا کام نہیں بناتا (81)

اور اللہ اپنی باتوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، پڑے برا نہیں مجرم (82)

تو موسیٰ پر ایمان نہ لائے مگر اس کی قوم کی اولاد سے کچھ لوگ، فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں انہیں جہنم پر مجبور نہ کر دیں، اور بیگ فرعون زمین پر سر اٹھانے والا تھا، اور بیگ وہ حد سے گذر گیا (83)

اور موسیٰ نے کہا، اے میری قوم! اگر تم اللہ پر ایمان لائے، تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر تم اسلام رکھتے ہو (84)

بولے! ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اسی ہم کو ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا (85)

اور اپنی رحمت فرا کر ہمیں کافروں سے نجات دے (86)

اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ، اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ کرو، اور نماز قائم رکھو، اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ (87)

اور موسیٰ نے عرض کی! اے رب ہمارے! تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو آزمائش اور مال دنیا کی زندگی

فَلَمَّا أَتَى قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهَا
السِّحْرَانِ اللَّهُ سَيُبْطِلُهُنَّ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُضِلُّ عَمَلِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾
وَجِئْنَا اللَّهَ الْحَقِّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ
إِنَّ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾

فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ
عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن
يَفْتَرِيَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِي بَنِي الْإِنسَانِ
وَأَنَّهُ لَمِنَ السُّفْرِينِ ﴿٨٣﴾

وَقَالَ مُوسَىٰ يُقَوْمِرُنَّ لَكُمْ أَمْ مَنَعَهُ
يَا إِلَهِي لَعَلِّي وَتُكَلِّمُنِي أَن تَكُونَ مِّنْ مُّسَلِّمِينَ ﴿٨٤﴾

فَقَالُوا عَلَىٰ اللَّهِ تَوَكَّلْنَا وَإِنَّمَا يَجْعَلُنَا
فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٨٥﴾

وَكُنْتُمْ أَبْرَحِمَتِكُمْ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾
وَأذَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبْنُوا
لِقَوْمِكُمْ بُيُوتًا وَأَجْعَلُوا فِيهَا مَسَاجِدَ
وَتَبَلَّغُوا قِيَمَةَ الصَّلَاةِ وَبَشِّرُوا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٧﴾

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ
وَمَلَآئِدَهُ زِينَةً دُنْيَا وَإِنَّا لَنَحْنُ الذُّلَّةُ

(Sustainer) they may mislead people from Your path. O our Rubb (Sustainer) destroy their wealth and harden their hearts, so that they may not believe until they see the painful punishment."

89. He said, "the prayer of both of you has been accepted. So be steadfast, and do not follow the path of the ignorants."

90. And We (Allah) led the children of Israael across the river. Then Firawn (Pharaoh) and his armies followed them with aggression and oppression, until when the drowning overtook him. He said, "I believe, that there is no god except Allah to be worshipped Whom children of Israael believe. Therefore, I am Muslim."

91. What now (Allah said), but you had been disobedient before and you (Pharaoh) had been mischief monger.

92. Today, We (Allah) shall deliver you with your dead body swimming so that you become a symbol of disobedience to the coming generations. And surely many people are careless to Our (Allah's) Verses.

SECTION 10

93. And surely, We (Allah) settled the children of Israael in respectful places and bestowed them the best provisions, so they did not differ till knowledge came to them. Surely your Rubb (Sustainer) will decide between them on the Day of Resurrection in that with regard to which they differed.

94. (And O listener)! if you are in some doubt regarding

میں دیکھئے! اے رب ہمارے! اس لیے کہ تمہری راہ سے بگاڑیں! اے رب ہمارے! ان کے مال برباد کر دے! اور ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں! جب تک درد ناک عذاب نہ دیکھ لیں (88)

فرمایا: تم دونوں کی دعا قبول ہوئی! تو ثابت قدم رہو! اور نادانوں کی راہ نہ چلو (89)

اور ہم بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور ظلم سے! یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے لگا آیا! بولا! میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوا اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے! اور میں مسلمان ہوں (90)

کیا اب اور پہلے سے نافرمان رہا اور تو فسادی تھا (91)

آج ہم تمہری لاش کو اترا (قائم رکھیں) دیں گے کہ تو اپنے پیچھلوں کے لیے نشانی ہو! اور بے شک لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں (92)

رَبَّنَا لِيُخَذُوا عَنِ صُدُورِهِمْ حَتِّمَاتٌ مِّنْ عِلْمِكَ الْكِتَابِ وَلِيُؤْمِنُوا بِالْآيَاتِ الَّتِي كُنْتَ تُرْسِلُ فِيهَا رُسُلَكَ يَا رَبَّنَا لِيُخْرِجَ رَبَّنَا مِنْ هَٰذَا الْبَلَاءِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا

قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ كَلِمَتُكُمْ إِنَّا سَمِعْنَا وَلَا تَتَّبِعْتُمْ سِبْغَةَ الَّذِينَ لَا يُعْلَمُونَ وَجُودًا مَّا بَقِيَ لَكُمْ مِنَ الْبَحْرِ فَأَنْجِيَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعُدُوًّا حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا فِي الْفُرْقِ قَالَ أَنَسْتُكُمْ إِنَّا كَرِهْنَا الْإِلَهَ الَّذِي كُفِّرْتُمْ بِهِ يَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ لِي فِي الْقُلُوبِ قَلْبًا مِّنَ الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٩٠﴾

إِن كُنَّ وَدَّ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتُ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٩١﴾
كَلِمَةً نَّبِيَّتِكَ لِيُؤْمِنُوا بِكَ لِيَتَّخِذُوا مِنْ خَلْقِكَ آيَةً وَأَنْ كُنَّ مِن آيَاتِنَا التَّاسِرِ
عَنْ آيَاتِنَا الْغَافِلُونَ ﴿٩٢﴾

اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی! اور انہیں تمہری روزی عطا کی! تو اختلاف میں نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد! بھگت تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑتے تھے (93)

اور اے سننے والے! اگر تجھے کچھ شبہ ہو

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبَادِي مَبَادِي وَوَعَدْنَا لِمَنْ هَمَّ بِتَكْفُرٍ مِّنَّا عَذَابًا لَّا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدَهُمْ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ ﴿٩٤﴾

فَلَنْ نُّنْفِثَنِي فِي سَحَابٍ مِّمَّا تَزْكُرُ الْإِنْسَانُ

what We (Allah) have sent down towards you, then ask those who recite the Book (revealed) previous to you. Indeed the truth has come to you from your Rubb (Sustainer). Therefore, you never be of those who doubt; 95. and never be among those who reject the Verses of Allah, otherwise you will be among the losers.

96. Surely, those against whom the Word of your Rubb (Sustainer) has proved true will not believe;

97. though all evidences may come to them, (but they would not believe) until they see the painful punishment.

98. And why was there not a city that believed and such belief did not profit the residents, except the nation of Yoonus (Jonah). When they believed, We (Allah) removed from them the punishment of disgrace in the life of this world and allowed them comforts for a time.

99. And if your Rubb (Sustainer) had Willed, who is in the earth would have believed together. Will you, then force the people until they become believers (Muslims) ?

100. And it is not for any self to believe except by the Will of Allah. And He awards ugliness to the senseless.

101. Please declare, "behold what is in the heavens and in the earth. But neither evidences nor the warnings (of Messengers) profit those who do not believe.

102. So what do they wait except for the similar days of those who passed away before them. Please declare (beloved

اس میں جو ہم نے تیری طرف آمارا، تو ان سے پوچھ! دیکھ! جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں، بیگ تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا، تو تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو (94)

اور ہرگز ان میں نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں، کہ تو خسارے والوں میں ہو جائے گا (95)

بیگ وہ جن پر تیرے رب کی بات ٹھیک پڑ چکی ہے، ایمان نہ لائیں گے (96)

اگرچہ سب نشانیاں ان کے پاس آئیں جب تک زبرد ناک عذاب نہ دیکھ لیں (97)

تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا! ہاں! یونس کی قوم جب ایمان لائے، ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا، اور ایک وقت تک انہیں برستے دیا (98)

اور اگر تمہارا رب چاہتا زمین میں جتنے ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں کو زبردستی کرو گے، یہاں تک کہ مسلمان ہو جائیں (99)

اور کسی جان کی قدرت نہیں کہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے، اور عذاب ان پر ڈالنا ہے جنہیں عقل نہیں (100)

تم فرماؤ! دیکھو! آسمانوں اور زمین میں کیا ہے، اور آیتیں اور رسول انہیں کچھ نہیں دیتے، جن کے نصیب میں ایمان نہیں (101)

تو پھر انہیں کاہے کا انتظار ہے مگر انہیں

فَسَلِّ الْدِّينَ يَفْعَلُونَ الْكَذِبَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْآيَاتِ اَللّٰهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٥﴾

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمٰتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٩٦﴾

وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حٰثِيَةً لَّكٰذَبُوْا الْعَذَابِ الْاَلِيْمَ ﴿٩٧﴾

فَلَوْلَا كَاٰنْتَ قَرْيَةً اٰمَنَتْ فَتُفْعَلُ اِيْمَانُهَا اِلَّا لَوْ كَرِهَ يُوْسُ لِمَا اٰمَنُوْا كَفَرْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخٰزِيْۤنِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اَلۤىٰ حَيٰۤتٍ ﴿٩٨﴾

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا اِنَّا نَتَّبِعُهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا اٰمُوْبِيْنَ ﴿٩٩﴾

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُوْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠٠﴾

عَلِ النَّظَرِ اِمَّا اِنِّي السَّخِرٰتِ وَالْاَرْضِيْنَ وَمَا تُغْنِي الْاٰيٰتُ وَالنَّذٰرُ عَنْ قَوْمِ الْاٰمُوْبِيْنَ ﴿١٠١﴾

Muhammad), "then wait, I am too with you, who wait".

103. Then We (Allah) shall save Our (Allah's) Rasools (Messengers) and the believers as it is incumbent

on Our (Allah's) part to save the believers (Muslims).

SECTION 11

104. Please declare, "O mankind! if you are in any doubt regarding my religion, then I shall not worship any whom you worship except Allah. Yes I worship Allah Who will cause you to die, and I have been commanded to be (in the ranks) of the believers;

105. and you (Muhammad) keep your course straight for the religion leaving all others, and never be amongst the idolaters.

106. And do not worship anyone besides Allah that which neither can profit you nor can harm you. But if you do so you will be among the cruels.

107. And if Allah afflicts you with any harm, there is none to remove it except He, and if He Desires good for you, then there is none to repel His Bounty. He causes it to reach whoso of his devotees He Wills. And He is the Forgiving, the Merciful.

108. Please declare, "O people, the truth has come to you from your Rubb (Sustainer) then whoso adopts straight path adopts for his own good, and whoso strays, strays against himself and I am not a custodian on you

109 And you follow that which is revealed to you and have patience until Allah

لوگوں کے سے دنوں کا جو ان سے پہلے ہو گزرے، تم فرماؤ! تو انتظار کرو! میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں (102)

پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے، بات یہی ہے کہ ہمارے ذمہ کرم پر حق ہے مسلمانوں کو نجات دینا (103)

تم فرماؤ! اے لوگو! اگر تم میرے دین کی طرف سے کسی شبہ میں ہو، تو میں تو اسے نہ پوجوں گا جسے تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، ہاں! اس اللہ کو پوجتا ہوں جو تمہاری جان نکالے گا، اور مجھے حکم ہے کہ ایمان والوں میں ہوں (104)

اور یہ کہ اپنا مذہب دین کے لیے سیدھا رکھیں، سب سے الگ ہو کر، اور ہرگز شرک والوں میں نہ ہونا (105)

اور اللہ کے سوا اس کی بندگی نہ کر جو نہ تیرا بھلا کر سکے نہ برا، پھر اگر ایسا کرے تو اس وقت تو ظالموں سے ہو گا (106)

اور اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں، اس کے سوا اور اگر تیرا بھلا چاہے، تو اس کے فضل کا رد کرنے والا کوئی نہیں، اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں جسے چاہے، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے (107)

تم فرماؤ! اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا تو جو راہ پر آیا، وہ اپنے پہلے کو راہ پر آیا، اور جو بھلا، وہ اپنے برے کو بھلا، اور کچھ میں کزدوا (ذمہ دار) نہیں (108)

اور اس پر چلو جو تم پر وحی ہوتی ہے اور مبرا کرو، یہاں تک کہ اللہ حکم فرمائے، اور

وَنَجِّنَا لِمَن نَّشَاءُ ۚ وَكَانَ نَجَاتُكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰۳﴾

فَلَا تَتَّبِعِ الَّذِينَ رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا كَافِرِينَ ﴿۱۰۴﴾

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَكَّلُ وَأُورَثُ الْإِنْسَانَ الْكَافِرَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰۵﴾

وَأَنْ أَقْرَبُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۰۶﴾

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ إِذَا اتَى الظَّالِمِينَ ﴿۱۰۷﴾

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا يُكْفِيكَ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَهُوَ يُعْطِيكَ مِنْ حَيْثُ تُرِيدُ ۗ وَهُوَ الْعَفُوفُ الرَّحِيمُ ﴿۱۰۸﴾

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَخُذُوا زِينَتَكُمْ مِمَّا تَدْعُوا إِلَىٰ نَفْسِكُمْ ۖ وَمَنْ حَضَرَ فَإِنَّهُ عَلَيْهَا يُرَاعَىٰ ۚ وَمَا أَرْعَىٰكُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ

وَأَنْتُمْ مَا يُرَوِّجُ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۗ وَهُوَ خَبِيرٌ

gives judgement. And He is the best of Judges.

S. XI

SURA HUUD

(Revealed at Makkah)

(10 Sections, 123 Verses)
Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. ALF LAAAM RAA; (A.L.R.) (this is) a Book whose Verses are perfected with wisdom which have been explained from the Wise, the All-Aware;

2. that you will worship none except Allah. Surely, I am to you a warner from Him and a communicator of good news;

3. and ask forgiveness of your Rubb (Sustainer) then turn by repentance to Him, He will give you handsome provisions till an appointed term, and He will give of His Bounty to every one possessing virtue. But if you turn away then I fear for you the punishment of a Great Day.

4. To Allah you have to return and He is Powerful over every thing.

5. Behold, they fold up their breasts that they hide something from Allah. Behold, when they cover their whole body with their garments, Allah knows what they conceal and what they reveal. Surely, He Knows all the thoughts which are in the hearts.

PART - 12

S. XI

HUUD (Contd.)

6. And there is no creature in this earth, the

وہ سب سے بہتر حکم فرمائے والا ہے

(109)

سورۃ ہود کی ہے (اس میں) ایک سو تیس

(123) آیتیں اور دس (10) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو بت مہربان رحم

والا

یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت
بھری ہیں، پھر تفصیل کی گئیں حکمت
والے خبردار کی طرف سے (1)

کہ بندگی نہ کرو مگر اللہ کی، بیگم میں
تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈر اور
خوشی سنانے والا ہوں (2)

اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر
اس کی طرف توبہ کرو، تمہیں بت اچھا
برعہ دے گا ایک ٹھہرائے وعدہ تک، اور
ہر فضیلت والے کو اس کا فضل پہنچائے
گا، اور اگر منہ پھیرو تو میں تم پر بڑے دن
کے عذاب کا خوف کرتا ہوں (3)

تمہیں اللہ ہی کی طرف پھرتا ہے اور وہ ہر
شے پر قادر ہے (4)

سنو! وہ اپنے سینے دھارے کرتے ہیں کہ
اللہ سے پرہیز کریں، سنو! جس وقت وہ
اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈھانپ لیتے
ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کا چھپا اور
ظاہر سب کچھ جانتا ہے، بیگم وہ دلوں کی
بات جانتے والا ہے (5)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

سورۃ ہود کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے جو بت مہربان رحم والے خبردار کی طرف سے (1)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ أَحْكَمْتُ آيَتُهُ ثُمَّ
فَصَدَقْتُ مِنْ لَدُنِّي حَكِيمٌ

أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْغَاثِ
نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ
يُمِيعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى
وَكُلُّ يَوْمٍ لَكُمْ فِي ضَلَالٍ مُضِلَّةٍ وَإِن
تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ
يَوْمٍ كَبِيرٍ

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ

أَلَّا أَنْهَرْتُمْ شُرَكَاءَ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنَ الْأَجْمِينَ يَسْتَفْتُونَ رَبَّكُمْ
يَعْلَمُ مَا يَكْسِبُونَ وَمَا يَخْلَعُونَ
عَلَيْهِمْ رِيَابَاتِ الضُّعُفِ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا

اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا
رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو اور جانتا

provision of which is not bestowed by Allah, and He knows its abode and the place of return. Everything is recorded in a glorious Book.

7. And it is He Who created the heavens and earth in six days (periods). And His is the power on the water, that he may try you to see, as to which one of you is better in deeds. And when you say that surely, you shall be raised after death, the disbelievers will surely declare "This is not but a clear magic."

8. And if We (Allah) defer from them the punishment till a reckoned term, they would certainly say, "what prevents it"? Behold, the day when it will come to them, it shall not be averted from them, and the same (punishment), which they used to mock at, shall encircle them.

SECTION 2

9. And if We (Allah) let someone taste Our (Allah's) Mercy and then withdraw it from him (her), surely that one becomes desperately ungrateful.

10. And if We (Allah) bestow someone prosperity after some adversity, that affected him (her), then he (she) surely says, my sorrows have gone from me (for my own planning). Surely, he (she) is ungrateful, boastful;

11. except those who remain patient and do good deeds; for them is forgiveness and a rich reward.

12. It may be that you leave a part of what is being revealed to you and straiten your heart therewith because

ہے کہ کہاں نصرتے گا، اور کہاں سپرد ہو گا، سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے (6)

اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں بنایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا کہ جس میں آزمائے، تم میں کس کا کام اچھا ہے، اور اگر تم فرماؤ کہ بے شک تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، تو کافر ضرور کہیں گے، کہ یہ تو میں مگر کھلا جادو

عَلَى الْمَوَدَّةِ فَهَا وَيَضَلُّوكُمْ فَتَقْرَهُوا
مُسْتَوْدَعَهَا كُلِّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ①

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْدَأَ الْبَشَرِ فِيكُمْ أَنْصَحَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْكُرُونَ
الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَهُكُمْ حَقٌّ ②

وَلَيْنَ أَخَذْنَا نَجْمَهُمُ الْعَذَابَ الْإِنَّمَاءِ لَمَعْدُودَةً لِيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ إِلَّا الْيَوْمُ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوعًا فَخَشَعْتُمْ وُجُوهَ ③
بِأَنَّهُمْ كَانُوا يُبْهَمُونَ ④

اور اگر ہم آدمی کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں، پھر اسے اس سے چھین لیں، ضرور وہ بڑا ناامید ناشکرا ہے (9)

اور اگر ہم اسے نعمت کا مزہ دیں اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی، تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہوئیں، چھکے وہ خوش ہونے والا بڑائی مارنے والا ہے (10)

مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے (11)
تو کیا جو وحی تمہاری طرف ہوتی ہے اس میں سے کچھ تم چھوڑ دو گے، اور اس پر

وَلَيْنَ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رِزْقًا فَذَرَاهُ
نُؤْفِكًا وَمُنْزِلَهُ لَبِئْسَ الْكَقِيرُ ⑤

وَلَيْنَ أَذَقْنَا نِعْمًا وَزَادْنَا فَائِزَةً
لِيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّمَا
لَفَرِحْتُ فَخِرٌ ⑥

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ⑦
فَلَخَلَفَ تَارِكًا بَعْضُ مَا نُوحِيَ إِلَيْكَ

they say, "why not a treasure was sent down with it or an Angel came with him? You are only a warner. And Allah is the Custodian of everything.

13. Do they say this, "he has himself forged it" the Holy Qur'aan? Please declare, "bring ten forged Chapters like it, and call all those whom you can, besides Allah, to do so, if you are truthful."

14. Then (O Muhammad) if they do not answer to you, then know that it has been revealed by Allah's Knowledge, and that there is none worth worship except Allah. Will you then become Muslims?

15. Whoso desires the life of this world and its enjoyments, We (Allah) shall give them full reward in it and they will not be reduced anything therefrom.

16. These are the ones for whom there is nothing in the hereafter except the fire. And whatever they used to do there, is destined to fail and all their deeds will be in vain.

17. Is such one like that who is on a clear proof from his (her) Rubb (Sustainer) and there comes a witness from Allah heralded by Book of Moosaa (Moses), a guide and mercy? They believe in it; but whichever group disbelieved it, the fire is their appointed place. Please behold! you should not be in any doubt about it. Surely it is the truth from your Rubb (Sustainer) but most people do not believe.

18. And who is more cruel than the one who forges a

دل تک ہو گئے، اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہ اترا، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آئے، تم تو زور سنانے والے ہو، اور اللہ ہر چیز پر محافظ ہے (12)

کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے نبی سے بنا لیا، تم فرماؤ! کہ تم ایسی بیانی ہوئی دس سو برس لے آؤ! اور اللہ کے سوا جو مل سکیں سب کو بلا لو! اگر تم سچ ہو (13) تو اے مسلمانو! اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں، تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو کیا اب تم مانو گے (14)

جو دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتا ہو، ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے، اور اس میں کمی نہ دیں گے (15) یہ ہیں وہ جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں مگر آگ اور اکارت (ضائع) گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے، اور ٹاپور ہوئے (۱۶) جو ان کے عمل تھے (16)

تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، اور اس پر اللہ کی طرف سے گواہ آئے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کا سکر ہو سارے گروہوں میں، تو اہل اس کا وعدہ ہے، تو اسے سننے والے تجھے کچھ اس میں شک نہ ہو، بیکہ وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لیکن بہت آدمی ایمان نہیں رکھتے (17)

اور اس سے بھد کر ظالم کون جو اللہ پر

وَصَاحِبٍ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا أَلَمْ نَأْتِ بِكَ آيَاتٍ مِّنْ رَبِّكَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا وَأَجْمَعُهُ مَلَائِكَةٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۲﴾

أَفَرَأَيْتُمْ لَوْنُ افْتِرَائِهِمْ فَلَا تَأْتُوا بَشَرًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ﴿۱۳﴾ فَإِنَّهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّكَ مُرْسَلٌ وَإِنَّمَا أَنْزَلْنَا بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْزَلْنَا إِلَهُ الْأَهْوَىٰ هُمُ اللَّهُ فَتَسْمِعُونَ ﴿۱۴﴾

مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْغَيْبَةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِيَ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُجْزَوْنَ ﴿۱۵﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَبَعُوا فِيهَا وَ بَطُلًا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۶﴾

أَمْحَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيْنِهِمْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمِهِ وَيَتَوَكَّفُوا سَاهِدًا قَدَمُهُ وَمَنْ كَذَّبَهُ كَذَّبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يَوْمُئِذٍ بِهِمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِمْ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالِقَاتُ الْمُوعَدَةِ فَلَاحُكٌ فِي مَرْيَمَ قَدَمُهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَاللَّيْنُ الْأَثَابُ لَاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۷﴾

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كِتَابًا

falsehood against Allah. They shall be presented before their Rubb (Sustainer) and the witnesses will say, "these are they who forged falsehood against their Rubb (Sustainer). Behold, Allah's curse is certainly on the cruels.

19. Those who prohibit from the path of Allah and want crookedness in it, they are the one who disbelieve the hereafter.

20. They neither can escape in the earth, nor they have any protector besides Allah. They will face double punishment. They could neither hear nor see.

21. They are the ones who put their own selves in loss, and what they forged has left them in misguidance.

22. Surely it is they who are the greatest losers in the hereafter.

23. Surely those who believe and do virtuous deeds and turn humbly towards their Rubb (Sustainer) they are the inhabitants of the Paradise to dwell there for ever.

24. The condition of two groups is like the blind and the deaf and the seeing and the hearing. Are both of them alike? Do you then not mind this (difference).

SECTION 3

25. And surely, We (Allah) sent Nuuh (Noah) to his people saying that I am for you a clear warner;

26. that you should worship none except Allah. Surely, I fear for you the punishment of a painful day.

27. The chiefs of those who disbelieved said, "we see you

جھوٹ ہائے؟ وہ اپنے رب کے حضور
چشم کیے جائیں گے اور گواہ کس گے یہ
ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا
تھا' اسے ظالموں پر خدا کی لعنت (18)

جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں
کبھی چاہتے ہیں اور وہی آخرت کے سکر
ہیں (19)

وہ تھکانے والے نہیں زمین میں' اور نہ
اللہ سے جدا ان کے کوئی حاجی' انہیں
عذاب پر عذاب ہو گا' وہ نہ سن سکتے تھے
اور نہ دیکھتے (20)

وہی ہیں جنہوں نے اپنی جائیں گھانے میں
دائیں' اور ان سے کھوئی گئیں جو بائیں
جوڑتے تھے (21)

خواتم وہی آخرت میں سب سے زیادہ
نقصان میں ہیں (22)

بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے'
اور اپنے رب کی طرف رجوع لائے وہ
جنت والے ہیں' وہ اس میں ہمیشہ رہیں
گے (23)

دووں فرق کا حال ایسا ہے جیسے ایک
اندھا اور بھرا' اور دوسرا دیکھتا اور سنتا' کیا
ان دووں کا حال ایک سا ہے؟ تو کیا تم
دھیان نہیں کرتے (24)

اور بیچک ہم نے لوح کو اس کی قوم کی
طرف بھیجا کہ میں تمہارے لیے صریح
ڈرناٹے والا ہوں (25)

کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو! بیچک میں
تم پر ایک معصیت والے دن کے عذاب
سے ڈرنا ہوں (26)

تو اس کی قوم کے سردار جو کہ کافر ہوئے

أَوَلَيْكَ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ عَلَىٰ ذُنُوبِهِمْ وَلَقَوْلِ
الزُّمَرِ أَذُنُ الْوَالِدِ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلٰى
ذُنُوبِهِمْ أَلَا كَفَرُوا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿۱۸﴾

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا
مُؤْمِنًا وَمَا كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۱۹﴾

أَلَيْكَ لَوْمَاتُ الَّذِينَ كَانَ لَهُمْ
الْأَكْبَانُ وَمَا كَانُوا لَهُمْ قُرْبَىٰ لِلَّهِ
مِن قَوْلِ الْأَنْبِيَاطِ لَكُمْ الْعَذَابُ
مَا كَانُوا يَشْعُرُونَ الشَّمْعَ وَمَا
كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿۲۰﴾

أَوَلَيْكَ الَّذِينَ هَجَرُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَهُمْ يَصَلُّونَ وَسَأَلُوا اللَّهَ عَنِ
الْحَيَاةِ الْآخِرَةِ لَمْ تُبَدِّلْ لَهُمُ
الْأَعْيُنَ ﴿۲۱﴾

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَلَقَبُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۲﴾

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَبْرَصِ
وَإِلَّا تُدْعَىٰ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ
نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۲۵﴾

أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْبَعْثِ ﴿۲۶﴾

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ

like us, and we do not see that any one follows you except the meanest of us at first thought. And we do not find in you any superiority over us; but rather we think you a liar.

28. He said, "O my nation tell me if I am on the right path of my Rubb (Sustainer) Who has bestowed upon me from Himself a great Mercy, but you remained blind from it. Shall we forcefully tie it to your neck (compell you) while you are averse to it."

29. And O my nation, I ask no wealth for it from you. My reward is only with Allah and I am not to drive away those who believe. Surely they are to meet their Rubb (Sustainer) but I find you wholly ignorant people.

30. And O my nation who will save me from Allah, if I drive them away. Will you not mind?

31. And I do not say to you, "I possess the treasures of Allah with me, and neither I know the unseen, nor I say, that I am an Angel, nor I look down upon those whom your eyes hold mean that Allah will not bestow any good to them. Allah knows well what is in their hearts. If I do so then surely I shall be among the cruels.

32. They said, "O Nuuh (Noah), you have disputed with us, and disputed much, then bring that (penalty) which you threaten us, if you are truthful.

تھے' بولے! ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں' اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری بیروی کسی نے کی ہو، مگر ہمارے کہینوں نے سرسری نظر سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی برائی نہیں پاتے، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں (27)

بولہ: اے میری قوم! بھلا بتاؤ تو! اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو تم اس سے اندھے رہے، کیا ہم اسے تمہارے گلے چپٹ دیں؟ اور تم تیزار ہو (28)

اور اے قوم! میں تم سے کچھ اس پر مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے' اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، بیچک وہ اپنے رب سے لئے والے ہیں، لیکن میں تم کو نرے جاہل لوگ بتاتا ہوں (29)

اور اے قوم! مجھے اللہ سے کون بچالے گا؟ اگر میں انہیں دور کروں گا، تو کیا تمہیں دھیان نہیں (30)

اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جان لیتا ہوں، اور نہ یہ کہ میں تمہیں فرشتہ ہوں، اور میں انہیں نہیں کہتا جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، کہ ہرگز انہیں اللہ کوئی بھلائی نہ دے گا، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، ایسا کروں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہوں (31)

بولے! اے نوح! تم ہم سے جھڑپے، اور بت ہی جھڑپے تو لے آؤ! جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو، اگر تم سچے ہو (32)

مَا نَدْرِكُ الْاِلٰهَ اَشْرَاقَتِنَا وَمَا نَدْرِكُ اتَّبَعَكَ الْاَلْبَانِدِيْنَ هُمْ اَكْذٰبُنَا بَادِي الْاَوْبٰى وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ﴿٢٧﴾

قَالَ يَقَوْمِ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ كَالْحٰىيَةِ مَيِّتَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَالْحَيٰىةُ مَمْنُوْنَةٌ مِّنْ عِنْدِ رَبِّىْ لَيَكْفُرُنَّ بِكُمْ لِيُوَفِّيَنَّكُمْ رِزْقًا وَّمَا اَنَا بِطَارِدٍ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّهُمْ مُّلتَقَوْنَ رَبَّهُمْ وَلِلرَّبِّ اَرْكَنُكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿٢٨﴾

وَيَقُوْمُ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَآ اَنْ اَجْرِيْ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَا اَنَا بِطَارِدٍ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّهُمْ مُّلتَقَوْنَ رَبَّهُمْ وَلِلرَّبِّ اَرْكَنُكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿٢٩﴾

وَيَقُوْمُ مِّنْ يُّضْرُوْنِيْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣٠﴾

وَلَا اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزٰٓئِنَ اللّٰهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا اَقُوْلُ اِلٰى مَلِكٍ وَلَا اَقُوْلُ لِيَّذِيْنَ نَزَدْتُّوْنِيْ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤَيِّتِيْهِنَّ اللّٰهُ خَيْرًا اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا قُلْتُمْ فَهَبْ اِنِّيْ اِذَا الْيَمِيْنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣١﴾

قَالُوْا اِيْسُوْحُ قَدْ جَدَدْنَا فَاكْفَرْتُمْ جَدَدْنَا فَاْتَسْبَا بِمَا عَدَلْنَا اِنْ كُنْتُ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣٢﴾

33. He said, "Allah will bring it to you if He pleases, and you cannot escape.

34. And my advice will not profit you, if I desire to advise you sincerely but Allah leaves you to go astray. He is your Rubb (Sustainer) and to Him you shall return.

35. Or do they say, "He has invented it? Please declare, "if I have invented it, then I shall face my crime but I am quite away from your crime."

SECTION 4

36. And Nuuh (Noah) was revealed that from amongst your people none will believe (become Muslim) except those who have already believed, so you should not be distressed at what they do.

37. And make the ark under Our (Allah's) Sight with Our (Allah's) Command, and do not appeal Me concerning the cruels. They shall surely be drowned.

38. And Nuuh (Noah) was making the ark, and whenever the chiefs of his people passed by him, they laughed at him. He said, "if you laugh at us, then we shall laugh at you (one time), as you laugh (now).

39. You shall soon know to whom the punishment is awarded that will disgrace him. And on whom falls the everlasting punishment?

40. And soon Our (Allah's) Command came, and the water came forth the valley. We (Allah) said, "load in it (ark) every kind of a pair, male and female, and the members of your family who believe, except those against whom the word has already

بولاً! وہ تو اللہ تم پر لائے گا اگر چاہے اور تم تھکان نہ سکو گے (33)

اور تمہیں میری نصیحت لے کر نہ دے گی اگر میں تمہارا ہملا چاہوں، جب کہ اللہ تمہاری گمراہی چاہے، وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف پھو گے (34)

کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے اپنے جی سے بنا لیا، تم فرماؤ! اگر میں نے بنا لیا ہو گا، تو میرا گناہ مجھ پر ہے، اور میں تمہارے گناہ سے الگ ہوں (35)

اور لوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لائے گئے تو تم نے کہا اس پر جو وہ کرتے ہیں (36)

اور کشتی بناؤ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈوبائے جائیں گے (37)

اور لوح کشتی بنانا ہے اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرے، اس پر ہنسنے، بولا مگر تم ہم پر ہنسنے ہو، تو ایک وقت ہم تم پر نہیں گے جیسا تم ہنسنے ہو (38)

تو اب جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کر دے، اور اترا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے (39)

یساں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تور ابلا، ہم نے فرمایا: کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا مرد و ماہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً يَا كَرِيمُ اللَّهُمَّ إِنِّي سَأَلْتُكَ وَ مَا أَتَيْتَنِي بِمُحْضَرٍ مِنْكَ ۝
وَلَا يَنْفَعُكَ لَعْنَتِي إِنَّ آيَاتِي لَمُنْظَرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۝
لَكِن مَّا كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُضِلَّهُمْ زُلْمَتَهُمْ سَأَلُوا اللَّهَ يَتُرَجَّحُونَ ۝
لَهُمُ الْعَذَابُ الَّذِي لَمْ يَأْتُوا اللَّهَ بِبُرْهَانٍ ۝
وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ النُّجُومِ سَأَلُوا اللَّهَ يَتُرَجَّحُونَ ۝

وَأَنزِلْنَا إِلَيْكَ الْمَوْجِدَ وَأَنزَلْنَاكَ عَلَى الْوَجْدِ
فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لَمَّا سَأَلُوا اللَّهَ يَتُرَجَّحُونَ
بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْفُلْكَ يَا كَرِيمُ وَوَضَعْنَاكَ بِالْأَعْيُنِ
فِي الْآيَاتِنَا ظَلَمْتَ أَلْفَمًا مَّعْرُوفُونَ ۝

وَوَضَعْنَا الْفُلْكَ وَكَلَّمْنَا نوحًا وَوَضَعْنَا
فِيهَا مَنَاصِرًا وَوَضَعْنَا لَهَا الْإِسْكَرَاتِ الْإِسْكَرَاتِ
لَتَسْمَعُنَّ لَمَّا كَانَتْ تُحَدِّثُونَ ۝

فَسَوْفَ نَعْلَمُ بِمَنْ لَّدُنَّا عَذَابٌ أَشَدُّ مِنْ
ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَعَذَابٌ مُّؤْتَمَرٌ ۝

حَقُّ إِذْ جَاءَهُمْ الْعَذَابُ وَأَكْبَارُ التَّنْزِيلِ فَكَرِهُوا
أَعْوَابَ رَبِّهِمْ كُلًّا زَلَّجْنَاهُمْ أَشْتَبِينَ
وَالهَلْكَ مِنَ الْآيَاتِنَا سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَ

been issued (to be left)". But there were only a few believers with him.

41. And he said, "get into it in the Name of Allah for whom is its moving and its stoppage. Surely, my Rubb (Sustainer) is Forgiving, Merciful.

42. And it was running amid the waves like a mountain. And Nuuh (Noah) called his son, who was standing apart, "embark with us and do not side with the disbelievers, O my son."

43. He said, "I shall take refuge of some mountain, which will save me from the water. Nuuh (Noah) said, "today there is no defender from the punishment of Allah, but it is He Who has mercy. And the waves came in between the two, so he was among the drowned.

44. And it was commanded, "O earth swallow down your water and O clouds, clear away. And the water subsided and the purpose was accomplished, and the ark settled on mountain Judi, and it was said, away be the cruel people."

[ONE FOURTH OF PART 12 ENDS]

45. And Nuuh (Noah) called out to his Rubb (Sustainer) and said, "my Rubb (Sustainer) my son too is of my family and surely Your Promise is true, and You are the most Just of the judges.

46. He said, "O Nuuh; (Naoh) "surely he is not amongst your family. Surely his work is not straightforward. Do not

ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے (40)

اور بولا: اس میں سوار ہو! اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بیگ میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے (41)

اور وہ انہیں لیے جارہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، اور وہ اس سے کنارے تھا، اے میرے بیٹے! ہمارے ساتھ سوار ہو جا، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو (42)

بولا: اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں وہ مجھے پانی سے بچالے گا، کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، مگر جس پر وہ رحم کرے، اور ان کے بیچ میں موج آڑے آئی، تو وہ ڈوبتوں میں رہ گیا (43)

اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین! اپنا پانی نکل لے، اور اے آسمان! تمہیں جا، اور پانی خشک کر دیا گیا، اور کام تمام ہوا، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، اور فرمایا گیا: کہ دور ہوں بے انصاف لوگ (44)

اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، عرض کی اے میرے رب! میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے، اور بیگ تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑھ کر حکم والا (45)

فرمایا: اے نوح! وہ تیرے گھر والوں میں نہیں، بیگ اس کے کام بڑے نالائق ہیں، تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ، جس کا تجھے علم

مَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٤٠﴾

وَقَالَ الْكَبِيرُ لِابْنِهِ زَكَرِيَّا إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ مَوْجِدًا وَمَا تَصِفُونَ إِلَّا آبًا يَّغِيظُ الْعَيْنَ وَيُغْمِغُ فِي الْأَنْفِ ﴿٤١﴾

وَهُي تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ تَوَدُّ نَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يُبَيِّنُ لَهُ الْكَيْدَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾

قَالَ سَأُوذِي إِلَى جَبَلٍ يَّغِيظُ عَيْنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عِصْمَ لِيَوْمَئِذٍ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَئِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٤٣﴾

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْمَأِءِ أَهْلِي وَغِيصِ الْمَاءَ وَفُصِّحِ الْأَكْمَرُ ﴿٤٤﴾

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنِّي وَإِنِّ وَصَلْتُكَ الْحَقِّ وَأَنْتَ أَكْثَرُ الْحَكِيمِينَ ﴿٤٥﴾

قَالَ لَنْبُوخَارَ إِنَّهُ لَيْسَ مِن أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ

request Me that about which you have no knowledge. Surely I admonish you not to become ignorant".

47. He submitted, "O my Rubb (Sustainer) I beg your refuge from asking you that of which I have no knowledge. And if You do not forgive and do not have mercy on me, I shall be amongst the losers.

48. It was said, "O Nuuh (Noah); get down from the ark with peace and blessings from Us (Allah) you and some of the people who are with you. And there shall be nations whom We (Allah)

shall allow to enjoy in the worldly things. Then a painful punishment from Us (Allah) will afflict them.

49. These are the news of the unseen, We (Allah) reveal to you. Neither you did know it before, nor your people. Have patience. Surely, there is good end for the pious.

SECTION 5

50. And towards Aaad came Huud, their own brother. He said, "O my people, worship Allah. You have none worth worship except Him. You are but forgers (of lies).

51. "O my people, I do not ask any remuneration for this. My remuneration is only on Him Who created me. Have you then no wisdom?

52. And O my people beg forgiveness from your Rubb (Sustainer) then turn to Him. He will send over you heavy rain and will add strength to your existing strength. But do not turn away as criminals.

53. They said, O Huud you have not brought to us any

نہیں، میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ تاراں نہ بن (46)

عرض کی! اے رب میرے! میں میری پناہ چاہتا ہوں کہ تم سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں نیاں کار ہو جاؤں (47)

فرمایا گیا: اے نوح! کشتی سے اتر ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر ہیں، اور تمہارے ساتھ کے کچھ گروہوں پر، اور کچھ گروہ وہ ہیں جنہیں ہم دنیا برستے دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا (48)

یہ غیب کی خبریں ہیں، تم ہماری طرف وحی کرتے ہیں، انہیں نہ تم جانتے تھے نہ ہماری قوم اس سے پہلے، تو سبر کرو! جنگ بھلا انجام پر بیخ گاروں کا (49)

اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو کہا، اے میری قوم! اللہ کو پوجو! اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو زہے مغضبی ہو (50)

اے قوم! میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میری مزدوری تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تمہیں عقل نہیں (51)

اور اے میری قوم! اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، تم پر زور کا پانی بھیجے گا اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا، اور جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو (52)

بولے، اے ہود! تم کوئی دلیل لے کر

لکھنا، علم تو ان کے عطا کیا، ان کو کونوں میں انجیلین (۴۶)

قال رب انى اعوذ بك ان اسئلك ما ليس بى به علم ولا اتفقروا لى ولا تحمروا انى من الضالين (۴۷)

قيل ياتوم اخطاوا وانا وانا ربك عاتيك وعلى اموهم فعن معك وانهم سئمتهم لئلا يفتروا عنا عذاب ربهم (۴۸)

تلك من انباء الغيب نوحي اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا اناصرتنا العاقبة للمتقين (۴۹)

والى عاد احاهم هود اقال يقول رب عبدوا الله ما لكم من الوباء غير ان ان اسئلتم الا مفرون (۵۰)

يقوموا لا اسئلكم عليه اجورا ان اجري الاعلى الذى فطرني افسلا تقولون (۵۱)

ويقوموا استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليهم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجبرين (۵۲)

قالوا ايهدوهم لئلا يفتروا عنا عذاب ربهم (۵۳)

proof, and we neither are to leave our gods, just as you say, nor are we going to believe you.

54. We say only that some of our gods have hit you hard with evil. He said, "I call Allah to witness and you all bear witness that I have no concern with those you equate any as associate with Him."

55. "Apart from Him all of you plan any thing against me, all together, without any relief to me".

56. "I put my trust in Allah, my Rubb (Sustainer) and your Rubb (Sustainer). There is no moving creature whose forelock is not under His control. Surely, my Rubb's (Sustainer) is on straight path.

57. But if you turn away your faces then I have already delivered to you that with which I was sent to you. And my Rubb (Sustainer) will bring some others instead of you but you cannot harm Him at all. Surely my Rubb (Sustainer) has full watch over everything.

58. And when Our (Allah's) Command came, We (Allah) saved Huud and those who believed with him, by Our (Allah's) Mercy, and saved them from severe punishment.

59. And such were the Aad (people) who denied the Verses of their Rubb (Sustainer) and disobeyed His Rasools (Messengers) and followed the words of every worst rebellious enemy (of truth).

60. And they were overtaken by curse in this

ہمارے پاس نہ آئے اور ہم خالی تمہارے کتنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے کے نہیں، نہ تمہاری بات پر یقین لائیں (53)

ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی خدا کی تمہیں بری چھٹ (دیکھ) پہنچی، کہا، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم سب گواہ جاؤ، کہ میں بیزار ہوں ان سب سے جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریک ٹھہراتے ہو

(54)

تم سب مل کر میرا بُرا چاہو، پھر مجھے صلت نہ دو (55)

میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب، کوئی پلنے والا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو، بیگ میرا رب سیدھے راست پر لگا ہے

(56)

پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں پہنچا چکا جو تمہاری طرف لے کر بھیجا گیا، اور میرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، بیگ میرا رب ہر شے پر نصاب ہے (57)

اور جب ہمارا حکم آیا، ہم نے ہود اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا، اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی (58)

اور یہ عا دین کہ اپنے رب کی آیتوں سے منکر ہوئے، اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر بڑے سرکش مٹ و دمدم کے کتنے پر پلے (59)

اور ان کے پیچھے گلی اس دنیا میں لنت

بِنَادِيِ الرَّهْمٰنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا كُنَّا لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝۵۴

اِنْ تَقُوْلُ اِلَّا عَرٰوِيْكُ بَعْضُ الرَّهْمٰنَا بِسُوْرَةٍ قَالِ اِنِّيْ اَشْهَدُ اِلٰهًا وَاَشْهَدُ اَنَّ اِنِّيْ بَرِيٌّ وَّمِمَّا تَشْرِكُوْنَ ۝۵۵

مِنْ دُوْنِهِ لَكِيْنِ اِنِّيْ كَجَمِيْعِ اُمَّمٍ اَلَا تُنْظَرُوْنَ ۝۵۶

اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا اُوْحِدْنَا بِمَا صَيَّرْهَا اِنْ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝۵۷

اِنَّ تَوَلَّوْا فَاَنْتُمْ اَبْعَدُكُمْ قَالِ اَسَلْتُكُمْ اِلٰهًا وَاَسَلْتُكُمْ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا اُوْحِدْنَا بِمَا صَيَّرْهَا اِنْ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝۵۸

وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا لِنَجْنِيْنَاهُمْ وَاُولٰٓئِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ بِرُحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجْنِيْنَهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ۝۵۹

وَتِلْكَ اَعَادَةُ اَلَّذِيْنَ اٰبٰى اٰبِ رَبِّيْهِمْ وَوَعَصَوْا رُسُلًا وَاَتَّبَعُوْا اَلْمُرْكَبُ جُنًا وَّعٰوِيْبًا ۝۶۰

وَاتَّبَعُوْا اِنِّيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَةٌ وَّكُوْمٌ

in your houses three days more. This is a penalty, that will not go falsified.”
66. Then when Our (Allah's) Command came, We (Allah) saved Saleh and the believers with him showing Our (Allah's) Mercy and from the humiliation of that day; Surely your Rubb (Sustainer) is Mighty, Honorable.

67. And a thunderous noise overtook the cruels. Then till the morning they remained lying motionless bodies in their homes;
68. as if they were never there. Behold surely Shamuud denied their Rubb (Sustainer). Cursed be on Shamuud.

SECTION 7

69. And surely, Our (Allah's) Angels came to Ibraaheem (Abraham) with delightful news. They said, "Peace"! He also said, "Peace"! And he made no delay in bringing for them a roasted calf.

70. But when he saw that their hands did not extend to the food, he became suspicious of them and felt a fear from them in his heart. They said, "fear not, we have been sent towards the people of Luut.

71. And his wife was standingby, who began to laugh. Then We (Allah) gave her the rejoiceful news of Ishaq (Isac) and after Ishaq (Isac) that of Yaqoob (Jacob).

72. She said, "Oh; Wonder!, shall I bear a child when I am so old woman and this is my husband, an extremely old man? Surely this is wonderful thing.

نے کہا 'اپنے گھروں میں تین دن اور برت لو' یہ وعدہ ہے کہ جموٹا نہ ہو گا (65)

پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے صالح اور اس کے ساتھ کہ مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے' بیگک تمہارا رب قوی عزت والا ہے (66)

اور خالوں کو چگھانے آیا، تو صبح اپنے گھروں میں گھنٹوں کے بل پرے رہ گئے (67)

گویا کبھی یہاں جے ہی نہ تھے، من لو! بیگک تمہو اپنے رب سے منکر ہوئے ارے لعنت ہو تمہو پر (68)

اور بیگک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مژدہ لے کر آئے، بولے سلام! کہا، سلام، پھر کچھ دیر نہ کی کہ ایک چمچرا بنا لے آئے (69)

پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بچختے ان کو اوپری سمجھا، اور جی ہی جی میں ان سے ڈرنے لگا، بولے! ڈریے نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں (70)

اور اس کی بی بی کھڑی تھی وہ ہنسنے لگی، تو ہم نے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بچپے یعقوب کی (71)

بولی! ہائے خرابی! کیا میرے بچہ ہو گا اور میں بوڑھی ہوں؟ اور یہ ہیں میرے شوہر بوڑھے، بیگک یہ تو اچنبہ کی بات ہے (72)

أَيُّهَا ذٰلِكَ وَعَدَّ غَيْرَ مَكْدُوبٍ ۝۶۵

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنَ الْجَزْلِ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝۶۶

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي ذِي بَارِئِهِمْ جُثُوبِينَ ۝۶۷
كَانَ لَكُمْ رِعَايَتُنَا بِهَا الْإِلَٰهَٰنَ تَمُودَ أَكْفَرُوا بِحِبِّ رَبِّهِمُ الْآبَعْدَ الرَّمُودَ ۝۶۸

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَالُوا إِنَّا بِمَا عِبَادِكُمْ فَاعْتَدْنَا

فَلَمَّا رَأَىٰ أَن يَضْحَكُوا شَكَّ أَن يَقُولُوا وَأَجْحَبُوا كُفْرًا ۝۶۹
فَلَمَّا رَأَىٰ أَن يَضْحَكُوا شَكَّ أَن يَقُولُوا وَأَجْحَبُوا كُفْرًا ۝۷۰
إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ

وَأَمْرَاتِهِ قَائِمَةً فَاصْبَحَتْ فَتْيُنًا يُرَىٰ بَأْسُهَا ۝۷۱
وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِسْحَاقُ وَيَعْقُوبَ ۝۷۲

قَالَتْ يُونُوسُ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي بِرَبِّ هَذَا فَكَيْفَ يُرَىٰ هَذَا الْبَشَرُ لِمَ تُؤْفَكُونَ ۝۷۳
بَعَثْنَا سَبَّحًا بِإِن هَذَا الشَّيْءُ عَجِيبٌ ۝۷۴

73. They (Angels) said, "do you wonder at the Bestowment of Allah being blessing upon you. O people of this house, surely, it is He Who is All Praiseworthy, Glorious.

74. Then when the fear of Ibraaheem (Abraham) disappeared, and he got rojoyceful news, he began to plead with Us (Allah) for the people of Luut.

75. Surely, Ibraaheem (Abraham) is forbearing, most passionate and penitent.

76. O Ibraaheem (Abraham)! you leave off this. Surely, the Command of your Rubb (Sustainer) has come, and surely, the punishment is to approach them, that cannot be averted.

77. And when Our (Allah's) Angels came to Luut he was distressed due to them and became sad on account of their protection and said, "this is a hard day."

78. And his nation came rushing to him and they were in the habit of doing evil deeds before. He said, "O my nation here are my daughters. They are purer for you, (for permissible sex)." "Fear Allah, and do not disgrace me before my guests." Is there not a single right minded man amongst you?"

79. They replied, "you know, that we have no need of your daughters and you surely know what we desire".
80 He said, "Ah! had I strength to overpower you or could take refuge with a strong support"

فرشتے ہوئے کیا اللہ کے کام کا اجنبی کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر اس گھر والوں پر چلے گی وہی ہے سب خیروں والا عزت والا (73)

پھر جب ابراہیم کا خوف زائل ہوا اور اسے خوشخبری ملی، ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا (74)

بیگ ابراہیم عقل والا بت آپس کرتے والا رجوع لانے والا ہے (75)

اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑ بیگ تم سے رب کا حکم آچکا اور بیگ ان پر عذاب آنے والا ہے کہ پھیرنا نہ جائے گا (76)

اور جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے، اسے ان کا غم ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا اور بولا! یہ بڑی سختی کا دن ہے (77)

اور اس کے پاس اس کی قوم دوڑتی آئی اور انہیں آگے ہی سے بڑے کاموں کی عادت پڑی تھی، کہا، اے قوم! یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے ستمی ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مسلمانوں میں رسوا نہ کرو، کیا تم میں ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں (78)

ہولے! تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، اور تم ضرور جانتے ہو جو ہماری خواہش ہے (79)
ہولے! اے کاش! مجھے تمہارے مقابلہ زور دینا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لینا

قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ لَئِنْ كُنْتُمْ عَلَيكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ لَرَأَيْتُمْ حَيَاتَةَ يُحْيِي ۙ

لَكُلِّكُمْ نَسَبٌ مِمَّنْ بَدَّوهُمُ الْيَوْمَ وَجَاءَتْهُمُ الْبَشْرَىٰ نَبَأًا لَّئِنْ كُنتُمْ لَاطِقِينَ ۗ

بَيْنَ يَدَيْهِمْ لَئِنْ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أَذَاهُ مُنِيبٌ ۗ

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ عَنْ هَذَا أِنَّهُ قَدْ جَاءَ الْفَرْدِ كَافَّةً وَأَنَّهُمْ لِيَتَّخِذُوا بَغِيضَتِهِمْ يَوْمَئِذٍ ۙ

وَلَمَّا كَانَتْ رُسُلًا لِّلْطَّائِفِ ۙ بَدَأَ يَوْمَئِذٍ بِمَنْ قَدْ جَاءَهُ الْبَشْرَىٰ ۗ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ ۙ

وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُمْ يَهُودُ عَيْنٍ وَإِمَانٍ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ ۙ

وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُمْ يَهُودُ عَيْنٍ وَإِمَانٍ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ ۙ

قَالُوا أَتَقَدَّرُ عَلَيْنَا مَا لَنَا بِبَنِيكِ مِنْ فَضْلٍ وَأَنْتَ نَسَمَكُمَا تُؤْتِي ۙ

قَالَ تَوَدَّانِ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أُوذِيَ إِلَىٰ آلِ رَبِّكَ ۙ

81. The Angels said, "O Luut we are messengers of your Rubb (Sustainer). They cannot reach you. Take away your followers during a part of night, and let none of you look back except your wife. Surely whatever falls on them same is to fall on her too. Surely their appointed time is in the morning. Is the morning not approaching soon?"

82. Then when Our (Allah's) Command came We (Allah) turned that town upside down, and We (Allah) rained upon it stones of baked clay continuously.

83. Those (stones) bear the token of your Rubb (Sustainer) and these (stones) are not away from the cruel people.

[HALF OF PART 12

ENDS]

SECTION 8

84. And towards Shuadyan came their brother Shuuaib, who said "O my nation worship Allah, there is none worth worship besides Him. And do not reduce the measure and the weight. Surely I see you prosperous, but I fear for you the punishment of encircling day."

85. And O my people : maintain the measures and weighs with judicious balance and do not give the people their things reducing the same and do not cause disorder in the earth, corruptly.

86. And the provisions from Allah are better for you, if you believe. And I am not a custodian over you.

فرشتے بولے! اے لوہ! ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے، تو اپنے گمراہوں کو راتوں رات لے جاؤ، اور تم میں کوئی پیٹھ پھیر کر نہ دیکھے، سوائے تمہاری عورت کے، اسے بھی وہی پہنچتا ہے جو انہیں پہنچے گا، بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت ہے، کیا صبح قریب نہیں (81)

پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کے اوپر کہ اس کا نیچا کر دیا، اور اس پر سنگر کے پتھر کا بار برسائے (82)

جو نشان لگے ہوئے تھے رب کے پاس ہیں، اور وہ پتھر کچھ خالوں سے دور نہیں (83)

قَالُوا يَا لَلطُوطِ اِنَّ اَرْسُلَ رَبِّكَ لَنْ يَصِلَاكَ
اِنَّكَ كَا نَسْرٍ يَأْتِيكَ يَ قَطْعُومِ تَبْنَ اَيْلِيلِ
وَلَا يَنْتَفِقُ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا اَمْرًا اَنْتَ
اِنَّهٗ مُصَيَّبٌ بِمَا اَمَّا صَابِيهِمْ اِنْ مَوْعِدٌ لِّم
الصَّبْرِ الْيَسَّ الصَّبْرِ يَ قَرِيْبٌ ﴿٨١﴾

فَاَلْمَا جَاءَهُمُ الرُّجُلُ اَعْلَيْنَا اَلَيْسَا اِفْلَاكُمَا
وَاَمْطَرْنَا عَلَيْنَا حِجَارَةً تَنْ يَبْعِيْبُهَا
مَنْصُوْمٌ ﴿٨٢﴾
مَسْوُوْمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَ مَا هِيَ مِنْ
اِنَّ الظُّلُمِيْنَ يَبْعِيْبُ ﴿٨٣﴾

اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو کہا، اے میری قوم! اللہ کو پوجو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، پیک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور مجھے تم پر کھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے (84)

اور اے میری قوم! ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو (85)

اللہ کا دیا جو بیچ رہے وہ تمہارے لئے بہتر ہے، اگر تمہیں یقین ہو، اور میں کچھ تم پر نگہبان نہیں (86)

وَالَّذِي مَدَّ يَدَيْنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبٌ اَقَالَ يَقُوْمِرِ
اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ قَوْمًا اِلٰهَ غَيْرُوْهُ
لَا تَنْقُصُوْا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ اِنَّ
اَرْسُلَكُمْ بِخَيْرٍ وَّاِنَّ اَخْبَاطَ عَلَيَكُمْ
عَذَابَ يَوْمٍ مُّجِيْبٍ ﴿٨٤﴾

وَلْيَقُوْمِرِ اَوْ قُوْا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ وَلَا تَنْقُصُوْا النَّاسَ اَشْيَافَهُمْ
وَلَا تَعْتَوُوْا فِي الْاَرْضِ مُضْعِبِيْنَ ﴿٨٥﴾

بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ مِنْ مَّا كُنُوْا فِيْهَا
وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحٰقِلٍ ﴿٨٦﴾

is encircled by my Rubb
(Sustainer).”

93. And O my nation! you
continue your work to your
stability, I do my work. You
will know, on whom comes
the punishment that will
disgrace him and the one who
is liar. And wait. I also wait
with you.

94. And when Our
(Allah's) Command came, We
(Allah) saved them with
Shuaib by showing Our
(Allah's) Mercy and the
thunderous noise seized the
cruels so they became
motionless bodies in their
homes at the morning;

95. as if they never dewelt
there. Behold perished
Madyan just as Samuud were
perished away.

SECTION 9

96. And surely, We (Allah)
sent Moosaa (Moses) with
Our (Allah's) Verses and
clear authority;

97. to Firawn (Pharaoh)
and his chiefs. But they
followed the orders of Firawn
(Pharaoh), and the order of
Firawn (Pharaoh) was not at
all right directed.

98. He will lead his nation
on the Day of Resurrection
and will bring them in the
hell. And what an evil place
is that to be taken to.

99. And they are encircled
by a curse in this world and
on the Day of Resurrection.
What an evil reward they got.

100. This is an account of
the towns We (Allah) relate
to you. Of them some are
standing and some
demolished.

101. And We (Allah) did not
do any excess to them but

کچھ تم کرتے ہو، سب میرے رب کے
بس میں ہے (92)

اور اے قوم! تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ
میں اپنا کام کرتا ہوں، اب جاننا چاہتے ہو
کس پر آتا ہے، وہ عذاب کہ اسے
رسوا کرے گا اور کون جھوٹا ہے اور انتظار
کرو، میں بھی تمہاریے ساتھ انتظار میں
ہوں (93)

اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب اور
اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت
فرا کر بچا لیا، اور ظالموں کو چکھانے آیا
تو صبح اپنے گروں میں گھنٹوں کے بل
پڑے رہ گئے (94)

گویا کبھی وہاں بے ہی نہ تھے، ارے دور
ہوں مدین، جیسے دور ہوئے ثمود (95)

اور بیک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور
صریح غلبہ کے ساتھ (96)

فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف
بھیجا، تو وہ فرعون کے کہنے پر چلے، اور
فرعون کا کام راستی (چٹائی) کا نہ تھا (97)

اپنی قوم کے آگے ہو گا قیامت کے دن تو
انہیں دوزخ میں لا آتارے گا، اور وہ کیا
ہی بُرا گمات اترنے کا (98)

اور ان کے پیچھے پڑی اس جہان میں
لنت، اور قیامت کے دن کیا ہی برا اعوام
جو انہیں ملا (99)

یہ بستیوں کی خبریں ہیں کہ ہم تمہیں
ساتے ہیں، ان میں کوئی کھڑی ہے اور
کوئی کٹ گئی (100)

اور ہم نے ان پر علم نہ کیا بلکہ خود

بِمَا تَعْمَلُونَ فُعِيْظٌ ﴿٩٢﴾
وَلَقَدْ وَاٰمَلُوْا عَلٰى مَكَاتِرِكُمْ اِنِّىْ عَلٰمٌ
سُوْٓءٌ تَعْمَلُوْنَ مِنْ وَّآلِهٖٓ عَدُوٍّ يُخۡزِيْهِ
وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَّاَلۡفَعُوْا اِنِّىْ عَسَاۤءُ اُرۡسِلُ
﴿٩٣﴾

وَلَمَّا جَاۤءَ اَمْرُنَا نَجَّيۡنَا شُعۡيۡبًا وَّاَلۡذِيۡنَ
اٰمَنُوْا مَعۡدُوۡرۡ حَمِيۡتٍ وَّمَا وَاخۡذَت
الذِّیۡنَ ظَلَمُوۡا الصَّیۡحَةَ فَاصۡبَحُوۡا فِی
دِیَارِهِمْ جَثَمٰٓیۡنَ ﴿٩٤﴾

كَانَ لَعۡنَتُنَا عَلٰٓیۡہِۭمۡ اَلۡاَبَدَ الْاَمَدِیۡنَ
بِمَا كَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ ﴿٩٥﴾

وَلَقَدْ وَاٰسَلۡنَا مُوسٰی بِالذِّیۡنِ السُّلۡطٰنِ مُبٰیۡنٍ
اِلٰی ذُرۡعُوۡنَ وَّمَلٰٓئِہٖٓ فَانۡبَعَثُوۡا الۡفَرۡسُوۡنَ
وَمَا الۡفَرۡسُوۡنَ بِرِیۡسِیۡنَ ﴿٩٦﴾

یَعۡدُ لِمَ قَوْمِہٖ یَوْمَ الْقِیۡمَہِٗ فَاَوۡدٰہُمُ
النَّارَ وَّبٰسَ الْوَرۡدِ الْمَوۡرُوۡدِ ﴿٩٧﴾

وَاِنۡبَعَثُوۡا فِیۡ ہٰذِہٖ لَعۡنَۃٌ وَّرِیۡوۡہِ الْقِیۡمَہِٗ
بِیۡسِ الرِّیۡدِ الْمَوۡرُوۡدِ ﴿٩٨﴾
ذٰلِکَ مِنْ اٰیٰتِ الْفُرۡقٰنِ لِقَصۡصۃِ عٰیۡتِکَ
مِنۡہَا فَاۡمَرُوۡا وَحٰصِیۡدُ ﴿٩٩﴾

وَمَا ظَلَمۡنَاہُمۡ وَّلٰکِنۡ ظَلَمُوۡا اَنۡفُسَہُمۡ مَّا

they did evil to themselves. Their gods whom they used to worship besides Allah, did not help them to any extent, when the Command of your Rubb (Sustainer) came, and they got nothing except destruction.

102. And such is the seizing of your Rubb (Sustainer) He awarded to the towns on their cruelties. Surely, His punishing is painful and terrible.

103. Surely, there is a sign to him who fears the punishment of hereafter. That is a Day where all shall be gathered together and that is a Day which will present witnesses.

104. And We (Allah) shall not delay it except for a counted period.

105. When that Day will come, no one will speak except by the permission of Allah. Then among them, will be the damned and some of them will be the blessed.

106. As for the damned they will be in the hell. They will be wailing and moaning there;

107. dwelling therein so long as the heavens and earth exist, save as your Rubb (Sustainer) Wills. Surely your Rubb (Sustainer) Acts as He Wills.

108. And as for the happy they shall be in the Paradise. They shall abide therein, so long as the heavens and earth exist, save as your Rubb (Sustainer) Wills as a gift unlimited.

109 Then (O listener) ! do not be in any doubt concerning that which these (idolators) worship. They

انہوں نے اپنا بڑا کیا، تو ان کے معبود جنہیں اللہ کے سوا پوجتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے، جب تمہارے رب کا حکم آیا، اور ان سے انہیں ہلاک کے سوا کچھ نہ بڑھا (101)

اور ایسی ہی جگہ ہے تمہارے رب کی جب بیتوں کو پکڑتا ہے، اور ان کے ظلم پر پیکر اس کی پکڑ درد ناک کڑی ہے (102)

پیکر اس میں نشان ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے، وہ دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہ دن حاضری کا ہے (103)

اور ہم اسے پیچھے نہیں ہٹاتے مگر ایک گنی ہوئی مدت کے لیے (104)

جب وہ دن آئے گا کوئی بے حکم خدا بات نہ کرے گا، تو ان میں کوئی بدبخت ہے اور کوئی خوش نصیب (105)

تو وہ جو بدبخت ہیں وہ تو دونوں میں ہیں، وہ اس میں گدھے کی طرح رہیں گے (آواز نکالیں) گے (106)

وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں، مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا، پیکر تمہارا رب جب جو چاہے کرے (107)

اور وہ جو خوش نصیب ہوئے وہ جنت میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں، مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا، یہ بخش ہے کبھی ختم نہ ہوگی (108)

تو اسے سننے والے! دعو کا میں نہ پڑ اس سے جسے یہ کافر پوجتے ہیں، یہ و سوا ہی

أَخَذَتْ عَلَيْهِمُ الرِّبُّهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمْ يَأْتِهِمْ مِنْ رَبِّكَ وَمَا رَأَوْهُمُ غَيْرَ تَتَابِعٍ ۝

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقَرْيَةَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ لَنْ أَخَذَهَا إِلَّا لِيُعَذِّبَ الَّذِينَ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ۝

وَمَا نَخْوِفُهُ إِلَّا لِأَجْلِ الْمُعَدِّدِينَ ۝

يَوْمَ يَأْتُ الَّكُفَّاءُ نَفْسًا لِلْأَلْبَانِ ۝ فَمَنْهُمْ شَقِيحٌ وَسَعِيدٌ ۝

لَكُلَّمَا نَزَلْنَا مِنْ سَمَوَاتِنَا لِنَفْسٍ مِنْهُمَا نُنَزِّلُ مِنْهَا مَاءً زَكِيًّا ۝

خَلِيدِينَ فِيهَا مَا مَادَ لِعَمَتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ نَفَّالٌ لِمَا يَرِيدُ ۝

وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا أَفِي الْجَنَّةِ خَلِيدِينَ فِيهَا مَا مَادَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرٌ يُحْدَدُ ۝

فَلَا تَكُنْ فِي مِرَّةٍ وَمِمَّا يَعْبُدُ كَمَا يَعْبُدُونَ

donot worship but as their forefathers worshipped. Surely, We (Allah) shall repay them their award in same terms in full which shall be undiminished.

SECTION 10

110. And surely, We (Allah) gave Moosaa (Moses) the Book but they differed in it. And if a Command of your Rubb (Sustainer) had not gone forth, the matter would have been decided between them. And surely, they are in a deceptive doubt about it.

111. And surely to every one of them your Rubb (Sustainer) will repay according to their deeds in full. He is aware of their deeds.

112. So you remain firm in the right way as you have been commanded and whoever has turned (to Allah) with you. And do not transgress. Surely He sees what you do.

113. And do not incline towards the cruels lest the fire should touch you, and you have no supporter besides Allah. Then you will not be helped.

114. And establish Salaat (Muslim Prayer) at the two ends of the day and in the early hours of the night. Surely pious deeds finish the evil deeds. This is an advice for the persons who understand.

115. And be patient for Allah does not waste the reward of the pious people.

116. But why were not there the wise persons among generations before you with understanding, who should have forbidden disorder in

پوتے ہیں جیسا پہلے ان کے باپ دادا پوتے تھے، اور بیگ ہم ان کا حصہ انہیں پورا پھر دیں گے جس میں کمی نہ ہوگی (109)

اور بیگ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں پھوٹ پڑ گئی، اگر تمہارے رب کی ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو جیسی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور بیگ وہ اس کی طرف سے دھوکا ڈالنے والے شک میں ہیں (110)

اور بیگ جتنے ہیں ایک ایک کو تمہارا رب اس کا عمل پورا پورا بھر دے گا، اسے ان کے کاموں کی خبر ہے (111)

تو قائم رہو جیسا تمہیں حکم ہے اور جو تمہارے ساتھ رجوع لایا ہے، اور اسے لوگو! سرکشی نہ کرو! بیگ وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے (112)

اور خالوں کی طرف نہ جھکو کہ تمہیں آگ چھوئے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں، پھر مد نہ پاؤ گے (113)

اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں بیگ نیکیاں برائیوں کو مٹا رہتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو (114)

اور صبر کرو کہ اللہ نیکیوں کا نیک (اجر) ضائع نہیں کرتا (115)

تو کیوں نہ ہوئے تم سے اگلی نسلوں میں ایسے جن میں بھلائی کا کچھ حصہ لگا رہا ہوتا

يَعْبُدُونَ إِلَّا الْكَلِمَةَ لَعْنَةُ آبَائِهِمْ مِنَ تَبِيلٍ وَإِنَّ الْكُفْرَ هُمْ نَجِيبُهُمْ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ مُّقْتَدِرٌ ۙ

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاحْتَلَفَ فِيهِ ذُرِّيَّتَهُ لَوِ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفَقِينٌ بِئِنَّهُمْ أَكْرَهُوا لِقَائِي إِذْ كُنْتُمْ هُرُيبًا ۙ

وَإِنْ كُنَّا لَنَاصِرِيهِمْ فَكَيْفَ يُعَذِّبُهُمْ رَبُّكَ أَفَكُنْتُمْ أَكْهَمًا ۙ

فَأَسْقُمْ كَمَا أَخْرَجْتَ مِنَ تَابِعِكَ ۙ وَلَا تَطْعَمُوا لَهُمْ لِيَعْمَلُوا بَعْضٌ مِّنْ بَعْضٍ ۙ

وَلَا تَلْوُكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۙ

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُكُوعًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلَّذِينَ كَرِهُوا ۙ

وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُمْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۙ

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةً يَبْغُون عَنِ الْفَسَادِ فِي

the land, except a few of them whom We (Allah) saved. The cruels remained behind the same luxury that was given to them, and they were thus the guilty.

117. And your Rubb (Sustainer) is not such that He should destroy cities unjustly while its people be righteous.

118. And if your Rubb (Sustainer) had Willed He would have made all mankind one nation, but they will have differed.

119. Except those on whom your Rubb (Sustainer) bestows mercy will not differ and for this He has created them. And the word of your Rubb (Sustainer) has been fulfilled. Surely I will fill hell with the jinns and mankind, all together.

120. And all that We (Allah) detail to you of the true stories of - the Rasools (Messengers) is for the purpose of strengthening your hearts thereby, and in this the truth has come to you and a warning, and a reminder to the Muslims.

121. And tell these disbelievers, "act according to your power and we act to our power".

122. And wait, we too are waiting.

123. And to Allah belong the unseen (secrets) of the heavens and the earth and to Him is the return of all the affairs (for decisions). So worship Him and rely upon Him. And your Rubb (Sustainer) is not unaware of what you do.

کہ زمین میں ساد سے روکتے ہاں! ان میں توڑے تھے وہی جن کو ہم نے نجات دی، اور ظالم اسی میں کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا اور وہ گنہگار تھے (116)

اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بتیوں کو بے وجہ ہلاک کر دے، اور ان کے لوگ اچھے ہوں (117)

اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت کر دیتا اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے (118)

مگر جن پر تمہارے رب نے رحم کیا اور لوگ اسی لیے بنائے ہیں، اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی کہ بیکس ضرور جنم بھروں گا جنوں اور آدمیوں کو ملا کر (119)

اور سب کچھ ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتے ہیں جس سے تمہارا دل ٹھہرائیں اور اس سورت میں تمہارے پاس حق آیا اور مسلمانوں کو چھوڑ دیتے (120)

اور کافروں سے فرماؤ! تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ! ہم اپنا کام کرتے ہیں (121)

اور راہ دیکھو! ہم بھی راہ دیکھتے ہیں (122)

اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے غیب، اور اسی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے، تو اس کی بندگی کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں (123)

الْأَرْضِ وَالْأَنْبِيَاءَ الَّذِينَ كُنَّا مِنْهُمْ
وَأَنبِيَاءَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُوذُوا فِيهِ
وَكَاذِبًا بَجْرِمِينَ ﴿١١٦﴾

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ
أَهْلًا مُّصِلِحِينَ ﴿١١٧﴾

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَيَجْعَلِ النَّاسَ أُمَّةً
وَاحِدَةً وَلَا يَذَرُكَ الْفَاسِقِينَ ﴿١١٨﴾

إِلَّا مَن كَرِهَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ
وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾

وَمَا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ
مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ
النُّصْحُ وَالْمَوْعِظَةُ فَاذْكُرْ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾

وَقُلْ لِلدِّينِ أَلِيمُونَ لَا يُمِيتُونَ اَعْمَلُوا عَلَىٰ
مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَاظِمُونَ ﴿١٢١﴾

وَأَنْتُمْ ظُورُؤْنَا مَنْظُورُونَ ﴿١٢٢﴾
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ
يُرجع الْأُمُورُ كُلُّهَا فاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ
عَلَيْهِ وَمَا سَأَلَكَ بِعَالَمِ سَمَاءٍ
بِأَعْمَلُونَ ﴿١٢٣﴾

S. XII - YUSUF (JOSEPH)

(Revealed at Makkah)

(12 Sections, 111 Verses)

(In) Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. ALIF - LAAAM - RAA (A.L.R.) These are the Verses of a manifest Book.

2. Surely, We (Allah) have sent it down as an Arabic Qur'aan (repeatedly readable Book) so that you may understand.

3. We (Allah) relate to you the best narration, in Our (Allah's) revealing to you this Qur'aan, (repeated reading). Surely you were previously unaware about it (true story).

4. (Recall) when Yusuf (Joseph) said to his father, "O my father, I saw eleven stars and the sun and the moon : I saw them prostrating before me."

5. He (father) said, "O my son ! do not expose your dream to your brothers, otherwise they will devise any scheme against you. Surely satan (devil) is the open enemy of human beings.

6. And thus your Rubb (Sustainer) will select you and teach you the interpretation of the dreams and perfect His Blessings upon you and upon the family of Yaqoob (Jacob) as He perfected it previously on your forefathers Ibraaheem (Abraham) and Ishaq (Isac). Surely your Rubb (Sustainer) is Knowing, Wise.

SECTION 2

7. Surely in (the narration about) Yusuf (Joseph) and his brothers

سورۃ یوسف کی ہے (اور اس میں) ایک سو گیارہ (111) آیات اور بارہ (12) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا

یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں (1)

بیک ہم نے اسے علی قرآن اتارا تاکہ تم سمجھو (2)

ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اگرچہ بیک اس سے قبل تمہیں خبر نہ تھی (3)

یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ! میں نے گیارہ تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا (4)

کہا، اے میرے بچے! اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، بیک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے (5)

اور اسی طرح تجھے تیرا رب جن لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا، اور یعقوب کے گھر والوں پر جس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی، بے شک تیرا رب علم و حکمت والا ہے (6)

بیک یوسف اور اس کے بھائیوں میں

سورۃ یوسف کی ہے (اور اس میں) ایک سو گیارہ (111) آیات اور بارہ (12) رکوع (ہیں)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الرَّسْمِ الْاَوَّلِ الْاَكْبَرِ الْمُبِينِ ①

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ②

لَمَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ فَكُرِئْ لَهُ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغٰفِلِيْنَ ③

اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِاٰبَتِهٖ اِنِّىْ اَرٰى الْاَنْوٰجَ اَحَدَ عَشَرَ كُوْكَبًا وَاَلشَّمْسَ وَاَلْقَمَرَ وَاٰنٓىٔهُمْ رَاقِيْنَ سٰجِدِيْنَ ④

قَالَ يَبْنٰى لَا تَقْصُصْ رُءُوْآءَكَ عَلٰى

اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْنَ اِلَيْكَ كَيْدًا اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسٰنِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ⑤

وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَمْوٰىبِ وَيُؤَيِّتُ بِعَمَلِكَ صٰلِحًا وَاَعْلٰى اِلٍ بَعْقُوْبٍ كَمَا اَتٰنِيْهَا عَلٰى كُوْكَبٍ

مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ اِنَّ رَبَّكَ بِعِبَادَتِكَ حَكِيْمٌ ⑥

فَلَمَّا كَانَ فِيْ يُوْسُفَ رَاٰخَوْتَهٗ اٰتٰتٌ

there are signs for the quisitives.

8. They (ten step brothers) said, "surely Yusuf (Joseph) and his (real) brother are dearer to our father than we, (being step ones) though we are a group. Surely our father is in clear error.

9. Kill Yusuf (Joseph) or leave him away into some land so that your father's attention may only remain fully towards you, and thereafter you revert as a righteous people.

10. One of them said, "do not kill Yusuf (Joseph) but throw him in the dark bottom of the well and some caravan will pick him up, if you are to do so.

11. They said, 'O our father! what worries you that you are not trusting us regarding Yusuf (Joseph). Whereas we are surely his sincere well wishers.

12. Send him with us tomorrow that he may enjoy himself and play and we shall surely guard him.

13. He (Jacob) said, "it grieves me that you should take him away, and I fear that wolf may eat him while you remain unaware of him."

14. They said, "if the wolf eats him, when we are a group then we are surely of no use."

15. So when they took him away, all agreed that he should be put in the dark bottom of the well. We (Allah) revealed to him that certainly you shall tell them of their deed while they will not perceive

پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں (7)
جب بولے! کہ ضرور یوسف اور اس کا
بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے
ہیں اور ہم ایک جماعت ہیں، چیک
ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں
ڈوبے ہوئے ہیں (8)

یوسف کو مار ڈالو یا کسی زمین میں پھینک
آؤ، کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری
ہی طرف رہے، اور اس کے بعد پھر نیک
ہو جانا (9)

ان میں ایک کہنے والا بولا! یوسف کو مارو
نہیں، اور اسے اندھے کنوئیں میں ڈال
دو، کہ کوئی چلتا اسے آکر لے جائے، اگر
تمہیں کرنا ہے (10)

بولے! اے ہمارے باپ! آپ کو کیا ہوا
کہ یوسف کے معاملہ میں ہمارا اعتبار
نہیں کرتے، اور ہم تو اس کے خیر خواہ
ہیں (11)

کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ
میوے کھائے اور کھیلے، اور چیک ہم اس
کے نگہبان ہیں (12)

بولا بیٹیک مجھے رنج دے گا کہ اسے لے
جاؤ، اور ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھالے،
اور تم اس سے بے خبر ہو (13)

بولے! اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم
ایک جماعت ہیں، جب تو ہم کسی مصرف
کے نہیں (14)

پھر جب اسے لے گئے اور سب کی رائے
یکساں تھی کہ اسے اندھے کنوئیں میں
ڈال دیں، اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ
ضرور تو انہیں ان کا یہ کام بتا دے گا،
ایسے وقت کہ وہ نہ جانتے ہوں گے (15)

لَقَدْ آتَيْنَا
يُوسُفَ إِذْ قَالَ لِيُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحِبُّ إِلَيَّ
أَبِينَا مِنْ أَحِبِّهِ إِنَّ أَبَانَا
لَكُنْ يَصْطَلِحُ شَيْئِينَ ۝

أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ طْرُقُوهُ الْهَرَمَ
يَقُولُ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ
بَعْدِهِمْ قَوْمًا صَالِحِينَ ۝

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ
وَأَخُوهُ فَإِنَّ ابْنَ تِلْكَ الْقَرْيَةِ
يَلْبَسُهُمْ بَعْضُ
الشَّيْءِ لَعَلَّكُمْ تَفْقَهُونَ ۝

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ
وَأَخِي لَوْ أَنَّكَ لَتَرَاهُ لَمَنَّا
وَأَنَا
لَكُنْ لَنَحْفَظُوكَ ۝

قَالَ إِنِّي يَتَوَلَّى فِئْتَانِ مِنْ تَحْتِ هَاتِهِمَا
وَأَنْتُمْ
عَنْهُ غَافِلُونَ ۝

قَالُوا بَيْنَ يَدَيْكَ الذَّنْبُ وَإِنَّا لَمَن
عَضْبَةً إِنَّآ إِذْ أَخْسَرُونَ ۝

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ
فِي غِيَابِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ
بِأَهْوَاهِ هَٰؤُلَاءِ وَإِنَّهُمْ لَشَاعِرُونَ ۝

16. And at the nightfall they came to their father, weeping.

17. They said, "our father! we went away racing and left Yusuf (Joseph) near our belongings, then the wolf ate him, and you would not believe us, though we may be truthful"

{THREE FOURTH OF PART 12 ENDS}

18. And they brought his shirt stained with false blood. He (father) said, "your hearts have made a (false) thing for you; then patience is perfect; and I seek help only from

Allah against what you describe."

19. And there came a caravan, they sent their water-carrier who sent down his bucket. He (bucket drawer) said, "Aha", it is a matter of rejoicing that it has fetched a youth and they hid him as an article of merchandise. And Allah Knew what they did.

20. And they sold him for a small price - a few pieces of silver, and they held him in low estimation.

SECTION 3

21. And the Egyptian who bought him said to his wife, "keep him in respectable lodging." Maybe that he may profit us, or we may take him as a son." And thus We (Allah) established Yusuf (Joseph) in the land in order that We (Allah) may teach him the interpretation of dreams. And Allah is Dominant over His affairs, but most people do not know.

22. And when he reached his prime, We (Allah)

اور رات ہوئے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے (16)

بولے! اے ہمارے باپ! ہم ووڈ کرتے نکل گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑا، تو اسے بھیڑا کہا گیا اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے، اگرچہ ہم سچے ہوں (17)

اور اس کے کرتے پر ایک جموٹا خون لگا لائے، کہا، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنالی ہے، تو صبر اچھا اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں، ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو (18)

اور ایک قافلہ آیا انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا، تو اس نے اپنا ڈول ڈالا بولا، اہا! کیسی خوشی کی بات ہے! یہ تو ایک لڑکا ہے اور اسے ایک بوٹی بنا کر چھپا لیا، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں (19)

اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے روپوں پر بیچ ڈالا، اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی (20)

اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا وہ اپنی عورت سے بولا، انہیں عزت سے رکھو! شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ان کو ہم بیٹا بنا لیں، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جماد (غمراد) دیا، اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے (21)

اور جب اپنی پوری قوت کو پہنچا، ہم نے

وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿١٦﴾

قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذُهِبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿١٧﴾

وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْ أَتَابْتُمْ بَشِيرًا ۗ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبِشْرُ هٰذَا عِلْمٌ وَأَسْرُوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

وَأَسْرَوْهُ بَشِيرٍ بِخَيْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۗ وَكَانُوا زَيْنًا مِن الدَّرَاهِمِ ﴿٢٠﴾

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكُرْمِيُّ مَنْوَدَةً عَسَىٰ أَنْ يَبْعُنَهَا فَأُخْتَدَا ۗ ذٰلِكَ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ۖ وَرَبَّعْنَاهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۗ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلٰكِن كَثُرَ النَّاسُ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا

bestowed him wisdom and knowledge. And thus We (Allah) reward the pious ones.

23. And she, in whose house he was, allured him and closed all the doors and she said, "come forward." He said, "I seek refuge of Allah." He (Aziz) is my lord nourisher, who has kept me very well. Surely the cruels never succeed.

24. And surely, she (the house lady) desired him (for love) and he would also have desired her, if he would not have seen the proof (omnipresence) of his Rubb (Sustainer). Thus We (Allah) did so in order that We (Allah) might turn away from

him evil and lewdness. Surely he (Joseph) is amongst Our (Allah's) selected devotees.

25. And both ran towards the door, and the woman tore his shirt from behind, and both met the husband of the woman at the door. She said, "what is the punishment of him who desired evil with your wife, except confinement to a prison or award of a painful punishment."

26. He (Joseph) said, "it was she who allured me. But a witness (child) of her own family bore witness, if his (Joseph's) shirt is torn from the front, the woman is true and he is a liar:

27. but if his (Joseph's) shirt is torn from behind, then she tells lie and he (Joseph) is a truthful.

28. Then when he (Aziz) saw his shirt torn from behind, he said surely, this is

اسے حکم اور علم عطا فرمایا اور ہم ایسے ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو (22)

اور وہ جس عورت کے گھر میں تھا اس نے اسے لبھایا کہ اپنا کپانا نہ روکے اور دروازے سب بند کر دیئے اور بولی 'آؤ! ہمیں سے کستی ہوں' کہا اللہ کی پناہ وہ عزیز تو میرا رب یعنی پرورش کرنے والا ہے' اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، چیک ٹالموں کا بھلا نہیں ہوتا (23)

اور چیک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا، ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیالی کو پھیر دیں، چیک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے (24)

اور دونوں دروازے کی طرف دوڑتے اور عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے چیر لیا اور دونوں کو عورت کا میاں دروازے کے پاس ملا بولی 'کیا سزا ہے اس کی جس نے تمہاری گھروالی سے بدی چاہی؟ گھر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کی مار (25)

کہا اس نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں اور عورت کے گھروالوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا (26)

اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے' اور یہ سچے (27)

پھر جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے چرا دیکھا بولا! چیک یہ تم عورتوں کا چتر

وَكُلِّدْنَاكَ نَجْوَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾

وَوَادَّوْنَهُ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِنَا مَعِن نَفْسِهِ
وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْت لَكَ
كَأَلْ مَعَادِ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَن مَنُوءَى
إِنَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٣﴾

وَالْقَدْحَمَّتْ بِبُؤْسِهِمْ بِمَا كَانُوا كَانُوا
يُرِيدُونَ بِكَ كُفْرًا تَصْرِفُ عَنْهُ
السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا
الْمُخْلِصِينَ ﴿٢٤﴾

وَأَسْبَغَهَا الْبَابَ وَقَدَّات قِيمِيصَهُ مِنْ
دُبُرِهِ الْفِيَا سَيْدَهَا لَدَا الْبَابِ كَالَتْ
مَاجِرًا مِّنْ كَادٍ بِأَهْلِكَ سُوءَ الْأَلَا
أَنْ يَسْتَجِنَ أَوْ عَذَابَ الْيَوْمِ ﴿٢٥﴾

كَأَلْ هِيَ رَادُّوْنِي عَنْ نَفْسِي وَنَسِيْدُ
شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قِيمِيصُهُ
تَلْدَمِنْ تَبْدِيلِ قَصْدَتِ وَهُوَ مِنْ
الْمُكْلِ بَيْنِ ﴿٢٦﴾

وَإِنْ كَانَ قِيمِيصُهُ قُدْمِنْ دُبُرِ كَالَتْ
وَهُوَ مِنْ الضَّرْبِ تَيْنِ ﴿٢٧﴾
كَلَّمَارَ قِيمِيصُهُ تَلْدَمِنْ دُبُرِ كَالَتْ لَدَمِنْ

the trick of you woman. Surely your trick is great." 29. O Yusuf (Joseph) do not bother about it, and O woman, ask forgiveness of your sin. Surely you are one of those at fault.

SECTION 4

30. And certain women in the city said, "the wife of the chief (Aziz) allures the love of her young (servant) in her heart. Surely his love has pierced in her heart. We (Allah) find her on the wrong way in his love.

31. Then when she (Zulikha) heard their (other royal ladies') whispering (against her love) she sent for them and prepared for them banquet and gave to each of them a knife, and said to Yusuf (Joseph) "come forth before them." When the women saw Yusuf (Joseph) they began to exalt him high (finding him so handsome) and cut their hands and said, "Holy is Allah to save us", "he is not a man, but a noble angel."

32. She (Zulikha) said, "Then this is he for whom you blamed me. And certainly, I desired to allure him in his inner self but he remained chaste. And surely, if he will not do what I order him, then definitely he will be put in prison and surely he will be degraded"

33. He (Yusuf) said, "O my Rubb (Sustainer) prison house is dearer to me than the misdeed to which they call me. And if you shall not turn away their evil design from me, then I shall incline towards them and will be the ignorant.

34. Then his Rubb

(غریب) 'تر' ہے، بیگ تمہارا جو تر بڑا ہے (28)

اے یوسف! تم اس کا خیال نہ کرو اور اے عورت! تو اپنے گناہ کی معافی مانگ بیگ تو خطا داروں میں ہے (29)

اور شہر میں کچھ عورتیں بولیں کہ عزیز کی بی بی اپنے نوجوان کا دل لہاتی ہے، بیگ ان کی محبت اس کے دل میں پھر (۳۰) گئی ہے، ہم تو اسے صریح خود رنہ پاتے ہیں (30)

تو جب (زلیخا) نے ان کا چرچا سنا تو ان عورتوں کو بلا بھیجا، اور ان کے لیے سندس تیار کیں، اور ان میں ہر ایک کو ایک چمچری دی، اور یوسف سے کہا، ان پر نکل آؤ، جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا، اس کی بڑائی بولنے لگیں، اور اپنے ہاتھ کاٹ لے، اور بولیں، اللہ کی پاکی ہے یہ تو جنس بشر سے نہیں، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ (31)

(زلیخا) نے کہا، تو یہ ہیں وہ جن پر تم مجھے لعنہ دینی تھیں، اور بیگ میں نے ان کا جی لہانا چاہا، تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا اور بیگ اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں، تو ضرور قید میں پڑیں گے، اور وہ ضرور ذلت اٹھائیں گے (32)

یوسف نے عرض کی، اے میرے رب! مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلائی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کا کر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہوں، گا اور نادان بنوں گا تو اس کے رب نے اس کی منی اور (33)

كَيْدِ كُنَّ مِنْ اِيْنِ كَيْدِ كُنَّ عَظِيْمًا

يُوسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاَسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ اِنَّكَ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِيْنَ

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ الْمَرْءُ الْعَرَبِيُّ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبْلَا اِنَّهَا لَكُنْزِيَةٌ اِنَّا صَلْبُ سَيْمِيْن

لَكُنَّا نَمَعَتُ بِمَكْرُوْنٍ اَسْلَمْنَا الْبَيْتَ وَاَعْتَدْنَا لِهَيْبَتِكَ اَوْاَسَاتٍ كُلَّ وَاحِدَةٍ فَمُنَّهِنَّ سَيِّئَاتُ اَوْفَا لَمْ اُخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَاَيْنَهُ اُكْبَرْتُهُ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ

قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِي اٰمَنَّا بِهٖ فِيْ سُوْرٍ لَقَدْ اَرَادُوْا دُوْخًا عَلٰى نَفْسِهٖ فَاَسْتَعْصَمُوْا لِيَّوْنِ لَمْ يَفْعَلْ مَا اَمَرُوْهُ لِيَسْتَجِنُوْا لِيَكُوْنُوْنَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ

قَالَ رَبِّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَاءَ بِكُنُوزِيْهِ اِيْتِيْهِ وَاَلْاَصْرَفِ عَنِّيْ كَيْدُ هُنَّ اَصْبُ الْبَيْتِ وَاَكُنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ فَاَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهٗ كَيْدَهُنَّ

and turned away the evil design of the woman from him. Surely, He is Hearing, Knowing.

35. Then even after seeing all signs, the same previous thought came to their mind that they should put him in prison for some time.

SECTION 5

36. And two young men entered the prison house along with him. One of them said, I dreamed that I am pressing out beverage and the second said I dreamed that I am carrying some breads on my head whereof the birds are eating. Tell us its interpretation. Surely, we see you pious.

37. He (Yusuf) said, "I shall tell you the interpretation thereof before the (prison) food, which is served to you, comes to you. This is because of the knowledge which my Rubb (Sustainer) has taught me. Surely I did not concede to the creed of the people who do not believe in Allah and they are the disbelievers in the hereafter.

38. And I follow the religion of my father Ibraaheem (Abraham) and Ishaq (Isac) and Yaqub (Jacob). It is not for us to equate as associate anything with Allah. That is a bounty of Allah upon us and mankind, but most men are not thankful.

39. O my two companions of the prison are the diverse lords (many Rubb) better or Allah the One, Omnipotent (the followed)?

40. You worship except Him, state such names which

اس سے عورتوں کا کمر پھیر دیا، بیشک وہی سنا جاتا ہے (34)

پھر سب کچھ نشانیاں دیکھ دیکھا کہ بچھل مت انہیں یہی آئی کہ ضرور ایک مدت تک اسے قید خانہ میں ڈالیں (35)

اور اس کے ساتھ قید خانہ میں دو جوان داخل ہوئے، ان میں ایک بولا! کہ میں نے خواب دیکھا کہ شراب پھرتا ہوں اور دوسرا بولا! میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرند کھاتے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بیشک ہم آپ کو نیکو کار دیکھتے ہیں (36)

یوسف نے کہا، جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آنے پائے گا کہ میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا، یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، بیشک میں نے ان لوگوں کا دین نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ آخرت سے منکر ہیں (37)

اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسمٰعیل اور یعقوب کا دین اختیار کیا، ہمیں نہیں پہنچتا کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا ایک فضل ہے، ہم پر اور لوگوں پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے (38)

اے میرے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں! کیا جدا جدا رب ایسے یا ایک اللہ؟ جو سب پر غالب (39)

تم اس کے سوا نہیں پوجتے مگر زے نام

إِنَّهُمْ السُّؤْمِيَةُ الْعَالِمُونَ

تَعْرِيدَ الْهَقْرِيِّ بَعْدَ مَا رَأَى الْآيَاتِ
يَا كَيْفَ جُنُنْتُ حَتَّىٰ جِئْتُ

وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنُ فَنَسِيَ كَالْأَصْحْفَاءِ الرُّبُوبِ أَصْحَابِهِمْ وَقَالَ الْأَخْرَافِيُّ إِنِّي أَعْمَلُ كُونِي سَائِمِي حَبْرًا نَاطِلُ الظُّلُمِ مِمَّنْ يَبْنِي بِنَاءً وَّابِلَةً إِنَّا نُرِيدُكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

قَالَ لَا يَا بَيْنَكُمْ طَعَامًا تَزُكُّونَهُ إِلَّا بِنَاءَكُمْ بِنَاءً وَيُدْبِرُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ كَمَلَدُ ذُلِكُمْ مَا عَاظَمَنِي رُبِّي أَنِّي تَزَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝

وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي الْأَبْرَهِيْمَ وَابْتِغَىٰ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكُمْ مِنْ حُضُلِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَانَ النَّاسُ وَلَكِنَّ الْكُفْرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝

يُضَاحِجِي السَّجْنِ أَرَأَيْتَ كَيْفَ تَقْفَرُونَ
حَبْرًا وَاللَّهِ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ ۝
مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ

you and your fathers have carved out. Allah has sent down no authority for them (to be adored). Judgement belongs to Allah only. He has Commanded that you should worship none except Him. This is the right religion, but most people do not know.

41. O my two fellow prisoners! as for one of you is concerned he will serve beverage for drink to his lord (king), and as for the other, he will be crucified, and the birds will eat of his head. The matter about which you inquired has been decreed so.

42. And he (Yusuf) said to the one, whom he knew to remain alive, said to him to mention him (Joseph) before his lord (king). But the satan (devil) made him forget to mention this to his lord. So he, (Yusuf) continued to remain in the prison for several years more.

SECTION 6

43. And the king said, "I saw (in a dream) seven fat cows being eaten by seven lean cows, and there are seven green foliage of corn and seven others are dry. O chiefs of royal court! answer to my dream if you know the interpretation of the dreams.

44. They said, "these are your confused dreams, and we do not know the interpretation of dreams."

45. And the one (prisoner) who remained alive of the two when remembered after a long time (while pre-released on parole), "I shall tell you its interpretation, send me forth (to see Yusuf in prison)".

46. O Yusuf (Joseph)! O truthful! give us

جو تم نے اور تمہارے باپ وادار نے تراش لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نہ آداری، حکم نہیں مگر اللہ کا اس نے فرمایا: کہ اس کے سوا کسی کہ نہ پوجو، یہ سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے (40)

اسے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں تم میں ایک تو اپنے رب (بادشاہ) کو شراب پلائے گا، دوسرا وہ سولی دیا جائے گا تو پرندے اس کا سر کھائیں گے، حکم ہو چکا اس بات کا جس کا تم سوال کرتے تھے (41)

اور یوسف نے ان دونوں میں سے جسے چہتا سمجھا، اس سے کہا، اپنے رب (بادشاہ) کے پاس میرا ذکر کرنا، تو شیطان نے اسے بھلا دیا، کہ اپنے رب (بادشاہ) کے سامنے یوسف کا ذکر کرے، تو یوسف کئی برس اور جیل خانہ میں رہا (42)

اور بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھیں سات گائیں فریہ (موتی) کہ انہیں سات دلی گائیں کھاری ہیں، اور سات بالیں ہری اور دوسری سات سوکھی، اسے درباریوں میری خواب کا جواب دو، اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو (43)

بولے، پریشان خواہیں ہیں اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے (44)

اور بولا: وہ جو ان دونوں میں سے جو چہتا تھا، اور ایک مدت بعد اسے یاد آیا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا مجھے سمجھو (45)

اسے یوسف! اسے صدیق! ہمیں تعبیر دیجئے

سَمِعْتُمْوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنْ سُلْطٰنٍ إِنْ كُنْتُمْ إِلَّا لِلّٰهِ أَمْرًا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا الْإِلٰهَ الَّذِي أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

يُصَاحِبِي السَّجْنِ إِمَّا أَحَدُكُمْ مَا فَسَّقَنِي رَبِّيَ خُمْرًا أَوْ آمَنَا الْاُخْرُ فَيُصَلِّبُنَا فَمَا تَكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِنَا فَبِئْسَ الْاِقْوَالُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينِ ﴿٤١﴾

ذَكَالِ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا إِذْ كُنَّا فِي عِنْدِ رَبِّكَ فَكَاسَهُ الشَّيْطٰنُ فَنَسِيَ مَا كُنَّا فِيهِ لَكَيْتَ إِنْ كُنَّا فِي السَّجْنِ بِبَصَرٍ ﴿٤٢﴾

ذَكَالِ الْمَلِكِ إِنْ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعَ عَجَافٍ وَسَبْعَ سُنبُلِيَّاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرًا يُسَبِّتُ يَأْكُلْنَ الْمَلَائِكَةُ فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلدُّنْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾

فَالْوَأَصْفَاتِ الْاَضْلَامِ وَمَنْ حَرُونَ

يَتَأْوِيلُ الْاَضْلَامِ بِعَلِيمِينَ ﴿٤٤﴾

ذَكَالِ الَّذِي نَكَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اٰكْفٰةٍ اَنَا اَنْتَ لَمْ تَرَ يَتَأْوِيلُهُمْ فَاَسْرٰوُنِ ﴿٤٥﴾

يُؤَسِّفُ اِيَّهَا الصِّدِّيقِ اَنْتَ اِنِّي سَبِّحُ

interpretation regarding seven fat cows which are being eaten by seven lean cows and there are seven green foliage and the other seven are dry; perhaps, I may return to the people and they may learn what is that."

47. He (Joseph) said, "you shall do best cultivation for seven continuous years, then what you reap, preserve it in the covering chaff, except a little which you may eat."

48. Then after it there shall come seven hard years of drought that shall eat up what you had stored up for them before, but a little which you may save.

49. Then, thereafter, there shall come a year wherein rain will fall and people will extract juice.

SECTION 7

50. And the king said, "bring him to me." Then when the messenger came to your lord (king), then ask him, "what about the women who had cut their hands? No doubt my Rubb (Sustainer) knows their cunningness."

51. He (king) said, "O women, what business you had when you desired to allure the heart of Yusuf (Joseph). They said, "Allah save us we did not find any evil in him. The wife of Chief (Aziz) said, "now the reality is discovered, I desired to allure his heart and surely, he is truthful."

52. (Yusuf said) that is so as he (the Chief Aziz) may know that I did not betray him on his back, and Allah does not guide the cunningness of the betrayers."

سات فرہ گاویں کی جنہیں سات دلی کھائی ہیں، اور سات ہری ہائیں اور دسری سات سوکھی، شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں، شاید وہ آگاہ ہوں (46)

کما تم سمجھ کر کے سات برس لگاتار، تو جو کاٹو اسے اس کی بال میں رہنے دو، مگر تمہوڑا بچتا کھاؤ (47)

پھر اس کے بعد سات کڑے (تنگی والے) برس آئیں گے، کہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کر رکھا تھا، مگر تمہوڑا جو بچاؤ (48)

پھر ان کے بعد ایک برس آئے گا جس میں لوگوں کو مینہ دیا جائے گا، اور اس میں رس نچڑیں گے (49)

اور بادشاہ بولا: کہ انہیں میرے پاس لے آؤ، تو جب اس کے پاس ایچی آیا، کہا اپنے رب (بادشاہ) کے پاس پلٹ جا، پھر اس سے پوچھ، کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بیگ میرا رب ان کا فریب جانتا ہے (50)

بادشاہ نے کہا، اے عورتو! تمہارا کیا کام تھا جب تم نے یوسف کا جی بھانا چاہا، بولیں! اللہ کی پائی ہے ہم نے ان میں کوئی بدی نہ پائی، عزیز کی عورت بولی! اب اصلی بات کھل گئی، میں نے ان کا جی بھانا چاہا تھا، اور وہ بے شک سچے ہیں (51)

یوسف نے کہا، یہ میں نے اس لیے کیا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے بیٹھے بیچے اس کی خیانت نہ کی، اور اللہ دعا بازوں کا کر نہیں چلے دیتا (52)

بَعَثُوا بِمَنْ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعَ عَجَائِفَ
وَسَبْعَ سُبُلَاتٍ خَضِرًا وَأَخْرَجُوا سُبُلَاتٍ
لَقَدْ أَنْجَبُوا لِي النَّاسَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾
قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا
حَصَدْتُمْ تُخْزِنُوهَا فِي سُبُلَاتٍ وَالْكُلْبَاءُ
يَعْمَلُونَ ﴿٤٧﴾

لَقَدْ يَا قَوْمِ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ سِنِينَ أَدْ
يَأْكُلْنَ بِمَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا كَالْوَيْدِ لَقَدْ
تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾

لَقَدْ يَا قَوْمِ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٍ فِيهِ
يَأْكُلُ الْبُكَاتُ النَّاسَ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾
وَقَالَ الْمَلِكُ انْتَبِذِي يَهُدَىٰ فَتَجْعَلِيهَا
الرُّسُولَ قَالَ امْرَأَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا
سَأَلْتُهُ مَا بَالُ الْيَهُودِيَّةِ
فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي
بِكَيْدٍ هُوَ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾

كُلَّ مَا تَخْتَلِكُنَّ إِذْ رَأَوْتَنَّ يُوسُفَ
عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا

عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ قَالَتْ امْرَأَاتُ الْعَرَبِ
إِنَّنِ حَصَصَ الْحَقُّ أَنْ رَأَوْتَنَّهُ
عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥١﴾
ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنْ لَمْ أَخَذْ بِالْغَيْبِ
وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ
الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٥٢﴾

PART 13

S. XII YUSUF (Contd.)

SECTION 7 (Contd.)

53. And (Yusuf) I do not acquit myself that I am free from sins. Surely the self acquits to the evil except for those on whom my Rubb (Sustainer) has conferred Mercy. Surely, my Rubb (Sustainer) is Forgiving, Merciful.

54. And the king said, "bring him to me that I may make him exclusively mine." Then when he spoke to him (king) he said, "certainly today, you are an honored dignified person, trusted with us."

55. He (Yusuf) said, "appoint me over the treasures of the earth. Surely I am a keeper with good know-how."

56. And thus We (Allah) established Yusuf (Joseph) over this land to dwell in it wherever he wanted to. We (Allah) Bestow our Mercy when We (Allah) Will. And We (Allah) do not waste the reward of the beneficiaries.

57. And surely, the reward of the hereafter is better for those who believe and remain pious.

SECTION 8

58. And the brethren of Yusuf (Joseph) came, then appeared before him and Yusuf (Joseph) recognised them but they remained unaware of him.

59. And when he got ready their baggage (with no grains), he said, "bring your step brother to me, do not you see that I give full measure and I am the best host (when you bring him).

اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا
بیکہ نفس تو برائی کا برا حکم دینے والا ہے،
مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بیکہ میرا
رب بخشے والا مہربان ہے (53)

اور بادشاہ بولا، 'انہیں میرے پاس لے آؤ
کہ میں انہیں خاص اپنے لیے جن لوں
پھر جب اس سے بات کی، کہا، 'بیکہ آج
آپ ہمارے یہاں معزز مستند ہیں (54)

یوسف نے کہا، مجھے زمین کے خزانوں پر
کر دے، بیکہ میں حفاظت والا علم و
ہول (55)

اور یوں ہی ہم نے یوسف کو اس ملک پر
قدرت بخشی، اس میں جہاں چاہے رہے
ہم اپنی رحمت سے چاہیں پہنچائیں، اور ہم
نیکیوں کا نیک (اجر) ضائع نہیں کرتے
(56)

اور بیکہ آخرت کا ثواب ان کے لیے
بہتر جو ایمان لائے، اور پرہیزگار رہے
(57)

اور یوسف کے بھائی آئے تو اس کے پاس
حاضر ہوئے، تو یوسف نے انہیں پہچان
لیا، اور وہ اس سے انجان رہے (58)

اور جب ان کا سامان ہتیا کر دیا، کہا، اپنا
سوچتا بھائی میرے پاس لے آؤ! کیا نہیں
دیکھتے کہ میں پورا ٹاپتا ہوں؟ اور میں سب
سے بہتر مہمان نواز ہوں (59)

وَمَا أَبْرَأُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ
أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي
إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۵۳

وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُتُونِي بِهَذَا اسْتِخْلَاصُهُ
لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلِمَةً قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ
لَدَيْنَا مَكِينٌ آمِينَ ۝۵۴

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ
إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ۝۵۵

وَوَدَّ لَكَ كَلَّا لِيُؤَسِّفَ فِي الْأَرْضِ
يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا
مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْحَسَنِينَ ۝۵۶
وَلَا نُجْزِي الْاِخْرَةَ خَيْرَ لِّلَّذِينَ آمَنُوا
وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝۵۷

وَجَاءَ اِخْوَتَهُ يُوسُفَ فَدْخَلُوا عَلَيْهِ
فَعَرَفُوهُهُمْ لَهُمْ كَلِمَةً مُنْكَرُونَ ۝۵۸
وَلَمَّا جِئْتَهُمْ بِجَاهِزِهِمْ قَالَ ائْتُونِي
بِخَلِّكُمْ مِنْ اِبْنِكُمْ لَا تَرَوْنِ اِنِّي
لَذِي الْكَيْلِ وَالْاَخْبَرُ الْمُنْزِلِينَ ۝۵۹

60. But if you do not bring him to me, then there is no measure (food weight) for you with me and do not approach me.

61. They said, "we shall try to get him from his father, and we are surely to do it.

62. And he (Yusuf) said to his servants, "put back their capital in their saddlebags, perhaps they may recognize it when they go back to their home, so that they may return.

63. Then when they returned to their father, they said, "O our father, the foodgrain has been denied to us. So send with us our brother that we may bring foodgrain and we shall surely, safeguard him.

64. He (father) said, "should I trust him to you like I trusted you his brother previously." Allah is the best Guard. He is the Most Merciful than all the merciful.

65. And when they opened their goods, they found their capital returned to them. They said, "O our father, now what more should we desire? Here is our capital that has been returned to us that we (again try to) bring food-grains for our family. So we shall guard our brother, and we shall find an extra camel load. This extra offer is nothing before a king.

66. He said, "I will never send him with you, until you give me this solemn pledge of Allah that you will surely bring him back, except that you are prevented". Then when they gave Yaqub (Jacob—Issraeel) solemn

پھر اگر اسے لے کر میرے پاس نہ آؤ، تو تمہارے لیے میرے پاس مپ نہیں اور میرے پاس نہ چلنا (60)

بولے: ہم اس کی خواہش کریں گے اس کے باپ سے، اور ہمیں یہ ضرور کرنا (61)

اور یوسف نے اپنے غلاموں سے کہا ان کی پونجی ان کی خورجیوں (بور یوں) میں رکھ دو، شاید وہ اسے پہچائیں، جب اپنے گھر کی طرف لوٹ کر جائیں، شاید وہ واپس آئیں (62)

پھر جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے، بولے! اے ہمارے باپ! ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، تو ہمارے بھائی کو ہمارے پاس بھیج دیجئے، کہ غلہ لائیں، اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے (63)

کہا، کیا اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی اعتبار کروں، جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، تو اللہ سب سے بہتر نگہبان ہے، اور وہ ہر مہمان سے بڑھ کر مہمان (64)

اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا، اپنی پونجی پائی کہ ان کو پھیر دی گئی ہے، بولے! اے ہمارے باپ! اب ہم اور کیا چاہیں، یہ ہے ہماری پونجی، کہ ہمیں واپس کر دی گئی، اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں، اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں، یہ دنیا بادشاہ کے سامنے کچھ نہیں (65)

کہا، میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا، جب تک تم مجھے اللہ کا یہ عہد نہ دے، دو کہ ضرور اسے لے کر آؤ گے، مگر یہ کہ تم گھر جاؤ، پھر جب انہوں نے

فَأَنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ۝

فَالْوَالِدِينَ الَّذِينَ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ۝

وَقَالَ لِقَوْمِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِصَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُعِزُّنَا الْكَيْلُ فَأَرْسَلْنَا مَعَنَا خَافًا نَتَّكِلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا بَأْسًا مِّنَّمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَادَلَّهُ خَيْرٌ حَقِظًا وَهُوَ رَحِيمٌ ۝

وَلَمَّا فَصَّخُمَا مَاءَ جَدِّهِمَا إِذْ بَضَّعْتَهُمَا رَدَّتْ إِلَيْهِم قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رَدَّتْ إِلَيْنَا وَنَبْغِي آهَاتِنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزِدُكَ كَيْلًا يُغَيِّرُ ذَلِكَ كَيْلًا نَسِيئًا ۝

قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ إِلَّا إِنْ يُسَاطِرُ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ

pledge, he said, "Allah is Care Taker over that we say."

67. And he said, "O my sons, enter not by one gate, but you enter by separate city gates. I cannot save you from Allah. All Command belongs to Allah. I trust on Him, and let all the trusting people trust Him.

68. And when they entered in the manners their father had recommended, he could not save them against Allah, except that there was a desire in the heart of Yaqoob (Jacob) which he fulfilled. And surely, he is the man of knowledge by our inculcation, but most men do not know.

SECTION 9

69. And when they went to Yusuf (Joseph) he took his brother (Binyameen Benjmun) near himself saying, "believe, I am your brother. Therefore be not grieved of whatever they do."

70. Then when he had made them ready with their baggage, he got pushed-in the (measuring) cup in the saddlebag of his (real) brother. Thereafter, an announcer announced, "O men of the caravan, surely, you are thieves."

71. They said, turning to them "what are you looking for?"

72. They said, "we are looking to find the king's measuring cup, and who will bring it, he shall have a camel's load and I (Yusuf) am his guarantor.

73. They (brothers of Yusuf) said, "by God, you are

یعقوب کو وعدہ دے دیا، کہا، اللہ کا زہد ہے ان باتوں پر جو ہم کہہ رہے ہیں (66) اور کہا، اے میرے بیٹو! ایک دروازے سے نہ داخل ہوتا، اور جدا جدا دروازوں سے جانا، میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا، حکم تو سب اللہ ہی کا ہے، میں نے اسی پر بھروسا کیا، اور بھروسا کرنے والوں کو اسی پر بھروسا چاہیے (67)

اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا، وہ کچھ انہیں اللہ سے بچا نہ سکتا، ہاں! یعقوب کے ہی کی ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی اور بے شک وہ صاحب علم ہے ہمارے سکھائے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے

(68)

اور جب وہ یوسف کے پاس گئے اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، کہا، یقین جان میں ہی تمہارا بھائی ہوں، تو یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا غم نہ کھا (69)

پھر جب ان کا سامان میا کر دیا، پیالہ اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا، پھر ایک منادی نے ندا کی، اے قافلہ والو! دیکھ تم چور ہو (70)

بولے! اور ان کی طرف متوجہ ہوئے، تم کیا نہیں پاتے (71)

بولے! بادشاہ کا پیالہ نہیں ملتا اور جو اسے لائے گا، اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں (72)

بولے! خدا کی قسم! تمہیں خوب معلوم

اللہ علی ما نقول وکیل ﴿۶۷﴾

وَقَالَ يٰٓبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنۡ بَابٍ

وَاحِدٍ وَّادْخُلُوا مِنۡ الْبُوابِ مُتَفَرِّقِينَ

وَمَا أَعْرِضُ عَنْكُمْ مِنۡ آلِهِۦ مِنۡ شَيْءٍ

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَا

عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۶۸﴾

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنۡ حَيْثُ أَمَرَهُمُ أَبُوهُمۡ

مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنۡ شَيْءٍ

إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضِيهَا

وَأِنَّهُ لَدَدُّ وَعِلْمُهُمَا عَلَمُنَّهُۥ وَلٰكِن

كَثُرَ النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۶۹﴾

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ أَدَّىٰ إِلَيْهِ

أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا الْخُوكُ فَلَا تَمْتَنِينَ

بِهَآكُنَا وَاعْمَلُونَ ﴿۷۰﴾

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ

السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذِنَ

هُوَ ذَنَ لِأَيَّتِهَآ الْعِيرَ أَنَّهُ لَسَرْتُونَ ﴿۷۱﴾

فَالَّذِي دَخَلُوْا عَلَيْهِمْ كَادَ تَفْقَدُونَ ﴿۷۲﴾

فَالَّذِي تَفْقَدُ صَوَابَ الْمِيَاكِ وَلَوْ نَجَّوْا

بِهِ حِمْلَ بَعِيرٍ وَأَنَّا بِهِ نَأْتِيهِمْ

فَالَّذِي تَفْقَدُ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْتَنَا

well aware that we did not come for creating disorder in the land, nor we are thieves.”

74. He (Yusuf) said, “what is the penalty if you are liars?”

75. They said, “its penalty is, that he, in whose baggage it is found, be made to serve in the court in retribution. This is the punishment of the cruels in our area.”

76. Then first he (Yusuf) began the search of their bags before the bag of his brother. Then he took it out from the bag of his brother. We taught Yusuf such a plan. He could not take his brother under the king's law but this was so that Allah Willed. We (Allah) exalt in degrees whom We Will. And over every man of knowledge is the one who knows well.

77. The brothers said, “if he has committed theft then his brother (Yusuf) also stole. Yusuf kept this thing secret to himself and did not disclose it to them. He said within himself, “you are the worst persons, and Allah knows best what you are describing.”

78. They said, “O governor (Aziz), he has an aged father (so advanced in years), so take one of us in his place. Surely, we see you benefactor.”

79. He said, “Allah forbid that we should take any other except the one with whom we found our good. We shall be then amongst cruels.

80. When they were disappointed from him, they began to confer privately. Their elder brother said (to

ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہ آئے اور نہ ہم چور (73)

بولے! پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم جوئے ہو (74)

بولے! اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اسباب میں لے، وہی اس کے بدلے میں غلام بنے، ہمارے یہاں ظالموں کی سزا ہے (75)

تو اول ان کی خرمیوں (بوریوں) سے تلاشی شروع کی، اپنے بھائی کی خرمی (بوری) سے پہلے، پھر اسے اپنے بھائی کی خرمی سے نکال لیا، ہم نے یوسف کو یہ تدبیر بتائی، بادشاہی قانون میں اسے نہیں پہنچتا تھا کہ اپنے بھائی کو لے لے، مگر یہ

کہ خدا چاہے، ہم جسے چاہیں درجوں بلند کریں، اور ہر علم والے سے اوپر علم والا ہے (76)

بھائی بولے! اگر یہ چوری کرے تو بیگک اس سے پہلے اس کا بھائی چوری کر چکا ہے، تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں رکھی، اور ان پر ظاہر نہ کی، جی میں کہا، تم بدتر جگہ ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو بائیس بتاتے ہو (77)

بولے! اے عزیز! اس کے ایک باپ ہیں بوڑھے بڑے، تو ہم میں اس کی جگہ کسی کو لے لو، بیگک ہم تمہارے احسان دیکھ رہے ہیں (78)

کہا، خدا کی پناہ، کہ ہم لیں مگر اس کو جس کے پاس ہمارا مال ملا، جب تو ہم ظالم ہوں گے (79)

پھر جب اس سے ناامید ہوئے، الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے، ان کا بڑا بھائی بولا،

لَيْسَ فِي الْأَرْضِ وَالْكَافِرِينَ ۝

قَالُوا مَا جَزَاءُ أُوَّةٍ إِنْ كُنْتُمْ كَذِبِينَ ۝

قَالُوا جَزَاءُ أُوَّةٍ مَنْ وَجَدَ فِي رَجْلِهِ نَجْوًا جَزَاءُ ذَلِكَ يَجْزَى الظَّالِمِينَ ۝

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ رَجْلِهِ وَعَلَىٰ خَيْبِهِ نَجْوًا فَاتَّخَذَ مِنْهَا مَن وَجَدَ خَيْبَهُ كَذِبًا لِيُؤْسَفَ لَهُ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي رَبِّهِ الْمَلِكِ ۚ إِنَّ يَشَاءُ اللَّهُ تَرْفَعُ رُجُوتَ مَنْ يَشَاءُ وَيُؤْتِي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلِهِ فَأَسْرَفُوا يَوْسُفَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانٍ ۝

اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۝

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا

كَبِيرًا إِغْدَا أَحَدًا مَّا كَانَ إِلَّا نَرْتُكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنْ نَأْخُذُ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مِتًّا عِنْدَنَا وَإِنَّا ذُكِّرُوا بِظَالِمِينَ ۝

فَلَمَّا أَسْتَسْتَأْذِنُوا مِنْهُ خَلَصُوا حَيْثُ أَقَالَ

them), "do you not remember that your father had taken solemn pledge of Allah from you, and before this how you committed same mistake regarding Yusuf (Joseph)." "I (eldest) shall not move from this place until my father gives me leave or Allah Commands so for me and His Command is the best.

81. Return you all to your father, (said the elder) and tell him "O our father certainly your sons has committed theft, and we had become witnesses to this much what we had in our knowledge, and we were not guardians over the unseen." 82. "And give details of the city wherein we were and the caravan in which we came. And no doubt we are truthful."

83. He (father) said, "your selves have made for you some excuse. Patience is good. It may be so that Allah may bring them to me altogether. Surely, it is He the Knowing, the Wise.

84. And he turned away from them and said, "Ah, woe on the separation of Yusuf (Joseph), and his eyes turned white with grief and he suppressed his anger.

85. They said, "by Allah, you shall always continue to remember Yusuf (Joseph) until you (Father) are consumed by the grave or you perish away (die) from your life.

86. He (Father Jacob) said, "I make complain for assistance in grief and worries from Allah, and I know those Glories of Allah which you do not know.

کیا ہمیں خبر نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے یوسف کے حق میں تم نے کسی تقصیر کی؟ تو میں یہاں سے نہ ٹلوں گا یہاں تک کہ میرے باپ اجازت دیں، یا اللہ مجھے حکم فرمائے، اور اس کا حکم سب سے بہتر (80)

اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ، پھر عرض کرو کہ اے ہمارے باپ! بچک آپ کے بیٹے نے چوری کی! اور ہم تو اتنی ہی بات کے گواہ ہوئے تھے جتنی ہمارے علم میں تھی، اور ہم یقین کے نگہبان نہ تھے (81) اور اس ہستی سے پوچھ دیکھیے جس میں ہم تھے، اور اس قافلہ سے جس میں ہم آئے، اور بچک ہم سچے ہیں (82)

کیا تمہارے لہس نے تمہیں کچھ حیلہ بنا دیا تو اچھا مبر ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا لائے، بچک وہی علم و حکمت والا ہے (83)

اور ان سے منہ پھیرا اور کہا، ہائے الموسو! یوسف کی جدائی پر، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، تو وہ غمہ کھاتا رہا (84)

بولے! خدا کی قسم! آپ ہمیشہ یوسف کی یاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ گور (قبر) کے کنارے جا لگیں، یا جان سے گزر جائیں (85)

کہا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی وہ شائیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے (86)

كَيْبَرُ الْعَلَمُ تَعْلَمُوا أَنَّ ابْنَكَ وَقَدْ اخَذَ عَلَيْكَ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا نَزَّلْنَا فِي يُونُسَ فَلَمَّا ابْرَمَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْتِيَ ابْنِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٥٠﴾

الرَّجُوعَ إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَا نَارٍ إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا لِمَا عَيْنَانَا وَكُنَّا نَغِيبُ حَفِظِينَ ﴿٥١﴾

وَسَلِّ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٥٢﴾
قَالَ بَلْ سَأَلْتُمْ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَمْرًا فَصَدَّقْتُمُونِ ۗ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٥٣﴾

ذُكِرُوا عَلَيْهِمْ وَقَالَ يَا سَعْدِي عَلَىٰ يُونُسَ وَأَبِصْرَتِ عَيْنِهِ مِنَ الْحَزَنِ مَوْثِقِينَ ﴿٥٤﴾

قَالَ أَوْ اتَّكَلْتُمْ لِقَدَرِ يُونُسَ حَتَّىٰ تَكُونُوا حُرُفًا أَوْ تَكُونُوا مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿٥٥﴾

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثْنِي وَحُزْنِي إِلَىٰ اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾

87. "O my sons ! go and search for Yusuf (Joseph) and his brother and do not be in despair of Allah's Mercy. Surely none is despaired of the Mercy of Allah but the nation of the disbelievers."

88. Then when they reached to him (Joseph) they said, "O governor (Aziz), we and our family has been grieved that we have come with a poor merchandise but you give us full measures and be charitable to us. Surely Allah rewards the charitables. 89. He said, "are you aware what you did with Yusuf (Joseph) and his brother, when you were ignorant."

90. They said, "are you indeed Yusuf (Joseph)". He said, "I am Yusuf (Joseph) and this is my (real) brother. Surely, Allah has favored us." Certainly, whoso refrains and becomes patient, Allah does not waste the reward of the pious.

91. They said, "I make Allah witness, surely, Allah has preferred you above us, and surely, we had been wrong doers."

92. He said, "there is no retribution on you today. May Allah forgive you. And He is the Most Merciful of the mercifuls."

93. "Go with this shirt of mine. Place it on my father's face. He shall recover his sight. And bring all your family together."

SECTION 11

94. When the caravan left (Egypt) their father said, "surely, I sense the scent of Yusuf (Joseph), if you do not

اے بیٹا! جاؤ! یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ گاہو! اور اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو! بیشک اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ (87)

پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے، بولے! اے عزیز! ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو معیت پہنچی، اور ہم بے قدر پونجی لے کر آئے ہیں، تو آپ ہمیں پورا ناپ دیجئے، اور ہم پر خیرات بھیجئے، بیشک اللہ خیرات والوں کو صلہ دیتا ہے (88)

بولے! کچھ خیرے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جب تم نادان تھے (89)

بولے کیا جی جی آپ ہی یوسف ہیں، کہا میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی، بیشک اللہ نے ہم پر احسان کیا، بیشک جو پرہیزگاری اور مہربان کرے تو اللہ نیکیوں کا نیک (اجر) ضائع نہیں کرتا (90)

بولے! خدا کی قسم! بیشک اللہ نے آپ کو ہم پر نفعیات دی، اور بیشک ہم خطاوار تھے (91)

کہا، آج تم پر کچھ ملامت نہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے (92)

میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو! ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ (93)

جب قافلہ مصر سے جدا ہوا، یہاں ان کے باپ نے کہا، بیشک میں یوسف کی خوشبو

یوسفی اذھبوا اقتسوا من یوسف واخیرہ ولا تاتسوا من روح اللہ انہ لا یائس من روح اللہ الا القوم الکافرین ﴿۸۷﴾

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَاهَلْنَا الضَّرَّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجِيَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿۸۸﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَاعَلِمْتُمْ بِيُوسُفَ وَآخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿۸۹﴾

قَالُوا بَلَىٰ إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۹۰﴾

قَالُوا أَنَا لِلَّهِ لَقَدْ أَشْرَكْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن لَّنَا لَخَطِيئَةٌ ﴿۹۱﴾ قَالَ لَآتِيَنَّكُمْ الْيُسُورُ وَيَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿۹۲﴾

إِذْ هَبُوا بِنَفْسِي هَذَا مِنَ الْقَوَدِ عَلَى وَجْهِي يَا أَبَتِ ابْصِرْ يَا أَلْفُؤْفُؤَ يَا أَبَاهِ لَكُمْ آجِبَعِينَ ﴿۹۳﴾

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي

dub me as so aged."

95. They (sons) said, "by Allah, you are erred with the same old love."

[ONE FOURTH OF PART
13 ENDS]

96. But when the bearer of good news came, he placed that shirt (of Yusuf) on his face. Forthwith his sight came back. He said, "did I not say to you, that I know those Glories of Allah which you do not know."

97. They said, "O our father, beg forgiveness for our crimes. Surely, we indulged in criminal act."

98. He said, "soon I shall beg my Rubb (Sustainer) to forgive you." Surely He is the Forgiving, the Merciful.

99. Then when they all reached Yusuf (Joseph) he offered a place near him to his father and mother on the throne and said, "enter Egypt, you will be in security, if Allah Wills."

100. And he seated his father and mother on the throne, and all brothers fell down prostrate before him (Yusuf), and he (Yusuf) said, "O my father, this is the interpretation of my first dream. Surely my Rubb (Sustainer) has made it true. Surely He was so kind to me to take me out of prison and brought you all from village after the enmity spread by satan between me and my brothers. Surely my Rubb (Sustainer) can make anything easy, if He Wills as He is the Knowing, the Wise.

101. O my Rubb (Sustainer)! Certainly, you have bestowed me a kingdom

پاتا ہوں، اگر مجھے یہ نہ کہو کہ ستم (بک) گیا ہے (94)

بیٹے بولے! خدا کی قسم! آپ اپنی اسی پرانی خود رنگی میں ہیں (95)

پھر جب خوشی سنانے والا آیا اس نے وہ کرنا یعقوب کے منہ پر ڈالا، اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں، کہا، میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شائیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے (96)

بولے! اے ہمارے باپ! ہمارے گناہوں کی معافی مانگئے، بے شک ہم خطاوار ہیں (97)

کہا، جلد میں تمہاری بخشش اپنے رب سے چاہوں گا، بیگ وہی بخشے والا مہربان ہے (98)

پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا، مصر میں داخل ہو، اللہ چاہے تو امان کے ساتھ (99)

اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گرے، اور یوسف نے کہا، اے میرے باپ! یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بیگ اے میرے رب نے سچا کیا، اور بیگ اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا، اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناہنجاری کرا دی تھی، بیگ میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بیگ وہی علم و حکمت والا ہے (100)

اے میرے رب! بیگ تو نے مجھے ایک

لَا تُحَدِّثْ رِيحًا يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ لَقَدْ دُونَ ﴿٩٥﴾
قَالُوا تَأْتَاكُمُ الْغَدَاةُ لَيْفَى ضَلَّكَ الْقَدَايَا ﴿٩٦﴾

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ
فَارْتَدَّ بِصِيْرِهِ قَالُوا كَمْ أَكَلْنَا لَكُمُ الْبُرِّ
أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾

قَالُوا يَا أَبَا نَاكَ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا
خَاطِئِينَ ﴿٩٨﴾
قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٩٩﴾

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَدَّى إِلَيْهِ
أَبُو يَاسِقَ وَقَالَ ادْخُلُوا مَعِيَ إِن شَاءَ اللَّهُ
أَمِينًا ﴿١٠٠﴾
وَرَفَعَ أَبُو يَاسِقَ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ
سُجْدًا وَقَالَ يَا بَقْتُ هَذَا أَنَا وَابْنُ بَقِي
مِنْ قَبْلُ فَدَا جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ
أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنَ السِّجْنِ
وَجَاءَ بِكَ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ
نَزَحَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي
إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ
الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١٠١﴾

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَكَرَّمْتَ

and taught me to draw interpretation of some matters. O Creator of heavens and earth, you are my Protector in this world and the hereafter. Make me die in submission (as Muslim) and join me with those who are worthy to be very close to you.

102. These are some unseen news which we reveal to you (O dear Muhammad). And you were not with them, when they agreed upon their plan, and they were devising tricks.

103. And most people will not believe, though you (O dear Muhammad S.A.W.) eagerly desire it.

104. And you do not ask any wage for it. It is not but a reminder to the whole world.

SECTION 12

105. And how many marvellous signs are there in the heaven and earth that most men pass by them but pay them no heed.

106. And most of them do not believe in Allah except committing "shirk" associating to Him some one.

107. Have they become fearless from this that they may not be encircled by the punishment of Allah or think that the Hour of Resurrection shall not come suddenly upon them while they are unaware?

108. Please declare, "this is my way; that I call you towards Allah on evidence. I (Muhammad S.A.W.) and those who follow my footsteps have insight. And Holy is Allah. And I am not a mushrik, pagan".

سلطت دی اور مجھے کچھ باتوں کا انعام
لکھانا سکھایا، اے آسمانوں اور زمین کے
بنانے والے! تو میرا کام بنانے والا ہے دنیا
اور آخرت میں، مجھے مسلمان تھا اور ان
سے مل جا جو حیرے قرب خاص کے لائق
ہیں (101)

یہ کچھ فیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری
طرف دی کرتے ہیں، اور تم ان کے پاس
نہ تھے، جب انہوں نے اپنا کام پکا کیا تھا
اور وہ واؤں چل رہے تھے (102)

اور اکثر آدمی تم کتنا ہی چاہو، ایمان نہ
لائیں گے (103)

اور تم اس پر ان سے کچھ اجرت نہیں
مانگتے، یہ تو نہیں مگر سارے جہان کو
صیحت (104)

اور کتنی نشانیوں ہیں آسمانوں اور زمین
میں، کہ اکثر لوگ ان پر گزرتے ہیں، اور
ان سے بے خبر رہتے ہیں (105)

اور ان میں اکثر وہ ہیں کہ اللہ پر یقین
نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے (106)

کیا اس سے بڑھ ہو بیٹھے کہ اللہ کا عذاب
انہیں آکر گھیر لے، یا قیامت ان پر
اچانک آجائے، اور انہیں خبر نہ ہو
(107)

تم فرماؤ! یہ میری راہ ہے، میں اللہ کی
طرف بلاتا ہوں، میں اور جو میرے
قدموں پر چلیں، دل کی آنکھیں رکھتے ہیں،
اور اللہ کو پاکی ہے، اور میں شرک کرنے
والا نہیں (108)

مِن تَأْوِيلِ الْكَاوِبِ وَالطُّرُقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَتِلْكَ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ تَوْفِيقِي مُسْلِمًا وَالْحَقِيقِي
بِالضَّالِّينَ ⑩

فَلَكَ مِنَ نَبِيِّكَ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا
أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ⑪

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ مُؤْمِنِينَ
وَمَا سَأَلْتَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ
إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ⑫

وَكَلَّا يَنْقُصُ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
يَعْرِوْنَ عَلَيْهِمْ وَعَنْهَا عَارِفُونَ ⑬

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ
قُشْرُونَ ⑭

أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ
عَذَابِ اللَّهِ أَتَأْتِيَهُمُ النَّعَاةُ بَغْتَةً
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ⑮

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى
بَصِيرَةٍ إِنْ أَنَا مِنْ أَتَّبِعِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ⑯

109. And all those who were sent as Messengers before you were men, whom we revealed, and all were residents of the cities. Have they not journeyed in the land, that they may see, what was the end of those before them? And surely, the house of the hereafter is better for the duty bound. Have you then no wisdom?

110. And so much so, when the Rasools (Messengers) had no hope of outer causes and the people thought that the Rasools (Messengers) had given them wrong information at that time Our (Allah's) help came to them whom We (Allah) Willed to rescue. And our punishment cannot be averted from the nation of the criminals.

111. Surely, in these historical news (this narrative) are the eye opener lessons for the men of understanding. It is not an invented story but a confirmation of what happened in the scriptures before with a detailed exposition of every thing, and a guidance and a blessing for the Muslims (believers).

S. XIII

SURA AL-RA'AD (THE THUNDER)

Revealed at Madina

6 Section, 43 Verses

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. Alf Laam - Meeem - Raa (A.L.M.R.). There are the Verses of the Book; and that what has been revealed from your Rubb (Sustainer) is

اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے
سب مرد ہی تھے، جنہیں ہم وحی کرتے اور
سب شہر کے ساکن تھے، تو کیا یہ لوگ
زمین پر چلے نہیں، تو دیکھتے ان سے پہلوں
کا کیا انجام ہوا، اور بیشک آخرت کا گھر
پر تیز گاروں کے لیے بہتر، تو کیا تمہیں
عقل نہیں (109)

یہاں تک جب رسولوں کو ظاہری اسباب
کی امید نہ رہی، اور لوگ سمجھے کہ رسولوں
نے ان سے غلط کہا تھا، اس وقت ہماری
مدد آئی، تو جیسے ہم نے چاہا بچا لیا گیا، اور
ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے بھیرا نہیں
جاتا (110)

ہے شک ان کی خبروں سے عقلمندوں کی
آنکھیں کھلتی ہیں، یہ کوئی بناوٹ کی بات
نہیں لیکن اپنے سے اگلے کاموں کی
تصدیق ہے، اور ہر چیز کا مفصل بیان، اور
مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت (111)

سورۃ رعد مدنی ہے (اس میں) تین تالیس

(43) آیتیں اور چھ (6) رکوع ہیں

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم
والا

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا
نُوحِيًّا إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَلَمْ
يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَكِنَّ الْأَجْرَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠٩﴾

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا
أَنَّهُمْ مُّذَكَّرُوا بِآيَاتِنَا إِنَّا نُنزِّلُ
مَنْ نَشَاءُ إِلَّا يَرُدُّ بِنُسْرَةِ الْقَوْمِ
الْمُجْرِمِينَ ﴿١١٠﴾

لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي
الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ
تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ
كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَزْمُونِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي
أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ

truth. But most men do not believe.

2. Allah is He Who raised up the heavens without pillars that you can see. Then He took for Himself the Authority (as is befitting to His Dignity) and controlled the sun and the moon subjecting each to each one. Each one runs on the fixed course. He (Allah) directs the affair and explains the verses so that you may have a faith in the meeting with your Rubb (Sustainer).

3. And it is He Who spread the earth and made therein mounts and canals, and He made two kinds of every fruit in the earth. (He) covers the night with the day. Surely, in that are signs for a people who ponder.

4. And in the earth there are different zones adjoining and gardens of the vines and cornfields and plam-trees growing in clusters and otherwise. All are watered with one water. And in them (fruits) We (Allah) prefer one on the other in tasteful proteins. Surely, in that are signs for the wise people.

5. And if you wonder, then wondrous indeed is their this saying that shall we be made a-new after becoming dust? Those are they who disbelieved their Rubb (Sustainer). And those are they who will have fetters round their necks. And those are the people of the hell wherein they shall dwell for ever.

6. And they ask you for the hastening of the punishment before the good though examples of

حق ہے مگر اکثر آدمی ایمان نہیں لاتے (۱)
اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے
ان ستاروں کے کہ تم دیکھو! پھر عرش پر
استرا فرمایا، جیسا اس کی شان کے لائق
ہے، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا ہر ایک
ایک نعرائے ہوئے وعدہ تک چلتا ہے،
اللہ کام کی تدبیر فرماتا اور مفصل نشانیاں
بتاتا ہے، کیس تم اپنے رب کا ملنا یقین
کو (۲)

اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور
اس میں نگر اور نہریں بنائیں اور زمین
میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے
بنائے، رات سے دن کو چمپا لیتا ہے، بے
شک اس میں نشانیاں ہیں وحیائے کرنے
والوں کو (۳)

اور زمین کے مختلف قطعے ہیں اور ہیں پاس
پاس، اور باغ ہیں انگوروں کے اور کھیتی
اور کھجور کے چیز، ایک تھالے (گڑھے)
سے آگے، اور الگ الگ سب کو ایک ہی
پانی دیا جاتا ہے، اور پھلوں میں ہم ایک
کو دوسرے سے بہتر کرتے ہیں، بیشک اس
میں نشانیاں ہیں عقلمندوں کے لیے (۴)

اور اگر تم تعجب کرو تو اچھا تو ان کے اس
کئے کا ہے کہ کیا ہم مٹی ہو کر پھر نئے
بنیں گے، وہ ہیں جو اپنے رب سے منکر
ہوئے، اور وہ ہیں جن کی گردنوں میں
طوق ہوں گے، اور وہ دوزخ والے ہیں
انہیں اسی میں رہنا (۵)

اَكْثَرِ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ①
اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ
تَرَوْنَهَا لَئِنْ اَسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ وَ
سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي
لِاجْلِ مَسٰئِيْ يَدْبِرُ الْاٰمْرَ لِيُقْضٰى
الْاٰتِ لَعَلَّكُمْ يَلْقٰءُ سٰئِرِكُمْ
تَوَقُّوْنَ ②

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا
رَوٰدِيْ وَاَنْهٰرًا وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرٰتِ
جَعَلَ فِيْهَا ذَوِّجَيْنِ اِنَّ فِيْهَا لَآيٰتٍ
لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ③

وَفِي الْاَرْضِ قِطْعٰتٌ مَّجْرٰتٌ وَجَعَلْنَا
مِنْ اَعْيَابِ ذُرِّيٍّ وَخَيْلٍ صَوٰانٍ
وَغَيْرِ صَوٰانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ وَ
نُفِضَلُ بَعْضُهَا عَلٰی بَعْضٍ فِى الْاَكْلِ
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ④
وَلَنْ نَّجْعَبَ لِعَجَبٍ قَوْلَهُمْ اِذَا كُنَّا
تُرٰبًا اِنَّا الْاٰلِفِى خَلْقِ جَدِيْدٍ اَوَّلِكَ
الَّذِيْنَ لَقَوْا بِرَبِّهِمْ وَاَوَّلِكَ
الْاَخْلٰقِ فِىْ اَعْيَابِهِمْ وَاَوَّلِكَ لُصُصِبَ
النَّارُ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ⑤

اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں
رحمت سے پہلے اور ان سے انگوں کی

وَيَسْتَعِجِلُوْنَكَ بِالنَّسِيَةِ قَبْلَ النَّسِيَةِ

punishment have already occurred before them. And certainly your Rubb (Sustainer) awards forgiveness despite of their cruelties. And surely the retribution of your Rubb (Sustainer) is severe.

7. And the disbelievers say, "why had not a Verse been revealed upon him (Prophet Muhammad) from his Rubb (Sustainer). Anyhow, you are only a warner and there in a guide to every nation.

SECTION 2

8. Allah knows whatever is in the womb of any female and whatever the wombs shrink and whatever they swell-in. And everything with Him is in proper measurement;

9. as He is the Knower of everything unseen and the visible being, the Exalted.

10. It is alike that among you is the one who conceals talks and the one who talks openly and the one who conceals it at night and the one who moves freely by the day.

11. For everyone there are Angels in succession before and behind him (her) that they watch him (her) by Allah's Command. Surely Allah does not change the conditions of any nation until they themselves change their own conditions. And when Allah lets evil come to a people, then there is none to turn it back, and besides Him they have no supporter.

12. It is He Who shows you the lightning for fear and inspiring in you hope and raises the heavy clouds.

سزائیں ہو چکیں، اور بیگ تمہارا رب تو لوگوں کے ظلم پر بھی انہیں ایک طرح کی معافی دیتا ہے، اور بیگ تمہارے رب کا عذاب سخت ہے (6)

اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، تم تو ڈر سنانے والے ہو، اور ہر قوم کے ہادی (7)

اللہ جانتا ہے جو کچھ کسی ماہ کے پیٹ میں ہے، اور پیٹ جو کچھ گھٹے اور بڑھتے ہیں، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے (8)

اور ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا سب سے بڑا بلندی والا (9) برابر ہیں جو تم میں بات آہستہ کے اور جو آواز سے اور جو رات میں چھپا ہے اور جو دن میں راہ چلتا ہے (10)

آوی کے لیے بولی کرنے والے فرشتے ہیں اس کے آگے پیچھے، کہ بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں، بیگ اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا، جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں، اور جب اللہ کسی قوم سے برائی چاہے تو وہ پھر نہیں سکتی، اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں (11) وہی ہے تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈر کو اور امید کو، اور بھاری بدلیاں اٹھاتا ہے (12)

وَقَدْ خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَعْفَرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ⑥

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْكَ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ بَأْسٍ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ⑦

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامَ وَمَا تَزِدُّوا ذُرِّيَّهُمْ شَيْءًا عِنْدَهُ بِوَقْدِ الرَّؤْفِ ⑧

عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ⑨
سَوَاءٌ أُنذِرْتُمْ مِنْ أَسْرَ الْقَوْلِ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ⑩

لَهُ مَعْقِبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يُحَافِظُونَهُ مِنَ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ دَالٍ ⑪

هُوَ الَّذِي يُزِيلُ كُورَ الْبَرْقِ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ⑫

13. And the thunder proclaims His praise and also the Angels are with His awe, and He sends the thunderbolts and afflicts therewith whom He Wills, while they dispute about Allah, and His grip is severe.

14. Calling Him alone is true. And to those whom they call upon besides Him, hear them not at all. But it is like him who is sitting stretching out his palms to water that it may reach his mouth, but it does not reach him. Thus the call of the disbelievers goes astray.

15. And to Allah alone prostrates who is in the heavens and on the earth, some willingly and others unwillingly. And their shadows too (do so) in every morning and in every evening.

[A Muslim who recites this verse or listens its recitation should prostrate with forehead on the ground in ablution facing Ka'aba].

16. Please declare, "who is the Rubb (Sustainer) of the heavens and the earth." Please declare, "Allah." Please declare, "why have you then made supporters besides Allah, who can neither do good or evil even to themselves?" Please declare, "are the blind and the seeing equal? Or will the darkness and the light be equal? Or have they accepted such shirk to associate with Allah, who have created something which is like that as He (Allah) made (created). Then do His creation and those of their look similar? Please

اور گرج سے سراہتی ہوئی اس کی پائی
بولتی ہے، اور فرشتے اس کے ڈر سے، اور
کڑک بھیجتا ہے تو اسے ڈال ہے جس پر
چاہے، اور وہ اللہ میں جھگڑتے ہوتے ہیں،
اور اس کی پکڑ سخت ہے (13)

اسی کا پکارنا سچا ہے اور اس کے سوا جن
کو پکارتے ہیں وہ ان کی کچھ بھی نہیں
سننے مگر اس کی طرف جو پانی کے سامنے

اپنی ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے، کہ اس
کے منہ میں پہنچ جائے، اور وہ ہرگز نہ پہنچے
گا، اور کافروں کی ہر دعا بھٹکتی پھرتی ہے
(14)

اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنے آسمانوں
اور زمین میں ہیں خوشی سے اور خواہ
مجبوری سے، اور ان کی پرجائیاں ہر صبح و
شام (15)

وَأَنبِئِهِمُ الْوَعْدَ بِمَسَدٍ وَأَلَمْ يَكُنْ لَهُ
خَازِنَةٌ يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ
بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي آلِهِ
وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴿١٣﴾

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ
دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ
إِلَّا كَالسُّبْحِ كَذَّبُوا إِلَى الْمَكْرِ لِيَسْلَمَ
قَائِدًا وَمَاهُوبًا لِلْغَيْمِ وَمَا دَعَا الْكُفْرَانِ
إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿١٤﴾

وَلَهُ سَجْدَةٌ مِنَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
طَوَّعًا وَأَكْرَاهًا وَظَلَمَتُهُمْ بِالْغَدْرِ وَوَعْدِ
الْأَصْوَالِ ﴿١٥﴾

تم فرماؤ! کون ہے آسمانوں اور زمین
کا؟ تم خود ہی فرماؤ! اللہ، تم فرماؤ! تو کیا
اس کے سوا تم نے وہ حمایتی بنا لیے ہیں
جو اپنا بھلا برا نہیں کر سکتے، تم فرماؤ! کیا
برابر ہو جائیں گے اندھا اور آنکھیاں؟ یا
کیا برابر ہو جائیں گی اندھیراں اور اجالا؟
کیا اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں
جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ بنایا؟ تو انہیں
ان کا اور اس کا بنانا ایک سا معلوم ہوا،

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ
اللَّهُ قُلْ أَفَأَتَّخِذُ مَدُونَهُ كَدُونِهِ الْوَالِدِيَّةَ
لَا يَتَذَكَّرُونَ لِنَفْسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ
أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ
أَمْ حَسِبُوا أَنَّ اللَّهَ تَخَلَّفَ الْخَلْقِ
فَتَشَابَهَ الْخَلْقَ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ

declare, "Allah alone is the Creator of everything and He is the One, Dominant over all."

17. He bestows water from the sky. Then the streams flow according to their capacity. Then the wave of water carries with it the swelling foam, and from that over which they kindle a fire for making ornaments or other goods. Thus Allah illustrates truth and falsehood. The foam is blown up but that which gives profit to the mankind remains behind in the earth. Thus Allah illustrates the examples.

18. For those who obey the Commands of their Rubb (Sustainer), there is good reward for them. And as for those who do not obey His Commands, if they had all that is in the earth, and the one like of it would have been in their possession, then they would have offered it for their ransom. But they will have an evil reckoning, and their dwelling is hell. And what an evil place of rest is that.

[HALF OF PART 13

ENDS]

SECTION 3

19. Is he who knows what has been revealed to you from your Rubb (Sustainer) is truth like him who is blind? Only those who have wisdom accept admonition.

20. They are those who fulfil the promise of Allah, and donot break after entering into a pledge.

21. And those who join together what Allah has Commanded to unite, and fear their Rubb (Sustainer)

تم فرماؤ! اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے، اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے (16)

اس نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے اپنے اپنے لائق پہ نکلے، تو پانی کی رواں پر ابھرے ہوئے جھاگ اٹھالائی، اور جس پر آگ دھکتے ہیں، گمنا یا اور اسباب بنانے کو، اس سے بھی ویسے ہی جھاگ اٹھے ہیں، اللہ بتاتا ہے کہ حق اور باطل کی یہی مثال ہے، تو جھاگ تو چمک کر دور ہو جاتا ہے، اور وہ جو لوگوں کے کام آئے زمین میں رہتا ہے، اللہ یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے (17)

كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۱۶﴾

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَؤْيُوتُهُ
يَقْدَرُهَا فَأَحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا
وَمَا يُؤْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ
حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ بَثَلٍ لِّكَ
يُضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا
الزَّبَدُ فَيَذَرُ هَبًّا خَفِيفًا وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ
النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ لِكُلِّ لِكَ
يُضْرِبُ اللّهُ الْاَمْثَالَ ﴿۱۷﴾

جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہیں کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب، اور اس جیسا اور، ان کی ملک میں ہوتا، تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے، یہی ہیں جن کا برا حساب ہو گا، اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانا! (18)

لِّلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِحُكْمِ اللّٰهِ وَ
الَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لِهٖ لَئِنْ لَّمْ يَرَوْا
لَا تَنْتَفِئْ وَايَةً اَوْ لِيَاكُ لِكُمْ سُوْرَةُ الْحٰجٰتِ
وَاَنْتَ اَنْتَ وَتَاوَبْتُمْ جِهَنَّمَ وَيَسَّ الْيَوْمَ اَدْ
اَفَمَنْ يَعْلَمُ اَنْمَّا اَنْزَلَ الْبَيِّنَاتِ مِنْ
رَبِّكَ الْحَقَّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى اِنَّمَا
يَسْتَكْبِرُوْنَ اُولٰٓئِكَ اَلْبٰبِ ﴿۱۹﴾

تو کیا وہ جو جانتا ہے جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، حق ہے، وہ اس جیسا ہو گا جو اندھا ہے، نصیحت وہی مانتے ہیں جنہیں عقل ہے (19)

وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور قول باندھ کر پھرتے نہیں (20)

لَا تَنْتَفِئْ وَايَةً اَوْ لِيَاكُ لِكُمْ سُوْرَةُ الْحٰجٰتِ
وَاَنْتَ اَنْتَ وَتَاوَبْتُمْ جِهَنَّمَ وَيَسَّ الْيَوْمَ اَدْ
اَفَمَنْ يَعْلَمُ اَنْمَّا اَنْزَلَ الْبَيِّنَاتِ مِنْ
رَبِّكَ الْحَقَّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى اِنَّمَا
يَسْتَكْبِرُوْنَ اُولٰٓئِكَ اَلْبٰبِ ﴿۱۹﴾

اَلَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ وَا
يَنْقُضُوْنَ الْبَيْعَاتِ ﴿۲۰﴾
وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ

اور وہ کہ جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اپنے رب

اَلَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ وَا
يَنْقُضُوْنَ الْبَيْعَاتِ ﴿۲۰﴾
وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ

and are dreadful the evil consequences of reckoning day;

22. and those who join what Allah has Comanded to join, and fear their Rubb (Sustainer) and establish the Salaat (Muslim prayer) and spend out of what We (Allah) have provided them on Our (Allah's) path secretly and publically, and shun away evil by means of goodness. For them is the blissful end of the ultimate abode (Paradise).

23. They shall enter into the gardens of eternity, together with those who acted right from amongst their fathers their wives and their descendents. And the Angels shall enter to them from every door, saying;

24. "Peace be upon you for your steadfast patience," what an excellent blissful ultimate abode have you got?"

25. And those who break the promise of Allah after confirming it, and cut asunder what Allah has Comanded to join, and spread mischief in the earth, their share is only curse and theirs is the evil abode.

26. Allah increases the provisions for whom He wills and also He straitens it. And the disbelievers rejoice with the present life. And the present life is nothing in comparison to the life of the hereafter. It is but a passing comfortable enjoyment for some days.

SECTION 4

27. And the disbelievers say "why is not a Verse from his Rubb (Sustainer) revealed to him." Please declare,

سے ڈرتے ہیں اور حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں (21)

اور وہ جنہوں نے مبر کیا اپنے رب کی رضا چاہنے کو اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دینے سے ہماری راہ میں مجھے اور ظاہر کچھ خرچ کیا اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں انہیں کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے (22)

بہنے کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے اور جو لائق ہوں ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر یہ کہتے آئیں گے (23)

سلاستی ہو تم پر تمہارے مبر کا بدلا، تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا (24)

اور وہ جو اللہ کا عہد اس کے کئے ہوئے کے بعد توڑتے جس کے جوڑنے کو اللہ نے فرمایا: اسے قطع کرتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کا حصہ لعنت ہی ہے اور ان کا نصیب برا گھر (25)

اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ اور تنگ کرتا ہے اور کافر دنیا کی زندگی پر اترا (کبکس کرے) اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل نہیں مگر کچھ دن برت لینا (26)

أَنْ يُؤْصَلَ وَيَفْشَكُونَ سَرَ بَلْهُمْ وَ
يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾

وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِالْبِئْسَاءِ وَجْهِرٍ لَّيْمٍ
وَأَتَّامُوا الصَّلَاةَ وَالْفَقْرَ إِنَّا كَرِّهُم
سِرًّا وَعَلَانِيَةً لَا يَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ
الْعَمِيَّةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَأَمِّنَ صَلْوٰمٍ
مِّنْ أَلْهَابِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ
فِيهَا يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ
بَابٍ ﴿٢٣﴾

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَبِعَمَرَ
عَقَبَى الْبَارِئِ ﴿٢٤﴾

وَالَّذِينَ يَبْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ
بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ

بِهِمْ أَنْ يُؤْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِئِ ﴿٢٥﴾

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُضَيِّقُ
وَفَقْرًا يَا حَيُّوهُ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيٰوةُ

فِي الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾

اور کافر کہنے ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نہ اتری تم فرما!

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ
عَلَيْهِ آيَةٌ فَرَأَيْتُمْ كَيْفَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ

"Allah lets go on the wrong way whomso He Wills, and guides towards Him someone who turns to Him (in repentance).

28. They are those who believe and their hearts find satisfaction with the remembrance of Allah. Behold in remembrance of Allah alone is the satisfaction of hearts.

29. Those who believe and perform good deeds for them is the blessing and good end.

30. Thus We have sent you to a people (Oommah) before whom other people (Oommah) have passed in order that you may recite to them what We have revealed to you, and they are rejecting Rehmaan (the Affectionate Allah). Please declare, "He is my Rubb (Sustainer). None is to be worshipped except Him. I trust upon Him alone and to Him do I incline".

31. If this Qur'aan would have come towards the mountains it would have moved or the earth could be cut asunder or the dead could have spoken, even then these disbelievers would not have believed, but the entire affair is under the Authority of Allah. Did then the believers (Muslims) not become disappointed with it that if Allah had Willed, He would have guided all the people altogether? And the shattering disaster will for ever continue to smash the disbelievers for what they sought or it will be sent near their houses, until Allah's promise comes forth. Surely, Allah does not Act against His promise.

بجگ اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور اپنی راہ اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع لائے (27)

وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، من لوا اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے (28)

وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کو خوشی ہے اور اچھا انجام (29)

اسی طرح ہم نے تم کو اس امت میں بھیجا جس سے پہلے امتیں ہو گئیں کہ تم انہیں پڑھ کر سناؤ جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی، اور وہ رحمن کے سکر ہو رہے ہیں، تم فرماؤ! وہ میرا رب ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اور اسی کی طرف میری رجوع ہے (30)

اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے، یا زمین پھٹ جاتی، یا مروجے ہاتھیں کرتے، جب بھی یہ کافر نہ مانتے، بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، تو کیا مسلمان اس سے ناامید نہ ہوتے کہ اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا اور کافروں کو بیشہ ان کے کہنے پر سخت دھک پہنچتی رہے گی، یا ان کے گھروں کے نزدیک اترے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آئے، بجگ اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا (31)

يُجِئِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٧﴾

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ﴿٢٩﴾

كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مِنَ الْقَابِلِينَ أَوْ حِينًا بِكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ﴿٣٠﴾

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ الْمُتَّقُونَ بَلْ نَكُحِ الْأَمْهَارَ حَبِيبًا أَفَلَمْ يَكْفُرُوا

بِالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا لِيَرْوِيَ الَّذِينَ كَفَرُوا نَصِيبُهُمْ مِمَّا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ يُحْمَلَ قَرْنِبًا فَن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٣١﴾

SECTION 5

32. And surely, the previous Rasools (Messengers) before you were mocked at, then I let loose the disbelievers for some times. Then they were caught. How was My retribution?

33. Is He not watching every self what are his (her) actions? And Yet they ascribe "shirk" to Allah making His associates. Please declare, "name them." Or do you tell Him of what is not in His knowledge on the entire earth. Or is it by the way an empty speech? Rather their fraud has been made to look good in the eyes of the disbelievers, and they have been debarred from the way. And whom Allah lets to go on the wrong way he has no guide.

34. They shall be punished in this worldly life and surely, the punishment of the Last Day in the life of the hereafter is the severest. And there is none to save them from Allah.

35. This is similarity of the Paradise which has been promised to those who are the righteous. Beneath it streams flow. Its food and shade are everlasting. This is the reward of those who are pious with Allah, and the ultimate end of the disbelievers is the fire.

36. And those to whom We (Allah) have bestowed the Book rejoice at what has been revealed to you, and of those groups there are some who deny a part thereof. Please declare, "I am only Commanded to worship Allah and not to ascribe "shirk" as

اور جبک تم سے آگے رسولوں سے بھی
ہنسی کی گئی، تم میں نے کافروں کو کچھ دنوں
ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑا، تو میرا عذاب
کیسا تھا (32)

تو کیا وہ جو ہر جان پر اس کے اعمال کی
تعمیر رکھتا ہے، اور وہ اللہ کے
شریک ٹھہراتے ہیں، تم فرماؤ! ان کا نام تو
لو! یا اسے وہ بتاتے ہو جو اس کے علم میں
ساری زمین میں نہیں، یا یوں ہی اوپری
بات، بلکہ کافروں کی نگاہ میں ان کا فریب
اچھا ٹھہرا ہے، اور راہ سے روکے گئے،
اور جسے اللہ گمراہ کرے، اسے کوئی ہدایت
کرنے والا نہیں (33)

انہیں دنیا کے جیتے عذاب ہو گا، اور جبک
آخرت کا عذاب سب سے سخت ہے، اور
انہیں اللہ سے بچاؤ والا کوئی نہیں (34)

احوال اس جنت کا کہ ڈر والوں کے لیے
جس کا وعدہ ہے، اس کے نیچے نہریں بہتی
ہیں، اس کے سب سے بیش، اور اس کا
سایہ، ڈر والوں کا تو یہ انجام ہے اور
کافروں کا انجام آگ (35)

اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر
خوش ہوتے جو تمہاری طرف اترا، اور ان
گروہوں میں کچھ وہ ہیں کہ اس کے بعض
سے منکر ہیں، تم فرماؤ! مجھے تو یہی حکم ہے
کہ اللہ کی بندگی کروں، اور اس کا شریک

وَأَقْبِدِ اسْتَهْزِئَ بِرَسُولٍ مِّنْ قَبْلِكَ
فَأَقْبَدْتَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْعَذَابَ لَعْنَةً
كَذِيفٍ كَانَ عِقَابِ ۝

الَّذِينَ هُوَ كَاذِبٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا
كُتِبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ
سَبَّوهُمْ أَفَرْتَدُّوهُنَّ بِمَا لَا يَنْفَعُ فِي
الْأَرْضِ أَفَرِيضًا هَرَمِينَ الْقَوْلِ بَلْ
ذُنُوبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَمْ لَهُمْ حُصُونٌ
عَنِ السَّمْعِ بَلْ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ
فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ
لَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ
اللَّهِ مِنْ نَّاصِرٍ ۝

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ۚ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا
دَاخَلُوا ظِلَّهَا تَبَسَّوْا تِلْكَ عِقَابُ الَّذِينَ
الْقَوَّاتِ وَعِقَابُ الْكَافِرِينَ النَّارِ ۝

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
يُفَرِّحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ
الْأَنْبَاءِ هُمْ مِنَ الرَّحْمَانِ مَنْ
يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ

associate to Him. To Him I call, and to Him is my return."

37. And thus We have revealed it as a code of Judgement in Arabic. And (O'listener) if you will follow their desires, after what has come to you of knowledge, then you shall have no supporter nor defender, before Allah.

SECTION 6

38. And definitely, We have sent Rasools (Messengers) before you, and assigned to them wives and children. And it is not for a Rasool (Messenger) to bring any Verse, except by Allah's Command. For each period there is a of writing (Book).

39. Allah wipes out what He Wills and establishes (what He Pleases) and the mother of the Book (real source writing) is with Him.

40. And if We (Allah) show you any penalty that is threatened to them or We (Allah) call you to Us (Allah) ahead, in any case, you are responsible only to deliver the Message, and on Us (Allah) is the reckoning.

41. Have they not seen that We (Allah) reduce the census of the earth from all sides. And it is Allah's Commands. There is none to put back His Command. And He is swift in reckoning.

42. And those before them have already plotted, but the entire secret plans belong to Allah. He knows what every self earns. And the disbelievers are soon to know, who gets the ultimate abode.

نہ نصرائیں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے بھرتا (36)

اور اسی طرح ہم نے اسے عربی فیصلہ اتارا، اور اسے سننے والے! اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا بعد اس کے کہ تجھے علم آچکا، تو اللہ کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہو گا نہ بچانے والا (37)

أَسْبَدَ اللَّهُ وَلَا أَشْرِكُ بِهِ إِلَهًُا دَعُوا
وَالْيَهُ مَآبٍ ۝
وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُمَلًا عَرَبِيًّا وَكَلِمًا
تَشْبَعُ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ
الْعِلْمِ مَالِكَ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ ذُوِي وَلَا
عَاقِبَةُ ۝

اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، اور ان کے لیے بیویاں اور بچے کیے، اور کسی رسول کا کام نہیں کہ کوئی نشانہ لے آئے، مگر اللہ کے حکم سے ہر وعدہ کی ایک لکھت ہے (38)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَ
جَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ
لِرُسُلِنَا أَنْ يَأْتِيَهُم بِالْبَيِّنَاتِ إِلَّا إِذْ
بِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۝

اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے (39)

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُخَيِّطُ سَوَّ
عِنْدَهُ أَقْرَابُ الْكِتَابِ ۝

اور اگر ہمیں تمہیں دکھا دیں کوئی وعدہ، جو انہیں دیا جاتا ہے، یا پہلے ہی اپنے پاس بلائیں، تو ہر حال تم پر تو صرف پہنچانا ہے، اور حساب لینا ہمارا ذمہ (40)

وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ
أَوْ تُسَوِّفِيَنَّا فَإِنَّمَا عَسَيْتَ الْبَلَاءُ
وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝

کیا انہیں نہیں سوتھتا کہ ہم ہر طرف سے ان کی آبادی گھناتے آ رہے ہیں، اور اللہ حکم فرماتا ہے، اس کا حکم پیچھے ڈالنے والا کوئی نہیں، اور اسے حساب لینے دیر نہیں لگتی (41)

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا
مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَنْزِلُكَ أَلْمَعْقَبِ
لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

اور ان سے اگلے فریب کر چکے ہیں، تو ساری خفیہ تدبیر کا مالک تو اللہ ہی ہے، جانتے ہے جو کچھ کوئی جان کمائے، اور اب جانا چاہے ہیں کافر، کسے مٹا ہے پچھلا کر (42)

وَدَدَّ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ
الْمُكْرُوبِينَ عَاقِبَةُ مَا كَانُوا يَكْسِبُ كُلُّ
نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عَقَّبَى
الذَّارِعَاتِ

43. And the disbelievers say, "you are not a Rasool (Messenger)". Please declare, "Allah is sufficient as witness between you and me, as well as for him who possesses the knowledge of the Book."

S. XIV

SURA IBRAAHEEM

ABRAHAM

Revealed at Makkah

(7 Sections, 52 Verses)

Allah's Name, the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. Alf Laaam, Raa (A.L.R.). This is a Book that We (Allah) have revealed to you so that you may bring out the mankind from darkness to light by the Command of their Rubb (Sustainer) towards the path of the Mighty, the Praise-worthy.

2. Allah to whom belongs whatso is in the heavens and whatso is in the earth. And there is misery for the disbelieves with a severe punishment.

3. Those who prefer this worldly life more than the life of the hereafter and those who bar from the path of Allah and desire to make it crooked; they are far off on the wrong way.

4. And, We have sent each Rasool (Messenger) having the language of his own nation that he may tell them clearly. Then Allah leaves on the wrong way whomso He Wills and guides whomso He Wills, and He is the Mighty, the Wise.

5. And, We (Allah) did send Moosaa (Moses) with Our (Allah's) Verses, saying, "bring out your nation from

اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں تم فرماؤ! اللہ گواہ کافی ہے مجھ میں اور تم میں اور وہ جسے کتاب کا علم ہے (43)

سورہ ابراہیم کی ہے (اس میں) ہاون (52)

آیات اور سات (7) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے اجالے میں لاؤ ان کے رب کے حکم سے اس کی راہ کی طرف جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے (1)

اللہ ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور کافروں کی خرابی ہے ایک سخت عذاب سے (2)

جنہیں آخرت سے دنیا کی زندگی پیاری ہے اور اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کبھی چاہتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں ہیں (3)

اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا کہ وہ انہیں صاف بتائے پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہے اور وہی عزت حکمت والا ہے (4)

اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں لے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ هَذِهِ السُّرَّةَ وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّحْمَنِ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ يُخْرِجُ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ذُو نِعْمٍ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْأُخْرَىٰ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي صُلْبٍ بَعِيدٍ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيَتَّبِعُوا الْبَيْتَ الْحَرَامَ الَّذِي أَسَّسَ اللَّهُ لَهُ يُشَاقُّوا فِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَ

the darkness into the light, and remind them of the days of the favors of Allah. Surely, in it there are signs for each one who is steadfast, thankful.

6. And behold when Moosaa (Moses) said to his nation, "remember Allah's Blessings upon you when He delivered you from Firawn's (Pharaoh's) people who used to afflict you worstly, and slaughtered your sons and let your daughters live, and in it there was shown a great Mercy of your Rubb (Sustainer).

SECTION 2

7. And remember, when your Rubb (Sustainer) proclaimed, "if you will be grateful, then I shall give you more, and if you are thankless, then My punishment is severe."

8. Moosaa said, "if you and all others in the earth become disbelievers, surely, even then Allah is self-Sufficient, Praise-worthy."

9. Have you not received the news of those who were before you, the people of Nuuh (Noah) and Aad, and the Samood (Thamud) and those after them? They are known to Allah alone. Their Rasools (Messengers) came to them with clear signs, but they thrustured their hands to their mouths and said, "we deny that with which you have been sent with the path towards which you call. And the path towards which you call us concerning that we are in a doubt creating suspense."

[THREE FOURTH OF
PART 13 ENDS]

اجالے میں لا' اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا' بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے مبروالمے شکر گزار کو (5)

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا' یاد کرو' اپنے اوپر اللہ کا احسان جب اس نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی جو تم کو بری مار دیتے تھے' اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے' اور تمہاری بیٹیاں زندہ رکھے' اور اس میں تمہارے رب کا بڑا فضل ہوا (6)

اور یاد کرو' جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا' اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے (7)

اور موسیٰ نے کہا' اگر تم اور زمین میں جتنے ہیں سب کافر ہو جاؤ' تو بچک اللہ ہے پرواہ سب خوبیوں والا ہے (8)

کیا تمہیں ان کی خبریں نہ آئیں جو تم سے پہلے تھی نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور جو ان کے بعد ہوئے' انہیں اللہ ہی جانے' ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے' تو وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے گئے' اور بولے! ہم منکر ہیں اس کے جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا' اور جس راہ کی طرف ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں وہ شک ہے کہ بات کھلے نہیں رہتا (9)

ذَكَرَهُمْ يَا يَسْمُو اللّٰهَ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝۵

وَاذْ قَالَتْ اٰمُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ اِذْ اَنْجَاكُمْ مِنْ اِلْفِ فِرْعَوْنَ یَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ وَاِذْ یَحْمِلُوْنَ اَبْنَاءَكُمْ وَیَضَعُوْنَ نِسَاءَكُمْ فِی الْبِحٰرِ یَحْمِلُنَّ یَیْلًا ۝۶

وَاذْ تَاَذُرْنَ اٰمُوْسٰى لَیْسَ لَیْسَ شَكَرْتُمْ لَآ اَزِیْدُ لَكُمْ وَاَیْنَ كَفَرْتُمْ اَنْ عَذَابِیْ لَشَدِیْدٌ ۝۷

وَقَالَ مُوْسٰى اِنْ تَكْفُرُوْا اَلَا اَنْتُمْ وَاَنْتُمْ فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا ۝۸ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ حَمِیْدٌ ۝۹

اَلَمْ یَاْتِكُمْ نَبِیُّوْا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ قُوْرٌ نُّوحٌ وَاَعَادُوْا کُفُوْدًا وَاَلَّذِیْنَ نَحْنُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَا یَعْلَمُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ ۝۱۰ جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّنٰتِ فَرَدُّوْا اٰیٰتِیْهِمْ فِیْ اَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوْا اِنَّا لَنَعْرِضُکُمْ اِنۢ بِنَاۤءِیْ لَسَلۡتُمْ بِهٖ وَاِنَّا لَنَفِیْ سٰکِتَمَاۤ اَنْتُمْ عَلٰۤیۡهَا ۝۱۱

10. Their Rasoola (Messengers) said, "is there any doubt about Allah, the Originator of the heavens and the earth? He calls you that He may forgive some of your sins and may upkeep your life till the stated time of your death without punishment. They said, 'you (prophets) are only mortals like us. You desire to bar us from that which our fathers used to worship; so bring us a clear proof'.

11. Their Rasools (Messengers) said to them, "we are indeed mortals like yourselves, but Allah Bestows His favor on whomso He Wills from His devotee. And it is not for us to bring you any authority except by the Command of Allah. And upon Allah alone the believers (Muslims) should trust .

12. And what happened to us that we should not trust upon Allah, as He has shown us our ways. And we shall surely bear patiently that with which you are annoying us. And let the trustfuls put their trust in Allah alone.

SECTION 3

13. And the "mushrik" pagans said to their Rasools (Messengers), "we shall surely expel you out of your lands, or you return to our creed." Then their Rubb (Sustainer) revealed to them, We (Allah) shall surely, destroy the cruels."

14. And We (Allah) shall surely, make you settle in the land after them. This is for him who fears standing before Me and is afraid of the punishment I Command.

ان کے رسولوں نے کہا، کیا اللہ میں شک ہے؟ آسمان اور زمین کا بنانے والا ہمیں بلاتا ہے، کہ تمہارے کچھ گناہ بخشے اور موت کے مقرر وقت تک تمہاری زندگی بے عذاب کاٹ دے، بولے! تم تو ہمیں جیسے آدمی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس سے باز رکھو جو ہمارے باپ دادا پڑھتے تھے، اب کوئی روشن شدہ ہمارے پاس لے آؤ (10)

ان کے رسولوں نے ان سے کہا، ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان، مگر اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے، اور ہمارا کام نہیں کہ ہم تمہارے پاس کچھ سند لے آئیں، مگر اللہ کے حکم سے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسا چاہیے (11) اور ہمیں کہیے: اللہ پر بھروسہ نہ کریں، اس نے تو ہماری راہیں ہمیں دکھائیں، اور تم جو ہمیں ستا رہے ہو، ہم ضرور اس پر مبر کریں گے، اور بھروسہ کرے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے (12)

اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، ہم ضرور تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین پر ہو جاؤ، تو انہیں ان کے رب نے وحی بھیجی کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کریں گے (13) اور ضرور! ہم تم کو ان کے بعد زمین میں بسائیں گے، یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے اس سے خوف کرے (14)

قَالَتْ رَبُّنَا الَّذِي أَلَّهِ رَبُّنَا فَاعْبُدُوا لَهُ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ كَانْتُمْ لَعَالَمِينَ ﴿١٠﴾
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ فَمَنْ يَمْلِكُ أَنْ يَنْصُرَهُمْ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ يَقْبِضُهُمْ إِلَىٰ أَعْيُنِنَا فسنعذبهم ﴿١١﴾
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُفِئُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٢﴾
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُفِئُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٣﴾
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُفِئُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٤﴾

قَالَتْ رَبُّنَا الَّذِي أَلَّهِ رَبُّنَا فَاعْبُدُوا لَهُ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ كَانْتُمْ لَعَالَمِينَ ﴿١٠﴾
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ فَمَنْ يَمْلِكُ أَنْ يَنْصُرَهُمْ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ يَقْبِضُهُمْ إِلَىٰ أَعْيُنِنَا فسنعذبهم ﴿١١﴾
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُفِئُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٢﴾
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُفِئُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٣﴾
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُفِئُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٤﴾

قَالَتْ رَبُّنَا الَّذِي أَلَّهِ رَبُّنَا فَاعْبُدُوا لَهُ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ كَانْتُمْ لَعَالَمِينَ ﴿١٠﴾
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ فَمَنْ يَمْلِكُ أَنْ يَنْصُرَهُمْ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ يَقْبِضُهُمْ إِلَىٰ أَعْيُنِنَا فسنعذبهم ﴿١١﴾
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُفِئُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٢﴾
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُفِئُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٣﴾
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُفِئُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٤﴾

قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كُنَّا مُّؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾
وَلَوْ كُنَّا مُّؤْمِنِينَ ﴿١٦﴾
وَلَوْ كُنَّا مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾
وَلَوْ كُنَّا مُّؤْمِنِينَ ﴿١٨﴾
وَلَوْ كُنَّا مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩﴾
وَلَوْ كُنَّا مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

وَلَوْ كُنَّا مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

15. And they ask for a helpful decision, but every tyrant obstinate sinner was destroyed.

16. Before him is the hell and he shall be made to drink the water of oozing pus,

17. from it he shall sip little by little with difficulty and there shall be no hope to swallow it, and death shall come to him from all sides, but he shall not die. And there is a terrible punishment after him.

18. The condition of those who reject their Rubb (Sustainer) becomes such that their deeds are made like ashes upon which a violent blast of wind comes in a stormy day. They get nothing out of the entire earning. This is the far off straying.

19. Did you not see that Allah has made the heavens and the earth with the truth? If He Pleases he can take you away and bring forth a new creation.

20. And this is not at all difficult for Allah.

21. And they all shall appear before Allah, together. Those who were weak will say to those who boasted, "we were your obedient. Can it be possible for you to put off some of the punishment of Allah from us"? They will say, "if Allah had guided us, we would have guided you. It is same to us whether we show panic or we endure it. But we have no place to escape.

SECTION 4

22. And the satan (devil) will say, when our (Allah's) judgement is made, "surely, Allah had given you a true

اور انہوں نے فیصلہ مانگا، اور ہر سرکش
ہٹ دھرم نامراد ہوا (15)

جنم اس کے پیچھے گئی اور اسے پیپ کا
پانی پلایا جائے گا (16)

بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا
اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہو
گی، اور اسے ہر طرف سے موت آئے
گی، اور مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے
ایک گاڑھا عذاب (17)

اپنے رب سے منکروں کا حال ایسا ہے کہ
ان کے کام ہیں جیسے راگھ، کہ اس پر ہوا
کا تخت جھونکا آیا آندھی کے دن میں،
ساری کمانی میں سے کچھ ہاتھ نہ لگا، یہی
ہے دور کی گمراہی (18)

کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان و
زمین جن کے ساتھ بنائے، اگر چاہے تو
تھمیں لے جائے، اور ایک نئی مخلوق لے
آئے (19)

اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں (20)
اور سب اللہ کے حضور علانیہ حاضر ہوں
گے تو جو کچھ تھے برائی والوں سے کہیں
گے ہم تمہارے تابع تھے، کیا تم سے
ہو سکتا ہے کہ اللہ کے عذاب میں سے
کچھ ہم پر سے دالود؟ کہیں گے، اللہ ہمیں
ہدایت کرنا تو ہم تمہیں کرتے، ہم پر ایک
ساق ہے، چاہے بے قراری کریں یا سبر
سے رہیں، ہمیں کہیں پناہ نہیں (21)

اور شیطان کے گا جب فیصلہ ہو چکے گا
بے شک اللہ نے تم کو سچا وعدہ دیا تھا اور
میں نے جو تم کو وعدہ دیا تھا وہ میں نے تم

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيبٍ ﴿١٥﴾

مِنْ وِرَآئِهِمْ جَهَنَّمَ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ

صَدِيدٍ ﴿١٦﴾

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسَبِّغُهُ وَيَأْتِيهِ

الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٌ

وَمِنْ وِرَآئِهِمْ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بَرِيئِينَ مِنْ أَهْلِهَا هُمْ

كَذَٰلِكَ اسْتَدْرَكَ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ

عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ فَمَا كَسَبُوا عَلٰى

شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٨﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ

الْاَرْضِ بَآئِحَاتٍ اِنْ كِشٰىئِ هِبِكُمْ

وَاَيٰتٍ بَخَلِقِ جَدِيْدٍ ﴿١٩﴾

وَمَا ذُو اِلٰهٍ عَلٰى اِلٰهِ بَعْدِ رِزْوٰى

وَبَرَزُوْا اِلَيْهِ جَمِيْعًا فَاَقَالَ الضُّعْفُوْا

لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا اَنٰكُم تَبَعًا

فَقِيْلَ اَنْتُمْ مُّعٰذُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ

اِلٰهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوْا اَلْوَهْدٰنَا اِلٰهُ

لِهٰدِيْنٰكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا اَجْرٌ عَنَّا اَف

يٰۤاَصْحٰبٰنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿٢٠﴾

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لِمَ اُقْسِيْ الْاَمْرُ

اِنَّ اِلٰهَكُمْ وَعَدَدُكُمْ وَعَدَدُ الْحَقِّ وَ

عَدَدُكُمْ فَاخْلَفْتُمْ وَمَا كَانَ لِي

promise. But whatever I promised you I was false, as I had no authority over you. I called you, and you responded to me. Now do not blame me but you blame yourselves." "Neither I can help you nor you can help me. I am strongly disgusted with that which you associate with me before Allah". Surely, the cruels will be awarded painful punishment.

23. And those who believed and did virtuous deeds shall be admitted to Paradise, under which streams flow, to dwell there for ever with the permission of their Rubb (Sustainer). Their greetings at the time of their meeting therein is "peace."

24. Did you not see that how Allah has explained the example in the profound words like a fine tree whose roots are firmly standing and branches are in the heaven.

25. It gives its fruit at all times by the Command of its Rubb (Sustainer) and Allah propounds such examples for the mankind that they may understand.

26. And the example of an evil word is like an ugly tree cut off from the earth, which has no stability.

27. Allah keeps firm the believers on right undertaking in this life and the hereafter, and Allah leaves on the wrong way the wrong doers, and Allah accomplishes what He Will.

SECTION 5

28. Have you not seen those who changed the Blessings of Allah with thanklessness of disbelief and

سے جھوٹا کیا، اور میرا تم پر کچھ قابو نہ تھا، مگر میری کہ میں نے تم کو بلایا تم نے میری مان لی، تو اب مجھ پر الزام نہ رکھو! خود اپنے اوپر الزام رکھو، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکوں، نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکو، وہ جو پہلے تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا میں اس سے سخت بیزار ہوں، بلکہ ظالموں کے لیے درد ناک عذاب ہے

(22)

اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ باغوں میں داخل کیے جائیں گے، جن کے نیچے سرس رواں، ہمیشہ ان میں رہیں، اپنے رب کے حکم سے، اس میں ان کے لئے وقت کا اکرام سلام ہے (23)

کیا تم نے نہ دیکھا، اللہ نے کسی مثال بیان فرمائی، پاکیزہ بات کی؟ جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ قائم اور شاخیں آسمان میں (24)

ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں وہ سمجھیں (25)

اور گندی بات کی مثال جیسے ایک گندہ بیڑ کہ زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا، اب اسے کوئی قیام نہیں (26)

اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ جو چاہے کرے (27)

کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت ناشکری سے بدل دی، اور اپنی

عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطٰنِ الْاٰنِ وَدَعَوٰنِكُمْ
فَاَسْتَجَبْتُمْ لِيْ وَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلَوْ كُنْتُمْ
اَنْفُسَكُمْ مَا اَنَا بِبَصِيْرٍ حٰكِمٍ وَمَا اَنْتُمْ
بِعٰصِيْنَ خِيْرٍ اِنِّيْ كُنْتُ مِمَّا اَشْرَكْتُمْ
مِنْ قَبْلُ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهٗمْ
عَذٰبٌ اَلِيْمٌ ﴿۲۲﴾

وَادْخُلِ الدّٰرِيْنَ اَمْنًا وَاَعْمَلُوْا
الصّٰلِحٰتِ يَجْعَلْ لَّكَ جَزِيْرًا مِّنْ جَنّٰتٍ
اَلَا تَهْتَدُوْنَ فَيَهْدِيْكُمْ فِيْهَا اٰيٰتِ رَبِّكُمْ
مَّيْمِيْنَةٌ فَيَسْأَلُهُمْ ﴿۲۳﴾

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَوَّبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً
طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ
وَقَدْرُهَا فِي السَّمَآءِ ﴿۲۴﴾

تَوَقَّى اَطْهٰرًا كُلَّ حَبِيْرٍ يٰۤاٰدِمْ رِيْقَهُ
وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۵﴾

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ
خَبِيْثَةٍ اُجْتَذِرَتْ مِنْ قَوْى الْاَرْضِ
مَا لَهَا مِنْ قَدْرٍ ﴿۲۶﴾

يَقِيْنَتِ اللّٰهُ الدّٰرِيْنَ اَمْنًا اِقْوَالَ النَّبِيّٰتِ
فِي الْحَيٰوةِ الدّٰنِيَا فِي الْاَرْضِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ
بِآٓءِ الظّٰلِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ﴿۲۷﴾

اَلَمْ تَرَ اِلَى الدّٰرِيْنَ اَلَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ

brought their nation into the
ruination end;
in the hell in which
they shall enter to be burnt.
What an evil place it is to
well?

30. And they have chosen
shirk to make equals for
Allah who misguide away
from His path. Please declare
"enjoy a little, certainly your
destination is in the fire."

31. Please declare to my
those devotees who believed
that they should establish the
Salaat (Muslim Prayers) and
spend out of what We (Allah)
have Bestowed to them,
secretly and openly, before
the reaching of the day on
which there shall be neither
bargaining nor friendship;

32. that Allah is He Who
made the heavens and the
earth and causes the water to
come down from the heaven,
then He produces fruits for
your provision. And he
makes the ships under your
control that they may sail
through the sea by His
Command and subjects the
rivers to be controlled by you.

33. And He made the sun
and moon to serve you which
are constantly moving, and
made the day and night to be
in your service.

34. And He gave you
everything you asked for.
And if you count the favours
of Allah, you cannot count
them. Surely, man is very
cruel, unthankful.

SECTION 6

35. Behold when
Ibraaheem (Abraham)
submitted, "O my Rubb
(Sustainer) make this city
secure, and save me and my

قوم کو بتائی کے گمراہ اتارا (28)

اللَّهُ كُفِّرًا وَاحْتَلُوا قَوْمَهُمْ
دَارَ الْمَوَارِثِ

وہ جو دوزخ ہے اس کے اندر جائیں گے
اور کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ (29)
اور اللہ کے لیے برابر والے ٹھہرائے کہ
اس کی راہ سے بھاگیں، تم فرماؤ! کچھ
برت لو کہ تمہارا انجام اگ ہے (30)

میرے ان بندوں سے فرماؤ! جو ایمان
لائے، کہ نماز قائم رکھیں، اور ہمارے
دینے میں سے کچھ ہماری راہ میں چھپے اور
ظاہر خرچ کریں، اس دن کے آنے سے
پہلے جس میں نہ سوداگری ہو گی نہ یارانہ
(31)

اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے
اور آسمان سے پانی اتارا، تو اس سے کچھ
پھل تمہارے کھانے کو پیدا کیے، اور
تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا کہ اس کے
حکم سے دریا میں چلے، اور تمہارے لیے
ندیاں مسخر کیں (32)

اور تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر
کیے، جو برابر چل رہے ہیں، اور تمہارے
لیے رات اور دن مسخر کیے (33)

اور ہمیں بت کچھ من مانگا دیا، اور اگر
اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے،
بیک آدی بڑا ظالم، بڑا ناشکر ہے (34)

جَهَنَّمَ يَصُوتُ لَهَا أُورُسُ الْقُرَارِ ۝
وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ
سَبِيلِهِ قُلْ تَسْعَوْنَ أَفَانَ مَصِيرِكُمْ
إِلَى النَّارِ ۝

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا
بِئَعٍ فِيهِ وَلَا خِلْفٌ ۝

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَكُنَّا خُضْرًا
مِّنَ الشَّجَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ
الْفُلَّكَ لَتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ
وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۝

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ
وَسَخَّرَ لَكُمُ الْيَلَّ وَالنَّهَارَ ۝
وَأَنْتُمْ مِّن كُلِّ مَآسَأٍ لَّمُؤَةٍ وَإِن
تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِن
عِ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝

اور یاد کرو! جب ابراہیم نے عرض کی!
اے میرے رب! اس شہر کو امن والا کر
دے، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بچوں

وَأَذَقَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا
الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ

sons from worshipping the idols.

36. My Rubb (Sustainer) certainly, the idols have led astray many people. Then whoso follows me belongs to me and whoso disobeys me, then You are certainly, Forgiving, Merciful.

37. O our Rubb (Sustainer) I have caused some of my children to settle in a barren valley by Your Sacred House, in order that they might establish Salaat (Muslim Prayer). Then You incline some people's hearts towards them and give them earth fruits as provisions that they may be thankful.

38. O our Rubb (Sustainer) You know what we hide and what we make public. And nothing is hidden from Allah in the earth or in the heavens.

39. All praise be to Allah Who has given me Ismail and Ishaque (Isac) in old age. Surely, my Rubb (Sustainer) accepts the supplication.

40. O my Rubb (Sustainer), keep me and my children firm in establishing Salaat (Muslim Prayer). O our Rubb (Sustainer) accept our Salaat (Muslim prayer).

41. O our Rubb (Sustainer) forgive me and my parents and all the believers (Muslims) on the Day when reckoning is done.

SECTION 7

42. And do not think that Allah is unaware of the deeds of the cruels. He is only deferring them to a Day when their eyes shall remain open to stare.

43. And they will come out running rashly raising their

کے بچے سے بچا (35)

اے میرے رب! بچک جن نے بت لوگ بکا دیئے، تو جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا ہے، اور جس نے میرا کمانہ مانا، تو بچک تو بخشنے والا مہربان ہے (36)

اے میرے رب! میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بٹائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب! اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں! تو تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے، اور انہیں کچھ پھل کمانے کو دے، شاید! وہ احسان مانیں

(37)

اے ہمارے رب! تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے، اور اللہ پر کچھ چھپا نہیں زمین میں، اور نہ آسمان میں

(38)

سب خوبیاں اللہ کو جس نے مجھے بھلاپے میں اسخیل و اسحق دیئے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے (39)

اے میرے رب! مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ، اور کچھ میری اولاد کو، اے ہمارے رب! اور میری دعا سن لے! (40)

اے ہمارے رب! مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو، اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہو گا (41)

اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے انہیں ڈھیل نہیں دے رہا ہے مگر ایسے دن کے لیے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی (42)

بے تماشاً دوڑتے گھس گے اپنے سر

تَعْبُدَ الْاَكْثَمَامَ

وَتَبَّ اَتُّهُنَّ اَضْلٰنَ كَثِيْرًا قَوْمَ النَّاسِ لَمَنْ يَتَّبِعْ فِرَاكَهُ مَتَىٰ وَ مَن عَصَانِي فِرَاكُكَ عَقُوْرًا

كَحٰدِيْمًا

رَبِّا اِنِّي اَسْكَدْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَالِدٍ غَيْرِ ذِي رِزْقٍ عِنْدَ رَبِّكَ الْمَحْزُوْرًا سَبَّحْتَ الْيَوْمِ الْوَالصَّلٰوةَ فَاَجْعَلْ اٰمِنًا مِّنَ النَّاسِ تَهْوٰى اَتِّيهِمْ وَاَزِدْهُمْ مِّنَ الشُّمُوْرِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ

رَبِّا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا تُخْفِي وَاَنْتَ عَلٰنٌ وَّمَا يَخْفٰى عَلٰى اَدْعِيْعِن شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمٰوٰتِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِيْ عَلٰى الْكِبَرِ الْاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِنْ رَّبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعٰوٰءِ

سَبِّحْ اَجْعَلْنِيْ مُقِيْمًا الصَّلٰوةَ وَ مِّنْ ذُرِّيَّتِيْ تُرَبِّا وَ تَقْبَلْ دُعٰوٰءِ

رَبِّنَا اَعِزَّنِيْ وَوَالِدِيْ وَوَالِدِيْ وَاَنْتَ مَعْنِيْ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

وَلَا تَحْسَبَنَّ اِلٰهًا عَاوِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُوْنَ اِنَّنَا اَبُوْ خَيْرٍ مِّنْ يَّرُوْنَ نَشْتَصْنَفُ فِيْهِ الْاٰبِصٰرَ

مُهْطِعُوْنَ مُقْتَبِعِيْ رُوْسِهِمْ لَا

heads high, that their eyelashes do not turn back towards them, and there will be no strength in their hearts. They shall stare but see nothing.

44. And warn mankind of the Day when the punishment shall come to them, then the cruel shall say, "O our Rubb (Sustainer) grant us respite for a short term that we may respond to Your call and follow Your Rasools (Messengers)." Did you not swear before that you will not go anywhere moving from the world?

45. And You settled down in the dwelling of those who committed wrongs to themselves. It was clear to you how We (Allah) did with them and We (Allah) explained to you giving example.

46. And certainly they devised their plots and their devices are known to Allah. Their devices are not such as to remove the mountains.

47. Therefore, never consider that Allah will go against His promise to His Rasools (Messengers). Surely, Allah is Dominant, the Rubb (Sustainer) of retribution.

48. The Day when the earth shall be changed into a different earth, and the heavens too (renewed) and all (mankind) shall come out standing before Allah, the One Who is the overall Dominant.

49. And you will see the criminals on that day bound together in chains.

50. Their garments shall be of pitch and the fire flames

اٹھائے ہوئے، کہ ان کی پلک ان کی طرف لوتی نہیں، اور ان کے دلوں میں کچھ سکت نہ ہوگی (43)

اور لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ! جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے، اے ہمارے رب! تمھوڑی دیر ہمیں سملت دے کہ ہم تیرا بلانا مانیں، اور رسولوں کی غلامی کریں، تو کیا تم پہلے قسم نہ کھا چکے تھے کہ ہمیں دنیا سے کہیں ہٹ کر جانا نہیں (44)

اور تم ان بیکے گھروں میں بے جنون نے اپنا برا کیا تھا، اور تم پر خوب کھل گیا ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اور ہم نے تمہیں مثالیں دے دے کر بتا دیا (45)

اور چٹک وہ اپنا سا داؤں (فریب) چلے اور ان کا داؤں اللہ کے قابو میں ہے، اور ان کا داؤں (داؤں) کچھ ایسا نہ تھا جس سے یہ پہاڑ ٹل جائیں (46)

تو ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلاف کرے گا، چٹک اللہ غالب ہے، بدلا لینے والا (47)

جس دن بدل دی جائے گی زمین، اس زمین کے سوا اور آسمان اور لوگ سب نکل کھڑے ہوں گے ایک اللہ کے سامنے جو سب پر غالب ہے (48)

اور اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے کہ بیڑوں میں ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے (49)

ان کے کرتے رال (منہ کی رطوبت) کے

يَوْمَ تَكُذَّبُ إِلَيْهِمْ طُرُقُهُمْ وَأُفَّادُهُمْ هَوَاهُوَ ۝

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّا نَحْنُ الرَّاغِبُونَ إِلَىٰ آبِلٍ نَّهْنَبُ دَعْوَتِكَ وَنَتَّبِعُ الرَّسُولَ لَأُولَمَّا نَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ ذُرِّ السَّمَاءِ ۝

وَأَسْكَنْتُمْ فِي بُسُكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْآمَثَالَ ۝

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۝

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ خَائِفًا فِى وُجُوهِ رَسُولِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۝

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالتَّسْمُوتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝

وَتَرَى الْمَجْرُمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْتَدِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝

سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطَرٍ أَوْ تَغْشَىٰ

shall cover their faces.

51. Allah will reward every self according to its deeds. Surely, Allah does not delay reckoning.

52. This is a clear message to the mankind that they are warned by it. And that they may know that He is One Allah to be worshipped and that the men of wisdom may accept admonition.

PART 14

S. XV

SURA HIJR

(THE ROCK)

(Revealed at Makkah)

(6 Section, Verses 99)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. Alif - Laam - Raam (A.L.R.), these are the Verses of the Book and of the Qur'aan (the magnificent Reading) which makes things clear.

2. The disbelievers would (on the Last Day) wish that had they been believers (Muslims).

3. Leave them to eat and make merry and let such hope amuse them. They will soon know.

4. And We (Allah) never destroyed a town but it had a known term.

5. No people can hasten their promised doom nor they can postpone it back.

6. And they say, "O you upon whom this remembrance (Qur'aan) has been revealed, you are certainly an insane."

ہوں گے اور ان کے چہرے آگ ڈھانپ لے گی (50)

اس لیے کہ اللہ جان کو اس کی کمائی کا بدلا دے، پشگ اللہ کو حساب کرتے کچھ دیر نہیں لگتی (51)

یہ لوگوں کو حکم پہنچانا ہے، اور اس لیے کہ وہ اس سے ڈرائے جائیں، اور اس لیے کہ وہ جان لیں کہ وہ ایک ہی معبود ہے، اور اس لیے کہ عقل والے نصیحت مانیں (52)

سورہ حجر کی ہے (اس میں) نالوسے (99) آیات اور چھ (6) رکوع (ہیں) اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا

یہ آیتیں ہیں کتاب اور روشن قرآن کی (1)

بت آرزوئیں کریں گے کافر، کاش! مسلمان ہوتے (2)

انہیں چھوڑو کہ کھائیں اور برتیں اور امید انہیں کھیل میں ڈالے، تو اب جانا چاہتے ہیں (3)

اور جو ہستی ہم نے ہلاک کی اس کا ایک جانا ہوا نوشتہ تھا (4)

کوئی گروہ اپنے وعدہ سے آگے نہ بڑھے نہ پیچھے بنے (5)

اور بولے! کہ اے وہ، جن پر قرآن اترا ہے شک تم مجنون ہو (6)

وَجْهَهُمُ النَّارُ ۝
لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ
وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ
وَلِيَذُكُرُوا آلَاءَ الْاَلْبَابِ ۝

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

الزَّيْنَبُ ۝
وَقَدْ آتَيْنَا آيَاتِ الْكِتَابِ
وَقَدْ آتَيْنَا قُبُورَهُمْ ۝

رَبِّمَا يُؤَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا
مُسْلِمِينَ ۝

ذَرَهُمْ يَا كُفَرًا وَيَتَعَرَّوْا لِيَلْبِسَهُمُ
الْأَهْلَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا
كِتَابٌ مُعَلَّمٌ ۝

مَا تَسْبِيحُ مِنْ أَهْلِهَا وَفَمَا
يَسْتَأْخِرُونَ ۝

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ
الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۝

7. "Why don't you bring Angels to us, if you are the truthful.

8. We (Allah)* do not send down the Angels without any purpose and if they come down, they (disbelievers) would not get respite.

9. Surely, We (Allah) have revealed this remembrance (Qur'aan) and We (Allah) are surely its Guardian.

10. And indeed We (Allah) sent Rasools (Messengers) before you amongst earlier nations.

11. And every Rasool (Messenger of Allah), who came to them, they mocked at him.

12. So We (Allah)* leave a way for this mockery in the hearts of the criminals.

13. They do not believe in it and already the example of the earlier people is its precedent.

14. And even if we open a gateway for them in the heaven, that they may ascend through it all the while;

15. even then they would say, "our eyes have been dazzled, rather we are the people who have been bewitched."

SECTION 2

16. And certainly We (Allah) have indeed made cluster of stars (constellations) in the heavens and We (Allah) have decorated it for the beholders;

17. And We (Allah) have guarded it (heaven) from every cursed satan (devil);

18. except him who goes to hear stealthily, then he is pursued by a clear flame.

ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے؟ اگر تم بچو (7)

ہم فرشتے بے کار نہیں اتارتے، اور وہ اتریں، تو انہیں ملت نہ لے (8)

بیک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن، اور بیک ہم خود اس کے حکیمان ہیں (9)

اور بیک ہم نے تم سے پہلے اگلی امتوں میں رسول بھیجے (10)

اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر اس سے ہنسی کرتے ہیں (11)

ایسے ہی ہم اس نہیں کو ان مجرموں کے دلوں میں راہ دیتے ہیں (12)

وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور انگوں کی راہ پڑ چکی ہے (13)

اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں کہ دن کو اس میں چڑھتے (14)

جب بھی یہی کہتے کہ ہماری نگاہ باندھ دی گئی ہے بلکہ ہم پر جادو ہوا (15)

اور بیک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کیلئے آراستہ کیا (16)

اور اسے ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا (17)

مگر جو چوری چھپے سننے جائے، تو اس کے پیچھے پڑنا ہے روشن شعلہ (18)

لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝
مَا نُنزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالسَّحَابِ وَقَمَا كَانُوا إِذْ أُنزِلُوا ۝

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُونَ ۝
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي رَشِيحِ الْأَوَّلِيْنَ ۝

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝
كَذٰلِكَ نَسْلُكُ فِي قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ لَأَيُّومُنَّوْنَ بِهِمْ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِيْنَ ۝

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ۝
لَقَالُوا إِنَّمَا سُكُوْتُ الْأَنْصَابِ لُبِئَ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ۝

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا وَوَزَّيْنَاهَا لِلنَّظَرِيْنَ ۝
وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ۝
إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ ۝

19. And We (Allah)* have spread out the earth and put therein firm mounts and caused to grow therein every thing proportionately.

20. And We (Allah)* have provided for you therein means of livelihood and also to those for whom you are not the supplier.

21. And there is not a thing but for which there are treasures with Us (Allah) and We (Allah) do not send it down but with a known measure.

22. And We (Allah) send winds with fertilization, then We* (Allah) send down water from the sky, then We (Allah) give it to you to drink, and you are not its store keeper.

23. And certainly We (Allah) give life and (Allah) cause death and We (Allah) are the inheritor.

24. And We (Allah) surely know those who went ahead amongst you and We (Allah) know those who shall come later.

25. And surely your Rubb (Sustainer) will gather them together. Surely He is the Wise, the Knowing.

SECTION 3

26. And surely We (Allah) have created man from dried ringing clay which was (in reality) black smelling mud.

27. And We (Allah) had made previous to that Jinns from smokeless fire.

28. And when your Rubb (Sustainer) said to the Angels, "I am about to create human being moulded from the ringing dried clay which is of (the black) smelling mud!"

اور ہم نے زمین پھیلائی اور اس میں لنگر ڈالے اور اس میں ہر چیز اندازے سے اگلی (19)

اور تمہارے لیے اس میں روزیاں کر دیں اور وہ کر دیے جنہیں تم رزق نہیں دیتے (20)

اور کوئی چیز نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں اور ہم اسے نہیں اتارے مگر ایک معلوم اندازے سے (21)

اور ہم نے ہوائیں بھیجیں بادلوں کو باور کرنا لیاں تو ہم نے آسمان سے پانی اتارا پھر وہ تمہیں پینے کو دیا اور تم کچھ اس کے خزانچی نہیں (22)

اور جینک ہم ہی جلائیں (زندہ کریں) اور ہم ہی ماریں اور ہم ہی وارث ہیں (23) اور جینک ہمیں معلوم ہیں جو تم میں آگے بڑھے اور جینک ہمیں معلوم ہیں جو تم میں پیچھے رہے (24)

اور جینک تمہارا رب ہی انہیں قیامت میں اکٹھا کرے جینک وہی علم و حکمت والا ہے (25)

اور جینک ہم نے آدمی کو بھتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارا مٹی (26)

اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے (27)

اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا: کہ میں آدمی کو بنانے والا ہوں بھتی مٹی سے جو بدبودار سیاہ گارے سے ہے (28)

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنُ فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ أَلَعِندُنَا خِزْيَةٌ وَمَا نَزَّلْنَا إِلَّا بِالْقَدْرِ الْمَعْلُومِ ﴿٢١﴾

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ مَا نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا كُنُوزًا وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿٢٢﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِيهِمْ وَنُمِيتُهُمْ فَخُنُّ الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٤﴾ وَإِن رِبِّكَ هُوَ يُحِيطُ بِمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٥﴾ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ﴿٢٥﴾

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٦﴾ وَالْجِبَّاءَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ نَارِ التَّهْوِيمِ ﴿٢٧﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٨﴾

29. "Then when I form him and breath into him My special esteemed Spirit, then fall down before him prostrate."

30. So all the Angels fell down prostrate, all together;

31. Except Iblis (satan). He refused to be amongst the prostrating ones.

32. He (Allah) asked, "O Iblis, what happened to you that you did remain aloof from the prostrating ones."

33. He (Iblis) replied, "it is not befitting me that I should prostrate before a mortal whom you have moulded from the ringing dried clay which was of (the black) smelling mud."

34. He (Allah) Ordered, "Get out from here (Paradise) for, you are the out caste;"

35. "And surely there is My curse upon you till the Day of Judgement."

36. He (devil) replied, "O my Rubb (Sustainer) give me liberty till the Day when they (human beings) are raised again."

37. He (Allah) said, "you are among those who are given time;"

38. "till the known Day".

39. He (devil) said, "O my Rubb (Sustainer), I swear that You adjudged me astray. I will deceive them (human beings) in the earth, and certainly I will mislead all of them."

40. "except those of them who are your selected devotees."

41. He (Allah) said, "this is the path which leads straight to Me."

تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف کی خاص معزز روح پھونک دوں، تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا

(29)

تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے (30)

سوا ابلیس کے، اس نے سجدہ والوں کا ساتھ نہ مانا (31)

فرمایا: اے ابلیس! تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا (32)

بولا! مجھے زیبا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بھتی مٹی سے بنایا، جو سیاہ بودار گارے سے تھی (33)

فرمایا: تو جنت سے نکل جا، کہ تو مردود ہے (34)

اور بیگ قیامت تک تجھ پر لعنت ہے (35)

بولا! اے میرے رب! تو مجھے ملت دے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں (36)

فرمایا: تو ان میں ہے جن کو اس معلوم وقت (37)

کے دن تک ملت ہے (38)

بولا! اے رب میرے! قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں انہیں زمین میں بھلا دے دوں گا اور ضرور میں ان سب کو بے راہ کروں گا (39)

مگر جو ان میں تیرے پنے ہوئے بندے ہیں (40)

فرمایا: یہ راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے (41)

فَإِذَا سُوِّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٣١﴾

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا ابْلِيسَ ابْنِي أَنْ يَسْجُدَ مَعَهُ

السَّاجِدِينَ ﴿٣٢﴾

قَالَ يَا ابْلِيسُ مَا لَكَ الْأَنْتَ كُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٣﴾

قَالَ لَمْ أَكُنْ لِلسَّجْدِ لِشَيْءٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَبَاءٍ مَسْنُونٍ ﴿٣٤﴾

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٦﴾

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٧﴾

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٨﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٩﴾

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخُو تَيْبٍ لَا أَزِينُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُخَوِّتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤١﴾

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤٢﴾

42. "Surely over My devotees you will have no control, except those misguided ones who follow you."

43. And surely, hell is the promised place for them all;

44. It has seven entrances. From each entrance there is an allotted portion for them to enter.

SECTION 4

45. Surely the pious will be in the Paradises and enjoy the fountains.

46. Enter therein with peace, and with security.

47. And We (Allah) shall take out whatever bitterness may be in their breasts. They will be brothers among themselves seated upon couches facing each other.

48. Neither any fatigue shall touch them, nor shall they be ejected therefrom.

49. "Inform My devotees that surely, I am the Forgiving, the Merciful;"

50. "And that My punishment is the painful punishment."

51. "And tell them about Ibraaheem's guests."

52. When they came to him they said, "Peace." He (Ibraaheem) replied, "we feel afraid of you."

53. They said, "do not fear, we give you good news of a son possessing knowledge."

54. He said, "do you give me good news despite of the fact that old age has touched me, for what then you give me the good news?"

55. They said, "we have given you the good news with truth; be not of those who are the disappointed."

ہے تک میرے بندوں پر تمہارا کچھ قابو نہیں، سوا ان گمراہوں کے جو تمہارا ساتھ

دیں (42)

اور بیگ جنم ان سب کا وعدہ ہے (43)

اس کے سات دروازے ہیں، ہر دروازے کیلئے ان میں سے ایک حصہ بنا ہوا ہے

(44)

بیگ ڈر والے باغوں اور چشموں میں ہیں

(45)

ان میں داخل ہو سلاستی کے ساتھ امان

میں (46)

اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کہتے تھے سب کھینچ لے، آپس میں بھائی ہیں، تختوں پر رو بہ رو بیٹھے (47)

نہ انہیں اس میں کچھ تکلیف پہنچے، نہ وہ اس میں سے نکالے جائیں (48)

خبر دو میرے بندوں، کو کہ بیگ میں ہی ہوں بیٹھے والا مہمان (49)

اور میرا ہی عذاب درد ناک عذاب ہے

(50)

اور انہیں احوال سناؤ ابراہیم کے مہمانوں

کا (51)

جب وہ اس کے پاس آئے، تو بولے! سلام!، کہا، ہمیں تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے

(52)

انہوں نے کہا، ڈریئے نہیں، ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں

(53)

کہا، کیا اس پر مجھے بشارت دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا، اب کا ہے پر بشارت

دیتے ہو (54)

کہا، ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے

آپ نا امید نہ ہوں (55)

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ
إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ۝۴۲
وَلَنْ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدٌ لَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ ۝۴۳
لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ
فَرِيقٌ مِّنْهُمْ جٰزٍ مِّنْهُمُ ۝۴۴

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّٰتٍ وَعِيْنٍ ۝۴۵
أَدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ وَأَمِيْنٍ ۝۴۶
وَنُزِّلْنَا مٰلًا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غَلِيْظٍ
أَعْرَاقًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ ۝۴۷
لَا يَمْسُهُمْ فِيْهَا حَرٌّ وَلَا ظَمَآءٌ
مِّنْهَا وَمُخْرَجِيْنَ ۝۴۸
نَبِيٌّ عِبَادِيْٓ اٰتٰى اَنَا الْعَقُوْرُ
الْوَحِيْمُ ۝۴۹
وَ اِنَّ عَذٰبِيْ هُوَ الْعَذٰبُ الْاَلِيْمُ ۝۵۰
وَنَبِيْنَهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ ۝۵۱

اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا اَسْلَمْنَا قَالَ
اِنَّ اَمْنَكُمْ وِجِلُوْنَ ۝۵۲

قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نَبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ
عَلِيْمٍ ۝۵۳
قَالَ اَبَشِّرْهُنِيْ عَلٰى اَنْ مَّسَرٰى
الْكِبَرِ فَوَيْحٌ مِّنْ رَبِّيْ رُوْنٌ ۝۵۴
قَالُوْا اَبَشِّرْ نٰنِكَ يَا نَحِيْ فَلَا تَكُنْ مِّنَ
الْقٰرِطِيْنَ ۝۵۵

56. He said, "who is disappointed of the Mercy of his Rabb (Sustainer) except those who have gone on the wrong way."

57. He said, "what now is your business, O Angels."

58. They said, "we have been sent towards a guilty nation."

59. "Except the family of Luut, We shall save them all."

60. But his wife, We (Allah) had decreed that she will be among those who stay behind.

SECTION 5

61. Then when the Angels came to the household of Luut;

62. he said, "surely, you are a strange people."

63. They said, "we have come to you with that (penalty) in which they were doubting".

64. "And we have come to you with the true command and we are surely truthful".

65. "Therefore, go out with your family whilst a portion of night is left and you yourself follow them, and let no one of you look back and go straight to which direction you are commanded".

66. And We (Allah) made known to him the direction of this Commandment that the root of these disbelievers shall be cut off till the morning.

67. And the residents of the city came rejoicing.

68. Luut said, "these are my guests, therefore, do not put me to shame."

69. "And fear Allah and do not defame me."

70. They said, "had we not forbidden you, against the

کہا اپنے رب کی رحمت سے کون نامید ہو، مگر وہی جو گمراہ ہوئے (56)

کہا، پھر تمہارا کیا کام ہے اے فرشتو! (57)

بولے! ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں (58)

مگر لوط کے گھروالے ان سب کو ہم بچا لیں گے (59)

مگر اس کی عورت ہم ٹھہرا چکے ہیں کہ وہ بچیجے رہ جائے اللوں میں ہے (60)

تو جب لوط کے گھر فرشتے آئے (61)

کہا، تم تو کچھ بیگانہ لوگ ہو (62)

کہا، بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے (63)

اور ہم آپ کے پاس سچا حکم لائے ہیں اور ہم بیک سچ ہیں (64)

تو اپنے گھروالوں کو کچھ رات رہنے لے کر باہر جائے، اور آپ ان کے پیچھے چلے اور تم میں کوئی پیچھے پھر کر نہ دیکھے، اور جہاں کو حکم ہے سیدھے چلے جائے (65)

اور ہم نے اسے اس حکم کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ان کافروں کی جڑ کاٹ جائے گی (66)

اور شہروالے خوشیاں مناتے آئے (67)

لوط نے کہا، یہ میرے مسان ہیں، مجھے نصیحت (رسوا) نہ کرو (68)

اور اللہ سے ڈرو! اور مجھے رسوا نہ کرو (69)

بولے! کیا ہم نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہ

قَالَ وَمَنْ يَقْضُ مِنْكُمْ رَحْمَةَ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾
قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾
إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَنَجِّيهِمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾

إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٦٠﴾

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾
قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّتَكَبِّرُونَ ﴿٦٢﴾

قَالُوا بَلْ كُنتُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٦٣﴾
وَأْتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٦٤﴾

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أذْيَابَهُمْ وَلَا يُلَاقِكَ مِنْكُم أَحَدٌ وَأْمُوا حَيْثُ نُورُوا ﴿٦٥﴾

وَوَضَّيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَانَ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٍ مُّضْطَبِّحِينَ ﴿٦٦﴾

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبَشِرُونَ ﴿٦٧﴾

قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ صَٰئِفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٦٨﴾

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنِ ﴿٦٩﴾

قَالُوا وَلَمْ نَنْهَيْكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٧٠﴾

(entertainment) of all sorts of people".

71. He said, "these are my daughters if you are to do some (evil) act."

72. (O beloved Muhammad) by your life, surely they were wandering about in their intoxication.

73. Then a roaring cry overtook them at sunrise;

74. Then We (Allah) made the upper side of that city down and rained over them stones of backed clay.

75. Surely, in that are signs for persons of sagacity.

76. And surely, that city lies on the path that still exists on a straight highway.

77. Surely, in that are signs for the believers.

78. And the people of the wood were surely cruels;

79. So We (Allah) took vengeance from them; and surely both these (cities) lie on an open road.

SECTION 6

80. And surely, the people of Hijr belied the Rasools (Messengers);

81. And We (Allah) gave them Our (Allah's) Verses, but they turned away their faces from them.

82. And they used to hew out houses in the mountains to be secure.

83. Then the sever cry overtook them in the morning;

84. therefore, their earning could not save them.

85. And We (Allah) did not create the heavens and earth and whatever is between them without any purpose. And surely, the last hour is to come. Therefore, keep away (from them) graciously.

اوروں کے معاملہ میں دطل نہ ہو (70)
'کما' یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں
اگر تمہیں کرنا ہے (71)

اے محبوب! تمہاری جان کی قسم! ایک وہ
اپنے نشہ میں بھگ رہے ہیں (72)

تو دن نکلے انہیں چگھاڑنے آیا (73)

تو ہم نے اس ہستی کا اوپر کا حصہ اس کے
چمپے کا حصہ کر دیا، اور ان پر نگر کے حجر
برساتے (74)

چنگ اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں
کے لیے (75)

اور چنگ وہ ہستی اس راہ پر ہے جو اب
تک چلتی ہے (76)

چنگ اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کو
(77)

اور چنگ بجاڑی والے ضرور ظالم تھے
(78)

تو ہم نے ان سے بدلا لیا، اور چنگ یہ
دونوں بستیاں کٹے راستہ پر پڑتی ہیں (79)

اور چنگ حجر (حجر) والوں نے رسولوں کو
بھٹلایا (80)

اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ
ان سے منہ پھیرے رہے (81)

اور وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے بے
خوف (82)

تو انہیں صبح ہوتے چگھاڑنے آیا (83)

تو ان کی کمالی کچھ ان کے کام نہ آئی
(84)

اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان
کے درمیان ہے، بحث نہ بنایا، اور چنگ
قیامت آنوال ہے، تو تم اچھی طرح
درگزر کرو (85)

قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ
فَاعِلِينَ ۝

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ
يَعْمَهُونَ ۝

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۝

فَجَعَلْنَا آلَ الْيَمَانِ سَاقِطًا وَآمَطْنَا
عَلَيْهِمْ حِمْلًا مِّنْ يَسِيمٍ ۝

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَن تَمَتَّنَ ۝

وَإِنَّهَا لَإِلْسِينَ مَّقِيمٌ ۝

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

وَلَئِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ۝

فَأَنْتَسْنَا مِنْهُمْ وَإِنهَمَا لِبِأْسَامٍ
مُّؤْتَمِرِينَ ۝

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ
الْمُرْسَلِينَ ۝

وَاتَّخَذُوا الْبِئْسَ الْأَعْنَافُ الْمُعْرِضِينَ ۝

وَكَانُوا يُصْعِقُونَ مِنَ الْجِبَالِ الَّتِي
أُوتِينَ ۝

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ۝

فَمَا أَعْنَىٰ عَنْهُمْ فَاكَانُوا كَيْسُومًا ۝

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا إِلَّا لَأَحْسِنَ فَالْآنَ السَّاعَةَ لَآيَةً ۝

فَأَصْفَقَ الصَّغْفَةَ الْجَبِيلَ ۝

86. Surely, your Rubb (Sustainer) is alone the biggest Creator, the Knowing.

87. And surely, We (Allah) gave you the seven most repetitive Verses (Surah Fatiha — the opening) and the Great Qur'aan.

88. (O beloved Muhammad) do not stretch your eyes that We (Allah) have given to some classes to enjoy for a short time and do not grieve over them (poverty of Muslims) and take the believers in your wings of mercy.

89. And please declare, "I am indeed the manifest warner," (against the evil deeds).

90. As We (Allah) had sent punishment on those who divided in groups;

91. who pronounced the Qur'aan as pieces of lies.

92. By your Rubb (Sustainer), We (Allah) shall certainly question them all;

93. concerning what they did.

[ONE FOURTH OF PART 14 ENDS]

94. So announce to them openly what you have been commanded; and turn away your faces from those who associate partners with Allah.

95. Surely, We (Allah) suffice you against those mockers;

96. Who associate another deity as partner with Allah; but they will soon know.

97. And We (Allah) do indeed know that your heart straitens at what they say;

98. Then praising your Rubb (Sustainer), proclaim His Glory, and be amongst those who prostrate;

بے شک تمہارا رب ہی بہت بڑا کرتا ہے
جاننے والا ہے (86)

اور بیگ ہم نے تم کو سات آیتیں دیں
جو دہرائی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن
(87)

اپنی آنکھ اٹھا کر اس چیز کو نہ دیکھو، جو ہم
نے ان کے کچھ جوڑوں کو برتنے کو دی
اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ، اور مسلمانوں کو
اپنے رحمت کے پردوں میں لے لو (88)

اور فرماؤ! کہ میں ہی ہوں صاف ڈر سنانے
والا (اس عذاب سے) (89)

جیسا ہم نے بنائے والوں پر اتارا (90)
جنہوں نے کلام الہی کو ٹکے بونی کر لیا (91)

تو تمہارے رب کی قسم! ہم ضرور ان
سب سے پوچھیں گے (92)

جو کچھ وہ کرتے تھے (93)

تو علانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے
اور مشرکوں سے منہ پھیر لو (94)

بیگ ان بننے والوں پر ہم تمہیں کفایت
کرتے ہیں (95)

جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں
تو اب جان جائیں گے (96)

اور بیگ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں
سے تم دل تنگ ہوتے ہو (97)

تو اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی
بولو! اور سجدہ والوں میں ہو (98)

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾
وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي
وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ
أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ
انْحَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨٩﴾

كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٠﴾
الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ أَنْعُمًا مِّنْ
قَوْلِكَ لِنَسْتَلْزِمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩١﴾
عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٢﴾

فَاذْهَبْ بِمَا تَوْمَرُوا وَعَرِّضْ عَنِ
الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَسْزِعِينَ ﴿٩٥﴾

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾

وَلَقَدْ نَعَلْنَاكَ إِضْطِيقَ صَدْرِكَ
بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ
السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾

99. and keep worshipping your Rubb (Sustainer) till the death comes to you.

S. XVI

SURA NAHAL (THE BEE)

(Revealed in Makkah)

(6 Sections, 128 Verses)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. Allah's Command is coming. Therefore donot ask to hasten it. He is Glorified and is Exalted above all that they associate with Him.

2. He sends down the Angels with the spirit of faith by Command that is the revelation on whomsoever of His devotees He Wills. Therefore, warn that none be worshipped except Me. Only take Me as your protector.

3. He created the heavens and the earth with the truth. He is far exalted above from those whom they associate with Him as partners.

4. He has created human beings from a fluid sperm drop, but he (human being) is an open disputant.

5. And He has created cattle. In them, there are warm costumes and profits for you and some of them you eat.

6. And there is beauty in them for you, when you bring them back in the evening and when you take them for grazing.

7. And they carry your loads to a destination which you cannot reach except with great hardship to you. Surely your Rubb (Sustainer) is most Kind, Most Merciful;

اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو (99)

سورہ نحل کی ہے (اس میں) ایک سو اٹھائیس (128) آیتیں اور سولہ (16) رکوع (7)

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا

اب آتا ہے اللہ کا حکم تو اس کی جلدی نہ کرو، پائی اور برتری ہے اسے ان شریکوں سے (1)

ملانکہ کو ایمان کی جان یعنی وحی لیکر اپنے جن بندوں پر چاہے آتا ہے کہ ڈرنا اور کسیرے سوا کسی کی بندگی نہیں، تو مجھ سے ڈرو (2)

اس نے آسمان اور زمین بجا بنائے، وہ ان کے شرک سے برتر ہے (3)

(اس نے) آدمی کو ایک تھری بوند سے بنایا، تو جیسی کھلا بھڑالو ہے (4)

اور چھپائے پیدا کیے ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور متنفس ہیں، اور ان میں سے کھاتے ہو (5)

اور تمہارا ان میں جمل (دقار) ہے جب انہیں شام کو واپس لاتے ہو، اور جب چرنے کو چھوڑتے ہو (6)

اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسے شکر کی طرف کہ تم اس تک نہ پہنچتے مگر ادھ مرے ہو کر، بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے (7)

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحٰنَهُ

يُسَبِّحُ اللّٰهَ الرَّحْمٰنَ الرَّحِيْمَ ﴿١٠٠﴾

اِنَّ اِصْرًا لّٰهُ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحٰنَهُ

وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١٠١﴾

يُنزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ

اَمْرِهِ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ

اَنْ اُنزِلُوْا اِنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنَا

فَلَتَقُوْنَ ﴿١٠٢﴾

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ

تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١٠٣﴾

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفٰتِهٖ فَاِذَا

هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٠٤﴾

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّ

مَنْٰفِعٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿١٠٥﴾

وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تَرْجِعُوْنَ

وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ﴿١٠٦﴾

وَتَحْمِلُ اَنْفَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّكُمْ لَوْ كُنْتُمْ

بِلِيْبِيْهِۗۗ اِلَّا لَشِقِيَ الْاَنْفُسُ اِنْ رَاْتُمْ

لُرُوْءَ رُجُوْمٍ ﴿١٠٧﴾

8. and (He created) horses and mules and donkeys that you may ride upon them for adornment and He created what you do not know.

9. And upon Allah rests the showing of the path which is His right path. And there are some ways which deviate. Had He Willed, He would have guided you, all together.

SECTION 2

10. It is He Who sent down water from the sky in which, there is drink from it for you, and from which trees grow wherein you pasture cattle.

11. With this water He causes to grow for you crops and olives and dates and grapes and all fruits (of every kind). Surely, in it there is sign for a people who ponder.

12. And He has made the night and the day and the sun and the moon to serve you. The stars are also subservient by His Command. Surely, in it there are signs for the wise people who make use of their reason;

13. and that which He has created for you are of various kinds in the land. Surely in it there is a sign for a nation who understand.

14. And it is He Who has made the sea to serve you, that you eat fresh flesh from it and bring forth from it ornaments which you wear. And you see ships sailing through it, and that you seek His Bounty that you may be grateful to Him.

15. And He has set up firm mountains in the earth, lest it may make away with you,

اور گھوڑے اور شجر اور گدھے کے ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں (8)

اور سچ کی راہ تمہیک اللہ تک ہے اور کوئی راہ ٹیڑھی ہے اور چاہتا تو تم سب کو راہ پر لاتا (9)

وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا اس سے تمہارا پینا ہے اور اس سے درخت ہیں جن سے چراتے ہو (10)

اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انجور اور ہر قسم کے پھل بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو (11)

اور اس نے تمہارے لیے مسخر کیے رات اور دن اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم کے باندھے ہیں بے شک اس (آیت) میں نشانیاں ہیں عقلمندوں کو (12)

اور وہ جو تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا رنگ برنگ بے شک اس میں نشانی ہے یاد کرنے والوں کو (13)

اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا مسخر کیا کہ اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور اس میں سے گنا کھاتے ہو جسے پینتے ہو اور تو اس میں کشتیاں دیکھے کہ پانی چر کر چلتی ہیں اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور کیس احسان مانو! (14)

اور اس نے زمین میں نظر ڈالے کہ کیس

وَالْحَيْلِ وَالْبَعَالِ وَالْحِمْيَرِ لِيُرَكَّبَهُنَّ
وَزِينَهُ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۸﴾

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَهِيَ
بِجَارٍ بَرُّوْا لَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۹﴾

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ
فِيهِ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ
تَسْمِيْنٌ ﴿۱۰﴾

يُثْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ
وَالْحَيْلِ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ
الشَّمْرَاتِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۱﴾

وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ وَالنَّجْمُومَ مَسخَرَاتٍ بِأَمْرِهِ
إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۲﴾

وَمَا ذَرَأْتُمْ فِي الْأَرْضِ عُثْقَاتًا
اَلْوَانُءُ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
يَتَذَكَّرُونَ ﴿۱۳﴾

وَ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَيْنَا لَكُمْ لَآيَةً
لَكُمْ طَرِبًا وَتَسَخَّرَ جُؤَامُهُ حَلِيَةً
تَلْبَسُوْنَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرًا
فِيْهِ وَلِيَبْتَلُوْا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۴﴾

وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ

and kept rivers and routes that you may get right direction;

16. and from signs and stars they locate their right guidance to go.

17. Is He Who creates can become like him who cannot create? Will you then not take heed?

18. And if you count the Blessings of Allah, you would not be able to count them. Surely, Allah is Forgiving, Merciful.

19. And Allah knows that what you conceal and what you reveal (make public).

20. And those whom they worship besides Allah create nothing but they are themselves created.

21. They are dead, not alive, and they donot know when they will be raised to life again.

SECTION 3

22. Your Allah is the One, worth worship. Then those who donot believe in the hereafter, their hearts deny, and they are boastful.

23. In fact Allah Knows what they conceal and what they reveal. Surely, He does not like the boastfuls.

24. And when they asked, "what your Rubb (Sustainer) has revealed" they say, "just only the tales of the ancients".

25. They will bear their loads in full on the Day of Resurrection and also some load of those whom they misled by their ignorance. Hear! what an evil load they will bear!

SECTION 4

26 Surely, those before them had plotted Allah

ہمیں لے کر نہ کاٹے' اور ندیاں اور رستے کہ تم راہ پاؤ (15)

اور علامتیں اور ستارے سے وہ راہ پاتے ہیں (16)

تو کیا جو بنائے وہ ایسا ہو جائے گا' جو نہ بنائے تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے (17)

اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو' تو انہیں شمار نہ کر سکو گے' بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے (18)

اور اللہ جانتا ہے جو چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو (19)

اور اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہیں' وہ کچھ بھی نہیں بناتے' اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں (20)

موسے ہیں زندہ نہیں' اور انہیں خبر نہیں لوگ کب اٹھائے جائیں گے (21)

تمہارا معبود ایک معبود ہے' تو وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے' ان کے دل مگر ہیں اور وہ مغرور ہیں (22)

فی الحقیقت! اللہ جانتا ہے جو چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں' بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا (23)

اور جب ان سے کہا جائے تمہارے رب نے کیا تمہارا' کہیں انگوں کی کہانیاں ہیں (24)

کہ قیامت کے دن اپنے بوجھ پورے اٹھائیں' اور کچھ بوجھ ان کے جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کرتے ہیں' سن لو! کیا ہی بڑا بوجھ اٹھاتے ہیں (25)

بیشک ان سے انگوں نے فریب یا تھا' تو

تَبَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ وَالنُّبُوءَ وَأَوْسَبَلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾

وَعَلَّمْتُمُ الْآيَاتِ وَالنُّبُوءَ وَمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

وَأَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾

وَإِنْ تَعَدَّ وَعْدَ الْعَمَلِ اللَّهُ لَا تَصْوَغُوا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨﴾

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْكُرُونَ وَمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾

أَمْ هَاتُوا عِبَادًا خَيْرًا وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢١﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٢﴾

لَا جبرَمَ إِنَّ اللَّهَ لَعَلَّمُ مَا يَسْكُرُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُ لَا يَجِبُ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾

وَإِذْ أُتِيَ لَهُمْ نَادَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ

يَضَلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِلَّا سَاءَ مَا يَزِيدُونَ ﴿٢٥﴾

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَى

smashed their edifice from the foundation. Then the roof fell down on them from above, and the punishment came to them for which they were not aware.

27. Then on the Day of Resurrection, He will disgrace them and will say, "where are those whom you made associate equal to Me regarding whom you used to dispute." The men of knowledge will say, "today all disgrace and vice is surely upon the disbelievers;

28. whose lives were taken out by the Angels while they were doing evil against themselves. Now they will offer submission that we were not doing any evil. Yes why not, surely, Allah knows well what they used to do.

29. Enter the gates of hell to reside in it for ever. Then what an evil residence is it for the boastfuls.

30. And it was said to those who fear, "what is that your Rubb (Sustainer) has revealed?" They will say, "the best." For those who do good in this world, for them is virtue. And surely, the home of hereafter is the best. And excellent is the abode of those who are pious;

31. as they shall enter the Paradises of eternity, under which streams will be running. They will get therein what they wish. Allah thus rewards the pious ones;

32. Those whose lives are taken out by the Angels being pure saying, "peace be upon you," enter the Paradise for that your deeds deserve.

اللہ نے ان کی پتائی کو نیو (نیوا) سے لیا تو اوپر سے ان پر چھت گر پڑی اور عذاب ان پر وہاں سے آیا جہاں کی انہیں خبر نہ تھی (26)

پھر قیامت کے دن انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا 'کہاں ہیں میرے وہ شرک جن میں تم جھگرتے تھے؟ علم والے کیسے گے آج ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے (27)

وہ کہ فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں اس حال پر کہ وہ اپنا برا کر رہے تھے اب صلح ڈالیں گے کہ ہم تو کچھ بُرائی نہ کرتے تھے ہاں! کیوں نہیں؟ بیشک اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے کو تک (بد عمل) تھے (28)

اب جہنم کے دروازوں میں جاؤ کہ بیشک اس میں رہو، تو کیا ہی بُرا ٹھکانا مغزوروں کا (29)

اور ڈر والوں سے کہا گیا تمہارے رب نے کیا تمہارا بولے! خرابی جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور بیشک پچھلا گھر سب سے بہتر اور ضرور کیا ہی اچھا گھر بہتر گاروں کا (30)

بسنے کے باغ جن میں جائیں گے ان کے نیچے نہریں رواں، انہیں وہاں لے گا جو جائیں، اللہ ایسا ہی صلہ دتا ہے پرہیز گاروں کو (31)

وہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے تمہارے پن میں یہ کہتے ہوئے کہ سلامتی ہو تم پر جنت میں جاؤ بدلہ اپنے کئے کا (32)

اللَّهُ بِنِيَانِهِمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشَاقِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي الْأَنْفُسِ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ وَكُنَّا تَعْلَمُونَ ۝ مِنْ سُوءِ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

فَادْخُلُوا الْأَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَلْقَيْتُمْ سُوءِي الْمُتَكَبِّرِينَ ۝

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَآلُ الْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ وَرَثَةُ الْمُتَّقِينَ ۝ جَدَّتْ عَدْنٌ يَدُ خَلُونَهَا تَجْرِي مِنْ حَتْمَاتِ الْأَنْهَارِ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۝

الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

33. Are they waiting, that the Angels should come to them or for the fulfilment of the punishment of your Rubb (Sustainer). Thus did those before them. And Allah was not cruel to them. Of course they committed cruelties on their own selves.

34. Then their own evil earnings befell upon them and that evil rounded them on which they used to mock at.

SECTION 5

35. And the muushriks (pagan/idolator associators) said, "had Allah Willed, neither we nor our forefathers, would not have worshipped anything except Him. Neither we would have served anything except Him, nor we would have forbidden anything without His Sanction." Thus did those before them; then what is the obligation of the Rasools (Messengers of Allah) except to deliver clear message.

36. Indeed for every nation We (Allah) sent a Rasool (Messenger) saying, "worship Allah, and shun the satan (devil)". Then some of them were guided by Allah and some of them definitely went astray. Therefore, travel in the world and see, what was the end of those who disbelieved.

37. If you are eager for their guidance, then surely, Allah does not guide those who go on the wrong way and they have no helpers.

38. And they solemnly swear by Allah with utmost endeavor that Allah will not raise the dead. His is the true

کا ہے کے انتظار میں ہیں مگر اس کے کہ فرشتے ان پر آئیں، یا تمہارے رب کا عذاب آئے، ان سے انگوں نے بھی ایسا ہی کیا، اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا، ہاں! وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے (33)

تو ان کی بری کمائیاں ان پر پڑیں اور انہیں گمیر لیا اس نے جس پر جنتے تھے (34)

اور مشرک بولے! اللہ چاہتا تو اس کے سوا کچھ نہ پوچتے، نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ اس سے جدا ہو کر ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے، ایسا ہی ان سے انگوں نے کیا، تو رسولوں پر کیا ہے مگر صاف پہنچا رہتا (35)

اور بے شک ہر امت میں سے ہم نے ایک رسول بھیجا کہ اللہ کو پوجو اور شیطان سے بچو، تو ان میں کسی کو اللہ نے راہ دکھائی، اور کسی پر گمراہی ٹھیک اتری، تو زمین میں چل بچر کر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا؟ (36)

اگر تم ان کی ہدایت کی حرص کرو، تو بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کرے اور ان کا کوئی مددگار نہیں (37)

اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں حد کی کوشش سے، کہ اللہ مردے نہ اٹھائے گا، ہاں! کیوں نہیں؟ سچا

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٣﴾
فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَإِنِّي حَقٌّ بِعَيْنِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٤﴾

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا الصَّوْمِتُ مِنْ دُونِهِ وَنَشَى كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٣٥﴾

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الصَّاتَاتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَمِنْهُمْ مَنِ اتَّبَعَ الْأَرْضَ فَانظُرْ أَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

إِنْ تَحْرَصْ عَلَى هُدَىٰ لَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَلَا يَهْدِي مَنْ يَصِّرِينَ ﴿٣٧﴾

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِمْ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

Promise but most people do not know;

39. in order that He may show them plainly that in which they used to differ and in order that the disbelievers should know that they were the liars.

40. Our (Allah's) Word to a thing, when We (Allah) Will it, is only that We (Allah) say to it, "BE" and it comes into being.

SECTION 6

41. And those who emigrate from their homes in the way of Allah being oppressed, We (Allah) shall surely give them best homes in this world. And surely, the reward of the hereafter is much greater, had the people known it;

42. They remain steadfast and rely only on their Rubb (Sustainer).

43. And We (Allah) did not send before you (O beloved Muhammad) any (as Messenger) but men to whom We (Allah) revealed. Ask the men of knowledge (Christians and Jews) do not you know it?

44. With clear signs and scriptures (they were sent). And (O' beloved) We (Allah) have sent down to you the Remembrance (the Qur'aan) that you may explain to people what was sent down to them and this is so that perhaps they may ponder.

[HALF OF PART 14

ENDS]

45. Then, those who devise evil plans do not fear that Allah: may sink them in the earth, or the punishment may come to them from a direction they do not know?

وعدہ اس کے ذمہ پر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے (38)

اس لیے کہ انہیں صاف بتا دے جس بات میں جھگرتے تھے، اور اس لیے کہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے (39)

جو چیز ہم چاہیں اس سے ہمارا فرمانا یہی ہوتا ہے کہ ہم کہیں، ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے (40)

اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے مظلوم ہو کر، ضرور ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، اور بیچک آخرت کا، ثواب بہت بڑا ہے، کسی طرح لوگ جانتے (41)

وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں (42)

اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد، جن کی طرف ہم وحی کرتے، تو اے لوگو! علم والوں سے پوچھو! اگر تمہیں علم نہیں (43)

روشن دلیلیں اور کتابیں لے کر، اور اے محبوب! ہم نے تمہاری طرف یہ یادگار اتاری کہ تم لوگوں سے بیان کرو! جو ان کی طرف اترا، اور کہیں وہ دھیان کریں (44)

تو کیا جو لوگ برے ٹکر کرتے ہیں اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا انہیں وہاں سے عذاب آئے جہاں سے انہیں خبر نہ ہو (45)

يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾
لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلِفُونَ
فِيهِ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ
كَانُوا كَذِبِينَ ﴿٣٩﴾
إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ
يَكُونَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ بَعْدِ
مَا ظَلَمُوا لَنَنبُوَّهُمْ فِي الدُّنْيَا
حَسَنَةً ۖ وَلَاجْرَ الْآخِرَةِ الْكَبِيرَةِ
كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

وَالَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا
رِجَالًا نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ
الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ فَسَلِّ عَلَىٰ أَهْلِ
الدِّكْرِ ۚ إِنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

بِأَيِّ نَبِيٍّ وَالَّذِينَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ
الذِّكْرَ لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ بِهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ
يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَبُيِّنَهُمْ
الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾

46. Or that He may seize them while going to and fro, because they cannot frustrate Him.

47. Or that He may not catch them by a process of slow decay. Surely, your Rubb (Sustainer) is most Kind, most Merciful.

48. And donot they observe that what Allah has created? Their shadows incline to the right and to the left prostrating to Allah and they are thus made to be humble before Allah?

49. And to Allah prostrate all that is in the heavens and all the creature in the earth and the Angels and they do not boast.

50. They fear their Rubb (Sustainer) above them and act upon what they are Commanded.

[SAJDA — whoso reads this verse or listens it, should bow down in Prostration]

SECTION 7

51. And Allah says never take two (gods) to be worshipped. "I am the only One Allah to be worshipped alone and therefore, fear Me alone."

52. Whatever is in the heavens and the earth belongs only to Him and only to Him is the compulsory obedience for ever. Will you then fear any other than Allah?

53. And whatever blessing you have is all from Allah; then when any harm touches you, you cry Him for help.

54. When He removes the trouble from you, then a group of you begins to associate others as equals with their Rubb (Sustainer);

یا انہیں چلے پھرتے پکڑ لے، کہ وہ تمکا نہیں سکتے (46)

یا انہیں نقصان دیتے دیتے گرفتار کر لے کہ چیک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے (47)

اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ جو چیز اللہ نے بنائی ہے اسکی پرچھائیاں واسنے اور بائیں جھکتی ہیں اللہ کو سجدہ کرتی، اور وہ اس کے حضور ذلیل ہے (48)

اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں چلنے والا ہے، اور فرشتے اور وہ غرور نہیں کرتے (49)

اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم ہو (50)

أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلُبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٦﴾

أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّبٍ فَإِنَّ رَبَّهُمْ لَوَدَّؤْفُ رَحِيمٌ ﴿٤٧﴾

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يُفْتَوٍ أَظْلَمَ لِعَيْنِ الْعَالَمِينَ وَالشَّمَاكِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ ذُخْرُونَ ﴿٤٨﴾

وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يُسْتَكْبَرُونَ ﴿٤٩﴾

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ يُطِئُونَ وَيُقَعِّدُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾

اور اللہ نے فرمایا، دو خدا نہ ٹھہراؤ! وہ تو ایک ہی معبود ہے، تو مجھی سے ڈرو (51)

اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کی فرمانبرداری لازم ہے تو کیا اللہ کے سوا کسی دوسرے سے ڈرو گے؟ (52)

اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، تو اسی کی طرف پناہ لے جاتے ہو (53)

پھر جب وہ تم سے برائی ٹال رہا ہے، تو تم میں ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے (54)

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا آلَ إِبْرَاهِيمَ أَئْتِنِينَ إِنَّمَا هُمْ وَاوَالَهُ إِحْدَانٌ قَلِيلًا يُقَادِرُونَ ﴿٥١﴾

وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾

وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرْفُ لَأِيْتِيَنَّكُمْ تَجْعَلُونَ ﴿٥٣﴾

ثُمَّ إِذَا نَسَفَ الضَّرْفُ عَنْكُمْ إِذَا فَرِقُوا بَيْنَكُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُرُّونَ ﴿٥٤﴾

55. That they may be ungrateful to what blessings We (Allah) have bestowed to them. Then have pleasure (in this life), but soon you will come to know.

56. And they set apart a portion out of what We (Allah) have provided them to the unknown things (deities). By Allah, "you are surely to be questioned about your false inventions."

57. And they assign daughters to Allah, Holy be He, and for them is what they desire.

58. And when the glad news of (the birth of) a daughter is conveyed to any of them, then face of such one darkens, and he remains fixed.

59. Such one hides himself from the people, because of the bad news conveyed to him. Shall he retain her in disgrace or bury her in dust? Behold how bad such ones judge?

60. The condition of those who do not believe in the hereafter is adverse one and the glory of Allah is the sublime. And He is the Mighty, the Wise.

SECTION 8

61. And if Allah would have seized people for their cruelties, then He would have left no creature (on earth). But He defers them till fixed term, then when their term will come, they cannot remain behind a single moment, nor can they go ahead of it (for a moment).

62. And they assign to Allah what they themselves hate, and their tongues describe the falsehood that

کہ ہماری دی نعمتوں کی ناشکری کریں، تو کچھ برت لو، کہ عنقریب جان جاوے گے (55)

اور انجانی چیزوں کیلئے ہماری دی ہوئی روزی میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں، خدا کی قسم! تم سے ضرور سوال ہوتا ہے جو کچھ جھوٹ باندھتے تھے (56)

اور اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، یاکی ہے اس کو، اور اپنے لیے جو اپنا بی چاہتا ہے (57)

اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے، اور وہ غصہ کھاتا ہے (58)

لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اس بشارت کی برائی کے سبب، کیا اسے ذلت کیساتھ رکھے گا، یا اسی مٹی میں دبا دے گا؟ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں (59)

جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، انہیں کا برا حال ہے، اور اللہ کی شان سب سے بلند، اور وہی عزت و حکمت والا ہے (60)

اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر گرفت کرتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہیں چھوڑتا لیکن انہیں ایک ٹھہرائے وعدے تک ملت دیتا ہے، پھر جب ان کا وعدہ آئے گا، نہ ایک گھڑی پیچھے نہیں، نہ آگے بڑھیں (61)

اور اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ناگوار ہے، اور ان کی زبانیں جھوٹوں

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا بِسُوءِ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ حُبِّبَاتٍ مِّمَّا زَوَّجْنَاهُمْ تَأْتِيهِمْ لَنْسَلْنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَقْتَرُونَ ﴿٥٦﴾

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحٰنَٰ وَلَهُنَّ مَا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾

وَإِذَا بَشَّرْنَا أَحَدَهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾

يَتَوَلَّىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلْأَسَاءُ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السُّوءِ ۗ وَذٰلِكَ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكُوا عَلَيْهِمْ مِنْ ذَاتِهِ ۗ وَلٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً ۚ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٦١﴾

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَيُوصِفُ السُّيُوءَ بِالْكَذِبِ ۗ إِنَّ لَهُمُ الْخُسْفٰنَ

theirs will be the best reward. They surely, for them is the fire, as they are to be abdoned persons (in the hell).

63. By Allah, We (Allah) have sent Rasools (Messengers) to many Uummahs (grand communities), before you. But the satan (devil) made their works beautiful in their eyes, so he is their friend today. And for them is painful punishment.

64. And We (Allah) have not revealed this Book to you except that you may make clear to them that about which they differ. It is a guidance and mercy for the believers.

65. And Allah sends down water from the sky with which He revives life to earth after its death. Surely, there is a sign in it for those who hear.

SECTION 9

66. And surely, there is a lesson for you in the cattle. We (Allah) give you to drink of what is in their bellies from between the dung and blood, pure milk, so pleasant to swallow for the drinkers.

67. And of the fruits of date-palms and the grapes, you make therefrom juices and good provisions. Surely, in it, there is a sign for a nation with wisdom.

68. And your Rubb (Sustainer) inspires the bee that makes houses in the hills and in the trees and in graves made by men.

69. Then they (bees) get feed from every kind of fruit, and walk the ways of Your Rubb (Sustainer) made easy.

کتنی ہیں کہ ان کیلئے بھلائی ہے تو آپ ہی ہوا کہ ان کے لیے آگ ہے اور وہ حد سے گزارے ہوئے ہیں (62)

خدا کی قسم! ہم نے تم سے پہلے کتنی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے کوٹھک (بد عمل) ان کی آنکھوں میں بھلے کر دکھائے تو آج وہی ان کا رشتہ ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے (63)

اور ہم نے تم پر یہ کتاب نہ اتاری مگر اس لیے کہ تم لوگوں پر روشن کر دو جس بات میں اختلاف کریں اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے (64)

اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس سے زمین کو زندہ کر دیا اس کے مرے ہو چکے بے شک اس میں نشانی ہے ان کو جو کان رکھتے ہیں (65)

اور جیکے تمہارے لیے چوپایوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ، گلے سے سل اترا پینے والوں کے لئے (66)

اور کھجور اور انگوڑ کے پھلوں میں سے کہ اس سے نیکہ (شراب) بناتے ہو اور اچھا رزق بے شک اس میں نشانی ہے عقل والوں کو (67)

اور تمہارے رب نے شد کی کہسی کو الہام کیا کہ پھاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں (68)

پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چلے کہ تیرے لیے نرم

لِأَجْرِهِمْ إِنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ﴿۶۲﴾

تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ يُوَفِّيهِمُ الْيَوْمَ وَأَنَّهُمْ عَذَابُ الْعِيسَىٰ ﴿۶۳﴾

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۶۴﴾

وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَلُحْحِيًا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَّبِعُونَ ﴿۶۵﴾
وَلَئِن لَّكُم فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ لِّتُؤْمِنُوا بِهَا إِنَّمَا يَصُورُنَّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَدُونِهَا لِيَبْذُلْنَ الْغُلَّابَ ﴿۶۶﴾
لِيُنزِلَ عَلَيْهَا مِنْ سَحَابٍ مُّطَهَّرٍ لِيَشْرَبْنَ ﴿۶۷﴾

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأعنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۶۸﴾
وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّعْلِ أَنِ الْغَنَظِيُّ مِنَ الْجِبَالِ بَيْتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿۶۹﴾

تَكُونُ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْتَكْبِرُ سَبْلَ رَبِّكَ ذَلَّ الْأَعْمَىٰ وَمِنْ بَطْنِهَا

There comes out from their (bees) bellies a fluid of varied colors (honey) in which there is healing for the people. Surely in it there is a sign for those who ponder.

70. Allah has created you, then He will cause you to die, and some of you are turned towards the worst part of their prolonged life (old age) that they know nothing after having knowledge. Allah is All Knowing, Powerful.

SECTION 10

71. And Allah has made some of you to excell, one over the other, in worldly possessions. But those who excell in such possessions do not divert their provisions to

those whom their right hands possess (servants), so that all should remain equal in it. Do they then deny the Blessings of Allah?

72. And Allah has given for you wives from among your selves and created for you from your women, sons, and grandsons and provided you with clean things. Do they then believe in falsehood and deny the favour of Allah?;

73. and they worship besides Allah such which have no power to give any provision from the heavens and the earth, nor can they do anything.

74. Then set no similarities for Allah. Surely, Allah knows but you do not know.

75. Allah explains an example: there is a slave who is possessed by someone having himself no power, and there is one whom We (Allah) have provided from Ourselves (Allah) with good provision.

و آسان ہیں، اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے، جس میں لوگوں کی تندرستی ہے، بیشک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو (69)

اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری جان قبض کرے گا، اور تم میں کوئی سب سے ناقص عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے، کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، بیشک اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے

(70)

اور اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر رزق میں بڑائی دی تو جنہیں بڑائی دی ہے وہ اپنا رزق اپنے باندی غلاموں کو نہ پھیر دیں گے، کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا اللہ کی نعمت سے کمرتے ہیں

(71)

اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائیں، اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے نواسے پیدا کیے، اور تمہیں ستمی چیزوں سے روزی دی تو کیا جھوٹی بات پر یقین لاتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے منکر ہوتے ہیں (72)

اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں جو انہیں آسمان اور زمین سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، نہ کچھ کر سکتے ہیں (73)

تو اللہ کے لیے مانند (اس جیسا) نہ ٹھہراؤ، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے (74)

اللہ نے ایک کماوت بیان فرمائی، ایک بندہ ہے دوسرے کی ملک، آپ کچھ مقدر

شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَوَفِّقُكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُؤَدِّي إِلَىٰ أَذَىٰ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِهِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِيهِمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعَمَلِهِمُ اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٧١﴾

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَحِبُّوا إِلَيْهَا وَتُحِبُّوا إِلَيْهَا وَإِنْ كُنْتُمْ كَارِهِينَ وَحَفْظَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَضِيْعُونَ ﴿٧٣﴾ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْ

Then he/she spends out of it secretly and openly. Whether both will be equal? All praise belongs to Allah. But most of them do not know.

76. And Allah explains (another) example: there are two persons, one is dumb who is a helpless person and is a burden on his master. Wherever he deposes that person he with empty hands. Well can he be equal to him who enjoins justice and he is himself on the straight path.

SECTION 11

77. And for Allah are the unseen of the heavens and earth. And the matter of the hour (Last Day) is not but within twinkling of the eye, even nearer than that. Surely, Allah can do everything.

78. And Allah has created you from the wombs of your mothers while you knew nothing. And gave you ears and eyes and hearts so that you may be thankful.

79. Have they not seen the birds held under subjugation in the atmosphere of the heaven. None upkeeps them save Allah? Surely, in it there is sign for the people who believe.

80. And Allah has provided you houses for habitation, and the skins of cattle for habitation which you find light on the day of travel and on the day you halt at a place, and from their wool, fur and hair he has given you some household goods and the things of use for a time (are

نہیں رکھا، اور ایک وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے ابھی روزی عطا فرمائی، تو وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے چپے اور ظاہر کیا وہ برابر ہو جائیں گے؟ سب خوبیاں اللہ کو ہیں، بلکہ ان میں اکثر کو خبر نہیں

(75)

اور اللہ نے کمات بیان فرمائی دو مرد، ایک گونا گو کچھ کام نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، جدھر بھیجے کچھ بھلائی نہ لائے، کیا برابر ہو جائے گا یہ اور وہ جو انصاف کا حکم کرتا ہے، اور وہ سیدھی راہ پر ہے (76)

اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں، اور قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے ایک پلک کا مارنا، بلکہ اس سے بھی قریب، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے (77)

اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا، کہ کچھ نہ جانتے تھے اور تمہیں کان اور آنکھ اور دل دیئے، کہ تم احسان مانو (78)

کیا انہوں نے پرندے نہ دیکھے حکم کے بانہے آسمان کی فضا میں، انہیں کوئی نہیں روکتا، سوا اللہ کے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کو (79)

اور اللہ نے تمہیں گھر دیئے بسنے کو اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے کچھ گھرنائے، جو تمہیں ہلکے پڑتے ہیں تمہارے سفر کے دن، اور منزلوں پر تمہارے دن، اور ان کی اون اور یہی اور بالوں سے کچھ گرتی (گھریلو ضرورت) کا سامان، اور برتنے کی چیزیں

رَزُقًا حَسَنًا فَهُوَ يَفْقَهُ مِنْهُ سِرًّا
وَجَهْرًا ۗ أَهْلُ يَسْتَوُونَ الْحَمْدَ لِلَّهِ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۷۵﴾

وَصَوَّبَ اللَّهُ مَثَلًا لِجَلِيلَيْنِ أَحَدُهُمَا
أَبْكُم لَأَقْبَدَ رَعْلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى
مَوْلَاهُ أَيَّمَا يُؤِجِبُهُ لآيَاتِ

يَخْبِرُ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ
بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ﴿۷۶﴾

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ
أَقْرَبُ إِنَّ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۷۷﴾

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ
لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿۷۸﴾

الْمَ يَرَوْنَ إِلَى الظَّرِ مَسْحَرَاتٍ فِي
جَوِّ السَّمَاءِ مَا يَتَّبِعُنَّ إِلَّا اللَّهُ ۗ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۷۹﴾

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا
وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ جَلْدِ الْأَنْعَامِ
بُيُوتًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا لَكُمْ مِنَ
يَوْمِ أَنْ مَاتَكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِكُمْ
أَوْبَارِهَا وَأَشْعَارُهَا أَثْنَا وَمَتَاعًا

made).

81. And Allah gave you shades out of what He has created and made for you shelters in the mountains, and made for you some garments to protect you from heat and coats to protect you in war. Thus does He perfect His Blessings on you, that you may submit to His Command.

82. Then if they turn away their faces then (O beloved), there is nothing upon you except to deliver the message clearly.

83. They recognize the favor of Allah, then they deny it and most of them are disbelievers.

SECTION 12

84. And the day when We (Allah) shall raise a witness from every Ummah (grand community), then the disbelievers will neither be permitted nor shall they be allowed to receive any favor.

85. And when the cruels will actually face the punishment, it shall not be lightened from them nor will they get relief.

86. And when the muushrikeen who associated partners (with Allah) will say, "O our Rubb (Sustainer)! these are our associate gods whom we used to worship, except You. Then they will throw back at them the words, "surely, you are liars."

[THREE FOURTH OF PART 14 ENDS]

87. And they will submissively surrender to Allah on that day and what they used to forge will fail them.

ایک وقت تک (80)

اور اللہ نے تمہیں اپنی بتائی ہوئی چیزوں سے سائے دیئے اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بتائی اور تمہارے لیے کچھ پٹاوسے بنائے کہ تمہیں گرمی سے بچائیں اور کچھ پٹاوسے کہ لڑائی میں تمہاری حفاظت کریں، یونہی اپنی نعمت تم پر پوری کرتا ہے کہ تم فرمان مانو (81)

پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اسے محبوب! تم پر نہیں مگر صاف پہنچا دیتا (82)

اللہ کی نعمت پہچانتے ہیں پھر اس سے منکر ہوتے ہیں اور ان میں اکثر کافر ہیں (83)

اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، پھر کافروں کو نہ اجازت ہو نہ وہ منائے جائیں (84)

اور ظلم کرنے والے جب عذاب دیکھیں گے اسی وقت سے نہ وہ ان پر سے ہلکا ہو نہ انہیں صلت ملے (85)

اور شرک کرنے والے جب اپنے شرکیوں کو دیکھیں گے، کہیں گے، اے ہمارے رب یہ ہیں ہمارے شرک کہ ہم تیرے سوا پوجتے تھے تو وہ ان پر بات پھینکیں گے کہ تم بے شک جھوٹے ہو (86)

اور اس دن اللہ کی طرف عاجزی سے کریں گے اور ان سے گم ہو جائیں گی جو بناوٹیں کرتے تھے (87)

إِلَىٰ حِينٍ ۝۷۰

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْبَأْسَ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝۷۰

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَمَا عَيْنُكَ الْبَلْعُ الشَّيْبِ ۝۷۰ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْفَرُوا بِالْكَفْرُونَ ۝۷۰

وَلِيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤَدُّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاُولَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۝۷۰

وَإِذَا مَا أَلَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۝۷۰

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاءُ وَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ۝۷۰

وَالْقَوْلَ إِلَى اللَّهِ يُؤْمِنُونَ وَالسَّلَامَ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝۷۰

88. Those who disbelieve and debar from the path of Allah We (Allah) shall increase Our (Allah's) punishment upon punishment to them, as the retribution of their mischief.

89. And the day when We (Allah) shall raise up witness from every nation from amongst themselves to give evidence against their people. And (O beloved) We (Allah) shall bring you as a witness against all your people. And We (Allah) have revealed Qur'aan upon you in which everything is clearly explained and which is a guidance and mercy and good news for those who are Muslims.

SECTION 13

90. Surely, Allah enjoins justice and kindness and giving to the kinsmen and He forbids from luteness and disgusting things and rebellion. He admonishes you that you may take heed.

91. And fulfil the promise of Allah that when you undergo some undertaking, and break not the oaths after making them fast, and you have already made Allah a surety upon you. Surely, Allah knows your deeds.

92. And be not like that woman who broke her yarn into pieces, after it becomes strong. You make your oaths as deceitful excuses amongst yourselves so that one community may not be more strong than another community. Allah tries you thereby. And certainly, He will make clear to you on the Day of Resurrection wherein you differed.

جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ہم نے عذاب پر عذاب بڑھایا، بلا ان
لساد کا (88)

اور جس دن ہم ہر گروہ میں ایک گواہ اسی میں سے اٹھائیں گے کہ ان پر گواہی دے، اور اے محبوب! تمہیں ان سب پر شاہد بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت مسلمانوں کو (89)

بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیک اور رشتہ داروں کے دینے کا اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے، تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم
دھیان کرو (90)

اور اللہ کا عہد پورا کرو! جب قول پابند ہو اور قسمیں مضبوط کر کے نہ توڑو! اور تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن کر چکے ہو، بیشک اللہ تمہارے کام جانتا ہے (91)

اور اس عورت کی طرح نہ ہو جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا، اپنی قسمیں آپس میں ایک بے اصل بانہ بناتے ہو، کہ کہیں ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ نہ ہو، اللہ تو اس سے تمہیں آزماتا ہے، اور ضرور تم پر صاف ظاہر کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں جھگڑتے تھے (92)

الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ زُجْرًا لَكُمْ عَذَابًا فَالِقَ الْعَذَابِ
بِمَا كَانُوا يَفْسِدُونَ ﴿٨٨﴾

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ
مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا أَعْلَى
كُلِّ شَيْءٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا
لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى
لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ اللَّهَ إِذَا عَاهَدَ تَمُّوهُ
وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ فَيْلًا إِنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَدْلُهَا
مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَارًا تَتَخَذُونَ
أَيْمَانَكُمْ وَخَلَّيْنَا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ
مِنْ دُونِ أُخْرَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبُغِيكُمْ اللَّهُ
بِهِ وَيُبَيِّنُ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا
كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾

93. And if Allah had Willed, He would have made you a single Ummah (grand Community) but Allah leaves on the wrong way whom He Wills and guides whom he Wills. And surely you will be questioned about your deeds.

94. And do not make your oaths as deceitful excuses amongst yourselves lest any step may slip after its being made firm and you will have to taste evil for you used to hinder people from the path of Allah and you will face a great punishment.

95. And take not any price for the promise of Allah. Surely, that which is with Allah is better for you, if you know.

96. What is with you will come to an end and what is with Allah is to remain for ever. And certainly We (Allah) shall give to those who are steadfast that reward according to their best deeds.

97. Who so does the righteous deed, male or female, and be believer (Muslim), then certainly We (Allah) shall make him (her) live a happy life and certainly We (Allah) shall give them their reward befitting to the best of their deeds.

98. When you recite the Qur'aan, seek refuge of Allah from the satan (devil), the rejected one.

99. Surely, he (satan) has power over the believers and have trust in their Rubb (Sustainer).

100. He only has power over those who befriend him and those who set associates as equal to Him (Allah).

SECTION 14

اور اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت کرنا لیکن اللہ مگرہ کرتا ہے جسے چاہے اور راہ دیتا ہے جسے چاہے اور ضرور تم سے تمہارے کام پوچھے جائیں گے (93)

اور اپنی قسمیں آپس میں بے اصل بنانہ نہ بنا لو، کہ کہیں کوئی پاؤں بٹھنے کے بعد لغزش نہ کرے اور تمہیں برائی چکھنی ہو، بدلا اس کا کہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور تمہیں بڑا عذاب ہو (94)

اور اللہ کے عہد پر تمہوڑے دام مول نہ لو! بیشک وہ جو اللہ کے پاس ہے تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو (95)

جو تمہارے پاس ہے، ہو چکے گا اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے اور ضرور ہم مہر کرنے والوں کو ان کا وہ صلہ دیں گے، جو ان کے سب سے اچھے کام کے قابل ہو (96)

جو اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان، تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی دلائیں گے، اور ضرور انہیں ان کا نیک اجر دیں گے، جو ان کے سب سے بہتر کام کے لائق ہو (97)

تو جب تم قرآن پڑھو، تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے (98)

بے شک اس کا کوئی قابو ان پر نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں (99)

اس کا قابو تو انہیں پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور اسے شریک ٹھہراتے ہیں (100)

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَلَكِنْ يَفْضَلُ مَنْ يُشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ
يُشَاءُ وَتَلْتَمِذُونَ عَمَّا أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۳﴾

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ
فَتَزَلُّوا قَدْ رُبُّعَدْتُمُوهَا وَتَذُوقُوا
الشَّوْبَ بِمَا صَدَقْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۹۴﴾

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿۹۵﴾

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ
وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَدَقُوا أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۶﴾

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۷﴾

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ ﴿۹۸﴾

إِنَّكَ لَبِيسٌ لَّدَٰهُ فَاسْطِنْ عَلَى الَّذِينَ
أٰمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۹۹﴾

إِن تَابَا سَلَطْنَا عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ
عَلَىٰ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿۱۰۰﴾

101. And when We (Allah) change one verse for another verse — Allah best knows what He reveals. They (disbelievers) say, "you forge it of your own." But most of them have no knowledge.

102. Please declare, "the Holy Spirit has brought it down from your Rubb (Sustainer) with truth, that He may make firm the believers and as a guidance and good news to the Muslims".

103. And certainly, We (Allah) know that they say, "only a mortal man teaches him. His language, towards whom they hint at, is foreign but this is eloquent Arabic language, plain and clear.

104. Surely, those who do not believe in the Verses of Allah, Allah does not guide them and for them is a painful punishment.

105. It is only those who do not believe in the Verses of Allah. They forge falsehood and they are the liars.

106. Whoso disbelieves in Allah after believing in Him, except him who is compelled and his heart is firm in belief, but those who become disbelievers with open heart, upon them is the wrath of Allah and for them is the painful punishment.

107. It is because they have preferred the life of the present world than the life of the hereafter, and because Allah does not guide (such) disbelievers.

108. These are they upon whose hearts and ears and eyes Allah has set a seal and they are in sheer ignorance.

اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو اتارنا ہے، کافر کسے، تم تو دل سے بنا لاتے ہو، بلکہ ان میں اکثر کو علم نہیں

(101)

تم فرماؤ! اسے پاکیزگی کی روح نے اتارا تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک کہ اس سے ایمان والوں کو ثابت قدم کرے اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں

کو (102)

اور بیگ ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، یہ تو کوئی آدمی سکھاتا ہے جس کی طرف ڈھالتے ہیں، اس کی زبان عجمی ہے، اور یہ روشن عربی زبان (103)

بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں راہ نہیں دیتا اور ان کیلئے دردناک عذاب ہے (104)

جموٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی جموٹے ہیں (105)

جو ایمان لا کر اللہ کا منکر ہو، سوا اس کے جو مجبور کیا جائے، اور اس کا دل ایمان پر جما ہوا ہو، ہاں! وہ جو دل کھول کر کافر ہو، ان پر اللہ کا غضب ہے اور انکو بڑا عذاب ہے (106)

یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی آخرت سے پیاری جانی، اور اس لیے کہ اللہ (ایسے) کافروں کو راہ نہیں دیتا (107)

یہ ہیں وہ جن کے دل اور کان اور آنکھوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، اور وہی غفلت میں پڑے ہیں (108)

وَأَذَانًا لَّنَا آيَةً مَّا كُنَّا آيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُرْسِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَوٍ بِلِأَرْهَامَ لَا يُعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّلسَّانِ الَّذِي يُحْيِي وَوَدَّ الْيَهُودُ أَتَّخِذِي وَهَذَا لِسَانَ عَبْدِي مُبِينًا ﴿١٠٣﴾
إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يُدْعِيهِمْ اللَّهُ وَرَبَّهُمْ عَذَابَ الْعَذَابِ ﴿١٠٤﴾
إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ الْكُذِّبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكُذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدَّهَا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَإِنَّهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٧﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَتْهُمْ لَمْ يَأْبُرْهُمْ وَوَجَّهْنَا لِيُسْئِرُوا فِي أَعْيُنِنَا وَاللَّهُ لَإِنَّهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٨﴾

109. Surely, in the hereafter it is they who are the losers.

110. Then surely, your Rubb (Sustainer) is enough for them who migrated from their homes, after being tortured, then they struggled and remained patient. Surely, your Rubb (Sustainer), thereafter is the most Forgiving, the Merciful.

SECTION 15

111. The Day when everyone will come pleading for itself; and everyone shall be paid in full for what it did and none shall be dealt with cruelty.

112. And Allah explains by an example of a town which was safe and peaceful. Its provisions came in abundance from all sides, but its people became unthankful to the Blessings of Allah. Then Allah made it to taste this punishment that it was caused to be afflicted with famine and fear, as the retribution of what were their deeds?

113. And certainly a Rasool (Messenger of Allah) came to them from amongst themselves but they belied him. So the punishment seized them as they were cruel.

114. Then eat out of the lawful and clean provisions of Allah and be thankful of the Blessings of Allah, if you worship Him.

115. He has made unlawful to you only the dead, the blood, the flesh of swine, and that upon which the name of other than Allah has been pronounced at the time of slaughter, except such one who is compelled by necessity

آپ ہی ہوا کہ آخرت میں وہی خراب ہیں (109)

پھر بے شک تمہارا رب ان کیلئے جنوں نے اپنے گھر چھوڑے، بعد اس کے کہ ستائے گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صابر رہے، بیشک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا ہے مہربان (110)

جس دن ہر جان اپنی ہی طرف جھرتی آئے گی، اور ہر جان کو اس کا کیا پورا بھر دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ ہو گا (111)

اور اللہ نے کماوت بیان فرمائی ایک ہستی کی کہ امان و اطمینان سے تھی، ہر طرف سے اس کی روزی کثرت سے آتی، تو وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگی، تو اللہ نے اسے یہ سزا چھائی کہ اسے بھوک اور ڈر کا پستوا پہنایا، بدلا ان کے کیئے کا (112)

اور بیشک ان کے پاس انہیں میں سے ایک رسول تشریف لایا، تو انہوں نے اسے جھٹلایا، تو انہیں عذاب نے پکڑا، اور وہ بے انصاف تھے (113)

تو اللہ کی دی ہوئی روزی حلال پاکیزہ کماؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو، اگر تم اسے پوسنتے ہو (114)

تم پر تو یہی حرام کیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جس کے ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا، پھر جو لاچار

لَا جِزْمَ لَهُمْ فِي الْأُخْرَةِ هُمْ
الْخَسِرُونَ ﴿۱۰۹﴾

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنَّا
بَعْدَ مَا قَاتَلْنَاكُمْ جَاهِدُوا وَاوْ
صَبُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا
لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۱۰﴾

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِجِادِلٍ عَنِ
نَفْسِهَا وَتُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۱۱﴾

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ
أَمْنًا مَّطْمَئِنَّةً لِّأَنْبِيَآئِنَا رُزِقَتْ مِن
كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ
فَأَذَيْنَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ
بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۱۱۲﴾

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ
فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَ
هُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۱۳﴾

فَكُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
وَاشْكُرُوا لِعِنْمَتِ اللَّهِ إِنَّ كُفْرَ
بِآيَاتِهِ لَشَدِيدٌ ﴿۱۱۴﴾

(may eat), neither disobediently nor exceeding the limit will surely find Allah as Forgiving, Merciful (for such ones).

116. And do not speak the falsehood which your tongues utter, as to this is lawful and this is unlawful. Thus you invent lie against Allah. Surely, those who concoct lie against Allah, they will not succeed.

117. Brief is their enjoyment and for them is a painful punishment awaiting them.

118. And We (Allah) made specially unlawful to the Jews those things which We (Allah) have already related to you, and We (Allah) are not cruel to them but they are cruel to their own selves.

119. Then surely, your Rubb (Sustainer), to those who commit evil ignorantly, then repent thereafter, and get corrected, surely, your Rubb (Sustainer) thereafter is Forgiving, Merciful.

SECTION 16

120. Surely, Ibraaheem (Abraham) was a torch bearer model of piety, obedient to Allah and all devoted and not at all among the muushriks (idolators/pagans who set equals to Allah);

121. (He was) thankful to His Blessings. We (Allah) selected him and showed him the straight path.

122. And We (Allah) Bestowed him good in this world. And surely, in the hereafter he is among the righteous.

123. Then We (Allah) revealed to you that follow the creed of Ibraaheem

ہو نہ خواہش کرنا اور نہ حد سے بڑھنا تو بیک اللہ بخشے والا مہربان ہے (115)

اور نہ کو اسے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھو، بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ان کا بھلا نہ ہو گا (116)

تھوڑا برتا ہے اور ان کے لیے درد ناک عذاب (117)

اور خاص یہودیوں پر ہم نے حرام فرمائیں وہ چیزیں جو پہلے تمہیں ہم نے سنائیں اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا، ہاں! وہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے (118)

پھر بیک تمہارا رب ان کیلئے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں، پھر اس کے بعد توبہ کریں اور سنو جائیں، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے (119)

بے شک ابراہیم ایک امام تھا اللہ کا فرما ہر دار اور سب سے جدا اور مشرک نہ تھا (120)

اس کے احسانوں پر شکر کرتے والا، اللہ نے اسے جن لیا اور اسے سیدھی راہ دکھائی (121)

اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی اور بیک وہ آخرت میں شایانِ قرب ہے (122)

ہم نے تمہیں وہی بھیجی کہ دین ابراہیم

بہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاءٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۱۵﴾

وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُفِرَ بِهِ السُّبْحَانَ لِلَّهِ الْعَظِيمِ الْكُذِّبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِيُفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِّبَ إِنَّ الَّذِينَ يُفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِّبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿۱۱۶﴾

مَا تَقُولُوا لَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۱۷﴾

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَزْبًا مِمَّا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۱۸﴾

تَدْرَأَنَّ رَبَّكَ لَذَلِيلًا ذَلِيلًا سَمِعُوا الشُّرُوءَ بِمِثَالِهِ تَتَّبِعُونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۱۹﴾

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَا يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۲۰﴾

شَاكِرًا لِلنِّعَمِ إِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۲۱﴾

وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۲۲﴾

تَتَّبِعُوا دِينَ اللَّهِ أَنْتُمْ مُرْتَدُونَ

(Abraham) who was straightforwardly devoted. He was altogether separate from shirk (polytheist—equator of some one with Allah).

کی بیروی کرو، جو ہر باطل سے الگ تھا اور شرک نہ تھا (123)

124. The Saturday (Sabbath) was imposed only upon those who differed in it. And surely, your Rubb (Sustainer) will judge between them on the Day of Resurrection about that in which they differed.

ہفتہ تو انہیں پر رکھا گیا تھا جو اس میں مختلف ہو گئے، اور بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں اختلاف کرتے تھے (124)

125. (O beloved Prophet!) call to the way of your Rubb (Sustainer) with wisdom and good advice and argue with them in a way that is best. Surely your Rubb (Sustainer) knows well who has strayed from His way and He knows well those who are steadfast.

اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ، کئی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، اور ان سے اس طریقہ پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے، جو اس کی راہ سے ہٹا اور وہ خوب جانتا ہے راہ والوں کو (125)

126. And if you award punishment, then punish them to the extent they had afflicted you. But you be patient, surely, patience is best for those who are steadfast.

اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو، جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی تھی، اور اگر تم مہربان ہو، تو بیشک مہربانوں کو مہربان سے اچھا (126)

127. And (O beloved) be patient and your patience is because of Allah's Bestowment and grieve not for them and do not be in distress of what they plot.

اور اے محبوب! تم مہربان اور تمہارا مہربان اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کا غم نہ کھاؤ، اور ان کے فریبوں سے دل تنگ نہ ہو (127)

128. Surely Allah is with those who are pious and those who are benevolent.

بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں، اور جو نیکیاں کرتے ہیں (128)

PART 15

S. XVII

SURA BANE ISRAEL

(The Children of Israel)

(Revealed at Makkah)

(Sections 12, Verses 111)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION I

1. Glory be to Him who took His devotee (Prophet

سورہ بنی اسرائیل کی ہے (اس میں) ایک سو گیارہ (111) آیات اور بارہ (12) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا

پاک ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں

رَبُّهُمُ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱﴾

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۲﴾

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۳﴾

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ﴿۴﴾

وَاصْبِرُوا وَاصْبِرْ لَهَا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿۵﴾

إِنَّ آيَاتِ اللَّهِ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ أَحْسَنُونَ ﴿۶﴾

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ

Muhammad S.A.W.) for Isra, the exalted night visit, from Masjid-ul-Haram (the sacred Mosque in Makkah) to the Masjid Al-Aqsa (the distant Mosque in Jerusalem) the surroundings of which We (Allah) have blessed that We (Allah) might show him some of Our (Allah's) grand signs. Surely, He alone is the Hearing, the Knowing.

2. And We (Allah) gave Moosaa (Moses) the Book and made it a guidance for the children of Israael that take none as guardian besides Me.

3. (You are) the descendants of those whom We (Allah) carried (in ark) with Nuuh (Noah). Surely he was a thankful devotee.

4. And We (Allah) declared to the children of Israael in the Book that certainly you shall cause disorder in the earth for twice and necessarily you shall be big tyrants.

5. So when the time of first of the two declarations came to be fulfilled, We (Allah) sent over you Our (Allah's) devotees of the great might who ravaged your land. They went into the innermost of your houses (for your search) and it was a warning fulfilled.

6. Then We* (Allah) enabled you to attack them and prevail over, and helped you with wealth and children and increased your strength in numbers.

7. If you will do good, you will do it for your own advantage and if you will do bad, it will be for your own loss. And when the second proclamation came to pass

رات لے گیا سبھ حرام سے سبھ الصنی
تک جس کے گردا گرد ہم نے برکت
رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیوں
دکھائیں، چیک وہ متاثر کرتا ہے (۱)

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور
اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا کہ
میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ (2)

اسے ان کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے
ساتھ سوار کیا، چیک وہ بڑا شکر گزار بندہ
تھا (3)

اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں وحی
بھیجی کہ ضرور تم زمین میں دوبارہ فساد مچاؤ
گے اور ضرور بڑا غرور کرو گے (4)

پھر جب ان میں پہلی بار کا وعدہ آیا ہم نے
تم پر اپنے کچھ بندے بھیجے سخت لڑائی
والے، تو وہ شہروں کے اندر تسماری تلاش
کو گھسے اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا
تھا (5)

پھر ہم نے ان پر الٹ کر تمہارا حملہ کر
دیا اور تم کو مالوں اور بیٹوں سے مدد دی
اور تمہارا ہتھیار بڑھا دیا (6)

اگر تم بھلائی کرو گے اپنا بھلا کرو گے اور
اگر برا کرو گے تو اپنا پھر جب دوسری بار

لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى
الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا
حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ①

وَأَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ
هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ الْإِسْتِخْدَا
مِن دُونِي وَرَكِيلًا ②

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ
كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ③

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي
الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ
وَلَتَعْلَنَ عُلُوًّا كَبِيرًا ④

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ
عِبَادًا أَنَا وَابْنُ بَارِسٍ شَدِيدِي قُوَا
جَلَلِ الْوَيْبَارِ وَكَانَ وَعْدُ أَفْقَرًا ⑤

فَهُرِّدُونَا لَكُمْ الْكَوْثَرَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ
بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ
تَفْهِيمًا ⑥

إِن أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْنَا لَكُمْ لِيُفْهِمُوا
وَأَن سَأَلْتُمْ فَلَبَّا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ

(We—Allah, raised another people) to afflict you and enter into the Mosque as they had entered it the first time and destroyed utterly whatever under their power.

8. It may be that your Rubb (Sustainer) may have His Mercy on you, and if you again create disorder then We* (Allah) repeat again that We (Allah) shall return (punishment). And We (Allah) have made the hell a prison for the disbelievers.

9. Surely, this Qur'aan guides to that path which is the straightest and gives good news to the believers who do righteous deeds that they shall have a great reward.

10. But those who do not believe in the hereafter, We (Allah) have prepared for them a painful punishment.

SECTION 2

11. And the man asks evil as he asks the good. And thus the man is very hasty.

12. And We (Allah) have made the night and the day as two signs, then put the signs of the night dark and the signs of the day shining, that you may seek Bounty of your Rubb (Sustainer) and that you may know the computation of years, and the art of counting. And We* (Allah) have explained well everything separately.

13. And We (Allah) have bound to each one's neck their works. And We (Allah) shall bring out for each one on the Day of Resurrection a register (of deed) which every one will find wide open.

14. Read your own register (of deeds). Today your own

کا وعدہ آیا کہ دشمن تمہارا منہ بگاڑ دیں اور مسجد میں داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے اور جس چیز پر قابو پائیں تباہ کر کے برباد کر دیں (7)

قريب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے اور اگر تم بھر شرارت کرو تو ہم پھر عذاب کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کا قید خانہ بنایا ہے (8)

چیکہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے اور خوشی سنانا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے (9)

اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے (10)

اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے اور آدمی بڑا جلد باز ہے (11)

اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، تو رات کی نشانی مٹی ہوئی رکھی اور دن کی نشانیاں دکھانے والی کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور برسوں کی گنتی اور حساب جانو اور ہم نے ہر چیز خوب جدا جدا ظاہر فرمادی (12)

پائے گا (13)

فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ پڑھ آج تو خود

الْاٰخِرَةَ لِيَسْؤَاْ وَاَوْجُوْهُكُمْ وَّلِيَدْخُلُوْا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاَلَيْتُمْ بِيَوْمِ الْعَاثِلِيْنَ ۗ

عَلَىٰ رُبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ وَاَنْتُمْ عَدُوٌّ لِّكُمْ عَدُوٌّ عَدُوًّا وَّجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِيْنَ حَصِيْرًا ۗ

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّذِيْ هِيَ اَقْوَمُ وَّرُبُّنَا اَلْمُرْسِيْنَ ۗ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اِنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ۗ

وَاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۗ

وَيَذُرُّ الْاِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاؤَهُ بِالْخَيْرِ وَّكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا ۗ

وَجَعَلْنَا الْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ اٰيٰتَيْنِ فَتَحَوْرًا اٰيَةَ الْيَوْمِ وَجَعَلْنَا اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَّلِتَعْلَمُوْا اَعْدَآءَ السِّبْيٰنِ وَالْحِسَابِ وَّكُلُّ شَيْءٍ فَضَلْنَاهُ نَفْسِيْلًا ۗ

وَكُلُّ اِنْسَانٍ اِلٰنْمُهٗ ظَهِيْرَةٌ فِىْ عُنُقِهِ وَّنُخْرِجُ لَكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّكْتُبُهَا لَكَ مَنشُوْرًا ۗ

اِقْرَأْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِفَيْضِكَ الْيَوْمَ

self is sufficient for your accountability.

15. Whoso is on the right way, follows it for his own advantage and whoso goes astray goes so only to his own loss. And no one bearing own burden will bear the burden of any body else. And We (Allah) never punish (any people) until We (Allah) send a Rasool (Messenger).

16. And when We (Allah) intend to destroy a town, We (Allah) send Our (Allah's) Commands to its well-to-do people. They disobey therein. Then the Command is justified on them. Then We (Allah) utterly destroy it.

17. And many a generations We (Allah) have destroyed after Nuuh (Noah). And your Rubb (Sustainer) is sufficient as being Aware and Observer of the sins of His devotees.

18. Whosoever desires the present life We (Allah) soon give them from it whatever We (Allah) please to give whom We (Allah) will. Then We (Allah) assign them the hell, where-in they will be burnt being condemned, and as rejected ones.

19. And whoso desires the hereafter and strives for it with necessary effort and he is a believer, then they are the ones whose striving shall succeed.

20. We (Allah) do extend Our (Allah's) help to every one of these as well as of those out of the bestowment of your Rubb (Sustainer). And there is no restriction on the bestowing of your Rubb

(Sustainer).

ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے (14)

جو راہ پر آیا وہ اپنے ہی بھلے کو راہ پر آیا اور جو بگاڑ اپنے ہی برے کو بگاڑ اور کوئی بوجھ اٹانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹائے گی، اور ہم عذاب کرنے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیج لیں (15)

اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اس کے خوشحالوں پر احکام بھیجتے ہیں پھر وہ اس میں بے حکمی کرتے ہیں تو اس پر بات پوری ہو جاتی ہے، تو ہم اسے تباہ کر کے برباد کر دیتے ہیں (16)

اور ہم نے کتنی ہی سنگین لوح کے بند ہلاک کر دیں، اور تمہارا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار دیکھنے والا (17)

جو یہ جلدی والی ہے ہم اسے اس میں جلد دے دیں، جو چاہیں جسے چاہیں، پھر اس کے لیے جہنم کر دیں، کہ اس میں جائے، نعمت کیا ہوا دیکھے کھاتا (18)

اور جو آخرت چاہے اور اس کی سی کوشش کرے، اور ہو ایمان والا، تو انہیں کی کوشش ٹھکانے لگی (19)

ہم سب کو مدد دیتے ہیں ان کو بھی، اور ان کو بھی تمہارے رب کی عطا سے، اور تمہارے رب کی عطا پر روک نہیں (20)

عَلَيْكَ حَسِبْنَا ۞

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَوَدُّ الْوَارِثَةُ وَزُرَّ اخْرُجِي وَمَا كُنَّا مُعَلِّمِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۞

وَلَوْ اذْنُودْنَا اَنْ يَهْلِكَ قَرْيَةٌ اَمْرًا مُّتَرَفِيًا فَاسْفُوفْنَا حَتَّىٰ عَلَيْنَا الْقَوْلُ فَمَنْ مَرَدْنَا تَدْوِيرًا ۞

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكُلٌّ يَرْجِعُ بَدْوِيًّا عِبَادًا خَيْرًا بَصِيرًا ۞

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ جَعَلْنَا لَهُ نَفْسًا نَاقِصَةً لِّمَنْ يُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصُدُّهَا مِمَّا كَفَرَ مِمَّا قَدْ خَوَّرْنَا ۞

وَمَنْ ارَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۞

كُلًّا نُمِدُّ هُوْلًا وَّهُوْلًا وَمِنْ عَطَاؤِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاؤُ رَبِّكَ غَفُورًا ۞

(Sustainer) hoping to attain it, then speak to them in kindly gentle words.

29. And do not make your hands tied up in miserliness nor be extravagant lest you sit down, blamed, or exhausted.

30. Surely your Rubb (Sustainer) extends the provision for whom He pleases. Surely He is fully aware and Sees His devotees.

SECTION 4

31. And do not kill your children for fear of poverty as We (Allah) provide them and you, too. Surely their murder is a great wrong.

32. And never go near Zina (illegal sex). Surely it is an evil act.

33. And donot kill any one which Allah has prohibited without just cause. And who so is killed without right, then surely, We (Allah) have given authority to his heirs, but they should not exceed the limits in killing (in retaliation).

34. And do not draw near the property of the orphan, but by a way which is best (just) until he reaches his maturity. Then fulfil your undertakings. Surely the undertakings are to be questioned.

35. And give the measures in full when you measure, and weigh with a straight balance. This is better and its end is good.

36. And do not persue that thing about which you have no knowledge. Surely the ear and the eye and the heart all are to be questioned.

امید ہے، تو ان سے آسان بات کہہ (28)
اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ
رکھ اور نہ پورا کھول دے کہ تو بیٹھ رہے
لامت کیا ہوا تھا ہوا (29)

بے شک تمہارا رب جسے چاہے رزق
کشاہہ دیتا اور کتنا (رزق تک کرتا) ہے
بیگ وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا رکھتا
ہے (30)

اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مطلقاً کے ڈر
سے، ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور
جہیں بھی بے شک ان کا قتل بڑی خطا
ہے (31)

اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بیگ وہ بے
حیالی ہے اور بہت ہی بری راہ (32)

اور کوئی جان جس کی حرمت اللہ نے رکھی
ہے ناحق نہ مارو، اور جو ناحق مارا جائے،
تو بے شک ہم نے اس کے وارث کو قاپو
دیا ہے، اور وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے،
ضرور اس کی مدد ہوئی ہے (33)

اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اس
راہ سے جو سب سے بھلی ہے، یہاں تک
کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے، اور عہد پورا کرو،
بے شک عہد سے سوال ہوتا ہے (34)

اور ماپو تو پورا ماپو، اور برابر ترازو سے تولو،
یہ بہتر ہے، اور اس کا انجام اچھا (35)

اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے
علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل
ان سب سے سوال ہوتا ہے (36)

لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝
وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ
عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا بِأَكْلِ الْبَنِي
تَقَعْدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۝

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ
وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا
بَصِيرًا ۝

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً أَلَّا يَكْفِيَ
نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِلَّا كُمُونَ قَتَلْتَهُمْ
كَانَ خَطَاً كَبِيرًا ۝

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
بِأَيِّ حَقٍّ وَمَن قَتَلَ مَطْلُومًا مَّقْتَدًا
جَعَلْنَا الْوَالِيَّ عَلَيْهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ
فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ
أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ
مَسْئُولًا ۝

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا
بِالْقِسْطِ أَسْمَقُ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
أُولَئِكَ كَانَ عِنْدَهُ مَسْئُولًا ۝

37. And do not walk on the earth boastfully. Surely you shall never pierce through the earth, and you shall never reach to the mountains in the height.

اور زمین میں اترتا نہ چلے بے شک ہرگز
زمین نہ چیر ڈالے گا، اور ہرگز بلندی میں
پھاڑوں کو نہ پہنچے گا (37)

38. The evils of all these is hateful in the Sight of your Rubb (Sustainer).

یہ جو کچھ گمراہان میں کی بُری بات تیرے
رب کو ناپسند ہے (38)

39. This is the part of the wisdom that your Rubb (Sustainer) revealed to you. And do not associate anyone in worship of Allah. Otherwise you will be thrown in the hell taunted, and kicked.

یہ ان وجوہ میں سے ہے جو تمہارے
رب نے تمہاری طرف بھیجی حکمت کی
باتیں، اور اے سننے والے! اللہ کے ساتھ
دوسرا خدا نہ ٹھہرا، کہ تو جہنم میں پھینکا
جائے گا، لغت پاتا دیکھے گماناً (39)

40. Has your Rubb (Sustainer) picked you as His sons and made His daughters from the Angels? Surely, you speak boastfully a nasty thing.

کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹے جن
دیتے، اور اپنے لیے فرشتوں سے بیٹیاں
بنائیں، بے شک تم بڑا بول بولتے ہو
(40)

SECTION 5

41. And surely, We (Allah) have explained in this Qur'aan varied signs that the (disbelievers) may understand. But only hatred is increased in them by it.

اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح
طرح سے بیان فرمایا، کہ وہ سمجھیں، اور
اس سے انہیں نہیں بڑھتی مگر نفرت (41)

42. Please declare, "if there had been other gods with Him, as they say, then they would have sought out any way towards the Owner of the highest Power (Arsh).

تم فرماؤ! اگر اس کے ساتھ اور خدا ہوتے
جیسا یہ کہتے ہیں، جب تو وہ عرش کے
مالک کی طرف کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے (42)

43. He is Glorified and Exalted. He is High above what they say.

اسے پاکی اور برتری ان کی باتوں سے بڑی
برتری (43)

44. The seven heavens and earth and whatever is in them speak of His Glory. And there is nothing which might not speak of His Glory praising Him. But you do not understand their glorification. Surely He is Forbearing, Forgiving.

اس کی پاکی بولتے ہیں ساتوں آسمان اور
زمین، اور جو کوئی ان میں ہیں، اور کوئی چیز
نہیں جو اسے سراہتی ہوگی اس کی پاکی نہ
بولے، ہاں! تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے،
بیشک وہ علم والا بخشنے والا ہے (44)

45. And (O beloved Prophet Muhammad) when you recite the Qur'aan, We (Allah) have placed between

اور اے محبوب! تم نے قرآن پڑھا، ہم
نے تم میں اور ان میں کہ آخرت پر

وَلَا تَمْسُ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ
لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ
الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾

كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ
رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾

ذَلِكَ وَمَا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ
الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا
مَدْحُورًا ﴿٣٩﴾

أَفَأَصْفُكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَ
اتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ
لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ
لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤١﴾
قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ
إِذِ الْأَلْبَعُورِ إِلَى ذِي الْعَرْشِ
سَبِيلًا ﴿٤٢﴾

سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا
كَبِيرًا ﴿٤٣﴾

تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمٰوٰتِ السَّبْعُ وَ
الْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ اِنْ مِنْ شَيْءٍ
اِلَّا اَسْبَحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ
تَسْبِيحَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا عَفُوْرًا ﴿٤٤﴾

وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ
وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

you and those, who do not believe in the hereafter, a hidden barrier.

46. And We (Allah) have left covering over their hearts so they cannot understand it and in their ears is a heaviness. And when you mention in the Qur'aan your Rubb (Sustaine) alone, they run away turning their back hatefully.

47. We (Allah) know best what they listen to, when they hear you and when they counsel secretly. Then the cruels say, "you follow a man who has been bewitched.

48. Look, with what they compare you. They have gone so astray that they cannot get a way.

[ONE FOURTH OF PART 15 ENDS]

49. And they say, what! when we shall become bones and decayed particles, shall we be raised again as a new creation?

50. Please declare, "be you stones or iron;"

51. or any other creation which may be bigger in your imagination. Then they say, "who will create us again?" Please declare, "He Who created you for the first time". They say, shaking their heads, mocking towards you, "when will it be." Please declare, "perhaps it may be near."

52. The day when He will call you, then you will come praising Him and will think that you stayed only a little.

SECTION 6

53. And say to my devotees that they should speak in the best words. Surely the devil (satan) provokes discontent

ایمان میں لائے' ایک چھا ہوا پردہ کر دیا
(45)

اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال
دیئے ہیں کہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے
کالوں میں ٹینٹ (سبس) اور جب تم قرآن

میں اپنے اکیسے رب کی یاد کرتے ہو وہ
پتے پھیر کر بھاگتے ہیں نفرت کرتے (46)

ہم خوب جانتے ہیں جس لیے وہ سنتے ہیں
جب تماری طرف کان لگاتے ہیں اور
جب آپس میں مشورہ کرتے ہیں، جبکہ ظالم
کہتے ہیں تم بیچے نہیں ملے مگر ایک ایسے
مرد کے جس پر جادو ہوا (47)

دیکھو! انہوں نے تمہیں کیسی تشبیہیں
دی ہیں، تو گمراہ ہونے کے راہ نہیں پاسکتے (48)

اور بولے! کیا جب ہم پڑیاں اور ریزہ ریزہ
ہو جائیں گے، کیا جی جی بننے سے بن کر اٹھیں
گے؟ (49)

تم فرماؤ! کہ پھر یا لوبا ہو جاؤ (50)

یا اور کوئی مخلوق جو تمہارے خیال میں
بڑی ہو، تو اب کیسے گے ہمیں کون پھر
پیدا کرے گا؟ تم فرماؤ! وہی جس نے
تمہیں پہلی بار پیدا کیا، تو اب تمہاری
طرف سختی سے سہلا کر کیسے گے، یہ
کب ہے؟ تم فرماؤ! شاید نزدیک ہی ہو
(51)

جس دن وہ تمہیں بلائے گا، تو تم اس کی
حم کر کے ملے آؤ گے اور سمجھو گے کہ نہ
رہے تھے مگر تمہوڑا (52)

اور میرے بندوں سے فرماؤ! وہ بات کہیں
جو سب سے اچھی ہو، بیگ شیطان ان

جَاءَ بِمَسْئُورًا ۝

وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ كِتَابَةَ ۝

يَفْقَهُوْنَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْآنًا وَإِذَا

ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ

وَلَوَاعَىٰ آذَانَهُمْ نَفُورًا ۝

مَنْ أَنْعَمَ رَبُّنَا بِالْمُسْمِقُونَ بِهِ إِذْ

يَسْمَعُونَ إِلَيْكَ وَأَذَهُمْ نَسْوَىٰ

إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَسْمِعُونَ

الْأَرْجُلَ مَسْخُورًا ۝

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَعَّفْنَا لَكَ الْأَمْثَالَ

فَضَلَّوْا فَلَا يَسْتَعِينُونَ سَيِّئًا ۝

وَقَالُوا إِذْ أَنْعَمْنَا وَرَفَأْنَا آثَانًا

لَتَسْمِعُونَّ إِنَّا لَخَالِقٌ جَدِيدٌ ۝

قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۝

أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْفُرُ فِي صُدُورِكُمْ

فَسَيَقُولُونَ مَنْ يَضِدُّكَ قُلِ

الَّذِي فَطَرَكَ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۝

فَسَيَنْفِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ

وَيَقُولُونَ مَنْ هُوَ قُلِ عَسَىٰ

أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۝

يَوْمَ نَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ

بِحَمْدِهِ وَتَنْظُرُونَ إِلَيْهِ تَنظِيرًا ۝

وَقُلْ لِيُجَادِيَ يَقُولُ الَّتِي هِيَ

أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ مِمَّنْ يَنْهَدُهُ

among men. Surely the satan (devil) is an open enemy of mankind.

54. Your Rubb (Sustainer) knows you well. He will have Mercy upon you if He Pleases, or He will punish you if He Wills so. And We (Allah) have not sent you as custodian over them.

55. And your Rubb (Sustainer) knows well those that are in the heavens and in the earth. And surely We preferred one over the other amongst Ambia (Prophets of Allah) and gave to Daood (David) scripture (Zaboor).

56. Please declare, "call them whom you consider benefactor besides Allah. They have no authority to avert or remove the harm from you.

57. Those (deities) whom these muushriks (idolators) call upon, themselves seek access to Rubb (Sustainer), which of them is nearer (to Allah). They hope for His Mercy and fear His punishment. Surely the punishment of your Rubb (Sustainer) is a thing to be feared.

58. And there is no town but that We (Allah) shall destroy it before the Day of Resurrection or will punish it with severe punishment. This is written down in the Book.

59. And nothing could hinder Us (Allah) from sending such evidences because the ancient people falsified them. And We (Allah) gave to Thamud (Samood) a she-camel as an eye opener. But they committed cruelties with her

کے آپس میں فساد ڈال دتا ہے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے (53)

تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، چاہے تو تمہیں عذاب کرے، اور ہم نے تم کو ان پر کڑوا (تخت) بنا کر نہ بھیجا (54)

اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور جیسا کہ ہم نے نبیوں میں ایک کو ایک پر بڑائی دی اور داؤد کو زبور عطا فرمائی (55)

تم فرماؤ! پکارو انہیں جن کو اللہ کے سوا گمان کرتے ہو، تو وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے، اور نہ پھیر دینے کا (56)

وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے؟ اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، جیسا کہ تمہارے رب کا عذاب ڈر کی چیز ہے (57)

اور کوئی ہستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے روز قیامت سے پہلے نیست کر دیں گے، یا اسے سخت عذاب دیں گے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے (58)

اور ہم ایسی نشانیاں بھیجتے ہیں یوں ہی باز رہے کہ انہیں انہوں نے سمجھایا، اور ہم نے ثمود کو ناقہ (اونٹنی) دیا آنکھیں کھولنے کو، تو انہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم

إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٣﴾

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ رَبًّا لِّيَبْصُرُكُمْ
أَوَّانَ يَبْشُرُ بَعْدَ بَعْدٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا ﴿٥٤﴾

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ
النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ
زُبُورًا ﴿٥٥﴾

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن
دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّلَمِ
عَنكُمْ وَلَا اتِّخَاذًا ﴿٥٦﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ
إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ
إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾

وَأَنَّ مَن قَرَّبَهُ الْإِنْسَانُ فَهُوَ كَوْنًا
قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مَعَدَى بُوْهَا
عَذَابًا أَسَدًا يُدْأَىٰ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ
مَسْطُورًا ﴿٥٨﴾

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ الْآئِنِ
كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ
النَّقَاةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا

And We (Allah) send not such signs but to frighten.

60. And behold when We (Allah) said to you, "all the mankind is just under the control of your Rubb (Sustainer)." And We (Allah) made not the vision which We (Allah) showed you as a trial for the people and also the tree upon which there is a curse in the Qur'aan. And We (Allah) cause them to fear but it increases them in a gross transgression (lawlessness).

SECTION 7

61. And (remember) when We (Allah) Commanded Angels to prostrate (do 'Sajda' of respect) to Adam, they all prostrated except Iblis. He said, "should I prostrate him whom you have made of (black) clay?"

62. He (Iblis—satan) said, "see you, whom you have honored above me. If you grant me time till the Day of Resurrection I shall definitely overpower all his descendants except a few.

63. He (Allah) said, "get away, those of them who will follow you, their award is hell, which is an ample award.

64. And make astray whoso of them you (satan) can get at with your voice and mobilize against them your mounted soldiers and your infantrymen. And share with them in their wealth and their children and promise them more riches. But the satan (devil) promises them nothing but deceives them.

65. Surely those who are My devotees, you have no

۴۰۱

توسل بالآئین الا تخوفنا ﴿۵۹﴾
 وَإِذْ قُلْنَا لِلَّذِينَ آمَنُوا اسْكُرُوا لِلَّذِينَ
 كَفَرُوا وَلَا يَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ
 لِيَكُونَ لِلَّذِينَ لَا آمَنُوا حَسْرَةٌ
 عَلَىٰ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۶۰﴾
 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا
 لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ
 لِمَ اسْجُدُ لِلَّذِي كَرَّمْتُ
 عَلَيْهِ لَيْسَ آخِرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ
 الْقِيَامَةِ لَاحْتَبَبْتُكَ ذُرِّيَّةً
 لَّاقِيلًا ﴿۶۱﴾
 قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ
 فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً
 مَوْفُورًا ﴿۶۲﴾
 وَأَسْتَفْزِزُ مَن اسْتَطَعْتُ مِنْهُمْ
 بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخِيلِكَ
 وَرَجُلِكَ وَشَارِكُكُمْ فِي الْأَمْوَالِ
 وَالْأَوْلَادِ وَعَدْتُهُمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ
 الشَّيْطَانُ إِلَّا عُرْوًا ﴿۶۳﴾
 إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ

ایسی نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کو (59)
 اور جب ہم نے تم سے فرمایا: کہ سب
 لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں اور
 ہم نے نہ کیا وہ دکھاوا جو تمہیں دکھایا تھا،
 مگر لوگوں کی آزمائش کو اور وہ بجز جس پر
 قرآن میں لعنت ہے اور ہم انہیں ڈراتے
 ہیں، تو انہیں نہیں بڑھتی مگر بڑی سرکشی
 (60)

اور یاد کرو! جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا
 کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ
 کیا، سوا ابلیس کے، بولا: کیا میں اسے سجدہ
 کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ (61)
 بولا: دیکھ! تو جو یہ تو نے مجھ سے معزز
 رکھا، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت
 دی، تو ضرور میں اس کی اولاد کو جہنم
 والوں کا مگر تھوڑا (62)

فرمایا: دور ہو تو ان میں جو تمہری پیروی
 کرے گا تو بیچک تم سب کا بدلہ جہنم ہے
 بھر پور سزا (63)

اور ڈر دے (بھگا دے) ان میں سے جس
 پر قدرت پائے اپنی آواز سے، اور ان پر
 لام (لشکر) باندھ لا اپنے سواروں اور اپنے
 پیادوں کا اور ان کا سامھی ہو مالوں اور
 بچوں میں اور انہیں وعدہ دے اور
 شیطان انہیں وعدہ نہیں دیتا مگر فریب سے
 (64)

بیچک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ

control over them. And your Rubb (Sustainer) suffices them as Guardian.

66. Your Rubb (Sustainer) is He Who speeds for you the ships in the sea, so that you may seek His Bounty. Surely He is merciful to you.

67. And when any trouble approaches you in the sea, then all whom they worship are lost except He. But when He delivers you towards the land, then you turn away your faces. And the human being is thus surely very ungrateful.

68. Have you then become fearless that He will not cave in the earth beneath you to cause to sink you or send on you the stonestorm; then you will not find any supporter for yourself;

69. or have you become fearless of that He may carry you back in the sea for the second time, then send on you a storm blast breaking ships. Then He may cause you to drown because of your disbelief. Then you will not find any helper against Us (Allah).

70. And surely, We (Allah) have honored the descendants of Aadam and got them ride in the land and the sea and provide them with clean things and exalt them over many of Our (Allah's) creatures.

SECTION 8

71. (Remember) the day when We (Allah) shall call every people with their Imams—Religious leaders. Then whoso is given his(her) record in his(her) right hand, they shall read their records

قَابِوْنَسِ، اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے کو (65)

تسارا رب وہ ہے کہ تمہارے لیے دریا میں کشتی رواں کرتا ہے، کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر مہربان ہے (66)

اور جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچی ہے تو اس کے سوا جنہیں پوستے ہیں سب گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے، تو منہ پھیر لیجئے ہو، اور آدمی بنا ناشکرا ہے (67)

کیا تم اس سے عذر ہوئے کہ وہ خشکی ہی کا کوئی کنارہ تمہارے ساتھ دھسا دے، یا تم پر پتھراؤ بھیجے، پھر اپنا کوئی معافی نہ پاؤ (68)

یا اس سے عذر ہوئے کہ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے، پھر تم پر جہاز توڑنے والی آندھی بھیجے، تو تم کو تمہارے کفر کے سبب ڈبو دے، پھر اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ کہ اس پر ہمارا بیچھا کرے (69)

اور بیک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا، اور ان کو تھری چیزیں روزی دیں، اور ان کو اپنی بہت مخلوق سے افضل کیا (70)

جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو جو اپنا نام داسنے ہاتھ میں دیا گیا، یہ لوگ اپنا نام پڑھیں گے، اور آگے (مجموعہ کی گنتی کا وحاکم) بھران

سُلْطٰنٌ وَّكَفٰى بِرَبِّكَ وَاٰتٰىكَ
رَبُّكَمُ الَّذِى يُزَيِّجُ لَكُمُ الْفَلَآكَ فِي
الْبَحْرِ لَتُبْتَخِرُوْا مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهٗ كَانَ
بِكُمْ رَحِيْمًا ۝۷۱

وَإِذْ أَسَكَمُ الضَّمُرُ فِي الْبُحْرِ ضَلَّ
مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا آيَآءَ فَلَنَاجِحَكُمْ
إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ
كَفُوْرًا ۝۷۲

أَفَأَمُتُّوْا نَ تُخْسِفُ بِكُمْ جَانِبَ
الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ
لَا تُجِدُوا الْكُفْرَ وَكَيْلًا ۝۷۳

أَمْ أَمُتُّوْا نَ يُعِيْدُكُمْ فِيْهِ تَآذُرٌ
بُخْرٰى فَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا
مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ
ثُمَّ لَا تُجِدُوا الْكُفْرَ عَلَيْهِ تَبْدِيْعًا ۝۷۴

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَوَضَعْنَاهُمْ فِي الصُّلْبِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا
تَفْضِيْلًا ۝۷۵

يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنۡاٰمٍ بِاِمَامِهِمْ
فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰٓئِكَ
يَقْرَءُوْنَ وَاَنْ كِتٰبُهُمْ وَاِلٰى يَمِيْنِهِمْ

and their rights shall not be suppressed to a single thread.

72. And whoso is blind in this world, he is blind in the hereafter, and even more astray from the way.

73. And indeed it was near that they would have wronged you from Our (Allah's) revelation sent to you, that you might relate something other than that and then they would have certainly taken you as their fast friend.

74. And if We (Allah) had not kept you firm, then it was near that you would have inclined towards them a little;

75. and in that situation We (Allah) would have let you taste the double life and double death, then you would not have found any helper against Us (Allah).

76. And surely, they provoked you to lead you on the wrong side from this land so that they might oust you therefrom and if it would have been so, then they would have survived after you but a little.

77. It is a tradition of those whom We (Allah) sent before you as Rasools (Messengers of Allah) and you would not find Our (Allah's) law changing.

SECTION 9

78. Establish the Salaat (Muslim prayer) from the declining of the sun till the darkening of the night and the (recitation of the) Qur'aan at the dawn. Surely (the recitation of the Qur'aan at the dawn is witnessed (by Allah).

79. And at night awake to offer Tahajjud (special prayer after mid night) for a

کا حق نہ دیا جائے گا (71)

اور جو اس زندگی میں اندھا ہو، وہ آخرت میں اندھا ہے، اور بھی زیادہ گمراہ (72)

اور وہ تو قریب تھا کہ ہمیں کچھ لغزش دیتے ہماری وحی سے، جو ہم نے تم کو بھیجی کہ تم ہماری طرف کچھ اور لبت کر دو، اور ایسا ہوتا تو وہ تم کو اپنا گمراہ دست بنا لیتے (73)

اور اگر ہم ہمیں ثابت قدم نہ رکھتے، تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکتے (74)

اور ایسا ہوتا تو ہم تم کو دوئی مراد دو چند موت کا مزہ دیتے، پھر تم ہمارے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پاتے (75)

اور بے شک قریب تھا کہ وہ ہمیں اس زمین سے ڈگا (کھسا دی) دیں کہ ہمیں اس سے باہر کر دیں اور ایسا ہوتا، تو وہ تمہارے پیچھے نہ ٹھہرتے مگر تھوڑا (76)

دستور ان کا جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، اور تم ہمارا قانون بدلتا نہ پاؤ گے (77)

نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک، اور صبح کا قرآن، جنگ صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں (78)

فَقِيلَ ۙ

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۗ
وَأَنْ كَادُوا يَفْتُلُونَكَ مِنَ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ فَتَمُوتَ عَلَيْنَا غَيِّبَةً وَإِذَا لَا تُحَدِّثُكَ خَبِيرًا ۙ

وَلَوْلَا أَنْ تَبَتَّلْنَا لَقَدْ كُنْتَ تَرْكَبُ الْيَهُودَ شَرِيحًا قَبِيلًا ۗ
إِذَا لَدَقْنَاكَ صَعْفُ الْحَيَمَةِ وَوَصَعْفُ الْمَهَابِ تَعْرًا لَا تُجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۙ

وَأَنْ كَادُوا يَسْتَفْزِدُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبِثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۙ

سُئِلَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا يُجِدُ بَيْنَنَا مَبْرُورًا ۗ
أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۙ

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُجِّدْ لَهُ نَائِلَةَ لَكَ ۙ

proportion of the night. It is additional for you (beloved Prophet Muhammad). It is near that your Rubb (Sustainer) may raise you so high to be praised by all.

80. And please request like this, "O my Rubb (Sustainer) lead me to enter a just entering and lead me to go forth with a just going and grant me from yourself a helpful authority.

81. And please declare, "the truth has come, and falsehood has vanished. Surely the falsehood was certain to vanish."

82. And We (Allah) have revealed the Qur'aan which is a healing and a mercy to the believers; and it only adds to the loss of the cruels.

83. And when We (Allah) bless the man he turns away his face and behaves proudly. But when evil touches him then he becomes disappointed.

84. Please declare, "everyone acts in his own manner. Then your Rubb (Sustainer) knows well who is best guided.

SECTION 10

85. And they ask you about the Spirit. Please declare, "the Spirit is a Command of my Rubb (Sustainer) and I did not receive the detailed knowledge on it except a little.

86. And if We (Allah) Willed, We (Allah) could take away that We (Allah) have revealed to you. Then you would have found none to plead for you before Us (Allah);

87. except the Mercy from your Rubb (Sustainer).

خام تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب الہی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں (79)

اور یوں عرض کرو! کہ اے میرے رب! مجھے جی طرح داخل کر اور جی طرح باہر لے جا، اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے (80)

اور فرماؤ! کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بیک باطل کو مٹا ہی تھا (81)

اور ہم قرآن میں آمارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے (82)

اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں منہ پھیر لیتا ہے، اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا، اور جب اسے برائی پہنچے تو ناامید ہو جاتا ہے (83)

تم فرماؤ! سب اپنے کینڈے (مطلب) پر کام کرتے ہیں، تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ راہ پر ہے (84)

اور تم سے روح کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ! روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اور تمہیں علم نہ ملا مگر تمہارا (85)

اور اگر ہم چاہتے تو یہ وحی جو ہم نے تمہاری طرف کی، اسے لے جاتے، پھر تم کوئی نہ پاتے، کہ تمہارے لیے ہمارے حضور اس پر وکالت کرتا (86)

مگر تمہارے رب کی رحمت، ہے شک تم

عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾

وَقُلْ رَبِّ اَدْخُلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجِ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴿٨٠﴾

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبٰطِلُ اِنَّ الْبٰطِلَ كَانَ رَهْوٰقًا ﴿٨١﴾

وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَاهُوْا شِفَاۗءً وَّرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَّلَا يَزِيْدُ الظَّٰلِمِيْنَ اِلْحٰصًا اِذًا ﴿٨٢﴾

وَ اِذَا النُّعْمٰنَا عَلٰى الْاِنْسٰنِ اَعْرَضَ وَاِنْ جٰنِبُوْهُ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرْكَٰنَ يٰۤاِنْسٰنُ ﴿٨٣﴾

قُلْ كُلُّ يَعْْمَلْ عَلٰى سَآئِلٰتِهٖۙ بَاۤءُ ذُرِّيَّتِهٖۙ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ﴿٨٤﴾

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٨٥﴾

وَلِيْنۙ شِكْرًا لِّذٰلِكَ الَّذِيۙ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَلْمِزَ لَكَ بِهٖ عٰلِيْنَ وَاَكْفِيْلًا ﴿٨٦﴾

اِلَّا رَحْمَةً مِّنۢ رَبِّكَ اِنَّ فَضْلَهٗ

Surely, His Bounty to you is great indeed.

88. Please declare, "if the human beings and the jinns all get together to produce the equivalent of this Qur'aan they shall not be able to produce like of this, though in this they may help one another.

89. And surely, We (Allah) have in this Qur'aan described every kind of examples in various ways. But most of the men accept nothing but remain (ungrateful) disbelievers.

90. And they said, "we shall never believe you unless you cause a spring to gush forth for us from the earth;"

91. "or you have a garden of date-palms and grapes then you cause streams to gush forth abundantly all through it.

92. Or you may cause the heaven to fall upon us in pieces as you have asserted, or bring Allah and the Angels as surety;

93. or you have a house of gold or you ascend up into heaven and we shall never believe even after your ascending up until you send down to us a Book that we may read. Please declare, "Holy is my Rubb (Sustainer). Who am I, but a human being sent (by Allah) as a Rasool (Messenger).

SECTION 11

94. And nothing prevented mankind from believing when the guidance came to them, save that they said, "has Allah sent down a human being as a Rasool (Messenger)?"

پر اس کا بڑا فضل ہے (87)

تم فرماؤ! اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لائیں گے اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو (88)

اور بیچک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل طرح طرح بیان فرمائی تو اکثر آدمیوں نے نہ مانا مگر ناشکری کرنا (89)

اور بولے! کہ ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ تم ہمارے لیے

زمین سے کوئی چشمہ باہر دو (90)

یا تمہارے لیے کھجور، دین اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر تم اس کے اندر بہتی نہریں رواں کرو (91)

یا تم ہم پر آسمان گرا دو جیسا تم نے کہا ہے، گلے گلے، یا اللہ اور فرشتوں کو خاص لے آؤ (92)

یا تمہارے لیے طلائی گھر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے، جب تک ہم پر ایک کتاب نہ اتارو، جو ہم پڑھیں، تم فرماؤ! ہاں ہے میرے رب کو، میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا (93)

اور کس بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا؟ جب ان کے پاس ہدایت آئی مگر اسی نے، کہ بولے! کیا اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا؟ (94)

كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝

قَدْ لَبِئْسَ اجْمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝

وَلَقَدْ صَدَقْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا الْفُجُورًا ۝

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تُفْعِرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۝

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفْعِرَ الْأنْهَارَ تَجْرِلُهَا تَفْعِيرًا ۝

أَوْ تَنْقِطَ السَّمَاءُ كَمَا سَمِعْتُمْ عَلَيْنَا نَكْثًا أَوْ تُبَارِكْنَا بِاللَّهِ ۝

الْمَلَائِكَةِ قَدِيرًا ۝

أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ تَنْزِقَ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرُؤْيَاكَ حَتَّىٰ تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ مِنَ الْإِبْرَارِ ۝

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۝

95. Please declare, "if there would have been Angels in the earth walking about in peace, then We (Allah) would have certainly sent down an Angel as Rasool (Messenger) to them.

96. Please declare, "sufficient is Allah as a witness between me and you. Surely, He knows and sees fully well His devotees.

97. And he (she) whom Allah guides, is the one rightly guided and whom He lets to go on the wrong way then for such one you will not find any protector besides Him. And We (Allah) shall raise them on the Day of Resurrection with their faces down, blind, dumb and deaf. Their abode shall be hell. Whenever it will come to extinguish, We (Allah) shall ablaze it in flames vigorously.

[HALF OF PART 15

ENDS]

98. This is their punishment because they rejected Our (Allah's) Verses and said, "when we become bones and broken bits shall We (Allah) raised up as a new creation?"

99. And whether they do not see that Allah, Who made heavens and the earth, can make again the like of them, and He has appointed for them a term in which there is no doubt. But the cruel ones donot accept anything except disbelief.

100. Please declare, "if you would have been owners of the treasures of the Mercy of my Rubb (Sustainer), you would have surely held them back for fear of being spent. And the human being is too miser.

تم فرماؤ! اگر زمین میں فرشتے ہوتے ہیں سے چلتے، تو ان پر ہم رسول بھی فرشتہ اتارتے (95)

تم فرماؤ! اللہ بس ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان، چٹک وہ اپنے بندوں کو جانتا دیکھتا ہے (96)

اور جسے اللہ راہ دے، وہی راہ پر ہے اور جسے گمراہ کرے تو ان کے لیے اس کے سوا کوئی حمایت والے نہ پاؤ گے، اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے اندھے اور گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانا جہنم ہے، جب کبھی بچنے پر آئے گی، ہم اسے اور بھڑکا دیں گے (97)

یہ ان کی سزا ہے اس پر کہ انہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا، اور بولے کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کیا کچ کچ ہم نئے بن کر اٹھائے جائیں گے؟ (98)

اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے، ان لوگوں کی مثل بنا سکتا ہے، اور اس نے ان کے لیے ایک میعاد ٹھہرا رکھی ہے جس میں کچھ شبہ نہیں، تو ظالم نہیں مانتے بے ناشکری کیے (99)

تو فرماؤ! اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہو، تو انہیں بھی روک رکھتے اس ڈر سے کہ خرچ نہ ہو جائیں، اور آدمی بڑا تجوس ہے (100)

قُلْ لَوْ كَانُوا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿٩٥﴾

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٩٦﴾

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَمُهْتَدٍ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَنْ يَجِدَ لَهُمَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ يُنصِرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَائًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَا أُولِيَهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ إِذِئْتَهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٧﴾

ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِاٰلِهْمُ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا اِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿٩٨﴾

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَوَجَعَلَ لَهُمْ اٰجَلًا لَا رَيْبَ فِيْهِ فَاٰبِى الْظٰلِمِيْنَ اِلَّا كٰفِرًا ﴿٩٩﴾

قُلْ لَوْ اَنَّكُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِن رِّحْمٰتِ رَبِّيْ اِذْ اَفْسَكْتُمْ خَشِيَةَ الْاِنْفَاقِ وَاِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكٰفِرًا ﴿١٠٠﴾

101. And surely, We (Allah) gave nine clear signs to Moosaa (Moses). So ask the descendants of Israael that when he came to them Firawn (Pharaoh) said to him, "O Moosaa, (Moses) in my opinion you have been bewitched."

102. He said, "certainly you know well that none sent these down except Rubb (Sustainer) of the heavens and the earth as opener of the eyes of heart, and in my Opinion, O Firawn (Pharaoh) "you are surely to perish."

103. Then he desired to oust them from the land, but We (Allah) drowned him and all his associates;

104. and We (Allah) said to the descendants of Israael, after him, "dwell in this land. Then when the promise of the hereafter will come, We (Allah) shall bring you all together.

105. And We (Allah) revealed it (the Qur'aan) with truth and it has come down with truth and We (Allah) not sent you (Muhammad) but as the bearer of good news and as a warner.

106. And it is a Qur'aan (Book of repetitive reading) that We (Allah) have divided so that you may read it to mankind in bits and We (Allah) have revealed it gradually in succession.

107. Please declare, "believe it or donot believe it. Surely, those to whom knowledge has been given before it do fall down prostrating on their faces when it is recited to them;

108. and they say, "Holy be our Rubb (Sustainer). Surely

اور بیگ ہم نے موسیٰ کو نو روشن نشانیاں دیں، تو بنی اسرائیل سے پوچھو! جب وہ ان کے پاس آیا تو اس سے فرعون نے کہا، اے موسیٰ! میرے خیال میں تو تم پر جادو ہوا (101)

کہا، یقیناً تو خوب جانتا ہے کہ انہیں نہ اتارا مگر آسمانوں اور زمین کے مالک نے، دل کی آنکھیں کھولنے والیاں اور میرے گمان میں، تو اے فرعون! تو ضرور ہلاک ہوئے والا ہے (102)

تو اس نے چاہا کہ ان کو زمین سے نکال دے، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو سب کو ڈبو دیا (103)

اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا: اس زمین میں بسو! پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا، ہم تم سب کو گھمٹا لے آئیں گے (104)

اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا، اور حق ہی کے لیے اترا، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشی اور ڈر سنانا (105)

اور قرآن ہم نے جدا جدا کر کے اتارا کہ تم اسے لوگوں پر فہم فہم کر پڑھو، اور ہم نے اسے بتدریج وہ کہ اتارا (106)

تم فرماؤ! کہ تم لوگ اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ! بیگ وہ جنہیں اس کے اترنے سے پہلے علم ملا، جب ان پر پڑھا جاتا ہے محمودی کے گل سجدہ میں گر پڑتے ہیں (107)

اور کہتے ہیں، پاکی ہے ہمارے رب کو،

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ سِنَةَ اللَّيْلِ بِتِينَةٍ
فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ
فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ
يَهُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿١٠١﴾

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ
إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَافِرٍ
وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يُفْرَعُونَ مَسْحُورًا ﴿١٠٢﴾
فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ
فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ﴿١٠٣﴾

وَقُلْنَا يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ آمَنُوا
إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَدْ كَفَرْتُمْ بِالْحَقِّ
فَمَا تَتَّبِعُونَ ﴿١٠٤﴾
وَمَا لَكُمْ لَأَنْتُمْ كَانْتُمْ
تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَمَا تَعْبُدُونَ
إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿١٠٥﴾

وَقَدْ آتَيْنَاهُ الْفُرْقَانَ عَلَى الْفَاسِقِ
عَلَىٰ مَكَّةَ وَقَدْ آتَيْنَاهُ نَزِيلًا ﴿١٠٦﴾

قُلْ آمِنُوا بِاللَّهِ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٠٧﴾
الَّذِينَ آتَوْا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا
يُنْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ مِنَ الْبُرْجَانِ
سَجَدُوا ﴿١٠٨﴾

وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا

the promise of our Rubb (Sustainer) was to be fulfilled. 109. And they fall down on their faces weeping, and it (Qur'aan) increases them in humility.

[A Muslim who recites this verse or listens its recitation should prostrate with forehead on the ground in ablution facing Ka'aba].

110. Please declare, "call upon Him saying Allah (the only being worth worship) or saying Him Rehman (Most Affectionate) with which so name you call upon Him, all are His good Names. Neither offer your Salaat (Muslim Prayer) with loud voice nor with too low tone but seek a way in between.

111. And please declare, "all praise be to Allah Who has not at all taken for Him any son and no one is partner in His Kingdom and none is supporter of Him because of any weakness. And proclaim His Greatness magnificently.

S. XVIII

SURA AL-KAHF

(THE CAVE)

(Revealed at Makkah)

(12 Sections, 110 Verses)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. All praise be to Allah Who has revealed the Book upon His devotee and has not put therein any toughness.

2. It is straight guardian to warn for terrible punishment from Him and it may give the believers, who do righteous deeds, the good news that for them there is handsome reward;

پس ایک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہوتا تھا
(108)

اور ٹھوڑی کے ٹل گرتے ہیں روتے
ہوتے اور یہ قرآن ان کے دل کا جھکتا
پرہماتا ہے (109)

تم فرماؤ! اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر
جو کہہ کر پکارو سب اسی کے ایسے نام
ہیں اور اپنی نماز نہ بت آواز سے پڑھو
نہ بالکل آہستہ اور ان دونوں کے بیچ میں
راستہ چاہو (110)

اور یوں کو سب خوبیاں اللہ کو جس نے
اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا اور بادشاہی
میں کوئی اس کا شریک نہیں اور کمزوری
سے کوئی اس کا حمایتی نہیں اور اس کی
بڑائی بولنے کو تکبیر کو (111)

سورۃ کف کی ہے (اس میں) ایک سو
دس (110) آیات اور پارہ (12) رکوع
(ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو بت مہربان رم
والا

سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے بندے
پر کتاب اتاری اور اس میں اصلا سچی نہ
رہی (1)

عدل والی کتاب کہ اللہ کے سخت عذاب
سے ڈرائے اور ایمان والوں کو جو نیک
کام کریں بشارت دے کہ ان کے لیے
اجہا ثواب ہے (2)

وَعَدَرَبَّنَا الْمَعُولَا
وَيَجِدُونَ بِالْأَدْفَانِ يَتَّبِعُونَ وَيَزِينُهُمْ
حُشُوعًا ۝۱۰۸

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ
أَيُّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى
وَلَا تَجْهَدُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوا
بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝۱۱۰

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ
وَلَدًا أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي
الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِليٌّ مِّنْ
الدُّنْيَا وَكَذَّبُوا تَكْذِبًا ۝۱۱۱

سُورَةُ الْكَافِرَاتِ هُوَ مَا كُنْتُ نَبِيًّا وَلَا كُنْتُ مَكْتُوبًا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ
الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝۱
قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا لِّالَّذِينَ
لَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا
حَسَنًا ۝

3. wherein they shall reside for ever;

4. and that it may warn those who say, "Allah has taken a son for Himself;"

5. neither they have any knowledge about it, nor their forefathers. What a monstrous word comes out from their mouths (about Allah having a son). They are merely telling a lie.

6. Even then you will risk your life to death with grief for them that why they do not believe in this discourse, (Qur'aan).

7. Surely We (Allah) adorned the earth with whatever is on it, so that We (Allah) may test them as to which of them is best in conduct.

8. And surely, whatever is on it, We (Allah) shall one day render it as a barren soil.

9. Did you think that the men of the cave and of the forest side were wonderful symbols from Us (Allah).

10. When those youths took refuge in the cave and said, "O our Rubb (Sustainer), "grant us mercy from Yourself and provide us right guidance in our affairs."

11. So We (Allah) sealed their ears for a number of years in the cave;

12. then We (Allah) raised them up that We (Allah) might see which of the two groups most rightly accounts the period of their stay there.

SECTION 2

13. We (Allah) relate to you their story with truth. They were young men who believed in their Rubb (Sustainer) and We (Allah) increased them in guidance.

جس میں بیش رہیں گے (3)

اور ان کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے

اپنا کوئی بچہ بنایا (4)

اس بارے میں نہ وہ کچھ علم رکھتے ہیں نہ

ان کے باپ دادا، کتنا بڑا بول ہے کہ ان

کے منہ سے لاشعور ہے؟ ذرا جھوٹ کہہ

رہے ہیں (5)

تو کس تم اپنا جان پر کھیل جاؤ گے ان

کے بچے، اگر وہ اس بات پر ایمان نہ

لائیں تم سے (6)

بے شک ہم نے زمین کا سنگار کیا جو کچھ

اس پر ہے، کہ انہیں آزمائیں، ان میں

کس کے کام بہتر ہیں؟ (7)

اور بیچک جو کچھ اس پر ہے ایک دن ہم

اسے پت پر میدان کو چھوڑیں گے (8)

کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھوکھ اور

جھل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب

نشانی تھی (9)

جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی، پھر

بولے! اے ہمارے رب! ہمیں اپنے پاس

سے رحمت دے، اور ہمارے کام میں

ہمارے لیے راہ ہادی کے سامان کر (10)

تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر

کھتی کے کئی برس چھپا (11)

پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو

گروہوں میں کون ان کے ضمیر کی مدت

زیادہ ٹھیک بتاتا ہے (12)

ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں وہ

کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان

لائے، اور ہم نے ان کو ہدایت برساتی

(13)

مَلِكُؤَيْنَ فَمِنْهُمْ اَبْنٌ ۙ

لَقَدْ رَاكَ الْيَزِيدُ قَالَ اَتَمْتَدَاهُ وَلَوْلَا

مَا لَهْمُ رِبُونِ عَلِيمٌ وَلَا اِلَّا يَا اِهْمُ

كَبُرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ

اِنْ يَقُولُوْنَ الْاَكْبَرُ يَا ۙ

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلٰى اَنَّا لِهْمُ

اِنْ لَمْ نُرْتَمِمْ وَاِيْضًا الْاَحَدِيْثُ اَلْمَقْصُ

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلٰى الْاَرْضِ زِينَةً لِّهَا

لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۙ

وَاِنَّا لَجَاعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا

جُزْءًا ۙ

اَمْ حَسِبْتَ اَنْ اَعْصَبَ الْكُفْرُ

وَالرَّفْقُومُ كَاثِرًا مِنْ اٰيَاتِنَا عَجَبًا ۙ

اِذْ اٰوٰى الْفِتْيَةَ اِلَى الْكُهْفِ فَقَالُوْا

رَبِّنَا اٰتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَبْ لَنَا

لِنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشْدًا ۙ

فَضَرَبْنَا عَلٰى اُذُنَيْهِمْ فِي الْكُهْفِ

سِنِيْنَ عَدَدًا ۙ

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنُعَلِّمَهُمْ اَنْوَاعَ الْحَيٰوةِ

بِاِحْصٰى لِمَا يَلْبَسُوْنَ اَلْمَدٰى ۙ

ثُمَّ نَقَضْنَا عَلَيْنَكَ نَبَاَهُمْ

بِاِحْصٰى اَنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ

وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۙ

14. And We (Allah) strengthened their hearts when they stood up and said, "Our Rubb (Sustainer) is only He Who is the Rubb (Sustainer) of the heavens and the earth. We (Allah) shall not worship any one besides Him. If we did so, then necessarily we shall utter absurd thing.

15. This nation of ours has adopted gods (idols) for worship except Allah. Why not a clear justification is brought to them? Who is more cruel than that who associates falsehood with Allah?

16. And you departed from them and from all that which they worship besides Allah. So take refuge in the cave. Your Rubb (Sustainer) will unfold for you His Mercy and will provide you comfort in your affairs.

17. And (O beloved) you see the sun when it rises. It moved from their cave to the right and when it set, turned away from them to the left, whereas they were in the open space of the cave. This is of the signs of Allah. Whom Allah Guides such one is on the right way, and whom He leaves astray, for that one you will never find a supporter to guide.

SECTION 3

18. And you might have thought them awake while they were asleep and We (Allah) turned them about to the right and to the left and their dog stretched his forelegs at the thresh-old of the cave. (O beloved) if you had a look at them, you would have turned away in fright,

اور ہم نے ان کی دھارس بندھائی جب کھڑے ہو کر بولے! کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہ پوجیں گے، ایسا ہو تو ہم نے ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہی (14)

یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا خدا بنا رکھے ہیں، کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی روشن سند؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھے (15)

اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، سب سے الگ ہو جاؤ، تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا، اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا (16)

اور اے محبوب! تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلا ہے، تو ان کے غار سے داہنی طرف بچ جاتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کھڑا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس غار کے کچلے میدان میں ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں سے ہے، جسے اللہ راہ دے، تو وہی راہ پر ہے، اور جسے گمراہ کرے، تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے (17)

اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سوتے ہیں اور ہم ان کی داہنی بائیں کرشمیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا اپنی کلاٹیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکھٹ پر، اے سننے والے! اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پتہ بھجر کر بھاگے، اور ان سے ہیت

وَدَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا
فَقَالُوا رَبَّنَا رَبِّ السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ
إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذْ شَطَطًا ﴿۱۶﴾

هُوَ إِلَّا قَوْمًا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ
الْإِلَهَةَ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَنٍ
بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَىٰ
اللَّهِ كَذِبًا ﴿۱۷﴾

وَإِذْ أَعْرَضْنَا عَنْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ
إِلَّا آلِهَةٌ فَأَوَّلَى الْكَيْفِ يَسْتَرْكَبُكُمْ
رَبُّكُمْ مَن دَخَمْتَهُ وَيُؤْتِي كُمْ
مِن أَمْرِكُمْ مِمَّا تَفْقَهُوا ﴿۱۶﴾

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَرُودُ
عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا
أَغْرَبَتْ تَقَرَّبُ إِلَيْهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ
وَهُمْ فِي كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ
اللَّهُ مَن يَهْدِيَ اللَّهُ فَرَقًا فَهُوَ الْمُهْتَدِ
وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا
مِّن قَبْلِ رَبِّكَ ﴿۱۷﴾

وَتَحْسَبُهُمْ آيَاتًا وَهُمْ رُقُودٌ
وَنَقَلْنَا عَنْهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ
الشِّمَالِ وَكَلَبْنَا بَاسِطٌ وَرَاعِيَهُ
بِالْوَصِيَّةِ لَوْلَا ظَلَمْتُمْ عَلَيْهِمْ لَوْلِيَّتْ

and would have surely filled your heart with their terror.

19. And thus We (Allah) awoke them that they might question each other. One of them asked others "how long have you stayed here?" Some of them answered, "We (Allah) stayed a day or a part of a day." Others said, "your Rubb (Sustainer) knows well how long we stayed here." "Send one of us with this silver coin to the city. Then let him look for which food is the purer that he may bring for you provision from it, and let him be courteous and let him not inform anyone about you."

20. "Surely, when they know you, they would stone you or make you revert to their faith and if it becomes so, then you would never prosper.

21. Thus We (Allah) disclosed them that the people might know that Allah's promise is true and that in the Hour (Day of Resurrection) there is no doubt. When people began to dispute among themselves about their affairs, they said, "build over their cave any building." Their Rubb (Sustainer) knows well about them. Those who won their point, said, "we swear that we shall erect over them a mosque."

22. Some say, "they were three and the fourth one was their dog" and some say, "they were five and sixth one was their dog," without seeing, just guessing at random, and some say, "they were seven and the eighth one was their dog." Please

میں بھڑائے (18)

اور یونہی ہم نے ان کو جگایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے احوال پوچھیں ان میں ایک کئے والا بولا تم یہاں کتنی دیر رہے؟ کچھ بولے کہ ایک دن رہے؟ یا دن سے کم؟ دوسرے بولے! تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تمہرے تو اپنے میں ایک کو یہ ہانڈی لے کر شہر میں بیجو پھر وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ سہرا ہے؟ کہ تمہارے لیے اس میں سے کھانے کو لائے اور چاہیے کہ نرمی کرے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے (19)

بچک اگر وہ ہمیں جان لیں گے تو ہمیں پھراؤ کریں گے یا اپنے دین میں پھیر لیں گے اور ایسا ہوا تو تمہارا کبھی بھلا نہ ہو گا

(20)

اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں جب وہ لوگ ان کے معاملہ میں باہم جھگڑنے لگے تو بولے! ان کے غار پر کوئی عمارت بناؤ ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے وہ بولے! جو اس کام میں غالب رہے تھے قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے

(21)

اب کہیں گے کہ وہ تین ہیں چوتھا ان کا کتا اور کچھ کہیں گے پانچ ہیں چھٹا ان کا کتا بے دیکھے الاؤ نکا بت اور کچھ کہیں گے سات ہیں اور آسمان ان کا کتا تم فرماؤ! میرا رب ان کی کتنی خوب جانتا

وَنَهْمُ يَزَادُ اَوْ لَمَلَمَتْ مِنْهُمْ رَعْبًا ۝
وَكَذَلِكِ لَعَنَ بَعْضُهُمْ لِبَئْسَ اُولَئِكَ يَتَذَكَّرُونَ
قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا
لَيْسَ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا لَنْ نَكُنَّ
اَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَاذْعَبُوا اَحَدًا كُمْ
يُورِقُ كَمْ هَذِهِ اِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ
اَيُّهَا اَنْزَى طَعَامًا فَلْيَاكُلْ كَمْ يَرِزِقِي
مِنْهُ وَاَلَيْسَ لَطْفٌ وَّلَا يُشْعِرُونَ
بِكُمْ اَحَدًا ۝

اِنَّهُمْ اِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ
اَوْ يُعَذِّبُوكُمْ فِي مَلَبَاتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا
اِذَا الْاِبْدَانُ ۝

وَكَذَلِكِ اَعْتَدْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا اَنَّ
وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَارِيْبٌ
فِيهَا اِذْيُنَّا نَدْعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ
فَقَالُوا الْاَنْبِيَا عَلَيْهِمْ بَلِيَا نَادَيْتَهُمْ
اَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوا عَلٰى
اَمْرِهِمْ لَنْ نَحْذَنَ عَلَيْهِمْ فَسَيُجَادِلُ ۝

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّا بَعْضَهُمْ كَلْبُهُمْ
وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ
رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ
وَأُثْمِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ مَنِّيْ اَعْلَمُ

declare, "my Rubb (Sustainer) knows well their number. None knows them but a few. So do not argue about them but the discussion to the extent already is exposed, and do not ask any one of people of Book for a pronouncement about them.

SECTION 4

23. And never say regarding a thing (O Muslims) "I shall do this tomorrow";

24. "except if Allah Wills". And remember your Rubb (Sustainer) when you forget and please state like this, "it is near that my Rubb (Sustainer) may make me see the right path nearer than this."

25. And they (cavemen) stayed in their cave three hundred years, and (some) add nine years.

26. Please declare, "Allah knows, well, how long they stayed. For Him alone are all the secrets of the heavens and the earth. How excellent He Sees and How excellent He Hears. They have no protector besides Him and He associates none in His sovereignty."

27. And recite what has been revealed to you in the Book of your Rubb (Sustainer). There is none to change His Words, and you will find no refuge except Him.

28. And keep yourself familiar to those who call upon their Rubb (Sustainer) in the morning and evening seeking His Pleasure. And do not turn your eyes away leaving them; in quest of the

ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تمہارے، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہو چکی، اور ان کے بارے میں کسی کتاب سے کچھ نہ پوچھو (22)

بَعْدَ رَبِّهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تَتَّبِعُهُمُ الْإِمْرَاءُ ظَاهِرًا وَلَا جَانِبًا ۚ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فَيُنَبِّئُهُمُ أَحَدًا ۗ

اور ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کروں گا (23)

مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور اپنے رب کی یاد کر جب تو بھول جائے، اور یوں کہو کہ قریب ہے میرا رب مجھے اس سے نزدیک تر اتنی کی پراہ دکھائے (24)

اور وہ اپنے غار میں تین سو برس ٹھہرے نو اوپر (25)

تم فرماؤ! اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے، اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب، وہ کیا ہی دیکھا اور کیا ہی سنتا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی والی نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا (26)

اور تلاوت کرو جو تمہارے رب کی کتاب تمہیں وحی ہوئی، اس کی باتوں کا کوئی بدلے والا نہیں، اور ہرگز تم اس کے سوا پناہ نہ پاؤ گے (27)

وَلَا تَقُولُ لَنْ نَرَأَىٰ فِي قَابِلٍ ذٰلِكَ عَذَابًا

اِنَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنٰ بِرَبِّيْ اِقْرَبُ مِنْ هٰذَا اَشْدُّ ۗ وَكَلِمٰتِيْ كُفْرًا مِّمَّا كَانَتْ مِنْ اٰيٰتِيْ سِيْرًا ۗ وَاَزِدْهُمُ اِسْعٰبًا ۗ

قُلْ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَتَّبِعُوْنَ الْعَذِبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَبْصَرُ بِهٖ وَاَسْمِعُ مَا لَمْ يَحْمَدُوْهُ مِنْ قَبْلِہٖ ۗ وَلَا يَشْرِكُ فِيْ حُكْمِہٖۤ اَحَدًا ۗ

وَاتْلُ مَا وُحِيَ الْبَيْتِكَ مِنْ كِتٰبِ رَبِّكَ اَلَمْ يَدَّبْدِلْ لِكَلِمٰتِہٖۤ وَلَنْ يَّجِدَ مِنْ دُوْنِہٖ مَلْجَاۗءًا ۗ

وَاَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوِّ وَالْعَصِيِّ يَزِيدُوْنَ وُجُوْہَہٗۤ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ

adornment of this worldly life? And do not accept his words whose heart We (Allah) have left neglectful from Our (Allah's) remembrance who follows his own desire and whose affairs exceed the limits.

[THREE FOURTH OF PART 15 ENDS]

29. And Please declare "the truth is from your Rubb (Sustainer). Whoso accepts it will believe but whoso rejects it disbelieves. Surely We (Allah) have already prepared for the cruels a fire whose walls would surround them. And if they cry out for relief they will be showered with water, like molten lead that will burn their faces, what a bad drink it is and the hell, an evil place to dwell.

30. Surely, those who believe and do virtuous deeds, We (Allah) do not waste the reward of those whose deeds are good.

31. For them there are gardens of eternity for habitation beneath which streams flow. They will be adorned therein with bracelets of gold and arrayed in green garments of silk and heavy brocade, leaning therein on raised couches. What a great reward and the Paradise, what a fine resting place?

SECTION 5

32. And explain to them the position of two men, that to one of them We (Allah) assigned two gardens of grapes surrounded with date-palm trees and between the two We (Allah) placed corn fields.

سنگار ماہو گے؟ اور اس کا کمانہ مالو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے قائل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام مد سے گزر گیا (28)

اور فرما! دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، بیگ ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر پانی کے لیے فریاد کریں تو ان کی فریاد رسی ہوگی، اس پانی سے کہ جہنم دیئے ہوئے دھات کی طرح ہے، کہ ان کے منہ بھونے گا، کیا ہی بُرا پینا ہے، اور دوزخ کیا ہی بُری ٹھہرنے کی جگہ (29)

بیگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ہم ان کے نیک (عمل) ضائع نہیں کرتے جن کے کام اچھے ہوں (30)

ان کے لیے جہنم کے باغ ہیں ان کے نیچے دریاں ہیں، وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور سبز کپڑے کرب اور تاجیز کے پہنیں گے، وہاں تختوں پر بکیے لگائے، کیا ہی اچھا ثواب اور جنت کیا ہی اچھی آرام کی جگہ (31)

اور ان کے سامنے دو مردوں کا حال بیان کر، کہ ان میں ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دیئے، اور ان کو کھجوروں سے ڈھانپ لیا، اور ان کے بیچ بیچ میں کھیتی رکھی (32)

رَبِّهِمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَلَا تَطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَابْتِغَىٰ هَوَاهُ ۗ وَإِنَّ أُمَّرَةً فَوْطَا ۗ

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَم مِّن شَاءَ فَلْيُؤْمِنُوا وَمِن شَاءَ فَلْيُكْفُرُوا ۗ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْعَىٰ بُرُؤُهُمْ لَبِئْسَ كَانُمُوهَا يُشْرَىٰ الْوَجْوهُ بِنَسْ الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۗ

إِنَّ الدِّينَ أَهْلُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ مُخْلَدُونَ فِيهَا وَمِنَ الْمَسَاوِدِ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَغْمُرُ فِي الشَّرَابِ وَصُنَّتْ مُرْتَفَقًا ۗ

وَأَصْرِبُ لَهُمْ مَثَلًا لِّظُلْمِنِ جَعَلْنَا لِأَصْحَابِ مَا جَاءَتْنِي مِنَ آعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهَا بِبُغْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ۗ

33. Each of the two gardens brought forth their fruits and did not shorten any thing in the produce and We (Allah) caused to flow streams amidst both;

34. and he had fruits, then he said to his companion, as he used to often discuss with him, "I have greater wealth than you and am stronger in manpower."

35. And he entered in his garden becoming so cruel to himself. He claimed, "I do not think that it will ever perish;"

36. "and I do not think that the Hour (Day of Resurrection) will ever come, but if at all I am returned to my Rubb (Sustainer), even then I shall surely, find a better resort than this (garden).

37. His companion replied to him, while arguing with him, "do you disbelieve Him Who created you from dust then from a sprout and then made you a perfect man?"

38. But I say only this that only Allah is my Rubb (Sustainer) and I associate none with my Rubb (Sustainer)."

39. And why it was not so that when you entered your garden you should have said, "that which Allah Wills, we have no power except to let it pass. There is no strength except the help of Allah. Though you see me as poor than you in wealth and less blessed by children.

40. Yet my Rubb (Sustainer) will give me" in the near future some thing better than your garden and send down thunder bolt from

دونوں باغ اپنے پھل لائے اور اس میں کچھ کسی نہ دی، اور دونوں کے بیچ میں ہم نے نبرہائی (33)

اور وہ پھل رکھتا تھا تو اپنے ساتھی سے بولا، اور وہ اس سے رد بدل کرتا تھا، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں کا زیادہ زور رکھتا ہوں (34)

اپنے باغ میں گیا اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا بولا، مجھے گمان نہیں کہ یہ کبھی فنا ہو (35)

اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو، اور اگر میں اپنے رب کی طرف بھڑکیا، بھی تو ضرور اس باغ سے بہتر پھلے کی جگہ پاؤں گا (36)

اس کے ساتھی نے اس سے الٹ پھیر کرتے ہوئے جواب دیا، کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر تھرے پانی کی بوند سے، پھر تجھے نمیک مرد کیا (37)

لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا ہوں (38)

اور کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا، تو کہا ہوتا، جو چاہے اللہ، ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا، اگر تو مجھے اپنے سے مال و اولاد میں کم دیکھتا تھا (39)

كَلَّمَا الْجَنَّتَيْنِ اَتَتْ اُكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْنَ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ﴿٣٣﴾

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَاَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا اَظُنُّ اَنْ يَبِيدَ هَذِهِ ابَدًا ﴿٣٥﴾

وَمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودْتُ اِلَى رَبِّي لَاجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَلْفَزَّتْ بِالَّذِي خَلَقْتَكُ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ لُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾

لَكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي وَلَا اشْرُكَ بِرَبِّي اَحَدًا ﴿٣٨﴾

وَلَوْلَا اَدْخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتُ مَا سَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ اِنْ سَرَبْنَا اَقْلَ مِنْكَ مَالًا وَاَوْكَلْنَا ﴿٣٩﴾

فَعَسَى رَبِّي اَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا

heaven on your garden, then it may become a bare plain ground;

41. or its water may sink in the ground, then you may never be able to find it.

42. And his fruits were encircled, then he remained rubbing his hands for what he had spent in that garden and it had fallen on ground from the roots. He was saying oh! had I not associated anyone in worship with my Rubb (Sustainer)."

43. And he had no party to help him against Allah, nor he was able to defend himself.

44. Here it becomes clear that the authority to protect belongs to Allah, the True. His reward is the best and best is the end of believing in Him.

SECTION 6

45. And relate to them the example of the life of the world. It is as a water We (Allah) send down from the heaven, then the greenery of the earth, because of it, comes out thickly and then it becomes dry grass which the wind scatters. And Allah is Powerful over everything.

46. The wealth and sons are an adornment of the life of this world and the lasting are the good deeds. Their reward is better with your Rubb (Sustainer) and the same is best in hope.

47. And (remember) the Day when We (Allah) shall blot out the mountains and you will see the earth cleanly levelled. We (Allah) shall raise the entire mankind together while We (Allah) shall not leave any one of them.

سے بجلیاں اتارے تو وہ پت پر (سفیہ زمین) میدان ہو کر رہ جائے (40)

یا اس کا پانی زمین میں دھس جائے پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے (41)

اور اس کے پھل گھیر لے گئے تو اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس لاکٹ پر جو اس باغ میں خرچ کی تھی اور وہ اپنی نیلیوں (اوندھے منہ) پر گرا ہوا تھا اور کہہ رہا ہے، اے کاش! میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا (42)

اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی نہ وہ بدلا لینے کے قابل تھا (43)

یہاں کہتا ہے کہ اختیار سچے اللہ کا ہے اس کا ثواب سب سے بہتر اور اسے ماننے کا انجام سب سے بھلا (44)

اور ان کے سامنے زندگی دنیا کی کمالت (مثال) بیان کرو جیسے ایک پانی ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین کا سبزہ گھٹا ہو کر نکلا کہ سوکھی گھاس ہو گیا جسے ہوائیں اڑائیں اور اللہ ہر چیز پر قابو والا ہے (45)

مال اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سنگار ہے اور باقی رہنے والی اچھی باتیں ان کا ثواب تمہارے رب کے یہاں بہتر اور وہ امید میں سب سے بھلی (46)

اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے اور ہم انہیں اٹھائیں گے تو ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے (47)

قَدْ نَسِيَ آتَانَ السَّمَاءِ فَاصْبِرْ صَبِيرًا زَلَقًا
أَوْ يَصْبِرْ مَا وَهَّاعُوا فَلَنْ يُسْتَطِيعَ
لَهُ طَلَبًا ۝۴۰

وَأَحْضِرْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَلْبَسْ كَفِينَهُ
عَلَىٰ مَا أَنْفَقُوا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَقَوْلُ لَيْلَتُنِي لَمْ أَتُوبْ
بِرَبِّي أَحَدًا ۝۴۱

وَلَوْ تَكَّنْ لَهُ فِئَةٌ يَتَصَدَّقُوهَا مِنْ
دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۝۴۲
هَذَا كَلِمَةُ الْوَالِدِ لِلَّذِي عَنِ هُوَ خَيْرٌ
يَعْتَابُوا وَخَيْرٌ عَقْبًا ۝۴۳

وَاصْبِرْ لَهُمْ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ
بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَرَ هَيِّئًا
تَنْزُرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝۴۵

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا أَمَلًا ۝۴۶

وَيَوْمَ نَسِفُ الْجِبَالَ وَنَرَى الْأَرْضَ
بَلْرُودَةٍ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْهُنَّ
مِنْهُمْ أَحَدًا ۝۴۷

48. And all shall be presented before your Rubb (Sustainer) standing in rows. Surely, you have come to Us (Allah) same as We (Allah) had made you at first. But you thought that We (Allah) would never fix any time for fulfilment of Our (Allah's) Promise.

اور سب تمہارے رب کے حضور پرا
(مٹیں) بانٹے پیش ہوں گے، چنگ تم
ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسا ہم نے
تمہیں پہلی بار بنایا تھا، بلکہ تمہارا گمان تھا
کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدہ کا
وقت نہ رکھیں گے (48)

وَعَرَضُوا عَلٰی رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ
جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ
بَلْ زَعَمْتُمْ اَنَّ نَجْعَلُ لَكُمْ
مَوْعِدًا ﴿۴۸﴾

49. And the book of deeds shall be put-up, then you will see the criminals fearing for what is written therein and will say, "Oh! woe to us, what happened to this writing? It left neither any small sin nor a big one has been left without recording and they found all that they did before them. And your Rubb (Sustainer) is not cruel to anyone.

اور نامہ اعمال رکھا جائے گا، تو تم مجرموں
کو دیکھو گے کہ اس کے کلمے سے ڈرتے
ہوں گے، اور کہیں گے، ہائے! خرابی
ہماری اس نوشتہ کو کیا ہوا، نہ اس نے کوئی
چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا، جسے گھبر نہ لیا ہو،
اور اپنا سب کیا انہوں نے سامنے پایا، اور
تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا (49)

وَوَضَعَ الْكِتٰبَ فَتَرٰى الْمُجْرِمِيْنَ
مُشْفِقِيْنَ وَمَآ تِيْبِهٖ وَيَقُولُوْنَ
يٰۤوَيْلَنَا مَا لَمْ يَدْرِ الْكِتٰبُ اَلَا
يُعَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَخْصٰنًا
وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حٰضِرًا وَّلَا يَظُنُّوْنَ
بِئَرِّ رَبِّكَ اٰحَدًا ﴿۴۹﴾

SECTION 7

50. And remember when We (Allah) Ordered angels to prostrate before Aadam, then all prostrated save Iblis (devil). He was of the Jinns. He went out of the Command of his Rubb (Sustainer). Do you take him and his off-springs for friends instead of Me? And they are your enemies. What an evil exchange the cruels do get?

اور یاد کرو! جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا
کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا
سوا ابلیس کے، قوم جن سے تھا، تو اپنے
رب کے حکم سے نکل گیا، بھلا! کیا اسے
اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست
بناتے ہو، اور وہ تمہارے دشمن ہیں،
ظالموں کو کیا ہی بڑا بدل ملا (50)

وَ اذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ
فَسَجَدُوْا اِلَّا الْاَيْبٰسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ
فَفَسَقَ عَنِ اَمْرِ رَبِّهٖ فَاتَّخَذَ وَاْنَهٗ
وَدْرِيْتَهُ اٰدِيْۤآءًا مِّنْ دُوْنِيْ وَهُمْ
لَكُمْ عَدُوٌّ اِلَّا بَلٰسًا لِلظّٰلِمِيْنَ
بِدٰلًا ﴿۵۰﴾

51. I had neither made them witness while creating heavens and earth, nor while creating them, and nor (it is befitting to My dignity) to make My supporters those who lead others on the wrong way.

نہ میں نے آسمانوں اور زمین کے بناتے
وقت انہیں سامنے بٹھا لیا تھا، نہ خود ان
کے بناتے وقت، اور نہ میری شان کے گمراہ
کرنے والوں کو بازو بناؤں (51)

مَا اَشْهَدُوْهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ
وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ وَمَا
كُنْتُ مُتَّخِذًا الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا ﴿۵۱﴾

52. And the Day when He will say, "call whom you associated by your fancies with Me. They will call them but they will not answer them, and We (Allah) shall

اور جس دن فرمائے گا کہ پکارو میرے
شریکوں کو جو تم گمان کرتے تھے، تو انہیں
پکاریں گے، وہ انہیں جواب نہ دیں گے،
اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا

وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءَ اِيَّيْ الدِّيْنِ
زَعَمْتُمْ فَاَدْعُوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوْا

set a barrier of destruction between them.

53. And the criminals will see the fire and will believe that they are to fall in it and will find no way of return from it.

SECTION 8

54. And surely, We (Allah) have explained in varied manners all kinds of examples in this Qur'aan for the people, and the man is most quarrelsome over everything.

55. And what hindered men from believing when guidance came to them and from asking forgiveness from their Rubb (Sustainer) except that the precedent of the ancients should come to them or that the varied punishments should be awarded to them.

56. And We (Allah) do not send the Rasools (Messengers) except as bearers of good news and as warners. But those who are disbelievers quarrel with false arguments that they may rebut the truth therewith. And they took My revelations, and what they were warned of, as a joke.

57. And who is more cruel than he who, when he is reminded of the Verses of his Rubb (Sustainer) turns away his face from them and forgets what his hands have sent forward. We (Allah) have left covers on their hearts that they do not understand Qur'aan and in their ears is a deafness. And if you call them towards guidance even then they will never find the way.

میدان کر دیں گے (52)

اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کریں

گے کہ انہیں اس میں گرنا ہے اور اس

سے بھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے (53)

اور بیک ہم نے لوگوں کے لیے اس

قرآن میں ہر قسم کی مثل طرح بیان

فرمائی، اور آدمی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑا لو

ہے (54)

اور آدمیوں کو کس چیز نے اس سے روکا

کہ ایمان لائے، جب ہدایت ان کے پاس

آئی، اور اپنے رب سے معافی مانگتے مگر یہ

کہ ان پر انہوں کا دستور آئے، یا ان پر

ہم قسم کا عذاب آئے (55)

اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشی اور

ڈر سنانے والے، اور جو کافر ہیں، وہ باطل

کے ساتھ جھگڑتے ہیں، کہ اس سے حق کو

ہٹا دیں، اور انہوں نے میری آیتوں کی

اور جو ڈر انہیں سنائے گئے تھے ان کی

ہنسی بنائی (56)

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جسے اس

کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں، تو وہ

ان سے منہ پھیر لے، اور اس کے ہاتھ جو

آگے بھیج چکے اسے بھول جائے، ہم نے

ان کے دلوں پر غلاف کر دیئے ہیں، کہ

قرآن نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں

گرانی، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف

بلاؤ، تو جب بھی ہرگز کبھی راہ نہ پائیں گے

(57)

لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ۝۴۱

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ

بِهَا مُوَابِقُونَ فَلَمْ يَجِدُوا عِنْدَهَا مَصْرَفًا ۝۴۲

وَلَقَدْ صَدَقْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ

مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ

شَيْءٍ جَدَلًا ۝۴۳

وَمَا مَنَعَهُمُ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِالْآيَاتِ

الْمُهْدَى وَيَتَذَكَّرُوا لِمَ آتَاهُمُ الْإِن

تَائِبُهُمْ سَنَةً الْآدِلِينَ أَوَّلِيَّاهُمْ

الْعَذَابِ تَبَلًا ۝۴۴

فَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ

وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا

بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ

وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا نُنذِرُهُمْ

أَذًى ۝۴۵

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ آيَاتِ رَبِّهِ

فَاعْرَضَ عَنْهَا وَابْتَدَأَ بِهَا

الْتِمَاعَ عَلَيَّ قَوْلَهُمْ أَكْرَهًا أَنْ

يَفْقَهُوهَ فِي آذَانِهِمْ وَقَدْ آوَانُ

تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا

إِذَا بَدَأُوا ۝۴۶

58. And your Rubb (Sustainer) is the Forgiver, full of Mercy. If He had seized them for what they did then He would have hastened punishment for them. But for them there is an appointed time against which they will not find any refuge.

59. And these towns, We (Allah) have destroyed when they committed cruelties against which they were given a time before their destruction.

SECTION 9

60. And recall, when Moosaa (Moses) said to his companion, "I shall not desist until I reach there where two seas have joined, or I shall go on for ages in travel".

61. Then when they both reached the meeting place of two seas they forgot their fish, and she found its way in the sea going away swiftly to water.

62. And when they had gone further, Moosaa (Moses) said to his companion, "bring me some food." We have faced great hardship in this journey.

63. He said, "please see, when we took rest near that rock, then surely, I forgot the fish, and the satan (devil) made me forget so that I should mention it to you and it took its way in the sea in a miraculous manner."

64. Moosaa (Moses) said, "that is what we are seeking." Then they turned back tracing their footsteps;

65. so they found a devotee from Our (Allah's) devotees, whom We (Allah) gave Mercy from Ourselves (Allah) and bestowed him Our (Allah) inspired knowledge.

اور تمہارا رب بخشنے والا مہربان (رحم) والا ہے، اگر وہ انہیں ان کے کیے پر پھرتا تو جلد ان پر عذاب بھیجتا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی نہ پاؤں گے (58)

اور یہ بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی بربادی کا ایک وعدہ رکھا تھا (59)

اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، میں باز نہ رہوں گا، جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے، میں یا قریوں (دروں) چلا جاؤں (60)

پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے، اپنی مچھلی بھول گئے، اور اس نے سمندر میں اپنی راہ لی سرگ بنائی (61)

پھر جب وہاں سے گزر گئے، موسیٰ نے خادم سے کہا، ہمارا مچ کا کھانا لاؤ، بیٹک ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا (62)

بولنا، بھلا دیکھتے تو! جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی، تو بیٹک میں مچھلی کو بھول گیا، اور مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کروں، اور اس نے تو سمندر میں اپنی راہ لی، اچھا ہے (63)

موسیٰ نے کہا، یہی تو ہم چاہتے تھے، تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے (64)

تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا ظلم لدنی عطا کیا (65)

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُ هُمْ بِمَا كَسَبُوا الْعَجَلُ لَهُمْ الْعَذَابُ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْعِدًا ۝۵۸

وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهَكُنَّ لَهَا ظَلُمُوا فَجَعَلْنَا لَهُمْ جَهَنَّمَ مَوْعِدًا ۝۵۹

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۝۶۰

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝۶۱

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسِيتهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝۶۲

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَجَدْتُ الرَّحْمَٰنَ يَدْعُنِي فَاتَّبَعْتُهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝۶۳

قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَاتَرْتَهُ أَتَىٰ آثَارِهِمَا اقْتِصَا ۝۶۴

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ۝۶۵

66. Moosaa (Moses) said to him, "should I remain with you on the condition that you will teach me the right guidance from your knowledge which you have been taught."

67. He said, "you can never keep company with me."

68. "And how you will keep patience over that which your knowledge does not comprehend?"

69. He (Moses), said, "if Allah Wills you will find me patient, and I shall not disobey you in any of your orders".

70. He said, "If you remain with me, then donot ask me anything, unless I myself explain it."

SECTION 10

71. Now both of them set out, until they embarked in a boat but that man tore it (boat) out. Moosaa (Moses) said, "have you torn it in order to drown its passengers? Surely, you have done a wrong thing."

72. He said, "did I not tell you, that you would not be able to keep company with me."

73. (Moses) said, "donot take to task what I forgot and put no difficulty on me for my lapses."

74. Again both of them set out, until they met a boy. He (companion) killed him. Moosaa (Moses) said, "have you killed an innocent life without his having killed another? Certainly you have done a heinous crime."

اس سے موسیٰ نے کہا، کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی (66)

کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہریں گے (67)

اور اس بات پر کیونکر مہربان کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں (68)

کہا، غریب اللہ چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے، اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا (69)

کہا، تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں اور مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا، جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں (70)

اب دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے، اس بندہ نے اسے چیر ڈالا، موسیٰ نے کہا، کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو؟ بیشک یہ تم نے بری بات کی (71)

کہا، میں نہ کتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہریں گے (72)

کہا، مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کرو، اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو (73)

پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا اس بندہ نے اسے قتل کر دیا، موسیٰ نے کہا، کہ تم نے ایک ستمی جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی، بیشک تم نے بہت بری بات کی (74)

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ اتَّبَعَكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ مِن مَّا عَلَّمْتَ رَسُولًا ۖ ﴿٦٦﴾

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۖ ﴿٦٧﴾

كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۖ ﴿٦٨﴾

قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۖ ﴿٦٩﴾

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحَدِّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۖ ﴿٧٠﴾

فَانظُرْنَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبْنَا فِي الْغَمَّةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتَمُرَّكَ أَهْلُهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا أَمْرًا ۖ ﴿٧١﴾

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۖ ﴿٧٢﴾

قَالَ لَا تَأْخُذْ بِنِيءِ مَا نَسِيتُ وَلَا تَزِدْهُنَّ مِنِّي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۖ ﴿٧٣﴾

فَانظُرْنَا حَتَّىٰ إِذَا قِيَا عُلَاهُمَا الْقَتْلَ قَالَ أَتَقْتَلْتَنِي لَئِن لَّمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ نَفْسٌ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا أَمْرًا ۖ ﴿٧٤﴾

PART 16

SURA KAHF (XVIII)

(Contd.)

SECTION 10 (Contd)

75. He (Khizr) replied, "did not I tell you, that you will not have patience to keep company with me?"

76. He (Moses) said, "if I ask you after this any thing then donot keep me with you, because then you will have sufficient excuse against me."

77. Again both went on till they came to the people of a village. They asked them for food, but they refused hospitality. They found there a wall about to fall, but he (Khizr) set it right. (Moses) said, "if you wished, you could have taken a wage for it".

78. He (Khizr) said, "this is the departing point between me and you". "Now I tell you the interpretation of those things over which you could not have patience."

79. "As for the boat, it belonged to certain poor people working in the sea. I desired to make it unserviceable for there was behind them a king seizing every perfect boat by force".

80. "And as for the youth, his parents were believers (Muslims). But we (Khizr) feared that he might involve them in his worst rebellion and disbelief".

81. "So we (Khizr the companion) desired that their Rubb (Sustainer) may give them better one and more virtuous son".

82. "As for the (falling) wall, it belonged to the two orphan boys of the town and beneath it was their treasure

کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہریں گے (75)

کہا اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا بیگ میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا (76)

پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے ان دنوں سے کھانا مانگا انہوں نے انہیں دعوت دینی قبول نہ کی پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ گرا چاہتی ہے اس بندہ نے اسے سیدھا کر دیا موسیٰ نے کہا تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے (77)

کہا یہ میری اور آپ کی جدائی ہے اب میں آپ کو ان باتوں کا پھیر بتاؤں گا جن پر آپ سے میرنہ ہو سکا (78)

وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا (79)

اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر چڑھا دے (80)

تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر سترا اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کرے (81)

رہی وہ دیوار وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور

قَالَ اَلَمْ اَتْلُكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَبِيْعَ
مَعِيَ صَبِيْرًا ۝۷۰

قَالَ اِنْ سَأَلْتِكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا
فَلَا تَصْحَبْنِيْ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّيْ
عُدْرًا ۝۷۱

فَاَنْطَلَقَا حَتَّىٰ اِذَا اَتَيَا اَهْلًا قَرْيَةٍ
اَسْتَطْعَمُوْا مِنْهَا فَاَوْاٰنٌ يُّضَيِّقُوْهَا
فَوَجَدُوْا فِيْهَا جِدَارًا اَمْرًا اِيْرِيْدُ اَنْ
يُنْقِضَ فَاَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتُ
لَتَفْتِنْتُكَ عَلَيْهِ اَجْرًا ۝۷۲

قَالَ هَذَا اِفْرَاقٌ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ
سَاْنِبْتُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ
عَلَيْهِ صَبِيْرًا ۝۷۳

اِنَّهَا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنٍ
يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَاَرَادَتْ اَنْ اَغِيْبَهَا
وَكُنْ وَرَدَّ اَهُمْ فَهَلِكْتَ يَاْخُذُ كُلُّ
سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ۝۷۴

وَاَمَّا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ اَبُوْهُ مُؤْمِنًا
فَخَشِيَ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طَغْيَانًا وَاَكْفُرًا

فَاَرَدْنَا اَنْ نُبَيِّنَ لَهُمَا اٰيَاتِنَا وَلِنُفِثَنَّهُ
زَكُوَةً وَاَقْرَبَ رَحْمًا ۝۷۵

وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ
فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ

and their father was a righteous man. So your Rubb (Sustainer) desired that both should reach their strength of maturity and bring out their treasure, as a mercy from your Rubb (Sustainer). And I did not do it of my own accord. This is the interpretation of those things on which you could not have patience”.

SECTION 11

83. And (Muhammad) they ask you about Zilqarnain. Please declare, “We (Allah) read out to you full details about him”.

84. Surely, We (Allah) established his control in the earth and bestowed him all means to achieve everything;

85. then he followed a way; 86. till he reached the place of sun setting. He found it setting in a black muddy spring, and he found a nation there. We (Allah) said, “O Zilqarnain, either you punish them or treat them with kindness”.

87. He said, “as for him who commits cruelty we (Zilqarnain) shall punish him soon; then he will be returned towards his Rubb (Sustainer). He will punish him with a dreadful punishment.

88. And who believes and does righteous deeds he will have a handsome reward and We (Allah) shall be soft to him in Our (Allah's) command.

89. Again he followed (another) way.

90. Until, he reached the place of sun-rising, he found it rising on a nation for whom We (Allah) had not put any

ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں، اور اپنا خزانہ نکالیں، آپ کے رب کی رحمت سے اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا، یہ پھیر ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا (82)

اور تم سے ذوالقرنین کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ! میں تمہیں اس کا ذکر پڑھ کر سناتا ہوں (83)

بیک ہم نے اسے زمین میں قابو دیا اور ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا (84)

تو وہ ایک سامان کے پیچھے چلا (85)

یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا، اسے ایک سیاہ کچڑ کے جھنڈے میں ڈوبتا پایا، اور وہاں ایک قوم ملی، ہم نے فرمایا! اے ذوالقرنین! یا تو انہیں سزا دے یا ان کے ساتھ بھلائی اختیار کرے (86)

عرض کی، کہ وہ جس نے ظلم کیا اسے تو ہم عذریب سزا دیں گے، پھر اپنے رب کی طرف پھیرا جائے گا، وہ اسے بڑی مار دے گا (87)

اور جو ایمان لایا اور نیک کام کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے، اور عذریب ہم اسے آسان کام کہیں گے (88)

پھر ایک سامان کے پیچھے چلا (89)

یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا، اسے ایسی قوم پر لکھا پایا جن کے

لہمّا وادکان الیوم صالیاً فی ارضنا
رہک ان یتلغا اشدھا ویستخرجنا
کنزھما رخصۃ من ربک وما فعلنا
عن امری ذلک تاویل ما لم نستطع
فما علیہ وصبراً ۝

وَدَلَّوْنَاكَ عَنْ ذِي الْقَرْيَيْنِ قُلْ
سَأَلْتُمْنِي أَغْنَيْكُمْ عَنْهُ قُلْ كَلَّا ۝

إِنَّمَا تَأْتِي فِي الْأَرْضِ وَإَيْنَاهُ مِنْ
كُلِّ شَيْءٍ سَبِيلٌ ۝

فَاتَّبِعْ سَبِيلًا ۝

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ
وَجَدَهَا غَاطِبَةً فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَ

وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا الْقَرْيَيْنِ
إِمَّا أَنْ نَعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ نَمُوتَ فَبِهِمْ

حَسَنًا ۝

قَالَ أَفَأَمَّنَ ظَلَمَ نَسُوفَ نَعَذِّبُهُ
ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا

كُلًّا ۝

وَإِمَّا أَنْ يَأْمَنَ وَوَعَدَ صَالِحًا أَقْلَهُ
جَزَاءً الْحَسَنَىٰ وَسَنُقْولُ لَهُ مِنْ

أَمْرِنَا إِسْرًا ۝

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبِيلًا ۝

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ
وَجَدَهَا طَالِمَةً عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ

covering (shelter) against the sun-rays.

91. So it was, and whatever he had, Our (Allah's) Knowledge encircles it.

92. Again he followed (another) way.

93. Until when he reached between two mountains where he found on this side of them such a nation who did not understand any word.

94. They said, "O Zilqarnain, surely, Yajooj (Gog) and Majooj (Magog) cause disorder on the earth. Should we fix some tax for you on the condition that you may set up a wall (barrier) between us and them".

95. He replied, "the power my Rubb (Sustainer) has given me is perfect but help me with strength that I may make a strong wall between you and them".

96. Bring to me the pieces of iron, till he levelled the gap of wall up to the sides of the two mounts. He said, "blow" and he made it red as fire. Then he said, "bring me molten copper that I may pour on it".

97. Then they (Gog and Magog) could neither climb over it, nor they could make a hole in it.

98. He said, "this is a blessing from my Rubb (Sustainer). But when the promise of my Rubb (Sustainer) will come, He will break it into powder (dust) and certainly the promise of my Rubb (Sustainer) is true".

99. And on that Day We (Allah) shall leave them that one group of them will strike the other and the trumpet

لے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی
(90)

بات یہی ہے اور جو کچھ اس کے پاس تھا
سب کو ہمارا علم محیط ہے (91)

پھر ایک سامان کے پیچھے چلا (92)
یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے بیچ پہنچا
ان سے ادھر کچھ ایسے لوگ پائے کہ کوئی
بات سمجھنے معلوم نہ ہوتے تھے (93)

انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین! بے شک یا
جوج و ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو
کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر
دیں، اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں
ایک دیوار بنا دیں (94)

کہا، وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو
دیا ہے، بہتر ہے تو میری مدد طاقت سے
کرو، میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط
آڑ بنا دوں (95)

میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ! یہاں تک
کہ جب وہ دیوار دونوں پہاڑوں کے
کناروں سے برابر کر دی، کہا، دھوکو یہاں
تک کہ جب اسے آگ کر دیا، کہا، لاؤ!

میں اس پر گلا ہوا تانبہ اونچیل دوں (96)
تو یاجوج و ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور
نہ اس میں سوراخ کر سکے (97)

کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر
جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے
پاش پاش کر دے گا، اور میرے رب کا
وعدہ سچا ہے (98)

اور اُس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ان
کا ایک گروہ دوسرے پر رٹلا آوے گا اور

لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سُورًا ﴿٩١﴾
كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَكُمْ خُبْرًا ﴿٩٢﴾

تَمَّتْ آيَاتُنَا بِمَنْبَأِ ﴿٩٣﴾
حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ
مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكْفُرُونَ
بِذُنُوبِهِمْ قَوْمًا لَّا يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٤﴾

قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّا يَا جُوجُ
وَمَا جُوجُ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَمَلَّ
نَجْعَلْ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ
بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٥﴾

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ
فَأَعْيُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٦﴾

أَتَوْنِي زُرَّارًا لَّحْدِيدٍ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَى
بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُثُوا حَتَّىٰ
إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ أَتَوْنِي أَفْرَجٌ
عَلَيْهِ وَطَرًا ﴿٩٧﴾

ثُمَّ اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا
اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿٩٨﴾

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنِّي فَإِذَا جَاءَ
وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ
رَبِّي حَقًّا ﴿٩٩﴾

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي
بَعْضٍ وَرَفَعْنَا فِي السُّورِ فِجْمَعَهُمْ

shall be blown, then We (Allah) shall gather them all-together.

100. And We (Allah) shall present hell that day for disbelievers, face to face.

101. These (disbelievers) upon whose eyes were coverings from My remembrance they had been unable to even hear (the truth).

SECTION 12

102. Do the disbelievers think that they will make My devotees as their protectors instead of Me? Surely We have already prepared hell for the entertainment of such disbelievers.

103. (Muhammad) please declare, "shall We (Allah) tell you, who will be greatest losers in respect of their deeds ?

104. It will be those whose efforts are lost in the life of this world and they think that they are doing good work.

105. These are the people who disbelieved in the revelations of their Rubb (Sustainer) and meeting Him. Therefore, all their deeds are vain, and I shall not give any weight to them on the Day of Resurrection.

106. Their award is the hell because they disbelieved and took My revelations and My Rasools (Messengers) in joke.

107. Surely, those who believe and do righteous deeds, they shall have gardens of Paradise for their hospitality.

108. They shall remain there for ever, not willing to change the place therefrom.

109. Please declare, "if the oceans be the ink for (writing)

صور چھوٹا جائے گا تو ہم سب کو اکٹھا کر لائیں گے (99)

اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے (100)

وہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا اور حق بات سن نہ سکتے تھے (101)

تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنائیں گے، بلکہ ہم نے کافروں کی مسمانی کو جہنم تیار کر رکھی ہے (102)

تم فرماؤ! کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں؟ (103)

ان کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم گئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں (104)

یہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں اور اس کا لمانا نہ مانا تو ان کا کیا دھرا سب اکارت (ضائع) گیا، تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول نہ قائم کریں گے (105)

یہ ان کا بلا ہے جہنم، اس پر کہ انہوں نے کفر کیا، اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کی انہی باتوں (106)

بلکہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے فردوس کے باغ ان کی مسمانی ہے (107)

وہ ہمیشہ ان ہی میں رہیں گے، ان سے جگہ بدلانا نہ چاہیں گے (108)

تم فرماؤ! اگر سمندر میرے رب کی باتوں

جَمْعًا ۞
وَعَرْضًا جَهَنَّمَ يُؤْمِنُونَ لَكُفْرِينَ
عَوَصًا ۞

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ
عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ
بِمَا سَمِعُوا ۞

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا
عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا
أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لَكُفْرِينَ نُزُلًا ۞

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۞

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّكُمْ
يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۞

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا أَيُّهَا رَبِّي
وَلِقَابِهِ فَصَبَّطْتَ أَعْمَالَهُمْ فَلَا
تَقْدِيرَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَأْنَا ۞
ذَلِكَ جَزَاءُ هُم جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا

وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرَسُولِي هُزُوءًا ۞

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۞

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۞
قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي

the words of praise of my Rubb (Sustainer) then necessarily, the oceans would be sooner exhausted and the words of (praise of) my Rubb (Sustainer) would not come to an end, though We (Allah) may provide the like (ocean) of it as added help".

110. Please declare, "apparently in outlook) I (Muhammad S.A.W) am a person like you. I receive revelation, that your Allah is the only One worth worship. Whoso expects to meet his Rubb (Sustainer) he should do righteous deeds and should not "muushrik" to associate any one in the worship of his Rubb (Sustainer).

S. XIX

SURA MARYAM (MARY)

(Revealed at Makkah)

(6 Sections, 98 Verses)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. Kaaf - Ha - Ya - Ain - Saad (K.H.Y.A.S).

2. This is an account of that Mercy of your Rubb (Sustainer) which He bestowed to His devotee, Zakariyya (Zachariya).

3. When he called his Rubb (Sustainer) secretly.

4. He prayed, "O my Rubb (Sustainer) my bones have weakened and the glitter of oldness appears from my head. O my Rubb (Sustainer) I have never remained unblessed after calling You in submission".

5. "And surely I fear my kinsmen after me (what will they do) as my wife is barren,

کے لیے سیای ہو، تو ضرور سندھ ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں (109)

تم فرماؤ! ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں، مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے (110)

سورہ مریم کی ہے (اس میں) اٹھانوے (98) آیات اور چھ (6) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا

کھلیعص (1)

یہ مذکور ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندہ ذکر کیا پر کی (2)

جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا (3) عرض کی! اے میرے رب! میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر سے بڑھاپے کا بھجوا پھوٹا اور اے میرے رب! میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہ رہا (4)

اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے اور میری عورت بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے ڈال جو میرا

لَقَدْ اَلْبَصُرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَعُ كَلِمَةً رَبِّيْ وَلَوْ جِئْتُ بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝۱۰

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ اِلَيَّ اِنَّمَا الْكَلِمَةُ لِيَّ وَاجِدُ مَنِ كَانَتْ بِرَحْمَةِ الْقَاءِ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا ۝۱۱

سُوْرَةُ مَرْيَمَ فِي ثَمَانِيْنَ اَيَاتٍ رَّبُّهُمُ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كَلِمٰتٍ ۝

وَلَوْ رَحِمْتَ رَبِّيْكَ

عَبْدًا ذَكَرْتَا ۝

اِذْ نَادَى رَبِّيْٓ اِنْ اَدَّخَفْتَا ۝

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ وَهَنْ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَ

اِسْتَعَلَّ الرَّاسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْ

بِدُعَاؤِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝

وَ اِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَآءِيْ وَ

كَانَتْ اِمْرًا لِّيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ

so give me from Yourself a successor";

6. "who may be my heir and the heir of the children of Yaqub (Jacob) And O my Rubb (Sustainer) make him graceful in your sight".

7. O Zakariyya (Zachariya) We (Allah) give you good news of a son whose name is Yahya (John). No one has been given such a name before him.

8. He said, "O my Rubb (Sustainer) how I shall have a son when my wife is barren and I have reached the extreme of my old-age".

9. He said, "so it will be". Your Rubb (Sustainer) says, "that is easy to Me and indeed I also made you before at a time when you were nothing.

10. He said, "O my Rubb (Sustainer), give me any sign". He said, "your sign is that you will not speak for three days and nights remaining normal".

11. So he came out to his nation from the chamber (mosque) and signalled to them to continue glorifying (Allah) at morning and in the evening.

12. O Yahya, (John), hold fast the Book. And We (Allah) bestowed him wisdom in his childhood;

13. and kind-heartedness from Me and purity. And he was utmost pious;

14. and was well-behaved towards his parents and was not arrogant, disobedient.

15. And peace be upon him on the day when he was born and the day, when he died and the day when he will be again raised alive.

کام اٹھالے (5)

وہ میرا جانشین ہو اور اولاد یعقوب کا وارث ہو، اور اے میرے رب! اسے پسندیدہ کر (6)

اے زکریا! ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی، جن کا نام یحییٰ ہے، اس کے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی نہ کیا (7)

عرض کی! اے میرے رب! میرے لڑکا کمال سے ہو گا، میری عورت تو باندھ ہے، اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا (8)

فرمایا: ایسا ہی ہے، تمہارے رب نے فرمایا: وہ مجھے آسان ہے، اور میں نے تو اس سے پہلے تجھے اس وقت بنایا جب تو کچھ بھی نہ تھا (9)

عرض کی! اے میرے رب! مجھے کوئی نشانی دے دے، فرمایا: تیری نشانی یہ ہے کہ تو تین رات دن لوگوں سے کلام نہ کرے بھلا چنگ ہو کر (10)

تو اپنی قوم پر مسجد سے باہر آیا، تو انہیں اشارہ سے کہا، کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو (11)

اے یحییٰ! کتاب مضبوط تمام، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں نبوت دی (12)

اور اپنی طرف سے مہربانی اور سحرمانی اور کمال ڈر والا تھا (13)

اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا، زبردست و نافرمان نہ تھا (14)

اور سلامتی ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے گا، اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا (15)

لَدُنْكَ رَبِّيَ ۝

يُرْسِلْهُمُ الْغُيُوثَ وَيُنزِلْ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ الْمُبِينَ ۝

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝

قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَ مَا كَانَ لِي مِنْهُ امْرَأَةٌ وَأَنَا كَاهِنٌ وَ أَنَا بَالِغٌ عِلْمِي ۝

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلِيمٌ هَاتِي بِآيَاتِكَ فَخَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ لَمْ نَكُ سَمِيًّا ۝

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۝ قَالَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ نَذِيرًا وَ نَذِيرًا لِلنَّاسِ أَلَمْ تَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ۝

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۝ قَالَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ نَذِيرًا وَ نَذِيرًا لِلنَّاسِ أَلَمْ تَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ۝

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۝ قَالَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ نَذِيرًا وَ نَذِيرًا لِلنَّاسِ أَلَمْ تَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ۝

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۝ قَالَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ نَذِيرًا وَ نَذِيرًا لِلنَّاسِ أَلَمْ تَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ۝

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۝ قَالَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ نَذِيرًا وَ نَذِيرًا لِلنَّاسِ أَلَمْ تَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ۝

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۝ قَالَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ نَذِيرًا وَ نَذِيرًا لِلنَّاسِ أَلَمْ تَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ۝

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۝ قَالَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ نَذِيرًا وَ نَذِيرًا لِلنَّاسِ أَلَمْ تَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ۝

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۝ قَالَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ نَذِيرًا وَ نَذِيرًا لِلنَّاسِ أَلَمْ تَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ۝

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۝ قَالَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ نَذِيرًا وَ نَذِيرًا لِلنَّاسِ أَلَمْ تَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ۝

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۝ قَالَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ نَذِيرًا وَ نَذِيرًا لِلنَّاسِ أَلَمْ تَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ۝

SECTION 2

16. And do mention Maryam (Mary) in the Book; when she went apart from her family towards a house in the east;

17. and she put a veil apart from them, then We (Allah) sent Our (Allah's) spirit (Angel) to her, who appeared to her like a normal (healthy) man.

18. She said, "I beg refuge of the most Affectionate (Allah) from you if you are pious.

19. He said, 'I am only a Messenger (Angel) of your Rubb (Sustainer) to bestow you a most purified son'.

20. She said, "how I shall have a son as neither a man has touched me, nor I am an unchaste?"

[ONE FOURTH OF PART 16 ENDS]

21. He said, "so it shall be." Your Rubb (Sustainer) has said, this is easy for Me," and We (Allah) made him a symbol for the mankind and a mercy from Us (Allah) and this is Our (Allah's) decree."

22. So she (Maryam) conceived him, then she went away with him to a far off place.

23. Then the pains of the child-birth brought her to the trunk of a palm tree. She said, "Oh, would that I had died before this and had become a thing forgotten."

24. Then one called from underneath her, "do not be grieved, certainly your Rubb (Sustainer) has caused to flow a rivulet below you".

25. "And shake towards yourself the trunk of the palm

اور کتاب میں مریم کو یاد کرو جب اپنے گھر والوں سے پورب (شرق) کی طرف ایک جگہ الگ گئی (16)

تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا، تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا، وہ اس کے سامنے ایک سندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا (17)

بولی! میں تجھ سے رخصت کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے (18)

بول! میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں (19)

بولی! میرے لڑکا کہاں سے ہو گا؟ مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ نہ لگایا، نہ میں بدکار ہوں (20)

کہا، یونسی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے، اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشانی کریں، اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ٹھہر چکا ہے (21)

اب مریم نے اس پیٹ میں لیا، اسے پھر لے ہوئے ایک دور جگہ چلی گئی (22)

پھر اسے جننے کا درد، ایک کھجور کی جڑ میں لے آیا، بولی! ہائے! کسی طرح میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، اور بھولی بسری ہو جاتی (23)

تو اسے اس کے تلے سے پکارا، کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے (24)

اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ

وَأَذْكُرِي الْكِتَابَ مَرْيَمَ إِذِ اتَّيَبَدَّتْ
مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا
بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ
إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ
لَكَ عَلِيمًا طَيِّبًا ﴿١٩﴾

قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ
يَمَسْسَنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلِيمٌ
هِدِيًّا وَنَجَعْنَا آيَةَ لِلنَّاسِ لِدَرَجَةِ
مَعَادِكُمْ وَأَمْثَلُ الْفَضِيلِ ﴿٢١﴾

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَّتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾
فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ
النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ
هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا ﴿٢٣﴾

فَنَادَى مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْذَرُنِي قَدْ
جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾
وَهَزَى بِالنَّخْلِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ

tree; fresh and ripe dates will fall upon you".

26. Then eat and drink and cool your eyes; then if you see any man, then say, "I have kept a fast for the most Affectionate so I shall not speak to anyone today".

27. Then she brought him (child) to her nation taking him in her lap. They said, surely you (Mary) have committed a very strange thing".

28. "O sister of Haroon (Aaron) neither your father was a bad man and nor was your mother an unchaste woman".

29. She (Maryam) pointed towards him. They said, "how can we talk to him who is a baby in the cradle".

30. He (baby Jesus) said, "I am a devotee of Allah, He has given me the Book and made me Nabi (communicator of unseen news)."

31. "And He has made me blessed wherever I may be and has commanded me to establish Salaat (Muslim prayer) and pay the Zakaat (compulsory due) so long as I live";

32. "and be dutiful to my mother. He has not made me arrogant, miserable."

33. "And peace be upon me, the day I was born and the day I die and the day I shall be raised up alive."

34. Such is Eesa (Jesus), the son of Maryam (Mary), a word of truth in which they doubted.

35 It is not befitting to Allah that He should take to Himself anyone as son. Glory be to Him When He decrees

پر تازی بچی کھجوریں گریں گی (25)
تو کہا، اور اپنی اور آگھ لھنڈی رکھ، پھر اگر
تو کسی آدمی کو دیکھے، تو کہہ دینا، میں نے
آج رخصت کا روزہ مانا ہے، تو آج ہرگز کسی
آدمی سے بات نہ کروں گی (26)

تو اسے گود میں لے، اپنی قوم کے پاس
آئی، بولے! اے مریم! بیگ تو نے بت
بری بات کی (27)

اسے ہارون کی بہن! تیرا باپ برا آدمی نہ
تھا، اور نہ تیری ماں بدکار (28)

اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا،
وہ بولے! ہم کیسے بات کریں؟ اس سے جو
پالنے میں بچہ ہے (29)

بچہ نے فرمایا: میں ہوں اللہ کا بندہ، اس
نے مجھے کتاب دی، اور مجھے غیب کی
خبریں بتانے والا (نبی) کیا (30)

اور اس نے مجھے مبارک کیا، میں کہیں
ہوں اور مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی،
میں جب تک جیوں (31)

اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا
اور مجھے زبردست بدبخت نہ کہا (32)

اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا
ہوا، اور جس دن مرے اور جس دن زندہ
انھایا جاؤں (33)

یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، سچ بات جس میں
شک کرتے ہیں (34)

اللہ کو لائق نہیں کہ کسی کو اپنا بچہ
نصرائے، پاکی ہے اس کو جب کسی کام کا

تَسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ۝

فَجَلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، فَمَا

تَرِينَ مِنَ النَّاسِ أَحَدًا أَفْقُوِي إِنِّي

نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ

الْيَوْمَ نَبِيًّا ۝

فَأَنْتَ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، قَالُوا

يُمَزِّجُكَ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۝

يَأْتُكَ هَهُؤُنَ مَا كَانَ ابْنُ ابْنِكَ

سَوَاءً وَمَا كَانَتْ أَهْلَكَ بِغِيًّا ۝

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ

مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ إِنِّي نَكَلِّمُ

وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝

وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا مِمَّنْ مَكَانَتْ

أَوْسُنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا

دُمْتُ حَيًّا ۝

وَبَرًّا بِوَالِدِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا

شَقِيًّا ۝

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ

أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۝

ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، قَوْلَ

الْحَقِّ الَّذِي فِئْتِهِ يَمْتَرُونَ ۝

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ

سُبْحٰنَهُ إِذْ أَقْرَأَ أَمْوَٰنًا يَقُولُ

anything, then He says it to "BE", and it comes into being at once.

36. (And Eesa said) "surely Allah is my Rubb (Sustainer) and your Rubb (Sustainer) then worship only Him. This is a straight path".

37. But the sects differed among themselves (about Eesa); so misery is for the disbelievers when they face that grievous day.

38. How sharply will they hear and how clearly they will see the day when they will come to Us (Allah) but today the cruels are in open error.

39. And warn them of the day of cutting sorry figure when the matter would be decided and they are in negligence and they do not become faithful.

40. Surely We (Allah) inherit the earth and whatever is thereon and they shall return towards Us (Allah).

SECTION 3

41. And remember Ibraaheem (Abraham) in the Book. Surely, he was a truthful man, a Nabi (communicator of the unseen).

42. When he said to his father, "O my father, why do you worship that which neither hears nor sees and nor it (idols) is of any use to you".

43. "O my father! "surely there has come to me that knowledge which has not come to you. Therefore, follow me, I shall guide you to the proper way".

44. "O my father! do not worship the satan (devil). Surely the satan (devil) is

کلم فرماتا ہے، تو یونہی کہ اس سے فرماتا ہے، ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے (35)

اور عیسیٰ نے کہا، بیشک اللہ رب ہے میرا اور تمہارا، تو اس کی بندگی کرو، یہ راہ سیدھی ہے (36)

پھر جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں، تو خرابی ہے کافروں کے لیے ایک بڑے دن کی حاضری سے (37)

کتنا سنیں گے اور کتنا دیکھیں گے جس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے مگر آج ظالم کملی گمراہی میں ہیں (38)

اور انہیں ڈر سناؤ، پچھتاوے کے دن کا جب کام ہو چکے گا، اور وہ غفلت میں ہیں اور نہیں مانتے (39)

بیشک زمین اور جو کچھ اس پر ہے، سب کے وارث ہم ہوں گے اور وہ ہماری ہی طرف پھریں گے (40)

لَنْ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٣٥﴾
وَإِنَّ اِلٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ
هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٣٦﴾

فَاخْتَلَفَ الْاَضْرَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ
فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ
يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٣٧﴾

اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوْنَنا
لٰكِنَ الظّٰلِمُوْنَ الْيَوْمَ فِيْ ضَلٰلٍ
مُّبِيْنٍ ﴿٣٨﴾

وَازْدَرٰهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ
الْاَمْرُ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا
يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٩﴾

اِنَّا نَحْنُ نُوْرَثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا
بَعْدَ الْاِيْنٰى يُرْجَعُوْنَ ﴿٤٠﴾

اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو! بے شک وہ صدیق تھا (نبی) غیب کی خبریں بتاتا (41)

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّهٗ كَانَ
صِدْقًا نَّبِيًّا ﴿٤١﴾

جب اپنے باپ سے بولا اے میرے باپ! کیوں ایسے کو پوجتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے، اور نہ کچھ تیرے کام آئے؟ (42)

اِذْ قَالَ لِاٰبِيْهِ يَا اَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْئًا ﴿٤٢﴾

اے میرے باپ! بیشک میرے پاس وہ علم آیا جو تجھے نہ آیا، تو تو میرے پیچھے چلا آ، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں (43)

يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جِآءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَكُنْ يٰٓاَبَتِ
فَاتَّبِعْنِيْ اِهْدِكْ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾

اے میرے باپ! شیطان کا بندہ نہ بن

يٰٓاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ اِنَّ الشَّيْطٰنَ

disobedient to the most Affectionate (Allah)".

45. "O my father! I fear that the punishment of the most Affectionate (Allah) may reach you, when you remain the companion of the satan (devil)".

46. His (father) said, "do you reject my gods, O Ibraaheem (Abraham)?, Certainly if you would not desist, then I shall stone you. Now leave my house for good."

47. He said, "peace be on you, I shall beg my Rubb (Sustainer) for forgiveness for you. Surely, He is kind enough to me.

48. And I withdraw from you and from all those whom you worship besides Allah and I shall worship only my Rubb (Sustainer). It is certain that by worshipping my Rubb (Sustainer) I shall not be disappointed.

49. So when he (Abraham) separated from them and from that they worship besides Allah, We (Allah) bestowed him Ishaque (Isac) and Yaqub (Jacob) and made each of them (Prophets of Allah), the communicators of hidden news).

50. And We (Allah) granted to them Our (Allah's) Mercy and granted to them a high honor and a truthful high name.

SECTION 4

51. And relate events of Moosaa (Moses) in the Book. Surely he was sincere one and was a Rasool (Messenger of Allah) and a Nabi (Prophet of Allah— communicator of hidden news).

یہ کہ شیطان رمن کا نافرمان ہے (44)
اے میرے باپ! میں ڈرتا ہوں کہ تجھے
رطن کا کوئی عذاب پہنچے، تو تو شیطان کا
رفیق ہو جائے (45)

ہو! کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا
ہے اے ابراہیم! یہ کہ اگر تو باز نہ آیا، تو
میں تجھے پتھر آڑ کر دوں گا، اور مجھ سے زمانہ
دراز تک بے علاقہ ہو جا (46)

کہا، بس تجھے سلام ہے قرب ہے کہ میں
تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا،
یہ کہ وہ مجھ پر مہربان ہے (46)

اور میں ایک کنارہ ہو جاؤں گا، تم سے
اور ان سب سے جن کو اللہ کے سوا
پوجتے ہو، اور اپنے رب کو پوجو، قرب
ہے کہ میں اپنے رب کی بندگی سے بدبخت
نہ ہوں (48)

پھر جب ان سے اور اللہ کے سوا ان کے
معبودوں سے کنارہ کر گیا، ہم نے اسے
اسحق اور یعقوب عطا کیے، اور ہر ایک کو
غیب کی خبریں بتانے والا (نبی) کیا (49)

اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی، اور
ان کے لیے سچی بلند ناموری رکھی (50)

اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو بے شک وہ
چنا ہوا تھا، اور رسول تھا غیب کی خبریں
بتانے والا (51)

كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ﴿٥٤﴾
يَا أَيُّهَا ابْنُ آدَمَ إِنَّكَ أَنْتَ عَدَاؤُنِي
وَأَنَا عَدَاؤُكَ فَخُذْ زِينَتَكَ
وَإِذَا رَجَعْتَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاذْكُرْهُ
وَاصْبِرْ لِحُكْمِهِ إِنَّكَ أَنْتَ
بِأَبْصَارِنَا حَسِيرٌ ﴿٥٥﴾

قَالَ سَلِمْتُ عَلَيْكَ يَا سَمُوعُ
بِئْسَ مَا كَانَتْ تَفْعَلُ ﴿٥٦﴾
رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِنِي حَقِيًّا ﴿٥٧﴾
وَأَعْتَدْنَا لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ الْأَكْفُونُ
يُدْعَاكُمْ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٥٨﴾

فَلَمَّا أَعْتَدْنَا لَهُمْ وَمَا يَدْعُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لِلرَّاسِخِينَ
وَالْعُقُوبِ ﴿٥٩﴾
وَمَا جَعَلْنَا نَبِيًّا

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا
بِجَانِبِهِمْ لِسَانَ صِدِّيقٍ عَلِيًّا ﴿٦٠﴾

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ
مُخْلِصًا وَقَدْ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٦١﴾

52. And We (Allah) called him from the right side of the mount Toor and brought him near for Our (Allah's) special communications.

53. And We (Allah) bestowed upon him out of Our (Allah's) Mercy his brother Haroon (Aaron) as the Nabi (communicator of hidden news).

54. And relate the life sketch of Ismaiel in the Book. Surely he was true in promise and was a Rasool (Messenger)—a Nabi (Prophet—communicator of hidden news).

55. And he advised his family to establish Salaat (Muslim Prayer) and pay Zakaat (compulsory due) and he was the one with whom his Rubb (Sustainer) is well pleased.

56. And relate events of Idrees in the Book. Surely he was a truthful Nabi (Prophet of Allah—communicator of hidden news);

57. and We (Allah) raised him to a high honor.

58. These are they on whom Allah Bestowed His Blessings from amongst the Nabis (Prophets of Allah—communicators of hidden news), being the children of Aadam and of those whom We (Allah) carried with Nuuh (Noah's boat) and of the children of Ibraaheem (Abraham) and Issraael Jacob and of them whom We (Allah) guided and chose. When the Verses of the most Affectionate were recited to them, they fell down prostrating and weeping.

اور اسے ہم نے طور کی دائیں جانب سے ندا فرمائی اور اسے اپنا راز کھنے کو قریب کیا (52)

اور اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون عطا کیا (غیب کی خبریں بتانے والا) نبی (53)

اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو! بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا غیب کی خبریں بتاتا (54)

اور اپنے گھریلو لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا اور اپنے رب کو پسند تھا (55)

اور کتاب میں ادریس کی یاد کرو! بے شک وہ صدیق تھا غیب کی خبریں دیتا (56)

اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھایا (57)

یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے اور ان میں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے اور ان میں سے جنہیں ہم نے راہ دکھائی اور جن لیا، جب ان پر رحمن کی آیتیں پڑھی جاتیں، مگر پڑتے، سجدہ کرتے اور روتے (58)

وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ
الْأَيْمَنِ وَقَدَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۝۵۲
وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ
هَارُونَ نَبِيًّا ۝۵۳

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ
كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا
نَبِيًّا ۝۵۴

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝۵۵

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ
صِدْقًا نَبِيًّا ۝۵۶
وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝۵۷

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِنْ
حَمَلِنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ
وَأَسْمَاءَ زَيْلٍ وَمِنْ هَدَيْنَاوَا جَبْرِئِيلًا
إِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتِ الرَّحْمَنِ
فَخَرُّوًّا سُجَّدًا طَائِعِينَ ۝۵۸

[A Muslim who recites this verse or listens its recitation should prostrate with forehead on the ground in ablution facing Ka'aba].

59. Then after them came those degenerates who missed the Salaat (Muslim Prayer) but followed their lusts. Certainly they will face extinction;

60. except those who repent and believe and do good deeds. These people will enter Paradise and they will not be done any injustice;

61. Paradise of eternal dwelling which the most Affectionate has promised to His devotees from the unseen. Surely His promise is to be fulfilled.

62. There they will not hear any word of non-sense, except greetings of peace And for them there is their provision in the morning and the evening.

63. This is the Paradise which We (Allah) shall give in inheritance to those of Our (Allah's) devotees who are duty-bound (righteous)

64. And (Gibril said to the Holy Prophet), "We (Angels) do not descend except by the Command of your Rubb (Sustainer). His is what is before us and what is behind us and what is in between. And your Rubb (Sustainer) is not forgetful.

65. The Rubb (Sustainer) of the heavens and the earth, and what is in between them, worship Him and remain steadfast in that. Do you know any other equal to Him?

تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ باطل آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں (ضائع لیں) اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو عقرب وہ دوزخ میں فی (خاردار زہریلا پودے) کا جگہ پائیں گے (59)

مگر جو تائب ہوئے اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا (60)

بسنے کے باغ جن کا وعدہ رحمن نے اپنے بندوں سے غیب میں کیا، چیک اس کا وعدہ آنے والا ہے (61)

وہ اس میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے مگر سلام اور انہیں اس میں ان کا رزق ہے صبح و شام (62)

یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہے (63)

(اور جبریل نے محبوب سے عرض کی) ہم فرشتے نہیں اترتے مگر حضور کے رب کے حکم سے، اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے، اور حضور کا رب بھولنے والا نہیں (64)

آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سب کا مالک، تو اسے پوجو اور اس کی بندگی پر ثابت رہو، کیا اس کے نام کا دوسرا جانتے ہو (65)

خَلْفَ مَنْ بَعْدِهِمْ خَلْفًا اضْأَعُوا
الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ
يُلْقَوْنَ عَذَابًا ۝۵۹

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا
يُظَلَمُونَ شَيْئًا ۝۶۰

جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ

عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ
مَأْتِيًا ۝۶۱

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا
لَهُمْ فِيهَا رِزْقٌ مِمَّا بَكَرُوهُ وَعَشِيًّا ۝۶۲

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا

مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۝۶۳

وَمَا نَسْتَوِي إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا
بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ
ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۝۶۴

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ
يَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝۶۵

SECTION 5

66. And the (disbelieving) man says, "what when I am dead? Shall I truly be raised to life again?"

67. Does not such man remember that We (Allah) created him before when he was nothing.

68. So by your Rubb (Sustainer) We (Allah) shall gather them and the satans (devils) together again, and shall bring them around the hell on their knees.

69. Then We (Allah) shall certainly pick out from every sect those who were rebellious against the most Affectionate (Allah).

70. Then We (Allah) certainly know best those who deserve to be burnt.

71. There is none amongst you but shall come to it. This is an unavoidable decree from your Rubb (Sustainer) to be accomplished.

72. Then certainly We (Allah) shall save those who remain pious and will leave the cruels therein (humbled) on the knees.

73. And when Our (Allah's) clear Verses are recited to them, the disbelievers do say to the believers (Muslims), "whose position amongst us is best and whose assembly is impressive?"

74. And how many generations have We (Allah) destroyed before them who were better in belongings and outward in appearance.

75. (Beloved Muhammad) please declare, the most Affectionate (Allah) certainly prolongs span of life of wrongdoers until when they

اور آدمی کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو عنقریب جلا کر (زندہ) نکالا جاؤں گا (66)

اور کیا آدمی کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے بنایا اور وہ کچھ نہ تھا (67)

تو تمہارے رب کی قسم! ہم انہیں اور شیطانوں سب کو گھیر لائیں گے، اور انہیں دوزخ کے آس پاس حاضر کریں گے گھٹنوں کے بل کرے (68)

پھر ہم ہر گروہ سے نکالیں گے جو ان میں رخصن پر سب سے زیادہ بیباک ہو گا (69)

پھر ہم خوب جانتے ہیں جو اس آگ میں بھونکنے کے زیادہ لائق ہیں (70)

اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گنہگار دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے (71)

پھر ہم ڈروالوں کو پچالیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل کرے (72)

اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں، "کون سے گروہ کا مکان اچھا اور مجلس بہتر ہے؟" (73)

اور ہم نے ان سے پہلے کتنی جگتیں کچھ دیں، کہ وہ ان سے بھی سالانہ اور نمود میں بہتر تھے (74)

تم فرماؤ! جو گمراہی میں ہو تو اسے رخصن خوب ڈمیل دے، یہاں تک کہ جب وہ

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذْ أُمِرْتُ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا ۝۳۹

أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا شَيْئًا ۝۴۰

فَوَرَبِّكَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۝۴۱

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۝۴۲

ثُمَّ لَنَخْنُوعُنَّ أَكْثَرَهُم بِالذِّمَنِ هُمْ أَوْلَىٰ بِهِمَا صِلِيًّا ۝۴۳

وَإِنْ مِنْكُمْ أَلْوَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۝۴۴

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۝۴۵

وَإِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا يَتَّبِعُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۝۴۶

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْنًا وَرِئًّا ۝۴۷

كُلٌّ مَنِ الْكَافِرِينَ الضَّلَّةَ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا دَارُوا

see that which they are punished with, either the punishment here or the appointed Hour in the hereafter. Then they will realize whose position is worse and whose force is weak.

76. And Allah increases in guidance those who seek guidance. And the enduring good deeds are best in the sight of your Rubb (Sustainer) in respect of reward and in respect of return.

77. Have you seen him who disbelieves in Our (Allah's) Verses and says, "I shall certainly be given wealth and children?"

78. Has he got knowledge of the unseen, or has he taken any pron... from the most Affectionate (Allah)?"

79. We (Allah) put in writing what he says and will prolong and make terrible for him the punishment;

80. and to Us shall return whatever anyone speaks. And he shall come to Us (Allah) all alone.

81. And they have taken others for worship besides Allah that they may be source of power for them;

82. not at all, instead, they will disown their such worship and will become their opponents.

SECTION 6

83. Donot you see that We (Allah) have sent satans (devils) upon disbelievers to goad them well for disobedience?"

84. So you (Muhammad) should not be in haste against them. Surely We (Allah) are completing their count (of days).

دیکھیں وہ چیز جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یا تو عذاب، یا قیامت، تو اب جان لیں گے کہ کس کا برا درجہ ہے، اور کس کی فوج کمزور؟ (75)

اور جنہوں نے ہدایت پائی، اللہ انہیں اور ہدایت بڑھائے گا، اور باقی رہنے والی نیک باتوں کا، تیرے رب کے یہاں سب سے بہتر ثواب، اور سب سے بہلا انجام (76)

تو کیا تم نے اسے دیکھا جو ہماری آیتوں سے منکر ہوا، اور کہتا ہے مجھے ضرور مال و اولاد ملیں گے (77)

کیا غیب کو جھانک آیا ہے یا رمن کے پاس کوئی قرار رکھا ہے (78)

ہرگز نہیں! اب ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے! اور اسے خوب لبا عذاب دیں گے (79)

اور جو چیزیں کہہ رہا ہے ان کے ہمیں وارث ہوں گے، اور ہمارے پاس اکیلا آئے گا (80)

اور اللہ کے سوا اور خدا بنا لے کہ وہ انہیں زور دیں (81)

ہرگز نہیں! کوئی دم جاتا ہے کہ وہ ان کی بندگی سے منکر ہوں گے، اور ان کے مخالف ہو جائیں گے (82)

کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے کہ وہ انہیں خوب اچھالتے ہیں (83)

تو تم ان پر جلدی نہ کرو، ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں (84)

يُوعَدُونَ إِيَّاهُ الْعَذَابَ وَإِنَّا لَآسَاءَةٌ فَسَيَلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِّنْكَ إِنَّا وَ أضعف جندا (80)

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَقِيَّةُ الطَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا (81)

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأَوْتِينَ مَالًا وَوَلَدًا أَطْلَمَ الْغَيْبِ أَوْ آتَاخُذِ عِندَ

الرَّحْمَنِ عَهْدًا (82) كَلَّا سَتَلَبُّ مَا يَقُولُ وَنَمْلَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَذْمُومًا (83)

وَنَرِيئُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا (84) وَأَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً رَّبُّكُنْوا لَهُمْ عِزًّا (85)

كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا (86)

الْقَرَّانَا أَرْسَلْنَا الشَّيْطَانَ عَلَى الْكٰفِرِينَ نُوْذِرُهُمْ أَزًّا (87) فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعْدُ لَهُمْ عَذَابًا (88)

85. (Remember) the day We (Allah) shall bring together to the righteous to the Rehman (the most Affectionate Allah);

86. And We (Allah) shall drive the criminals towards the hell as a thirsty herd.

87. They will not have the power of intercession except those who have got a sanction from the Rehman (the most Affectionate Allah).

88. And they (disbelievers) say "Rehman (the most Affectionate Allah) has taken a son".

89. Certainly, you have done a most evil thing;

90. at it the heavens may burst and the earth may crack down and the mountains may fall down in pieces;

91. that because they ascribed a son to Rehman (the most Affectionate Allah).

92. And it is not at all worthy for Rehman (the most Affectionate Allah) that He should take a son.

93. Surely there is none in the heavens and on the earth, but comes to Rehman (the most Affectionate Allah) as His devotee.

94. Certainly, He knows their account and has numbered them exactly

95. And every one of them shall come to Him alone on the Day of Resurrection.

96. Surely, those who believe and do good deeds, soon Rehman (the most Affectionate Allah) will bestow love in their hearts.

97. So We (Allah) have revealed this (Qur'aan) quite easy in your language that you may give good news to

جس دن ہم پر ہیتر گاروں کو رحمن کی طرف لے جائیں گے مسلمان بنا کر (85)

اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہائیں گے پیسے (86)

لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمن کے پاس قرار رکھا ہے (87)

اور کافر بولے! رحمن نے اولاد اختیار کی (88)

بیکہ تم حد کی بھاری بات لائے (89)

قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں ڈھ کر (90)

اس پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد بتائی (91)

اور رحمن کے لائق نہیں کہ اولاد اختیار کرے (92)

آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اس کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے (93)

بیکہ وہ انکا شمار جانتا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے گن رکھا ہے (94)

اور ان میں ہر ایک روز قیامت اس کے حضور اکراما حاضر ہو گا (95)

بیکہ وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے غفریب ان کے لیے رحمن محبت کر دے گا (96)

تو تم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں یونہی آسان فرمایا کہ تم اس سے ڈر والوں کو

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾

وَأَسْفُوفُ الْمَجْرُمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرُودًا ﴿٨٦﴾

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿٨٩﴾

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهَا وَرَبَّ تَشْتَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾ أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾

وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾ إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِيَ الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾

وَكَلَّمَآئِنِّيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَدًّا ﴿٩٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾

فَأَنبَأَ يَتَرْتَبَهُ بِرَسُولِكَ لِنُبَشِّرَهُ

the pious ones and you may warn thereby a stubborn nation.

98. And how many generations We (Allah) have destroyed before them. Do you (O beloved Muhammad) see any of them or do you hear any whisper from them ?

[HALF OF THE PART 16

ENDS]

S. XX

SURA TAHA

Revealed at Makkah

(35 Verses, 8 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. TAHA (T.H).
2. (O beloved) I have not revealed this Qur'aan upon you that you may be put to trouble;
3. Yes, it is but a reminder to those who fear;
- 4 a revelation from Him Who has created the earth and the lofty heavens.
5. Rehman, (the most Affectionate Allah) well established in authority (befitting to His Dignity).
6. His is what is in heavens and what is in earth and what is in between them and what is underneath the sub-soil.
7. And you (have no need) to speak aloud for surely He knows the secrets and that which is more hidden than this.
8. He is Allah, so none be worshipped but He. His are the most beautiful names.
9. And has the instance of Moosaa (Moses) reached you?
10. When he saw a fire, he said to his family, "stay here. I have seen a fire Perhaps, I

خوشخبری دو اور بھڑالو لوگوں کو اس سے ڈرناؤ (97)

اور ہم نے ان سے پہلے کتنی سکتائیں کمپائیں، کیا تم ان میں کسی کو دیکھتے ہو یا ان کے بجگ (معمولی سی بات) سننے ہو (98)

سورہ ط کی ہے (اس میں) ایک سو پینتیس (135) آیات اور آٹھ (8) رکوع

(ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

ط (1)

اے محبوب! ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم شفقت میں پڑو (2) ہاں! اس کو نصیحت جو ڈر رکھتا ہو (3)

اسکا اتارا ہوا جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے (4)

وہ بڑی مہر (رحم) والا اس نے عرش پر استواء فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے (5)

اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور جو کچھ ان کے بیچ میں

اور جو کچھ اس گہلی مٹی کے نیچے ہے (6) اور اگر تو بات پکار کر کہے، تو وہ تو بھید کو جانتا ہے، اور اسے جو اس سے بھی زیادہ چھپا ہے (7)

اللہ کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں اسی کے ہیں سب اچھے نام (8)

اور کچھ ہمیں موسیٰ کی خبر آئی (9) جب اس نے ایک آگ دیکھی، تو اپنی بی

الْمُتَّقِينَ وَتَنْذِرُ بِهِ قَوْمًا لَدًّا ۝
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ هَلْ
نَحْسُ مِنْهُمْ مَنْ أَحَدًا وَتَسْمَعُ
إِنَّمَا لَهُمْ رُكُوعًا ۝

سورہ طہ باریہ فیہ خمس وثلاثون آية مائة وثلاثون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

طه ۝ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ
لِتَشْفَى ۝

إِلَّا تَذِكْرًا لِمَنْ يُحْشَى ۝
تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ۝

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝
لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ۝

وَأَنْ تَحْبِرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ
السِّرَّ وَأَخْفَى ۝
أَلَدَّةٌ لِأَلِهِ الْأَهْوَالَةُ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَى ۝

وَهَلْ أُنْتِكَ حَدِيثٌ مُوسَى ۝
إِذ رَأَاهُ فَقَالَ لَإِلهِهِ امْكُتُوا إِنِّي

may bring for you its brand or find a guidance from this fire."

11. So when he came to it (fire), a call was made, "O Moosaa (Moses)";

12. "Surely, I am your Rubb (Sustainer). Therefore, take off your shoes. Surely you are in the sacred valley of Tuwa;

13. "and I have chose. you, so listen carefully to what is revealed to you."

14. "Surely, I am the Allah. There is none worth worship save Me. Therefore, worship Me only and establish Salaat (Muslim prayer) for My remembrance."

15. "Surely, the Hour is coming. I am going to manifest it, so that every one may be rewarded for his(her) endeavor".

16. "Therefore, let no one, who does not believe in it and follows his (her) own desire, divert you from it that you may perish".

17. "And what is that in your right hand, O Moosaa (Moses)?"

18. He submitted, "it is my rod. I lean on it, and with it beat down leaves for my sheep and I have other uses of it".

19. He (Allah) said, "cast it down, O Moosaa (Moses)!"

20. So he (Moses) cast it down, and at once it became a serpent, in runing form.

21. He (Allah) said, "take hold of it and donot fear. I shall restore it to its previous state".

بی سے کہا، ٹھہرو! مجھے ایک آگ نظر دینی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی چنگاری لاؤں، یا آگ پر راستہ پاؤں (10)

پھر جب آگ کے پاس آیا، ندا فرمائی گئی کہ اے موسیٰ! (11)

پینک میں تیرا رب ہوں، تو تو اپنے جوتے اتار ڈال، پینک تو پاک جنگل طویں میں ہے (12)

اور میں نے تجھے پسند کیا، اب کان لگا کر سن! جو تجھے وحی ہوتی ہے (13)

پینک میں ہی ہوں اللہ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری بندگی کر، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ (14)

پینک قیامت آنے والی ہے، قریب تھا کہ میں اسے سب سے چھپاؤں کہ ہر جاں اپنی کوشش کا بدلا پائے (15)

تو ہرگز تجھے اس کے ماننے سے وہ باز نہ رکھے جو اس پر ایمان نہیں لاتا، اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا، پھر تو ہلاک ہو جائے (16)

اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے موسیٰ! (17)

عرض کی کہ یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیے لگاتا ہوں، اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے بھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور کام ہیں (18)

فرمایا: اسے ڈال دے اے موسیٰ! (19)

تو موسیٰ نے ڈال دیا، تو جیسی وہ دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا (20)

فرمایا: اسے اٹھا لے اور ڈر نہیں، اب ہم اسے پھر پہلی طرح کر دیں گے (21)

أَسْتَنْتَ نَارًا لَعَلَّيْ تَاتِيكُمْ مِنْهَا نَافِيسٌ
أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿١٠﴾

فَلَمَّا آتَاهَا نُودِيَ يَمْوَسَىٰ ﴿١١﴾

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ
بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى ﴿١٢﴾

وَأَن آخِذْتَكَ فَاسْمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿١٣﴾

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٤﴾

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا
لِيَجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿١٥﴾

فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ
بِهَا وَآئِبَةٌ هَوَّةٌ فَتَوَدَىٰ ﴿١٦﴾

وَمَا يَلِكُ بِمِيمَنِكَ يَمْوَسَىٰ ﴿١٧﴾

قَالَ هِيَ عَصَايَ أَنُوكُوْا عَلَيَّ وَأَوْ
أَهْسِبُهَا عَلَىٰ عَنُقِي وَاوَلِي فِي يَمِينِي

مَارِبٍ أَخْرَجِي ﴿١٨﴾

قَالَ الْقَبِيضِيُّ يَمْوَسَىٰ ﴿١٩﴾

فَأَلْقَاهَا فَاذْأَبَىٰ حَيْثُ تَسْعَىٰ ﴿٢٠﴾

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَحْتَفِ سَعِيدُهَا
سَيُوتَبُّهَا الْأَوَّلَىٰ ﴿٢١﴾

22. "And make close your hand under your armpit. It shall come forth crystal white, without defect, as another sign";

23. "that We (Allah) may show you some of Our (Allah's) greater evidences";

24. Go to Firawn (Pharaoh)! Surely, he has rebelled.

SECTION 2

25. He submitted, "O my Rubb (Sustainer) open for me my heart";

26. "and make my task easy";

27. "and free the knot of my tongue (remove my stammering)";

28. "that they (people of my nation) may understand what I say";

29. "and appoint a minister for me from my kinsmen";

30. "my brother Haroon (Aaron)";

31. "add to my strength through him";

32. "and let him become associate in my task";

33. "so that we may glorify You much";

34. "and may remember You much".

35. "Surely, You are ever Seeing us".

36. He (Allah) said, "O Moosaa (Moses) you are granted your request";

37. "and indeed We (Allah) have already favored you for another time";

38. "when We inspired to your mother what was to be inspired";

39. saying, "put him (child) into a chest and then cast it into the river, that the river will cast it on the bank.

اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے لگا کر خوب پیچھے لکے گا، بے کسی مرض کے، ایک اور نشانہ (22)

کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں (23)

فرعون کے پاس جا، اس نے سر اٹھایا (24)

عرض کی! اے میرے رب! میرے لیے میرا سینہ کھول دے (25)

اور میرے لیے میرا کام آسان کر (26)

اور میری زبان کی گرہ کھول دے (27)

کہ وہ میری بات سمجھیں (28)

اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے (29)

وہ کون؟ میرا بھائی ہارون (30)

اس سے میری کمزوری دور کر (31)

اور اسے میرے کام میں شریک کر (32)

کہ ہم بکھرت تیری باکی بولیں (33)

اور بکھرت تیری یاد کریں (34)

بیگ تو ہمیں دیکھ رہا ہے (35)

فرمایا: اے موسیٰ! تیری ماگ تجھے عطا ہوئی (36)

اور بے شک ہم نے تجھ پر ایک بار اور احسان فرمایا (37)

جب ہم نے تیری ماں کو الہام کیا جو الہام کرنا تھا (38)

وَاصْمِرْ يَدَكَ إِلَى جَنْحِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا مِّنْ غَيْرِ سَوْأَةٍ أُخْرَى ﴿٢٢﴾

لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ﴿٢٣﴾

يَا إِدْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿٢٤﴾

قَالَ رَبِّ اشْرُرْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ﴿٢٧﴾

يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾

وَأَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾

هَرُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾

أَشْدُدْ يَدِي وَأَزِدْ لِي

وَأَشْرِكْ لِي فِي أَمْرِي ﴿٣١﴾

لِي نَسْبُحَكَ كَثِيرًا ﴿٣٢﴾

وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ﴿٣٣﴾

إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿٣٤﴾

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى ﴿٣٥﴾

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴿٣٦﴾

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى ﴿٣٧﴾

أَنِ انْفِرْ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَانْفِرْ فِيهِ فِي الْيَوْمِ فَلْيُلْهِمِهُهُ الْيَمْرَ بِالسَّاحِلِ

There he (Pharaoh) who is an enemy to Me and an enemy to him will pick him, up. And I endured you with love from Me so that you may be brought up before My Sight.

40. When your sister walked along, saying, "should I tell you such one who will nurse this child (Moossa)?" So We (Allah) got returned you back to your mother that her eyes may be cooled and she may not be grieved. And you killed a man, then We (Allah) saved you from trouble and tested you well. Then you stayed amongst the people of Madyan for many years. Then you reached an ordained standard, O Moosaa (Moses)!

41. And I have prepared you for Myself.

42. You and your brother both go taking My Verses and do not slacken in My remembrance;

43. You both go to Firawn (Pharaoh) for surely, he has rebelled.

44. But speak to him gently perhaps he may be mindful or may fear.

45. Both submitted, "O our Rubb (Sustainer) surely, we fear that he may commit excess against us or transgress seriously".

46. He (Allah) said, "do not fear, I am with you Hearing and Seeing.

47. So go both of you to him and say, "we are the Rasools (Messengers) of your Rubb (Sustainer). Therefore, send with us the children of Israael and do not torture them. Indeed we have brought to you the Verses from your Rubb (Sustainer).

ڈالے، کہ اسے وہ اٹھالے جو میرا دشمن، اور اس کا دشمن، اور میں نے تم پر اپنی طرف کی محبت ڈالی، اور اس لیے کہ تو میری نگاہ کے سامنے تیار ہو (39)

تیری بہن چلی، پھر کہا، کیا میں تمہیں وہ لوگ بتا دوں جو اس بچہ کی پرورش کریں؟ تو ہم تجھے تیری ماں کے پاس پھیر لائے، کہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو، اور غم نہ کرے، اور تو نے ایک جان کو قتل کیا، تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی، اور تجھے خوب جانچ لیا، تو تو کئی برس مدین والوں میں رہا، پھر تو ایک گھمرائے وعدہ پر حاضر ہوا، اے موسیٰ! (40)

اور میں نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا (41)
تو اور تیرا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ، اور میری یاد میں سستی نہ کرنا (42)
دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بیٹک اس نے سر اٹھایا (43)

تو اس سے نرم بات کہنا، اس امید پر کہ وہ دھیان کرے یا کچھ ڈرے (44)
دونوں نے عرض کیا! اے ہمارے رب!

بیٹک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے، یا شرارت سے پیش آئے (45)
فرمایا: ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں سنتا اور دیکھتا (46)

تو اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، تو اولاد یعقوب کو ہمارے ساتھ جھوڑ دے اور انہیں تکلیف نہ دے، بیٹک ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لائے

يَاخُذْهُ عَدُوِّي وَعَدُوْلُهُ وَالْقَيْتُ
عَلَيْكَ حَبِيْبَةٌ قِيِي وَلِتُصْنَمَ عَلٰى
سَيِّبِي ۝۳۹

اِذْ تَمْشِيْ اُخْتُكَ فَنَقُوْلُ هَلْ اَدْرٰكُ
عَلٰى مَنْ يُّكْفَلُهَا فَرُوْجَعْنٰكَ اِلٰى اُمَّكَ
لِيْ تَقْرَعِ عَيْنَهَا وَلَا تَحْزَنَ ۗ وَوَقَتَلْتَ
نَفْسًا فَبَيِّنٰكَ مِنَ الْعَمٰى وَقَتَلْتَ
نَفْسًا ۗ فَبَيِّنْتَ سَيِّئِيْنَ فِيْ اَهْلِ
مَدْيَنَ ۗ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى قَدْرِ
يُّمُوْسٰى ۝۴۰

وَاصْطَلَعْتَكَ لِنَفْسِيْ ۝۴۱
اِذْ هَبْتَ اَنْتَ وَاُخُوْكَ بِاَيِّتِيْ وَلَا
تَيِّبٰنِيْ ذِكْرِيْ ۝۴۲
اِذْ هَبَا اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۝۴۳
فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيْسَ لَكَ عَلٰهُ يَتَدَكَّرُ
اَوْ يَخْشٰى ۝۴۴

قَالَا رَبَّنَا اِنَّا اَخَافُ اَنْ يُفْرَطَ
عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يُطغِيْ ۝۴۵
قَالَ لِمَ اَخَافَا اِنِّيْ مَعَكُمْ اَسْمِعْ
وَاُدْرِ ۝۴۶

فَاَنْبِيْءَ فَنَقُوْلَا اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ
فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْ اِسْرٰءِيْلَ وَلَا
تَعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِاَيٰتٍ مِّنْ

And peace is on such one who follows the guidance.

48. Surely, it has been revealed to us that the punishment falls upon him who falsifies and turns away.

49. Firawn (Pharaoh) said, "who is the Rubb (Sustainer) of you both, O Moosaa (Moses)!"

50. He (Moses) said, "our Rubb (Sustainer) is He Who gave every thing its perfect creation, then guided".

51. He (Firawn) said, "what is the state of the past generations"?

52. He (Moses) said, "their knowledge is with my Rubb (Sustainer) in a Book. My Rubb (Sustainer) neither errs nor forgets.

53. He is Who made the earth for you as a bed and laid for you walking paths in it and sends down rain water from the sky. And thereby brings forth varied species of plants.

54. You eat and pasture your cattle. Surely in that there are signs for the men of wisdom.

SECTION 3

55. We (Allah) have created you from it (the earth) and into the same We (Allah) shall send you back and from the same, We (Allah) shall raise you once again.

56. And certainly I showed him (Pharaoh) all My evidences but he falsified and refused.

57. He (Pharaoh) said, "have you come to expel us out of our land by your magic, O Moosaa (Moses)?"

58. But we too shall bring a similar magic before you, so

ہیں اور سلامتی اسے جو ہدایت کی پیروی کرے (47)

ہیک ہماری طرف وحی ہوئی ہے کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ پھیرے (48)

ہول! تو تم دونوں کا خدا کون ہے؟ اے موسیٰ! (49)

کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق صورت دی پھر راہ دکھائی (50)

ہول! اگلی سنتوں کا کیا حال ہے؟ (51)

کہا، ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ بھولے نہ (52)

وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھوٹا کیا اور تمہارے لیے اس میں چلتی راہیں رکھیں اور آسمان سے پانی اتارا، تو ہم نے اس سے طرح طرح کے سبزے کے جوڑے نکالے (53)

تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ! ہیک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو (54)

رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَهُ
الْهُدَىٰ ۝

إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ
مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝
قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يُمُونِی ۝

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ
حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ۝

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ۝
قَالَ عَلِمْنَا مِنْدَرِي فِي كِتَابٍ لَا
يَضُدُّ رِي وَلَا يُنْسَىٰ ۝

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا
وَوَسَّلَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا
مِنْ نَبَاتٍ شَتَّىٰ ۝

كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ ۝

ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے، اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے (55)

اور ہیک ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھائیں، تو اس نے جھٹلایا اور نہ مانا (56)

ہول! کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے سبب ہماری زمین سے نکال دو؟ اے موسیٰ! (57)

تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ
مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ۝

وَلَقَدْ آرَيْنَا آيَاتِنَا كُلَّهَا فَاكْذَبَ
وَأَبَىٰ ۝

قَالَ اجْعَلْنَا لِمَنْ يَخْرِجَنَا مِنَ الْأَرْضِ
بِسُحْرِكَ يُمُونِی ۝

فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ

make an appointment between us and you, neither we change nor you, such convenient place".

59. He (Moses) said, "appointment is with you for the day of festival and let the people be assembled when the sun rises up".

60. So Firawn (Pharaoh) turned back and settled his plans, then came.

61. Moosaa (Moses) said to them, "woe be to you, donot forge a lie against Allah that He may destroy you by punishment and certainly whose forges (lie) shall get perished".

62. So they debated with each other about their plan and kept their talk secret.

63. They said, "surely, these two are magicians, who desire to expel you from your land by their strength of magic and do away with your distinguished cultural strength".

64. "Therefore, make firm your plan, then come standing in ranks and today he who gains superiority will prosper.

65. They said, "O Moosaa (Moses) either you cast (your rod) or we cast (our strings) first".

66. He (Moses) said, "no you cast first". Hence their ropes and cords looked to him as they were running by the strength of their magic.

67. And Moosaa (Moses) conceived a fear in his mind.

68. We (Allah) said, "do not be afraid, surely you will have the dominance".

69. "And cast down what is in your right hand. It will swallow their fake makes.

لائیں گے، تو ہم میں اور اپنے میں ایک وعدہ تمہارا دو، جس سے نہ ہم بدلیں نہ تم ہموار جگہ ہو (58)

موسیٰ نے کہا، تمہارا وعدہ میلے کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں (59)

تو فرعون پھرا اور اپنے داتاؤں اکٹھے کیے پھر آیا (60)

ان سے موسیٰ نے کہا، تمہیں خرابی ہو اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے، اور بے شک نامراد رہا جس نے جھوٹ باندھا (61)

تو اپنے معاملہ میں باہم مختلف ہو گئے، اور چھپ کر مشورت کی (62)

بولے! بیچک یہ دونوں ضرور جاؤ گے ہیں چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جاؤ کے زور سے نکال دیں، اور تمہارا اچھا دین لے جائیں (63)

تو اپنا داتاؤں (فریب) پکا کر لو، پھر پرا (صف) باندھ کر آؤ، اور آج مراد کو پہنچا جو غالب رہا (64)

بولے! اے موسیٰ! یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں (65)

موسیٰ نے کہا، بلکہ تمہیں ڈالو جی ان کی رسیاں اور لٹھیاں ان کے جاؤ کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئیں (66)

تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا (67) ہم نے فرمایا: ڈر نہیں، بیچک تو ہی غالب ہے (68)

اور ڈال تو دے جو تیرے دابھے ہاتھ میں

بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدٌ اَلَّا نَخْلِفَنَّ
نَحْنُ وَلَا اَنْتَ مَكَانًا سُوًى ۝۵۸
قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَاَنْ
يُخَشِرَ النَّاسُ ضَغِي ۝۵۹

فَتَوَلَّى وِرْعَوْنَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمْ اَتَمَّ اَتَى ۝۶۰
قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَاِنَّكُمْ لَاتَقْتَرُونَ
عَلَىٰ اِلٰهِ كَذِبًا فَيَسْحَتُكُمْ بِذُنُوبِ
وَقَدْ خَابَ مِنْ اَفْتَرَىٰ ۝۶۱

فَتَنَادَوْا اَمْرُؤَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسْرَوْا
الْحَبْوٰى ۝۶۲

قَالُوْا اِنَّ هٰذَيْنِ لَسٰجِدٰنِ يَّرِيْدُنِ
اَنْ يُخْرِجٰكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٰمَا
وَيَذٰبٰ هٰبًا بِرِطْبِ قِيٰمِكُمُ الْمَثَلٰى ۝۶۳

فَاَجْمِعُوْا اَيْدِيَكُمْ ثُمَّ اتُّوْا صَفًّا
وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اَسْعٰى ۝۶۴
قَالُوْا لِمُوسٰى اِنَّا نَرٰكَ تَلْقٰى وَاِمَّا
اَنْ تَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ۝۶۵

قَالَ بَلْ اَلْقُوْا فَاِذَا جِبٰلُهُمْ وَا
عَصِيْبُهُمْ يُخٰبِلِ الْاَيْدِي مِنْ سِحْرِهُمْ
اِنَّهَا لَسٰغِي ۝۶۶

فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيفَةً مُّوسٰى ۝۶۷
فَلَمَّا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ۝۶۸
وَالَّذِيْ مَآفِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَعُوْا

That which they have made fake is the trick of the magicians, and a magician cannot be successful, whatever point (of skill) he attains".

70. And (thus) all the magicians were made to prostrate. They said, "we believe in Him Who is the Rubb (Sustainer) of Haroon (Aaron) and Moosaa (Moses)".

71. He (Pharaoh) said, "you believe him (Moses) before I permitted you?"

"Surely, he (Moses) is your chief, who taught you magic. Therefore, I shall certainly cut off your hands, and your feet from opposite sides and shall crucify you upon the trunks of the palm-trees, and certainly you will come to know, which of us is the more severe and more firm in awarding punishment".

72. They said, "we do not prefer you against these clear evidences that have come to us, from our Creator. Decide whatever you desire to decide. You can merely decide about the life of this world only".

73. Surely, we believe in our Rubb (Sustainer) that He may forgive our sins and also the magic to which you compelled us. And Allah is the Best and the Everlasting.

[THREE FOURTH OF PART 16 ENDS]

74. He who comes to his Rubb (Sustainer) as criminal, surely for him is the hell, in which neither he shall die nor he shall remain alive.

75. Whoso comes to Him as a believer having done good deeds, for such one are the high ranks;

ہے اور ان کی باتوں کو گل جائے گا وہ جو بنا کر لاتے ہیں وہ تو جاوگر کا فریب ہے اور جاوگر کا بھلا نہیں ہوتا، کس آئے (69)

تو سب جاوگر جیسے میں گرا دیئے گئے ہوئے! ہم اس پر ایمان لاتے جو ہاروں اور موسیٰ کا رب ہے (70)

فرعون بولا: کیا تم اس پر ایمان لاتے عمل اس کے میں تمہیں اجازت ہو؟ بیگ وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جاو سکھایا، تو مجھے قسم ہے ضرور میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، اور تمہیں سچور کے ڈھنڈ (سوکے تھے) پر سلی چڑھاؤں گا اور ضرور تم جان جاؤ گے کہ ہم میں کس کا عذاب سخت اور دیرپا ہے (71)

بولے! ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آئیں ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم، تو تو کرچک جو تجھے کرنا ہے، تو اس دنیا ہی کی زندگی میں تو کرے گا (72)

بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لاتے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، اور وہ جو تو نے ہمیں مجبور کیا جاو پر، اور اللہ بھتر ہے، اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا (73)

بیگ جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آئے، تو ضرور اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے، نہ جیے (74)

اور جو اس کے حضور ایمان کے ساتھ آئے کہ اچھے کام کیے ہوں، تو انہیں کے درجے اونچے (75)

إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدًا سَجِيدًا وَلَا يُفْلِحُونَ
الشَّاحِرِ حَصِيَّتْ أُنَى ①

فَالْيَقِي السَّحْرَةَ سَجْدًا قَالُوا أَمْثَلُ
يُؤْتِ هُرُونَ وَمُوسَى ②

قَالَ أَمْتَمُّ لَه قَبْلَ أَنْ أَدْنُ لَكُم
إِنَّهُ لَكِبْرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ
فَلَا قِطْعَانَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ
خِلَافَ وَلَا وَصِيلَتَكُمْ فِي جُدُوعِ
الْعَجْلِ وَتَعْلَمُونَ إِنَّا شَدِيدُ
عَذَابِ ③

قَالُوا لَنْ نُؤْتِكَ عَلَى مَا جَاءَنَا
مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقِمْ
مَا أَنْتَ قَائِمٌ إِنَّمَا أَهْوَىٰ هَذِهِ
الْحَيَوةَ الدُّنْيَا ④

إِنَّا أَمْثَلُ رَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَاتِنَا
مَا أَكْرَهْتُمْ عَلَيْهُ مِنَ السَّحْرِ
وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ⑤

إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ
جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ⑥
وَمَنْ يَأْتِ بِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ
فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ⑦

76. Paradise of eternal habitation, beneath which streams flow. They will reside therein for ever. And this is the reward of him (her) who purifies himself (herself).

SECTION 4

77. And certainly, We (Allah) revealed to Moosaa (Moses) to travel with My devotees by night and strike out a dry way for them in the sea, neither having any fear to be overtaken (by Pharaoh) nor any danger (of the sea).

78. Then Firawn (Pharaoh) followed them with his armies. Then he overwhelmed them as to drown them all.

79. And Firawn (Pharaoh) misguided his nation and did not lead them to right way.

80. O children of Issraael! indeed, We (Allah) delivered you from your enemy and gave you the promise of the blessed side of Mount Toor and We (Allah) sent down on you Munna And Sulwa (readymade fast food).

81. Eat only pure things which We (Allah) provided you and exceed not therein lest My wrath may descend on you. And on whom My wrath descends such one perishes.

82. And surely, I am the most Forgiving to the one who repents and believes and does righteous deeds, then continues to follow the guidance.

83. And what has caused you to be in haste from your nation O Moosaa (Moses)?

84. He (Moses) said, "they are closely behind me, and O

بنے کے باغ جن کے نیچے نہریں ہیں
بیش ان میں رہیں اور یہ صلہ ہے اس کا
جو پاک ہوا (76)

جَدَّتْ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَأُولَٰئِكَ جَزَاءُ مَنْ
تَزَكَّى ۗ

اور بے شک ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ
راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور
ان کے لیے دریا میں سوکھا راستہ نکال
دے، تجھے ڈر نہ ہوگا کہ فرعون آلے اور
نہ خطرہ (77)

تو ان کے پیچھے فرعون پڑا اپنے لشکر لے
کر، تو انہیں دریا نے ڈھانپ لیا جیسا
ڈھانپ لیا (78)

اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور راہ
نہ دکھائی (79)

اسے نبی اسرائیل! بیک ہم نے تم کو
تمہارے دشمن سے نجات دی اور تمہیں
طور کی دانیا طرف کا وعدہ دیا اور تم پر
من اور سلوی اتارا (80)

وَلَقَدْ آذَيْنَا آلَٰلِ مُوسَىٰ أَن أَسْرِ
بِعِبَادِي فَأَضْرَبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ
يَبْسُلًا تَتَخَفَ دُرُكًا وَلَا تُتَخَشَى ۗ

فَاتَّقِهِمْ ذُرْعُونَ يُجِودُهُ فَغَشِيَهُمْ
مِنَ اللَّيْلِ مَا عَشَيْتُمْ ۗ

وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَوَاهَدَىٰ
يَبْنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَجْبَيْتُمْ مِن
عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ
الَّذِينَ نَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَ
السَّلْوٰى ۗ

کھاؤ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں روزی
دیں اور اس میں زیادتی نہ کرو کہ تم پر
میرا غضب اترے، اور جس پر میرا غضب
اترا بے شک وہ گمرا (81)

اور بیک میں بہت بخشے والا ہوں اسے
جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام
کیا، پھر ہدایت پر رہا (82)

اور تو نے اپنی قوم سے کیوں جلدی کی
اسے موسیٰ! (83)

عرض کی! کہ وہ یہ ہیں میرے پیچھے اور

كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا
تَطغوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي
وَمَنْ يُحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ
وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَ
عَمِلَ صَالِحًا تَقَرَّاهُ تَدَىٰ ۗ

وَمَا أَجْعَلُكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ ۗ
قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَىٰ آبَائِي وَإِخْوَتِي

my Rubb (Sustainer) I haste towards You so that You may be pleased (to save us)".

85. He (Allah) said, "We (Allah) have put your nation in trial after you and the Samiri has misled them".

86. So Moosaa (Moses) returned full of anger and sorrowful to his nation. He said, "O my nation! did your Rubb (Sustainer) not assure a fair promise to you"? Did a long time pass on you or did you desire that the anger of your Rubb (Sustainer) should descend on you, because you broke your promise with me".

87. They said, "we did not break our promise to you of our own will but we were made to carry some load of decorative ornaments of the nation (For marriage to get out of the city) which we threw down as Samiri suggested.

88. Then he produced for them a calf, a lifeless body with a low sound. So they said, "this is your god and the God of Moosaa (Moses) which confused him (Moses).

89. What? Could they then not see that it (calf idol) neither returned reply to them nor possessed any power to harm or profit them?

SECTION 5

90. And certainly Haroon (Aaron) had already told them before, "O my nation! you have been put to trial by this and indeed, our Rubb (Sustainer) is the Rehman (most Affectionate). Therefore, follow me and obey my orders.

اے میرے رب! تیری طرف میں جلدی کر کے حاضر ہوا کہ تو راضی ہو (84)

فرمایا: تو ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو بلا میں ڈالا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا (85)

تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا غصہ میں بھرا افسوس کرتا، کہا، اے میری قوم! کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا تم پر مدت لمبی گزری یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے؟ تو تم نے میرا وعدہ خلاف کیا (86)

بولے! ہم نے آپ کا وعدہ اپنے اختیار سے خلاف نہ کیا، لیکن ہم سے کچھ بوجھ اٹھوائے گئے، اس قوم کے کہنے کے، تو ہم نے انہیں ڈال دیا، پھر اس طرح سامری نے ڈالا (87)

تو اس نے ان کے لیے ایک چھڑا نکالا بچان کا، دھڑگانے کی طرح بولتا، تو بولے یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود موسیٰ تو بھول گئے (88)

تو کیا نہیں دیکھتے کہ وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا، اور ان کے کسی برے پہلے کا اختیار نہیں رکھتا (89)

اور بیگ ان سے ہارون نے اس سے پہلے کہا تھا، کہ اے میری قوم! یونہی ہے کہ تم اس کے سبب فتنے میں پڑے، اور بیگ تمہارا رب رخص ہے، تو میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو (90)

إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ۝

قَالَ فَأَلَّا تَدْفَعُنَا قَوْمَكَ إِلَىٰ مَن يَبْغُونَكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۝

فَوَجِعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقُولُونَ لَا نَبْعُدُكَ أَبَدًا وَعَدَّ آصْنَافًا أَفْطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَمْ أَرَادْتُمْ أَن نَّجْعَلَ عَلَيْكُمْ مَغْضَبَ رَبِّنَا لَمَّا أَخْلَقْتُمْ قَوْمِي ۝

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا آثْرًا وَارْتَمَيْنَا بِئَاتِةِ الْقَوْمِ فَقَدْ فُتِنَّا فَاذَلِكَ السِّقِيُّ السَّامِرِيُّ ۝

فَأَخْرَجَ لَهُمْ جِجَارًا أَلْحَدًا وَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ هَٰذَا قَدْسِي ۝

أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ إِلَٰهَهُمْ قَوْلًا عَجًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۝

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلٍ يَقُولُ إِنَّمَا فَتَنَّكُم بِهَا وَإِن رَّبَّكُمْ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۝

91. They replied, "we shall not cease to worship it until Moosaa returns to us."

92. (Moses) said, "O, Haroon (Aaron) what hindred you when you did see them going on the wrong way";

93. from following me. Did you then not disobey my order?

94. He (Aaron) said, "O son of my mother, neither hold my beard nor the hair of my head". Surely, I feared that you then would say that you have caused difference amongst the children of Issraael and did not follow for my word (to keep them united by such concession)".

95. He (Moses) said, "what you have to say, O Samiri"?

96. He (Samiri) said, "I saw (Jibreel leading safely Issraaelites in the sea) that the people did not see. So I took a handful (soil) from the footsteps of this Messenger (Angel), then threw it (in the calf) and this looked fair to myself (due to which calf idol started to give voice)".

97. He (Moses) said, "then go away that for you in the life of this world is that you should harp that touch me not (for hate from people). And surely, this is a penalty for you which shall not be averted. And look at your idol god before which you remained sitting devoted worshipper. Certainly we (Moses) shall burn it, then scatter its dust into the sea".

98. For your the Being worth worship is only Allah, besides whom none be worshipped. His knowledge comprehends everything.

بولے! ہم تو اس پر آسن مارے (پوجا کے لئے بیٹھے) تھے وہیں گے جب تک ہمارے پاس موبی لوٹ کے آئیں، موسیٰ نے کہا (91)

اے ہارون! تمہیں کس بات نے روکا تھا جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا (92)

کہ میرے بچے آتے تو کیا تم نے میرا حکم نہ مانا (93)

کہا، اے میری ماں جانے! نہ میری ڈاڑھی پکڑو، اور نہ میرے سر کے بال مجھے یہ ڈر ہوا کہ تم کو گے قسم نے بی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا (94)

موسیٰ نے کہا، اب تیرا کیا حال ہے اے سامری! (95)

بولے! میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، تو ایک مٹی بھری، فرشتے کے نشان سے، پھر اسے ڈال دیا اور میرے جی کو کی بھلا لگا (96)

کہا، تو چلتا بن، کہ دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو کسے چھو نہ جانا، اور پیگ تیرے لیے ایک وعدہ کا دت ہے جو تجھ سے خلاف نہ ہو گا، اور اپنے اس معبود کو رکھ کہ جس کے سامنے تو دن بھر آسن (پوجا کیلئے بیٹھے) مارے رہا، قسم ہے! ہم ضرور اسے جلائیں گے، پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہائیں گے (97)

تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، ہر چیز کو اس کا علم محیط ہے (98)

قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّىٰ يُرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿٩١﴾

قَالَ هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ﴿٩٢﴾

أَلَا تَتَّبِعُنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿٩٣﴾

قَالَ يَبْنَؤُهُ لَأَتَّخِذَ بِدُحَيْبِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَمَرْتَهُمْ قَوْلِي ﴿٩٤﴾

قَالَ نَمَّا خَطْبُكَ يَا مِصْرِيُّ ﴿٩٥﴾

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿٩٦﴾

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ يُخْلَفَنَّهُ وَالنَّظَرَ إِلَىٰ إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنْفَرِقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾

إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾

99. Thus We (Allah) relate to you (O dear Muhammad) such news of what happened in the past and We (Allah) have given you from Us (Allah) a remembrance.

100. Whoso turns away from it, surely shall bear a burden on the Day of Resurrection;

101. to remain therein for ever. And what an evil load it will be for them on the Day of Resurrection;

102. the day when the trumpet shall be blown. And We (Allah) shall gather the criminals on that day, blue eyed (for fear).

103. They will be whispering among themselves that they stayed in the world for only ten (days).

104. We (Allah) know well what they will state when the best of them in conduct will say, "you had stayed only for a day".

SECTION 6

105. And they ask you regarding mountains. You say, "my Rubb (Sustainer) will uproot them to pieces and turn them as dust;

106. and He will leave them as barren smooth level plain;

107. wherein you will not see any depression or unevenness.

108. On that Day they will run behind the caller who does not deceive and all voices will be low before the Rehman (the most Affectionate Allah). Then you will not hear except very low murmuring.

109. On that Day the recommendation of any one

ہم ایسا ہی تمہارے سامنے اگلی خبریں بیان فرمائے ہیں، اور ہم نے تم کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا فرمایا (99)

جو اس سے منہ پھیرے تو بھگت وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا (100)

وہ بیٹھ اس میں رہیں گے اور وہ قیامت کے دن ان کے حق میں کیا ہی بڑا بوجھ ہو گا (101)

جس دن صور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرموں کو اٹھائیں گے نیلی آنکھیں (102)

آہیں میں پچکے پچکے کہتے ہوں گے، کہ تم دنیا میں نہ رہے مگر دس رات (103)

ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے جبکہ ان میں سب سے بھڑرائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن رہے تھے (104)

اور تم سے پہاڑوں کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ! انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا (105)

تو زمین کو ہٹ پر ہموار کر چھوڑے گا (106)

کہ تو اس میں نیچا اونچا کچھ نہ دیکھے (107)

اس دن پکارنے والے کے پیچھے دوڑیں گے اس میں کبھی نہ ہو گی، اور سب آوازیں رحمن کے حضور پست ہو کر رہ جائیں گے، تو تو نہ سنے گا مگر بہت آہستہ آواز (108)

اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگر

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۝٩٩

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ۝١٠٠

خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ۝١٠١

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۝١٠٢

يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۝١٠٣

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْ لَهُمْ طَرِيقَةٌ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا

يَوْمًا ۝١٠٤

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۝١٠٥

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝١٠٦

لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۝١٠٧

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ أَعْوَجَ لَهَا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۝١٠٨

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ

will not profit except the one whom Rehman (the most Affectionate Allah) allows and whose word (of faith) He pleases to accept.

110. He knows what is before them and what is behind them, and their knowledge cannot comprehend it.

111. All faces shall be humbled before the Living (Allah) the Self-sustaining and the All-sustaining (Allah). And surely he who bears the burden of cruelties remains unsuccessful.

112. And he who does pious deeds, and is a believer (Muslim), he shall neither have any fear of cruel excessiveness nor of repression.

113. And thus We (Allah) have revealed this Qur'aan in Arabic and have explained therein various ways of punishment that perhaps they may become pious or it may generate in their hearts (Divine) remembrance.

114. Allah is the most exalted, the Truthful Sovereign. And (O dear Muhammad) do not make haste with the (remembrance of) Qur'aan until its revelation is perfected to you, and submit, "O my Rubb (Sustainer) increase me in knowledge!"

115. And certainly We (Allah) made a promise with Adam before this, which he forgot. But We (Allah) did not find on his part a firm resolve (to disobey).

SECTION 7

116. And when We (Allah) ordered the Angels to fall

اس کی جسے رخصت نے اذن دے دیا ہے اور اس کی بات پسند فرمائی (109)

وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور ان کا علم اسے نہیں گھیر سکتا (110)

اور سب منہ جھک جائیں گے اس زندہ قائم رکھنے والے کے حضور اور بیگ نامراد ہو گا جس نے ظلم کا بوجھ لیا (111)

اور جو کچھ نیک کام کرے اور ہو مسلمان تو اسے نہ زیادتی کا خوف ہو گا نہ نقصان کا (112)

اور یوحنا ہم نے اسے عربی قرآن اتارا اور اس میں طرح طرح سے عذاب کے وعدے دیئے، کہ کیسے انہیں ڈر ہو یا ان کے دل میں کچھ سوچ پیدا کرے (113)

تو سب سے بلند ہے اللہ سچا بادشاہ اور قرآن میں جلدی نہ کرو جب تک اس کی وحی تمہیں پوری نہ ہوئے، اور عرض کرو! کہ اے میرے رب! مجھے علم زیادہ دے (114)

اور بیگ ہم نے آدم کو اس سے پہلے ایک تاکید کی تھی، تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا وعدہ نہ پایا (115)

اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ

اِذْنُ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۝۱۰۹

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهَا ۝۱۱۰
وَعَدَّتْ الرُّجُومَ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ حَابَّ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝۱۱۱

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ۝۱۱۲

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَاصْرَفْنٰهُ فِيْهِ مِنَ الرُّعُوْبِ لَعَلَّهُمْ يَنْقُومُوْنَ
اَوْ يُحَدِّثُ لَيْسَ لَهُمْ وَكُوْرًا ۝۱۱۳
فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقَضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ۝۱۱۴

وَلَقَدْ عٰهَدْنَا اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ
عَٰلَمِيْنَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ۝۱۱۵

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ

prostrate before Aadam, they fell prostrate, except Iblees (the devil), who refused.

117. Then We (Allah) said, "O Aadam! surely he is an enemy to you and your wife, so it may not happen that he may drive you both out of the Paradise that you are put to hard labour.

118. Surely, (in the Paradise) neither you will be hungry nor you will go naked; 119. and neither you will feel thirst therein nor be exposed to heat.

120. But the satan (devil) whispered saying "O Aadam! should I show you the tree of eternity and a governance that does not fall down?

121. So both of them ate out of it. Thus their nakedness (sex inclination) became apparent to them, and they began to stick the leaves of the Paradise over themselves. Thus Aadam slipped from the Commandment of his Rubb (Sustainer). So he lost the way.

122. Then his Rubb (Sustainer) chose him and accepted his repentance and guided him.

123. He (Allah) said, "get down you both (satan and Aadam) there from (Paradise) together. You are the enemy to each other. Here (on earth) will surely, come a guidance to you from Me. Then whoso follows My Guidance, shall neither go on the wrong way nor will face any grief.

124. And whoso turns away from My remembrance, then surely for him there is a narrowed lit and We (Allah)

آدم کو سجدہ کرو' تو سب سجدہ میں گرے مگر ابلیس اس نے نہ کیا (116)

تو ہم نے فرمایا: اے آدم! چنگ یہ تیرا اور تیری بی بی کا دشمن ہے' تو ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے' پھر تو شفقت میں پڑے (117)

چنگ تیرے لئے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو بھوکا ہو نہ ننگا ہو (118)

اور یہ کہ تجھے نہ اس میں پیاس لگے نہ دھوپ (119)

تو شیطان نے اسے دوسرا دیا' بولا! اے آدم! کیا میں تمہیں بتا دوں بیٹھ جینے کا چیز (درخت) اور وہ بادشاہی کہ پرانی نہ پڑے (120)

تو ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا' اب ان پر ان کی شرم کی چیزیں ظاہر ہو گئیں اور جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی' تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی (121)

پھر اسے اس کے رب نے جن لیا' تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائی' اور اپنے قرب خاص کی راہ دکھائی (122)

فرمایا: تم دونوں مل کر جنت سے اترو! تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے' پھر اگر تم سب کو میری طرف سے ہدایت آئے' تو جو میری ہدایت کا پیرو (مطیع) ہو وہ نہ سسکے نہ بدبخت ہو (123)

اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا' تو چنگ اس کے لیے تنگ زندگی ہے' اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اندھاں

فَسَجَدُوا لِلْإِبْلِيسَ ابْنِي ﴿١١٦﴾
فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَ
لِرَوْحِكَ فَلَا تَخْرِجْكُمَا مِنَ
الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿١١٧﴾

إِنَّ لَكَ الْأَشْجُرَ فِيهَا وَلَا تَقْرَى ﴿١١٨﴾

وَأَنْتَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ﴿١١٩﴾
فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ
هَذَا ذِكْرُ عَلَى شَجَرَةٍ الْخَالِدِينَ فِيهَا
لَا يَبْلَى ﴿١٢٠﴾

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا
وَوَفَّقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذُرُقِ
الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴿١٢١﴾

ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَ
هُدًى ﴿١٢٢﴾

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَأَخَذْنَا يَا تُبَّكَم مَقَاتِي
هُدًى فَمَنْ آتَبَعْهُ هَذَا فَلَا يُضِلُّ
وَلَا يَشْقَى ﴿١٢٣﴾

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ
مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ

shall raise him blind on the Day of Resurrection.

125. He will say, "O my Rubb (Sustainer) why you have raised me blind while I possessed sight?"

126. He (Allah) will say, "Our revelations came to you, and you disregarded them and in the like-manner today you are disregarded".

127. And thus We (Allah) do penalize such one who crosses the limits and does not believe in the Verses of his Rubb (Sustainer). Surely the punishment of the hereafter is terrible and most lasting.

128. Does it not give right guidance to them that how many a generations We (Allah) have destroyed before them, in whose dwellings they now walk? Surely therein are signs for men of wisdom.

SECTION 8

129. And had not a Word of your Rubb (Sustainer) fixed a term, their such end would have materialized.

130. So, (O dear Muhammad) be patient over what they say, and glorify your Rubb (Sustainer) before the rising of the sun and before its setting. And glorify (establish Salaat) in the hours of the night and at the ends of the day, that you may get true happiness.

131. And (O dear Prophet) do not strain your eyes to the splendors of the present worldly life that We (Allah) have bestowed to some classes of them (disbelievers) to enjoy here. This is so that We (Allah) may thereby try

گے (124)

کے گا اے رب میرے! مجھے تو نے کیوں اندھا اٹھایا؟ میں تو اٹھیا رہا تھا (125)

فرمائے گا 'یونسی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، تو نے انہیں بھلا دیا، اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ لے گا (126)

اور ہم ایسا ہی بدلا دیتے ہیں جو حد سے بڑھے، اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بیگ آخرت کا عذاب سب سے سخت تر، اور سب سے دیرپا ہے (127)

تو کیا انہیں اس سے راہ نہ ملنی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سکتیں ہلاک کر دیں کہ یہ ان کے بسنے کی جگہ چلتے پھرتے ہیں، بیگ اس میں نشانیاں ہیں عمل والوں کو (128)

اور اگر تمہارے رب کی ایک بات نہ گزر چکی ہوتی، تو ضرور عذاب انہیں پٹ جاتا، اور اگر نہ ہوتا ایک وعدہ ٹھہرایا ہوا (129)

تو ان کی باتوں پر صبر کرو، اور اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو! سورج چمکنے سے پہلے، اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، اور رات کی گھنٹیوں میں اس کی پاکی بولو! اور دن کے کناروں پر اس امید پر کہ تم راضی ہو (130)

اور اے سننے والے! اپنی آنکھیں نہ پھیلا اس کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو برستے کے لیے دی ہے، جیسی دنیا کی تازگی کہ ہم انہیں اس کے سبب فتنہ میں ڈالیں، اور تیرے رب کا رزق سب

الْقِيمَةِ اَعْمَى ﴿۳۰﴾

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰی وَّ قَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿۳۱﴾

قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰیٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَاذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنٰسٰی ﴿۳۲﴾

وَاذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ اَسْرَفَ وَاَلَمْ يُؤْمِنْ بِاٰیٰتِ رَبِّهٖ وَاَلْعٰذَابُ الْاَلْحَرِيْقِ اَشَدُّ وَاَبْقٰی ﴿۳۳﴾

اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِبِهِمْ

يٰۤاٰنْ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی النُّعُوْلِ ﴿۳۴﴾

وَاَلَّا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَ اَنْ لِّزَامًا وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿۳۵﴾

فَاَصْبِرْ عَلٰی مَا يَقُوْلُوْنَ وَاَسْبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْۤاۡلِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا وَاَوْۤسٰٓءِ الَّیْلِ فَسَبِّحْ

وَالْحَرَافَ النَّهَارَ لَعَلَّكَ تَرْضٰی ﴿۳۶﴾

وَلَا تَمَدِّنْ عَيْنِكَ اِلٰی مَا مَتَعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

لِنُفَعِّنَهُمْ فِيْهَا وَاَرْزُقْ سَرَّكَ

them. And the provision of your Rubb (Sustainer) is the best and the lasting.

132. And advise your people for Salaat (Muslim prayer), and remain steadfast over it. We (Allah) do not ask you any provision. It is We (Allah) Who provide you. But the (good) end is for those who remain pious.

133. And they (disbelievers) say, "why he does not bring on us a sign from his Rubb (Sustainer)? But has there not come to them a clear evidence of what is in the previous Books?

134. And had We (Allah) destroyed them with any punishment, before it, they would have certainly said, "O our Rubb (Sustainer) why You did not send a Rasool (Messenger of Allah) to us that we might have followed Your Verses before we were disgraced and humiliated.

135. Please declare, "everyone is waiting. Therefore, you also wait. You will know that who follows the straight path and who are the guided ones".

PART 17

S. XXI

SURA AL-ANBIYA (THE PROPHETS OF ALLAH)

Revealed at Makkah

(112 Verses, 7 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. The day of accountability of the mankind is closer but they turn away in neglect.

2. Whenever a new message comes to them from

سے اچھا اور سب سے دیریا ہے (131)
اور اپنے گمراہوں کو نماز کا حکم دے اور
خود اس پر ثابت رہ، کچھ ہم تجھ سے
مدد نہیں مانگتے، ہم تجھے روزی دیں گے
اور انجام کا بھلا پرہیزگاری کے لیے (132)

اور کافر بولے! یہ اپنے رب کے پاس سے
کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ اور کیا انہیں
اس کا بیان نہ آیا جو اگلے معینوں میں ہے
(133)

اور اگر ہم انہیں کسی عذاب سے ہلاک کر
دیتے، رسول کے آنے سے پہلے تو ضرور
کہتے، اے ہمارے رب! تو نے ہماری
طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا؟ کہ ہم
تیری آیتوں پر چلتے چل اس کے کہ ذلیل
دروسا ہوتے (134)

تم فرماؤ! سب راہ دیکھ رہے ہیں، تو تم بھی
راہ دیکھو! تو اب جان جاؤ گے کہ کون ہیں
سیدھی راہ والے، اور کس نے ہدایت
پائی؟ (135)

سورۃ انبیاء کی ہے (اور اس میں) ایک سو
بارہ (112) آیتیں اور سات (7) رکوع
(ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان
رحم والا
لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں
منہ پھیرے ہیں (1)
جب ان کے رب کے پاس سے اُنص

خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝

وَأْمُرْهُمْ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ
عَلَيْهَا لَا أَسْأَلُكَ رِزْقًا لَنْ يَرْزُقَكَ
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ۝

وَقَالُوا لَوْلَا آتَيْنَا بآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ
أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مِّنَ الصُّحُفِ
الْأُولَى ۝

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ
لَقَالُوا إِنَّا لَوَلَّا أَسْأَلُكَ إِنَّا
رَسُولًا فَتَدْبِعْ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ
أَنْ نُنذِرَ وَنَحْزَمِي ۝

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّكَ فَاصْبِرُوا
فَسَعَلِمُونَ مِّنْ أَصْحَابِ الْأَرْوَاحِ
يَا السُّعُوتِي وَمَنْ أَهْتَدَى ۝

سورۃ انبیاء کی ہے (اور اس میں) ایک سو
بارہ (112) آیتیں اور سات (7) رکوع
(ہیں)

يَسْمِعُ اللَّهُ الرَّضْعِينَ الرَّحِيمِينَ
اِقْتَرِبْ لِلنَّاسِ حَسَابُهُمْ
هُم فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۝
مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ

their Rubb (Sustainer) they listen to it in ridicule;

3. Their hearts are set on total pleasure. And the cruel ones consult secretly saying, that is he not only a man (mortal) like you? Will you follow magic while your eyes are quite open?

4. Please declare (O dear Muhammad), "my Rubb (Sustainer) knows every word spoken in the heavens and the earth, and He is the All-Hearing, the All-Knowing."

5. Some say, "these are his confused dreams, rather his (Muhammad) own inventions." Others say that he is a poet. Then let him bring to us any sign like that of the previous (Prophets) with what were they sent with.

6. None believed in the towns We (Allah) destroyed before them. Will they then believe (if they see)?

7. And We (Allah) did not send before you (Prophet) except human beings bestowed with revelations. Ask the followers of (such Books) if you donot know it.

8. And We (Allah) did not give them such bodies that ate no food and nor were they exempted to live for ever (as immortals).

9. Then We (Allah) fulfilled the promise to them, so We (Allah) saved them and those whom We (Allah) Willed and destroyed the extravagants.

10. Certainly, We (Allah) sent to you (Muhammad) a Book (Qur'aan) in which is a message for you. Have you then no understanding?

کوئی نئی نصیحت آتی ہے، تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے (2)

ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں، اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورت کی کہ یہ کون ہیں، ایک تمہیں جیسے آدی تو ہیں، کیا جاوے کے پاس جاتے ہو دیکھ بھال کر (3)

نبی نے فرمایا: میرا رب جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں ہر بات، کو، اور وہی ہے سنا جاتا (4)

بلکہ بولے! پریشان خوائیں ہیں، بلکہ ان کی مگرت (گڑھی ہوئی چیز) ہے، بلکہ یہ شاعر ہیں، تو ہمارے پاس کوئی نشان لائے، جیسے اگلے پیچھے گئے تھے (5)

ان سے پہلے کوئی ہستی ایمان نہ لائی تھی ہم نے ہلاک کیا، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ (6)

اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جنہیں ہم وحی کرتے، تو اسے لوگو! علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو (7)

اور ہم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا، کہ کھانا نہ کھائیں، اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہیں (8)

پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کوہلایا، تو انہیں نجات دی، اور جن کو چاہی، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا (9)

چیک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری، جس میں تمہاری ناموری ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں (10)

إِلَّا اسْتَمْعَوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٥﴾

لَا إِلَهَ إِلَّا قُلُوبُهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ﴿٦﴾
الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْلَ هَذَا الْأَرْضِ
مَنْظُومَةً أَفْتَاتُونَ السَّحَرَةَ وَالنَّعْمَ
نَبِيْرُونَ ﴿٧﴾

فَلَا رُبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٨﴾
بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَخْلَامٍ بَلْ
أَفْوَاهٌ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا
بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَرْسُلُونَ ﴿٩﴾

مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرِيْبَةٍ
أَهْلَكْنَاهَا أَهْلَهُمْ يَوْمَئِذٍ ﴿١٠﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي
إِلَيْهِمْ فَمَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ
كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا يَكُلُونَ
الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴿١٢﴾
ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ
نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴿١٣﴾

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تُعْقِلُونَ ﴿١٤﴾

SECTION 2

11. And how many towns We (Allah) utterly destroyed being cruel and after that replaced them with later nations.

12. So when they felt Our (Allah's) punishment, coming then they began to flee from it.

13. Do not run away and return to comforts given to you and your homes, because you are to be questioned.

14. They said, "woe to us! surely, we have been cruel."

15. So they kept crying as such till We (Allah) made them cut off and completely extinct.

16. And We (Allah) did not create the heavens and the earth and whatever is between them, in vain.

17. Had We (Allah) Wished to make any diversion, We (Allah) would have made it from things near Us (Allah). But by no means would We (Allah) do it.

18. Nay! We (Allah) overrid the truth against the falsehood that it (truth) knocks out that thinking (of falsehood), because it has to vanish. And woe is to you for (falsehood) you ascribe (to Allah).

19. And to Him belongs all that is in the heavens and the earth. And those closer Him neither are too proud to worship Him, nor are they tired of it.

20. They glorify Him by night and day and they never fail in that.

21. Or have they chosen earthly gods who can not give life (to dead)?

اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں کہ وہ ستار تھیں، اور ان کے بعد اور قوم پیدا کی (11)

تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا، جیسی وہ اس سے بھاگنے لگے (12)

نہ بھاگو! اور لوٹ کے جاؤ! ان آسائشوں کی طرف جو تم کو دی گئی تھیں اور اپنے مکانوں کی طرف شاید تم سے پوچھتا ہو (13)

بولے! ہائے! خرابی ہماری، بیکہ ہم ظالم تھے (14)

تو وہ بھی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کر دیا کالے ہوئے، بجھے ہوئے (15)

اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سبٹ (بیچار) نہ بنائے (16)

اگر ہم کوئی بلاوا اختیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے اختیار کرتے، اگر ہمیں کرنا ہوتا (17)

بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا بسیرہ نکال دیتا ہے، تو جیسی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے، اور تمہاری خرابی سے ان باتوں سے جو بناتے ہو (18)

اور اسی کے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور اس کے پاس والے اس کی عبارت سے تکبر نہیں کرتے، اور نہ تھکیں (19)

رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں، اور سستی نہیں کرتے (20)

کیا انہوں نے زمین میں کچھ ایسے خدا بنا لیے ہیں کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں (21)

وَكَمْ مِّن مِّن مِّن قَوْمٍ مَا كَانَتْ لَهَا لَئِمَّةٌ

وَإِن شَأْنًا لَّيَدَّهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۝۱۱

فَلَمَّا أَحْسَبُوا أَن سَاءَ إِذْ أَهْمَ قَوْمَهُمَا

يَبْرُكُتُونَ ۝۱۲

لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أَتَرْتُمُوهُ

فِيهِ، وَتَسْأَلُونَ لَعْنَكُمْ تَسْأَلُونَ ۝۱۳

قَالُوا لَوْلَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝۱۴

فَمَا آتَىٰكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ

جَعَلَهُمْ حُصِيْدًا لِّمُهَيِّدِينَ ۝۱۵

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا

بَيْنَهُمَا الْعِجِينَ ۝۱۶

لَوْ أَرَادْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ آلًا لَّخَلَقْنَا نُهْمِينَ

لَعَلَّآ نَكْفُرُ بِفَعْلِينَ ۝۱۷

بَلْ نَقَدَرْتُ بِالْحَقِّ عَلَىٰ الْبَاطِلِ

فَيَكْدُمُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ

الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ۝۱۸

وَلَقَدْ كُنَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ

عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ

وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۝۱۹

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۝۲۰

أَمْ أَرَأَيْتُمْ إِذْ أُنزِلَتْ مِنَ الْأَرْضِ لُحْمٌ

يَسْتَدْرُونَ ۝۲۱

22. If there had been gods besides Allah then certainly, both would have been in disorder. Glory be to Allah, the Rubb (Sustainer) of the entire authority from what they utter.

23. He cannot be questioned as to what He does, while they all shall be questioned (for their deeds).

24. Or have they chosen other gods besides Him (Allah)? (O dear Muhammad S.A.W.) bring forth your convincing proof in the message (Qur'aan) for those with me and those before me. But most of them donot know the truth, so they turn aside.

25. And We (Allah) did not send any Rasool (Messenger of Allah) before you but We (Allah) revealed to him that there is none worth worship but Me alone. Therefore worship Me only.

26. And they say, "Rehman (the most Affectionate), Allah has taken for Himself a son". Glory be to Him. Instead they (Prophets) are His honored devotees.

27. They do not precede Him in speech, and they act only according to His command.

28. He knows what is before them and what is behind them, and they do not recommend any except such one whom He approves. And they fear Him with respect.

29. And whoso of them says, "I am worth worship besides, Him We (Allah) shall penalize that one in hell. Thus We (Allah) penalize the cruel.

اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے، تو پاکی ہے اللہ عرش کے مالک کو ان باتوں سے جو یہ بتاتے ہیں (22)

اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے، اور ان سب سے سوال ہو گا (23)

کیا اللہ کے سوا اور خدا بنا رکھے ہیں، تم فرماؤ! اپنی دلیل لاؤ! یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے، اور مجھ سے انہوں کا تذکرہ، بلکہ ان میں اکثر حق کو نہیں جانتے، تو وہ روگرداں ہیں (24)

اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو مجھی کو پوجو (25)

اور بولے! رحمن نے بیٹا اختیار کیا، پاک ہے وہ بلکہ بندے ہیں عزت والے (26)

بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے، اور وہ اسی کے حکم پر کار بند ہوتے ہیں (27)

وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور شفاعت نہیں کرتے مگر اس نے لیے جسے وہ پسند فرمائے، اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں (28)

اور ان میں جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں، تو اسے ہم جہنم کی جزا دیں گے، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں سنگساروں کو (29)

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٢﴾

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿٢٣﴾

أَمْ آتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلُوبًا مَدِينًا مِمَّا يُشْرِكُونَ هَٰذَا بَدِيعُ آيَاتِنَا وَنَحْنُ الْمَعْلُومُونَ ﴿٢٤﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَ اللَّهِ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَيِّمِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَخَلْفَهُمْ وَلَا يُشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ مِنْهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَلْيَنْجَزِ بِهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾

SECTION 3

30. Do not the disbelievers see that the heavens and the earth were closed up (as one). Then We (Allah) opened them? And We (Allah) made every living thing from water. Will they then not believe?

31. And We (Allah) have created great mountains in the earth, lest it may move (shake) away with them (human beings), and We (Allah) made therein wide roads so that they may be guided to right direction.

32. And We (Allah) have made the heaven a protected canopy and yet they turn away from its signs.

33. And it is He (Allah) Who created the night and the day and the sun and the moon. Each one is floating in a circumference (orbit).

34. And We (Allah) did not grant before you any mortal (human) to become immortal. Will they be immortal if you pass away?

35. Every self must taste death. And We (Allah) test you by hardships and blessings, and you are to return to Us (Allah).

36. And when the disbelievers see you (Muhammad), they see only for mockery. They say, "this is he who commits contempt of our gods. But they themselves disbelieve in the remembrance of Rehman (the most Affectionate Allah).

37. Man is created of stuff leading him to haste. I shall soon show you My Verses. Then you will not ask me to hasten.

کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین بند تھے، تو ہم نے انہیں کھولا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان نہ لائیں گے؟ (30)

اور زمین میں ہم نے نگر والے، کہ انہیں لے کر نہ کاٹنے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں رکھیں، کہ کس وہ راہ پائیں (31)

اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا نگاہ رکھی گئی، اور وہ اس کی نشانیوں سے روگرداں ہیں (32)

اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند، ہر ایک ایک گھیرے میں پیر (گھوم) رہا ہے (33)

اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں بیٹگی نہ بنائی، تو کیا اگر تم انتقال فرماؤ، تو یہ بیشہ رہیں گے (34)

ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں بُرائی اور بھلائی سے جانچنے کو، اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے (35)

اور جب کافر تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں نہیں تمہراتے مگر ٹھٹھا، کیا یہ ہیں وہ جو تمہارے خداؤں کو بُرا کہتے ہیں، اور وہ رخصت ہی کی یاد سے منکر ہیں (36)

آدمی جلد باز بنایا گیا، اب میں تمہیں اپنی نشانیوں دکھاؤں گا، مجھ سے جلدی نہ کرو (37)

اَلَا تَرَ يٰۤاٰلِىٓ دِيۤنِىۡنَ كُفَرُوۡا اِنَّ السَّمٰوٰتِ
وَالۡاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا وَاَدۡ
جَعَلْنٰ مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْۡءٍ حَيٍّ اَفَلَا
يُؤْمِنُوۡنَ ۝

وَجَعَلْنٰ فِى الْاَرْضِ رِۡسًاۤىۡ اَنْ يَّمِيۡدًا
بِيۡعۡرَ وَّجَعَلْنٰ فِيۡهَا رِۡجَابًا سَبۡلًا
لِّعَلَّكُمْ يَهْتَدُوۡنَ ۝

وَجَعَلْنٰ السَّمٰوٰتَ سَقَفًا مَّخۡفُوۡظًا
وَهُمۡ عَنِ اٰيٰتِنَا مَعۡصُوۡنَ ۝

وَهُوَ الَّذِىۡ خَلَقَ النَّوۡلَ وَالنَّهَارَ
السَّمۡسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِىۡ ذٰلِكَ اٰیٰتٍ لِّمَنۡ
۝

وَاَجَعَلْنٰ الْبَشَرَ فِىۡ رِۡبۡۢىۡكَ الْخٰلِدِ
اَنۡ اٰیۡنَ مِتَّ فِیۡهِمُ الْخٰلِدُوۡنَ ۝

كُلُّ نَفۡسٍ ذٰلِیۡقَةٌ لِّلۡمَوۡتِ وَاَبۡلُوۡكُمۡ
بِالشَّرِّ وَالۡخَیۡرِ فِیۡنَا وَاَلِیۡنَا لَیۡرۡجِعُوۡنَ ۝

وَاِذۡ اٰتٰنَا الَّذِیۡنَ كَفَرُوۡۤا اِنْ تَجِدُنَا
اِلَّا هُرُوۡدًا وَاَهۡذَ الَّذِیۡنَ یَذۡكُرُوۡۤا
اِلٰهَتَکُمۡ وَهُمۡ یَذۡکُرُوۡا الرَّحۡمٰنَ
هُمۡ یُفۡرَوۡنَ ۝

خَلَقَ الْاِنۡسَانَ مِنْ عَلَقٍ وَاَسۡوۡرَیۡکُمۡ
اٰیٰتِیۡ کَلَّا تَسۡتَعۡجِلُوۡنَ ۝

38. And they say, "when such promise will be fulfilled, if you are truthful?"

39. Had the disbelievers known that neither they will be able to protect their faces from the fire nor their backs, nor they shall be helped.

40. Rather it (fire) will come to them all of a sudden, and confound them. Neither they will be able to avert it nor they will be given respite.

41. And certainly, the Rasools (Messengers of Allah) before you were mocked. Then their mockery took them in its fold.

SECTION 4

42. Please declare (O dear Muhammad); "who guards you from Rehman (the most Affectionate Allah) by the night and by the day? Yet they are neglectful from the remembrance of their Rubb (Sustainer).

43. Can those whom they worship (as gods) protect them beside Us (Allah)? They neither can protect their own selves nor they can be defended from Us (Allah).

44. Rather We (Allah) provided them and their fathers the means of enjoyment of the life for a long time. Have not they observed that We (Allah) reduce the earth diminishing it from its borders? Can they have any success.

45. Please declare (O dear Muhammad), "I only warn you by the revelations and the deaf do not hear any call when they are warned."

46. And if a blast of the punishment of your Rubb (Sustainer) strikes them they

اور کہتے ہیں کب ہو گا یہ وعدہ؟ اگر تم سچے ہو (38)

کسی طرح جانتے کافراں وقت کو جب نہ روک سکیں گے اپنے مونہوں سے آگ اور نہ اپنی پیٹھوں سے اور نہ ان کی مدد ہو (39)

بلکہ ان پر اچانک آپڑے گی، تو انہیں بے حواس کر دے گی، پھر نہ وہ اسے پھیر سکیں گے، اور نہ انہیں ملت دی جائے گی (40)

اور جیٹک تم سے اگلے رسولوں کے ساتھ ٹھٹھا کیا گیا، تو مسخری (بسی) خفاق کرنے والوں کا ٹھٹھا انہی کو لے بیٹھا (41)

تم فرماؤ! شبانہ روز تمہاری کون عکسبانی کرتا ہے رخصت سے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے ہیں (42)

کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو ان کو ہم سے بچاتے ہیں؟ وہ اپنی ہی جانوں کو نہیں بچا سکتے، اور نہ ہماری طرف سے ان کی یاری ہو (43)

بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتاوا دیا، یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہوئی، تو کیا نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھماتے آ رہے ہیں، تو کیا یہ غالب ہوں گے (44)

تم فرماؤ! کہ میں تم کو صرف وحی سے ڈراتا ہوں اور میرے پکارنا نہیں سنتے، جب ڈرائے جائیں (45)

اور اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا چھو جائے، تو ضرور کہیں گے،

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُرُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارُ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُصَرُّونَ ﴿٣٩﴾

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ دَرْجًا وَلَا رُجُوعًا وَلَا يَنْظُرُونَ ﴿٤٠﴾

كَفَدْنَا لَشِقْرَىٰ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَخَافَ بِالْبَاطِنِ كَسِحْرٍ مِّنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤١﴾

قُلْ مَنْ يَكْفُرْ بِالْبَاطِنِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٤٢﴾

أَمْ لَهُمُ الْهَيْدَةُ تَمَنَّهُمْ مِّمَّنْ دُونَنَا لَا يَنْتَظِرُونَ لِقَاءَ أَلْفِئَتِهِمْ وَلَا هُمْ مُنْتَضِبُونَ ﴿٤٣﴾

بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَسْبًا صَالًا عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ نَارَ الْأَرْضِ تَنْقُصُ مَا فِيهَا أَظْهَرُ لِقَائِهِمْ أَتَيْهِمُ الْعَذَابُونَ ﴿٤٤﴾

قُلْ إِنَّمَا أَنذَرْتُكُمْ بِالْحَقِّ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنَادُونَ ﴿٤٥﴾
وَلَيْنَ فَسَتْهُمْ لَعْنَةٌ مِّنْ عَدَابِ رَبِّكَ

say, "Oh! woe to us, surely we are cruel."

47. And We (Allah) shall set up the balances (of justice) on the Day of Resurrection. None will be dealt with unjustly to the least. And if there be anything, even equal to a grain of mustard seed, then We (Allah) shall bring it. And We (Allah) are efficient in taking account.

48. And certainly, We (Allah) granted to Moosaa (Moses) and Haroon (Aaron) criteria of distinction (of right from wrong) and We (Allah) gave them the light and message for the pious;

49. who fear their Rubb (Sustainer) without seeing and who are dreadful of the Hour.

50. And this (Qur'aan) is a blessed message that We (Allah) have revealed. Do you even then deny it?

[ONE FOURTH OF PART 17 ENDS]

SECTION 5

51. And certainly, We (Allah) bestowed to Ibraaheem (Abraham) right path from before, and We (Allah) knew him fully well.

52. When he (Abraham) asked his father and his people, "what are these images (statues) before which you are kneeling ?

53. They replied, "we found our fathers worshipping them ."

54. He said, "certainly you and your fathers are in clear error."

55. They said, "have you brought truth to us, or you are joking ?"

ہے! خرابی ماری، بیک ہم ظالم تھے (46)

اور ہم عدل کی ترازوئیں رکھیں گے قیامت کے دن، تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہو گا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کو (47)

اور بیک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ دیا، اور اجالا اور پرہیزگاروں کو نصیحت (48)

وہ جو ب دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور انہیں قیامت کا اندیشہ لگا ہوا ہے (49)

اور یہ ہے برکت والا، ذکر ہم نے امارا، تو کیا تم اس کے منکر ہو (50)

لَقَوْلُنَّ يَوْمَئِذٍ أَتَيْنَا لَكُمْ بِالْحَقِّ ۝

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقَسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكُفًى بِنَا حُسْبِينٌ ۝

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ۝

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِمَّنْ سَكَرُوا مَشْفُقُونَ ۝

وَهُدًى وَذِكْرًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا لِيَأْتِيَهُمُ الْفَتْحُ وَكُلٌّ لَّهُمْ مَنَّكَوُونَ ۝

اور بیک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی، اور ہم اس سے خبردار تھے (51)

جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا، یہ مورتمیں کیا ہیں، جن کے آگے تم آس مارے (سرجمکائے) ہو (52)

بولے! ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا (53)

کہا، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو (54)

بولے! کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یونہی کھیلنے ہو؟ (55)

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ۝

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ الصَّمَائِمُ قَالَ سَأَلْتُم بِهَا آلِهَةً قَوْمٍ ۝

كَانُوا جَدًّا أَبَاءَ نَاكِهِمْ غَائِبِينَ ۝ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَتَعْوَابًا ذَكُورًا فِى صُلْبِ الْمُجْرِمِينَ ۝

كَانُوا أَكْجَمًا وَجُنَّتْ بِآلِهِمْ أَلْسِنُهُمْ مِنَ التَّبَعِ ۝

56. He said, "rather, your Rubb (Sustainer) is the Rubb (Sustainer) of the earth, Who created them, and I am a witness to this (truth)."

57. "And by Allah I have a plan against your idols when you are away".

58. So he broke them (idols) into pieces except the big one of them, that perhaps they may ask to it.

59. They said, "who has done this to our gods? Surely, that one is cruel.

60. They said, "we heard a youth Ibraaheem (Abraham) speaking against them (idols)".

61. They said, "bring him before the eyes of mankind that they may bear witness."

62. They said, "have you done this to our gods, O Ibraaheem?"

63. He (Abraham) said, "rather this big one of them would have done this, so ask them, if they can speak."

64. They turned to themselves and said, "surely you yourselves are the cruel."

65. Then they were confused in shame saying, "you (Abraham) certainly know well that these do not speak".

66. He said, "do you then worship besides Allah those which neither profit you and nor can harm you."

67. "Woe to you and on those you worship besides Allah. Will you then not understand"?

کہا، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں (56)

اور مجھے اللہ کی قسم ہے، میں تمہارے بتوں کو برباد کر دینگا، جب تم بچر جاؤ بیٹھے دے کر (57)

تو ان سب کو چورا کر دیا، مگر ایک کو جو ان سب کا بڑا تھا، کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں (58)

بولے! کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا، بیشک وہ ظالم ہے (59)

ان میں سے کچھ بولے، ہم نے ایک جوان کو انہیں برباد کئے، جسے ابراہیم کہتے ہیں (60)

بولے! تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید وہ گواہی دیں (61)

بولے! کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا اے ابراہیم؟ (62)

فرمایا: بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہو گا، تو ان سے پوچھو، اگر بولتے ہوں (63)

تو اپنے جی کی طرف پلٹے اور بولے، بے شک تمہیں ستم گار ہو (64)

پھر اپنے سروں کے بل اوندھائے گئے کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں (65)

کہا، تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پستے ہو، جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے (66)

تف ہے تم پر، اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پستے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں (67)

قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي ذُكِرْتُمْ بِهِ، وَكَأَنَّكُمْ عَلَىٰ ذٰلِكُمْ قٰنِ السَّهِيْدِيْنَ ﴿٥٦﴾

وَمَا ذٰلِكُمْ اِلَّا كَيْدٌ اِنْتُمْ اَصْنٰتُمْكُمْ بَعْدَ اَنْ تَوَلَّوْا مَدْبِرِيْنَ ﴿٥٧﴾

تَجْعَلُوهُمْ جُنْدًا لِّاَكْبَرِ الْاِهْمِ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٨﴾

قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِالِهَيْتٰنَا اِنَّ لِّبَنِى الطَّالِبِيْنَ ﴿٥٩﴾

قَالُوْا سَمِعْنَا نَسِيْ تَدْكُرُهُمْ يُقَالُ لِهٰذَا بَرِهِيْمٌ ﴿٦٠﴾

قَالُوْا اِنَّا نَوٰىبُهُ عَلٰى اَعْيُنِنَا نَسِي لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ﴿٦١﴾

قَالُوْا اِنَّكَ فَعَلْتَ هٰذَا بِالِهَيْتِنَا يَا بَرِهِيْمُ ﴿٦٢﴾

قَالَ بَلْ فَعَلْتُمْ كَيْدًا بِرُءُوسِهِمْ هٰذَا ذَنْبُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْظُرُوْنَ ﴿٦٣﴾

فَوَجِعُوْا اِلَى اَنْفُسِهِمْ فَمَا لَوِ اِنَّكُمْ اَنْتُمْ الظَّالِمُوْنَ ﴿٦٤﴾

تَدْرِكُوْكُمْ سَوَاعِلُ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هُوَ اِلَّا يَنْظُرُوْنَ ﴿٦٥﴾

قَالَ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ سِيْئًا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾

اِنْ كُنْتُمْ رٰسِمًا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾

68. They (Allah) said, "bura him (Abraham) and help your gods, if you have to do anything."

59. We (Allah) said, "O fire! be cool and safe for Ibraaheem (Abraham)."

70. And they wanted to harm him but We (Allah) made them to fail worstly.

71. And We (Allah) delivered him and Luut safely towards the land in which We (Allah) had placed the blessings for the worlds (mankind).

72. And We (Allah) bestowed on him Ishaque (Isac) and grand son Yaqoob (Jacob), and We (Allah) made all of them righteous men.

73. And We (Allah) made them leaders guided by Our (Allah's) Command and We (Allah) revealed to them the doing of good deeds and establishing of Salaat (Muslim Prayer) and the paying of Zakaat (compulsory due) and they constantly should remain Our (Allah's) devotees (in worship).

74. And to Luut We (Allah) gave wisdom of governance and knowledge and saved him out of the town which practised indecent acts. Surely they were wicked and sinful nation.

75. And We (Allah) caused him to enter Our (Allah's) Mercy. Surely, he was righteous.

SECTION 6

76. And We (Allah) answered the submission of Nuuh (Noah) when he submitted to Us (Allah) before and saved him and his family from great calamity.

بولے! ان کو ہلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو! اگر تمہیں کرنا ہے (68)

ہم نے فرمایا: اے آل! ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی! ابراہیم پر (69)

اور انہوں نے اس کا برا چاہا، تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر زیاں کار کر دیا (70)

اور ہم نے اسے اور لوٹ کو نجات بخشی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی (71)

اور ہم نے اسے اسحق عطا فرمایا اور یعقوب پوتا، اور ہم نے ان سب کو اپنے قرب خاص کا سزاوار کیا (72)

اور ہم نے انہیں امام کیا کہ ہمارے حکم سے جاتے ہیں اور ہم نے انہیں وحی بھیجی ایسے کام کرنے اور نماز پرا رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی، اور وہ ہماری بندگی کرتے تھے (73)

اور لوٹ کو ہم نے حکومت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی، بے شک وہ بڑے لوگ بے حکم تھے (74)

اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کیا، چنانچہ وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہے (75)

اور نوح کو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی (76)

كُلُّوا حُرُوفًا وَاَنْصُرُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٦٨﴾

فَلَمَّا بَرَأْنَا لُوطَ بْنَ مَرْيَمَ إِذْ قَالَ لِلرَّسُولِ إِنِّي وَاسِعٌ وَأَتِيءُكَ ﴿٦٩﴾

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُهَدُونَ ﴿٧٠﴾

وَوَهَبْنَا لِمَنْ يَشَاءُ مِنْكُمْ ذُرِّيًّا مَبْرُورًا ﴿٧١﴾

وَجَعَلْنَا لِكُلِّ مَشْرُوعٍ حَمِيمًا ﴿٧٢﴾

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُهَدُونَ ﴿٧٣﴾

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِلرَّسُولِ إِنِّي وَاسِعٌ وَأَتِيءُكَ ﴿٧٤﴾

وَجَعَلْنَا لِكُلِّ مَشْرُوعٍ حَمِيمًا ﴿٧٥﴾

وَجَعَلْنَا لِكُلِّ مَشْرُوعٍ حَمِيمًا ﴿٧٦﴾

77. And We (Allah) helped him against the nation who falsified Our (Allah's) revelation. Surely they were an evil nation, so We (Allah) drowned them all.

78. And remember Daood (David) and Suulaimaan (Solomon) when they gave a decision regarding the field into which the sheep of a certain nation pastured by night, and We (Allah) witnessed their decision.

79. So We (Allah) gave Suulaimaan (Solomon) insight in the matter and bestowed to both of them decision power and knowledge. And We (Allah) made the mountains and birds to glorify Our (Allah's) praise with Daood and We (Allah) were the motivator.

80. And We (Allah) taught him the making of coats for you so that it may protect you against any war. Will you then be grateful?

81. And We (Allah) made subservient to Suulaimaan (Solomon) the violent wind that blew on his orders in the land in which We (Allah) had sent Our (Allah's) Blessings. And We (Allah) have the knowledge of everything.

82. And of the satans (devils) there were those who dived for him and did other works beside that but We (Allah) guarded them.

83. And when Ayuub (Job) submitted to his Rubb (Sustainer) that surely hardships have seized me and You are the most Merciful of the mercifuls.

84. Therefore, We (Allah) responded to his submission

اور ہم نے ان لوگوں پر اس کو مدد دی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، بے شک وہ بُرے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا (77)

اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب کہتے کا ایک جھگڑا چکاتے تھے، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹیں، اور ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے (78)

ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا، اور داؤد کے ساتھ پہاڑ مسخر فرمائیے کہ شیخ کرتے اور پرندے، اور یہ ہمارے کام تھے (79)

اور ہم نے اسے تمہارا ایک پتلا بنا دیا، تمہیں تمہاری آج سے پچائے تو کیا تم شکر کرو گے (80)

اور سلیمان کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی کہ اس کے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے (81)

اور شیطانوں میں سے وہ جو اس کے لیے غوطہ لگاتے، اور اس کے سوا اور کام کرتے، اور ہم انہیں روکے ہوئے تھے (82)

اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی، اور تو سب مہروالوں سے بڑھ کر مہر (رحم) والا ہے (83)

تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو ہم نے دور

وَدَعَوْنَاهُمْ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا وَأَعْرَضُوا عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

وَأَوْدُ دَوَّسَاتِيمٍ إِذِ يَحْكُمُونَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُلُمِهِمْ شَاهِدِينَ ۝

فَقَرَّبْنَا نِسَاتِيمَ وَأَكْلًا إِنبَاءَ مَا وَعَدْنَا وَاسْتَوْنَا مَعَ دَاوُدَ الْغَيْبِ أَلْ يَسْتَعْجِلُ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ۝

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبِيسٍ لِّمَنْ يَخْتَصِمُكَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ۝

وَالسَّلِيمِينَ الرِّيحِ عَاصِفَةٍ تَجْرِى بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لَكُمْ وَكُنَّا بِكُمْ عَلِيمِينَ ۝

وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغْوِرُونَ فِيهَا وَيَجْمَلُونَ عُثُلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ۝

وَالْيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسْرُورٌ الظَّالِمِينَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ۝

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا عَنْهُ غَمَّهُ وَرِجْسَ الْيُوسُفَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسْرُورٌ

and removed his hardship and We (Allah) gave him family and restored with them the like thereof as a mercy from Us (Allah) and as the devotees,

85. And Ismail and Idrees and Zoolkifl. They were all (men) of great patience.

86. And We (Allah) admitted them to Our (Allah's) Mercy. Surely, they were all righteous ones.

87. And (recall) Zuunnoon when he departed in anger, he imagined that We (Allah) would not cause him any distress and then he cried out in the darkness, "there is none worth worship except You. Glorified are You." Surely, I am one of the cruels."

88. So We (Allah) responded to his submission and saved him from the grief and thus We (Allah) save the faithfuls (Muslims).

89. And Zakaria (Zacharia) submitted to his Rubb (Sustainer), "do not leave me childless and You are the best of inheritors.

90. So We (Allah) repended to his submission and bestowed him Yahya (John) by curing his wife. Surely they were people who competed with each other in good deeds of alms giving and used to pray to Us (Allah) with love and reverence. And they remain humble before Us (Allah).

91. And she who guarded her chastity We (Allah) breathed into her Our (Allah's) Spirit, and made her and her son a sign in the universe.

کر دی جو تکلیف اسے تھی، اور ہم نے اسے اس کے گمراہی اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے اپنے پاس سے رحمت فرما کر، اور بندگی والوں کے لیے نصیحت (84)

اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو (یاد کرو) وہ سب مبروئے تھے (85)

اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بیشک وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہیں (86)

اور ذوالنون کو (یاد کرو) جب چلا غصہ میں بھرا، تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اندھیروں میں پکارا کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاکی ہے تجھ کو، بے شک مجھ سے بے جا ہوا (87)

تو ہم نے اس کی پکار سن لی، اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ایسی ہی نجات دین کے مسلمانوں کو (88)

اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب! مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بجز وارث (89)

تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور اسے بخئی عطا فرمایا، اور اس کے لیے اس کی بی بی سنواری، بیشک وہ پھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے، اور ہمیں پکارتے تھے اور امید اور خوف سے، اور ہمارے حضور مگر گمراہے ہیں (90)

اور اس عورت کو جس نے اپنی پارسائی نگاہ رکھی، تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور اسے اور اس کے بیٹے کو سارے جہان کے لیے نشانی بنایا (91)

صَوْرًا وَآيَاتِنَا أَهْلَكُومِثْلَهُم
فَعَقَهُمُ رَحْمَةً مِنَّا وَذَكَرُوا
لِلصَّادِقِينَ ۝۸۴

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَالَ
الْقَلْبِ كُلًّا مِّنَ الصَّابِرِينَ ۝۸۵

وَإِذْ خَلَلْنَا فِي رَحْمَتِنَا أَنَّهُمْ
مِنَ الضَّالِّينَ ۝۸۶

وَإِذْ التَّوْنُ إِذْ هَبَّ مَعْاضِبًا فَظَنَّ
أَن لَّنْ نُقَدِّرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي
الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝۸۷

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَجَّعْنَا لَهُ مِنَ الْعَذَابِ
وَكَذَلِكَ نُنشِئُ الْمُؤْمِنِينَ ۝۸۸

وَذَكَرَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ لَا تُدْرِكُنِي
الْفُرُؤُا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ۝۸۹

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ الْيَحْيَىٰ وَ
أَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا
يُشْرِكُونَ فِي الْخَلْقِ وَيَدْعُونَنَا
رِعْبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا خَاشِعِينَ ۝۹۰

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا
رُوحَنَا فِيهَا وَجَعَلْنَاهَا وَأَبْنَاهَا
آيَةً لِلْعَالَمِينَ ۝۹۱

92. Surely, this Ummah (grand Muslim community) of yours is a single Ummah (Islamic nation), and I am your Rubb (Sustainer). So only worship Me.

93. And they split up their religion among themselves in sects but all are to return to Us (Allah).

SECTION 7

94. Whoso has righteous deeds and be a believer, his(her) efforts are not disregarded and surely for them We (Allah) keep the record.

95. And there is a binding on every town which we have destroyed that they shall never return (to life).

96. Until Yajooj (Gog) and Majooj (Magog) would be let loose and they will be rushing down from every mount.

97. And the true promise will draw near, then lo! the eyes of the disbelievers will amazingly stare (saying), woe to us. Certainly, we were neglectful of this (day), rather we were cruel."

98. Surely, you and whatever you worshipped besides Allah, will be the fuel of the hell. You have to enter therein.

99. If these (idol gods) had been worth worshipping they (worshippers) would not have gone to hell. And all of you will live therein for ever.

100. They will groan there in pain but none will listen to them.

101. Surely those for whom My promise of good reward has already gone forth, they shall be kept away from it (hell).

بیگ تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تو میری عبادت کرو (92)

اور اوروں نے اپنے کام آپس میں کٹڑے کٹڑے کر لیے، سب کو ہماری طرف پھرنا ہے (93)

تو جو کچھ بھلے کام کرے اور ہو ایمان والا تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں (94)

اور حرام ہے اس ہستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا، کہ پھر لوٹ کر آئیں، (95)

یساں تک کہ جب کھولے جائیں گے یا جوج و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلنے ہوں گے (96)

اور قریب آیا سما وعدہ تو جیسی آنکھیں پھٹ کر رہ جائیں گی کافروں کی، کہ ہائے! ہماری خرابی، بیگ ہم اس سے غفلت میں تھے، بلکہ ہم ظالم تھے (97)

بے شک تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوجتے ہو، سب جہنم کے اندھن ہو تمہیں اس میں جانا (98)

اگر یہ خدا ہوتے جہنم میں نہ جاتے، اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا (99)

وہ اس میں رہیں (جینیں) گے، اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے (100)

بیگ وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا، وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں (101)

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّبِعُونِي ۝۱۰

وَتَقَطَّوْا أُمُرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلَّ إِلَهٍ كُنَّا لِرِجْعَتِهِمْ ۝۱۱

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَكْفُرَْانَ لِسَعْيِهِ ۝۱۰ وَإِنَّا لَهُ كَابِتُونَ ۝۱۱

وَحَرًّا مَّرَعَىٰ قَرِيْبَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنهَمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝۱۱

حَتَّىٰ إِذْ أَفْجَعْتِ يَا جُوجُومَ وَمَا جُوجُومَ وَهَمَّ مِنْ كُلِّ قَرْيَةٍ يَنْسِلُونَ ۝۱۱

وَإِن تَرَبَّ الوَعْدَ الْحَقِّ فَادْأهِمْ شَاحِصَةً ۝۱۱

كَفَرُوا الْيَوْمَ إِنَّا كُنَّا مِنْ عَقْلَةٍ ۝۱۱

هَذَا بَلٌّ لَّنَا لظَالِمِينَ ۝۱۱

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ إِنهَمْ كَمَا وَرَدُونَ ۝۱۱

لَوْ كَان هُوَ إِلَّا إِلَهَةٌ مَا دَرَدَوْهَا ۝۱۱

وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ۝۱۱

لَهُمْ فِيهَا زُفَيْرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ۝۱۱

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُعْتَدُونَ ۝۱۱

102. They will not hear the slightest sound from it while enjoying the best as wished by themselves for an everlasting life.

103. They will not be grieved by the great terror and the Angels shall meet them (saying), "this is your Day which was promised to you".

104. On the Day We (Allah) shall roll-up the heavens as the rolling-up of the written books (of deeds). As We (Allah) produced it in the first instance We (Allah) shall reproduce it. This is a promise on Us (Allah); We (Allah) shall surely fulfil it.

105. And certainly, We (Allah) wrote in Zaboor (Psalms) after the reminder (in Torah) that My righteous devotees will inherit My earth.

106. Surely in this (Qur'aan) is a message for the nation of the worshippers.

107. And We (Allah) have sent you (O dear Prophet Muhammad) except as a mercy for all the universe.

108. Please declare, "it is revealed to me that you worship none except only one Allah. Will you then submit (become Muslims).

109. But if they turn away tell them that I have conveyed you the proclamation in fairness, and I do not know whether that which you are promised is near or far.

110. Surely, Allah knows what is spoken loudly and knows whatever you conceal.

111. And I do not know if this may be a trial for you or a provision for a time.

اور اس کی بجگ نہ سنیں گے اور وہ اپنی من مانی خواہشوں میں بیٹھ رہیں گے (102)

انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گہراہٹ اور فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا (103)

جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے کھل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے، ہم نے جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھر کر دیں گے یہ وعدہ ہے ہمارے ذمہ، ہم کو اس کا ضرور کرنا (104)

اور جیکہ ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے (105)

جیکہ یہ قرآن کافی ہے عبادت والوں کو (106)

اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے (107) تم فرماؤ! مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا نہیں مگر ایک اللہ، تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو (108)

پھر اگر وہ منہ پھیریں، تو فرما دو! میں نے تمہیں لڑائی کا اعلان کر دیا برابری پر، اور میں کیا جانوں کہ پاس ہے یا دور ہے وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے (109)

جیکہ اللہ جانتا ہے آواز کی بات اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو (110)

اور میں کیا جانوں، شاید وہ تمہاری جانچ ہو، اور ایک وقت تک ہر توانا (111)

لَا يَسْمَعُونَ صَوْتَهَا وَهُمْ فِي مَا
اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾
لَا يَحْزَنُهُمُ الْقَوْمَ الْأَكْبَرُ
تَتَلَقَّوْنَهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ
الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ
لِنُكْتِبَ لِمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ يُوعَدُونَ
وَعَدًّا عَلَيْكُمَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٠٤﴾

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ
إِنَّ الْأَرْضَ يَرثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٠٥﴾

رُبَّ مَا هَذَا بَلَاغٌ لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿١٠٦﴾

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾
قُلْ إِنَّمَا أَدْعِي إِلَىٰ آلِئِنَّمَا الْهُكْمُ لِلَّهِ
وَإِذْ هَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾

فَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْفَلَاحَ
فَرِحُوا بِذُنُوبِكُمْ بِأَنَّهُمْ
أَدْرَبْتُمْ كَتِّيبًا أَمْ يَحْسُدُونَ
فَمَا تَوَعَّدُونَ ﴿١٠٩﴾

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ
مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿١١٠﴾

وَإِنْ أَدْرَبْتُمْ كَتِّيبًا فَنَتَنَّى كُفْرًا
وَمَا تَأْتِيكُمُ الْبَأْسُ إِلَّا حِينًا ﴿١١١﴾

112. Please declare, "O Rubb (Sustainer) judge with truth; and our Rubb (Sustainer) is the most Affectionate, Whose help We (Allah) seek against what blasphemous you utter (against Him).

[HALF OF PART 17
ENDS]

S. XXII

SURA-AL-HAJJ
(THE MUSLIM
PILGRIMAGE)

Revealed at Madina

(78 Verses, 10 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. O mankind! be pious to your Rubb (Sustainer). Surely, the catastrophe of Doom in the fixed Hour isa mighty event.

2. The day when you would see it, every suckling woman shall forget her infant whom she suckled, and every pregnant woman shall cast away her burden (give still birth) and you will see the mankind as if they are intoxicated but they will not be so intoxicated. The punishment of Allah is severe.

3. And among mankind there are those who dispute about Allah without knowledge, and are followers of every rebellious satan (devil);

4. against whom it has been written down that whoso will make him friend he will guide him astray towards the punishment of (burning in) the flames

نمائے عرض کی! کہ اے میرے رب!
حق فیصلہ فرما دے، اور ہمارے رب رضی
ہی کی مدد درکار ہے ان باتوں پر جو تم
بتاتے ہو (112)

سورہ حج عنی ہے (اور اس میں) اعر
(78) آیتیں اور دس (10) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام شروع جو نہایت مہربان رحم
والا

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو! بے شک
قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے (1)

جس دن اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے
والی اپنے دودھ پینے کو بھول جائے گی، اور
ہر گامہنی (حاملہ) اپنا گامہ (حمل) ڈال
دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشہ
میں ہیں، اور نشہ میں نہ ہوں گے مگر ہے
یہ کہ اللہ کی مارکزی (شدید) ہے (2)

اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ اللہ کے معاملہ میں
جھگڑتے ہیں بے جا، اور ہر
مرد سٹیشن کے پیچھے ہو لیتے ہیں (3)

جس پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کی دوستی
کرے گا، تو یہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا
اور اسے عذاب دوزخ کی راہ بتائے گا (4)

قُلْ رَبِّ اَسْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ
الَّذِي يُسَبِّحُ الْمُسْتَخَانِ عَلَى مَا اَكْفَرُونَ ﴿۱۱﴾

سُورَةُ الْحَجِّ مَدَنِيَّةٌ مِّنْ اٰیَاتِ عَشْرِ اَلْاَنْجُوٰرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمۡ اِنَّ زَلٰلَةَ
السَّاعَةِ تَأْتِيۤا عَظِيْمًا ﴿۱﴾

يَوْمَ تَوَدَّوۤا۟ اَنۡ تَذٰهَبَ كُلُّ مَرۡضِعَةٍ
عَمَّا۟ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذٰلِجٍ حَمْلًا
وَتَجۡلِبُوۤا۟ وَاَتٰى النَّاسَ سُكُوۤىٌ وَّوَمَا هُمۡ
بِسُكُوۤىٍ وَّلٰكِنۡ عَذَابُ اللّٰهِ شَدِيۡدٌ ﴿۲﴾

وَمِنَ النَّاسِ مَنۡ يُجَادِلُ فِی اللّٰهِ بِغَیۡرِ
عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَیْطٰنٍ مُّرِیۡدٍ ﴿۳﴾

كُتِبَ عَلَیۡهِۦۓۓ اَنۡ يُّؤۡمِنَ بِرَبِّهِۦۓۓ فَاسَآءَ
بِضَلٰتِهِۦۓۓ وَیَهۡدِیۡهِۦۓۓ اِلٰی عَذَابِ النَّعۡیۡمِ ﴿۴﴾

5. O mankind! if you have any doubt about your raising up again then consider that We (Allah) surely created you from dust, then from a drop of water (sperm), then from the clot of blood, then from a piece of flesh fashioned and unfashioned, so that We (Allah) may make clear to you (Our power). And We (Allah) cause what We (Allah) please to stay in the womb of mothers till an appointed time. Then We (Allah) bring you out as infant. Then you attain your maturity. And of you one dies early and another one is brought to a worst part of old age so that such one after having knowledge does not know any thing. And you see the sterile land but when We (Allah) send down water on it, it is freshened and swells up and grows every kind of beautiful herbage in abundance.

6. This is so because Allah is the Truth and it is He Who gives life to the dead and that He has power over all the things;

7. and the Hour is surely to come. There is no doubt in it. And Allah will surely raise those who are in the graves.

8. And among mankind there are some who dispute about Allah without knowledge, without guidance and without Book of enlightenment.

9. They haughtily turn aside from truth to mislead others from the path of Allah. For such one there is humiliation in the world and on the Day of Resurrection. We (Allah) shall make that

اسے لوگو! اگر تمہیں قیامت کے دن جینے میں کچھ شک ہو تو یہ غور کرو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی چمک سے، پھر گوشت کی بونی سے، نقش بنی اور بے بنی، تاکہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائیں اور ہم تمہارے رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہیں ایک مقرر میعاد تک، پھر تمہیں نکالتے ہیں پیچھے پھر اس لیے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے، اور کوئی نکمی عمر تک والا جاتا ہے، کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اور تو زمین کو دیکھے مرصعائی ہوئی، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا، تو آمادہ ہوئی اور ابھر آئی، اور ہر رونق دار جوڑا اگلائی (5)

یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور یہ کہ وہ مرسعے جلائے گا اور یہ کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے (6)

اور اس لیے کہ قیامت آنے والی اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں (7)

اور کوئی آدمی وہ ہے کہ اللہ کے ہارے میں یوں جھرتا ہے، کہ نہ تو علم، نہ کوئی دلیل، اور نہ کوئی روشن روش (8)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَحْثِ فَاذْكُرُوا خَلْقَكُمْ قُلُوبًا نَّمُوهُنَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ عَلَقَةً ثُمَّ مَرْمِئًا ثُمَّ مُضْغَةً مُخْتَلَفَةً وَعَجْرًا عَظْمًا فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ رَدْدًا إِلَىٰ أُولَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ثُمَّ كُنْتُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ رَدْدًا إِلَىٰ أُولَىٰ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ثُمَّ يُدْأَى الْإِنسَانُ إِلَىٰ الْعُمُرِ لِيُبْلِيَ عَمَلَهُ مِن بَعْدِ عَمَلِهِ وَشَيْئًا وَشَيْئًا ثُمَّ إِلَىٰ آخِرَتِهِ لِيُنزَلَ فِيهَا سُدَّةً وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْمَاءَ الْعَذْبَ ذَاتَ الْبُرْقِ ۚ وَإِنَّكُمْ كُنْتُمْ مِنْ كَلِّ ذُرِّيَّتِهِ حَبِيبًا ۝

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَآنَا نَجْمِي
الْمَوْقِيُّ وَأَنَّا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَزِيدُ وَيُبَدِّلُهَا
اللّٰهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ وَيُحَدِّثُ
عِلْمًا لَّاهِدِيًّا وَلَا يُؤْتِيهِمْ حُجُبًا ۝

لَقَدْ أَنذَرْتُكُمْ لِقَاءَ الَّذِي كُفِرْتُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے، تاکہ اللہ کی راہ سے ہٹا دے، اس کے لیے دنیا میں رسولی ہے، اور قیامت کے دن ہم

one to taste the punishment of burning.

10. This is because of what your two hands have sent forth and Allah is surely never cruel to His devotees.

SECTION 2

11. And among mankind there are some who worship Allah on the urge that if good reaches them, they are satisfied therewith but if a trial befalls, he (she) turns away. There is loss for such ones in this world and the hereafter. That is a clearcut loss.

12. Such ones call besides Allah those who neither can harm nor can profit. This is indeed straying far away (from the right way).

13. They call upon such whose harm is more than profit. What an evil guardian, what an evil associate they get?

14. Surely, Allah will cause those who believe and do good deeds to enter Paradise beneath which streams flow. Surely, Allah carries what He Will's.

15. Whoso think that Allah will neither help him (Prophet Rasool Muhammad) in this world nor in the life hereafter, (now that he is victorious) let them hang themselves with ropes in necks from heaven, then cut off the rope and see whether their device took away that for which they enraged.

16. And thus We (Allah) have revealed it (Qur'aan) with clear Verses because Allah guides whom He Will's.

17. Surely, those who believe (Muslims) and those

اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے (9)
یہ اس کا بدلا ہے جو تیرے ہاتھوں نے
آگے بھیجا اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں
کرتا (10)

اور کچھ آدمی اللہ کی بندگی ایک کنارہ پر
کرتے ہیں، پھر اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچ
گئی جب تو جین سے ہیں اور جب کوئی
جانچ آپڑی منہ کے بل پلٹ گئے دنیا اور
آخرت دونوں کا گھٹا، یہی ہے صریح
نقصان (11)

اللہ کے سوا ایسے کو پوسنے ہیں جو ان کا بُرا
بھلا کچھ نہ کرے، یہی ہے دور کی گمراہی
(12)

ایسے کو پوسنے ہیں جس کے نفع سے
نقصان کی توقع زیادہ ہے، بیگ کیا ہی بُرا
مولیٰ اور بیگ کیا ہی بُرا شی (13)

بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو
ایمان لائے اور بھلے کام کیے، باغوں میں
جن کے نیچے نہریں رواں، بے شک اللہ
کرتا ہے جو چاہے (14)

جو یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ اپنے نبی کی مدد
نہ فرمائے گا دنیا اور آخرت میں، تو اسے
چاہیے کہ اوپر کو ایک رسی تانے، پھر
اپنے آپ کو پھانسی دے لے، پھر دیکھے کہ
اس کا یہ داؤں کچھ لے گیا اس بات کو
جس کی اسے ملن ہے (15)

اور بات یہی ہے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا
روشن آیتیں، اور یہ کہ اللہ راہ دہتا
ہے چاہے (16)

بے شک مسلمان اور یہودی اور سترہ

الْقِيَمَةِ عَذَابِ الْحَرِيقِ ①

ذَلِكَ بِمَا كَفَرْتَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِنَّ اللَّهَ
لَئِيسَ بِظَالِمٍ لِّلْعَالَمِينَ ②

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْجِدُ اللَّهَ عَلَىٰ
حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ
وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ
وَجْهِهِ ③ خَسِرَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الَّذِينَ
هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ④

يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَصْرِفُهُمْ
لَا يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ⑤
يَدْعُوا لَمَن هُوَ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ
لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ⑥

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ⑦

مَنْ كَانَ يُظَنُّ أَنَّ لَن كَيْفَ يُصْرَهُ اللَّهُ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَكَيفَ دَسَّ بِسَبِّ
إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ يُقَطُّمْ فَاكَيْفَ يَنْظُرُ هَلْ
يَذْهَبْنَ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ ⑧

وَنُذِّبَكَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِتِيزَاتٍ وَإِنَّ
اللَّهَ بِبَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ⑨

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِرِينَ

who are Jews and the Sabaeans and the Christians and the Magians and the 'muushriks' (idolators) Allah will judge between them on the Day of Resurrection. Surely, every thing is witnessed by Allah.

18. Do not you see that surely, to Allah prostrates whoso is in the heavens and whoso is in the earth, and the sun, and the moon, and the stars, and the mountains, and the trees, and the beasts, and lot of the mankind? And many are those upon whom the punishment is justified. And whom Allah disgraces, none can give him honor. Surely Allah does what He Wills.

19. There are two adversaries who dispute concerning their Rubb (Sustainer). As for those who disbelieve, for them are cut out garments of fire. The boiling water will be poured down on their heads.

20. With it shall be melted which is in their bellies and under their skins.

21. And for them are the whips by iron rods.

22. Whenever they will desire to get out of it (hell), due to agony, they shall be turned back into it and will be commanded to taste the punishment of being burnt.

SECTION 3

23. Surely, Allah will make those who believe and do righteous deeds to enter Paradise under which streams flow. They will be made to wear bracelets of gold and pearls. And their

پرست اور لہرائی اور آتش پرست اور شرک، بیشک اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے (17)

کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چھپائے، اور بہت آدمی اور بہت وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا، اور جسے اللہ ذلیل کرے، اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، بیشک اللہ جو چاہے کرے (18)

یہ دو فرق ہیں کہ اپنے رب میں جھگڑے تو جو کافر ہوئے ان کے لیے آگ کے کپڑے بیوتے (کاٹنے) گئے ہیں، اور ان کے سروں پر کھول پانی والا جائے گا (19)

جس سے گل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، اور ان کی کھالیں (20)

اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں (21)

جب تمھن کے سبب اس میں سے لٹکانا چاہیں گے پھر اسی میں لوٹا دینے جائیں گے، اور حکم ہو گا کہ چلکو آگ کا عذاب (22)

بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں ہیں، اس میں پستانے جائیں گے سونے کے ٹکڑے اور موتی، اور

وَالصَّوْمِ وَالْحَجُّوسِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۱۷﴾

الَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ يَجْعَلُ لَهُمْنَ فِي

السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسِ وَ

النَّجْمِ وَالشَّجَرِ وَالْحَيَاةِ وَالشَّجَرِ وَ

الذَّوَابِّ وَكَذَٰلِكَ يُخَوِّنُ النَّاسَ وَكَذَٰلِكَ يُزَكِّيهِمْ

حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُؤْمِنِ بِاللَّهِ

فَمَا لَمْ يُؤْمِنِ بِاللَّهِ يَفْعَلْ مَا

يَكْفُرُ بِهِ ۝ ﴿۱۸﴾

هَذَا يَخْصُصُ الْخَصْمَ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي

فَأَلَّذِينَ كَفَرُوا أَقْطَعَتْ لَهُمْ ثِيَابًا

مِنْ نَارٍ يُصَدَّبُ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمْ

الْحَمِيمِ ۝ ﴿۱۹﴾

يُضَاهِرُ بِمِثَالِي بَطْنُ زَيْدٍ وَالْبَلْعُودُ ۝

وَأَلَهُمْ وَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ۝ ﴿۲۰﴾

كَلِمًا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ

بِأَيْدِيهِمْ وَإِنَّمَا كُوِّنَتْ لَهَا آيَاتُ اللَّهِ

لِيُنذِرَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۝ ﴿۲۱﴾

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

يُحَلِّقُونَ فِيهَا مِنْ أَسَادٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ

يُفَجَّرُ فِيهَا نَهْرٌ مِنْ عَذْقٍ خَضِقٍ وَالسَّيِّدُ

يُفَجَّرُ فِيهَا نَهْرٌ مِنْ عَذْقٍ خَضِقٍ وَالسَّيِّدُ

يُفَجَّرُ فِيهَا نَهْرٌ مِنْ عَذْقٍ خَضِقٍ وَالسَّيِّدُ

يُفَجَّرُ فِيهَا نَهْرٌ مِنْ عَذْقٍ خَضِقٍ وَالسَّيِّدُ

يُفَجَّرُ فِيهَا نَهْرٌ مِنْ عَذْقٍ خَضِقٍ وَالسَّيِّدُ

يُفَجَّرُ فِيهَا نَهْرٌ مِنْ عَذْقٍ خَضِقٍ وَالسَّيِّدُ

يُفَجَّرُ فِيهَا نَهْرٌ مِنْ عَذْقٍ خَضِقٍ وَالسَّيِّدُ

garments therein will be of silk.

24. And they are guided with good speech and they are guided to the path of the All-Praiseworthy.

25. Surely, those who disbelieve and hinder (others) from the way of Allah and from the Sacred Mosque, which We (Allah) have appointed equal for all the mankind, both for the resident and for the visitors. And whoso seeks any excessiveness in it by cruel means We (Allah) shall cause him to taste painful punishment.

SECTION 4

26. And when We (Allah) assigned Ibraaheem (Abraham) the right place to build the House (Ka'aba) and commanded him not to associate anything with Me and keep My House clean for persons making circumambulence (round) of it and those who bow and prostrate (establish Salaat - prayer).

27. And (he was commanded) to call mankind to perform Hajj (pilgrimage). They will come on foot and on lean swift camels from every distant quarters of the world);

28. to get their own benefits out of it. And they should remember the Name of Allah during the known days and offer the four legged cattle (in sacrifice) that He has provided them. So eat part thereof (sacrificial cattle flesh) and give the rest to the distressed ones, in want.

وہاں ان کی پوشاک ریشم ہے (23)
اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت کی گئی اور
سب خوبیوں سرا ہے کی راہ بتائی گئی (24)
بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے
ہیں اللہ کی راہ' اور اس اوب والی مسجد
سے جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے مقرر
کیا' کہ اس میں ایک ساتق ہے' وہاں
کے رہنے والے اور پردیسی کا اور جو اس
میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے ہم
اسے درد ناک عذاب پچھائیں گے (25)

اور جبکہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانا
ٹھیک بتا دیا' اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک
نہ کر' اور میرا گھر ستھرا رکھ طواف والوں
اور اعکاف والوں اور رکوع سجدے والوں
کے لیے (26)

اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے' وہ
تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ اور ہردلی
اوٹنی پر' کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہیں
(27)

تاکہ وہ اپنا فائدہ پائیں' اور اللہ کا نام لیں
جانے ہوئے دنوں میں' اس پر کہ انہیں
روزی دی بے زبان چوپائے' تو ان میں
سے خود کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھاؤ
(28)

لَوْلَا وَبِأَسْهَمٍ فِيهَا خَيْرٌ ﴿٢٤﴾

وَهَدُوهُ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدًى
إِلَى صِرَاطٍ مُّحَمَّدٍ ﴿٢٥﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي
جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ
وَالْبَادِي وَمَن يَزِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ
يَأْتِنَاهُ مِن عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٢٦﴾

وَأَذِّنْ لَنَا الْإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ إِنَّ
لَنَا شُرَكَاءَ لِي شَيْئاً أَظْهَرَ بَيْتِي
لِلظَّالِمِينَ وَالْقَابِضِينَ وَالزَّالِمِينَ
الشُّجُورِ ﴿٢٦﴾

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ
رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ
كُلِّ فَجٍّ عَنِيبٍ ﴿٢٧﴾

تَشْهَدُ وَأَمَّا فِئْتِمُ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ
اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا أَرْزَقْتَهُمْ
مِّنْ بَهِيمَتِهِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَ
أَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

29. Then let them complete the rites (of Hajj), clean their dirt after shaving and fulfil their vows and make circumambulence (round) of the Ancient House (Ka'aba).

30. Such are the commands. And whoso respects the prohibitions of Allah, it is virtuous deed with Rubb (Sustainer). And the cattle are made lawful to you as explained except those prohibited to you as unclean. Therefore, shun the dirtyness of the idols and avoid the falsehood;

31. Be upright with One Allah and do not equate anyone equal to Him. And whoso equates anything to Allah is like falling of anyone down from the heaven and like the taking away of such one by birds of prey or like the wind blowing him (her) away to a distant place.

32. Such are the commands. And whoso respects the symbols of Allah, that shows the piety of his(her) heart.

33. For you there are benefits (in sacrificing) till an appointed time and thereafter the destination (of sacrifice) is the Ancient House (Ka'aba).

SECTION 5

34. And for every Uuummat (grand Muslim community), We (Allah) appointed sacrifice rituals that they might mention the name of Allah over the four legged cattle, He bestowed to them. And your Allah is the One Allah worth worship. Therefore, submit to Him only And (O beloved) give

پھر اپنا میل میل کیل آئیں اور اپنی متیں پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں (29)

بات یہ ہے اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بھلا ہے، اور تمہارے لیے حلال کیے گئے بے زبان چہرے، سوا ان کے جن کی ممانعت تم پر پڑھی جاتی ہے، تو دور ہو جنوں کی گندگی سے، اور بچو جموٹی بات سے (30)

ایک اللہ کے ہو کر کہ اس کا سامی کسی کو نہ کہو، اور جو اللہ کا شریک کرے وہ گویا گرا آسمان سے، کہ پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں، یا ہوا اسے کسی دور جگہ پھینکتی ہے (31)

بات یہ ہے اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے، تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے (32)

تمہارے لیے چہایوں میں فائدے ہیں ایک مقرر میعاد تک، پھر ان کا پہنچنا ہے اس آزاد گھر تک (33)

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَلَابُثَهُمْ وَلْيَنْفِرُوا بِنَوَافِلِهِمْ
وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝۲۹

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَبُئِيَ
خَيْرًا لَّعِنْدَ رَبِّهِ وَأُجِلَّتْ لَكُمْ الْعُقُوبَاتُ
أَلَّا تَأْتُوا بِلَاغِكُمْ فَيُخَذَ بِكُمْ بِالضَّرِيسِ مِنْ
الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۝۳۰

حُنْفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ
يُشْرِكْ بِإِلَهِهِ يَأْتِهِ تَكَابُثُهَا خُورًا مِنَ السَّمَاءِ
فَتَخَطَّفُهَا الطَّيْرُ أَوْ يُهَوَّىٰ بِهِ الرِّيحُ
فِي مَكَانٍ سَحِيبٍ ۝۳۱

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ سَخَا بِإِلَهِهِ فَإِنَّهَا
مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝۳۲
لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ
يَأْتِيهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝۳۳

اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی، کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیئے ہوئے بے زبان چہایوں پر، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو اسی کے حضور گردن رکھو، اور اسے محبوب! خوشی سنا دو!

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لَّذِي نُكْرُوهُ
اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ صَارَ زُفْيَهُمْ مِنَ الْكَيْبَةِ
الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلِكُلِّ

good news (of Allah's Mercy) to the humbles;

35. to those whose hearts throb when Name of Allah is mentioned and those who remain patient whatever befalls them and they establish Salaat (Muslim prayer) and spend out of what

We (Allah) have provided them.

36. And for you We (Allah) have made the sacrificial bulky animals (camel and cow) as the symbols of Allah. In them there are other benefits for you. So pronounce on them the Name of Allah while they stand in row. (After sacrifice) when they fall down on sides eat thereof yourself and feed the contented poor and the humble beggar. Thus We (Allah) have subjected them to you, so that you may be grateful.

37. Neither their flesh nor their blood reaches Allah but your piety is acceptable to Him. He has subjected them to you that you may glorify Allah for He has guided you. And give glad tidings to the beneficiaries.

38. Surely, Allah defends those who believe. Surely Allah does not love anyone who is treacherous and ungrateful.

[THREE FOURTH OF PART 17 ENDS] SECTION 6

39. Permission (of defensive fight) is given to such ones on whom the disbelievers thrust war, because cruelties are committed against them. And surely, Allah is Powerful to help them (to victory).

ان تواضع والوں کو (34)

کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں اور جو اقدار پڑے اس کے سننے والے اور نماز پھا رکھنے والے اور ہمارے دیئے سے خرچ کرتے ہیں (35)

اور قربانی کے ذیل وار جانور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے کیے تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، تو ان پر اللہ کا نام لو، ایک پاؤں بندھے تین پاؤں سے کھڑے، پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں، تو ان میں سے خود کھاؤ اور مبر سے بیٹھے والے اور بیگ مانگنے والے کو کھلاؤ! ہم نے یونسی ان کو تمہارے بس میں دے دیا کہ تم احسان مانو (36)

اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں، نہ ان کے خون! ہاں! تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے، یونسی ان کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم اللہ کی بڑائی بولو، اس پر کہ تم کو ہدایت فرمائی اور اسے محبوب! خوشخبری سناؤ! نیکی والوں کو (37)

بیگ اللہ بلائیں نالا ہے مسلمانوں کی بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا ہر بڑے دغا باز یا شکرے کو (38)

أَسْلِمُوا وَكَبِّرُوا لِلْمُحِبِّينَ ۝۱۴

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ
وَالضَّيِّبِينَ عَلَى مَا آصَابَهُمُ وَالْمُهَيِّبِينَ
الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝۱۵

وَالَّذِينَ جَعَلْنَا الْقُرْبَانَ شَعًا لِلَّهِ
لَكُمْ فِيهَا حَيَاتٌ فَأَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
عَلَيْهَا صَوَافٍ فَأِذَا وُجِدَتْ جُحُوبُهَا
فَكَذَّبُوا بِهَا وَأَطْجَعُوا الْقَائِمَ وَالْمُعْتَرَا
كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُم لَعْنَتَكُمْ تَشْكُرُونَ ۝۱۶

لَنْ يَبَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا وَمَا ذُكِرَ
وَلَكِنْ يَبَالَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ
سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتَمْتَدُّوا وَاللَّهُ عَلَى مَا
هَدَيْتُمْ وَكَبِّرُوا الْمُحْسِنِينَ ۝۱۷

إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ۝۱۸

پر دغاچی عطا ہوئی انہیں جن سے کافر لاتے ہیں، اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا اور بیگ اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے (39)

إِنَّ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا
وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝۱۹

40. Such ones were expelled from their homes without a just cause because they said, "our Rubb (Sustainer) is Allah". And had Allah not repelled some people by means of others, the churches, the monostaries, the synagogues and mosques, wherein the Name of Allah is too much remembered, would have been pulled down. And certainly Allah will help those who will help His cause. Surely, Allah is Powerful, Honourable.

41. Should We (Allah) give them control in the land, they would establish Salaat (Muslim Prayer) and pay the Zakaat (poor-due) and command good and forbid evil. And the consequence of all things is in the hands of Allah.

42. And if they falsify you, (O dear Muhammad S.A.W.), then surely before them, the nation of Nuuh (Noah) and Aad and Samood (Thamud) had also falsified them;

43. and the nation of Ibraaheem (Abraham) and the nation of Luut;

44. and the dwellers of Madyan (did so); and that Moosaa (Moses) too was falsified. Then gave respite to the disbelievers. Then I seized them. So how (severe) was My utter rejection?

45. And how many towns We (Allah) destroyed that they were cruel. So they were fallen down from their roofs, and how many wells are lying abandoned and castles deserted.

46. Have they not travelled in the land that their hearts

وہ جو اپنے گھروں سے تانن نکالے گئے صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور اللہ اگر آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا، تو ضرور دُعا دی جاتیں خانقاہیں اور گرجا اور کلیسے اور مسجدیں جن میں اللہ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے، اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک ضرور اللہ قوت والا غالب ہے (40)

وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں، تو نماز پڑھا رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام (41)

اور اگر یہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں، تو چنگ ان سے پہلے جھٹلا چکی ہے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود (42)

اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم (43)

اور مدین والے اور موسیٰ کی تکذیب ہوئی، تو میں نے انہوں کو ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑا، تو کیسا ہوا میرا عذاب (44)

اور کتنی ہی بستیاں ہم نے کیا دیں کہ وہ ستکار تھیں تو اب وہ اپنی اہلی چھتوں پر ڈبی پڑی ہیں، اور کتنے کنوئیں بیکار پڑے اور کتنے محل سچ کیے ہوئے (45)

تو کیا زمین میں نہ چلے کہ ان کے دل ہوں

الَّذِينَ أَخْرَجْنَا مِنْ بُيُوتِهِمْ بَعْدَ كَيْدٍ زَلِيلٍ ۚ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفَعَهُ اللَّهُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَهَيْجَتَ صَوَابِعِهِمْ وَرَبِّمُوعَدٍ ۚ وَمَسْجِدًا يُدْعَوْنَ فِيهَا لِلَّهِ وَلِيُذَكِّرُوا ۚ وَلِيُنْصَرِحَ أَنَّ اللَّهَ مِنْ يُضْرَعُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۙ

الَّذِينَ إِن تَمَكَّنَ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَنُوا بِالْحُرُوفِ وَهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۙ

وَإِن يَكِيدُ بُرُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ۙ

وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ۙ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ كَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۙ

فَكَانَ مِنْ قَرِيبٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ فَهِيَ خَادِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَرَبُّهَا مُعْظَلَةٌ ۚ وَنَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ ۙ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ رَافَى الْأَرْضِ فَمَنْكُرًا لَكُمْ

may thus learn to be wise or their ears may listen thus? Certainly it is not the eyes that are blind, but so are their hearts - which are in the breasts.

47. And yet they ask you to hasten the punishment and Allah shall never fail in His promise. And surely, there is a day with your Rubb (Sustainer) which is like a thousand years in your reckoning.

48. And to how many towns We (Allah) gave respite that they were cruel. Then I seized them and to Me is the return.

SECTION 7

49. Please declare, "O mankind, I am only a clear warner to you."

50. Then those who believe and do good deeds, for them is forgiveness and an honorable provision.

51. And those who strive to oppose My Verses, they are inmates of the hell.

52. And We (Allah) did not send before you a Rasool (Messenger) or a Nabi (the communicator of hidden news), but when he desired, the satan (devil) added something from his own desire. But Allah removes what the satan (devil) casts. Then Allah firmly establishes His Verses. And Allah is Knowing, Wise;

53. so that He may make what the satan (devil) casts forth as a temptation for those in whose hearts is a disease and whose hearts are hardened. And surely, the cruels remain opponents to the end;

جن سے سمجھیں، یا کان ہوں جن سے سنیں، تو یہ کہ آئیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں (46)

اور یہ تم سے عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، اور اللہ ہرگز اپنا وعدہ جھوٹا نہ کرے گا، اور بیشک تمہارے رب کے یہاں ایک دن ایسا ہے جیسے تم لوگوں کی گنتی میں ہزار برس (47)

اور کتنی بستیاں کہ ہم نے ان کو وسیل دی، اس حال پر کہ وہ ستار تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑا، اور میری ہی طرف پلٹ کر آتا ہے (48)

تم فرما دو، کہ اے لوگو! میں تو ہی تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں (49)

تو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی (50)

اور وہ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آجوں میں ہار جیت کے ارادہ سے، وہ جنسی ہیں (51)

اور ہم نے تم سے پہلے بتنے رسول یا نبی بھیجے سب پر بھی یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا، تو شیطان نے ان کے بڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا، تو مٹا دیتا ہے اللہ اس شیطان کے ڈالے ہوئے کو، پھر اللہ اپنی آیتیں کی کرتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے (52)

مگر شیطان کے ڈالے ہوئے کو مٹا کر دے، ان کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور جن کے دل سخت ہیں اور بیشک ستارہ دھم کے مجھڑالو ہیں (53)

قُلُوبٌ يَّمْعَمُونَ بِهَا أَذَانٌ يَّمْعَمُونَ بِهَا، وَأَنَّهُمْ لَا تَعْبَى الْأَنْصَارَ وَالرُّكُنَ نَعَى الْقُلُوبِ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۝
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخَفِّفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝

وَمَا أَجْعَلُ لَكُمْ مِنْ قَوْمٍ قَوْمًا يُهْتَبُونَ وَلَا تَأْخُذُ تَهْمًا، وَإِلَى الْمُصِيبِينَ

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ ۝
وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نَبِيًّا الْأَوَّلَى الْقُلُوبِ الشَّيْطَانُ فِي أُمَّتِكُمْ وَمَا يُغْنِي الشَّيْطَانُ عَنْكُمْ اللَّهُ الْبَرُّ الْبَرُّ عَلَيْكُمْ حَكِيمٌ ۝
لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝

54. and they should know who have been given the knowledge that it is the truth from your Rubb (Sustainer) that they should believe in it, so that their hearts should submit to it. And surely, Allah guides the believers to the straight path.

55. And the disbelievers will remain in doubt about it, until the Hour comes on them suddenly, or there comes to them the punishment of a destructive day.

56. The sovereignty on that day is of Allah only. He will judge between them. Then those who believed and did righteous deeds shall be in the Paradise of delight.

57. And those who disbelieve and falsify Our (Allah's) Verses for them is the disgraceful punishment.

58. And those who migrate in the way of Allah, and are then slain or die, Allah will certainly grant them a best provision. And surely, Allah is the best Provident.

59. Certainly, He will cause them to enter such place which they will like. And surely, Allah is Knowing, Forbearing.

60. That is so. And whoso takes revenge the like of which he was tortured, as he was oppressed, then surely Allah will help him. Surely, Allah is Pardoning, Forgiving.

61. That is so, as surely, Allah causes the night to enter into the day, and causes

اور اس لیے کہ جان لیں وہ جن کو علم ملا ہے، کہ وہ تمہارے رب کے پاس سے حق ہے، تو اس پر ایمان لائیں تو جگ جائیں اللہ اس کے لیے اللہ ان کے دل اور بیگ اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ چلانے والا ہے (54)

اور کافراں سے بیشک شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر قیامت آجائے اچانک، یا ان پر ایسے دن کا عذاب آئے جس کا پھل ان کے لیے کچھ اچھا نہ ہو (55)

بادشاہی اس دن اللہ ہی کی ہے، وہ ان میں فیصلہ کر دے گا، تو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وہ جہنم کے باغوں میں ہیں (56)

اور جنہوں نے کفر کیا او ہماری آیتیں جھٹلائیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے (57)

اور وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر یا رجموڑے، پھر مارے گئے یا مر گئے، تو اللہ ضرور انہیں اچھی روزی دے گا اور بے شک اللہ کی روزی سب سے بہتر ہے (58)

ضرور انہیں ایسی جگہ لے جائے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور بیشک اللہ علم اور حلم والا ہے (59)

بات یہ ہے اور جو بدلا لے جیسی تکلیف پہنچائی گئی تھی، پھر اس پر زیادتی کی جائے، تو بیشک اللہ اس کی مدد فرمائے گا، بیشک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے (60)

یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو ڈالتا ہے دن کے حصہ میں، اور دن کو لاتا ہے

وَلِيُخَلِّدُوا الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّهُ لَأُولَىٰ مِنكَ بِمِيمُونَتِهِمْ إِنَّهُ لَأُولَىٰ لَهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٤﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فِي هَذِهِ نَسِئَةٌ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ عَقِيمٍ ﴿٥٥﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٥٦﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّا فَاعِلُونَ لَهُمُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٥٧﴾

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا وَالَّذِينَ مَرَزْنَا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ﴿٥٨﴾

لِيُدْخِلَهُمْ فِي مَدِينَةٍ مَخْرُوجَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾

ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبْ بِمِثْلِ مَا عُوِّبَ بِهِ لَمْ يُجِبْ عَلَيْهِ لِيَصُدِّقْهُ إِنَّ اللَّهَ إِنَّا اللَّهُ لَنُفِقُ عَفْوَراً ﴿٦٠﴾

ذَٰلِكَ يَا أَيُّهَا اللَّهُ يُؤَيِّدُ الْيَتِيمَ فِي الْكِهْلِ

the day to enter into the night and that Allah is Hearing, Seeing.

62. That is so, as surely, only Allah is the Truth, and whoso they worship besides Him, is false, and Allah is the Highest, the Greatest.

63. Do not you see that Allah sends down water from the sky and the earth becomes green. Surely, Allah is Gracious, Aware.

64. To Him belongs all that is in heavens and all that is in the earth. And surely, Allah is the Self Sufficient, the Highly Praised.

SECTION 9

65. Do not you see that Allah has subjected to you whatever is in the earth. The ships run in the sea by His command? And He holds the heaven that it may not fall on the earth, except by His command. Surely, Allah is the most Compassionate, the most Affectionate towards the mankind.

66. And it is He Who gave life to you. Then He will cause you to die. He will give life to you again. Surely, the human-beings are most ungrateful.

67. For every Ummah (grand Muslim community), We (Allah) have ordained principles of worship that they should observe. So they certainly need not dispute with you in this matter. Therefore, invite them towards your Rubb (Sustainer). Surely you (prophet Muhammad) are on the straight guidance.

68. And if they dispute with you, then please declare,

رات کے حصہ میں 'اور اس لیے کہ اللہ سنتا دیکھتا ہے (61)

یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا بنے پختے ہیں وہی باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہی بلند یزدانی والا ہے (62)

کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، تو صبح کو زمین ہریالی ہو گئی، بے شک اللہ پاک خبردار ہے (63)

اس کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بیگ اللہ ہی بے نیاز سب خوبیوں سراہا ہے (64)

کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بس میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتی کہ دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے، اور وہ روکے ہوئے ہے آسمان کو کہ زمین پر نہ گر پڑے، مگر اس کے حکم سے بیگ اللہ آدمیوں پر بڑی مہربانی والا مہربان ہے (65)

اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، بیگ آدمی بڑا ناشکرا ہے (66)

ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے قاعدے بنا دیئے کہ وہ ان پر چلے تو ہرگز وہ تم سے اس معاملہ میں جھگڑا نہ کریں، اور اپنے رب کی طرف بلاؤ، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو (67)

اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو فرما! دو کہ اللہ

وَيُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَالنَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝۱۰

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝۱۱

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۝۱۲

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَمِيدُ ۝۱۳

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفَلَكَ يَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَهُوَ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَكَرِيمٌ ۝۱۴

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ۝۱۵

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لَّهُمْ مِمَّا كَرِهُوا ۚ فَلَا تَزِدْ عُقَّتَكَ فِي الْأَعْرَاقِ وَادْعَ إِلَىٰ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٌ ۝۱۶

وَإِنْ جَادَلْتُمْ فَذَلِكُمْ أَكْثَرُ مِمَّا

75. Allah chooses Rasools (Messengers) from both the Angels and the men. Surely, Allah is Hearing, Seeing.

76. He knows what is before them and what is behind them. And to Him do all things return.

77. O believers ! bow and prostrate and worship your Rubb (Sustainer) and do pious deeds so that you may thrive.

78. And strive steadfastly for the cause of Allah as He has chosen you and has not laid upon you any hardship in the religion, the noble faith of your father Ibraaheem (Abraham). Allah has named you Muslims in the earlier Books and in this Book too, so that the Rasool (Messenger Muhammad S.A.W.) may be custodian and witness (of your actions) and that you may be witness against the mankind. Establish Salaat (Muslim Prayer) and pay the Zakaat (poor-due) and hold fast to Allah. He is your Patron and what an excellent Helper.

PART 18

S. XXIII

SURA AL-MOMINEEN (THE BELIEVERS)

Revealed at Makkah

(118 Verses, 6 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. Surely, the believers are the successfulls;
2. who are humble in their Salaat (Muslim Prayers);
3. and who shun all that is non-sense (vain);

اللہ جن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے، بیشک اللہ سنتا دیکھتا ہے (75)

جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، اور جو ان کے پیچھے ہے اور سب کاموں کی رجوع اللہ کی طرف ہے (76)

اسے ایمان والو! رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو، اور بھلے کام کرو اس امید پر کہ تمہیں چمکارا ہو (77)

اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا حق ہے جہاد کرنے کا اس نے تمہیں پسند کیا اور تم پر دین میں کچھ تکلیف نہ رکھی! تمہارے باپ ابراہیم کا دین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اگلی کتابوں میں اور اس قرآن میں، تاکہ رسول تمہارا تمکبان و گواہ ہو، اور تم اور لوگوں پر گواہی دو، تو نماز پڑھا رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو! وہ تمہارا! موٹی ہے، تو کیا ہی اچھا موٹی! اور کیا ہی اچھا مددگار (78)

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٦﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَثَلًا بِيَكْفُرُ بِهِمْ اللَّهُ وَمَثَلًا لِمَنِ اتَّبَعُوا مِنَ قَبْلِ هَذَا الْبَيْتِ لَمْ يَكُنِ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

سورۃ مؤمنین کی ہے (اور اس میں) ایک سو اٹھارہ (18) آیتیں اور چھ (6) رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نایت مہربان رحم والا

بے شک مراد کو پہنچنے ایمان والے (1)

جو اپنی نماز میں گڑگڑاتے ہیں (2)

اور وہ جو کسی بیوہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے (3)

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾
الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

4. and who are active in paying Zakaat (compulsory due for the have nots);

5. and who guard their private parts (sex);

6. except from their wives or (girls) whom their right hands possess, for then they are (lawful in sex), free from blame.

7. But whoso exceed beyond that they are the transgressors.

8. And (successful are) those who are faithful in their trusts and their promises;

9. and those who (strictly) guard their Salaat (Muslim Prayers):

10. such ones indeed are the heirs.

11. They shall inherit the Paradise, to reside therein for ever.

12. And certainly We (Allah) have created human beings from the extract of clay;

13. then We (Allah) made him (her) sperm drop in a secure repository.

14. Then We (Allah) create from sperm drop a clot. Then We (Allah) make the clot a piece of flesh. Then We (Allah) make the bones from flesh. Then We (Allah) develop from it another shape. So blessed be Allah, the Best Creator.

15. Then after this surely, you will die.

16. Then you all shall be raised up on the Day of Resurrection.

17. Certainly, We (Allah) have made seven heavens above you, and We (Allah) are not neglectful of Qur (Allah's) creation.

18. And We (Allah) send down water from the sky

اور وہ کہ ذکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں (4)

اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں (5)

مگر اپنی بیویوں یا شرعی ہانڈیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں (6)

تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں (7)

اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں (8)

اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں (9)

یہی لوگ وارث ہیں (10)

کہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں بیٹھ رہیں گے (11)

اور بیچک ہم نے آدمی کو جنسی ہوئی مٹی سے بنایا (12)

پھر اسے پانی کی بوند کیا، ایک مضبوط ٹھکانہ میں (13)

پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پچک کیا، پھر خون کی پچک کو گوشت کی بونی، پھر گوشت کی بونی کو ہڈیاں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت پھرتا، پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی، تو بڑی برکت والا ہے اللہ سب سے بہتر بنانے والا (14)

پھر اس کے بعد تم سب ضرور مرے والے ہو (15)

پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے (16)

اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر سات راہیں بنائیں، اور ہم خلق سے بے خبر نہیں (17)

اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک

وَالَّذِينَ هُمْ لِلذَّكْوَةِ فَعَلُونَ ۝

وَالَّذِينَ هُمْ يَحْفَظُهُمْ حَفِظُونَ ۝

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝

فَمَنْ أَتَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ۝

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ۝

لَعَجَّعْنَاهُ نَطْفَةَ فِي فَرْجِ الْكَائِبِينَ ۝

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ

أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَرَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝

ثُمَّ إِنَّا نَكَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ لِمَيْتُونَ ۝

ثُمَّ إِنَّا نَكَّمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَبَعْتُونَ ۝

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۝

وَمَا كُنَّا عَنْ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ۝

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ

according to a measure. Then We (Allah) cause it to stay in the earth; and surely, We (Allah) are able to draw it away.

19. Then We (Allah) grow therewith gardens of date plam-trees and grapes for you. You have therein abundant fruits, and of them you eat.

20. And a tree that grows out on the mount Sinai, that produces oil and a condiment (sauce) as the food.

21. And surely, in the cattle there is a lesson for you. We (Allah) give you to drink of what is in their bellies, and you have in them many benefits and you eat their flesh.

22. And on them and on ships you ride.

SECTION 2

23. And certainly, We (Allah) sent Nuuh (Noah) to his nation, who said, "O my nation worship (Allah). There is none to be worshipped except Him. Will you then not be pious?"

24. But the chiefs of the disbelieving people said, "he is a man like you, who wished to become your superior. And if Allah had willed, He would have sent down Angels. We have not heard such a thing among our ancient forefathers.

25. He is only a mad man, so wait his fate for some time.

26. He (Nuuh) submitted, "O my Rubb (Sustainer) help me because they treat me as liar."

27. So We (Allah) revealed to him saying, "make the Ark under Our (Allah's) guidance according to Our (Allah's)

اندازہ پر، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور
بیک ٹیم اس کے لیے جانے پر قادر ہیں
(18)

تو اس سے ہم نے تمہارے باغ پیدا کیے
سجھوروں اور انجوروں کے، تمہارے لیے
ان میں بہت سے میوے ہیں، اور ان میں
سے کھاتے ہو (19)

اور وہ بیڑ پیدا کیا کہ طور سینا سے لگا
ہے، لے کر آتا ہے تیل اور کھانے والوں
کے لیے سالن (20)

اور بیک تمہارے لیے چوہوں میں سمجھنے
کا مقام ہے، ہم تمہیں چلاتے ہیں اس میں
سے جو ان کے پیٹ میں ہے، اور
تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں
اور ان سے تمہاری خوراک ہے (21)

اور ان پر اور کشتی پر سوار کیے جاتے ہو
(22)

اور بیک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی
طرف بھیجا، تو اس نے کہا، اے میری
قوم! اللہ کو پوجو! اس کے سوا تمہارا کوئی
خدائیس، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ (23)

تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر
کیا، بولے، یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی
چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بنے، اور اللہ چاہتا
تو فرشتے اتارتا، ہم نے تو یہ اپنے اگلے
باپ داداؤں میں نہ سنا (24)

وہ تو نہیں مگر ایک دیوانہ مرد، تو کچھ زائد
تک اس کا انتظار کیے رہو (25)

نوح نے عرض کی، اے میرے رب! میری
مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا
(26)

تو ہم نے اسے وحی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے

فَأَسْكِبْهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ
ذَهَابِهِ لَقَادِرُونَ ﴿۱۸﴾

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ
وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَاوَاكِهِ كَثِيرَةٌ
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿۱۹﴾

وَشَجَرَةٍ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ
بِالدَّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْأَلْبَانِ ﴿۲۰﴾

وَإِن لَّكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ لِّمَن كَانَ
يَمَاقِلُ يَطَوَّئُهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ
كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿۲۱﴾

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿۲۲﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ
يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ
غَيْرِهِ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۲۳﴾

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن
قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ
أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَأَنْزَلَ مَائِكَةً مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً يَنْزِلُ
إِنَّا إِنَّا الْأَوَّلِينَ ﴿۲۴﴾

إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بَدِيعَةٌ فَعَرَضُوا
بِهِ حَتَّىٰ جُنِبُوا ﴿۲۵﴾

قَالَ رَبِّ النَّصْرُ لِي بِمَا كَذَّبْتَنِي ﴿۲۶﴾

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ

revelation, then, when Our (Allah's) Command is given and the water wells out from the oven, (earth overflows) take aboard it a pair of every species, male and female, and your family, except those of them against whom the word of rejection has already been doomed. And do not make any submission to Me regarding those who are cruel. They shall be surely, drowned (in the flood).

28. And when you and those accompanying you have embarked the Ark, say, "all praise be to Allah Who delivered us from the cruel nation."

29. And submit, "O my Rubb (Sustainer) cause me to disembark a blessed land and You are the best of those who enable to land the destination.

30. Surely, in that there are signs, and certainly, thus We (Allah) do put (men) to trial.

31. Then We (Allah) raised up another generation after them

32. So We (Allah) sent to them a Rasool (Messenger of Allah) from amongst themselves (saying) worship Allah. There is none worth worship for you besides Him. Will you then not be pious.

SECTION 3

33. And the chiefs of his nation, who disbelieved and falsified the meeting of the hereafter, and those whom We (Allah) gave comfort in the life of this world, said, "he is only a mortal man like you. He eats that what you eat and drinks that what you drink."

34. "And if you obey man

ساتے' اور ہمارے حکم سے کشتی بنا پھر جب ہمارا حکم آئے اور غور ایلے' تو اس میں بھلے ہر جوڑے میں سے دو اور اپنے گھر والے' مگر ان میں سے وہ جن پر بات پہلے پڑ چکی' اور ان ظالموں کے معاملہ میں مجھ سے بات نہ کرنا' یہ ضرور ڈوبے جائیں گے (27)

پھر جب ٹھیک بیٹھے کشتی پر' تو اور تمہرے ساتھ والے' تو کہہ' سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی (28)

اور عرض کرا کہ اے میرے رب! مجھے برکت والی جگہ اتار' اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے (29)

بیگ اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور بے شک ضرور ہم جانچنے والے تھے (30)

پھر ان کے بعد ہم نے اور نسلت پیدا کی (31)

تو ان میں ایک رسول انہیں میں سے بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو' اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں' تو کیا تمہیں ڈر نہیں (32)

اور بولے! اس قوم کے سرور جنہوں نے کفر کیا' اور آخرت کی حاضری کو جھٹلایا' اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں چین دیا' کہ یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی' جو تم کھاتے ہو اسی میں سے کھاتا ہے' اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے پیتا ہے (33)

اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت

يَا عِزَّنَا وَوَحْيِنَا أَفَدَا جَاءَهُ أَمْرًا وَ
فَأَزَلَّتْ رُجُلُهُ وَاسْتَرْجَفَ فِيهَا مَنْ فِيهَا
رُوحَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ الْأَمْنَ
سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا
تُخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا لَهُمْ
مَغْرُورُونَ ﴿۲۷﴾

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ
عَلَى الْمَلِكِ فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
نَجَّسَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۲۸﴾
وَقُلْ رَبِّ انزِلْنِي مُدْرَأًا مُبَارَكًا وَ
أَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿۲۹﴾

إِنِّي فِي ذَلِكَ لِآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿۳۰﴾
ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ ﴿۳۱﴾
فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ
اعْبُدُوا اللَّهَ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ
فَلَا تَتَّقُونِ ﴿۳۲﴾

وَقَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ
كَفَرُوا أَو كَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَ
اتَّوَفَّوهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا
إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ
مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿۳۳﴾
وَلَيْنِ لَطَعْتُمْ يَشْرُقْتُمْ لَكُمُ الْإِنَّمُ

like you, then surely you will be losers.

35. "What! Does he threaten you that when you will die and become dust and bones, after that you shall be brought out again?"

36. "Far, very far is that what you are threatened with".

37. "It is only our present life in this world. We live and then we are not to be raised up again."

38. "He is only a man who has forged a lie against Allah and we will not believe him."

39. He submitted, "O my Rubb (Sustainer) help me they treat me a liar."

40. He (Allah) said, "in a little while, they will be remorseful."

41. Then a blast (punishment) overtook them. Rightfully are We (Allah) made them like rubbish. So is end of the cruel people.

42. Then after them We (Allah) raised another generations.

43. No nation can go away ahead of its term, nor they can postpone it.

44. We (Allah) sent Our (Allah) Messengers, one after the other. Whenever there came a Rasool (Messenger of Allah) to any nation, they treated him a liar. So We (Allah) made them a tale (of the past). Cursed be the people who do not believe.

45. We (Allah) sent Moosaa (Moses) and his brother Haroon (Aaron) with Our (Allah's) Verses and a clear authority;

کہ جب تو تم ضرور گھائے میں ہو (34)

کیا تمہیں یہ وعدہ دتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے اس کے بعد پھر نکالے جاؤ گے (35)

کتنی دور ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے (36)

وہ تو نہیں مگر ہماری دنیا کی زندگی کہ ہم مرتے جیتے ہیں اور ہمیں اللہ نہیں (37)

وہ تو نہیں مگر ایک مرد جس نے اللہ پر جھوٹ باندا اور ہم اسے ماننے کے نہیں (38)

عرض کی کہ اے میرے رب! میری مدد فرما! اس پر کڑے انہوں نے مجھے جھٹلایا (39)

اللہ نے فرمایا: کہ کچھ دیر جاتی ہے کہ یہ صبح کریں گے جہتاتے (پچھتاتے) ہوئے (40)

تو انہیں آ لیا جی چکھائے تو ہم نے انہیں گھاس کوڑا کر دیا، تو دور ہوں ظالم لوگ (41)

پھر ان کے بعد ہم نے اور سنگتیں پیدا کیں (42)

کوئی امت اپنی میعاد سے نہ پہلے جائے نہ پیچھے رہے (43)

پھر ہم نے اپنے رسول بھیجے ایک پیچھے دوسرا جب کسی امت کے پاس اسکا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلایا، تو ہم نے انہوں سے پچھلے ملا دیئے اور انہیں کمانیاں کر ڈالا، تو دور ہوں وہ لوگ کہ ایمان نہیں لاتے (44)

پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور روشن سند کے ساتھ بھیجا (45)

إِذَا الْخُسُوفُونَ ﴿۳۴﴾

أَعِدُّمُ أَنْتُمْ إِذَا امْتَرَوْكُمْ تَرَابًا وَعِظَامًا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿۳۵﴾

هَيْبَاتٌ هَيْبَاتٌ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿۳۶﴾

إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَ

نَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿۳۷﴾

إِنَّ هُوَ إِلَّا جَهْلٌ فَتَمَرَّ عَلَىٰ آدِلِهِ

كِبْرًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۳۸﴾

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنتُ بُونًا ﴿۳۹﴾

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِيُضِخَنَّ مِنْهُم مِّن

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْطَةُ بِالْحَقِّ فِجَعَلْنَهُمْ

عَنَاءً تَبَعُوا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۴۰﴾

تَمَرَّانَا مِن بَعْدِهِمْ تَمَرُّنَا آخِرِينَ ﴿۴۱﴾

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا

يَسْتَأْخِرُونَ ﴿۴۲﴾

تَمَرَّأَسْنَا نَسَلْنَا تَمَرَّأَلْمَا جَاءَ

أُمَّةٌ زُرُّوْهَا كَذِبُهُ فَاتَّبَعَنَا

بَعْضُهُمْ بَعْضًا جَعَلْنَهُمْ آخِوَيْتَ

فَبَعْدُ الْقَوْمِ الْيَاقُوتُونَ ﴿۴۳﴾

تَمَرَّأَسْنَا مُوسَىٰ وَلَخَاءُ هَرُونَ

بِأَيِّتِنَا وَاسْطُنِ مُوسَىٰ ﴿۴۵﴾

46. to Fir'awn (Pharaoh) and his chiefs. But they boasted and they were arrogant nation.

47. They said, "shall we believe in such two men who are like ourselves while their nation is in our service.

48. So they called both of them liars. They became among those who were destroyed.

49. And certainly, We (Allah) gave Moosaa (Moses) the Book that they might be guided.

50. And We (Allah) made son of Maryam (Mary) and his mother (Jesus) a sign and gave them refuge on a height having a resting place with a spring.

SECTION 4

51. O Rasools (Messengers Rubb (Sustainer) do pious deeds. I surely know well what you do.

52. And surely, this Oommah (grand Muslim community) of yours is united Oommah and I am your Rubb (Sustainer) so be pious to Me only.

53. But the people split in their affairs among themselves in sects. Every group rejoices over what is with them.

54. Leave them in their confused ignorance for a time (till death).

55. Do they imagine that abundance of wealth and children that We (Allah) have granted them;

56. We (Allah) have given them such good things in haste. But they do not understand.

57. Surely, those who fear

فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف تو انہوں نے فرود کیا اور وہ لوگ غلبہ پائے ہوئے تھے (46)

تو بولے! کیا ہم ایمان لے آئیں اپنے جیسے دو آدمیوں پر؟ اور ان کی قوم ہماری بندگی کر رہی ہے (47)

تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، تو ہلاک کیے ہوؤں میں ہو گئے (48)

اور بیچک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی کہ ان کو ہدایت ہو (49)

اور ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو نشانی کیا اور انہیں مکانا دیا، ایک بلند زمین جہاں بسنے کا مقام اور نگاہ کے سامنے بتا پائی (50)

اے پیغمبر! پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو! میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں (51)

اور بیچک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو مجھ سے ڈرو (52)

تو ان کی امتوں نے اپنا کام آپس میں کھڑے کھڑے کر لیا، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے (53)

تو تم ان کو چھوڑ دو ان کے نش میں ایک وقت تک (54)

کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور بیٹوں سے (55)

یہ جلد جلد ان کو بھلائیاں دیتے ہیں، بلکہ انہیں خبر نہیں (56)

بیچک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِم فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٦﴾

فَقَالُوا الْكُفْرَانُ لَنَا وَبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبَادُونَ ﴿٤٧﴾

فَلَنَذَرُهُمْ كَالَّذِينَ ذُكِّرُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ۖ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾

يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّ مِثْلِكُمْ فَاصْبِرُوا لَهَا إِنَّهَا بِمَتَاعِمُنَّو عَلَيْكُمْ ﴿٥١﴾

وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾

فَذَرَهُمْ فِي شُغْرِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٤﴾

أَلَمْ نَسْأَلْهُمْ أَنَا نَعْتِدْ هُمْ بِهِ مِنْ قَالٍ وَبَيْنٍ ﴿٥٥﴾

نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ

their Rubb (Sustainer) hold Him in reverence.

58. and those who believe in the Verses of their Rubb

(Sustainer);

59 and those who do not make any one associate (in worship) with their Rubb (Sustainer);

60, and those who spend what they are given and their hearts are fearful that they are to return to their Rubb (Sustainer);

61. those are the ones who hasten in every good, and they are the foremost to attain (success).

62 And We (Allah) do not lay a burden on any self beyond its capacity, and with Us (Allah) is a Book that speaks the truth and they shall not be dealt with unjustly.

63. Indeed their hearts are in confusion about it, and they besides this have other er) help me for of Allah) eat (continue to) do.

64. Until, when We (Allah) seized their rich people in penalty then they cry for help.

65. "Do not cry for help, this day You shall not receive any help from Us.

66. Indeed My Verses were recited to you, but you used to turn back on your heels;

67. boastfully talking nonsense (about the Qur'aan) just like telling foolish stories by night.

68. Do they not ponder over the Divine words? Or did there come to them anything new that had not come to their forefathers?

69. Or do they not recognize their Rasool (Messenger of Allah), that they deny him?

ہوئے ہیں (57)

اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان

لائے ہیں (58)

اور وہ جو اپنے رب کا کوئی شریک نہیں

کرتے (59)

اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیں اور ان

کے دل ڈر رہے ہیں یوں کہ ان کو اپنے

رب کی طرف پھرتا ہے (60)

یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور

یہی سب سے پہلے انہیں پہنچے (61)

اور ہم کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتے مگر

اس کی طاقت بھر، اور ہمارے پاس ایک

کتاب ہے کہ حق بولتی ہے، اور ان پر

ظلم نہ ہو گا (62)

بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں

اور ان کے کام ان کاموں سے جدا ہیں

جنہیں وہ کر رہے ہیں (63)

یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے امیروں

کو عذاب میں پکڑا، تو جہی وہ فریاد کرنے

لگے (64)

آج فریاد نہ کرو، ہماری طرف سے تمہاری

مدد نہ ہو گی (65)

چیک میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھیں تو

تم اپنی ایڑیوں کے تل اٹکے پلٹے تھے

(66)

خدمت حرم پر بڑائی مارتے ہو، رات کو

وہاں بیسودہ کہانیاں بکتے، حق کو چھوڑے

ہوئے (67)

کیا انہوں نے بات کو سوچا نہیں یا ان

کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادا کے

پاس نہ آیا تھا (68)

یا انہوں نے اپنے رسول کو نہ پہچانا، تو وہ

اسے بیگانہ سمجھ رہے ہیں (69)

مُشْفِقُونَ ﴿۵۷﴾

وَالَّذِينَ هُمْ يَا رَبِّهِمْ لِيُؤْمِنُوا

وَالَّذِينَ هُمْ يَا رَبِّهِمْ لِيُؤْمِنُوا

وَالَّذِينَ هُمْ يَا رَبِّهِمْ لِيُؤْمِنُوا

وَالَّذِينَ هُمْ يَا رَبِّهِمْ لِيُؤْمِنُوا

وَالَّذِينَ هُمْ يَا رَبِّهِمْ لِيُؤْمِنُوا

وَالَّذِينَ هُمْ يَا رَبِّهِمْ لِيُؤْمِنُوا

وَالَّذِينَ هُمْ يَا رَبِّهِمْ لِيُؤْمِنُوا

وَالَّذِينَ هُمْ يَا رَبِّهِمْ لِيُؤْمِنُوا

وَالَّذِينَ هُمْ يَا رَبِّهِمْ لِيُؤْمِنُوا

وَالَّذِينَ هُمْ يَا رَبِّهِمْ لِيُؤْمِنُوا

وَالَّذِينَ هُمْ يَا رَبِّهِمْ لِيُؤْمِنُوا

وَالَّذِينَ هُمْ يَا رَبِّهِمْ لِيُؤْمِنُوا

وَالَّذِينَ هُمْ يَا رَبِّهِمْ لِيُؤْمِنُوا

وَالَّذِينَ هُمْ يَا رَبِّهِمْ لِيُؤْمِنُوا

وَالَّذِينَ هُمْ يَا رَبِّهِمْ لِيُؤْمِنُوا

وَالَّذِينَ هُمْ يَا رَبِّهِمْ لِيُؤْمِنُوا

وَالَّذِينَ هُمْ يَا رَبِّهِمْ لِيُؤْمِنُوا

وَالَّذِينَ هُمْ يَا رَبِّهِمْ لِيُؤْمِنُوا

وَالَّذِينَ هُمْ يَا رَبِّهِمْ لِيُؤْمِنُوا

وَالَّذِينَ هُمْ يَا رَبِّهِمْ لِيُؤْمِنُوا

وَالَّذِينَ هُمْ يَا رَبِّهِمْ لِيُؤْمِنُوا

وَالَّذِينَ هُمْ يَا رَبِّهِمْ لِيُؤْمِنُوا

وَالَّذِينَ هُمْ يَا رَبِّهِمْ لِيُؤْمِنُوا

وَالَّذِينَ هُمْ يَا رَبِّهِمْ لِيُؤْمِنُوا

وَالَّذِينَ هُمْ يَا رَبِّهِمْ لِيُؤْمِنُوا

70. Or do they say, he is bewitched? No he has brought them the truth and most of them hate the truth.

71. Had the truth been according to their desires certainly, the heavens and earth and those who dwell in them would have been ruined. Any how We (Allah) brought it (the Qur'aan) as a remembrance for them but they turn away from their own remembrance.

72. Or is it that you ask them any reward, but reward of your Rubb (Sustainer) is the best. And He is the best Provider?

73. And surely, you call them to a straight path.

[ONE FOURTH OF PART 18 ENDS]

74. And surely, who do not believe in the hereafter definitely they deviate from (straight) path.

75. And if We (Allah) bestow Our (Allah's) Mercy on them and remove the distress they have, they would obstinately persist in their transgression blindly wandering.

76. And We (Allah) put them to agony, but neither they become submissive before their Rubb (Sustainer) nor they become humble.

77. Until We (Allah) open on them the door of any severe punishment Lo! they are plunged in despair.

SECTION 5

78. And it is He Who bestowed you hearing, sight and feeling. Yet you offer little thanks.

79. And it is He Who multiplied you in the earth, and to Him you are to be gathered

یا کہتے ہیں اسے سوا ہے بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لائے، اور ان میں اکثر کو حق برا لگتا ہے (70)

اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہیں سب تباہ ہو جاتے، بلکہ ہم تو ان کے پاس وہ چیز لائے جس میں ان کی ناموری تھی، تو وہ اپنی عزت سے ہی منہ پھیرے ہوئے ہیں (71)

کیا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو، تو تمہارے رب کا اجر سب سے بھلا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا (72)

اور بیگم تم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو (73)

اور بیگم جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ضرور سیدھی راہ سے کھڑائے ہوئے ہیں (74)

اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو مصیبت ان پر پڑی ہے نالدریں تو ضرور بھٹ (ضد) بنا کریں گے، اپنی سرکشی میں بیگتے ہوئے (75)

اور بیگم ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، تو نہ وہ اپنے رب کے حضور میں جھکے، اور نہ گمراہتے ہیں (76)

یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر کھولا کسی سخت عذاب کا دروازہ، تو وہ اب اس میں تاسید پڑے ہیں (77)

اور وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، تم بہت ہی کم حق مانتے ہو (78)

اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، اور اسی کی طرف تمہارے (79)

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمُ
بِالْحَقِّ وَانكَرَهُمُ الْعَلِيُّ كَرِهُوا
وَلَوْ أَنبَأَهُمُ الْعَلِيُّ أَنَّهُمْ يَفْسُدُ
السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ
بَلْ أَنْتَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ تَدْمَنُونَ
ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧٠﴾

أَمْ سَأَلْتَهُم خِزْيًا فَجَاءَهُمْ سَاءَ
خِزْيًا وَهُوَ خَيْرُ الرَّزْقِينَ ﴿٧١﴾
وَأَنْتَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٢﴾

وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
عَنِ الصِّرَاطِ لَكَاِبُونَ ﴿٧٤﴾
وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ
ضُرِّ الْعُجْرَانِ لَطَغَوْا فِيهِنَّ يَلْمِزُونَ ﴿٧٥﴾

وَلَقَدْ أَخَذْنَا لَهُمُ الْبَعْذَابَ فَأَمَا
اسْتَكْبَرُوا لِلذُّرِّهِمْ وَمَا يَتَضَوَّعُونَ ﴿٧٦﴾
حَتَّىٰ إِذَا فَتَخْنَا عَلَيْهِمُ الْبَاءَ إِذَا
عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذْ هُمْ فِيهِ
مُتَبَلِّسُونَ ﴿٧٧﴾

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾
وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ
تُنشَرُونَ ﴿٧٩﴾

80. And it is He Who gives life and causes death and in Him lies the alternation of night and day. Do you not then understand?

81. On the contrary they say the like what the previous people said;

82. who said, 'what! when we are dead and become dust and bones, shall we indeed be raised up again?'

83. Certainly this was promised to us and before us to our forefathers. These are only the stories of the previous people.

84. Please declare, "to whom belongs the earth and whatever is in it. (Tell) if you know the truth."

85. They will say, "to Allah" Please declare, "why you then not get admonition."

86. Please declare, "who is the Rubb (Sustainer) of the seven heavens and the Rubb (Sustainer) of the real Supreme Authority.

87. They will say, "Allah's. Please declare, "why do you then be pious?"

88. Please declare, "in Whose hands is the governance of all the things and Who protects but is protected by none; if you have its knowledge?"

89. They will say, it all belongs to Allah. Please declare, "then from whom are you deceived?"

90. Indeed We (Allah) have sent them the truth, but surely they practise falsehood.

91. Neither Allah has made any one His son nor is there any one else worth worship along with Him. Behold each such god would have taken away what it had created and

اور وہی جلائے اور مارے اور اسی کے لیے ہیں رات اور دن کی تبدیلیں، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں (80)

بلکہ انہوں نے وہی کسی جو اگلے کہتے تھے (81)

بولے! کیا جب ہم مرجائیں اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں، کیا پھر نکالے جائیں گے؟ (82)

بیک یہ وعدہ ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو دیا گیا، یہ تو نہیں مگر وہی اگلی داستانیں (83)

تم فرماؤ! کس کا مال ہے زمین، اور جو کچھ اس میں ہے؟ اگر تم جانتے ہو (84)

اب کہیں گے کہ اللہ کا، تم فرماؤ! پھر کہیں نہیں سوچتے؟ (85)

تم فرماؤ! کون ہے مالک ساتوں آسمانوں کا اور مالک بڑے عرش کا (86)

اب کہیں گے، یہ اللہ ہی کی شان ہے، تم فرماؤ! پھر کہیں نہیں ڈرتے؟ (87)

تم فرماؤ! کس کے ہاتھ ہے ہر چیز کا قابو اور وہ پناہ دیتا ہے، اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اگر تمہیں علم ہو (88)

اب کہیں گے یہ اللہ ہی کی شان ہے، تم فرماؤ! پھر کس جادو کے فریب میں پڑے ہو؟ (89)

بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے، اور وہ بیک جمونے ہیں (90)

اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہ کیا، اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا، یوں ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق لے جاتا، اور ضرور ایک

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۸۰﴾

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿۸۱﴾

قَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سَوَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۸۲﴾

إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿۸۳﴾

لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَبْلِ رَبِّكَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سَوَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۸۴﴾

قَالَ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۵﴾

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۸۶﴾

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۸۷﴾

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۸۸﴾

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيزُ وَيُلْجِئُ لِعَلِيهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۹﴾

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿۹۰﴾

بَلْ آتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَايِبُونَ ﴿۹۱﴾

مَا تَتَّخِذُ اللَّهُ مَنَّانًا مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذْ أَتَاهُ كُلُّ لَحْنٍ بِمَا

some would have excelled over others (gods). Glory be to Allah from what they attribute to Him.

92. He knows what is hidden and what is seen. He is too high from what they associate with Him.

SECTION 6

93. Please declare, "O my Rubb (Sustainer) would You show me what they are warned against."

94. "O my Rubb (Sustainer) do not place me with the nation of the cruel."

95. "And surely, We (Allah) are to show you that against which they are warned."

96. "Repel the evil with that which is best. We (Allah) know best what they describe."

97. And please declare, "O my Rubb (Sustainer) I seek refuge with You from the evil incitements of the evil ones."

98. And O my Rubb (Sustainer) I seek refuge in You lest they approach.

99. Until when death overtakes anyone of them (wrong doer), he says, "O my Rubb (Sustainer) return me back";

100. that perhaps I may earn some righteousness in that what I have neglected. By no means, this is the only word he will speak. And before them is a barrier until the Day of Resurrection.

101. So when the trumpet shall be blown there shall be no relationship among them, nor they will ask question from one another.

102. Then those whose balances (of good deeds) are heavy, will be the prosperous ones.

دوسرے پر اپنی تعالیٰ (برائی) چاہتا' پاکی ہے
اللہ کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں (91)
جاننے والا ہر نماں و عیاں کا' تو اسے
بلندی ہے ان کے شرک سے (92)

تم عرض کرو! کہ اے میرے رب! اگر تو مجھے دکھائے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے (93)

تو اے میرے رب! مجھے ان خالوں کے ساتھ نہ کرنا (94)

اور بیک ہم قادر ہیں کہ تمہیں دکھادیں جو انہیں وعدہ دے رہے ہیں (95)

سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو' ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ بناتے ہیں (96)

اور تم عرض کرو! کہ اے میرے رب! تیری پناہ شیطان کے دوسوں سے (97)

اور اے میرے رب! تیری پناہ کہ وہ میرے پاس آئیں (98)

یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے' تو کہتا ہے' کہ اے میرے رب! مجھے واپس پھیر دیجئے (99)

شاید! اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں' ہمت یہ تو ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے' اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے (100)

تو جب صور پھونکا جائے گا' تو نہ ان میں رشتے رہیں گے' اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھے (101)

تو جن کی تولیس بھاری ہوئیں' وہی مراد کو پہنچے (102)

خَلْقٍ وَكَلَّمَ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُصِفُوْنَ ﴿٩١﴾
عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلٰی عَمَّا
يُشْرِكُوْنَ ﴿٩٢﴾

قَدْ رُبَّ مُتَوَكِّفٍ مَا يُوعَدُوْنَ ﴿٩٣﴾
رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ
الظَّالِمِيْنَ ﴿٩٤﴾

وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُبْرِكَ مَا نُوَدُّهُمْ
لَقَدِيرُوْنَ ﴿٩٥﴾

إِذْ دَعَا إِلَىٰ هِيْ اٰخِصْنَ السَّيِّئَةِ
مَنْ اَعْلَمَ بِمَا يُصِفُوْنَ ﴿٩٦﴾

وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٍ
الشَّيْطٰنِيْنَ ﴿٩٧﴾

وَاعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يُحْضِرُوْنَ ﴿٩٨﴾

حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ
قَالَ رَبِّ اَرْجِعُوْنَ ﴿٩٩﴾

لَعَلِّيْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ
كَلَّا اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ
وَرَدِ اِيْهِمْ يَرْجِعُوْنَ اِلٰى يَوْمٍ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٠٠﴾

فَاِذَا نْفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا اَنْسَابَ
بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا اَنْسَابٌ لَّوْنٌ ﴿١٠١﴾

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُوْلٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٢﴾

103. But those whose balances are light, will be such ones who put themselves in loss, to remain in the hell for ever.

104. The flame of fire shall burn their faces and they there shall be with the pains of lips pulled out.

105. "Were not My verses recited to you but you then used to falsify them"? (Will be said by Allah).

106. They will say, "O our Rubb (Sustainer) our misfortune overcame us and we were a misguided nation."

107. "O Our Rubb (Sustainer) take us out of this (hell). If we do the same (wrongs) again, we are then surely the cruel ones".

108. He (Allah) will say, "remain lying despaired therein and do not speak to Me."

109. Surely, a part of My devotees used to say, "O our Rubb (Sustainer) we believe. So forgive us and have mercy upon us and You are the best of those who show mercy."

110. But you treated them with ridicule so much so that they forgot My remembrance while you used to laugh at them.

111. Surely, I have rewarded them this day for their patience that they alone are the triumphant.

112. He (Allah) will say, "how long did you stay in the earth"?

113. They will say, "we stayed for a day or part of a day, but ask those who keep account."

114. He (Allah) will say, "you stayed but a little, had you known."

اور جن کی تویں بھلی پڑیں، وہی ہیں جنہوں نے اپنی جائیں گھائے میں ڈالیں؟
بیشہ روزخ میں رہیں گے (103)

ان کے منہ پر آگ لپٹ مارے گی اور وہ اس میں منہ چڑھائے ہوں گے (104)

کیا تم پر میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں؟ تو تم انہیں جھٹلاتے تھے (105)

کہیں گے، اے ہمارے رب! ہم پر ہماری بد بختی غالب آئی، اور ہم گمراہ لوگ تھے (106)

اے رب ہمارے! ہم کو روزخ سے نکال دے پھر اگر ہم وہی کریں تو ہم ظالم ہیں (107)

رب فرمائے گا ونگارے پڑے رہو اس میں اور مجھ سے بات نہ کرو (108)

چیکے میرے بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا اے ہمارے رب! ہم ایمان لائے، تو ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے (109)

تو تم نے انہیں ٹھٹھا بنا لیا، یہاں تک کہ انہیں بنانے کے شغل میں میری یاد بھول گئے، اور تم ان سے ہنسا کرتے (110)

چیکے آج میں نے ان کے مہربان نہیں یہ بدلا دیا کہ وہی کامیاب ہیں (111)

فرمایا: تم زمین میں کتنا ٹھہرے برسوں کی گنتی سے (112)

بولے! ہم ایک دن رہے یا دن کا حصہ، تو گنتی والوں سے دریافت فرما (113)

فرمایا: تم نہ ٹھہرے مگر تھوڑا، اگر تمہیں علم ہوتا (114)

وَمَنْ حَقَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوذِيكَ
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ
خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا
كُلُوفُونَ ﴿١٠٤﴾

الَّذِينَ كُنَّا نَسْتَلِيٰ عَلَيْهِمْ كَلِمَتًا
بِمَا تَكْفُرُونَ ﴿١٠٥﴾

فَالْوَارِثُ يَنْتَابِعُ غَلْبَتَنَا شَقِوْنَا
كُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا إِنَّ عَذَابَنَا فِيهَا
ظَلِيمُونَ ﴿١٠٧﴾

قَالَ اخْسَرُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ
إِنَّهُ كَانَ قَدِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَفْقَهُونَ ﴿١٠٨﴾

رَبَّنَا إِنَّمَا فَاغَفَرْنَا وَلَا رِصْمًا وَانْتِ
خَيْرِ الرَّحِيمِينَ ﴿١٠٩﴾

فَاتَّخَذُوا لَهُمْ سَخِرَاءً حَتَّىٰ اسْتَوْمُوا
ذِكْرِي وَكُنْتُمْ فِيهِمْ تُصْحَكُونَ ﴿١١٠﴾

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا
أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿١١١﴾

قُلْ كَمْ لِبَشَرَتِكُمْ فِي الْأَرْضِ عِدَّةٌ
سِنِينَ ﴿١١٢﴾

قَالُوا لِبَشَرَتِنَا لَوْمَاتُ يَُوْمٍ
فَسْئَلِ الْعَادِيْنَ ﴿١١٣﴾

قُلْ إِنْ لَّبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنْتُمْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾

115. "Do you think that We (Allah) created you in vain and you are not to return to Me"?

116. Exalted be Allah, the owner Truthful Supreme Ruler. There is none worth worship except He : the Rubb (Sustainer) of the most Honored Authority.

117. And whoever worships any other one besides Allah, for which he has no proof, then his account is with his Rubb (Sustainer). Surely, the disbelievers shall not prosper.

118. And you submit, "O my Rubb (Sustainer) forgive and have mercy as You are the best of those who show mercy.

S. XXIV

SURA AL-NOOR (THE LIGHT)

Revealed At Makkah

(64 Verses, 9 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. This is a Chapter (Sura) that We (Allah) have revealed and We (Allah) have made it obligatory and We (Allah) have revealed clear Verses in it so that you may up-keep remembrance.

2. The fornicatress (female sex offender) and the fornicator, flog each of them with hundred stripes, and you should not take pity on them (in inflicting stripes) in the religion of Allah, if you believe in Allah and the Last Day. And let a party of the believers (Muslims) witness their punishment.

تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں

(115)

تو بت بلندی والا ہے اللہ سچا بادشاہ کوئی معبود نہیں سوا اس کے عزت والے عرش کا مالک (116)

اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو پوجے جس کی اس کے پاس کوئی سند نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہے بیگک کافروں کا چمکارا نہیں (117)

اور تم عرض کرو! اے میرے رب! بخش دے اور رحم فرما اور تو سب سے برتر رحم کرنے والا (118)

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا الْأَوْدُوبُ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾

وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٨﴾

سورہ نور مدنی ہے (اور اس میں) چونسٹھ (64) آیتیں اور لو (9) رکوع (ہیں)

مَوْجِبَةً لِّلْعَذَابِ وَيُجِيبُ لِمَن يَدْعُوهُ تَوْفِيقًا وَرَحْمَةً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

رحم والا

یہ ایک سورت ہے کہ ہم نے اتاری اور ہم نے اس کے احکام فرض کیے اور ہم نے اس میں روشن آیتیں نازل فرمائیں کہ تم دھیان کرو (1)

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾

جو عورت بدکار ہو اور جو مرد تو ان میں ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کے دین میں اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ اور بچھلے دن پر اور ہے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو (2)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَأْءُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

3. The adulterer "muushrik" (male sex offender - fornicator) does not marry except a "muushrika" - an adulteress idolatrous (female worshipper of idols as associate of Allah). As such an adulteress (fornicatress) is married by none except by an adulterer (fornicator) or by a "muushrik" idolator (male worshipper of idol as associate of Allah. This indeed is forbidden to the believers.

4. And those who accuse a chaste woman, (of adultery) but then do not bring four witnesses, flog them with eighty stripes and never accept thereafter their any evidence; and it is they who are the transgressors;

5. except those who repent thereafter, then mend to act rightfully, for surely Allah is Forgiving, Merciful.

6. And those who accuse their own wives and they have no evidence except themselves then the evidence of such one be taken in a way that he should bear witness four times swearing in the name of Allah that surely he is truthful person.

7. And fifth time (he should swear) that the curse of Allah be upon him if he be a liar.

8. And the punishment shall be averted from her (wife) if she bears witness four times in the name of Allah that surely he (husband) is a liar.

9. And fifth time (she should swear) that the curse of Allah be upon her (the wife) if he (husband) is truthful.

بدکار مرد نکاح نہ کرے مگر بدکار عورت یا شرک والی سے اور بدکار عورت سے نکاح نہ کرے مگر بدکار مرد یا شرک اور یہ کام ایمان والوں پر حرام ہے (3)

اور جو پارسا عورتوں کو عیب لگائیں، پھر چار گواہ محتاتہ کے نہ لائیں، تو انہیں (80) اسی کوڑے لگاو اور ان کی کوئی گواہی کبھی نہ مانو اور وہی فاسق ہیں (4)

مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور سنور جائیں، تو بیک اللہ بخشے والا مردان ہے (5)

اور وہ جو اپنی عورتوں کو عیب لگائیں اور ان کے پاس اپنے بیان کے سوا گواہ نہ ہوں، تو ایسے کسی کی گواہی یہ ہے کہ چار بار گواہی دے، اللہ کے نام سے کہ وہ سچا ہے (6)

اور پانچویں یہ کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر جھوٹا ہو (7)

اور عورت سے یوں سزا مل جائے گی کہ وہ اللہ کا نام لے کر چار بار گواہی دے کہ مرد جھوٹا ہے (8)

اور پانچویں یوں کہ عورت پر غضب اللہ کا اگر مرد سچا ہو (9)

الَّذِينَ لَا يُبَيِّنُونَ الْإِذَا بَيَّنَّتَهُ أَوْ مُشْرِكَةٌ
الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا مَنْ أَمِنَ أَوْ
مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ ۝

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ
لَهُنَّ أَتَوُا بِأَرْبَعَةٍ شَهَادَةٍ فَاجْعَلُوا لَهُنَّ
تَمْنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُنَّ
شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ
أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝
وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ
يَكُنْ لَهُمْ شَهَادَةٌ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ
فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ
بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝

وَالْخَامِسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ
إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝
وَيُذَرُّ عَنْهَا الْعَذَابُ أَنْ تَشْهَدَ
أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الْكَاذِبِينَ ۝
وَالْخَامِسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا
إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

10. And was it not Allah's grace and His Mercy upon you, that Allah is Relenting and Wise (He would have opened your secret).

SECTION 2

11. Surely, those who have concocted this big slander (against wife of Muhammad S. A. W. Aisha) are a party from among your own people. Do not regard it as a misfortune for you (Muhammad S. A. W.). Rather it is good for you. For every one of them shall have the share of sin that he has earned, and among them he who took the greater part (of slander), for him will be the severe punishment.

12. Why did not the believing (Muslim) men and believing (Muslim) women, when you heard it, think well of their own people and say, "this is clear falsehood (slander)"

13. Why they (accusers) not bring four witnesses against it? But since they do not bring such witnesses, they are indeed liar in the Sight of Allah.

14. And had the bounty of Allah and His Mercy been not upon you, in this world and the hereafter, a severe punishment would have certainly caught you for the slander (scandal of adultery) into which you accusers) plunged.

15. When you bring such talk on your tongues hearing from one another, and utter with your mouths that of which you have no knowledge and think it a light matter while it was very grievous affair in the Sight of Allah.

اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ توبہ قبول فرماتا حکمت والا ہے تو تمہارا پردہ کھول دیتا (10)

بیک وہ کہ یہ بڑا ہتان لائے ہیں تمہیں میں کی ایک جماعت ہے اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے ان میں ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے (11)

کیوں نہ ہوا جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے انہوں پر نیک گمان کیا ہوتا اور کہتے یہ کھلا ہتان ہے (12)

اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے تو جب گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں (13)

اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو جس طرحے جس میں تم پڑے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا (14)

جب تم ایسی بات اپنی زبانوں پر ایک دوسرے سے سن کر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ نکالتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں اور اسے سہل سمجھتے تھے اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے (15)

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
بِغَاةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَنَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿۱۰﴾

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ
مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَأْنًا لَّكُم بَلَاءٌ هُوَ
خَبْرٌ لَّكُمْ لَكِن لَّا أَمْرٌ مِّنْهُمْ مَا
الْكَتَبَ مِنَ الْإِنشَاءِ الَّذِي تَتْلُو
يَكْفُرُوا مِنْهُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿۱۱﴾

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ
وَالْمُؤْمِنَاتُ بَأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَأَقْبَلُوا
هَذَا الْإِفْكَ عُصْبَةً ﴿۱۲﴾
لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ فَأُولَئِكَ
عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿۱۳﴾

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا
أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۴﴾
إِذْ تَقُولُونَ بِالَّذِينَ نَزَّلُوا عَلَيْنَا
بِأَنَّهُمْ كَاذِبُونَ لَسَّكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ
تَحْسَبُونَهُ هِينًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ
عَظِيمٌ ﴿۱۵﴾

16. And why you did not say so, when you heard it, "it is not proper for us to speak about such thing. Holy are You, this is a most serious slander."

اور کیوں نہ ہوا جب تم نے سنا تھا، کہا ہوتا کہ ہمیں نہیں بچتا کہ ایسی بات کہیں، التی! پاکی ہے تجھے، یہ بڑا بتان ہے (16)

اللہ ہمیں صحت فرماتا ہے کہ اب بھی ایسا نہ کہتا، اگر ایمان رکھتے ہو (17)

اور اللہ تمہارے لیے آیتیں صاف بیان فرماتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے (18)

وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چھا چھلے، ان کے لیے درد ناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے (19)

اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ تم پر مہمان، مہر (رحم) والا ہے تو تم اس کا مزہ چکھتے (20)

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ لَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿۱۶﴾

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ بِإِذْنِ اللَّهِ إِنَّ كُفُورَكُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۷﴾

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۸﴾

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۹﴾

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَفُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۲۰﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوبَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَفُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۲۱﴾

وَلَا يَأْتِيَنَّ أُولَئِكَ الْفُضْلُ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا يَعْلَمُونَ

اے ایمان والو! شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو شیطان کے قدموں پر چلے تو وہ تو بے حیائی اور بری ہی بات بتائے گا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی ستمرا نہ ہو سکتا، ہاں! اللہ ستمرا کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ سنتا جانتا ہے (21)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوبَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَفُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۲۱﴾

وَلَا يَأْتِيَنَّ أُولَئِكَ الْفُضْلُ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا يَعْلَمُونَ

وَلَا يَأْتِيَنَّ أُولَئِكَ الْفُضْلُ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا يَعْلَمُونَ

وَلَا يَأْتِيَنَّ أُولَئِكَ الْفُضْلُ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا يَعْلَمُونَ

وَلَا يَأْتِيَنَّ أُولَئِكَ الْفُضْلُ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا يَعْلَمُونَ

وَلَا يَأْتِيَنَّ أُولَئِكَ الْفُضْلُ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا يَعْلَمُونَ

اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت اور مہمانوں والے ہیں، قربت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہئے کہ معاف کریں اور درگزر کریں، کیا تم اسے دوست

17. Allah warns you that you never repeat like of it, if you are believers.

18. And Allah makes clear to you His Verses, and Allah is Knowing, Wise.

19. Surely, those who are wishful that immorality should spread among the believers (Muslims), for them is the severest punishment in this world and the hereafter. And Allah Knows while you do not know it.

20. And it is due to the Grace of Allah and His Mercy upon you and that Allah is Kind enough and Merciful to you (to save you from ruination).

[HALF OF PART 18

ENDS]

SECTION 3

21. O believers, follow not the footsteps of the satan (devil). And whoever follows the footsteps of the satan (devil) he will surely enjoin you only to commit immorality and indeceny. And if there had not been the Grace of Allah and His Mercy upon you, no one of you could have ever been pure. But Allah purifies whom He Wills. And Allah is Hearing, Knowing.

22. Those among you, who have bounty and honorable plenty, should not swear that they will not give to the kinsmen, the needy and those who emigrated for the cause of Allah. Let them forgive and overlook. Do you not

wish that Allah should forgive you? And Allah is Forgiving, Merciful.

23. Surely, those who accuse chaste unaware believing women shall be cursed in this world and the hereafter. And they will have a severest punishment;

24. on the day when their tongues and their hands and their feet will bear witness against them as to what they used to do?

25. On that day Allah will pay them their just due, and they will know that Allah alone is the Manifest Truth.

26. Unclean women are for unclean men and unclean men are for unclean women and clean women are for clean men and clean men are for clean women; they are innocent of what they allege. For them is forgiveness and an honorable provision.

SECTION 4

27. O Believers! do not enter houses, other than your own, until you take permission and salute the residents thereof. This is better for you, that you may remember.

28. But if you do not find any one therein, even then do not enter there without the permission. And if you are told to go back, then go back. This is purer for you. And Allah Knows well what you do.

29. There is no sin on you that you enter uninhabited houses in which you have your goods. And Allah Knows what you reveal and what you conceal.

نہیں رکھے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے (22)

بیکہ وہ جو عیب لگاتے ہیں ایمان پارسا ایمان والیوں کو، ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے (23)

جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں، اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے تھے (24)

اس دن اللہ انہیں ان کی جی سزا پوری دے گا، اور جان لیں گے کہ اللہ ہی صریح حق ہے (25)

گندیاں گندوں کے لیے اور گندے گندیوں کے لیے، اور ستھریاں ستھروں کے لیے اور ستھرے ستھروں کے لیے، وہ پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے (26)

اسے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ، جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم وہیمان کرو (27)

پھر اگر ان میں کسی کو نہ پاؤ جب بھی بے مالکوں کی اجازت کے ان میں نہ جاؤ، اور اگر تم سے کہا جائے، واپس جاؤ، تو واپس ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے (28)

اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی سکونت کے نتیجہ، اور ان کے بستے کا جنہیں اختیار ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو (29)

أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۲۲

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَاضِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَأُولِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۲۳

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَيَدُهُمْ وَأرجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۲۴

يَوْمَ يَنْصَبُ اللَّهُ وَجْهَهُ لِلْعَالَمِينَ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَلِكُ الْمُبِينُ ۝۲۵

الْمُحْصَنَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ وَلِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ أَنَّهُمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۲۶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝۲۷

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارجِعُوا فَارجِعُوا هُوَ أَزكى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۝۲۹

30. Say to the believer (Muslim) men to lower down their eyes and guard their private parts. This is purer for them, surely Allah is aware of what they do.

مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستمرا ہے، بیشک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے (30)

31. And please declare that the believing (Muslim) women should lower down their eyes and guard their chastity and should not display their ornaments, except which is itself apparent. And they should always put their head coverings over their bosoms. And they never should display their beauty, except to their husbands, or to their fathers, or the fathers of their husbands or the sons of their sisters or their women whom their right hands possess or such male servants who have no sexual appetite or the young children, who are unaware of the private parts of the women. And they (ladies) should not strike their feet on the ground that their hidden ornaments may become known. And turn to Allah, O believers (Muslim), all together so that you may be successful.

اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، اور اپنی پارسل کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں، مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں، یا نوکر بشرطیکہ شہوت والے مرد نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں، کہ جانا جائے ان کا چمپا ہوا سنگار، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں! سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ (31)

32. And marry widows among you, and your righteous male and female servants, fit one (for marriage). If they are the poor, Allah will enrich them out of His Bounty. And Allah is Bountiful, Knowing.

اور نکاح کر دو اپنیوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں، اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا، اور اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے سبب، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے (32)

33. And let those who have no means to marry, restrain themselves until Allah enriches them with means out of His Bounty. And from among those servants whom your right hands possess write for them freedom if you

اور چاہیے کہ بچے رہیں وہ جو نکاح کا مقدور نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ انہیں مقدور والا کر دے اپنے فضل سے، اور تمہارے ہاتھ کی ملک باندی غلاموں

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ أَبْصَارَهُمْ وَيَحْفَظُونَ أَرْوَاحَهُمْ ذَلِكَ لِيَأْتِيَهُمْ

إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ لِّمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ

أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

وَلْيَضْحَكْنَ كَلِمًا جَوِيدًا

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ

أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ

أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ

إِخْوَانَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ

أَوْ صِبْيَانًا لَمْ يُغَضِّبُوا أَوْ الشُّعْبَةَ

مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ

الطِّفْلَ الَّذِي لَمْ يَغْضُِبْهُ وَإِذَا عَلِيٌّ

الْبَيْتِ وَاللَّيْظُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ يُحَافِظُ

مَا بَيْنَهُمْ مِنْ زِينَتِهِمْ وَلَوْ أَنَّهُ

اللَّهُ جَمِيعًا آيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ لَعَلَّكُمْ

تَقْتَدُونَ ﴿٣١﴾

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ

مِنْ عِبَادِكُمْ وَهَذَا بَيْنَكُمْ أَنْ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ

نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا لَكُمُ

know some good in them; and help them out of Allah's wealth which He has Bestowed to you. And force not your maids to prostitution when they desire to live in chastity in order that you may get enjoyment of this world's life. But whoso will force them (for sex) in that case due to their this compulsion Allah will surely, be Forgiving, Merciful (to such maids).

34. And certainly, We (Allah) have revealed to you clear Verses and the examples of those who have passed away before you and admonition to those who are pious.

SECTION 5

35. Allah is the Light of the heavens and the earth. The likeness of His Light is as a niche wherein is a lamp. The lamp is in a chandelier (of glass). The chandelier is like a glittering star. It is lit from the blessed olive tree which is neither in the east nor in the west. It is near that its oil may flare up even though the fire does not touch it. The Light is upon the light. Allah guides to His Light whom He Wills. And Allah narrates examples for the people. And Allah Knows all the things fully well!

36. It is lit in those houses which Allah has ordered to be exalted that in them His Name is remembered. Allah is glorified therein in the mornings and the evenings;

37. by the men whom neither any merchandise nor any bushiness can divert from the remembrance of Allah and from performing of

میں سے جو یہ چاہیں کہ کچھ مال کسے کے لیے شرط پر انہیں آزادی لکھ دو، تو لکھ دو، اگر ان میں کچھ بھلائی جانے اور اس پر ان کی مدد کرے اللہ کے مال سے جو تم کو دیا، اور مجبور نہ کر اپنی کینوں کو بدکاری پر جب کہ وہ چاہتے ہیں تاکہ تم دنیوی زندگی کا کچھ مال چاہو، اور جو انہیں مجبور کرے گا، تو بیشک اللہ بعد اس کے کہ وہ مجبور ہی کی حالت پر ہیں بخشنے والا مہربان ہے (33)

اور بیشک ہم نے تمہاری تمہاری طرف روشن آیتیں اور کچھ ان لوگوں کا بیان جو تم سے پہلے ہو گزرے، اور ڈر والوں کے لیے نصیحت (34)

اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک طاق کہ اس میں چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے موتی سا، چمکتا روشن ہوتا ہے برکت والے بیڑ زیتون سے، جو نہ پورب (شرق) کا نہ بچم (غرب) کا، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے، اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، نور پر نور ہے، اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے (35)

ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ان میں صبح اور شام (36)

وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرنا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز بہا

أَيْمَانَكُمْ فَكَابُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا إِنَّ اللَّهَ مِنْ قَالِ اللَّهِ الَّذِي أَنْتُمْ وَلَا تَكْرَهُوا قَاتِنَا كَمَا عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَدْرَأْتُمْ تَحْسَبُوا لَتَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ الْكْرَاهِيْنَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَمَثَلًا لِقَوْمٍ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ عَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دَرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورَعَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

فِي بُيُوتٍ أُورِثَهُ أَنْ تُرْفَعُ وَ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لِقُرْبَانًا بِالْعُدْوَةِ وَالْأَصَالِ ۝

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ

Salaat (Muslim prayer) and payment of Zakaat (compulsory dues). They fear a day in which hearts and eyes shall be agitated;

38. so that Allah may give them the best reward for their best works and further increase such reward out of His Bounty to whoso He Wills without measure.

39. And those who disbelieve, their deeds are like a mirage in a desert. The thirsty one deems it to be water until when he (she) reaches up to it, he (she) finds it to be nothing. And there he (she) finds only the Allah's presence Who then pays him (her) the account in full. And Allah is swift in reckoning;

40. as it is like the thick darkness in a vast and deep sea which a wave covers over with another wave, above which are the clouds. These are the layers of darkness, one upon the other. When someone holds out his(her) hand, he (she) is unable to see it. And to whom Allah gives no light, for him there is no light at all.

SECTION 6

41. Have you not seen that Allah is He Whom all that is in the heavens and the earth glorify and so do the birds spreading their wings? Every one knows his own mode of Salaat (supplication) and way of glorifying. And Allah Knows what they do.

42. And to Allah belongs the kingdom of heavens and the earth and to Allah is the return of everything.

43. Have you not seen that Allah drives along the clouds, then joins them, one over the

رکھے اور زکوٰۃ دینے سے ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں (37)

مگر اللہ انہیں بدلا دے ان کے سب سے بہتر کام کا، اور اپنے فضل سے انہیں انعام زیادہ دے، اور اللہ روزی دتا ہے جسے چاہے بے گنتی (38)

اور جو کافر ہوئے ان کے کام ایسے ہیں جیسے دھوپ میں چمکتا رہتا کسی جنگل میں کہ پیاسا اسے پانی سمجھے یہاں تک جب اس کے پاس آیا تو اسے کچھ نہ پایا، اور اللہ کو اپنے قریب پایا تو اس نے اس کا حساب پورا بھر دیا، اور اللہ جلد حساب کر لیتا ہے (39)

یا جیسے اندھیراں کسی کنڑے کے دریا میں اس کے اوپر موج، موج کے اوپر اور موج، اس کے اوپر بادل، اندھیرے ہیں ایک پر ایک، جب اپنا ہاتھ نکالے تو سوجھائی دتا معلوم نہ ہو، اور جسے اللہ نور دے اس کے لیے کس نور نہیں (40)

کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور پرندے پر پھیلائے، سب نے جان رکھی ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح، اور اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے (41)

اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ ہی کی طرف بھر جانا (42)

کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نرم نرم چلاتا ہے بادل کو، پھر انہیں آپس میں ملاتا ہے،

الرَّكُوعِ يُخَاوِفُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (۳۷)

لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَبَيِّدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ يَرِزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (۳۸)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِفِغْفَةٍ يَتَّبِعُهُ الطَّمَانُ مَاءً حَلًّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ ثَوْمَةٌ حِسَابَةٍ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (۳۹)

أَوْ كظلماتٍ في بحرٍ لثجٍ يَغشاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَعَابٌ ظلماتٌ بعضُها فوقَ بعضٍ إِذ أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ يَرُدها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ (۴۰)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطُّورِ وَالصَّخْرَاتِ كُلٌّ قَدْ سَلَّمَ صَلَاتَهُ وَسُبْحَانَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيَمِيعُونَ (۴۱)

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (۴۲)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرِيحُ سَعَابًا ثُمَّ

other so that you see that rain comes out from inside them? And He sends down out of the heaven from the clouds some mountain hail. Then casts it over whom He pleases and turns it away from whom He pleases. The flash of his lighting may take away the sight.

44. It is Allah Who alternates the night and the day. There is surely a lesson in this for men of vision.

45. And Allah has created from water every living creature. Then some of them move on their bellies, and some of them walk on two feet and some walk on four feet. Allah creates what He Pleases. Surely, Allah has the full power over everything.

46. Certainly, We (Allah) have revealed fully clear Verses. And Allah guides whom He Pleases to the straight path.

47. And they say, "we believe in Allah and His Rasool (Messenger) and we obey". Despite this some of them turn away. And this way they are not believers.

48. And when they were called towards Allah and His Rasool (Messenger) that he (Rasool) may decide between them at that very time a party of them turned away.

49. And had the truth been on their side, they would have come to him submissively.

50. Is that there is a sickness in their hearts? Or do they fear that Allah and His Rasool (Messenger) will be

پھر انہیں نہ پرہ کرتا ہے تو تو دیکھے کہ اس کے سچ میں سے سینہ نکلا ہے اور اترتا ہے آسمان سے اس میں جو برف کے پہاڑ ہیں، ان میں سے کچھ اولے، پھر ڈالے ہیں انہیں جس پر چاہے، اور پھیرتا ہے انہیں جس سے چاہے، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھیں لے جائے

يُرْوٰى مِنْ بَيْنِهِمْ فَتُرْبَعُهُمْ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الّٰتِيْنَ
الَّذِيْنَ يَخْتَرِعُوْنَ مِنْ خَلْقِهِ وَيُزَيَّلُوْنَ
السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْ بَرَدٍ
فَيُصِيبُ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ وَيَصْرِفُهُ
عَنْ مَنْ يَّشَاءُ يٰۤاَكْفٰرُ سَنَّا بَرَدًا
يَذْهَبُ بِالْاِنصَارِ ۝

(43) اللہ بدلی کرتا ہے رات اور دن کی، چمک اس میں سمجھنے کا مقام ہے نگاہ والوں کو

ذٰلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَبصَارِ ۝
وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ فَمِنْ
مَنْ يَمْشِي عَلٰى بَطْنِهٖ وَمِنْهُمْ مَنْ
يَمْشِي عَلٰى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ
يَمْشِي عَلٰى اَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ
اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

اور اللہ نے زمین پر ہر چلنے والا پانی سے بنایا، تو ان میں کوئی اپنے پیٹ پر چلتا ہے اور ان میں کوئی دو پاؤں پر چلتا ہے، اور ان میں کوئی چار پاؤں پر چلتا ہے اللہ بناتا ہے جو چاہے، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے

لَقَدْ اَنْزَلْنَا اٰیٰتٍ مُّبِيْنٰتٍ وَاللّٰهُ
يُعِيْدُنِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيْمٍ ۝

چمک ہم نے انہیں صاف بیان کرنے والی آیتیں، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے

وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ
وَاطَعْنَا اَمْرًا يَمُوْلٰى فَوَيْلٌ لِّمَنْ
مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ وَاُوْدِيْعُكَ
يَا مُؤْمِنِيْنَ ۝

اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور حکم مانا، پھر کچھ ان میں سے اس کے بعد پھر جاتے ہیں اور وہ مسلمان نہیں

وَاِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فُرِيقٌ مِّنْهُمْ
مُّعْرِضُوْنَ ۝

اور جب بلائے جائیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ رسول ان میں فیصلہ فرمائے، تو جیسی ان کا ایک فریق منہ پھیر جاتا ہے

وَاِنْ يَكُنْ لَّهُمْ الشَّقِيْقَٰتُ اَيُّوْا اِلَيْهٖ
مِّنْ عِنْدِنَا ۝

اور اگر ان کی ڈگری ہو تو اس کی طرف آئیں مانتے ہوئے

اِنِّيْ قٰلُوْا بِهِمْ مُّرَضُوْنَ اَمْ رٰتٰوْا اَمْرًا

unjust to them? Nay, they themselves are the cruel.

(THREE FOURTH OF PART 18 ENDS)

SECTION 7

51. The response of the believers (Muslims) is only this that, when they are invited towards Allah and Rasool (Messenger) that he (Rasool) may judge between them, they say, "we have heard and we obey." And these are the successful ones.

52. And whoso obeys Allah and His Rasool (Messenger) and fears Allah and takes Him as a Protector such are the people who are successful.

53. And they swear by Allah with utmost strength in their oath that if you will order them, certainly, they would go forth (for Jehaad—he defensive war). Please declare, "do not swear. Reasonable obedience is required (according to faith)." Surely Allah is well aware of what you do."

54. Please declare, "obey Allah and obey the Rasool (Messenger), but if you turn back, then for him (Rasool) is his burden (of duty), and on you is your burden (of deeds). And if you will obey him (Messenger) you will be rightly guided. And the Rasool (Messenger) has no responsibility except to deliver the message too clearly.

55. Allah has promised to those among you who believe and perform righteous deeds that He will surely make them successors on the earth, as He made those before them. And He will certainly, establish their religion which He has chosen for them, and

ان پر علم کریں گے، بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں (50)

مسلمانوں کی بات تو یہی ہے جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں کہ رسول ان میں فیصلہ فرمائے، تو عرض کریں! ہم نے سنا اور حکم مانا، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے (51)

اور جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری کرے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں (52)

اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے طرف میں حد کی کوشش سے، کہ اگر تم انہیں حکم دو گے تو وہ ضرور جہاد کو نکلیں گے، تم فرماؤ! تمہیں نہ کھانا، موافق شرع حکم برداری چاہیے، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو (53)

تم فرماؤ! حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، پھر اگر تم منہ پھیرو تو رسول کے ذمہ وہی ہے جو اس پر لازم کیا گیا، اور تم پر وہ ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا اور اگر رسول کی فرمائندہ کاری کر گے راہ پاؤ گے، اور رسول کے ذمہ نہیں مگر صاف پہنچانا دینا (54)

اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے، کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو دی، اور ضروران کے لیے جہاد دے گا ان کا وہ دین جو ان کے لیے

يَخَافُونَ أَنْ يَحْيِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
يَسْئَلُونَ رَبَّكَ بَلْ أَوَّلِيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا
تَقْسُمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَ
عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ أُطِيعُوا
تَهْتَدُوا وَإِن مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ
الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كََمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ
لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى

will certainly give them security in exchange. They should only worship Me, and commit no "shirk" making none equal to Me as associates. And whoso is ungrateful after this, then they are the rebellious people. 56. And establish the Salaat (Muslim Prayer) and pay the Zakaat (compulsory due) and obey the Rasool (Messenger) that you may be conferred mercy.

57. Never think that the disbelievers will go out of control on the earth. Their destination is the fire. And indeed what an evil resort it is.

SECTION 8

58. O believers, let those servants, whom your right hands possess and those of you who have not reached puberty, ask your permission to leave at three times - before the morning Salaat (Muslim Fajr Prayer), then when you put off your clothes at the summer noon and after the night Salaat (Muslim Prayer at Isha). These are three times of privacy for you. After these three times there is no sin on you or on them to move about in waiting upon you to attend each other. Thus Allah makes clear His Verses for you. And Allah is Knowing, Wise.

59. And when the children among you attain puberty, they should also ask permission like the permission sought by the elders before them. Thus Allah makes clear to you His Verses, and Allah is Knowing, Wise.

پسند فرمایا ہے اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا میری عبادت کریں میرا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں اور جو اس کے بعد ناشہری کرے تو وہی لوگ بے رحم ہیں (55)

اور نماز بپا رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرمانبرداری کرو اس امید پر کہ تم پر رحم ہو (56)

ہرگز کافروں کو خیال نہ کرنا کہ وہ کہیں ہمارے قابو سے نکل جائیں زمین میں اور ان کا ٹھکانا آگ ہے اور ضرور کیا ہی بُرا انجام (57)

لَهُمْ وَلِيْبٌ لَّهُمْ وَمَنْ يُعَدِّ خُوْبِيْهِمْ
اٰمَنًا يَّعْبُدُوْنِيْ لَا يَشْرِكُوْنَ بِيْ
شَيْْئًا وَمَنْ كَفَرَ يَّعَدِّ ذٰلِكَ مَا وَّلِيْتُكَ
هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٥٥﴾
وَاقِيْمُو الصَّلٰوةَ وَآتُوْا الزَّكٰوةَ وَ
اطِيعُوْا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٥٦﴾
لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْزِيْنَ
فِي الْاَرْضِ وَمَا وَّلِيَهُمُ النَّارُ وَلَيْسَ
بِهَا الْمَصِيْرُ ﴿٥٧﴾

اے ایمان والو! چاہیے کہ تم سے اذن لیں تمہارے ہاتھ کے مال غلام اور وہ جو تم میں ابھی جوانی کو نہ پہنچے تین وقت نماز صبح سے پہلے اور جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو دوسرے اور نماز عشاء کے بعد یہ تین وقت تمہاری شرم کے ہیں ان تین کے بعد کچھ گناہ نہیں تم پر نہ ان پر آمدرفت رکھتے ہیں تمہارے میاں ایک دوسرے کے پاس اللہ یونہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں اور اللہ علم و حکمت والا ہے (58)

اور جب تم میں لڑکے جوانی کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اذن مانگیں جیسے ان کے اگلوں نے اذن مانگا اللہ یونہی بیان فرماتا ہے تم سے اپنی آیتیں اور اللہ علم و حکمت والا ہے (59)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاذِنْكُمْ
الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ
لَمْ يَبْلُغُوْا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
مِّنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِينَ
تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظُّهْرِ وَ
مِّنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ
عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا
عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ طَوُّ قُوْنٍ
عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذٰلِكَ
يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ
حَكِيْمٌ ﴿٥٨﴾

وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ
فَلْيَسْتَاذِنُوْا كَمَا اسْتَاذِنَ الَّذِيْنَ
مِّنْ قَبْلِهِمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ
لَكُمْ اٰيٰتِهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٩﴾

when they ask your permission for some affairs of their own, give permission to whom you please from among them and ask forgiveness of Allah for them. Surely, Allah is Forgiving, Merciful.

63. Do not treat the calling of the Rasool (Messenger) among you like you call each other. Surely, Allah indeed knows those of you who slip away quiet stealthily. so let those who do against His command beware lest some trial befalls them or a painful punishment overtakes them.

64. Behold! surely, to Allah belongs whatever is in the heavens and the earth. Indeed He knows in what condition you are. And on the Day when they will be returned to Him, He will inform them whatever they did. And Allah Knows everything fully well.

S. XXV

SURA AL-FUURQAAN (THE CRITERION OF RIGHT AND WRONG)

Revealed At Makkah

(77 Verses, 6 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. Immensely Blessed is He Who has revealed the Book as Fuurqaan - the Criterion of right and wrong (Qur'aan) to His devotee (dear Rasool Muhammad S.A.W) that he may be warner for the entire universe.

2. He to Whom belongs the Kingdom of the heavens and the earth and Who never begets a son for Himself and He has no associate (partner)

مانگیں اپنے کسی کام کے لیے تو ان میں جسے تم چاہو اجازت دے دو اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو! بیک اللہ بخشنے والا مہربان ہے (62)

رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہراؤ جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے، بیک اللہ جاتا ہے جو تم میں چپکے نکل جاتے ہیں کسی چیز کی آڑ لے کر، تو ڈریں وہ جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں، کہ انہیں کوئی قتلہ پہنچے یا ان پر درد ناک عذاب پڑے (63)

سن لو! بیک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بیک وہ جاتا ہے جس حال پر تم ہو، اور اس دن کو جس میں اس کی طرف پھیرے جائیں گے، تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے (64)

لَوْلَا اَنَّ السَّادَاتُ لَوْ كَرِهُوا لَعَفْوًا سَأَلْتَهُمْ فَاَذْنُ لَمَنْ رَسَدَتْ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ اَللّٰهُ اِنَّ اَللّٰهَ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ ﴿٦٢﴾

لَا تَجْعَلُوا دَعَاةَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدَعَاةِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اَللّٰهُ الَّذِيْنَ يَسْئَلُوْنَ مِنْكُمْ لُوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ مِنْ عِلْفُوْنَ عَن اَمْرِهِ اَنْ تَصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يَصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾

اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ وَاَيُّوْمٌ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا عَمِلُوْا وَاَللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٦٤﴾

سورۃ فرقان کی ہے (اس میں) ستر (77) آیتیں اور چھ رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے آمارا قرآن اپنے بندہ پر جو سارے جہاں کو ڈرسانے والا ہے (1)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾

بَرَكَاتِ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ﴿١﴾

الَّذِي لَئِن لَّمْ يَكُنِ الْفُرْقَانُ وَالسَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَخُنْ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ

in His Kingdom. He has created everything, then determined for it a proper measure.

3. Yet they ("muushriks" —pagans) take other gods besides Him, who create nothing as they are themselves created, and they have no power to harm or profit themselves. Neither they control death nor life, nor can raise up (the dead) to life.

4. And the disbelievers say, "this is not but a lie which he (Muhammad) has forged and some other people have helped him in it." Indeed, it is they who have spread injustice and falsehood.

5. And they say, "these are stories of the ancients which he (Muhammad S.A.W.) has got written, and these are dictated to him morning and evening.

6. Please declare, "it has been revealed by Him Who Knows every secret thing of the heavens and the earth. Surely, He is Forgiving, Merciful.

7. And they say, "what sort of Prophet this Rasool (Messenger) is that he eats food, and walks about in the market places. Why an Angel was not sent down with him that he might have acted as warner with him";

8. or he should have been bestowed a treasure or he should have a garden to eat therefrom. And the cruel people say, "you follow a man who has been bewitched."

9. (O dear) see what kind of comparison they are coining for you? Thus they have gone

(شریک) نہیں، اس نے ہر چیز پیدا کر کے ٹھیک اندازہ پر رکھی (2)

اور لوگوں نے اس کے سوا اور خدا ٹھہرا لیے کہ وہ کچھ نہیں بناتے، اور خود پیدا کیے گئے ہیں، اور خود اپنی جانوں کے برے بھلے کے مالک نہیں، اور نہ مرنے کا اختیار، نہ جینے کا، نہ اٹھنے کا (3)

اور کافر بولے! یہ تو نہیں مگر ایک ہستان جو انہوں نے بنا لیا ہے اور اس پر، اور لوگوں نے انہیں مدد دی ہے، بیچک وہ ظالم اور جھوٹ پر آئے (4)

اور بولے! انہوں کی کمائیاں ہیں جو انہوں نے لکھ لی ہیں، تو وہ ان پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں (5)

تم فرماؤ! اسے تو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چھٹی بات جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے (6)

اور بولے! اس رسول کو کیا ہوا، کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، کیوں نہ اتار گیا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ، کہ ان کے ساتھ ڈر سنا (7)

یا غیب سے انہیں کوئی خزانہ مل جاتا، یا ان کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے کھاتے اور ظالم بولے، تم تو پیروی نہیں کرتے مگر

ایک ایسے مرد کی جس پر جادو ہوا (8) اے محبوب! دیکھو! کیسی کلماتیں تمہارے لیے بنا رہے ہیں؟ تو گمراہ ہونے کے اب

شَرِيكَ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رُتِقَ بِيْرًا ①

وَإِخْتَدُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَمْ يَخْلُقْ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ وَلَا يُمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيٰوةً وَلَا نُشُورًا ②

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَفْكٌ مِنْ أَفْكِهِمْ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ③

وَقَالُوا لَوْ سَاطِرُ أَوَّلِينَ كَتَبَهَا فِيهِمْ سُحُبًا مُنْجِيَةً وَأَصْنَعُوا ④

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيْمًا رَحِيْمًا ⑤

وَقَالُوا لَئِنْ هَذَا الرَّسُوْلُ يَبْأُكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِ مَالِكًا يَتْلُوْنَ مَعَهُ آيٰتِ الْكِتٰبِ أَوْ يُنْفِقُ إِلَيْهِ كُنُوزًا أَتَوْنَ لَعَبَّهٗنَّ بِأَكْلِ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُّسْحُوْرًا ⑥

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ

astray and they cannot 'find any way.

SECTION 2

10. Blessed is He Who, if He Pleases, will give you what is better for you than that Paradise under which streams flow and will provide you palaces.

11. Yet they reject Resurrection Hour. And for those, who reject that Hour, We have prepared a blazing fire.

12. When it (hell) will come in their sight from a distant place, they will hear its raging and roaring.

13. And when they will be thrown into any narrow place thereof tied with chains, they will pray there for death.

14. It will be said, "request not today only one death but request for many destructions.

15. Please declare, "is this better or the eternal Paradise which is promised to those who are pious. That is their reward and best resort."

16. For them is therein all that they desire, residing therein for ever. This is the promise fulfilled as made by your Rubb (Sustainer) as was prayed for.

17. And the day He will assemble them and those they worship besides Allah. He will ask them, "was it you who led My these devotees on the wrong way or did they themselves adopt such wrong path?"

18. They will say, "Glorified be You, it was not proper for us to take besides You any one else for protection; but You did allow them and their forefathers the good things

کوئی راہ میں پاتے (9) بڑی برکت والا ہے وہ کہ اگر چاہے تو تمہارے لیے بہت بہتر اس سے کر دے جہنم، جن کے نیچے نہریں ہیں، اور کرے گا تمہارے لیے اونچے اونچے محل (10)

بلکہ یہ تو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اور جو قیامت کو جھٹلاتے ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے بھڑکتی ہوئی آگ (11)

جب وہ انہیں دور جگہ سے دیکھے گی تو سبش گئے، اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا (12)

اور جب اس کی کسی ٹنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوں، تو وہاں موت مانگیں گے (13)

فرمایا جائے گا، آج ایک موت نہ مانگو، اور بہت سی موتیں مانگو (14)

تم فرماؤ! کیا یہ بھلا، یا وہ بیہوشی کے باغ، جس کا وعدہ ذر والوں کو ہے، وہ ان کا صلہ اور انجام ہے (15)

ان کے لیے وہاں من مانتی مرادیں ہیں جن میں بیش رہیں گے، تمہارے رب کے ذمہ میں وعدہ ہے مانگا ہوا (16)

اور جس دن اکٹھا کرے گا انہیں اور جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں، پھر ان معبودوں سے فرمائے گا کیا تم نے گمراہ کر دیئے یہ میرے بندے یا یہ خود ہی راہ بھولے (17)

وہ عرض کریں گے! پاکی ہے تمہ کو، ہمیں سزاوار نہ تھا کہ تیرے سوا کسی اور کو موٹی بنائیں، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو برستے دیا، یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھول گئے، اور یہ لوگ تھے ہی

بِأَفْضَلٍ وَأَوْلَىٰ يَسْتَعْجِلُونَ سِيبًا ۝

تَبْرُكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ جَدَّتْ بَحْرُومٌ تَجِيئًا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ تَصَوُّرًا ۝
بَلْ كَذَّبُوا بِالشَّاعَةِ وَاعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالشَّاعَةِ سَعِيرًا ۝

إِذَا رَأَوْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍ يَبْعِدُونَ
لَهُمْ أَنْتَعِظُوا وَرَفِئُوا ۝

وَإِذَا اللُّغَوَامُ مَنَّا صَيْقًا مَّقْرَبِينَ
دَعَوْا هُنَالِكَ نَبُورًا ۝

لَا تَدْعُوا إِلَيْهِمْ يُرْسُوا وَاجِدُوا
أَدْعُوا تَبُورًا كَثِيرًا ۝

قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ
الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَأَنْتُمْ لَهُمْ

جَزَاءٌ وَمَصِيرًا ۝
لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ
كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مُّسْتَوْرًا ۝

وَيَوْمَ نَحْشُهُمْ وَمَا يَعْجِدُونَ
مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلُّتُمْ

عِبَادِي هُوَ لَا أَرْهَمُهُمْ صَلُّوا
السَّجْدِ ۝

قَالُوا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يُشْبِعِي لُبًّا
أَنْ نَّعْبُدَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَتِهِ

until they forgot Your remembrance and became the nation worth ruination.

19. So (the muushrik idolators will be told) they (idols) indeed have falsified your assertion. You can neither avert the punishment nor can help yourselves. And whoso among you is a wrong doer, We (Allah) shall make him taste the severest punishment.

20. And We (Allah) sent many Rasools (Messengers) before you but surely they all ate food and walked about in the market places. And We (Allah) make some of you a means trial for the others. Will you (people) be steadfast. And (O dear Prophet) your Rubb (Sustainer) is Seeing.

PART 19

SURA AL-FURQAAN

(Contd.)

SECTION 3

21. And those who do not hope to meet Us (Allah), say, "why Angela are not sent to us, or why we do not see our Rubb (Sustainer)". Certainly, they are too arrogant and they have seriously transgressed the limits.

22. The day they will see the Angels, that will not be a happy day for the criminals. And they (Angels) will say, (O Allah) set a complete barrier between us and them.

23. And We (Allah) shall turn to whatever deeds, they do, and We (Allah) shall make the same as particles of scattered dust.

24. The inhabitants of the Paradise on that day will be in good lodging and in a good place for rest.

ہلاک ہونے والے (18)

تو اب معبودوں نے تمہاری بات جھٹلا دی
تو اب تم نہ ترازب پھیر سکو، نہ اپنی مدد کر
سکو، اور تم میں جو ظالم ہے، ہم اسے برا
عذاب چکھائیں گے (19)

اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے
سب ایسے ہی تھے کھانا کھاتے، اور
بازاروں میں چلتے، اور ہم نے تم میں ایک
کو دوسرے کی جانچ کیا ہے، اور اے لوگو!
کیا تم مبرک روگے، اور اے محبوب! تمہارا
رب دیکھتا ہے (20)

لٰكِن مَّغَعَتَهُمْ وَاٰبَاءَهُمْ حَتّٰى نَسُوۡا
الَّذِيۡ كُوۡرُوۡا كَاۡنُوۡا قَوْمًا بُۡوۡرًا ﴿۱۸﴾
فَقَدَّ كَذٰۤىبُوۡكُمْ يَمًا تَقُوۡلُوۡنَ فَمَا
نَسْتَطِيۡعُوۡنَ صِرَافًا وَّلَا نَصْرًا وَّاَمۡنٌ
يٰظٰلِمُوۡنَا مِمَّا نَبَدَّۡهُ عَذٰۤابًا كَبِيۡرًا ﴿۱۹﴾

وَمَاۤ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الرُّسُلِيۡنَ اِلَّا
اِنَّهٗمْ لَيَاكُوۡنُ الطَّعٰۤافَ وَيَمۡشُوۡنَ
فِيۡ الْاَسۡوَاقِ وَيَجۡعَلُنَا بَعۡضُكُمۡ
لِبَعۡضٍ فِتۡنَةً اَتۡصِيۡرُوۡنَ وَاۡكٰۤانَ
رَبُّكَ بِصِيۡرٰتِكُمْ ﴿۲۰﴾

اور بولے، وہ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں
رکھتے، ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے، یا ہم
اپنے رب کو دیکھتے، بیک اپنے ہی میں
بست ہی اوبھی کھینچی، اور بڑی سرکشی پر
آئے (21)

جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن
بجزموں کی کوئی خوشی کا نہ ہوگا، اور کہیں
گے، الہی ہم میں ان میں کوئی آڑ کر دے
رہی ہوگی (22)

اور جو کچھ انہوں نے کام کئے تھے، ہم
قصہ فرا کر (فاسلہ) باریک باریک غبار کے
بکھرے ہوئے ذرے کر دیا، کہ روزن کی
دھوپ میں نظر آتے (23)

جنت والوں کا اس دن اچھا ٹھکانا؟ اور
حساب کے دوپہر کے بعد اچھی آرام کی
جگہ (24)

وَقَالَ الَّذِيۡنَ لَا يَرۡجُوۡنَ لِقَاۤءَنَا
لَوْلَا اَنۡزَلۡ عَلٰۤينَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نُنۡزِلُ
رَبَّنَا لَقَدِ اسۡتَكۡبَرُوۡا وَاِنۡىۡ اَنۡفُسُهُمۡ وَّ
عَتُوۡا كَبِيۡرًا ﴿۲۱﴾

يَوْمَ يَرَوۡنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا يَشۡرٰى
يَوْمَئِذٍ لِلۡمُجۡرِمِيۡنَ وَيَقُوۡلُوۡنَ جَعَلُوۡا
فُجُوۡرًا ﴿۲۲﴾

وَقَدِمۡنَا اِلٰى مَا عَمِلُوۡا مِنۡ عَمَلٍ
فَجَعَلۡنَاۤهٗمۡا مِّنۡشُوۡرًا ﴿۲۳﴾

اَصۡحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ
مِّنۡسَقَرًا وَّاَحۡسَنُ مَقِيۡلًا ﴿۲۴﴾

25. And on the day when the heavens shall be split asunder with the clouds and the Angels shall be sent down in large number.

26. The sovereignty that day will belong to the most True, the most Affectionate. And it will be a hard day for the disbelievers.

27. And on that day the cruel will bite his hands saying, "oh, would that I had taken a right way with the Rasool (Messenger).

28. "Woe to me! Would that I had not taken such one as companion."

29. "Certainly, he led me on the wrong way from the message after it had come to me." And how the satan (devil) is traitor to the man.

30. And then the Rasool, (Messenger) will submit, "O my Rubb (Sustainer) my

people took this Qur'aan as an abandoned thing.

31. And thus We (Allah) left for every Nabi (Prophet) enemies from among the criminals. And your Rubb (Sustainer) is sufficient as Guide and as a Helper.

32. And the disbelievers say, "why the Qur'aan was not revealed on them all at once? We (Allah) have thus revealed it gradually that We (Allah) strengthen your heart by it. And We (Allah) arranged it for gradual recitation in stages.

33. And they cannot bring to you any argument but We (Allah) provide you the truth and best explanation.

34. And those who shall be dragged with their faces towards the hell, their

اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان ہادوں سے" اور فرشتے آمارے جائیں گے پوری طرح (25)

اس دن بھی بادشاہی رحمن کی ہے" اور وہ دن کافروں پر سخت ہے (26)

اور جس دن غلام اپنے ہاتھ چا چالے گا کہ ہائے! کسی طرح سے میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوئی (27)

وائے خرابی میری! ہائے! کسی طرح میں نے فلائے کو دوست نہ بنایا ہوتا (28)

پشیمانی نے مجھے بھگا دیا" میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے" اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے (29)

اور رسول نے عرض کی کہ اے میرے رب! میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرا لیا (30)

اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیئے تھے مجرم لوگ" اور تمہارا رب کافی ہے ہدایت کرنے اور مدد دینے کو (31)

اور کافر بولے! قرآن ان پر ایک ساتھ کیوں نہ آتا رہا؟ ہم نے یونہی بتدریج اسے آتا رہا ہے" کہ اس سے تمہارا دل مضبوط کریں" اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا (32)

اور وہ کوئی کلمات تمہارے پاس نہ لائیں گے" مگر ہم حق اور اس سے بہتر بیان لے آئیں گے (33)

وہ جو جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے اپنے منہ کے بل" ان کا ٹھکانا سب سے بُرا" اور

وَيَوْمَ تَشْقَى السَّمَاءُ بِالسَّاعِدِ
وَنَزَلَ الْمَلَائِكَةُ سُجُودًا ۝

الْمَلِكُ يُضْطَرُّ مِنَ الْحَسَنِ لِلرَّحْمَنِ
وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ۝

وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ
يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ
الرَّسُولِ سَبِيلًا ۝

يَا لَيْتَنِي يَلْتَمِسُنِي لَمَّ اتَّخَذْتُ فُلَانًا
خَلِيلًا ۝

لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ
جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ
خَدُولًا ۝

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي
اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۝

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا
مِنَ الْعَالَمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ

هَادِيًا وَنَصِيرًا ۝
قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ

مِنَ الْقُرْآنِ جُمْلَةٌ وَاحِدَةٌ كَذَلِكَ
لِنُتَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ

تَرْتِيلًا ۝

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ
بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝

الَّذِينَ رَحَّمْتَهُمْ عَلَىٰ وَجْهِهِمْ
إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَئِكَ سَرْمَكَاوُ

destination is too astray from the right way.

SECTION 4

35. And certainly We (Allah) gave Moosaa (Moses) the Book and We (Allah) appointed with him his brother Haroon (Aaron) as his minister.

36. then We (Allah) ordered them, "go back" of you towards the people who have rejected Our (Allah's) Verses. So We (Allah) destroyed them utterly.

37. And as to the people of Nuuh (Noah) when they rejected the Rasools (Messengers), We (Allah) drowned them and made them a sign for the mankind. And We (Allah) have already prepared painful punishment for the cruels;

38. and for the Aad and the Samood (Thamood) and the dwellers of the Russ (well) and many generations in between them (were also punished).

39. And for everyone We (Allah) set examples and everyone We (Allah) destroyed completely.

40. And certainly, they have often passed by the town on which an evil rain was showered. Did they not see it? Rather they did not fear the Resurrection to be raised again.

41. And when they see you, they take you in mockery. (They say) is this the one whom Allah had sent as Rasool (Messenger)?

42. He had almost lead us astray from our gods, had we not adhered with them. They shall soon know the day when they will see the punishment

دوسب سے گمراہ (34)

اور جیک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی
اور اسکے بھائی ہارون کو وزیر کیا، تو ہم نے
فرمایا (35)

تو ہم نے فرمایا: تم دونوں جاؤ اس قوم کی
طرف جس نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، پھر
ہم نے انہیں تباہ کر کے ہلاک کر دیا (36)
اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے رسولوں
کو جھٹلایا، ہم نے ان کو ڈبو دیا اور انہیں
لوگوں کے لیے نشان کر دیا، اور ہم نے
ظالموں کے لیے درد ناک عذاب تیار کر
رکھا ہے (37)

اور عاد اور ثمود اور کوہس والوں کو، اور
ان کے سچ میں بہت سی شکستیں ہیں (38)

اور ہم نے سب سے مثالیں بیان فرمائیں
اور سب کو تباہ کر کے مٹا دیا (39)
اور ضرور یہ ہو آئے ہیں اس بہتی پر جس
پر برا برسائے برساتا تھا، تو کیا یہ اسے دیکھتے نہ
تھے، بلکہ انہیں جی اٹھنے کی امید تھی ہی
نہیں (40)

اور جب ہمیں دیکھتے ہیں تو ہمیں نہیں
گھبراتے مگر غصہ کیا یہ ہیں جن کو اللہ
نے رسول بنا کر بھیجا (41)

قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے
بگادیں، اگر ہم ان پر صبر نہ کرتے اور
اب جانا چاہتے ہیں جن دن عذاب دیکھیں

أَضَلَّ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَ
جَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيْرًا ﴿٣٥﴾

فَعَلَّمْنَا هَارُونَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا فَذَمَّرْنَاهُمْ تَذْمِيرًا ﴿٣٦﴾
وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ
أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً
وَاعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾

وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرُّسُلِ
فَرُوعْنَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٨﴾

وَكُلًّا صَرَّيْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا
تَتْبِيرًا ﴿٣٩﴾
وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي
أَفْطَرْتُمْ مَطَرِ السَّوْدِ أَفْئِدْمُ يَكُونُوا
يُرْوَدُونَ بِأَلْ كَانُوا إِلَّا يَرْجِعُونَ
كَشْرًا ﴿٤٠﴾

وَإِذْ أَرَأَوْكَ أَنَّ يَمْتَعِنُونَ نَكَرًا
هَرُوعًا هَدًّا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا
إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ الْبَيْتِ لَوْلَا
أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهِمْ وَأَوْسَوْتُمْ يَعْلَمُونَ
جِئْنَا بِرُؤُنِ الْعَذَابِ مَنْ أَضَلَّ

as to who was misled from the way.

43. Have you (O dear Muhammad) seen the one who takes his (her) low desires as his(her) god? Could you then take the responsibility of being a caretaker over him (her)?

44. Or do you think that most of them hear and understand? They are not but like cattle. Rather they are worstly straying from the right way.

SECTION 5

45. (O dear Rasool Muhammad S.A.W.) have you not seen how your Rubb (Sustainer) spreads the shadow? And if He had Willed, He would have made it still. Then We (Allah) make the sun its guide;

46. then We draw it up towards Us (Allah) in a slow drawing.

47. And it is He Who makes the night a covering and the sleep a rest for you and makes the day to rise up again.

48. And it is He Who sends winds, bearing good news before His Mercy, and We (Allah) send down pure water from the sky;

49. so that We (Allah) may thereby give life to a dead land, and quench the thirst of what We (Allah) have created, the cattle and the people in great numbers.

50. And certainly, We (Allah) have fixed turn (of water) amongst them that they may act upon the message but most people do not accept but become ungrateful.

کے کہ کون گمراہ تھا (42)

کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے ہی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، تو کیا تم اس کی تمسبیٰ کاوڑ لو گے (43)

یا یہ سمجھتے ہو کہ ان میں بہت کچھ سننے یا سمجھنے ہیں، وہ تو میں مگر جیسے چہانے، بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ (44)

اے محبوب! کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا، کہ کیسا پھیلا یا سایہ اور اگر چاہتا تو اسے ٹھہرایا ہوا کرتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل کیا (45)

پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹا (46)

اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ کیا اور نیند کو آرام اور دن بنایا اٹھنے کے لیے (47)

اور وہی ہے جس نے ہوائیں بھیجیں اپنی رحمت کے آگے مژدہ سناٹی ہوئی، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا پاک کرنے والا (48)

تاکہ ہم اس سے زخمہ کریں کسی مردہ شجر کو، اور اسے پلائیں اپنے بنائے ہوئے بہت سے چہانے اور آدمیوں کو (49)

اور چمک ہم نے ان میں پانی کے پھیرے رکھے، کہ وہ وحیاً کریں، تو بہت لوگوں نے نہ مانا، مگر باہماری کرنا (50)

سَبِيلًا ۝

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ
أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا ۝

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ الْأَنْفُسَ لَيْسَ عَمَلُهَا
أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ
بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ
لَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا
الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝

ثُمَّ قَفَّضْنَا مِنَ الْأَرْضِ أَنْبِيَاءَ
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا
اللَّيْلَ وَسَيَاتَهَا جَعَلَ الْغَمَامَ غَمَامًا
وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا لِيُبْثِرَ
بِعَذَابِنَا أَسْمَاءًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً طَهُورًا ۝

لِيُبْثِرَ بِعَذَابِنَا أَسْمَاءًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً طَهُورًا ۝

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيُبْذَرُوا
فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا ۝

51. And if We (Allah) had Willed, We (Allah) would have sent a warner in every town.

52. Do not yield to the disbelievers and wage a struggle against them (with this Qur'aan) as a strenuous struggle.

53. And it is He Who made two seas to flow together, the one is sweet and tasteful and the other one is salty, bitter. And yet He placed a barrier in between them and a great partition as an unsurmountable obstruction.

54. And it is He Who created the human beings from water sprout, and then established blood kinship and marriage relationship. And your Rubb (Sustainer) is All-Powerful.

55. And they worship besides Allah that which neither profits them nor can harm them and a disbeliever helps satan (devil) against his Rubb (Sustainer).

56. And We (Allah) have not sent you except as a bearer of good news and as a warner.

57. Please declare, "I do not ask you any wage for this but whoso wills may take a

way towards his Rubb (Sustainer).

58. And put your trust in the Ever Living Who will never die and glorify Him. He is fully aware of the sins of His devotees.

59. He created the heavens and the earth and whatever is between them, in six periods and He is firmly established in His Authority (befitting His Dignity) as Rehman (the

اور اگر ہم چاہے تو ہر سیتی میں ایک ڈر سناے والا بھیجے (51)

تو کافروں کا کمانہ مان' اور اس قرآن سے ان پر جہاد کر بڑا جہاد (52)

اور وہی ہے جس نے طے ہوئے روال کیے دو سمندر' یہ میٹھا ہے نہایت شیریں' اور یہ کھاری ہے نہایت تلخ' اور ان کے بیچ میں پردہ رکھا' اور روکی ہوئی آڑ (53)

اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا آدمی پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر کی' اور تمہارا رب قدرت والا ہے (54)

اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں جو ان کا بھلا برا کچھ نہ کریں' اور کافر اپنے رب کے مقابل شیطان کو مدد دیتا ہے (55)

اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشی اور ڈر سناٹا (56)

تم فرماؤ! میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا' مگر جو چاہے کہ اپنے رب کی طرف راہ لے (57)

اور مجھو سنا کہ اس زندہ پر جو کبھی نہ مرے گا' اور اسے سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو' اور وہی کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر خیروار (58)

جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دن میں بنائے' پھر عرش پر استوا فرمایا' جیسا اس کی شان کے

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ
تَدْبِيرًا ﴿٥١﴾

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ
بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا
عَذْبًا فَرَاتًا وَهَذَا يَمِلُّمُ أَجَاجٍ
وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِجْرًا
مُحْجَبًا ﴿٥٣﴾

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا
فَجَعَلَكَ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ
قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا
يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ
عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٦﴾

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجْرٍ إِلَّا
مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾

وَلَوْ كُنَّ عَلَىٰ الْعِلْمِ الَّذِي لَا يَمُوتُ
وَسِعَتْهُ حِمْدُهُ وَلَقَدْ يَبْدُؤُنَّ بِالْإِثْمِ
خَيْرًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ ﴿٥٨﴾

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ
مَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ
عَلَى الْعَرْشِ ۗ وَالرُّحْمٰنُ فَسُكُنْ

most Affectionate). So ask concerning Him from anyone who knows it."

60. And when it is said to them, prostrate yourself before Rehman (the most Affectionate), they say, "what is Rehman (the most Affectionate)? Should we prostrate to such one whom you impose on us." And this increases their aversion.

[A Muslim who recites this verse or listens its recitation should prostrate with forehead on the ground in ablution facing Ka'aba].

SECTION 6

61. Blessed is He Who made constellations in the sky and placed therein a lamp and a shining moon.

62. And it is He Who has made the night and day in succession changing one another, for those who pay attention or appear grateful.

63. And the devotees of Rehman (the most Affectionate) are those who walk on the earth in humbleness and when some ignorant addresses them, they say, "peace".

64. and those who pass the night for their Rubb (Sustainer) in prostration and standing;

65. and those who submit, "O our Rubb Sustainer) turn away from us the punishment of the hell; surely, its punishment is everlasting one.

66. Surely, it is an evil abode and evil place to stay.

67. And those who, when they spend, are neither extravagant nor they are miser but remain in between the two on the middle path.

لا تَقْبَلُ لَهُمْ سِجْدَ الَّذِينَ لَا لِقَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا لِقَاءَ رَبِّهِمْ ۗ

اور جب ان سے کہا جائے رُحْمٰن کو سجدہ کرو، کہتے ہیں رُحْمٰن کیا ہے؟ کیا ہم سجدہ کر لیں جسے تم کہو؟ اور اس حکم کے انہیں اور بد کرنا پڑھایا (60)

یہ حَبِیْرًا ۝۱۹

وَإِذِ اقْتَبِلْ لَهُمُ اسْمُ الْجَحْمِ
قَالُوا وَمَا الْجَحْمُ اسْمُ الْجَحْمِ
تَأْمُرُونَا بِمَا نُرِيدُ ۗ

بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے، اور ان میں چراغ رکھا اور چمکا چاند (61)

اور وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی، اس کے لیے جو دھیان کرنا چاہے، یا شکر کا ارادہ کرے (62)

اور رحمان کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں، بس سلام (63)

اور وہ جو رات کاتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں (64)

اور وہ جو عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب! ہم سے پھیر دے جہنم کا عذاب، بیشک اس کا عذاب گلے کا نخل (پھندا) ہے (65)

بیشک وہ بہت ہی بُری ٹھہرنے کی جگہ ہے (66)

اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں، نہ حد سے بڑھیں، اور نہ تنگی کریں، اور ان دونوں کے سچ احتمال پر رہیں (67)

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۝۱۹

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۝۲۰

وَعِبَادَ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝۲۱

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝۲۲

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝۲۳

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝۲۴
وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا لَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝۲۵

68. And those who do not take for worship any one else except Allah, and kill none unjustly which Allah has forbidden and do not commit adultery; and whose does this shall meet the penalty of his sin;

69. punishment of which shall be doubled for him (her) on the Day of Resurrection, and he (she) shall abide therein for ever, disgraced;

70. except the one who repents and believes and does righteous deeds. Allah will change their vices with virtues. And Allah is Forgiving, Merciful.

71. And whose repents and does righteous deeds certainly turns towards Allah in a due manner.

72. And those who do not bear witness to what is false and when they pass by any nonsense they leave it up keeping their dignity;

73. and those who are reminded of the Verses of their Rubb (Sustainer) do not take them as deaf and blind threat.

74. And those who say, "O our Rubb (Sustainer) grant us in our wives and children the joyous coolness of eyes and make us the leaders of the righteous.

75. Those shall be rewarded with the highest palaces (in Paradise) because they were steadfast. And they will be received there in with greetings and peace;

76. to remain therein for ever. What a decent place of rest and habitation it is.

77. Please declare, "my Rubb (Sustainer) cares little for you if you do not worship

اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے، اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی، ناحق نہیں مارتے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے، وہ سزا پائے گا (68)

بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن، اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا (69)

مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے، تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے (70)

اور جو توبہ کرے اور اچھا کام کرے، تو وہ اللہ کی طرف رجوع لایا جیسی چاہیے حتیٰ (71)

اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب بے ہودہ پر گزرتے ہیں، اپنی عزت سنبھالے گزر جاتے ہیں (72)

اور وہ کہ جب کہ انہیں ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں، تو ان پر سرے اندھے ہو کر نہیں گرتے (73)

اور وہ جو عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب! ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیروا بنا (74)

ان کو جنت کا سب سے اونچا بالا خانہ انعام ملے گا، بدلا ان کے صبر کا، اور وہاں ہجرے اور سلام کے ساتھ ان کی پیروائی ہوگی (75)

ہمیشہ اس میں رہیں گے، کیا ہی اچھی ٹھہرنے اور بسنے کی جگہ (76)

تم فرماؤ! تمہاری کونسی قدر نہیں میرے رب

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْإِبْرَاقِ وَلَا يُزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ

يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۖ

الْإِمْنُ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۖ

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۖ

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الرُّودَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۖ

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صَبِيًا وَعُمِيًّا ۖ

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۖ

أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ الْعُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ۖ خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسَقَّدًا وَمَقَامًا ۖ

قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دَعَاكُمْ

Him. Even then indeed you belied. Therefore, soon you will face the inevitable punishment.

[ONE FOURTH OF PART
19 ENDS]

S. XXVI

SURA SHO'ARA
(THE POETS)

Revealed at Makkah

(227 Verses, 11, Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. Taa, Seen, Meem
(T.S.M.)

2. These are the Verses of the manifest Book (which makes things clear).

3. • Perhaps you (Muhammad) will finish yourself with the grief that they do not become believers.

4. If We (Allah) Willed, We (Allah) could send down any evidence upon them from the heavens, that their necks had bowed down in humility.

5. But new message does not come to them from the most Affectionate, that they turn away from it.

6. So indeed they have rejected the truth. Therefore, the news of that which they mocked shall come to them.

7. Have they not seen the earth, how many beneficial plants have We (Allah) produced therein?

8. Surely, therein is a sign, but most of them do not believe.

9. And surely, your Rubb (Sustainer) is the most Honorable, the most

Merciful.

SECTION 2

کے یہاں اگر تم اسے نہ پہچو تو تم نے
تو بھلائی، تو اب ہو گا وہ عذاب کہ پت
رہے گا (77)

سورہ شعرا کی ہے (اس میں) دو سو
ستائیس (227) آیات اور گیارہ (11) رکوع
(ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نایت مرمان
رحم والا
مسم (1)

یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی (2)

کسیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے
غم میں کہ وہ ایمان نہیں لائے (3)

اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر کوئی نشانی
اتاریں کہ ان کے اونچے اونچے اس کے
حضور جگھے رہ جائیں (4)

اور نہیں آئی ان کے پاس رحمن کی طرف
سے کوئی نئی نصیحت، مگر اس سے منہ پھیر
لیتے ہیں (5)

تو جیک انہوں نے بھلائی، تو اب ان پر آیا
ہاتھی ہیں خبریں ان کے غصے کی (6)

کیا انہوں نے زمین کو نہ دکھا، ہم نے
اس میں کتنے عزت والے جوڑے لگائے
(7)

بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان
کے اکثر ایمان لانے والے نہیں (8)

اور جیک تمہارا رب ضرور وہی عزت والا
مرمان ہے (9)

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَوَاجِعِكُمْ

فَأَسْمَانُ تَارَةً فَخِصْبُ الْعِثْمِ الْمَرْبُوعِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

طَسَمَ ۝ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ

الْمُبِينِ ۝

لَعَلَّكَ بَآخِرَ نَفْسِكَ الْإِكْرَامُ ۝

مُؤْمِنِينَ ۝

إِن تَشَاءُ نُنزِلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ

آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ۝

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ

مُحَدِّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۝

فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَاءَ لَهُمْ أَنبَاءُ مَا

كَانُوا يَهِيمُونَ ۝

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا

فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ

مُؤْمِنِينَ ۝

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

10. And recall (dear Muhammad) when your Rubb (Sustainer) directed Moosaa (Moses) to go to the cruel people;

11. the people of Firawn (Pharaoh). Will they not become pious?

12. He said, "O my Rubb (Sustainer) surely, I fear that they will treat me a liar."

13. "And my breast straitens and my tongue is not fluent, therefore, make also Haroon (Aaron) a Rasool (Messenger)."

14. "And they also have a charge against me, so I fear that they may kill me."

15. (Allah) said, "no indeed go both of you with Our (Allah) signs. We (Allah) are with you listening.

16. Go to Firawn (Pharaoh) and say to him, "both of us are the Rasools (Messengers) of Him Who is the Rubb (Sustainer) of the universe";

17. "send the children of Issraael with us".

18. Firawn (Pharaoh) said, "did we not sustain you (Moses) among us in your childhood, and you did pass among us many years of your life?"

19. and you did a serious deed which you know, but you are still ungrateful".

20. (Moses) said, "I did that when I was on the error".

21. "So I fled from you when I became fearful of you. Then my Rubb (Sustainer) bestowed me wisdom and made me as one of the Rasools (Messengers)"

22. And what is the favour with which you taunt me but

اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو ندا فرمائی کہ غلام لوگوں کے پاس جا (10)

جو فرعون کی قوم ہے، کیا وہ نہ ڈریں گے (11)

عرض کی! اے میرے رب! میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے (12)

اور میرا سینہ تنگی کرتا ہے، اور میری زبان نہیں چلتی تو تو ہارون کو بھی رسول کر (13) اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہیں مجھے قتل کر دیں (14)

فرمایا: یوں نہیں، تم دونوں میری آیتیں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سنتے ہیں (15)

تو فرعون کے پاس جاؤ، پھر اس سے کہو، ہم دونوں اس کے رسول ہیں جو رب ہے سارے جہان کا (16)

کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے (17)

بولاً! کیا ہم نے تمہیں اپنے یہاں بچپن میں نہ پالا، اور تم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی برس گزارے (18)

اور تم نے کیا اپنا وہ کام جو تم نے کیا، اور تم ناشکر تھے (19)

موسیٰ نے فرمایا: میں نے وہ کام کیا جب کہ مجھے راہ کی خبر نہ تھی (20)

تو میں تمہارے یہاں سے نکل گیا جب کہ تم سے ڈرا، تو میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا، اور مجھے پیغمبروں سے کیا (21)

اور یہ کوئی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جانتا ہے، کہ تو نے غلام بنا کر

وَأَذِّنَاذِي رَبِّكَ مُوسَىٰ أَنْ أُنْتِ
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾
قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَتَّقُونَ ﴿١١﴾

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿١٢﴾

وَيُضَيِّقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ

لِسَانِي فَأُرْسِلُ إِلَىٰ هَرُونَ ﴿١٣﴾

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ

يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾

قَالَ كَلَّا فَإِذْ هَبْنَا بَيْنَنَا بِرَأْسِكَ

مُسْمِعُونَ ﴿١٥﴾

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

أَنْ أُرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٧﴾

قَالَ أَلَمْ نَرْبِكُمْ فِينَا وَبَيْنَا أَوْلِيَّتًا

فِينَا مِنْ عِبَرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾

وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَ

أَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿١٩﴾

قَالَ فَعَلْتِمَا أَرَادَا أَنَا مِنْ

الصَّالِحِينَ ﴿٢٠﴾

فَقَرَّرْتُ مِنْكُمْ لِمَا حَفِظْتُمْ فَوَهَبَ

لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ إِذْ نَبَذْتُ

you have enslaved the children of Issraael.

23. Firawn (Pharaoh) asked, "who is the Rubb (Sustainer) of the universe?"

24. He (Moses) replied, "He (Allah) is the Rubb (Sustainer) of the heavens and the earth and all that is between them, if you have any faith".

25. Firawn (Pharaoh), said to those around him, "do you not listen (what he says?)"

26. He (Moses) said, He is "your Rubb (Sustainer) and the Rubb (Sustainer) of your fathers".

27. He (Firawn) said, "surely your this Rasool (Messenger), who has been sent to you, is a mad man".

28. He (Moses) said 'He is the Rubb of the east and the west and all that lies between them', if only you could understand.

29. He (Firawn) said, "certainly if you (people) worship someone else except me, then I shall throw you in the prison."

30. (Moses) said 'even if I show you a convincing sign?'

31. He (Pharaoh) said, "bring it if you are truthful".

32. He (Moses) threw down his rod (staff) which became a big serpent; manifest.

33. And he drew out his hand looking shining white to all the beholders.

SECTION 3

34. (Pharaoh) said to the chiefs around him, "surely, he is a skilful magician";

35. "who desires to expel you from your land by the power of his magic. What do you advise?"

رکے بنی اسرائیل (22)

فرعون بولا! اور سارے جہان کا رب کیا

ہے؟ (23)

موسیٰ نے فرمایا: رب آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اگر تمہیں یقین ہو (24)

اپنے آس پاس والوں سے بولا! کیا تم غور سے سنتے نہیں؟ (25)

موسیٰ نے فرمایا: رب تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا (26)

بولا! تمہارے یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، ضرور مصل نہیں رکھتے (27)

موسیٰ نے فرمایا: رب پورب اور پچم (شرق و مغرب) کا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تمہیں عقل ہو (28)

بولا! اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا ٹھہرایا، تو میں ضرور تمہیں قید کردوں گا (29)

فرمایا: کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشنی چھ لادوں (30)

کہا: تو لاؤ، اگر سچے ہو (31)

تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، جسی وہ صرغ اٹوڑھا ہو گیا (32)

اور اپنا ہاتھ نکالا، تو جسی وہ دیکھے والوں کی نگاہ میں جھلکانے لگا (33)

بولا! اپنے گرد کے سرداروں سے، کہ بیٹک یہ دانا جاؤ گے (34)

چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اپنے جادو کے زور سے، تب تمہارا کیا مشورہ ہے (35)

بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝۲۲

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝۲۳

قَالَ رَبُّ الْمَسْمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا

بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ۝۲۴

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ آلَا تَسْمَعُونَ ۝۲۵

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۝۲۶

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ

لَمَجْنُونٌ ۝۲۷

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا

بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۝۲۸

قَالَ لِمَنِ اتَّخَذَتِ الْيَهُودُ عِزِّي

لَا جَعَلْنَاكَ مِنَ الْمُسْجُوزِينَ ۝۲۹

قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتِكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ۝۳۰

قَالَ فَاتِّبِعْ رَبِّهَ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ

الصَّادِقِينَ ۝۳۱

فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۝۳۲

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ

بِالْبَيْضِ ۝۳۳

قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِن هَذَا السَّحْرُ

عَلَيْكُمْ ۝۳۴

يُؤَيِّدَانِ يُخْرِجُكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ

بِصَوْرِهِمْ فَمَاذَا أُنْمُرُونَ ۝۳۵

36. They said, "keep him and his brother in suspense and send the callers in the cities";

37. "that they may bring to you every skilful magician."

38. So the magicians were assembled together at a fixed time on an appointed day.

39. And it was said to the people, "will you get together?"

40. "So that we may follow these magicians if they win."

41. When the magicians came, they said to Firawn (Pharaoh), "will we get some reward if we win?"

42. He (Pharaoh) said, "yes, and in that case you will be in our nearness".

43. Moosaa (Moses) said to them, "you cast down what you have to cast".

44. Therefore, they cast down their ropes and their sticks and said, 'by Firawn's (Pharaoh's) honor, we shall surely, be victorious."

45. Then Moosaa (Moses) cast down his staff (rod), and please recall, it began to swallow their fabrications.

46. Thereupon the magicians fell down prostrate.

47. They (magicians) said, "we believe in the Rubb (Sustainer) of the universe";

48. "the Rubb (Sustainer) of Moosaa (Moses) and Harooh (Aaron)."

49. He (Pharaoh) said, "do you believe in him before I gave you permission? Surely, he is your chief who has taught you the magic; but you will soon know (the consequence). Certainly I shall cut off your hands and your feet from opposite sides,

وہ بولے! انہیں اور ان کے بھائی کو
غمرائے رہو! اور شہروں میں جمع کرنے
والے بھیجو (36)

کہ وہ تمہارے پاس لے آئیں ہر بڑے
جادوگر دانا کو (37)

تو جمع کیے گئے جادوگر ایک مقرر دن کے
وعدہ پر (38)

اور لوگوں سے کہا گیا: کیا تم جمع ہو گئے
(39)

شاید! ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں،
اگر یہ غالب آئیں (40)

پھر جب جادوگر آئے، فرعون نے بولے!
کیا ہمیں کچھ مزدوری ملے گی اگر ہم
غالب آئے؟ (41)

بولے! ہاں! اور اس وقت تم میرے مقرب
ہو جاؤ گے (42)

موسیٰ نے ان سے فرمایا: ڈالو جو تمہیں
ڈالنا ہے (43)

تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاشیاں
ڈالیں، اور بولے! فرعون کی عزت کی قسم!
بیگ ہماری جیت ہے (44)

تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، جیسی وہ ان کی
باتوں کو نکلنے لگا (45)

اب سجدہ میں گرے (46)

جادوگر بولے! ہم ایمان لائے اس پر جو
سارے جہان کا رب ہے (47)

جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے (48)

فرعون بولا! کیا تم اس پر ایمان لائے قتل
اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، بیگ
وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو
سکھایا، تو اب جانا چاہتے ہو مجھے قسم ہے!

بیگ میں تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف

قَالُوا الرَّجْعَةُ وَالْحَاقَةُ وَإِنَّا نَبْعَثُ فِي
الْمَدَائِنِ حَشِيرِينَ ﴿٣٦﴾

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَابٍ عَلَيْهِمْ ﴿٣٧﴾

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِبِقَاعَاتِ يَوْمٍ مُّعَيَّنَةٍ ﴿٣٨﴾

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُّجْتَمِعُونَ ﴿٣٩﴾

لَعَلَّنَا نَبِيعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ
الْغَالِبِينَ ﴿٤٠﴾

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا الْفِرْعَوْنُ

إِنَّا لَنَأْتِيهِمْ إِنْ كُنَّا نَحْنُ

الْغَالِبِينَ ﴿٤١﴾

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّمَا إِذِ الْبِئْسَ الْمَقَرِّينَ ﴿٤٢﴾

قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوْمَ الَّذِينَ تَلْفُونَ ﴿٤٣﴾

فَالْقَوْمِ اجْبَاهِهِمْ وَصَيْبِهِمْ وَقَالُوا

بِعَذْرَةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾

فَالْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ

مَا يَأْتِيهِمْ ﴿٤٥﴾

فَالْقَى السَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿٤٦﴾

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾

رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿٤٨﴾

قَالَ أَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذِنَ لَكُمْ

أَنَّهُ لِكَبِيرِكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ

فَلَسَوْفَ نَعْلَمُونَ لَأَوْطَعَنَ أَيْدِيَكُمْ

وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا وَصِيلَتَكُمْ

and certainly I shall crucify you altogether."

50. They said, "no matter. We are surely to return to our Rubb (Sustainer)."

51. "We are eager that our Rubb (Sustainer) may forgive our wrongs, because we are among the foremost believers."

SECTION 4

52. And We (Allah) revealed to Moosaa (Moses) to take away My devotees by the the night. Surely, you are to be pursued.

53. So, Firawn (Pharaoh) sent callers in the cities;

54. (saying) "surely they are a small band";

55. "yet they have surely offended us";

56. "and surely, we are all vigilant multitude.

57. Thus, We (Allah) made them to leave their gardens and springs;

58. and treasures and fine abodes.

59. So it was. And We (Allah) gave them the children of Issraael.

60. They (Firawnese) followed and overtook them at the sunrise.

61. Then when the two groups saw each other, the companions of Moosaa (Moses) said, "we are surely overtaken".

62. He (Moses) said, "no indeed, surely, my Rubb (Sustainer) is with me. He will soon guide me."

63. Then We revealed to Moosaa (Moses) to strike the sea with the staff (rod). So it

کے پاس کالوں کا اور تم سب کو سول
دوں گا (49)

وہ بولے! 'کچھ نقصان نہیں' ہم اپنے رب
کی طرف پلٹنے والے ہیں (50)

ہمیں ملے ہے کہ ہمارا رب ہماری خطا میں
بخش دے، اس پر کہ ہم سب سے پہلے
ایمان لائے (51)

اور جسے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات
میرے بندوں کو لے نکل، چیک تسمارا
بچھا ہوا ہے (52)

اب فرعون نے شہروں میں جمع کرنے
والے بھیجے (53)

کہ یہ لوگ ایک تموزی جماعت ہیں
(54)

اور چیک وہ ہم سب کا دل جلاتے ہیں
(55)

اور چیک ہم سب چوکے ہیں (56)
تو ہم نے انہیں باہر نکالا یاغوں اور چشموں

(57)
اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے (58)

ہم نے ایسا ہی کیا اور ان کا وارث کر دیا
بنی اسرائیل کو (59)

تو فرعونوں نے ان کا تعاقب کیا دن نکلے
(60)

پھر جب آتنا سامتا ہوا دونوں گروہوں کا
موسیٰ والوں نے کہا، 'ہم کو انہوں نے آ لیا
(61)

موسیٰ نے فرمایا: یوں نہیں، چیک میرا رب
میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دتا ہے
(62)

تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا
حصا مار، تو جیسی دریا پھٹ گیا، تو ہر حصہ

أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾
فَأَلْوَأَلِضِرِّبَاتِ إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾

إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبِّنَا خَطِيئَتَنَا
فَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي
إِنَّكَ مُتَّبَعُونَ ﴿٥٢﴾

فَلَمَّا سَلَ فَنَزَعُنَا فِي الْمَدَائِنِ
حَشِيرِينَ ﴿٥٣﴾

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٤﴾
وَأِنَّهُمْ لَنَا لَأَعْيُظُونَ ﴿٥٥﴾

وَأَلَّا يَجْمَعَهُمْ حُزْرُؤُنَا ﴿٥٦﴾
فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَدَّتِ وَعَيْبُونَ ﴿٥٧﴾
وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾

كَذَلِكَ وَأَوْزَيْنَاهُمَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾
فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾

فَلَمَّا تَرَأَىٰ الْأَجْمَعِينَ قَالِ أَصْحَابُ
مُوسَىٰ إِنَّ الْمُدْرِكُونَ ﴿٦١﴾

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾
فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ
بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ

was split, and every part looked like a big mountain.

64. And We (Allah) brought others nearer there.

65. And We (Allah) saved Moosaa (Moses) and those with him, altogether.

66. Then We (Allah) drowned the others.

67. Surely, in that is a sign but most of them are not believers (Muslims).

68. And surely, your Rubb (Sustainer) is the most

Honorable, the most Merciful.

SECTION 5

69. And relate to them the state of Ibraaheem (Abraham).

70. When he said to his father and his people, "what do you worship?"

71. They said, "we worship idols, so we shall remain sitting devoted before them."

72. He said, "do they hear you when you call"?

73. "Or do they profit or harm you"?

74. They said, "no we found our fathers doing so".

75. He said, "have you considered what you have been worshipping?"

76. "you and your forefathers"?

77. "Surely, they are all enemies to me except the Rubb (Sustainer) of the universe";

78. "Who created me and it is He Who guides me;

79. "and Who gives me to eat and to drink";

80. "and when I am sick He heals me";

81. "And Who will cause me to die, then again will give me life"

ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ (63)

اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو (64)

اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو (65)

پھر دوسروں کو ڈبو دیا (66)

بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے (67)

اور بیشک تمہارا رب وہی عزت والا مہربان ہے (68)

اور ان پر پڑھو خیر ابراہیم کی (69)

جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا: تم کیا پوجتے ہو؟ (70)

بولے! ہم بتوں کو پوجتے ہیں، پھر ان کے سامنے آسن مارے (پوجا کے لئے بیٹھے) رہتے ہیں (71)

فرمایا کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم پکارو (72)

یا تمہارا کچھ بھلا برا کرتے ہیں (73)

بولے! بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا (74)

فرمایا: تو کیا تم دیکھتے ہو یہ جنہیں پوج رہے ہو (75)

تم اور تمہارے اگلے باپ دادا (76)

بیشک وہ سب میرے دشمن ہیں مگر پروردگار عالم (77)

وہ جس نے مجھے پیدا کیا، تو وہ مجھے راہ دے گا (78)

اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے (79)

اور جب میں بیمار ہوں، تو وہی مجھے شفا دیتا ہے (80)

اور وہ مجھے وفات دے گا، پھر مجھے زندہ کرے گا (81)

كُلُّ نَفْسٍ بِالسُّؤْدِ الْعَظِيمِ ۝۳۷

وَاذْلَقْنَا تَمْرَ الْآخِرِينَ ۝۳۸

وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۝۳۹

كَجَمْعَيْنِ ۝۴۰

ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْآخِرِينَ ۝۴۱

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ لِذَٰلِكَ ۝۴۲

مُؤْمِنِينَ ۝۴۳

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝۴۴

وَأْتَلَّ عَلَيْهِمْ بُنَىٰ الْإِبْرَاهِيمَ ۝۴۵

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَتَوَمِّدْ مَا تَعْبُدُونَ ۝۴۶

قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظُرُ لَهَا ۝۴۷

عَافِيَةً ۝۴۸

قَالَ هَلْ يُسْمِعُونَكُمُ إِذْ تَدْعُونَ ۝۴۹

أَوْ يَنْفَعُونَكُمُ أَوْ يَضُرُّونَ ۝۵۰

قَالُوا هَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ ۝۵۱

يَفْعَلُونَ ۝۵۲

قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كَانَتُمْ تَعْبُدُونَ ۝۵۳

أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَامُونَ ۝۵۴

فَأَنْبَهُمْ عَدُوِّي الْأَرَبِ الْعُلَمَاءُ ۝۵۵

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يُهْدِينِ ۝۵۶

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيُنْقِئُنِي ۝۵۷

وَإِذَا مَرَضْتُ هُوَ يُشْفِينِي ۝۵۸

وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي ۝۵۹

82. "and Who, I hope will forgive me my mistakes on the Day of Judgement."

83. "O my Rubb (Sustainer) bestow wisdom on me and join me with the righteous";

84. "and give me a true reputation among the later generations";

85. "and make me among the heirs of the Paradise of delight."

86. "and forgive my father, surely he is among the erring over";

87. "and do not disgrace me on the day when all shall be raised up";

88. "on that day neither wealth nor sons will be of any benefit";

89. "except he who brings to Allah a sound heart."

90. And the Paradise shall be brought near to the pious;

91. and the hell shall be opened for the erroneous;

92. and it will be said to them, "where are those whom you used to worship?";

93. "besides Allah? Can they help you or help themselves?";

94. So they shall be thrown, heading into it, with the erroneous ones;

95. including the bands of Iblis (devil), all together.

96. They shall say while disputing therein among themselves;

97. "by Allah, we were certainly in clear error";

98. "when we made you (satan) equal to the Rubb (Sustainer) of the universe";

اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا (82)

اے میرے رب! مجھے حکم عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو میرے قرب خاص کے سزاوار ہیں (83)

اور میری جی ناموری رکھ بچپلوں میں وارث ہیں (84)

اور مجھے ان میں کر جو جہنم کے بانوں کے وارث ہیں (85)

اور میرے باپ کو بخش دے، بیشک وہ گمراہ ہے (86)

اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے (87)

جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے (88)

مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر (89)

اور قریب لائی جائے گی جنت پر ہیرو گاروں کے لیے (90)

اور ظاہر کی جائے گی دوزخ گمراہوں کے لیے (91)

اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم پوجتے تھے؟ (92)

اللہ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا بدلائیں گے (93)

تو اونہما دیئے گئے جہنم میں وہ اور سب گمراہ (94)

اور انہیں کے لشکر سارے (95)

کیسے گئے، اور وہ اس میں باہم جھگڑتے ہوں گے (96)

خدا کی قسم! بے شک ہم کلی گمراہی میں تھے (97)

جب کہ تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے (98)

وَالَّذِي أَطْعَمُنَا أَنْ يَقْفِزَ فِي خَيْطِئِي
يَوْمَ الدِّينِ ①

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَاجْعَلْنِي
بِالضَّالِّينَ ②

وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي
الْآخِرِينَ ③

وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ④

وَاعْفُرْ لِي زَلَاتِي وَأَعِزَّنِي
يَوْمَ يُنْفَخُ السُّورُونَ ⑤

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ⑥

إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ⑦

وَأَلْقِ الْجَنَّةَ لِمَنَّمِينَ ⑧

وَيُزَيَّرُ الْجَحِيمَ لِلْغَاوِينَ ⑨

وَقِيلَ لَهُمْ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ ⑩

مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصَرُونَكُمْ
أَوْ يَنْتَصِرُونَ ⑪

فَلْيَكُونُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ الْغَاوِينَ ⑫

وَجُنُودَ إبْلِيسَ اجْمَعُونَ ⑬

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ⑭

تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ⑮

إِذْ سَوَّيْنَاكُمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ⑯

99. "and none led us on the wrong way but the criminals."

100. "Now we have no intercessors";

101. "nor a true friend."

102. "But if we could return again, we would be among the believers (Muslims)".

103. Surely, in it there is a sign, but most of them did not believe.

104. And surely, your Rubb (Sustainer) is the most Honorable, the most Merciful.

SECTION 6

105. The people of Nuh (Noah) treated the Rasools (Messengers) as liars;

106. when their brother Nuuh (Noah) said to them, "will you not be pious"?

107. "Surely, I am trustworthy Rasool (Messenger of Allah) for you";

108. "so, fear Allah and obey me."

109. "And I do not ask you any reward for this. My reward is only with the Rubb (Sustainer) of the universe";

110. "So fear Allah and obey me."

111. They said, "shall we believe you whereas the meanest ones have follow you".

112. He said, "I have no knowledge of what they do"?

113. "Their account is only upon my Rubb (Sustainer), if you could understand".

114. "And I am not to drive away the believers (Muslims)."

115. "I am only a plain warner."

116. They said, "O· Nuuh (Noah)! certainly, you will be

اور ہمیں نہ بکایا مگر مجرموں نے (99)

تو اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں (100)

اور نہ کوئی خزار دوست (101)

تو کسی طرح ہمیں بھر جانا ہوتا، کہ ہم مسلمان ہو جاتے (102)

بے شک اس میں ضرور نشانے ہے، اور ان میں بہت ایمان والے نہ تھے (103)

اور بیشک تمہارا رب وہی عزت والا مہربان ہے (104)

نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا (105)

جب کہ ان سے ان کے ہم قوم نوح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ (106)

بیشک میں تمہارے لیے اللہ کا بیجا ہوا امین ہوں (107)

تو اللہ سے ڈرو، اور میرا حکم مانو (108)

اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے (109)

تو اللہ سے ڈرو، اور میرا حکم مانو (110)

بولے! کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں، اور تمہارے ساتھ کہنے ہوئے ہیں (111)

فرمایا: مجھے کیا خبر ان کے کام کیا ہیں؟ (112)

ان کا حساب تو میرے رب ہی پر ہے اگر تمہیں حس ہو (113)

اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں (114)

میں تو نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا (115)

بولے! اے نوح! اگر تم باز نہ آئے، تو

وَمَا أَصَلْنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿١٠٠﴾

وَلَا صَدِيقٍ حَقِيبٍ ﴿١٠١﴾

فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةٌ فَنَكُودُونَ ﴿١٠٢﴾

الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٥﴾

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٦﴾

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٧﴾

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٨﴾

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا

قَالُوا الْاٰؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ

الْاٰذْرٰؤُنَ ﴿١١٠﴾

قَالَ وَمَا عَلَيَّ بِمَا كٰؤُنَ يَعْمَلُوْنَ ﴿١١١﴾

اِنْ حَسٰبُهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّىْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ﴿١١٢﴾

وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٣﴾

اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١١٤﴾

قَالُوْا لِيْنِ لَعْنَتُهُ يَوْمَ تَلْكُوْنَ

stoned if you do not give over (preaching)."

117. He said, "O my Rubb (Sustainer) my people have treated me as a liar."

[HALF OF PART 19 ENDS]

118. Therefore, decide between me and them justly and save me and the believers (Muslims) with me".

119. So We (Allah) saved him and those with him in a laden Ark.

120. Then We (Allah) drowned the rest thereafter who remained.

121. Surely, in it there is a sign, but most of them were not believers (Muslims).

122. And surely, your Rubb (Sustainer) is the most Honorable, the most Merciful.

SECTION 7

123. And they falsified their Messengers.

124. When their brother-Hood said to them, "will you not be pious?"

125. "Surely, I am a trustworthy Rasool (Messenger of Allah) for you",

126. "So fear Allah and obey me".

127. "And I ask you no reward for it. My reward is only with the Rubb (Sustainer) of the universe."

128. "Do you build a monument on every prominent place for glory in vain";

129. "and you erect strong fortresses that perhaps you will live for ever."

130. "And when you seize any one you seize like tyrants."

ضروء سگسار کی جاؤ گے (116)

عرض کی! اے میرے رب! میری قوم نے مجھے جھٹلایا (117)

تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات دے (118)

تو ہم نے بچا لیا اسے اور اس کے ساتھ والوں کو بھری ہوئی کشتی میں (119)

پھر اس کے بعد ہم نے ہاتھوں کو ڈبو دیا (120)

بیکگ اس میں ضروء نثانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے (121)

اور بیکگ تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے (122)

عاد نے رسولوں کو جھٹلایا (123)

جب کہ ان سے ان کے ہم قوم ہونے فرمایا: کیا تم ڈرتے نہیں؟ (124)

بیکگ میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں (125)

تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو (126)

اور میں تم سے اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب (127)

کیا ہر بلندی پر ایک نشان بناتے ہو راہ گیزوں سے ہٹنے کو؟ (128)

اور مضبوط محل بنتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے (129)

اور جب کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑی بیدردی سے گرفت کرتے ہو (130)

وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۱۶
قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذَّبُونِ ۝۱۱۷

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۝۱۱۸
مَنْ سَبَّحَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۱۹

فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ۝۱۲۰

ثُمَّ أَعْرَفْنَا بَعْدَ الْبُحَيْرِ ۝۱۲۱

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝۱۲۲

وَإِنْ رِكَابَكَ لَبُؤَالُ الْعَرَبِ الْوَجِيمِ ۝۱۲۳

كَذَّبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ ۝۱۲۴
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُ الْآتِقُونَ ۝۱۲۵

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝۱۲۶
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝۱۲۷

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۝۱۲۸
أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۱۲۹

أَتَّبِعُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ۝۱۳۰

وَتَشْخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُونَ ۝۱۳۱

وَإِذَا ابْطَأْتُمْ بَطَأْتُمْ جُنَّارِينَ ۝۱۳۲

131. "Be pious with Allah and obey me";
 132. "And be pious to Him Who has bestowed you with all that you know."
 133. "He has bestowed you the cattle and sons";
 134. "and gardens and springs."
 135. "Surely, I fear for you the punishment of a mighty day."

136. They said, "it is equal to us whether you admonish us or be not among the admonishers";

137. "this is but the same customary device of the ancients";

138. "and we are not going to be punished."

139. So they rejected him. Therefore, We (Allah) destroyed them (people of Aad). Surely, in it there is a sign; but most of them did not believe.

140. And surely, your Rubb (Sustainer) is the most Honorable, the most Merciful.

SECTION 8

141. The Samood (Thamood) treated the Rasools (Messengers of Allah) as liars.

142. When their brother Saleh said to them, "why do not you become pious"?

143. "Surely, I am a trusted Rasool (Messenger of Allah) for you."

144. "So fear Allah and obey me."

145. "I ask from you no reward for it. My reward is only with Him Who is the Rubb (Sustainer) of the universe."

146. "Will you be left secure with what you have here"?

- تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو (131)
 اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی
 ان چیزوں سے کہ تمہیں مہیوں سے (132)
 تمہاری مدد کی چھاپیوں اور بیٹوں (133)
 اور باغوں اور چشموں سے (134)
 بیکج مجھے تم پر ڈر ہے ایک بڑے دن کے
 عذاب کا (135)

بولے! ہمیں برابر ہے، چاہے تم صحت
 کرو یا ناصحوں میں نہ ہو (136)
 یہ تو نہیں مگر وہی انگوں کی رت (رسم)
 (137)

اور ہمیں عذاب ہونا نہیں (138)
 تو انہوں نے اسے جھٹلایا، تو ہم نے انہیں
 ہلاک کیا، بیکج اس میں ضرور نشان ہے
 اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے (139)

اور بیکج تمہارا رب ہی عزت والا میرا
 ہے (140)

ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا (141)

جب کہ ان سے ان کے ہم قوم صالح نے
 فرمایا: کیا ڈرتے نہیں؟ (142)

بیکج میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار
 رسول ہوں (143)

تو اللہ سے ڈرو، اور میرا حکم مانو (144)

اور میں تم سے کچھ اس پر اجرت نہیں
 مانگتا، میرا اجرت تو اسی پر ہے جو سارے
 جہان کا رب ہے (145)

کیا تم میرا کی نعمتوں میں جہن سے چھوڑ
 دینے جاؤ گے؟ (146)

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا
 وَأَتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾
 أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامِهِ وَبَنِينَ ﴿١٣٢﴾
 وَجَنَّاتٍ وَأَنْهَارٍ ﴿١٣٣﴾
 إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ
 عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾

قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ
 تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٦﴾
 إِنَّ هَذَا إِلَّا الْخَلْقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾
 وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿١٣٨﴾

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ
 لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾
 إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا
 تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا
 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ
 أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٥﴾
 أَتَعْتَدُونَ فِي مَا هَدَيْنَاكُمْ مِنْ
 آمِنِينَ ﴿١٤٦﴾

147. "the gardens and the springs";

148. "and corn fields and palm trees whose fruits are laden to breaking"?

149. "And do you hew out houses in the mountains skilfully."

150. "So be pious to Allah and obey me";

151. and follow not the biddings of those who exceed the limits";

152. "who spread disorder in the earth. And do not keep things right."

153. They said, "you have indeed been be-witched".

154. "You are indeed a man like us, therefore, bring any sign, if you are truthful."

155. He said, "this is a she camel. A day of drinking is fixed for her and day of drinking is fixed for you."

156. "And do not touch her with evil, lest the punishment of the mighty day overtakes you."

157. They hamstrung her but then became fully regretful.

158. So the punishment overtook them. In this there is surely an evidence. But most of them did not believe.

159. And surely, your Rubb (Sustainer) is the most Honorable, the most Merciful.

SECTION 9

160. The people of Luut falsified the Rasools (Messengers).

161. When their brother Luut said to them, "why donot you become pious"?

162. "Surely, I am a trusted Rasool (Messenger of Allah) for you";

ہانوں اور ہشوں (147)

اور کیتوں اور کجوروں میں جن کا ٹکونہ

نرم و نازک (148)

اور پہاڑوں میں سے گھر تراشے ہو استاد

سے (149)

تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو (150)

اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو

(151)

وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور بناؤ

نہیں کرتے (152)

بولے! تم پر تو جادو ہوا ہے (153)

تم تو ہمیں جیسے آدمی ہو، تو کوئی نشانی لاؤ

اگر سچے ہو (154)

فرمایا: یہ نائق (اونٹنی) ہے، ایک دن اس

کے پینے کی باری اور ایک مہین دن

تمہاری باری (155)

اور اسے برائی کے ساتھ نہ چھوؤ کہ

جہمیں بڑے دن کا عذاب آئے گا (156)

اس پر انہوں نے اس کی کوئی گات

دیں پھر صبح کو پچھتاتے (بھگتاتے) رہ گئے

(157)

تو انہیں عذاب نہ آیا، بیگ اسمیں ضرور

نشانی ہے، اور ان میں بہت مسلمان نہ

تھے (158)

اور بیگ تمہارا رب ہی مرت والا مہربان

ہے (159)

لوٹ کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا (160)

جب کہ ان سے ان کے ہم قوم لوٹ نے

فرمایا: کیا تم ڈرتے نہیں (161)

بیگ میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار

رسول ہوں (162)

فِي جَنَّتٍ وَعَيْوُنٍ ﴿١٤٧﴾

وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيوُنٌ ﴿١٤٨﴾

وَتَنْحَوْنُ مِنَ الْجِبَالِ يَتَوَانُوْنَ هِيْنَ ﴿١٤٩﴾

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوْنَ ﴿١٥٠﴾

وَلَا تَطِيعُوا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٥١﴾

الَّذِيْنَ يَفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ

وَلَا يُصْلِحُوْنَ ﴿١٥٢﴾

قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمَسْحُوْرِيْنَ ﴿١٥٣﴾

مَا اَنْتَ اِلَّا يَسْرٌ مِّثْلُنَا فَاتِ بِاٰيَةٍ

اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٥٤﴾

قَالَ هٰذِهِ نٰقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ

شِرْبٌ يَوْمَ مَعْلُوْمٍ ﴿١٥٥﴾

وَلَا تَمْسُوْهَا سَوْءًا فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ

يَوْمَ عَظِيْمٍ ﴿١٥٦﴾

فَعَقَرُوْهَا فَاصْبِرُوْا اِنْ كُنْتُمْ

فٰخِذِيْنَ ﴿١٥٧﴾

اٰيَةٌ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٨﴾

يٰۤاٰن زَيْدُكَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٥٩﴾

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٦٠﴾

اِذْ قَالَتْ لَهُمْ اَخُوْمُ لُوطٍ اَلَا اَسْتَفُوْنَ ﴿١٦١﴾

اِنِّيۤ اِنَّمَا رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٦٢﴾

163. "so fear Allah and obey me."

164. "I ask you no reward for it. My reward is only upon Him Who is the Rubb (Sustainer) of the universe."

165. "Do you commit (unnatural lust) with males from among (the creatures) of universe";

166. "and leave your wives whom your Rubb (Sustainer) has created for you? Aye, you are a transgressing people"?

167. They said, "O Luut, if you do not desist, then you shall certainly be expelled out."

168. He said, "I am surely, disgusted for your doings".

169. "O my Rubb (Sustainer) save me and my family from their doings".

170. So We (Allah) saved him and all his family members;

171. except an old woman who was among those who stayed behind.

172. Then We (Allah) totally destroyed the others.

173. And We (Allah) pelted upon them a rain. What an evil rain it was which fell on those who were warned.

174. Surely, in it there is an evidence. But most of them did not believe.

175. And surely, your Rubb (Sustainer) is the most Honorable, the most Merciful.

SECTION 10

176. The dwellers of the forest (Madiyan) falsified the Rasouls (Messengers of Allah).

177. When Shoaib said to them. "will you not become pious"?

تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو (163)

اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے (164)

کیا مخلوق میں مردوں سے بد فعلی کرتے ہو (165)

اور چھوڑتے ہو وہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نے جو روئیں (بیویاں) بنائیں، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو (166)

بولے! اے لوط! اگر تم باز نہ آئے تو ضرور نکال دیئے جاؤ گے (167)

فرمایا: میں تمہارے کام سے بیزار ہوں (168)

اے میرے رب! مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کام سے بچا (169)

تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی (170)

مگر ایک بڑھیا کہ بیچے رہ گئی (171)

پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا (172) اور ہم نے ان پر ایک برسوا (باران) برسایا، تو کیا ہی برا برسوا تھا، ڈرائے تھیوں کا (173)

بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے (174)

اور بیشک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے (175)

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۞
وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ
أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ۞
وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ
أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ۞
قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَهَ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ
مِنَ الْمُخْرَجِينَ ۞

قَالَ إِنِّي لَعَمْرِ اللَّهِ مِنَ الْقَالِينَ ۞
رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ۞
فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ۞
إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ۞

لَمَّا دَعَمْنَا الْأَمْرَيْنِ ۞
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ
مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ۞
إِن فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ ۞
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۞

دین والوں نے رسول کو جھٹایا (176) جب ان سے شعیب نے فرمایا: کیا ڈرتے نہیں (177)

كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ۞
إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۞

178. "Surely, I am a trusted Rasool (Messenger of Allah) for you."

179. 'So fear Allah and obey me.'

180. "And I ask from you no reward for it. My reward is only upon Him Who is Rubb (Sustainer) of the universe."

181. "Give full measures and be not of those who give less."

182. "And weigh with a straight balance."

183. "And donot cheat the people decreasing their rightful shares. And do not wander in the earth spreading corruption and disorder."

184. "And be pious to Him Who created you and the earlier generations."

185. They said, "surely you are deceived."

186. "You are not, but a man like us, (186) and surely, we consider you a liar".

187. "So cause to fall upon us a fragment of the sky, if you are truthful."

188. He (Luut) said, "my Rubb (Sustainer) knows well what are your doings".

189. So they declared him to be a liar. Therefore, the punishment of the Day of Darkness seized them. Surely, it was a punishment of mighty day.

190. Surely in it, there is an evidence and most of them did not believe.

191. And surely, your Rubb (Sustainer) is the most Honorable, the most Merciful.

SECTION 11

192. And surely, this Qur'aan has been revealed by the Rubb (Sustainer) of the universe.

بیگ میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار
رسول ہوں (178)

تو اللہ سے ڈرو، اور میرا حکم مانو (179)

اور میں اس پر کچھ تم سے اجرت نہیں
مانتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے
جہان کا رب ہے (180)

تاپ پورا کرو، اور گھٹانے والوں میں نہ ہو
(181)

اور سیدھی ترازو سے تولو (182)

اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور
زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو (183)

اور اس سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا
اور اچلی مخلوق کو (184)

بولے! تم پر جاود ہوا ہے (185)

تم تو نہیں تمہیں جیسے آدمی اور بے شک
ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں (186)

تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو، اگر تم
سچے ہو (187)

فرمایا: میرا رب خوب جانتا ہے جو
تمہارے کو تک (برے عمل) ہیں (188)

تو انہوں نے اسے جھٹلایا، تو انہیں
شامیانے والے دن کے عذاب نے آلیا،

بیگ وہ بڑے دن کا عذاب تھا (189)

بیگ اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں
بت مسلمان نہ تھے (190)

اور بیگ تمہارا رب ہی عزت والا مہربان
ہے (191)

اور بیگ یہ قرآن رب العالمین کا آما
ہوا ہے (192)

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿١٧٩﴾

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ
أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٠﴾
أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ
الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾

وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْمَاءِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَقْعَبُوا
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

وَأَتَقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبَدَةَ
الْأُولَىٰ ﴿١٨٤﴾

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَخَّرِينَ ﴿١٨٥﴾
وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نُنْظِقُكَ
لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٨٦﴾

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا سَفَاةً مِنَ السَّمَاءِ
إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٨٧﴾

قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾
فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يُؤْتِي
الطَّلَةَ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يُؤْتِي عِزْمًا ﴿١٨٩﴾

إِنِّي فِي ذَلِكَ لِآيَةٌ وَمَا كَانُوا أَكْثَرَهُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾

وَإِنْ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾

وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾

193. The Trusted Spirit has descended with it;
 194. on your (Muhammad's) heart that you may warn;
 195. in clear plain Arabic language;
 196. and surely, it is mentioned in the Scriptures of the past.
 197. And is it not a symbol for them because the learned ones of the children of Issraael know this (Prophet Muhammad).
 198. And had We (Allah) revealed it to any of the non-Arabs;
 199. and had he recited it to them, even then they would not have believed.
 200. Thus We (Allah) leave it (disbelief) to the hearts of the criminals.
 201. They will not believe in it until they see the painful punishment;
 202. And it (punishment) will come to them all of a sudden and they will not know.
 203. And then they will say, "shall we be given any respite?"
 204. Do they wish to hasten Our (Allah's) punishment?
 205. Think if We (Allah) let them enjoy (worldly good) for many years;
 206. then there comes to that had been promised;
 207. they will not benefit that they enjoyed in the past.
 208. And We (Allah) did not destroy any town without having sent to them a warner;
 209. Pronouncing such warning and We (Allah) never can be cruel.
 210. And this (Qur'aan) has not been revealed by the

- اسے روح الامین لے کر اترا (193)
 تمہارے دل پر کہ تم ڈرناؤ (194)
 روشن علی زبان میں (195)
 اور بے شک اس کا چرچا اگلی کتابوں میں ہے (196)
 اور کیا یہ ان کے لیے نشانی نہ تھی، کہ اس نبی کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے عالم (197)
 اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی شخص پر اتارتے (198)
 کہ وہ انہیں پڑھ سناؤ، جب بھی اس پر ایمان نہ لاتے (199)
 ہم نے یوشی جھٹلانا میرا دیا ہے مجرموں کے دلوں میں (200)
 وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ دیکھیں دردناک عذاب (201)
 تو وہ اچانک ان پر آجائے گا اور انہیں خبر نہ ہوگی (202)
 تو کہیں گے، کیا ہمیں کچھ مسلت ملے گی؟ (203)
 تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں (204)
 بھلا! دیکھو تو! اگر کچھ برس ہم انہیں برستے دیں (205)
 پھر آئے ان پر وہ جس کا وہ وعدہ دیئے جاتے ہیں (206)
 تو کیا کام آئے گا ان کے وہ جو برتتے تھے (207)
 اور ہم نے کوئی بہتی ہلاک نہ کی، جسے ڈر سنانے والے نہ ہوں (208)
 نصیحت کے لیے، اور ہم ظلم نہیں کرتے (209)
 اور اس قرآن کو لے کر شیطان نہ اترے (210)

نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾
 عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾
 بِلسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾
 وَإِنَّهُ لَفِي زَكْرٍ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ آيَةٌ أَنَّ يَعْلَمَهُ
 عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٩٧﴾
 وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾
 فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهٖ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾
 كَذٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾
 لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ
 الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾
 فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾

فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾
 أَفِعْدَابِنَا يُسْتَعْجَلُونَ ﴿٢٠٤﴾
 أَفَرَأَيْتَ إِن مَسَعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾
 ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾
 مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ ﴿٢٠٧﴾
 وَمَا أَهْدَيْنَا مِن قَرِيْبٍ إِلَّا لَهَا
 نُنُذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾
 وَكُرِيَ لَهُمْ مَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٢٠٩﴾
 وَمَا تَدْرَأُكَ بِهِ الشَّيْطَانُ ﴿٢١٠﴾

satans (devil).

211. Neither they are worthy of it, nor they can do it.

212. Surely they have been debarrd away from the place of overhearing.

213. So you do not worship anyone else except Allah, otherwise you shall be punished.

214. And (O beloved Muhammad), warn your nearest kinsmen.

215. And spread your wing (of mercy) for your follower believers (Muslims).

216. Then if they disobey you, say then, "I am absolved of what you do."

217. And rely upon Him Who is the most Honorable, the most Merciful;

218. Who sees you when you stand (for Salaat);

219. and sees your movements among those who fall prostrate (do Sajda).

220. Surely, He is the Hearer, the Knower.

221. Should I tell you on whom the satans (devils) descend?

222. They descend upon every big slanderer and sinner;

223. (devils) repeating what they claim to hear and most of them are liars.

224. And the only misguided ones follow the poets.

225. Have you not seen, they wander about aimless in every valley?

226. And they say what they do not practise ;

227. except those who believe and do good deeds and remember Allah much and revenge only after they are

(210)

اور وہ اس قابل نہیں، اور نہ وہ ایسا

کر سکے ہیں (211)

وہ تو سننے کی جگہ سے دور کر دیے گئے ہیں

(212)

تو اللہ کے سوا دوسرا خدا نہ پوج کہ تمہ پر

عذاب ہو گا (213)

اور اے محبوب! اپنے قریب تر رشتہ

داروں کو ڈراؤ (214)

اور اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ! اپنے پیرو

(ماننے والے) مسلمانوں کے لیے (215)

تو اگر وہ تمہارا حکم نہ مانیں، تو فرماؤ! میں

تمہارے کاموں سے بے علاقہ ہوں (216)

اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا مر

(رحم) والا ہے (217)

جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے

ہو (218)

اور نمازیوں میں تمہارے دورے کو (219)

بیک وقت ہی سنتا جاتا ہے (220)

کیا میں تمہیں بتا دوں کہ کس پر اترتے

ہیں شیطان؟ (221)

اترتے ہیں ہر بڑے بستان والے گناہگار پر

(222)

شیطان اپنی سنی ہوئی ان پر ڈالتے ہیں، اور

ان میں اکثر جھوٹے ہیں (223)

اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں

(224)

کیا تم نے نہ دیکھا کہ وہ ہر نالے میں

سرگرداں پھرتے ہیں (225)

اُور وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے (226)

گمراہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور

بکثرت اللہ کی یاد کی، اور بدلا لیا بعد اس

وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَعْتَبُونَ ﴿٢١٠﴾

إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُونَ ﴿٢١١﴾

فَلَا تَدْعُهُمْ الدُّوَاهُ أَلْهَا الْخَوْفُ تَكُونُ

مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ﴿٢١٢﴾

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾

وَاطْلُصْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا

تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾

وَلَوْ كُنْتُ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾

الَّذِي يُرِيدُكَ حَتَّىٰ تَقُومَ ﴿٢١٨﴾

وَتَقَلِّبَكَ فِي السَّجْدِ بَيْنَ

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢١٩﴾

هَلْ أَنْتُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنْزَلُ

الشَّيْطَانُ ﴿٢٢١﴾

تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٌ ﴿٢٢٢﴾

يَلْقَوْنَ السَّمْعَ وَكَأَنَّهُمْ كِدَابُونَ ﴿٢٢٣﴾

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَذَكَرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ وَأَوْتَوْا مِن

بَعْدِ مَا ظَنَّمُوا وَاسْتَعْلَمَ الَّذِينَ

oppressed. And the cruels will soon know as to which side they shall return.

S. XXVII

SURA UN-NAML

(THE ANT)

Revealed at Makkah

(93 Verses, 7 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. Taa Seen (T.S.) These are the Verses of the Qur'aan and the Bright Book;

2. a guidance and glad news to the believers;

3. who establish the Salaat (Muslim Prayer) and pay the Zakaat (poor due) and they have firm faith in the hereafter.

4. As to those who donot believe in the hereafter, We (Allah) have made their deeds (appear) beautiful to them, so they are wandering blindly.

5. They are those for whom there is grievous punishment and they are the ones who are the greatest losers in the hereafter.

6. And surely, you have been given the Qur'aan by the presence of the Wise, the Knowing.

[THREE FOURTH OF PART 19 ENDS]

7. Please recall that when Moosaa (Moses) told his wife, "I have seen a fire". "Soon I shall bring to you some news of it or I shall bring you some burning spark that you may warm yourself".

8. Then when he came to it (fire) a call was made that blessed is He Who is all round the place of appearance of this fire. And glorified is Allah Who is the Rubb

کے کہ ان پر ظلم ہوا، اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم، کہ کس کس کوٹ پر پلٹا کھائیں گے

(227)

سورہ نمل کی ہے (اس میں) ترانوے (93) آیات اور سات (7) رکوع (ہیں)

يَا ظَلَمُوا إِنِّي مَنقَلِبٌ يَنقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾

يَا ظَالِمِيْنَ اِنِّي مُنْقَلِبٌ مُنْقَلِبٌ اِنِّي مُنْقَلِبٌ مُنْقَلِبٌ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

یہ آیتیں ہیں قرآن اور روشن کتاب کی (1)

ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کو (2)

وہ جو نماز، بپا رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں (3)

وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے کوٹک (برے عمل) ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے ہیں، تو وہ بھک رہے ہیں (4)

یہ وہ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے اور یہی آخرت میں سب سے بڑھ کر نقصان میں (5)

اور بے شک تم قرآن سکھائے جاتے ہو حکمت والے علم والے کی طرف سے (6)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿١﴾

طس تبتلك آیت القرآن وکتاب

مبین ﴿٢﴾

هدى و بشرى للمؤمنين ﴿٣﴾

الذین یقیمون الصلوة ویتؤنون

الزکوٰۃ و هم بالآخرۃ هم

یوقنون ﴿٤﴾

ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ

زینا لهم اعمالهم ذم یعمون ﴿٥﴾

اولئک الذین لهم سوء العذاب

و هم فی الآخرۃ هم الاحسرون ﴿٦﴾

وانک لتلقى القرآن من لدن

ربک حکیم علیہ ﴿٧﴾

جب کہ موسیٰ نے اپنی گھر والی سے کہا مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے، مغرب میں

تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں، یا اس میں سے کوئی چمکتی چنگاری لاؤں گا کہ تم تاپو (7)

پھر جب آگ کے پاس آیا، ندا کی گئی کہ برکت دیا گیا وہ جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے، یعنی موسیٰ اور جو اس کے آس

اِذْ قَالَ مُوسٰى لِاهْلِهٖ اِنِّىۡ اَنْسَتُ

نَارًا سَاۤءَتِیْکُمْ وَتَمَّایَاۤءِیْکُمْ

یَسْتَبَاطِ قَبَسِ لَعَنَکُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿٧﴾

فَلَمَّا جَاءَهَا لَوْحٰی اَنْ بُدْرَکَ مِنْ فِی

النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ

(Sustainer) of the entire universe.

9. O Moosaa (Moses)! I am Allah, the most Honorable, the most Wise.

10. Cast down your staff (rod). Then he (Moses) saw it wriggling as it were a serpent. He ran away turning his back and did not look behind. We said, "Moosaa (Moses) donot fear. Surely, the Rasools (Messengers) have no fear in My Presence;

11. except those who do wrongs, then after evil deeds if they change to piety, then surely, I am Forgiving, Merciful.

12. And (O Moses) put your hand into your bosom, it shall come forth white shining, without any defect, as among nine signs towards Firawn (Pharaoh) and his nation. Surely, they are the disobedient nation.

13. Then when Our (Allah's) signs came to them visibly they said, "this is a clear magic".

14. And they denied them in cruel way and arrogantly, while their hearts were convinced of them. Then see, how was the end of mischief mongers.

SECTION 2

15. And We (Allah) bestowed great knowledge to Daood (David) and Soolaimaan (Solomon), and both said, "all praise be to Allah Who has exalted us over many of the believing devotees".

16. And Soolaimaan (Solomon) became the successor of Daood (David) and said, O men we have been taught the language of

پاس ہیں یعنی فرشتے، اور پاکی ہے اللہ کو جو رب سارے جہان کا (8)

اے موسیٰ! بات یہ ہے کہ میں ہی ہوں اللہ عزت والا حکمت والا (9)

اور اپنا عصا ڈال دے، پھر موسیٰ نے اسے دیکھا لہرانا ہوا، گویا سانپ ہے پیٹھ پھیر کر چلا، اور مڑ کر نہ دیکھا، ہم نے فرمایا: اے موسیٰ! ڈر نہیں، بیشک میرے حضور رسولوں کو خوف نہیں ہوتا (10)

ہاں! جو کوئی زیادتی کرے، پھر برائی کے بعد بھلائی سے بدلے، تو بیشک میں بخشنے والا مہربان ہوں (11)

اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، نکلے گا سفید چمکتا، بے عیب نو نشانیوں میں، فرعون اور اس کی قوم کی طرف، بیشک وہ بے حکم لوگ ہیں (12)

پھر جب ہماری نشانیاں آئیں کھولتی ان کے پاس آئیں، بولے! یہ تو صریح جادو ہے (13)

اور ان کے منکر ہوئے، اور ان کے دلوں میں ان کا تعین تھا ظلم اور تکبر سے، تو دیکھو! کیا انجام ہوا فسادیوں کا؟ (14)

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۸﴾
يَوْمَئِذٍ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۹﴾
وَأَلْقَ عَصَاهُ فَلَمَّا رَأَاهَا ثَمَرًا كَانُهَا
جَانٌّ قَلْبِي مَذْبُورًا وَلَمْ يَقْبَلْ يَوْمَئِذٍ
لَا تَخَفْ نَسَوْنَا فِي لَيْلٍ خِيفَ لَدُنِّي
الْمُؤَسَّرُونَ ﴿۱۰﴾

إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حَسَنًا بَعْدَ
سُوْرَةٍ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۱﴾

وَأَدْخُلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ
بَيْضًا مِّنْ عَدْرِ سُوْرَةٍ نَّفْسِي تَسْمَعُ
أَنبِيَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِذْ هُمْ
كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿۱۲﴾

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا
هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۱۳﴾

وَكَذَّبُوا بِهَا وَإِسْتَوْتَبَعْتَهَا أَنفُسُهُمْ
ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
بِيعِ الْمُفْسِدِينَ ﴿۱۴﴾

اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، اور دونوں نے کہا، سب خوبیوں اللہ کو جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخش (15)

اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا، اور کہا اے لوگو! ہمیں پر بندوں کی بولی سکھائی گئی

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، وَ
قَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى
كُلِّ عِبَادٍ ۖ إِنَّهُمُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۵﴾

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا
النَّاسُ عِلْمَنَا مِمَّنْ طَرِقَ الطَّيْرُ وَأَوْرَثَنَا

birds, and we have been bestowed everything. Surely, this indeed is a clear grace (of Allah).

17. And there were gathered for Soolaimaan (Solomon) his armies amongst jinns and men and birds but they were formed in separate divisions;

18. till when they came to the valley of the ants, a female (ant) said, 'O ants, enter your habitations, lest Sulaimaan (Solomon) and his armies may crush you while they know not'.

19. Thereupon he (Solomon) smilingly laughed at these words, and said, "O my Rubb (Sustainer) grant me guidance that I may be grateful for Your favour which You have bestowed upon me and my parents and that I may do such good works as would please You and admit me with Your Mercy among Your righteous devotees.

20. And he (Solomon) inspected the (pet) birds and said, "what has happened that I do not see the hoopee (Hud-Hud)? Or he is among the absentees?"

21. I shall surely punish him severely or shall kill him or he should bring me a clear explanation (for his such absence).

22. Then he (the hoopee-Hud Hud) did not stay long and he came back and said, "I have encircled that which you have not encircled and I have brought for you a sure news from the city of Saba (Sheba)".

23. "I saw a woman ruling over them and she has got

اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا' بے شک
یہی ظاہر لفظ ہے (16)

اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے
لشکر، جنوں اور آدمیوں اور پرندوں سے، تو
وہ روکے جاتے تھے

(17) یہاں تک کہ جب چوٹیوں کے نالے
پر آئے، ایک چوٹی بولی، اے چوٹیو!
اپنے گھروں میں چل جاؤ! تمہیں کچل نہ
ڈالیں سلیمان، اور ان کے لشکر بجزی میں
(18)

تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسا اور عرض
کی، اے میرے رب! مجھے توفیق دے کہ
میں شکر کروں تیرے احسان کا، جو تو نے
مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے، اور یہ
کہ میں وہ بھلا کام کروں جو تجھے پسند
آئے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان
بندوں میں شامل کر جو تیرے قرب خاص
کے سزاوار ہیں (19)

اور پرندوں کا جائزہ لیا، تو بولا! مجھے کیا ہوا،
کہ میں ہد ہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ واقعی
حاضر نہیں (20)

ضرور میں اسے سخت عذاب کروں گا، یا
زنج کر دوں گا، یا کوئی روشن سند میرے
پاس لائے (21)

تو ہد ہد کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا، اور آ کر
عرض کی، کہ میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو
حضور نے نہ دیکھی، اور میں شہر سب سے
حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں (22)
میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان پر

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ
الْمُبِينُ ﴿١٦﴾

وَحُشْرًا سَلِيمًا جُودًا وَمِنَ الْجِنِّ
وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَمَنْ يُؤَدُّ عَوْنَ ﴿١٧﴾

حَتَّىٰ إِذْ التَّوَّاعَلَىٰ وَإِذْ الْقُمَّلَ كَالْتَ
نَمْلَةَ يَأْتِيهَا التَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُم
لَّا يَحْطَبَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُودًا وَ
هُم لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾

فَتَبَسَّ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ
رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ
أَحْمِلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَذْخُلِي
بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى
الْهُدَّ هَذَا أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿٢٠﴾

لَأَعَذِّبَنَّكَ إِذْ أَبْشَدِيدًا أَوْ
لَأَأْتِيَنَّكَ أُولِيَايَ فِي بَلَدٍ لِّسُلْطٰنٍ

مُبِينٍ ﴿٢١﴾
فَمَكَتْ عَنِّي رَجِيدٌ فَقَالَ أَحَطْتُ
بِمَالِكَ مُحِطٌ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ
سَبَأِ بِنْتِ الْيَقِينِ ﴿٢٢﴾

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَ

everything and she has a great throne (authority)"

24. I found her nation prostrating before the sun instead of Allah and the satan (devil) has made their deeds to look fair to them barring them from the straight path so that they do not follow guidance.

25. Why they do not prostrate before Allah Who brings forth to light the hidden things of the heavens and earth and Who knows what you conceal and what you reveal?

26. Allah, there is none to be worshipped except Him, the Rubb (Sustainer) of the Greatest Authority.

27. (Solomon) said (to the bird) "now we shall see whether you have spoken the truth or you are amongst the liars".

28. "Take this letter of mine and deliver it to them. Then moving aside from them see what answer they return."

29. The woman said, "O chiefs surely a noble letter has been sent towards me."

30. "Surely it is from Soolaimaan (Solomon) and it is in the Name of Allah Who is the most Affectionate, the most Merciful";

31. "saying, do not rise up against me and come to submissiveness (to Solomon).

SECTION 3

32. She said, "O my chiefs, advise me in this matter. I do not decide any matter firmly until you counsel me."

33. They said, "we are men of great strength and power. The authority is yours. Therefore, we consider what

بادشاہی کر رہی ہے! اور اسے ہر جہ میں سے ملتا ہے، اور اس کا پورا تخت ہے (23) میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا، کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں سنوار کر ان کو سیدھی راہ سے روک دیا، تو وہ راہ نہیں پاتے (24)

کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھٹی چیزیں اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو (25)

اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ بڑے عرش کا مالک ہے (26)

سلیمان نے فرمایا: اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا، یا تو جھوٹوں میں ہے (27) میرا یہ فرمان لے جا کر ان پر ڈال، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھ، کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں (28)

وہ عورت بولی! اے سردارو! بیگ میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا (29)

بیگ وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بیگ وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا (30)

یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو، اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو (31)

بولی! اے سردارو! میرے اس معاملہ میں مجھے رائے دو! میں کسی معاملہ میں کوئی قلع فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو (32)

وہ بولے! ہم زور والے اور بڑی سخت لڑائی والے ہیں، اور اختیار تیرا ہے، تو نظر

أَوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ لَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

وَجَدَتْهُمْ أَقْوَمًا لِمَا سَجَدُوا لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَنَسَبَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّقَهُمْ فِي السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾

أَلَيْسَ لِدَوْلَةِ اللَّهِ الرَّبِّ الْعَزِيزِ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِينَ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَ مَا تُكَلِّمُونَ ﴿٢٥﴾

أَلَلَّهُ لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾

إِذْ هَبَّ بِنَجْمِهَا هَذَا فَالِقَةَ لَيْلِيهِمْ فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ فَأَنْظُرْ مَا ذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَلَيْسَ لِي بِكِتَابٍ كَرِيمٍ ﴿٢٩﴾

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ رَأَى نِسْرًا اللَّهُ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾

يَا أَيُّهَا الْعَاقِلُونَ أَتُؤْتُونَ مُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَتُؤْتُونَ فِي أَمْرٍ مِثْلِ مَا كُنْتُمْ قَاطِعَةً أَمْ أَحْسَنُ شَيْئًا كُنْتُمْ

قَالُوا نَحْنُ أَوْلَى الْقُوَّةِ وَأَوْلُوا بِأَسْوَأِ

you command”.

34. She said, “surely, when the kings enter any town they ruin it and turn its highest people into lowest inhabitants. And so also they will do”.

35. “So I am going to send a present to him (to Solomon). Then I shall see what answer the envoys bring back.”

36. Then when her envoy came to Solaimaan (Solomon) he (Solomon) said, “do you allure me with wealth? But that which Allah has given me is far better than all that He has given to you. No, you rejoice in your own gift”.

37. “Return to them (your people), we shall bring that army to them against which they will have no power and we shall certainly turn them out of the city disgraced in a manner that they will be humbled.”

38. Soolaimaan (Solomon) said, “O chiefs, which is of you who may bring her throne to me before they come to me as Muslims?”

39. One giant Jinn said, “I will bring you that throne before you rise from your seat; and surely, I am powerful over that, trustworthy.”

40. One (believer) who had knowledge of the Book said, “I shall bring it to you before twinkling of the eye”. Then when Soolaimaan (Solomon) saw the throne set before him said, “this is due to the grace of my Rubb (Sustainer) that He may try me whether I am grateful or ungrateful. And whoso is grateful is grateful for his own good. And whoso

کر کہ کیا حکم دیتی ہے (33)
بولی! بیشک بادشاہ جب کسی سستی میں داخل

ہوتے ہیں اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل اور ایسا ہی کرتے ہیں (34)

اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ ایلچی کیا جواب لے کر پلٹے؟ (35)

پھر جب وہ سلیمان کے پاس آیا، فرمایا: کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو جو اللہ نے مجھے دیا، وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا، بلکہ تم ہی اپنے تحفہ پر خوش ہوتے ہو (36)

پلٹ جا ان کی طرف، تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہو گی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، یوں کہ وہ پست ہوں گے (37)

سلیمان نے فرمایا: اسے درباریو! تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے، قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطہج ہو کر حاضر ہوں (38)

ایک بڑا غیثت جن بولا! کہ میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا، قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخواست کریں، اور میں بیٹک اس پر قوت والا امانتدار ہوں (39)

اس نے عرض کی! جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک ہل مارنے سے پہلے، پھر جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا، کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے، کہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا

شَدِيدًا ذُو الْأَمْرِ إِلَيْكَ فَانظُرِي مَاذَا أَنَا مُرِيدٌ ﴿٣٥﴾

قَالَتِ رَانَ الْمَلُوكُ إِذَا مَخَلُّوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا إِذْ لَيْتُهُمْ يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ قَنْظُورَةٌ يَوْمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٧﴾

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ لَّمَّا آتَيْتَنِي اللَّهُ خَيْرًا مِّمَّا آتَيْتَكُم بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٨﴾

ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِنُجُودٍ لَا يَمَلُّونَ لَهُمْ بَهَاوًا وَنُحْرَجُهِمْ مِنْهَا إِذْ لَيْتُهُمْ ضِعْفُونَ ﴿٣٩﴾

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَعْمَى يَا أَيُّهَا يَعْزُبُ مَا أَتَيْتَنِي بِمُرْسَلِينَ ﴿٤٠﴾

قَالَ عَفْرِيَّتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيَتُكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٤١﴾

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيَتُكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا

is ungrateful, then my Rubb (Sustainer) is Self-Sufficient, All-Bountiful”

41. (Solomon) ordered, “alter her throne before her arrival so that we see whether she gets the right knowledge of it or is one of those who remain misguided”

42. Then when she came, it was said to her, “is your throne like this”? She said, “it is the same. He (Solomon) said, “We were given its knowledge before this and we already have become Muslims”.

43. And that which she used to worship besides Allah had stopped her. Surely, she was from a disbelieving nation.

44. It was said to her, “come to the palace courtyard”. Then when she saw it, she thought it a deep water and uncovered her leg shanks. Soolaimaan (Solomon) said, “it is a soft courtyard set with glasses”. The woman said, “O my Rubb (Sustainer) I have wronged myself and now I submit with Soolaimaan (Solomon) to Allah Who is the Rubb (Sustainer) of the entire universe”.

SECTION 4

45. And surely, We (Allah) sent towards Samood (Thamood) their brother Saleh who said, “worship Allah”. But they became two factions warring with each other.

46. (Saleh) said, “O my nation, why you hasten the evil rather than the good? Why do you not ask

تاشکری اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے اور جو تاشکری کرے تو میرا رب بے پروا ہے سب خوبیوں والا (40) سلیمان نے حکم دیا عورت کا تخت اس کے سامنے وضع بدل کر بیگانہ کر دو کہ ہم دیکھیں کہ وہ راہ پاتی ہے یا ان میں ہوتی ہے جو نواقف رہے (41)

پھر جب وہ آئی اس سے کہا گیا، کیا تمرا تخت ایسا ہی ہے؟ بولی! گویا یہ وہی ہے اور ہم کو اس واقعہ سے پہلے خبر مل چکی اور ہم فرما رہے ہیں (42)

اور اسے روکا اس چیز نے جسے وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی (43)

اس سے کہا گیا، مہن میں آ، پھر جب اس نے اسے دیکھا اسے گمراہ پائی سمجھی اور اپنی ساتیں کھولیں، سلیمان نے فرمایا یہ تو ایک چمکا مہن ہے شیشوں جڑا عورت نے عرض کی! اے میرے رب! میں نے اپنی جان پر علم کیا، اور اب سلیمان کے ساتھ اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو رب سارے جہان کا (44)

اور بیگ ہم نے نمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا کہ اللہ کو پوجو تو جیسی وہ دو گروہ ہو گئے بھگڑا کرتے (45)

صالح نے فرمایا: اے میری قوم! کیوں برائی کی جلدی کرتے ہو، بھلائی سے پہلے؟ اللہ

يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ سَاءَ عِزِّي كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾

قَالَ تَكْرُؤًا لَهَا عَوَّشَهَا نَنْظُرُ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤١﴾

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَوَّشْتِكِ قَالَتْ إِنَّهُ هُوَ وَأَوْثِقْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٤٣﴾

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّوْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَتْ إِنَّهُ صَوْحٌ قَدَّمَدَيْنَ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَيْكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِهِمُ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ عِبُدُوا اللَّهَ فَآذَاهُمْ فِرْيَقِينَ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٥﴾

قَالَ يَقْتَرِبُونَ تَتَحَفَلُونَ بَالْحِيتَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ لِلَّهِ

forgiveness of Allah perhaps you may be shown mercy?"

47. They said, "We took a bad omen from you and from your companions" He said, "The cause of your bad fortune is with Allah, rather your people are under a trial"

48. And there was a band of nine persons in the city making disorder in the earth and did not like things to be reformed.

49. They said, swearing together by Allah, "we shall certainly attack him (Saleh) and his family by night." Then we shall say to his heir, "we did not witness the destruction of the members of his family and indeed we are truthful"

50. And they devised their own plot and We (Allah) devised own secret plan but they could not perceive it.

51. Then see how was the end of their plot. We (Allah) destroyed them and their entire nation.

52. Then these are their houses overturned, for they committed wrongs. Surely, in it there is a sign for the nation who know.

53. And We (Allah) rescued those who believed and were pious.

54. And (remember) Luut, when he said to his nation, "do you commit indecency while you are seeing?"

55. Do you approach men lustfully leaving women? Aye! you are indeed an ignorant nation.

56. There was no answer of his nation instead they said, "expel the family of Luut from your city; they are

سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ شاید تم پر رحم ہو (46)

بولے! ہم نے برا ٹھکان لیا تم سے، اور تمہارے ساتھیوں سے، فرمایا: تمہاری بد ٹھکانی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہو (47)

اور شہر میں نو شخص تھے کہ زمین میں فساد کرتے اور سنوار نہ چاہتے (48)

آہیں میں اللہ کی قسمیں کھا کر بولے! ہم ضرور رات کو چھاپا ماریں گے صالح اور اس کے گھر والوں پر، پھر اس کے وارث سے کہیں گے، اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے، اور بیچک ہم سچے ہیں (49)

اور انہوں نے اپنا ساگر کیا، اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور وہ غافل رہے (50)

تو دیکھو! کیسا انجام ہوا ان کے سر کا؟ ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، اور ان کی ساری قوم کو (51)

تو یہ ہیں ان کے گھر ڈھے پڑے، بدلا ان کے ظلم کا، بیچک اس میں نشانی ہے جاننے والوں کے لیے (52)

اور ہم نے ان کو بچا لیا جو ایمان لائے اور روتے تھے (53)

اور لوٹ لو کہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا بے حیائی پر آتے ہو؟ اور تم سوجھ رہے ہو (54)

کیا تم مردوں کے پاس مستی سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم جاہل لوگ ہو (55)

تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہ کہ بولے! لوٹ کے گھرانے کو اپنی بہتی سے

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۴۶﴾

قَالُوا الظُّلُمَاتُ يَدُوكَ وَيَمِينُكَ مَعَكَ قَالُوا ظَلَمْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿۴۷﴾

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿۴۸﴾ قَالُوا إِنَّمَا سَمَوْا بِاللَّهِ لِنُبَيِّنَتْهُ وَ أَهْلَهُ ثُمَّ لِنَقُولَنَّ لَوْ يَشَاءُ مَآسِدُنَا مِن هَاهُنَا لَهَبَلَك أَهْلَهُ وَإِنَّا لَاصِدِقُونَ ﴿۴۹﴾

وَمَكْرَهُمْ أَصْكَرٌ وَأَمْكْرُنَا أَكْمَرٌ أَوْ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵۰﴾

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِهِمْ أَنَادِمْنَاهُمْ وَ قَوْمِهِمْ أَجْمَعِينَ ﴿۵۱﴾

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۵۲﴾

وَ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۵۳﴾

وَلَوْ طَآءَلَا قَالُ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَ أَنْتُمْ تَبْصِرُونَ ﴿۵۴﴾

أَيُّكُمْ لَأَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ﴿۵۵﴾

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ

the people who want to remain chaste".

57. So We (Allah) saved him and his family except his wife. We (Allah) destroyed her that she was among those who stayed behind.

58. And We (Allah) rained upon them a rain. What an evil rain it was for those who were warned.

SECTION 5

59. Please declare, "all praise belongs to Allah and compliments to His chosen devotees. Is Allah best, or that they associate with Him?"

PART 20

S. UN-NAML (Contd.)

[THE ANT (Contd.)]

SECTION 5 (Contd.)

60. Is it not He, Who has created the heavens and the earth, and sent down for you water from the sky? With that We (Allah) cause to grow lovely gardens. You had no power to cause the trees to grow therein. Is there any other one worth worship besides Allah? No, they are a nation who deviate from doing justice.

61. Is not He Who has made the earth for habitation and set in it streams and made for it firm mountains and a barrier between the two seas? Is there any other worth worship besides Allah? Nay, most of them do not know it.

62. Is not He Who answers the distress of some one when he (she) calls upon Him and removes the evil and makes you successors in the earth. Is there any other one worth worship besides Allah? Very little you remember.

نکال دو' یہ لوگ تو ستمرا پن چاہتے ہیں
(56)

تو ہم نے اسے اور اس کے گھروالوں کو
نجات دی، مگر اس کی عورت کو ہم نے
گھمرا دیا تھا، کہ وہ رہ جانے والوں میں ہے
(57)

اور ہم نے ان پر ایک برسائے (بارش) برسایا
تو کیا ہی برا برسائے تھا ڈرائے ہوؤں کا
(58)

تم کو سب خوبیاں اللہ کو اور سلام اس
کے چتے ہوئے بندوں پر، کیا اللہ بہتر یا ان
کے سازشہ شریک (59)

أَناسٍ يَتَّبِعُونَ ﴿٣٠﴾

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا

مِنَ الْفٰرِسِيِّنَ ﴿٥٦﴾

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا نٰفٰسًا مَطْرًا

مِنَ الْمُنذَرِيْنَ ﴿٥٧﴾

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ

الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ۗ اَللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّا

يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٩﴾

یا وہ جس نے آسمان و زمین بنائے اور
تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، تو ہم
نے اس سے بارش آگائے رونق والے
تمہاری طاقت نہ تھی کہ ان کے بیڑ آگائے
کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے بلکہ وہ
لوگ راہ سے کتراتے ہیں (60)

یا وہ جس نے زمین بسنے کو بتائی، اور اس
کے بیچ میں نہریں نکالیں، اور اس کے لیے
نگر بنائے، اور دونوں سمندروں میں آڑ
رکھی، کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے بلکہ
ان میں اکثر جاہل ہیں (61)

یا وہ جو لاہار کی سنتا ہے جب اسے
پکارے، اور دور کر دتا ہے برائی، اور
تیسری زمین کا وارث کرتا ہے، کیا اللہ کے
ساتھ اور خدا ہے، بہت ہی کم دھیان
کرتے ہو (62)

أَقْنِ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مٰءًا فَآلَيْتُنَا

بِهِمْ خَدَّيْكَ ذٰلِكَ بِهٰجَةِ مٰمٰكٰنَ

لَكُمْ اَنْ تُكْبِتُوْا شَجَرٰهٖۤ اَللّٰهُ مَعَ اللّٰهِ

بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْبٰوْنَ ﴿٦٠﴾

أَفَنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ

خِلٰلِهَا اَنْهٰرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوٰبِي

وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حٰجِزًا ۗ اَللّٰهُ

مَعَ اللّٰهِ ۗ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾

أَفَنْ يُجِيبُ الْمُسْتَظِرَّ اِذْ اَدْعَاوُ

يَكْتَسِفُ الشُّوْبَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ خَلْفًا

الْاَرْضِ ۗ اَللّٰهُ مَعَ اللّٰهِ ۗ قَلِيْلًا مِّمَّا

تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾

63. Is not He Who guides you in the darkness of the land and the sea and Who sends the winds bearing good news before His Mercy? Is there any other worth worship besides Allah? Highly Exalted is Allah above what they associate with Him.

یا وہ جو تمہیں راہ دکھاتا ہے اندھیریوں میں خشکی اور تری کی، اور وہ کہ ہوائیں بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سنانی کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، برتر ہے اللہ ان کے شرک سے (63)

64. Is not He Who originates the creation, and shall thereafter make it again? And who gives you provisions from the heavens and the earth? Is there any other worth worship besides Allah? Please declare, "bring forward your proof if you are truthful".

یا وہ جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، اور وہ جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ تم فرماؤ کہ اپنی دلیل لاؤ، اگر تم سچے ہو (64)

65. Please declare, "none in the heavens and the earth knows the unseen except Allah". And they cannot perceive when they will be raised again".

تم فرماؤ خود غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں مگر اللہ، اور انہیں خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے (65)

66. Anyhow their knowledge does not comprehend the hereafter? So they are in doubt about it, rather they are blind to it.

کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچ گیا کوئی نہیں وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں (66)

SECTION 6

67. And the disbelievers say, "when we and our fathers will become dust, shall we be brought forth again"?

اور کافر بولے! کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ (67)

68. We and our fathers, before us, have been promised this but this is nothing except the tales of the ancients"?

بیک اس کا وعدہ دیا گیا ہم کو؟ اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں کو، یہ تو نہیں مگر اگلوں کی کہانیاں (68)

69. Please declare, "travel in the earth and see what was the end of the criminals".

تم فرماؤ! زمین میں چل کر دیکھو! کیا ہوا انجام مجرموں کا؟ (69)

70. And do not be grieved over them, and do not be distressed on their plotting.

اور تم ان پر غم نہ کھاؤ، اور ان کے کر سے دل تنگ نہ ہو (70)

71. And they ask, "when this promise will be (fulfilled) if you are truthful"?

اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ، اگر تم سچے ہو (71)

أَمْ نَرِيهِدُكُمْ فِي ظُلْمِةٍ لِّلْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيحَ بِشُرَّا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ؕ إِلَهُ مَعَ إِلَهِ تَعْلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾

أَمْ نَرِيهِدُ وَالْخَلْقَ ثُمَّ يَعْبُدُ مَا مَن يُرْسِلُ الرِّيحَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ؕ إِلَهُ مَعَ إِلَهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اِيَّانَ يَبْعَثُوْنَ ﴿٦٥﴾

بَلِ اِذْ ذٰلِكَ عَلَّمَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِذَا اُنْكَبْتُ اِلَآئِهَا اَبَآؤُنَا اِيَّاوَا اَبْنَاؤُنَا لَمَجْرُوْمِيْنَ ﴿٦٧﴾

لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا اِنْمٰنًا وَاَبَاؤُنَا مِن قَبْلُ اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٨﴾

قُلْ سَيُرَوُّ اِنِّي الْاَرْضِ فَاَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٦٩﴾

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدٰنِ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٧١﴾

72. Please declare, "it is near that some of the things you are hastening for, may come close behind you.

73. And surely, your Rubb (Sustainer) is graceful for mankind but most of them were not grateful.

74. And surely, your Rubb (Sustainer) Knows what is concealed in their breasts and what they disclose.

75. And there is no hidden thing in the heavens and the earth but it is recorded in a clear register.

76. Surely, this Qur'aan explains to the children of Issraael most of those things in which they differ.

77. And surely, that is guidance and mercy for the believers (Muslims).

78. And surely, your Rubt (Sustainer) shall decide between them by His decree, and He is the Honorable, the Wise.

79. Therefore, put your trust in Allah. Surely, you are on clear truth.

80. Surely, you neither can make the dead to hear, and nor you can make the deaf to listen the call, when they turn their backs retreating.

81. And you cannot guide the blind from straying. You can make only those to hear who believe in Our (Allah's) Verses, for they are Muslims.

82. And when the word of Allah wil: be fulfilled against them (disbelievers) We (Allah) shall bring forth for them out of the earth a gnat that shall talk to them, because the mankind did not believe in Our (Allah) Verses.

SECTION 7

تم فرماؤ! قریب ہے کہ تمہارے پیچھے آگے ہو بعض وہ چیز جس کی تم جلدی پکا رہے ہو (72)

اور بیگک تمہارا رب لعل والا ہے آدمیوں پر لیکن اکثر آدمی حق نہیں مانتے (73)

اور بیگک تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپی ہے، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں (74)

اور جتنے غیب ہیں آسمانوں اور زمین کے سب ایک بتائے والی کتاب میں ہیں (75)

بے شک یہ قرآن ذکر فرماتا ہے نبی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں (76)

اور بیگک وہ ہدایت اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے (77)

بیگک تمہارا رب ان کے آپس میں فیصلہ فرماتا ہے، اپنے حکم سے، اور وہی ہے عزت والا علم والا (78)

تو تم اللہ پر بھروسہ کر بیگک تم روشن حق پر ہو (79)

بیگک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے اور نہ تمہارے سنائے بہرے پکار سکیں جب بھریں پیٹھ دے کر (80)

اور اندھوں کو گمراہی سے تم ہدایت کرنے والے نہیں، تمہارے سنائے تو وہی سنتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں (81)

اور جب بات ان پر آ پڑے گی، ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوہا پیہ نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لاتے تھے (82)

قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ رَدْفٌ لِّكُم مِّنْ بَعْضِ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٧٥﴾

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفْضُلُ عَلَىٰ نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾

وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ ذُرِّيَّتَهُ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمَعُ الصَّمَّةَ الدَّاعِيَةً وَإِن لَّوَأَنَّ مِنْ بَرِيٍّ ﴿٨٠﴾

وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعَمَىٰ مِّنْ صَلَافِهِمْ إِنَّ تَسْمَعُ إِلَّا مَن يُوْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهَم مِّنْ صَالِحِينَ ﴿٨١﴾

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا الْأَلْفُونَ ﴿٨٢﴾

83. And remind of the Day on which We (Allah) shall raise from every nation a multitude of those who disbelieved Our (Allah) Verses and they shall be placed in separate bands.

84. And when all would come, Allah will say, "did you deny My Verses while your knowledge could not comprehend them. What you used to do?"

85. And the word of Our (Allah's) sentence shall fall upon them because of their wrongs, and they shall be speechless.

86. Have they not seen that We (Allah) have made the night that they may rest therein, and the day to have light for seeing? Surely, in them there are signs for those who believe.

87. And the day when the trumpet shall be blown, then all those who are in heavens and those in the earth shall be terrified except the one whom Allah Wills. And all will come before Him showing utter humility.

88. And you see the mountains, you think that they are firmly fixed, but they shall pass (like) the passing of the clouds. This is the work of Allah Who made everything with wisdom. Surely, He is fully aware of your deeds.

89. Whoso brings good deeds shall get reward better than that, and they shall be secured on that day from terror.

90. And whoso comes with evil deeds their faces will be thrust in the fire. What reward you will get but only that which you used to do.

اور جس دن انھیں گے ہم ہر گروہ میں سے ایک فوج جو ہماری آسمانوں کو جھلاتی ہے، تو ان کے اگلے روکے جائیں گے کہ بچنے ان سے آئیں (83)

یہاں تک کہ سب سے حاضر ہوئیں گے فرمائے گا کیا تم نے میری آیتیں جھٹلائی؟ حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچتا تھا، یا کیا کام کرتے تھے (84)

اور بات پڑ چکی ان پر ان کے ظلم کے سبب، تو وہ اب کچھ نہیں بولتے (85)

کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے رات بنائی اس میں آرام کریں، اور دن کو بنایا سو جھانے والا ہے شک اس میں ضرور نشانیوں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ ایمان رکھتے ہیں (86)

اور جس دن پھونکا جائے گا صور، تو گھبرائے جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں، مگر جسے خدا چاہے اور سب اس کے حضور حاضر ہونے کا جزی کرتے (87)

اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو خیال کرے گا کہ وہ جتنے ہوتے ہیں، اور وہ چلنے ہوں گے بال کی چال یہ کام ہے اللہ کا جس نے حکمت سے بنائی ہر چیز بے شک اسے خبر ہے تمہارے کاموں کی (88)

جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، اور ان کو اس دن کی گھبراہٹ سے امان ہے (89)

اور جو بدی لائے تو ان کے منہ اونہانے گئے ہیں میں تمہیں کیا بدلائے گا، مگر اسی کا جو کرتے تھے (90)

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ
يَكْفُرُ بِالَّذِي تَبْتِغُونَ ۝۳۱

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ قَالَ أَلَيْسَ لِي بِآيَاتٍ
وَلَمْ يُحِطُوا بِهَا عَلِيمًا أَفَأُكْفَرُ
تَعْمَلُونَ ۝۳۲

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا
فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ۝۳۳

الْعَرَبُ وَالنَّاسُ جَعَلْنَا الْيَلَّ لِيَسْكُنُوا
فِيهِ وَاللَّيْلُ مُبْصِرٌ لِّأَنَّ فِي ذَلِكَ
آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝۳۴

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ
شَاءَ اللّٰهُ وَكُلٌّ اِلَيْهِ دٰخِرِيْنَ ۝۳۵

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْشَبُهَا جَمَادَةً وَ
هِيَ تَمْرَمِرُ السَّحَابُ صُنْعَ اللّٰهِ
الَّذِي اَنْفَخَ كُلَّ شَيْءٍ اِنَّهُ خَبِيْرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ۝۳۶

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَ
هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ اٰمِنُونَ ۝۳۷
وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكَلَتْ وُجُوْهُهُمْ
فِي النَّارِ اِهْلًا تَمْجُرُونَ اِلٰهَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ۝۳۸

91. I have been commanded to worship only the Rubb (Sustainer) of this city Who has made it sacred and to Him belongs everything, and I have been commanded to be of those who remain obedient; 92. and that I should recite the Qur'aan. Therefore, whoso gets guidance it is for his own good and whoso goes astray, then, please declare, "I am only a warner."

93. And please declare, "all praise is to Allah Who will soon show you His Signs. Then you will recognize them. And your Rubb (Sustainer) is not unaware of what you do?"

S. XXVIII

SURA AL-QASAS (THE NARRATIVES)

Revealed at Makkah

(88 Verses, 9 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. Taa-Seen-Meeem- (T.S.M.)
2. These are the Verses of the luminous (clear) Book.
3. We (Allah) recite to you the true story of Moosaa (Moses) and Firawn (Pharaoh) for those who believe.
4. Surely, Firawn (Pharaoh) behaved arrogantly in the earth and divided the people into groups. He sought to weaken a group of them, slaying their sons and keeping their females alive. Surely, he was among mischief makers
5. And We (Allah) desire to be gracious to those oppressed in the earth and

مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ بچوں اس شر کے رب کو جس نے اسے حرمت والا کیا ہے، اور سب بگم اسی کا ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ فرمایا اوروں میں ہوں (91)

اور یہ کہ قرآن کی تلاوت کروں، تو جس نے راہ پائی اس نے اپنے بھلے کو راہ پائی، اور جو بھگے، تو فریاد! کہ میں تو یہی ڈر سنانے والا ہوں (92)

اور فریاد! کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، مغربہ وہ ہمیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو انہیں پہچان لوگے، اور اے محبوب تمہارا رب غافل نہیں اے لوگو تمہارے اعمال سے (93)

سورۃ قصص کہ میں نازل ہوئی (اور اس میں) اٹھاسی (88) آیتیں اور نو (9) رکوع ہیں

إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ تَعْبُدُوا رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةَ الَّتِي كَفَرْتُمْ بِهَا وَلَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ وَأَمْرُهُ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾

وَأَنْ اتَّالُوا الْقُرْآنَ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَكْتُمُ نَفْسَهُ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٌ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٌ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

طَسَمَ ﴿١﴾ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾

تَتْلُو آيَاتِكَ مِنْ بُرْهَانٍ مَوْسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالسُّحْرِ الْقَوِيمِ ﴿٣﴾

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ظلم (1)

یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی (2)

ہم تم پر پڑھیں موسیٰ اور فرعون کی سچی خبر ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں (3)

بے شک فرعون نے زمین میں غلبہ پایا تھا اور اس کے لوگوں کو اپنا تابع بنایا، ان میں ایک گروہ کو کمزور دیکھتا ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا بے شک وہ فسادی تھا (4)

اور ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں پر احسان فرمائیں، اور ان کو پیشوا بنائیں، اور

إِنْ فِرْعَوْنُ عَلَافِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يُرِيدُ أَنْ يُنَازِقَهُمْ رَبَّهُمْ لِنَفْسِهِ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤﴾

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ

make them leaders and make them its inheritors;

6. and to establish them in the earth and showed to Firawn (Pharaoh) and Haamaan and their armies the same about which they were dreadful.

7. And We (Allah) inspired the mother of Moosaa (Moses) to suckle him, and when you fear then cast him into the river and neither have fear nor be grieved. Surely, We (Allah) shall return him to you and make him Rasool (Messenger of Allah).

8. Then the family of Firawn (Pharaoh) picked him up that he may become their enemy and may bring sorrows to them. Surely, Firawn (Pharaoh) and Haamaan and their armies were wrongdoers.

9. And the wife of Firawn (Pharaoh) said, "this child is of comfort to my eye, and you donot slay him. Perhaps he may profit us or we may adopt him as a son." But they were unaware of (consequences).

10. And next morning the heart of the mother of Moosaa (Moses) became patient. Surely, it was near that she might have disclosed him (identity of Moses), if I had not strengthened her heart, that she might remain believing one.

11. And she (his mother) said to his (Moses') sister, "follow him." So she observed, him from a distance while they were not aware.

12. And We (Allah) had already forbidden all types of suckling by a foster mother.

ان کے ملک و مال کا انہیں کو وارث بنائیں (5)
اور انہیں زمین میں قبضہ دیں، اور فرعون اور ہان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھادیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ ہے (6)

اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو، تو اسے دریا میں ڈال دے اور نہ ڈر، اور نہ غم کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے (7)

تو اسے اٹھالیا فرعون کے گھروالوں نے کہ وہ ان کا دشمن، اور ان پر غم ہو بے شک فرعون اور ہان اور ان کے لشکر خطا کار تھے (8)

اور فرعون کی بی بی نے کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی لٹنڈک ہے اسے قتل نہ کرو شاید، یہ ہمیں نفع دے، یا ہم اسے بیٹا بنالیں اور وہ بے خبر تھے (9)

اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا ضرور! قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم نہ ڈھارس بندھاتے اس کے دل پر کہ اسے ہمارے وعدہ پر یقین رہے (10)

اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جلتو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی، اور ان کو خبر نہ تھی (11)

اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں تو بولی! کیا میں تمہیں بتا

الْوَرِثِينَ ﴿٥﴾
وَنُمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمْ أَنَّهُمْ مَأْكَلُوا الْحَدِيدَ ﴿٦﴾

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تخَافِي وَلَا تحْزَنِي ۚ إِنَّا سَأَلْنَاكِ إِنَّ إِلَيْنَا أَلْتَصِقَاتُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾
فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۚ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِبِينَ ﴿٨﴾

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قَرَّتْ عَيْنِي لِئَلاَّ تُفْتَلِّهُنَّ عَلَيَّ أَنْ يَفْعَلَنَّهُنَّ ۚ إِنِّي كَارِهُنَّ أَذُنًا ۚ وَوَلَدُوا لَهُمْ لَأَيْشَعُرُونَ ﴿٩﴾

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فِرْعَانًا ۚ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ ۚ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ ۖ بَصُرْتُ بِهِ عَنِ جُنُبٍ ۚ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلٍ

So she (Moses' aunt) said, "should I tell you of such a family who may bring up this child on behalf of you and they are his well-wishers."

13. Thus We (Allah) returned him to his mother that her eyes might rejoice and that she might not grieve and that his mother might know that the promise of Allah is true. But most of the people do not know.

[ONE FOURTH OF PART 20 ENDS]

SECTION 2

14. And when he reached his maturity and attained full strength, We (Allah) bestowed him wisdom and knowledge and thus We (Allah) reward those who are the beneficent.

15. And he (Moses) entered the city, at a time when the people of the city, were unaware in their noon nap. And he found there two men fighting, one was from his own party, and the other from his enemies. Then the one who was from his party sought his help against the other who belonged to his enemies. So Moosaa (Moses) gave a blow to him and put an end to him. He said, "this is the work of the satan (devil)". Surely he is an enemy, who clearly misleads.

16. He submitted, "O my Rubb (Sustainer) I have indeed wronged myself crossing the limit, therefore, forgive me"; so He forgave him. Surely He is the Forgiving, the Merciful.

17. He submitted, "O my Rubb (Sustainer) as you have Blessed me, therefore, now I shall never be a helper to the criminals".

دوں ایسے گمراہوں کے تمہارے اس بچے کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں (12)

تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے (13)

فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَ لَكُمْ وَهُمْ لَن نَّصِفُونَ

فَوَدَدْنَا لِي آتِيَهُمْ لِيَفْرَقَ عَيْنَاهَا وَلَا تَحْزَنَ وَرَبِّعَلْمَهُمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ يُبَدَّلُ وَلَٰكِن أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

اور جب اپنی جوانی کو پہنچا اور پورے زور پر آیا ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو (14)

اور اس شرم میں داخل ہوا جس وقت شرم والے دوپہر کے خواب میں بے خبر تھے تو اس میں دو مرد لڑتے پائے، ایک موسیٰ کے گروہ سے تھا، اور دوسرا اس کے دشمنوں سے تو وہ جو اس کے گروہ سے تھا، اس نے موسیٰ سے مدد مانگی، اس پر جو اس کے دشمنوں سے تھا تو موسیٰ نے اس کے گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا، کہا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے شک نہ دشمن ہے کھلا گمراہ کرنے والا (15)

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَفَاهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

عرض کی! اے میرے رب میں نے اپنی جان پر زیادتی کی، تو مجھے بخش دے، تو رب نے اسے بخش دیا بیگ وہی بخشنے والا مہربان ہے (16)

عرض کی! اے میرے رب جیسا تو نے مجھ پر احسان کیا، تو اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا (17)

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرْنَا لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾

18. So he saw the morning (passed the night) in the city fearing and vigilant as to what happens. Behold he saw the man who had sought his help the day before was again crying for his help. Moosaa (Moses) said to him, "surely, you are clearly a misguided fellow."

19. But when he (Moses) wished to get hold of him who was an enemy to both, he said, "O Moosaa (Moses) do you intend to kill me as you did kill a person yesterday? Your only intention is to become a powerful violent man in the land and you do not desire to be a reformer."

20. And there came a man running from the farthest end of the city. He said, "O Moosaa (Moses) surely the chiefs are counselling together to kill you. Therefore, get away. Surely, I am your well-wisher".

21. Then he got out (of the city) fearful and waiting anxiously what happens now. He submitted, "O my Rubb (Sustainer) save me from the cruels".

SECTION 3

22. And when he turned his face towards Madiyan, he said, "it is near that Rubb (Sustainer) may guide me to the straight path".

23. And when he came at the water of Madiyan, there he found an Uummah (grand community) of mankind who were drawing water for their animal (For their drinking). Besides them he saw two women holding back (their flocks). Moosaa (Moses) said, "what is the matter with you"? They said, "we cannot

توجہ کی اس شرم میں ڈرتے ہوئے اس انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے جبھی دیکھا کہ وہ جس نے کل ان سے مدد چاہی تھی، فریاد کر رہا ہے سوئی نے اس سے فرمایا بیگنہ تو کھلا گمراہ ہے (18)

تو جب موسیٰ نے چاہا کہ اس پر گرفت کرے، جو ان دونوں کا دشمن ہے وہ بولا! اے موسیٰ کیا تم مجھے ویسا ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں سخت گیر بنو اور اصلاح کرنا نہیں چاہتے (19)

اور شرم کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا آیا کہا اے موسیٰ بے شک دربار والے آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں تو نکل جائیے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں (20)

تو اس شرم سے نکلا ڈرتا ہوا اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے، عرض کی! اے میرے رب! مجھے ستکاروں سے بچالے (21)

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ
فَأَذَانُ الَّذِي اَسْتَشَارَهُ بِالْأَمْسِ
يَسْتَصْرِحُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ
لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْطَشَ بِالَّذِي هُوَ
عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمْوَسَى ائْتِرِيدُ أَنْ
تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنَّ
تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَانًا فِي الْأَرْضِ
وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلِحِينَ ﴿١٩﴾

وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى
قَالَ يَمْوَسَى إِنَّ الْمَلَأِيأَاتَ يَجْرُونَ
بِكَ لِيُقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَمَكِّ

مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾
فَخَرَجَ مِنْهُمْ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ
نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾

اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوا، کہا
قرب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ
بتائے (22)

اور جب مدین کے پانی پر آیا، وہاں لوگوں
کے ایک گروہ کو دیکھا، کہ اپنے جانوروں
کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے اس
طرف دو عورتیں دیکھیں، کہ اپنے
جانوروں کو روک رہی ہیں موسیٰ نے فرمایا
تم دونوں کو کیا حال ہے، وہ بولیں! ہم پانی

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى
رَبِّي أَنْ يُهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٢٢﴾

وَلَمَّا وُورِدَمَا مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ
أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ
مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۚ

draw water for our flocks until all the shepherds take away (their animals) and our father is very old man".

24. So he (Moses) drew water for their flock, then turned back under the shade, and said, "O my Rubb (Sustainer) surely I am in need of that good You may send down for me".

25. Afterwards one of the two (ladies) came to him walking modestly and said, "my father invites you that he may give you wage for that you have watered (our animals)". So when he (Moosaa) came to him and told him the facts, he said, "do not be afraid; you have been rescued from the nation of cruels".

26. One of the two (ladies) said, "O my father engage him on wages. Surely, the best of men you can hire is the one who is strong and trustworthy".

27. He (father) said, "I intend that I may marry to you one of my two daughters on the condition (of such a dower) that you serve me for eight years. But if you complete full (ten) years, then that will be by your own choice. And I do not desire to put you to hardship. If Allah Wills, you would find me of the upright man".

28. He (Moses) said, "this (agreement) is between you and me, whichever of the two terms I fulfil. There will be no injustice against me. And Allah is witness over what we say".

SECTION 4

29. When Moosaa (Moses) completed his term and was

نہیں پلاتے جب تک سب چرواہے چلا کر پھیر نہ لے جائیں اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں (23)

تو سوئی نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی چلا دیا پھر سایہ کی طرف پھیرا، عرض کی! اے میرے رب میں اس کمانے کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں (24)

تو ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی شرم سے پلٹی ہوئی بولی! میرا باپ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہیں مزدوری دے اس کی جو تم نے ہمارے جانوروں کو پانی چلایا ہے جب سوئی اس کے پاس آیا، اور اسے باتیں کہ سنائیں اس نے کہا ڈریے نہیں، آپ بچ گئے ظالموں سے (25)

ان میں کی ایک بولی! اے میرے باپ! ان کو نوکر رکھ لو بیگک بھرت نوکر وہ جو طاقت و امانت دار ہو (26)

کمانے میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک تمہیں بیاباہ دوں، اس شرط پر کہ تم آٹھ برس میری ملازمت کرو پھر اگر پورے دس برس کر لو، تو تمہاری طرف سے ہے اور میں تمہیں شفقت میں ڈالنا نہیں چاہتا قریب ہے انشاء اللہ تم مجھے بیٹیوں میں پاؤ گے (27)

سوئی نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان اقرار ہو چکا میں ان دونوں میں جو میعاد پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں، اور ہمارے اس کے پر اللہ کا زور ہے (28)

پھر جب سوئی نے اپنی میعاد پوری کر دی

قَالَ مَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا النَّبِيُّ حَتَّى يُصَدِّدَ الرَّعَاءَ وَأَكُونَ أَنفِيكُمْ كَبِيرًا ۝۲۳

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۝۲۴

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝۲۵

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۝۲۶

قَالَ إِنِّي لَمَرِيدٌ أَن تَبْكَلَ أَهْدَى ابْنَتِي هَتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَيْثُ مَجِجَ فَإِنِ انْقَمَتِ عَشْرُ أَفْئِنِّ عِنْدِكَ وَوَأَنزِدْ لِي مِنْ شَأْنِكَ سِتْرًا فَإِنِ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝۲۷

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلِينَ قَضَيْتَ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ بِمَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝۲۸

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ

travelling with his wife, he observed a fire from the side of the Toor (Mount). He said to his family, "you stay here, I have observed a fire from the side of mount Toor. Surely I may bring you some informative news from there, or I may bring to you a lighted part from the fire that you may warm yourself".

30. And when he came to it (fire), he was called from a tree on the right side of the valley in the blessed spot, (calling) "O Moosaa (Moses), "I am Allah, the Sustainer (Rubb) of the entire universe".

31. "Now cast down your rod." But when he (Moses) saw it moving as it were a serpent, he retreated turning his back and did not wait. (It was said) "O Moosaa (Moses), come back and do not fear. Surely, you are among the secured".

32. "Put your hand in your armpit and it will come out white shining without defect. And put your hand on your chest for removing the fear. These are the two proofs of your Rubb (Sustainer) towards Firawn (Pharaoh) and his chiefs. Surely, they are a rebellious nation."

33. He said, "O my Sustainer, I have killed a person from among them, I, Therefore, fear that they will kill me".

34. "And my brother Haroon (Aaron) is more eloquent in speech than me, therefore, appoint him Rasool (Messenger) as my helper to confirm me because I fear that they will dub me as a liar."

اور اپنی بی بی کو لے کر چلا طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی اپنی گھروالی سے کہا تم غصو مجھے طور کی طرف سے ایک آگ نظر پڑی ہے شاید! میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لاؤں کہ تم تاپو (29)

پھر جب آگ کے پاس حاضر ہوا، ندا کی گئی میدان کے داہنے کنارے سے، برکت والے مقام میں بیڑ سے کہ اے موسیٰ! بیکہ میں ہی ہوں اللہ رب سارے جہاں کا (30)

اور یہ کہ ڈال دے اپنا عصا پھر جب موسیٰ نے اسے دیکھا لہراتا ہوا، گویا سانپ ہے، پینہ پھیر کر چلا، اور مڑ کر نہ دیکھا اے موسیٰ سامنے آ، اور ڈر نہیں بیکہ تجھے مان ہے (31)

اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال نکلے گا سفید چمکتا ہے عیب اور اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لے خوف دور کرنے کو تو یہ دو جگتیں ہیں تیرے رب کی فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بے شک وہ بے حکم لوگ ہیں (32)

عرض کی! اے میرے رب میں نے ان میں ایک جان مار ڈالی ہے، تو ڈرنا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں (33)

اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، تو اسے میری مدد کے لیے رسول بنا، کہ میری تصدیق کرے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے بھلا لیں گے (34)

أَنسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا الْعَالِيَةِ أَيْتَكُمْ مِنْهَا بَخِيرٌ أَوْ جَذَعٌ وَإِنَّ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾

فَلَمَّا أَنشَأَتْنَادِي مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُمُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾

وَإِنِ اتَّقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٣١﴾

أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْوِبٌ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُورَةٍ وَأَصْمَمٌ إِلَيْكَ جَنَّاتِكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَلِكِ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَوَلَّيْتَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا أَفْوَاكًا فَسَقِيمًا ﴿٣٢﴾

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾

وَإِخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْتُهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۚ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾

35. He (Allah) said, "We (Allah) shall certainly strengthen you with your brother and shall give both of you dominance, that they will not harm you. On account of Our (Allah's) Verses you both and those who will follow you shall triumph".

36. Then when Moosaa (Moses) brought to them Our (Allah's) clear Verses, they said, "this is nothing, but forged magic, and we did not hear the like among our forefathers".

37. And Moosaa (Moses) said, my Rubb (Sustainer) knows best the man who brings guidance from Him and for whom will be the best end of the hereafter. Surely, the cruels do not prosper.

38. And Firawn (Pharaoh) said, "O chiefs, I have no knowledge of any god for you other than myself. Therefore, "O Haamaan, bake the clay (bricks) and build for me a high tower that perhaps I may go up and get knowledge about the God worshipped by Moosaa (Moses). But I am convinced that indeed he is one of the liars".

39. And he (Pharaoh) and his army were unjustly boastful on the land and they thought that they will never be brought back to Us (Allah).
40. Therefore, We (Allah) seized him and his army and cast them into the river. See then, what was the end of the cruels.

41. And We (Allah) made them the leaders who call towards the fire; and they shall not be helped on the Day of Resurrection.

فرمایا قریب ہے کہ ہم تم سے ہازد کو تم سے بھائی سے قوت دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے، تو وہ تم دونوں کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے ہماری نشانوں کے سبب، تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے غالب آؤ گے (35)

پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لایا بولے! یہ تو نہیں مگر جادو کا جادو اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں میں ایسا نہ سنا (36)

اور موسیٰ نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لایا اور جس کے لیے آخرت کا گھرہا کا بے شک ظالم مراد کو نہیں پہنچے (37)

اور فرعون بولا! اے دو بارہو! میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا، تو اے ہمان میرے لیے گارا بنا کر ایک محل بنا، کہ شاید! میں موسیٰ کے خدا کو جھانک آؤں اور بیٹک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے (38)

اور اس نے اور اس کے لشکریوں نے زمین میں بے جا بڑائی چاہی اور سمجھے کہ انہیں ہماری طرف پھرتا نہیں (39)
تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پھوکر دریا میں پھینک دیا تو دیکھو! کیسا انجام ہوا ستاروں کا؟ (40)

اور انہیں ہم نے دوزخیوں کا پیشوا بنایا کہ آگ کی طرف بلائے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہ ہوگی (41)

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصْحٰقُونَ
ثُمَّ اٰتَيْنٰكَ اٰيٰتِنَا اَنْتُمْ اَوْسٰن
اَتَّبِعْكُمُ الْغٰلِبُونَ ﴿۳۵﴾

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ
قَالُوْا مَا هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّضْمَرٌ وَمَا
سَمِعْنَا بِهٰذَا اِذِ اٰبَاؤُنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿۳۶﴾
وَقَالَ مُوسٰى رَبِّيْ اَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ
بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ وَمَنْ تَكُوْنُ
لَهُ عٰقِبَةُ الدّٰرِ اِنَّهٗ لَا يُغٰلِبُهُ
الظّٰلِمُوْنَ ﴿۳۷﴾

وَقَالَ فِرْعٰوْنُ يٰٓاَيُّهَا الْمَلٰٓئِكَةُ اٰتَيْتُمْ
لَكُمْ مِنَ الْاِلٰهِ عٰبِدِيْ فَاَوْقِدُوْا لِيْ هٰٓؤُلَاءِ
عَلَى الطِّيْنِ فَاَجْعَلْ لِّيْ صُوْحًا اَعْلٰى
اَطْبِقْ لِي الْاِلٰهَ مُوسٰى وَارِثِيْ لَا اظُنُّهٗ
مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿۳۸﴾

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِى الْاَرْضِ
يَغۡرِبُوْنَ الْحَقَّ وَظَنُوْا اَنَّهُمْ اٰتَيْنَا
لَا يُرۡجَعُوْنَ ﴿۳۹﴾
فَاَخَذْنَاهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَزَّلْنٰهُمْ فِى
النَّٰرِ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ
الظّٰلِمِيْنَ ﴿۴۰﴾

وَجَعَلْنٰهُمْ اٰيٰتَةً يَّذَعُوْنَ اِلَى النَّارِ
وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنصَرُوْنَ ﴿۴۱﴾

42. And We (Allah) caused them to be followed by a curse in this world; and on the Day of Resurrection they shall be among the hated ones.

اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگائی اور قیامت کے دن ان کا برا ہے۔ (42)

وَاتَّبَعْنَهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿۴۲﴾

SECTION 5

43. And surely, We (Allah) gave a Book to Moosaa (Moses) after We (Allah) had destroyed the earlier generations, to be examples to the mankind and guidance and mercy so that they may reflect.

اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، بعد اس کے کہ اگلی جنسیں ہلاک فرما دیں جس میں لوگوں کے دل کی آنکھیں کھولنے والی باتیں اور ہدایت اور رحمت تاکہ وہ نصیحت مانیں (43)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ
مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بِصَافِيَةٍ
لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ﴿۴۳﴾

44. And you (Muhammad S. A. W.) were not on the western side (of mount Toor) when We (Allah) revealed the command (of Prophet-hood) to Moosaa (Moses) and you were also not the witness at that time.

اور تم طور کی جانب مغرب میں نہ تھے جب کہ ہم نے موسیٰ کو رسالت کا حکم بھیجا اور اس وقت تم حاضر نہ تھے (44)

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْعُرْوَةِ إِذْ قَضَيْنَا
إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ
الشَّاهِدِينَ ﴿۴۴﴾

45. But We (Allah) raised up (many) generations and a very long time passed over them, and you were not a dweller among the people of Madiyan, reciting Our (Allah's) Verses to them, yet We (Allah) raised the Rasools (Messengers).

مگر ہوا یہ کہ ہم نے جنسیں پیدا کیں کہ ان پر زمانہ دراز گزرا اور نہ تم اہل مدین میں مقیم تھے ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے ہاں! ہم رسول بنانے والے ہوئے (45)

وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلُ عَلَيْهِمْ
الْعُمْرُ وَمَا كُنْتَ فِي أَهْلِ
مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا
كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿۴۵﴾

46. And you were not on the side of mount Toor when We (Allah) called (Moosaa). But you (Muhammad S. A. W.) are a Mercy from your Rubb (Sustainer) that you may warn a nation to whom no warner came before you, that they may reflect.

اور نہ تم طور کے کنارے تھے جب ہم نے نرا فرمائی ہاں تمہارے رب کی مہربانی (کہ تمہیں فیہ کے علم دینے) کہ تم ایسی قوم کو ڈر سناؤ، جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا یہ امید کرتے ہوئے کہ ان کو نصیحت ہو (46)

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا
وَلَكِن رَّحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ أُمَّ
قَوْمًا مَا آتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۴۶﴾

47. And had it not been so arranged that when any disaster would have befallen, for what their hands had sent before, they could have said, "O our Rubb (Sustainer) why did You not send any Rasool (Messenger of Allah) towards us that we might have followed Your Verses and mig: t have been believers?"

اور اگر نہ ہوتا کہ کبھی پہنچتی انہیں کوئی مصیبت اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو کہتے اے ہمارے رب تو نے کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لاتے (47)

وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ مِمَّا
قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ لَيَقُولُنَّ إِذْ بَدَأْنَا
أَرْسَلْنَا إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعُ آيَاتِكَ
وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۷﴾

48. But when the truth (Qur'aan) came to them (infidels of Makkah) from Us (Allah) they ask, "why is he (Muhammad) not bestowed the same as was bestowed to Moosaa (Moses)?" What! Donot they reject what was bestowed to Moosaa (Moses)? They say, "these are two works (Torah and Qur'aan), supporting each other". And they said, "we surely disbelieve both".

49. Please declare, "bring any Book from Allah which is a better guide than these two that I (Muhammad) may follow, if you are truthful".

50. But if they do not answer you just understand that they only follow their own desires. And who is more on the wrong way than the one who follows his own desires except the guidance of Allah. Surely, Allah does not guide the nation of the cruels.

SECTION 6

51. And surely, We (Allah) have sent them the Word to reach them that they may reflect.

[ONE HALF OF PART 20 ENDS]

52. Those to whom We (Allah) gave the Book before it, they are believers in it.

53. And when these (Verses) are recited to them they say, 'we believe in it. Surely, it is the truth from our Rubb (Sustainer). We surrender to Him as Muslims.

54. Those shall be given their reward twice for their being steadfast, and they repel evil with good, and spend out of the provisions We (Allah) have bestowed them.

پھر جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے بولے! اے میں کیوں نہ دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا کیا اس کے منکر نہ ہوئے تھے؟ جو پہلے موسیٰ کو دیا گیا بولے! وہ جاہلوں ہیں ایک دوسرے کی ہمتی پر اور بولے! ہم ان دونوں کے منکر ہیں (48)

تم فرماؤ تو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت کی ہو میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو (49)

پھر اگر وہ یہ تمہارا فرمانا قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ یہ اپنی خواہشوں ہی کے پیچھے ہیں اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اپنی خواہش کی پیروی کرے اللہ کی ہدایت سے جدا ہے شک اللہ ہدایت نہیں فرماتا ظالم لوگوں کو (50)

اور بے شک ہم نے ان کے لیے بات مسلسل اتاری کہ وہ دھیان کریں (51)

جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں (52)

اور جب ان پر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے بے شک یہی حق ہے ہمارے رب کے پاس سے ہم اس سے پہلے ہی گردن رکھ چکے تھے (53)

ان کو ان کا اجر دو بالا دیا جائے گا بدلا ان کے صبر کا اور وہ بھلائی سے بُرائی کو ٹالتے ہیں اور ہمارے دینے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں (54)

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا آتَانِي مِثْلَ مَا آتَانِي مُوسَىٰ أَوْ لِمَ يَكْفُرُوا بِالْحَقِّ كَمَا كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَالُوا أَصْحَابُ الْأَنْبِيَاءِ قَوْمًا أُخَالَفُوا بَعْضٌ كَفَرُوا ۖ ۝۴۸

قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝۴۹

فَإِن لَّمْ يَنْتَهِبُوا إِلَيْكَ فَاعْلَمُ أَنَّمَا يُتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ

مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝۵۰

وَلَقَدْ وَّضَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝۵۱

الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ۝۵۲

وَإِذْ يَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا هَاتِنَا آيَةَ رَبِّهِ إِنَّهُ الْخَسْفُ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ۝۵۳

أُولَٰئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَإِذْ رَأَوْنَا الْحَسَّةَ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ۝۵۴

55. And when they hear nonsense, they turn away from it and say, "we shall have our deeds, and you shall have your deeds.

Compliment to you. We do not befriended the ignorants."

56. Surely, you cannot guide whom you please, but Allah guides whom He Will. And He best knows who are the guided.

57. And they say, "if we follow guidance with you we shall be deprived from our land". What! Have We (Allah) not settled them in the safe territory from which all kinds of fruits can be grown, a providence from Us (Allah)? But most of them do not know it.

58. And how many settlements We (Allah) have destroyed which flourished in their luxurious life. So these are their homes which were not inhabited after them except for a little time, and only We (Allah) are their inheritor.

59. And your Rubb (Sustainer) never destroyed the nations until He sent to their capital cities a Rasool, (Messenger) reciting Our (Allah's) verses to them. And We (Allah) do not destroy the cities, except when their inhabitants become cruel.

60. And whatever thing you have been bestowed, is the temporary enjoyment of only this worldly life and its ornament, and whatever is with Allah is better and everlasting. Have you then no sense?

SECTION 7

61. Is the one, whom We (Allah) have given a gracious

اور جب بے ہوش بات سنتے ہیں اس سے تفاعل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل بس تم پر سلام ہم جاہلوں کے غرضی نہیں (55)

بے شک یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے جاہلوں ہدایت کر دو ہاں اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو (56)

اور کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو لوگ ہمارے ملک سے ہمیں ایک لے جائیں گے کیا ہم نے انہیں جگہ نہ دی لیکن والی حرم میں جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں ہمارے پاس کی روزی لیکن ان میں اکثر کو علم نہیں (57)

اور کہتے شہر میں نے ہلاک کر دیے جو اپنے پیش پر اترا گئے تھے تو یہ ہیں ان کے مکان کہ ان کے بعد ان میں سکونت نہ ہوئی مگر کم اور ہمیں وارث ہیں (58)

اور تمہارا رب شہروں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے اصل مرجع میں رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھے اور ہم شہروں کو ہلاک نہیں کرتے مگر جب کہ ان کے ساکن سنگار ہوں (59)

اور جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے وہ دنیوی زندگی کا برتاؤ اور اس کا سنگار ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ (60)

تو وہ کیا جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا تو وہ اس

وَإِذْ أَسْمَعُوا اللَّغْوَ اعْرَضُوا عَنْهُ
وَقَالُوا إِنَّا أَعْمَالُنَا وَكُنْمْ أَعْمَالَكُمْ
سَلَّمَ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِي

الْجَاهِلِينَ ﴿۵۵﴾

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ
اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۵۶﴾

وَقَالُوا إِنْ تَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكُمْ
نَتَخَطَّفَنَّ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَمْ نُمَكِّنْ

لَهُمْ حَرَمًا مِمَّا يُحِبُّ إِلَيْهِ فَتَمَرَّتْ
كُلُّ شَيْءٍ زُرْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَوْ كُنْ
أَكْثَرَهُمْ لَيَعْلَمُونَ ﴿۵۷﴾

وَلَوْ أَهْلَكْنَا مِّنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ
مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَوْ
نَسَكْنَا مِمَّنْ بَعْدَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا
وَأَلْحَنَ الْوَرَثِينَ ﴿۵۸﴾

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى
يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا لِّيُنذِرَ أَعْيُنَهُمْ
أَيُّنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا
وَأَهْلِبُنَا ظَهْرَهُمْ ﴿۵۹﴾

وَمَا أَوْعَدْتُم مِّنْ شَيْءٍ فَكُنَّا مُخْلِطِينَ
الدُّنْيَا وَزَيَّنَّا لَكُمُ الدُّنْيَا خَلِيفَةً
لِّرَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۶۰﴾

أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدْنَا حَسَنًا فَهَلْ

promise, and sees it fulfilled, be like the one whom We have (Allah) allowed to enjoy the comforts of this worldly life? But on the Day of Resurrection such one will be brought under arrest.

62. And on the day He will ask them, "where are those partners whom you associated with Me"?

63. Those, against whom the sentence will be confirmed, will say, "O our Rubb (Sustainer) these are the ones whom we led astray. We led them astray as we erred ourselves. We now return to You being disgusted with them." But indeed they never worshipped Me.

64. And it shall be said to them, "call upon your associates (gods)". So they will call upon them. But they will not answer them, and they shall see the punishment. What a good thing would it have been if they had followed the right guidance.

65. And on the Day when He shall call upon them, He will say, "what was the answer you gave to the Rasools (Messengers)"?

66. But all the pleas shall become obscure to them on that day. So they will not ask any question.

67. But as to the one who repents and embraces the faith and does good deeds may hope for the salvation.

68. And your Rubb (Sustainer) creates what so He Wills and chooses whom He Wills. It is not for them to choose. Sanctified and Exalted is Allah from what they associate with Him.

سے ملیا اس جیسا ہے جسے ہم نے دینی زندگی کا برتاؤ کرتے دیا، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر لایا جائے گا (61)

اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں؟ میرے وہ شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے (62)

کس کے کہ وہ جن پر بات ثابت ہو چکی ہے اے ہمارے رب! یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے خود گمراہ ہوئے تھے، ہم ان سے ہزار ہوں کر تیری طرف رجوع لاتے ہیں، وہ ہم کو نہ پڑھتے تھے (63)

اور ان سے فرمایا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو، تو وہ پکاریں گے، تو وہ ان کی نہ سنیں گے، اور دیکھیں گے عذاب کیا اچھا ہوتا اگر وہ راہ پاتے (64)

اور جس دن انہیں ندا کرے گا، تو فرمائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا (65)

تو اس دن ان پر خبریں اندھی ہو جائیں گی تو وہ کچھ پوچھ سمجھ نہ کریں گے (66) تو وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا، اور اچھا کام کیا، قریب ہے کہ وہ راہ یاب ہو (67)

اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے، اور پسند فرماتا ہے، ان کا کچھ اختیار نہیں، پاکی اور برتری ہے اللہ کو ان کے شرک سے (68)

لَا يَدْرِي كَمَنْ تَتَّعَنَهُ مَتَامُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا آيَاتِنَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾

وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يهْتَدُونَ ﴿٦٤﴾

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا جِئْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾

فَعَبِدْتَ عَلَيْهِمُ الْآلِهَةَ يَوْمَئِذٍ فَهَمْ لَا يَتَّسِعُونَ ﴿٦٦﴾

فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾

69. And your Rubb (Sustainer) knows what they conceal in their breasts and what they reveal.

70. And He is but the One Allah. There is none worth worship besides Him. His is all the praise in the present (world) and in the hereafter, and His is the Judgement and to Him you all shall be returned.

71. Please declare (O dear Muhammad), "look to it, if Allah makes the night continue over you till the Day of Resurrection, then which other god besides Allah would bring you light. Do you then not hear?"

72. Please declare, "look to it if Allah makes the day continue over you till the Day of Resurrection, then who is worth worship besides Allah who would bring you the night where you could rest? Will you not then see?"

73. And of His Mercy, He made for you the night and the day, that you may rest therein, and you may seek His Bounty that you may be thankful.

74. And on the Day He will call them and say, "where are those associate whom you made partners with Me".

75. And We (Allah) shall draw a witness from every Uummah (grand community) and say, "bring your proof"; Then they will know that surely, truth belongs to Allah and that which they used to concoct will for-sake them.

SECTION 8

76. Surely Qaroon (Korah) was from the nation of Moosaa (Moses) yet he rebelled against them, and

اور تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہے اور جو ظاہر کرتے ہیں (69) اور وہی اللہ کہ کوئی خدا نہیں اس کے سوا اسی کی تعریف ہے دنیا اور آخرت میں اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے (70)

تم فرماؤ! بھلا دیکھو تو! اگر اللہ ہمیشہ تم پر قیامت تک رات رکھے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہیں روشنی لاوے تو کیا تم سنتے نہیں (71)

تم فرماؤ! بھلا دیکھو تو! اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک ہمیشہ دن رکھے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہیں رات لاوے جس میں آرام کرو تو کیا تمہیں سوچتا نہیں (72) اور اس نے اپنی صبر (مہربانی) سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو اور اس لیے کہ تم حق مانو (73)

اور جس دن انہیں خدا کرے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جو تم کہتے تھے (74)

اور ہر گروہ میں سے ہم ایک گواہ نکال کر فرمائیں گے اپنی دلیل لاؤ تو جان لیں گے کہ حق اللہ کا ہے اور ان سے کوئی جائیں گی جو بناوٹیں کرتے تھے (75)

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُبْنُونَ صِدْقًا وَرُحْمًا
وَمَا يَعْلَمُونَ ①
وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ
فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَ
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ②

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ
النَّيْلَ سَوْمًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ
إِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِنُورٍ أَمْ لَا
تَسْمَعُونَ ③

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ
النَّهَارَ سَوْمًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
مِنْ إِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِنُورٍ
تَسْمَعُونَ فِيهِ أَمْ لَا تَصْبِرُونَ ④
وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ النَّيْلَ وَ
النَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ
فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ⑤

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي
الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ⑥

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا
هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ
لِلَّهِ وَصَدَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يَفْتَرُونَ ⑦

بیک تاروں میں سے تمہارے قوم سے تمہارا پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو

إِنْ كَادُونَ كَانُوا مِنْ قَوْمِ مُوسَى

We gave him so much treasures that its keys were a heavy burden over a troop of strong men. When his nation said to him, "do not boast, Surely, Allah does not love those who are boastful."

77. And seek by means of what Allah has bestowed to you in this world the abode of the hereafter. Do not neglect your share (your duties) in this world and do good (to others) as Allah has done good to you and do not seek mischief in the land. Surely, Allah does not love the mischief makers.

78. He said, "this indeed has been given to me on account of my own knowledge. Did he not know that Allah has destroyed before him such generations who were stronger than him and greater in riches? And the criminals shall be questioned about their misdeeds.

79. So he emerged out of his nation with his pomp (and show). Those who desire the life of this world said, "would that we also had the similar (wealth) that Qaroon (Korah) had been given. Surely he had a great fortune?"

80. And those who were given knowledge, said, "woe to you". Allah's reward is better for those who believe and do good deeds but none receives it except the steadfast."

81. So We (Allah) caused him and his home to sink into the earth. But neither he had a group with him that could save him against Allah, and nor he was of those who defend themselves.

اسے خزانے دیئے جن کی کتبیاں ایک دور اور جماعت پر بھاری تھیں، جب اس سے اس کی قوم نے کہا، 'اترا نہیں، بیشک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا

(76)

اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، زمین میں فساد نہ مچا، بے شک اللہ فسادوں کو دوست نہیں رکھتا

(77)

یو! یہ تو مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے، اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ سنگین ہلاک فرادیں جن کی قومیں اس سے سخت تھیں، اور ربح اس سے زیادہ، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ نہیں (78)

تو اپنی قوم پر نکلا اپنی آرائش میں بولے! وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں کسی طرح ہم کو بھی ایسا ملتا جیسا قارون کو ملا، بیشک اس کا بڑا نصیب ہے (79)

اور بولے وہ جنہیں علم دیا گیا، خرابی ہو تمہاری، اللہ کا ثواب بستر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اور یہ انہیں کو ملتا ہے جو مبرو والے ہیں (80)

تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدل لے سکا (81)

فَمَتَىٰ عَلَيْهِمْ وَأَتَيْنَهُ مِنَ الْمُنْزِلِ مَا إِن مَّفَاتِحُهُ لَنُفُوسِ الْعَصِيَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرُقْ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ حَظَّيَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَا تَصْنِ كَمَا آصَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبِغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَأْتِيَنِي مِنَ الْقُرُونِ مَن هُوَ أَشَدُّ مِنِّي قُوَّةً وَأَكْبُرَ جَبْهًا وَلَا يَسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَبِيتُ لِنَاصِلِ مَا أُوْتِيَ قَارُونَ أَنَّهُ لَدُوْحٌ عَظِيْمٌ ﴿٧٩﴾

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَسْتَكْفُرُونَ تَابَ اللَّهُ خَيْرٌ لِّمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٨٠﴾

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوْنَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴿٨١﴾

82. And in the morning those who had longed to be in his position, the day before, began to say, "it is strange Allah increases the provisions for who of His devotees He Wills and delimits it (for whomso He Wills)". "If Allah had not been gracious to us, we too had been caused to sink. Ah, there is no prosperity for the disbelievers.

SECTION 9

83. This home of the hereafter, We (Allah) assign it to those who neither desire boastful exaltation in the earth, nor mischief. And the end is only for those who are pious.

84. Whoso brings good deeds, for him is better reward than it; and who so brings evil deeds, the doers of evil shall not be recompensed, except what were their deeds.

85. Surely, He Who has made the Qur'aan binding on you, will bring you back (Muhammad S.A.W. to Makkah) where you desire to return. Please declare, "my Rubb (Sustainer) knows best who has brought the guidance and him who is grossly on the wrong way.

86. And you did not expect that the Book would be revealed to you, except as a mercy from your Rubb (Sustainer). Therefore, never be a helper of the disbelievers.

87. And let no one turn you away from the Verses of Allah, after they have been revealed to you. And call towards your Rubb (Sustainer) and never be among the associators.

اور کل جس نے اس کے مرتبہ کی آرزو کی تھی، صبح کئے گئے، عجب بات ہے، اللہ رزق وسیع کرتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے، اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا، تو ہمیں بھی دھنسا دیتا، اے عجب کافروں کا بھلا نہیں (82)

یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے، اور نہ فساد اور عاقبت پر تیز گاروں ہی کی (83)

جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر ہے اور جو بدی لائے بد کام والوں کو بدلہ نہ ملے گا مگر جتنا کیا تھا (84)

پیکر جس نے تم پر قرآن فرض کیا، وہ تمہیں پھیر لے جائے گا جہاں پھرنا چاہتے ہو، تم فرماؤ! میرا رب خوب جانتا ہے اسے جو ہدایت لایا، اور جو کھلی گمراہی میں ہے (85)

اور تم امید نہ رکھتے تھے کہ کتاب تم پر بھیجی جائے گی، ہاں! تمہارے رب نے رحمت فرمائی، تو تم ہرگز کافروں کی پشت نہ کرنا (86)

اور ہرگز وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے نہ روکیں، بعد اس کے کہ وہ تمہاری طرف آناری گئیں اور اپنے رب کی طرف بلاؤ، اور ہرگز شرک والوں میں نہ ہونا (87)

وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَيْمِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّ اللَّهَ لَا يَفْقَهُمُ الْكُفْرُونَ ﴿٨٢﴾

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَلْوُنَّ ظُهُورَ الْكُفْرِيِّينَ ﴿٨٦﴾

وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْوَحْيَ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَمُوتُنَّ مِنْ الْعَشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾

88. And never associate in worship anyone except Allah. There is none worth worship besides Him. Everything is perishable save His Being. His is the judgement and towards Him you shall be brought back.

[THREE FOURTH OF PART 20 ENDS]

S. XXIX

SURA UNKABUUT
(THE SPIDER)

Revealed at Makkah

(69 Verses, 7 Sections)

Allah's Name, the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. Alf - Laaam - Meeem (A.L.M.).
2. Does the mankind think that they will be left alone because they say, "we believe and they will not be tried (for their deeds)"?
3. And surely I tried those before them, so Allah will certainly see the truthful and will certainly see the liars.
4. Or do they who commit evil deeds think that they will get escape from Us (Allah). Evil they judge.
5. Whoso hopes to meet Allah, then surely, the term appointed by Allah (for such meeting) is certainly to come. And He is the Hearing, the Knowing.
6. And whoso struggles hard in the way of Allah, he struggles for his own self. Surely, Allah is self-Sustained from the needs of the entire universe.
7. And those who believe and do the good deeds, We (Allah) shall certainly, remove their evils, and shall certainly reward them the best for their good deeds.

اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو نہ پوجنا
اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہر چیز خالی ہے
سوا اس کی ذات کے اسی کا حکم ہے اور
اسی کی طرف ہر جاؤ گے (88)

سورۃ عنکبوت کی ہے (اس میں) التمر
(69) آیتیں اور سات (7) رکوع ہیں

شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان
رحم والا

الم (1)

کیا لوگ اس گمراہی میں ہیں کہ اتنی بات
پر چھوڑ دیئے جائیں گے، کہ کہیں ہم
ایمان لائے، اور ان کی آزمائش نہ ہوگی
(2)

اور بیگنہ ہم نے ان سے انگوٹھ کو چاہنا تو
ضرور اللہ جنوں کو دیکھے گا اور ضرور
جھوٹوں کو دیکھے گا (3)

یا یہ سمجھے ہوئے ہیں وہ جو برے کام کرتے
ہیں کہ ہم سے کہیں نکل جائیں گے،
کیا ہی بڑا حکم لگاتے ہیں (4)

بسے اللہ سے ملنے کی امید ہو تو بیگنہ! اللہ
کی میعاد ضرور آنے والی ہے اور وہی سنتا
جاتا ہے (5)

اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے، تو
اپنے ہی بھلے کو کوشش کرتا ہے، بیگنہ
اللہ بے پروا ہے سارے جہان سے (6)

اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ہم
ضرور ان کی برائیاں اتار دیں اور ضرور
انہیں اس کام پر بدلہ دیں گے جو ان کے
سب کاموں میں اچھا تھا (7)

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا
إِلَهَ الْأَوْكُلِ شَيْءٌ هَالِكٌ إِلَّا
وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا
إِلَهَ الْأَوْكُلِ شَيْءٌ هَالِكٌ إِلَّا
وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْعَمَّ

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا

أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا

وَلْيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ

أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ

اللَّهُ لَأَبْلِغُنَّ أَهْلَهُ مَا وَعَدْتُهُمْ

وَمَنْ جَاهَدْنَا فَآتِنَا بِجَاهِدٍ لِنَفْسِهِ

إِنَّ اللَّهَ لَغَفِيْرٌ عَنِ الْعٰلَمِينَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَاتِ

لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا

يَعْمَلُونَ

8. And We (Allah) have instructed human beings to be kind towards their parents; but if they (parents) strive to make you to associate someone with Me that about which you have no knowledge. For that do not obey them. To Me is your return. Then I shall inform you what you used to do.

9. And those who believe and do pious deeds, certainly We (Allah) shall admit them among the righteous.

10. And among mankind there are some persons who say, "we believe in Allah, but when some of them are hurt in the way of Allah, they regard the persecution in the hands of mankind as equal to the punishment of Allah. And if help comes from your Rubb (Sustainer) then they surely say, "we were with you". Is not Allah best aware about what is in the hearts of the (people of) entire universe?

11. And surely Allah has full distinction of the believers and the distinction of the hypocrites.

12. And the disbelievers say to the believers (Muslims), "follow our path and we shall bear your misdeeds". Whereas they cannot bear anything out of their misdeeds. Surely, they are liars.

13. And certainly, they shall carry their own burdens, and along with their own burdens also carry others' burdens. And they shall be surely questioned on the Day of Resurrection, concerning that which they used to concoct.

اور ہم نے آدمی کو تاکید کی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی، اور اگر وہ تم سے کوشش کریں، کہ تو میرا شریک ٹھہرا سے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کمانہ مان، میری ہی طرف تمہارا پھرتا ہے، تو میں بتا دوں گا تمہیں جو تم کرتے تھے (8)

اور جو ایمان لائے، اور اچھے کام کیے ضرور ہم انہیں نیکیوں میں شامل کریں گے (9)

اور بعض آدمی کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے، تو لوگوں کے ہتھ کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں، اور اگر تمہارے رب کے پاس سے مدد آئے تو ضرور کہیں گے، ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے، کیا اللہ خوب نہیں جانتا جو کچھ جہاں بھر کے دلوں میں ہے؟ (10)

اور ضرور اللہ ظاہر کر دے گا ایمان والوں کو، اور ضرور ظاہر کر دے گا منافقوں کو (11)

اور کافر مسلمانوں سے بولے! ہماری راہ پر چلو، اور ہم تمہارے گناہ اٹھائیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ نہ اٹھائیں گے، بے شک وہ جھوٹے ہیں (12)

اور بیشک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ، اور ضرور قیامت کے دن پوچھے جائیں گے، جو کچھ بتان اٹھاتے تھے (13)

وَوَضَعْنَا لِلسَّانِ بُولِ الدِّيَةِ حَسَنًا
وَإِن جَاهِدَكَ لِتَشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا أَلِي مَرْجِعُكُمْ
فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۸﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿۹﴾
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ
فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً
لِّلنَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ
نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ
أَوْ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ
الْعَالَمِينَ ﴿۱۰﴾

وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿۱۱﴾
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا
اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلَا نَحْمِلْ حَطِيبًا
مِّنْكُمْ وَمَا هُمْ بِحَمِلِينَ مِنْ حَطِيبِهِمْ
قُلْ شَىْءٌ لَّيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ
وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
أَثْقَابِهِمْ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۱۲﴾

SECTION 2

14. And certainly, We (Allah) sent NuuH (Noah) towards his nation. So he remained among them for a thousand years less fifty years. Then the Deluge (highest flood) overtook them and they were cruels.

15. Then I saved him and those in the ark (ship) and made the ark a symbol for the universe.

16. And recall Ibraaheem (Abraham) when he said to his nation, "worship only Allah, and only fear Him". This is best for you if you understand.

17. You only worship idols instead Allah and you concoct pure lies. Surely, those whom you worship, instead of Allah, have no power to provide you. Then seek your provisions from Allah and worship Him and be grateful to Him. You are to return to Him.

18. And if you falsify (truth) then the generations before you also falsified. And the Rasool (Messenger) is only responsible to deliver the clear message.

19. Have they not seen how Allah originates creation, then He reproduces it? Surely, it is very easy for Allah.

20. Please declare, "travel in the earth, then see, how Allah creates things first, then up brings the later creation. Surely, Allah has the power over all the things.

21. He punishes whom He Wills and shows mercy to whom He Wills, and you are to return only to Him.

اور جب ہم نے لوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں پچاس سال کم ہزار برس رہا تو انہیں طوفان نے آ لیا اور وہ عالم تھے (14)

تو ہم نے اسے اور سستی والوں کو بچا لیا اور اس سستی کو سارے جہان کے لیے نمٹالی کیا (15)

اور ابراہیم کو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا: کہ اللہ کو پوجو اور اس سے ڈرو اس میں تمہارا بھلا ہے اگر تم جانتے (16)

تم تو اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہو اور نرا جھوٹ گزرتے ہو وہ بچک وہ جسیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں تو اللہ کے پاس رزق و موزونہ اور اس کی بندگی کرو اور اس کا احسان مانو، تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے (17)

اور اگر تم جھٹلاؤ! تو تم سے پہلے کتنے ہی گروہ جھٹلا چکے ہیں اور رسول کے زور نہیں مگر صاف پہنچا دیتا (18)

اور کیا انہوں نے نہ دیکھا اللہ کی مگر خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بتا دیتا ہے کہ اللہ کو آسان ہے (19)

تم فرماؤ! زمین میں سفر کر کے دیکھو! اللہ کی مگر پہلے بتاتا ہے پھر اللہ دوسری اٹھان اٹھاتا ہے بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے (20)

عذاب دیتا ہے جسے چاہے اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہے اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے (21)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾

وَأَبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَالْقُوَّةَ لَكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتم تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ أَفْكَانَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَلا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَهُ رَبِّكُمْ ﴿١٧﴾

وَإِن تَكْفُرُوا فَعَسَىٰ ذُكْرُكُمْ أَن يَبْلُغَ الْغَيْبِينَ ﴿١٨﴾

وَلَقَدْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُعِيدُهُ وَإِلَىٰ النَّشْأَةِ الْآخِرَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾

22. And you neither can frustrate (the reach of Allah on the earth or in the heavens. And neither you have any helper or any protector besides Allah.

SECTION 3

23. And those who disbelieve in the Verses of Allah and in meeting Him, it is they who have no hope of My mercy and for them is the painful punishment.

24. But his (Abraham's) nation had no answer except that they said, "slay him or burn him. Then Allah rescued him from the fire. Surely in it are signs for the nation of the believers.

25. And he (Abraham) said, "you have surely, taken besides Allah these idols with whom your love is only up to the life of this world. Then on the Day of Resurrection you will deny each other and will curse each other. And the destination of all of you is the fire and you will have no helpers."

26. And Luut believed and (Abraham) said, "I take refuge with my Rubb (Sustainer). Surely He is the Mighty, He is the Wise."

27. We bestowed him Ishaq (Isaac) and Yaqoob (Jacob) and I placed in his progeny (next generations) the Prophet-hood and the Book, and We (Allah) gave him his reward in this world. And surely, in the hereafter, he is among the righteous.

28. And (I sent) Luut when he said to his nation, surely you commit ludeness which none among the entire universe has committed before.

اور نہ تم زمین میں قابو سے نکل سکو اور نہ آسمان میں اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا اور نہ مددگار (22)

اور وہ جنہوں نے میری آیتوں اور میرے ملنے کو نہ مانا، وہ ہیں جنہیں میری رحمت کی آس نہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے (23)

تو اس کی قوم کو کچھ جواب بن نہ آیا، مگر یہ بولے! انہیں قتل کر دیا جلاؤ، تو اللہ نے اسے آگ سے بچالیا، بیٹک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے (24)

اور ابراہیم نے فرمایا: تم نے تو اللہ کے سوا یہ بت بنا لیے ہیں، جن سے تمہاری دوستی یہی دنیا کی زندگی تک ہے، پھر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کے ساتھ کفر کرے گا، اور ایک دوسرے پر لعنت ڈالے گا، اور تم سب کا ٹھکانا جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں (25)

تو لوٹ اس پر ایمان لایا، اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں بیٹک وہی عزت و حکمت والا ہے (26)

اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، اور ہم نے دنیا میں اس کا ثواب اسے عطا فرمایا، اور بیٹک آخرت میں وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہے (27)

اور لوٹ کو نجات دی جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا: تم بیٹک بے حیائی کا کام کرتے ہو، کہ تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے کیا نہ (28)

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَأْتِيهِمُ اللَّهُ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَكْسِبُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَلَيُنَاجِئُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

فَأَمَّن لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ الدُّبُورَ وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ آجُرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ

وَلُوطٌ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَنَا لَأَوْنُ الْفَاجِسَةِ مَا مَسَّبَقْتُمْ بِهِ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

29. Do you commit (unnatural offence) with males and commit robbery on the high ways, and commit evil deeds in your assemblies? But his nation's answer was nothing. But they demanded, "bring upon us the punishment of Allah, if you are truthful".

30. He submitted, "O my Rubb (Sustainer) help me against these mischievous people".

SECTION 4

31. When My Angels brought to Ibraaheem (Abraham) the good news, they (Angels) said, "we are going to destroy the people of this city". "Surely, its inhabitant are cruels".

32. He said, "surely there is Luit". They (angels) said, "we know well who is in it. We shall certainly save him and his family, except his wife, as she is among those who remain behind."

33. And when Our (Allah's) Angels came to Luit, he was distressed on account of them and he felt powerless regarding (protecting) them but they said, "neither fear and nor be grieved. Surely, we shall save you and your family, except your wife, who is among those who remain behind (the faith)".

34. Surely, we (Angels) are going to bring down upon the people of this city a punishment from the heaven for their disobedience.

35. And certainly, We (Allah) have left a bright sign for a nation who understand.

36. And to Madiyan (We Allah sent) was their brother

کیا تم مردوں سے بد فعلی کرتے ہو اور راہ مارتے ہو اور اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ ہوا، مگر یہ کہ بولے، ہم پر اللہ کا عذاب لاؤ! اگر تم سچے ہو (29)

عرض کی! اے میرے رب! میری مدد کرو پتھرا
ان لسانی لوگوں پر (30)

أَلَيْسَ لَنَا تُونُ الرِّجَالِ وَقَطَّعُونَ
السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ
فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا
إِنَّمَا يَعْدَابُ اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ
الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾
يَا كَا ل رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمَفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾

اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس
مڑھ لے کر آئے بولے! ہم ضرور اس
شر والوں کو ہلاک کریں گے، بے شک
اس کے بسنے والے سنگار ہیں (31)

کہا، اس میں تو لوط ہے، فرشتے بولے!
ہمیں خوب معلوم ہے جو کوئی اس میں
ہے، ضرور! ہم اسے اور اس کے گھر
والوں کو نجات دیں گے، مگر اس کی
عورت کو، وہ رہ جائیو لوں میں ہے (32)

اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس
آئے، ان کا آنا اسے ناگوار ہوا، اور ان
کے سبب دل تنگ ہوا، اور انہوں نے کہا،
نہ ڈریئے، اور نہ غم کیجئے، بیچک ہم آپ
کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں
گے، مگر آپ کی عورت وہ رہ جائیو لوں
میں ہے (33)

بیچک ہم اس شر والوں پر آسمان سے
عذاب اتارنے والے ہیں، بدلہ ان کی
نافرانیوں کا (34)

اور بیچک ہم نے اس سے روشن نشانی باقی
رکھی عقل والوں کے لئے (35)

مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ
بِالْبَشْرَى قَالُوا إِنَّا مُبْعِدُونَ أَهْلَ هَذِهِ
الْقَرْيَةِ إِنْ أَهْلُهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا وَنَحْنُ أَعْلَمُ
بِمَنْ فِيهَا لَنَنْجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا
الزَّوْجَةَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٢﴾

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَامًا
بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا
تَنْخَفُ وَلَا يَخْزَى إِنَّمَا تَنْجُوكَ وَ
أَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ
الْغَابِرِينَ ﴿٣٣﴾

إِنَّمَا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ
بِضُرٍّ مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ ﴿٣٤﴾

وَلَقَدْ نَزَّلْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾
وَالَّذِي مَدِينُ أَخَاهُمْ شُعَيْبٌ أَتَى قَالَ

Shoaib, who said, "O my nation be devotees to Allah, and fear the Last Day, and donot wander spreading mischief on the earth".

37. But they called him liar. Therefore, a severe earthquake overtook them. Till the morning they were lying motionless, down faced.

38. And the Aad and Samood (Thamud) were destroyed as is evident to you from ruins of their dwelling places. And satan (devil) made their deeds appear fair to them and kept them away from the path, though they could see it keenly.

39. And Qaroon (Korah), and Firawn (Pharaoh) and Haamaan (We—Allah destroyed them all). And surely Moosaa (Moses) came to them with bright signs, but they became boastful in the land, but they could not escape (Allah).

40. Then We (Allah) seized each of them on account of their crimes. Of them, were those against whom We (Allah) sent the storm of stoning, and of them, were those whom a roaring blast overtook and of them were those whom We (Allah) buried in the earth and of them were those whom We (Allah) drowned. And Allah was not unjust to them, indeed they themselves committed cruelties to their own selves.

41. The example of those, who have made guardians except Allah, is like the spider, Who makes a house (of cobweb). Surely, frailest of all houses is the house of the spider. Had they known it.

بھیجا، تو اس نے فرمایا: اے میری قوم! اللہ کی بندگی کرو، اور پچھلے دن کی امید رکھو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ بھگو (37)

تو انہوں نے اسے جھٹلایا، تو انہیں زلزلے نے آیا، تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے (37)

اور عاد اور ثمود کو ہلاک فرمایا: اور تمہیں ان کی بستیاں معلوم ہو چکی ہیں، اور شیطان نے ان کے کوٹک (برے اعمال) ان کی نگاہ میں بھیلے کر دکھائے، اور انہیں راہ سے روکا، اور انہیں سوچتا تھا (38)

اور قارون اور فرعون اور ہامان کو، اور بیٹک ان کے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آیا، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا، اور ہم سے نکل کر جانوالے نہ تھے (39)

تو ان میں ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ پر پکڑا، تو ان میں کسی پر ہم نے پھراؤ اور بھیجا، اور ان میں کسی کو چنگاڑنے آیا، اور ان میں کسی کو زمین میں دھسا دیا، اور ان میں کسی کو ڈبو دیا، اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے، ہاں! وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے (40)

ان کی مثال جنھوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے ہیں، کڑی کی طرح ہے، اس نے جالے کا گھر بنایا، اور بیٹک سب گھروں میں کزور گھر کڑی کا گھر کیا اچھا ہوا اگر جانتے (41)

يَقُولُوا عِبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ
الْآخِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ حَسْرَةً
مُفْسِدِينَ ﴿٣٧﴾

فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ
فَاصْبَحُوا ذُرَاهِمَ جُرْثُمِينَ ﴿٣٨﴾
وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ يُبَيِّنُ لَكُمْ مِمَّنْ
مَسَكْنُهُمْ يُرْسِنُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ
أَعْمَاءَ لَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ
وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٩﴾

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَدْ
جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا
فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا اسْتِقْبَاتِينَ ﴿٤٠﴾

فَلَمَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ
مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ
مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ
مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ
مَنْ أَغْرَقْنَاهُ وَوَكَّلْنَا اللَّهَ لِيُظَلِّمَهُمْ وَلَكِن
كَانُوا الْأَنْفُسَ الَّتِي يُظَلِّمُونَ ﴿٤١﴾

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ الَّتِي اتَّخَذَتْ
بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ
الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

42. Surely, Allah knows on whom they call upon besides Him. And He is the Honorable, the Wise.

43. And these examples We (Allah) narrate to the mankind, and none understands them except the learned.

44. Allah has created the heavens and the earth with truth. Surely, in it, there are signs for the believers (Muslims).

PART 21

S. UNKABUUT (Contd.)

SECTION 5

45. (O dear Prophet Muhammad!) recite the Book that has been revealed to you, and establish Salaat (Muslim Prayer). Surely, Salaat (Prayer) keeps away from indecency and evils. And certainly the remembrance of Allah is the greatest. And Allah knows what you do.

46. And (O Muslims) do not dispute with the followers of the Book except in a best manner, excluding those of them who commit cruelties and say, "we believe in that which has been revealed to us and revealed to you and our god and your god is One and we submit before Him".

47. And (O beloved Muhammad) in the same manner We (Allah) have revealed the Book to you. So those whom We (Allah) have given the Book, believe in it, and there are some others who also believe in it. And no one denies Our (Allah's) Verses, except the disbelievers.

48. And you (Muhammad) neither recited before it any Book nor you could transcribe

اللہ جانتا ہے جس چیز کی اس کے سوا پوجا کرتے ہیں اور وہی عزت و حکمت والا ہے (42)

اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے (43)

اللہ نے آسمان اور زمین حق بنائے ہے لہذا اس میں نشانی ہے مسلمانوں کے لیے (44)

اسے محبوب! پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی اور نماز قائم فرماؤ بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیالی اور بری بات سے اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو (45)

اور اے مسلمانو! کتابیوں سے نہ جھگڑو مگر بہتر طریقہ پر مکرہ و جنوں نے ان میں سے ظلم کیا اور کون ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو تمہاری طرف اترا اور ہمارا تمہارا ایک معبود ہے اور ہم اس کے حضور گردن رکھتے ہیں (46)

اور اے محبوب یونہی تمہاری طرف کتاب اتاری تو وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اس پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ ان میں سے جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیتوں سے منکر نہیں ہوتے مگر کافر (47)

اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے

اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ
وَمَنْ شَاءَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ ﴿۴۲﴾
وَتِلْكَ اٰمَثَالٌ لِّمَنْ لَّمْ يَلْتَمِسْ وَّ
مَآ يَعْزِلُهَا اِلَّا الْعُلَمَآءُ ﴿۴۳﴾
خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
مِنْ حَقِّقٍ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰةً
لِّمَنْ وَّعِنَی ﴿۴۴﴾

اِنَّ مَا اَدْرَسُ مِنَ الْكِتٰبِ
وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ
الْفَحْشَا وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ الْكَبِيْرُ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿۴۵﴾

وَلَا تَجَادِلُوْا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالْحَقِّ
هِيَ اَحْسَنُ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ
وَقَوْلُوا الصّٰبِغِيْنَ اَنْزَلَ السِّيْءَا
اَنْزَلَ السِّيْءَ وَالرِّجْسَا وَالرِّجْسَا وَاِلٰهَكُمْ وَاِحَدٌ
وَمَنْ لَّدُنَّ مُسْلِمُوْنَ ﴿۴۶﴾
وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ فَالَّذِيْنَ
اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَمِنْ
هُمُ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَمَآ يَجْحَدُ
بِآيٰتِنَا اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ﴿۴۷﴾

وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوْنَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ

anything with your right hand. In that case the followers of falsehood would have doubted (that you were a scholar)

49. Rather it is brightest proof in the breasts of those who have been given the knowledge. And none denies Our (Allah's) Verses, except the cruels.

50. And they (disbelievers) say, "why Verses are not revealed from his Rubb (Sustainer)?" Please declare, "the Verses are with Allah. And I am indeed only a clear warner".

51. Is it not enough for them that We (Allah) have revealed to you the Book that is recited to them? Surely, in it there is mercy and reminder for the nation of the believers

SECTION 6

52. Please declare, "Allah is sufficient as witness between me and you. He knows what is in the heavens and in the earth". And those who believe in falsehood and disbelieve in Allah, they are the people who are in loss.

53. And they ask you to hastily bring the punishment but if there had not been an appointed term (for it) then most certainly the punishment would have come upon them. And certainly, it shall come upon them suddenly, when they shall be unaware.

54. They ask you to hasten the punishment and surely, the hell will surround the disbelievers;

55. On the day when the punishment will fall from above them and from beneath their feet, then He will say, "taste what you did".

تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، یوں ہوتا، تو باطل والے ضرور شک لاتے (48)

بلکہ وہ روشن آتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر ظالم (49)

اور بولے! کیوں نہ اتریں کچھ نشانیاں ان پر ان کے رب کی طرف سے تم فرماؤ! نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں تو یہی صاف ڈہرائے والا ہوں (50)

اور کیا یہ انہیں بس نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے، بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے (51)

تم فرماؤ! اللہ بس ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ جو باطل پر یقین لائے، اور اللہ کے منکر ہوئے وہی گمراہے میں ہیں (52)

اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں اور اگر ایک گھنٹا مدت نہ ہوتی، تو ضرور ان پر عذاب آجاتا، اور ضرر ان پر اچانک آئے گا جب وہ بے خبر ہوں گے (53)

تم سے عذاب کی جلدی چاہتے ہیں اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو (54)

جس دن انہیں ڈھانچے گا عذاب ان کے اوپر اور ان کے پاؤں کے نیچے سے اور فرمائے گا، کچھو اپنے کیے کا مزہ (55)

وَلَا تَخْطُءُ بِمِثْرِكَ إِذَا لَرَأَيْتَ
الْمُطَلُونَ ﴿٤٨﴾

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ
الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ
بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿٤٩﴾

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن
رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَ
إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ فِي ذِكْرِ الرَّحْمَةِ
وَذِكْرِ الْقُرْآنِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيِّنًا وَبَيْنًاكُمْ شَهِيدًا
يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ
الَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا
بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٥٢﴾

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ لَأَجَلَ
مُسْتَسْتَجِئًا لَهُمُ الْعَذَابُ وَ
لِيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٣﴾

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّهُمْ لَمُحِيطُونَ
بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٤﴾

يَوْمَ يَعْشُرُ لَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ
وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا
مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾

56. O My believer devotees! surely, My earth is spacious. Therefore worship Me only.

57. Every self is to taste death. Then you shall return back to Us (Allah).

58. And those people who believe and do pious deeds, certainly We (Allah) shall lodge them in the lofty apartments of the Paradise beneath which streams flow. They shall remain therein for ever. What an excellent reward! it will be for those performing good deeds.

59. They are those who are steadfast and rely only upon their Rubb (Sustainer).

60. And how many living creatures are there who can move on the earth but they have their provisions available to them. Allah provides them all and also to you. He is the Hearing, the Knowing.

61. And if you ask them, who has made the heavens, and the earth and has made the sun and the moon to serve, they will certainly say, "Allah". Please declare, "all praise be to Allah." But where are they turning away?

62. Allah makes abundant the provisions for any of His devotees He Wills and delimits it for anyone He Wills. Surely Allah Knows everything.

63. And if you ask them, who sends down water from the sky and therewith revives life on the earth after its death? They certainly, say, "Allah". Please declare, "all praise be to Allah". But! most of them have no wisdom.

اے میرے بندو جو ایمان لائے چیک
میری زمین وسیع ہے، تو میری ہی بندگی کرو
(56)

ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری
ہی طرف پھرو گے (57)

اور چیک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے
ضرور، ہم انہیں جنت کے بالا خانوں پر جگہ
دیں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی
بیش ان میں رہیں گے کیا ہی اچھا اجر کام
والوں کا (58)

وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر
بھروسا رکھتے ہیں (59)

اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی
روزی ساتھ نہیں رکھتے اللہ روزی دیتا
ہے انہیں اور تمہیں، اور وہی سنتا جانتا
ہے (60)

اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنا ہے
آسمان اور زمین اور کام میں لگائے سورج
اور چاند تو ضرور کہیں گے، اللہ نے تو کہاں
اوندھے جاتے ہیں؟ (61)

اللہ کسماہ کرتا ہے رزق اپنے بندوں میں
جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے
جس کے لیے چاہے بے شک اللہ سب
کچھ جانتا ہے (62)

اور جو تم ان سے پوچھو کس نے آمارا
آسمان سے پانی تو اس کے سبب زمین زندہ
کردی مرے بیچے ضرور کہیں گے اللہ نے
تم فرماؤ! سب خوبیاں اللہ کو بلکہ ان میں
اکثر بے محل ہیں (63)

يُعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّي خَشِي

وَأَسِعَةٌ لِّبَايَ فَأَعْتِدْونَ ﴿٥٦﴾

كُلِّ نَفْسٍ ذَاقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ

إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

لَنَجْزِيَنَّهُمْ مِن الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

لَهُمْ فِيهَا زَوْجٌ مِّمَّا يَشَاءُونَ ﴿٥٨﴾

وَالَّذِينَ صَبَرُوا عَلَىٰ آيَاتِنَا إِنَّا

نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِمَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿٥٩﴾

أَلَمْ نَجْعَلِ لَهُمُ الْحَدِيثَ لِيُذَكِّرُوا

بِآيَاتِنَا وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٠﴾

وَلَمَّا سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَشَجَرِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَلَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٦١﴾

أَلَمْ نَبْسُطِ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِن

عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾

وَلَمَّا سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ

مَاءً فَأَنْحَابَهُ الْأَرْضِ وَمَن بَعْدَ

مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ كُلُّ الشَّيْءِ

بِإِذْنِ اللَّهِ بَلَّ أَكْثَرَهُمْ لَآ يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

64. And this life of the world is nothing but pass time and playful one. And surely, the home of the hereafter contains the true life. Had they known it?

65. So when they get into a ship they call upon Allah, being sincerely obedient to Him. But when He brings them safe to the land, they begin to commit "shirk" (associate others with Him);

66. Thus they become ungrateful to that which We (Allah) have bestowed on them. They enjoy themselves, but they will soon know (what they did).

67. Do they not see that We (Allah) have made the sacred territory secure (for them) and the people around them are taken away by force. Will they still believe in falsehood and remain ungrateful to the favour of Allah.

68. And who is more cruel than the one who concocts lies against Allah or falsifies the truth when it comes to him? Is the abode of the disbelievers not in the hell?

69. And those people who struggled hard for Us (Allah's), surely We (Allah) shall guide them in Our (Allah's) ways. And surely, Allah is with the righteous.

S. XXX

SURA RUUM

(THE ROMANS/GREEKS)

Revealed at Makkah

(60 Verses, 6 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. Alf Laaam Meeem (A.L.M.)

2. The Romans have been overpowered;

اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور بے شک آخرت کا مگر ضرور وہی ہی زندگی ہے کیا اچھا تھا مگر جانتے (64)

پھر جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں ایک اسی پر عقیدہ لا کر پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے، جیسی شرک کرنے لگتے ہیں (65)

کہ ناشکری کریں ہماری دی ہوئی نعمت کی، اور برتنی تو اب جانا چاہتے ہیں (66)

اور کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے حرمت والی زمین پناہ بنائی، اور ان کے آس پاس والے لوگ آپک لے جاتے ہیں تو کیا باطل پر یقین لاتے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت سے ناشکری کرتے ہیں (67)

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانا نہیں (68)

اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، ضرور! ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے (69)

وَأَلْهَمَهُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ لِمَنِ الْعِلْمُ ۚ وَإِنَّ الْآخِرَةَ خَيْرٌ لِّمَنِ الْعِلْمُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾

فَإِذْ أَرْكَبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَمَّا أَصَابَهُمُ الْبَرَدُ أَهْمُ يُشْرِكُونَ ﴿١٦﴾
يَكْفُرُوا ذُرِّيَةً أَسْمَاءَ لِيَكْفُرُوا يَكْفُرُونَ ﴿١٧﴾

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِّنَّا وَيَخْتَفِ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِغَمَّةٍ اللَّهُ يَكْفُرُونَ ﴿١٨﴾

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ لَمَّا جَاءَهُ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا مِنَّا نُهْدِيهِمْ ۖ وَجَاهِدُوا مِنَّا لَنُرِيدَنَّ أَن نَسُوبَهُمْ ۚ وَسَبَلْنَاهُمْ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ الْخَسِيئِينَ ﴿٢٠﴾

سورہ روم کہ میں نازل ہوئی (اور اس میں) ساتھ (60) آیتیں اور چھ (6) رکوع ہیں

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

الم (1)

ردی مطلوب ہوئے (2)

سورہ الروم مکیہ ہے یعنی مکہ میں نازل ہوئی اور سب سے پہلے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السمَّ عَلَبَّتِ الرَّوْمُ

3. in the adjacent territory but after their such defeat they will soon overcome;

4. in a few years. The Command is of Allah only, before and after (this defeat). And on that day (of their victory) the believers shall rejoice;

5. with the help of Allah. He helps whom He Pleases; And He is the Honorable, the Merciful.

6. (This is) the promise of Allah. Allah never breaks His Promise, but most amongst the mankind do not know.

7. They just have the knowledge of only the outer appearance of the worldly life, and they are fully unaware of the hereafter.

8. Why they do not reflect within themselves? Allah has created the heavens and the earth and whatever is between them with truth and for an appointed term. And surely, most of the people disbelieve in meeting their Rubb (Sustainer).

9. And have they not travelled in the land to see what was the end of those before them? They were more powerful than these. They tilled the soil and built on it in greater abundance than these have built. And their Rasools (Messengers) brought to them bright signs. Then it was not befitting the Dignity of Allah to be unjust to them, yet! they were cruel to themselves.

10. Then the evil was the end of those who committed evil because that they began to falsify the Verses of Allah and mocked at them.

SECTION 2

پاس کی زمین میں اور اپنی مغرب کی ہمد
مقرب غالب ہوں گے (3)

چند برس میں تم اللہ ہی کا ہے آگے اور
بچے اور اس دن ایمان والے خوش ہوں
گے (4)

اللہ کی مدد سے مد کرتا ہے جس کی چاہے
اور وہی عزت والا مہمان (5)

اللہ کا وعدہ اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا
لیکن بہت لوگ نہیں جانتے (6)

جانتے ہیں آسمانوں کے سامنے کی دنیا
زندگی اور وہ آخرت سے پورے بے خبر
ہیں (7)

کیا انہوں نے اپنے ہی میں نہ سوچا کہ
اللہ نے پیدا کیے آسمان اور زمین اور جو
کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق اور ایک
مقرر میعاد سے اور ایک بہت سے لوگ
اپنے رب سے ملنے کا انکار رکھتے ہیں (8)

فِي آدَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ
عَلَيْهِمْ سَيَخْلِبُونَ ①

فِي بَضْعِ سِنِينَ ذَلِيلَهُ الْأَعْرُوسِ
قَبْلَ وَهِيَ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ
الْمُؤْمِنُونَ ②

يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ③

وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَ
لَكِنَّ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ④

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِمَّا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ الْغُيُوبَ ⑤

أُولَئِكَ يَفْكُرُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ
اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا
بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِمَّا
يُنْفِقُونَ يُنْفِقُوا فِي رُءُوسِهِمْ لَكُفْرًا ⑥

أُولَئِكَ يَفْكُرُونَ ⑦

أُولَئِكَ يَفْكُرُونَ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُونَ
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ
وَعمروها أكثر مما هموروا وجاءت لهم
مرسلهم بالبينات فما كان الله

ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ⑧

ثم كان عاقبة الذين أساءوا السواء
أن كانوا يابلت الله وكانوا يها

بئسهم عرون ⑨

اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ
دیکھتے کہ ان سے انہوں کا انجام کیا ہوا وہ
ان سے زیادہ زور آور تھے اور زمین جوئی
اور آباد کی ان کی آبادی سے زیادہ اور
ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں
لائے تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم
کرتا ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم
کرتے تھے (9)

پھر جنہوں نے حد بھر کی برائی کی انکا انجام
یہ ہوا کہ اللہ کی آیتیں جھٹلانے لگے اور
ان کے ساتھ تسخر کرتے (10)

11. Allah originates the creation, then He reproduces it then you shall be brought back to Him.

12. And on the day when the Hour (of doom) shall be established the culprits shall be in despair.

13. And their associates shall not be their intercessors and they will deny their associates.

14. And the day when the Hour shall come the guilty shall be in despair.

15. But those who believed and did pious deeds, they shall be made happy in the rosy gardens.

16. And those who disbelieved and falsified Our (Allah's) Verses and the meeting of the hereafter, they shall be encircled in the punishment.

17. Therefore, glorify Allah when you enter the evening and rise in the morning.

18. And His is praise in the heavens and on the earth, and (glorify Him) in the afternoon and when you enter upon the time of the decline of the sun.

19. He reproduces the living from the dead and He turns the living into the dead, and gives life to the earth after its death. And in like manner you shall also be brought forth (to life).

SECTION 3

20. And one of His Signs is that He created you from dust. Then you, as human beings, scatter in multiples (in the earth).

21. And one of His Signs is that He created couples for you from among yourselves that you may find enjoyment

اللہ پہلے بناتا ہے پھر دوبارہ بنائے گا پھر اس کی طرف پھرو گے (11)

اور جس دن قیامت قائم ہو گی مجرموں کی آس ٹوٹ جائے گی (12)

اور ان کے شریک ان کے سفارشی نہ ہوں گے اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے (13)

اور جس دن قیامت قائم ہو گی اس دن الگ ہو جائیں گے (14)

تو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، باغ کی کیاری میں ان کی خاطر داری ہو گی (15)

اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیتیں اور آخرت کا ملنا جھٹلایا وہ عذاب میں لادھرے جائیں گے (16)

تو اللہ کی پالی بولو! جب شام کرو اور جب صبح ہو (17)

اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور کچھ دن رہے، اور جب تمہیں دوپہر ہو (18)

وہ زندہ کو نکالتا ہے مردے سے اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے اور زمین کو جلاتا ہے اس کے مرے پیچھے اور یوں ہی تم نکالے جاؤ گے (19)

اور اس کی نشانیوں سے ہے یہ کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے پھر جہی تم انسان ہو دنیا میں پہلے ہوئے (20)

اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے

اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْهِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٢﴾

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ سُفْعَةٌ وَأَكَانُوا لِلشُّرَكَاءِ بِهِمْ كُفْرًا ﴿١٣﴾

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُؤْمِنُونَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿١٤﴾

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِيهِمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾

تَسْبُحُ لِلَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾

وَلَهُ الْعِبَادَةُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذْ أَنْتُمْ بَشَرٌ تَشْتَرُونَ ﴿٢٠﴾

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

in them and He reposed love and mercy between you. Surely, in it are signs for the mankind who know.

22. And one of His Signs is the creation of heavens and earth, and the diversity of your languages and colors. Surely, in it are signs for the mankind who know.

23. And one of His Signs is your sleeping by night and by day and your seeking of His Bounty. Surely, in it are signs for the nation who hear.

24. And one of His Signs is that He Shows you lightening for fear and hope and sends down water from the sky and gives life therewith to the earth after its death. Surely, in it are signs for a nation who understand.

25. And one of His Signs is that the heavens and the earth stand firm by His Command. Then when He will call you out from the earth you will come out forthwith.

26. And to Him belongs whoso is in the heavens and the earth. All are obedient to Him.

27. And it is He, Who originates creatures, then He reproduces it (after death), and it is most easy for Him. And for Him are the most exalted attributes in the heavens and in the earth and He is the Honorable, the Wise.

(ONE FOURTH OF PART 21 ENDS) SECTION 4

28. He narrates for you an example for yourselves. Have you, among those whom your right hands possess made, partners in what We (Allah)

کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی ہے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کر کے والوں کے لیے (21)

اور اس کی نشانوں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف چنگ اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے (22)

اور اس کی نشانوں میں ہے رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا ہے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے (23)

اور اس کی نشانوں سے ہے کہ جسیں بجلی دکھاتا ہے ڈراتی اور امید دلاتی اور آسمان سے پانی اتارتا ہے، تو اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرے پیچھے بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے (24)

اور اس کی نشانوں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں، پھر جب جسیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا جیسی تم نکل پڑو گے (25)

اور اسی کے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کے زیر حکم ہیں (26) اور وہی ہے کہ اول بتاتا ہے، پھر اسے دوبارہ بنائے گا اور یہ تمہاری سمجھ میں اس پر زیادہ آسان ہونا چاہیے اور اسی کے لیے ہے سب سے برتر شان آسمانوں اور زمین میں اور وہی عزت و حکمت والا ہے (27)

تمہارے لیے ایک کماوت بیان فرماتا ہے خود تمہارے اپنے حال سے کیا تمہارے

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخِلَافَ السَّنَنَاتِ لَكُمْ وَالْوَاكِنُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَاقِبُكَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءَ لَكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَمَعَّرُونَ ﴿٢٣﴾

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ نَقُولَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرٍ ثُمَّ إِذْ دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذْ أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾

وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهٌ قَانُونَ ﴿٢٦﴾

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٢٧﴾

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٢٧﴾

صَوَّبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ

have provided you so that you all are equal therein, and you fear for them as you fear for each other? Thus We (Allah) explain the detailed Verses for a nation who understand.

29. But the cruels follow their own desires without knowledge. Then who will guide such one whom Allah leaves to go on the wrong way. And they have no helpers.

30. Therefore, set right your face for the obedience of Allah being the one devoted to Him only. That is the established pattern of Allah upon which He has created mankind. There is no change in the created things of Allah. This is the only right religion. But most of the mankind does not know it;

31. turn to Him in repentance and fear Him and establish Salaat (Muslim prayer) and be not among "muushrik" associators (who equate someone with Allah).

32. They are those who divide their religion and become many sects. Every sect is happy over what they have with them.

33. And when any hurt touches mankind, they call their Rubb (Sustainer) turning towards Him. Then when they enjoy His Mercy, then a group of them starts to be "muushriks" (associate partners) with their Rubb (Sustainer);

34. thus they become ungrateful for what We (Allah) have given them. So enjoy (awhile) then soon you are to know (its result).

35. Have We (Allah) revealed to them any

لے تمہارے ہاتھ کے مال غلاموں میں سے کچھ شریک ہیں اس میں جو ہم نے تمہیں روزی دی تو تم سب اس میں برابر ہو تم ان سے ڈرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو ہم ایسی مفصل نشانیاں بیان فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے (28)

بلکہ ظالم اپنی خواہشوں کے پیچھے ہو لیے جانے تو اسے کون ہدایت کرے؟ جسے خدا نے گمراہ کیا اور ان کا کوئی مددگار نہیں (29)

تو اپنا منہ سیدھا کرو اللہ کی اطاعت کے لیے ایک ایسے اسی کے ہو کر اللہ کی ڈالی ہوئی بنا جس پر لوگوں کو پیدا کیا اللہ کی بنائی چیز نہ بدلنا یہی سیدھا دین ہے مگر بہت لوگ نہیں جانتے (30)

اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے اور اس سے ڈرو اور نماز قائم رکھو اور مشرکوں سے نہ ہو (31)

ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو کھوے کھوے کر دیا اور ہو گئے گمراہ گمراہ ہر گمراہ جو اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے (32)

اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے پھر جب وہ انہیں اپنے پاس سے رحمت کا مزہ دیتا ہے، جیسی ان میں سے ایک گمراہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے (33)

کہ ہمارے دینے کی ناشکری کریں، تو بہت لو اب قریب جانا چاہتے ہو (34)

یا ہم نے ان پر کوئی سزا اتاری کہ وہ

شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاهُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ فَاغْوَتْهُمُ كَيْفِيَّتُمْ أَنْفُسِكُمْ كَذَلِكَ نَفْصِلُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ عِزَّنَا

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَصْلَلَهُ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

فَأَقْرَعُوا وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا يَبْدِيلُ بِهَا لِحُنَّ اللَّهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَائِمُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

وَإِذْ آمَنَ النَّاسُ صَرَّوْا عُنُقَهُمْ فَمِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ ثَمَرٌ إِذَا أَذَاهُمْ مِمَّنْ رَحِمَهُ إِذَا فَرِحُوا مِنْهُمْ وَرَحِمَهُمْ يَشْكُرُونَ

يَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَاتَّعَمُوا نَسُوا لَكُمْ كَيْفَ كُنْتُمْ

أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَرَسُوا

authority that speaks in favor of that they become "muushriks" (make associates) with Him.

36. And when We (Allah) cause mankind to taste mercy, they enjoy it. But if any evil befalls them as a result of what their hands have sent forth, they become despaired.

37. Do not they see that Allah gives ample provisions for whom He pleases, and delimits that? Surely, in it there are signs for the nation of the believers.

38. Give the kinsman his right and to the needy and to the wayfarer. This is better for those who seek the pleasure of Allah and it is they who became prosperous.

39. And whatever you pay as usury (interest) that it may increase the wealth of the mankind but it will never increase with Allah. But whatever you give as Zakaat (compulsory due) desiring Allah's pleasure, such ones will have many folds increase.

40. Allah is He Who has created you, then has provided you, then He will cause you to die. Then He will give you life. Is there any of your associates who can do the least of any of these things? Glorified and Exalted is He above from what they associate as "muushriks" idolator pagans.

SECTION 5

41. The mischief has appeared on the land and in the sea, because of the evils earned by the hands of mankind so that He may make them taste result of some of their doings, that they may turn back.

انہیں ہمارے شریک بنا رہے ہے (35)
اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں اس پر خوش ہو جاتے ہیں اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے بدلا اس کا جو ان کے ہاتھوں نے بھیجا، جیسی وہ ناامید ہو جاتے ہیں (36)

اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ رزق وسیع فرماتا ہے جس کے لیے چاہے اور عقلی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے بھگ اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے (37)

تو رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو یہ بستر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور انہیں کا کام بنا (38)

اور تم جو چیز زیادہ لینے کو دو کہ دینے والے کے مال بڑھیں، تو وہ اللہ کے یہاں نہ بڑھے گی اور جو تم خیرات دو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، تو انہیں کے دینے میں (39)

اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، پھر ہمیں روزی دی، پھر ہمیں مارے گا، پھر ہمیں جلانے گا کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کرے پاکی اور برتری ہے اسے ان کے شرک سے (40)

پہلی خرابی عقلی اور تری میں ان برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں، تاکہ انہیں اچھے بعض کو تکوں (بد عملوں) کا مزہ چکھائے کہیں وہ باز آئیں (41)

يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾
وَلَا أَذْنًا لِّلنَّاسِ وَضَعَةٌ لِّرُحُلِهِمْ
بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ سَيِّئَةً يَمَا أَفَكَدَّمَتْ
أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾
أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
لِمَن يَشَاءُ أَوْ يَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾

قَالَتْ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهَا وَالْمُسْكِينُ
وَأَبْنُ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ
يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

وَمَا أَتَيْتُم مِّن زَيْلٍ زُرْتُمُوهُنَّ فِي أَسْوَاقِ
النَّاسِ فَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِجْهَ اللَّهِ وَمَا
أَتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ
ثُمَّ يَمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ
مِن شُرَكَائِكُمْ مَن تَقْعَلُونَ مِنْ
ذَلِكُمْ مِّن شَيْءٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ
عَمَّا يَشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا
كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا أَلَمْ يَعْلَمُوا
يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

42. Please declare, "travel through the earth and see what was the end of those before you. Most of them were those who were "muushriks" — associators (equated else-one with Allah).

تم فرماؤ! زمین میں چل کر دیکھو کیسا انجام ہوا انگوں کا ان میں بت مشرک تھے (42)

43. Turn your face straight to the right religion before there comes a day from Allah which cannot be averted. On that day they will be split up.

تو اپنا منہ سیدھا کر عبادت کے لیے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جسے اللہ کی طرف سے ٹٹنا نہیں اس دن الگ پھٹ جائیں گے (43)

44. Whoso disbelieves, (the consequence of) his (her) disbelief is on him (her) and those who are righteous they are preparing it for themselves;

جو کفر کرے اس کے کفر کا وبال اسی پر اور جو اچھا کام کریں، وہ اپنے ہی لیے تیاری کر رہے ہیں (44)

45. that He may reward those who believe and do pious deeds out of His Bounty. Surly He does not love the disbelievers.

تاکہ صلہ دے انہیں جو ایمان لائے، اور اچھے کام کیے اپنے فضل سے، بیکہ وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا (45)

46. And one of His Signs is that He sends the winds as bearer of good news and in order that He may cause you to taste His Mercy, and that the ships may sail with His Command and that you may seek His Bounty so that you may be grateful.

اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے مرثہ سنانی، اور اس لیے کہ ہمیں اپنی رحمت کا ذائقہ دے، اور اس لیے کہ کشتی اس کے حکم سے چلے، اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ تم حق مانو (46)

47. And certainly, We (Allah) sent so many Rasools (Messengers) before you towards their own nations and they brought them open signs, then We (Allah) took vengeance from the culprits. And it is Our (Allah's) right to help the believers (Muslims).

اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے پھر ہم نے مجرموں سے بدلا لیا اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا (47)

48. Allah is He Who sends the winds that lift the clouds. Then He spreads clouds in the sky as He pleases, and places on it layer upon layer. Then you see the rain is pouring from insides. Then He causes it to reach on whom He pleases of His

اللہ ہے کہ بھیجتا ہے ہوائیں کہ اعمارتی ہیں بادل، پھر اسے پھیلاتا ہے آسمان میں جیسا چاہے، اور اسے پارہ پارہ کرتا ہے تو تو دیکھے کہ اس کے پچھلے سے سینہ نکل رہا ہے پھر جب اسے پہنچتا ہے اپنے بندوں میں جس کی طرف چاہے، جیسی وہ

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانُوا أَكْثَرَهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾

فَاتِمُّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّقُونَ ﴿٣٢﴾

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلَا لِنَفْسِهِ هُمْ يُمْهَدُونَ ﴿٣٣﴾

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيَذِّقَكُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِالْأَمْرِ وَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُواهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٦﴾

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُذِيرُ سَحَابًا فَيُبْسِطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا تَرَى الْوُدُقَ يُخْرَجُ مِنْ خَلْقِهِ لَوْلَا آصَابُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُوَ

devotees. Behold! they rejoice.

49. Before it (rain) is sent down upon them, they remain in despair.

50. Look on the effects of the Mercy of Allah, how He gives life to the earth after its death. Surely, He will raise to life the dead, and He has the power over everything.

51. And if We (Allah) send some wind by which they see their harvest yellow even after that they would certainly continue to be disbelievers.

52. Surely, neither you make the dead to hear nor you make the deaf to hear the call when they turn away showing their backs.

53. And nor you can guide the blind from their error. You make only those to hear who believe in Our (Allah's) Verses and they are the Muslims.

SECTION 6

54. Allah is He Who made you out of weakness. Then He gave you strength after such weakness. Then after strength causes weakness of old age. He creates what He pleases. He is the All-Knowing, the All-Powerful.

55. And the day when the Hour shall come, the culprits will swear, that they stayed only for an hour. Thus they were turned away (from right path).

56. And those given knowledge and faith will certainly say, "you stayed according to the Book of Allah, till the Day of Resurrection. This then is Day of Resurrection. But you did not care to know

خوشیاں مناتے ہیں (48)

اگرچہ اس کے امارنے سے پہلے اس توڑے ہوئے تھے (49)

تو اللہ کی رحمت کے اثر دیکھو کیوں کر زمین کو جلا تا ہے اس کے مرے پیچھے بے شک یہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے (50)

اور اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں جس سے وہ کھیتی کو زرد دیکھیں تو ضرور! اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں (51)

اس لیے کہ تم مردوں کو نہیں سنا تے اور نہ بہوں کو پکارنا سناؤ جب وہ پیٹھ دے کر پھرتے (52)

اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لاؤ تو تم اسی کو سنا تے ہو جو ہماری آجیوں پر ایمان لائے تو وہ گردن رکھے ہوئے ہیں (53)

يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾
وَلَنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَرْسُلَ عَلَيْهِمْ

مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿٤٩﴾
فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُرْسِي
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ
لَمُنْجَى الْمُتَّقِينَ ﴿٥٠﴾ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ﴿٥١﴾

وَلَنْ أَسْأَلَنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ أُولَئِكَ مِصْفَرًا
لظُلُومٍ بَعْدَهُمْ بِكُفْرِهِمْ ﴿٥٢﴾

فَأِنَّكَ لَا تَسْمَعُ السَّمْعَ الْأَعْمَىٰ إِذَا دُاعُوا لِمَدْيَرِينَ ﴿٥٣﴾

وَمَا كُنْتَ بِهَادٍ الْعُمْيَ عَنْ صُلَّتِهِمْ
إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مِنَ الْيُؤْمِنِ بِلَايَتِنَا أَنَّهُمْ
بِقَوْلِهِمْ ﴿٥٤﴾

اللہ ہے جس نے تمہیں ابتدا میں کمزور بنایا، پھر تمہیں ناتوانی سے طاقت بخشی پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا، بنانا ہے جو چاہے اور وہی علم و قدرت والا ہے (54)

اور جس دن قیامت قائم ہوگی، مجرم تم کھائیں گے، کہ نہ رہے تھے مگر ایک گھنٹی وہ ایسے ہی اوندھے جاتے تھے (55)

اور بولے! وہ جن کو علم اور ایمان ملا ہے شک تم رہے اللہ کے لکھے ہوئے میں اٹھے کے دن تک تو یہ ہے وہ دن اٹھنے کا، لیکن تم نہ جانتے تھے (56)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ
جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ
جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾
وَيَوْمَ يَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ
الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِئُوا غَيْرَ سَاعَةٍ

كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾
وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ
لَقَدْ لَبِئْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ
الْبَعْثِ فَمَا يُؤْمِرُ الْبَعْثَ وَلَكِنَّكُمْ
كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾

57. But on that day, their excuse shall not benefit the oppressors, nor will they be allowed to make amends.

58. And certainly, We (Allah) have set in this Qur'aan every kind of example for the mankind. If you bring them any Verse, the disbelievers would surely say, "you are not but on falsehood".

59. Thus does Allah seal the hearts of those who have no knowledge.

60. Therefore, be patient. Surely, the promise of Allah is true. And let not those who have no certainty hold you in light estimation.

S. XXXI

SURA LOOQMAAN

Revealed at Makkah

(38 Verses, 4 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. Alf Laaam Meem (A.L.M.)

2. These are the Verses of the Book of Wisdom;

3. a guidance and mercy for the benevolents;

4. They are those who establish Salaat (Muslim Prayer) and pay the Zakaat (the compulsory poor due) and have firm faith in the hereafter.

5. They are on the guidance from their Rubb (Sustainer) and they shall prosper.

6. And there is some one amongst the mankind who exchange words for mere trick that may mislead others from the path of Allah without knowledge and just to make fun of it. For them is the humiliating punishment.

تو اس دن ظالموں کو طبع نہ دے گی ان کی
مفدرت اور نہ ان سے کوئی راضی کرنا
سکتے (57)

اور بیگ ہم نے لوگوں کے لیے اس
قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی
اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشانیا لاؤ تو
ضرور کافر کہیں گے، تم تو نہیں مگر باطل پر
(57)

یوں ہی مکر کرتا ہے اللہ جاہلوں کے دلوں
پر (58)

تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے،
اور تمہیں سبک (ست) نہ کر دیں وہ جو
یقین نہیں رکھتے (60)

فِيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
مَعْرَدَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ
مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ
بِآيَةٍ لَيَكْفُرْنَ بِهَا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ
أَنْتُمْ إِلَّا طَبِئُونَ ﴿٥٨﴾

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾

فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا
يَسْتَحْفِظُنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ﴿٦٠﴾

سُورَةُ لُقْمَانَ مَكِّيَّةٌ فِي ثَلَاثِينَ آيَةً وَأَرْبَعُونَ رُكُوعًا

سورہ لقمان کہ میں نازل ہوئی (اور اس
میں) چونتیس (34) آیتیں اور چار (4)
رکوع (ہیں)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْقُرْآنِ ﴿١﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ
الْحَكِيمِ ﴿٢﴾

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان
رحم والا
الم (1)

یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں (2)
ہدایت اور رحمت ہیں انہوں کے لیے (3)
وہ جو نماز قائم رکھیں، اور زکوٰۃ دیں، اور
آخرت پر یقین لائیں (4)

هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ﴿٣﴾
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾

وہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، اور
انہیں کا کام بنا (5)

اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں
کہ اللہ کی راہ سے بگاڑیں بے سمجھے اور
اسے نہیں بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا
عذاب ہے (6)

أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ
الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٦﴾

7. And when Our (Ailah's) Verses are recited to such one, he (she) boastfully turns away, as if he (she) did not hear them and as if there was heaviness in both his (her) ears. Therefore, announce to him (her) the news of painful punishment.

8. Surely, those who believe and do the pious deeds for them there are paradises of bliss;

9. wherein they will remain for ever. The promise of Allah is true. And He is the Honorable, the Wise.

10. He has created the heavens without pillars that you can see and He has put in the earth firm mountains so that it may not shake with you, and He has spread therein all kinds of creatures, and We (Allah) have sent down water from the sky, then We cause to grow in the earth every noble kind of species.

11. This is the creation of Allah. Now show Me what others have created besides Him. Nay! the cruels are in clear error.

SECTION 2

12. And certainly, We (Allah) bestowed to Looqmaan wisdom saying, "be grateful to Allah" And whoever is grateful, is grateful for the good of his (her) own self and whoever is ungrateful, then surely Allah is Self-Sufficient, All Praised.

13. And when Looqmaan said to his son while he was advising him, "O my dear son never commit shirk — associate any partner with Allah". "Surely "shirk" — associating (equating) with 'Allah is a highest cruelty'".

اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو تکبر کرتا ہوا بھروسے جیسے انہیں سنا ہی نہیں جیسے اس کے کانوں میں ٹینٹ (روٹی کا پھایا) ہے، تو اسے درد ناک عذاب کا مژدہ دو (7)

بچک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کے لیے جہن کے باغ ہیں (8)

بیش ان میں رہیں گے اللہ کا وعدہ ہے سچا، اور وہی عزت و حکمت والا ہے (9)

اس نے آسمان بنائے بے ایسے ستروں کے جو ہمیں نظر آئیں، اور زمین میں ڈالے لٹکر کہ ہمیں لے کر نہ کاٹنے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلانے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، تو زمین میں ہر شے جوڑا اگایا (10)

یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، مجھے وہ دکھاؤ جو اس کے سوا اوروں نے بنایا بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں (11)

اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، کہ اللہ کا شکر کر، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو بچک اللہ بے پرواہ ہے سب خوبیوں سرلا (12)

اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اور وہ نصیحت کرتا تھا اسے میرے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا بچک شریک بڑا ظلم ہے (13)

رَادًا لِّشَيْءٍ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ لَمْ يُكَفِّرْ
كَانَ لَهُمْ سَعْمًا كَأَنَّ فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا
فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ۝
خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا
وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ
بِكُمْ وَبَشَّرَ فِيهَا مَن كُلِّ ذَا نَبَاتٍ وَ
أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا
مِن كُلِّ شَيْءٍ حَبًّا ۝

هَذَا خَلْقَ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ
الَّذِينَ مِن دُونِهِ يَلِ الظَّالِمُونَ فِي
بِحْ ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ
اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ
لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي
حَمِيدٌ ۝

وَأذَقَالَ لُقْمَانَ لِإِبنِهِ وَهُوَ يُعِظُهُ
يَبْنِي لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ
لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝

فَوَاللَّهِ
لَظُلْمٌ
عَظِيمٌ

14. And We (Allah) have stressed on human being concerning their parents. The mother bears child undergoing weakness upon weakness and his (her) weaning takes two years. So be grateful to Me and to both your parents. Eventually your return is towards Me.

[HALF OF PART 21

ENDS]

15. And if they stress you to make "shirk" (associate) with Me of which you have no knowledge, then do not obey them but keep company with them in all the world affairs. And follow him who turns to Me. Then to Me is your return and I shall inform you what you used to do.

16. O my dear son! even though it be a weight of a grain of mustard seed and even though it be in a rock, or in the heaven, or in the earth, Allah will surely bring it out; Surely Allah is Knower of all subtleties, All Aware.

17. "O my dear son, be steadfast in establishing Salaat (Muslim Prayer) and bid the doing of good and forbid evil and be patient over whatever befalls upon you. Surely, these are affairs which require courage and determination.

18. And neither turn your face away from people in contempt, nor move on the earth haughtily. Surely Allah does not love any arrogant boaster.

19. And pursue the right course moderately and lower your voice. Surely in all voices, the most hateful voice is of the braying voice of ass.

SECTION 3

اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، کزوری پر کزوری جھلتی ہوئی اور اس کا دودھ جھوٹا دو برس میں ہے کہ حق ماں میرا، اور اپنے ماں باپ کا آخر جھی تک آتا ہے (14)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ
حَسَنَةً إِنَّهُمُ وَهْنٌ عَلَى وَهْنٍ وَ
فِضْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي
ذُو الْوَالِدَيْنِ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

اور اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ میرا شریک ٹھہرائے، ایسی چیز کو جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مان، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا، پھری میری ہی طرف تمہیں پھر آتا ہے تو میں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے (15)

اے میرے بیٹے برائی اگر رائی کے دانہ برابر ہو پھر وہ چتر کی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمیں میں، کہیں ہو اللہ اسے لے آئے گا بیشک اللہ ہر بار کی کا جاننے والا خبردار ہے (16)

اے میرے بیٹے نماز بہا رکھ، اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور جو افتاد تجھ پر پڑے اس پر صبر کر، بیشک یہ ہمت کے کام ہیں (17)

اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسارہ کج (نیڑا) نہ کر اور زمین میں اترتا نہ چل بے شک اللہ کو نہیں بھانگا کوئی اترا تا فخر کرتا (18)

اور میانہ چال چل اور اپنی آواز کچھ پست کرے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی (19)

وَأِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي
مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَ
أَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ
إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

يُيَسِّرُ الْيُسْرَىٰ إِنْ تَكُ مَشَقَّالًا حَبِيبَةً
مِنْ حَوْدِلٍ فَنُكِّنْ فِي صَحْرَةٍ أَوْ
فِي السَّمُوتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ
بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾
يُيَسِّرُ أَقْرَبَ الصَّلَاةِ وَأَعْرَبَ الْمَعْرُوفِ
وَأَنَّهُ عَنِ الْمُشْكِرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا
أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَذَابِ الْهُورِ ﴿١٧﴾

وَلَا تَصْغُرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ
فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَأُجْبُ
كُلَّ مُغْتَابٍ مُخْوَرٍ ﴿١٨﴾

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَعْصِضْ
مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ
لَأَصْوَاتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

20. Have you not seen that surely Allah has pressed for you in your service whatever is in the heavens and in the earth and has completed on you in full His Bounties, open and hidden? And among mankind there are some who dispute about Allah without knowledge and with no wisdom and without a Book of light.

21. And when it is said to them, "follow what Allah has revealed," they say, "on the contrary, we shall follow that on which we found our fathers". What! even though the satan (devil) may be inviting them towards the punishment of the burning fire.

22. And whoso submits himself to Allah and be kind (to others) he indeed has caught hold of a firmest handle. And towards Allah is the end of all affairs.

23. And whoso disbelieves, let not his disbelief grieve you. To Us (Allah) is their return. Then We (Allah) shall tell them what they used to do. Surely, Allah knows well what is inside the breasts.

24. We (Allah) shall allow them to enjoy a little, then We (Allah) shall drive them towards severe punishment.

25. And if you ask them who has created the heavens and the earth, they will surely answer "Allah". Please declare, "all praises belong to Allah". But most of them do not know it.

26. To Allah belongs whatever is in the heavens and the earth. Surely, He is Self-Sufficient, All-Praiseworthy.

کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جنہیں ہم پروردگار نے اپنی نعمتیں ظاہر اور چھپی اور چھپنے آوی اللہ کے ہارے میں جھرتے ہیں یوں کہ نہ تم نہ عقل نہ کوئی روشن کتاب (20)

اور جب ان سے کہا جائے اس کی بیروی کرو جو اللہ نے تمہارا تو کہتے ہیں، بلکہ ہم تو اس کی بیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ شیطان ان کو عذاب دوزخ کی طرف بلاتا ہو (21)

تو جو اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دے اور ہو نیو کار تو بیگ اس نے مضبوط گرہ تھامی اور اللہ ہی کی طرف ہے سب کاموں کی انتہا (22)

اور جو کفر کرے تو تم اس کے کفر سے غم نہ کھاؤ انہیں ہماری ہی طرف پھرتا ہے ہم انہیں بتا دیں گے جو کرتے تھے بیگ اللہ دلوں کی بات جانتا ہے (23)

ہم انہیں کچھ برتنے دیں گے پھر انہیں بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے (24)

اور اگر تم ان سے پوچھو! کس نے بنائے آسمان اور زمین تو ضرور کہیں گے، اللہ نے تم فرمایا! سب خوبیاں اللہ کو بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں (25)

اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے بیگ اللہ ہی بے نیاز ہے سب خوبیوں سربراہ (26)

الْعَزَّوَالِ اللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَافِي السَّمٰوٰتِ وَمَافِي الْاَرْضِ وَاَنْتُمْ عَلَيْهِ تَفْتَحُونَ ظَاهِرًا وَّابْطِئًا وَّهِيَ الْاَنْبَاسُ مَنْ يُجَادِلْ فِي الْاٰلِهَةِ فَقَدْ اِلٰهًا يَهْدِي وَاَلَا يَكْتُمُ مَبْرُورًا ﴿٢٠﴾

وَإِذْ اَقِيلَ لَهُمْ تَبِعُوا مَا اَنْزَلْنَا اِلَيْهِمْ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا جَدْنَا عَلٰى اٰبَائِنَا اَوْ لَوْ كُنَّا الشَّيْطٰنَ يَدْعُوهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾

وَمَنْ يَسْلَمْ وَجْهًا اِلٰى اللّٰهِ وَهُوَ عٰسٍ فَقَدْ اٰسَمَسَكَ بِالْعَزَّةِ الْوَعْدِ وَاللّٰهُ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ ﴿٢٢﴾

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنُكَ كُفْرُهُ اَلَيْسَ صٰرِعِهِمْ فَنَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذٰتِ الصُّدُوْرِ ﴿٢٣﴾

نَتَّبِعُوْهُمُ وَاَبَآءُ لَّا نَحْنُ نَضُرُّهُمْ اِلٰى عَذَابِ عَلِيْمٍ ﴿٢٤﴾

وَلَمَّا سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٥﴾

بَلَدِهِ مَافِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَمِيْدُ ﴿٢٦﴾

27. And if all trees in the earth were made pens and the seas were made ink with seven more seas added, the words of Allah would not be exhausted. Surely, Allah is Honorable, Wise.

28. Neither your creation nor your raising on the Day of Resurrection is any thing but like a single self. Surely, Allah is All-Seeing, All-Hearing.

29. (O Listener) do not you see that Allah turns night into the day and returns the day in the night and He makes the sun and the moon to serve you. Each one pursues its course till an appointed term, and that Allah is Aware of your deeds?

30. This is because Allah is the Truth and that which they worship besides Him are all falsehoods and because only Allah is the Highest, incomparably the Greatest.

SECTION 4

31. Have you not seen that the ships move in the rivers by the Grace of Allah, that He may show you some of His Signs? Surely in it are signs for every steadfast who is grateful.

32. And when any wave befalls them like the mountain, then they call upon Allah having pure faith on Him. But when He brings them safe towards land, then some of them keep to the middle course. And none denies Our (Allah's) Signs except a deceiving and ungrateful person.

33. O mankind fear your Rabb (Sustainer) and have apprehension of the day when neither a father will be of any benefit to his child nor any

اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں، سب قلمیں ہو جائیں اور سمندر اس کی سیاہی ہو، اس کے پیچھے سات سمندر اور تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی بے شک اللہ عزت و حکمت والا ہے (27)

تم سب کا پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھانا ایسا ہی ہے جیسا ایک جان کا بے شک اللہ سزا دیکھتا ہے (28)

اے سننے والے کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ رات لاتا ہے دن کے عرصے میں، اور دن کرتا ہے رات کے عرصے میں اور اس نے سورج اور چاند کام میں لگائے ہر ایک ایک مقرر میعاد تک چلتا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے (29)

یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اس کے سوا جن کو پوجتے ہیں سب باطل ہیں، اور اس لیے کہ اللہ ہی بلند بڑائی والا ہے (30)

کیا تو نے نہ دیکھا کہ کشتی دریا میں چلتی ہے اللہ کے فضل سے، تاکہ تمہیں وہ اپنی کچھ نشانیاں دکھائے، بلکہ اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کو (31)

اور جب ان پر آپڑتی ہے کوئی موج پہاڑوں کی طرح تو اللہ کو پکارتے ہیں، نہ سے اس پر عقیبہ رکھتے ہوئے پھر جب انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے، تو ان میں کوئی اعتدال پر رہتا ہے اور ہماری آجوں کا انکار نہ کرے گا، مگر ہر بڑا بیوفنا ہاشمرا (32)

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنے بچے

وَلَوْ أَنَّ مَآئِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ
وَالْبَحْرُ مِدَادٌ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ
أَمْحَارٍ لَفُضِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۷﴾

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْظُمُ الْأَكْنَفُسُ
وَإِذْ قَرَأَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۲۸﴾
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ
وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى
أَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ ﴿۲۹﴾

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا
يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ
اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿۳۰﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿۳۱﴾

وَإِذَا غَشَّتْهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلْمِ دَعَوْا
اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هَٰذَا قَلَمًا
أَنجَمُهُمْ إِلَىٰ الْبُرُوقِ لَهُمْ مَقْصِدٌ
وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كَلٌّ خَسِرٌ
كُفُورٌ ﴿۳۲﴾

يَأْتِيهَا النَّاسُ النَّوَارِكُوكُمْ وَأَحْشَوَا

affectionate son will be able to provide any benefit to his father. Surely the promise of Allah is true. Therefore, let neither the life of this world deceive you nor the chief deceiver (satan) should deceive you concerning Allah.

34. Surely, with Allah is the knowledge of the Hour (of doom), and He sends down rain and knows what is in the wombs of the mothers and no soul knows what it will earn tomorrow and no soul knows in what land it will die. Surely Allah is the All-Knowing, All-Aware.

S. XXXII

SURA SAJDA

(THE PROSTRATION)

Revealed at Makkah

(30 Verses, 3 Sections)

Allah's Name, the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. Alf Laam Meeem (A.L.M.)

2. The revelation of the Book, certainly there is no doubt in it as, it is from the Rubb (Sustainer) of the universe.

3. What! do they say, "it has been forged by him? But is the truth from your Rubb (Sustainer) that you may warn such people to whom no warner came before you that perhaps they may get right guidance.

4. It is Allah Who has created heavens and the earth and whatever is in between them, in six periods, and He remains firm in authority. You have no supporter nor any intercessor besides Him. Will you not then keep it in mind?

کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی کامی بچ اپنے باپ کو کچھ نفع دے چکے گا اور نہ وہ سچا ہے، تو ہرگز ہمیں دھوکا نہ دے دنیا کی زندگی اور ہرگز ہمیں اللہ کے علم پر دھوکا نہ دے وہ بڑا فریبی (33)

چکے گا اور نہ اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم اور انکارنا ہے 'میں' اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کھائے گی؟ اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی ہے لہذا اللہ جانتے والا، سناٹے والا ہے (34)

سورہ سجدہ مکہ میں نازل ہوئی (اس میں) تیس (30) آیتیں اور تین (3) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا
الم (1)
کتاب کا آتارنا ہے لہذا پروردگار عالم کی طرف سے ہے (2)

کیا کہتے ہیں، ان کی بیانی ہوئی ہے، بلکہ وہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے کہ تم ڈراؤ، ایسے لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سناٹے والا نہ آیا اس امید پر کہ وہ راہ پائیں (3)

اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے جو دن میں بنائے پھر عرش پر استواء فرمایا اس سے جھوٹ کر تمہارا کوئی حمایتی، اور نہ سفارشی، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے (4)

يَوْمَ لَا يُجِزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَ لَأَمْرًا لَوْ دُهِجَ زَعْنُ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَإِن تَعْرِضْكُمْ بِاللَّهِ الْعَورُ وَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَنْحَاءِ وَمَا تُدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْتُمُ غَدًا وَ مَا تُدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ٣٤

سورہ السجدة، مکہ میں نازل ہوئی، تیس (30) آیتیں اور تین (3) رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٥

الْعَرُّ ١ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَأَرْبِ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٢

أَفَرَأَيْتُونَ أَفْتِرًا بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِيُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِّنْ نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ نَالِكٌ مِّنْ دُونِهِ مَن يُظَلِّ وَ لَا تُشْفِعُ أُمَّةٌ بِلَدُنْهِ ٤

5. He regulates the affairs from the heaven to the earth, then it will return to Him in a day whose measure is a thousand years in your reckoning.

6. Such is the Knower of every unseen and the seen, the Honorable, the Merciful;

7. who made everything best that He has created, and He initiated the creation of man from the clay.

8. Then He made his progeny from an extract of insignificant water (sprout).

9. Then He completed him and breathed into him of His Spirit and gave to you ears and eyes and hearts. What a little gratitude you acknowledge?

10. And they say, 'What! when we shall get lost in the earth, shall we become a new creation again? Anyhow they even disbelieve in the meeting of their Rubb (Sustainer).

11. Please declare, "the Angel of death who is given charge over you shall cause you to die, then you shall be returned to your Sustainer (Rubb).

SECTION 2

12. And could you see when the criminals will be hanging their heads before their Rubb (Sustainer) saying, "O our Rubb (Sustainer) now we have seen and have heard, so send us back again that we may do pious deeds, that now we are convinced".

13. And had We (Allah) enforced Our (Allah's) will We (Allah) would have given to every self its guidance. But My word has been already established true that I shall necessarily fill the hell with

کام کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین تک پھر اس کی طرف رجوع کرے گا اس دن کہ جس کی مقدار ہزار برس ہے' تمہاری گنتی میں (5)

یہ ہے ہر نماں اور عیاں کا جاننے والا عزت و رحمت والا (6)

وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور پیدائش انسان کی ابتداء مٹی سے فرمائی (7)

پھر اس کی نسل رکھی، ایک بے قدر پانی کے خلاصہ سے (8)

پھر اسے ٹھیک کیا اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل عطا فرمائے کیا ہی تمہوڑا حق مانتے ہو (9)

اور بولے! کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے؟ کیا پھر نئے بنیں گے بلکہ وہ اپنے رب کے حضور حاضری سے سکر ہیں (10)

تم فرماؤ! تمہیں وفات دینا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے (11)

اور کہیں تم دیکھو! جب مجرم اپنے رب کے پاس سر نیچے ڈالے ہوں گے، اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھا اور سنا ہمیں پھر بھیج، کہ نیک کام کریں، ہم کو یقین آ گیا (12)

اور اگر ہم چاہتے ہر جان کو اس کی ہدایت عطا فرماتے مگر میری بات قرار پا چکی کہ ضرور جہنم کو بھر دوں گا ان جنوں اور

بِدْبَرٍ الْأَمْرَيْنِ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ
ثُمَّ يُعْرَبُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝

ذَلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَ
بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۝

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ
مَّاءٍ مُّهْنِنٍ ۝

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَ
الْأَفْيَادَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

وَقَالُوا إِذَا أَصْلَبْنَا فِي الْأَرْضِ
بِغَيْرِ خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَائِ
رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ۝

قُلْ يَوْمَ تَمُوتُ مَلَكَ الْمَوْتِ الَّذِي
يُنَادِيكُمْ تَعْرَىٰ لَكُمْ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۝

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى
وَلَكِن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ

jinn and mankind, altogether.

14. Now you taste (hell), for you forgot the meeting of this day. We (Allah) too have forgotten you. Now taste the everlasting punishment as the penalty of your deeds.

15. Only they believe in Our (Allah's) Verses. When they are reminded of them they fall down prostrate, praising their Rubb (Sustainer) express His Bounty in full humility.

[A Muslim who recites this verse or listens its recitation should prostrate with forehead on the ground in ablution facing Ka'aba].

16. They keep their sides away from beds (do not take much rest) and they call upon their Rubb (Sustainer) in fear and hope and spend in charity out of what We (Allah) have provided them.

17. And no self knows what bliss for the eyes has been kept hidden for them, as the reward of their (pious) deeds.

18. Will then he who is a believer be like him who is disobedient? They are not at all equal?

19. As for those who believe and do pious deeds, for them is higher Paradise to live, and best entertainment for their (pious) deeds.

20. And for those who are disobedient, their destination is the fire. Whenever they will wish to come out from there, they will be thrown back into the same and it will be said to them, "taste the punishment of this fire which you persistently falsify".

21. And certainly I shall make them to taste the

کودیں سب سے (13)

اب چکو! بدلا اس کا کہ تم اپنے اس دن کی حاضری بھولے تھے ہم نے تمہیں چھوڑ دیا اب ہمیشہ کا عذاب چکو اپنے کیے کا بدلا (14)

ہماری آنکھوں پر وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب وہ انہیں یاد دلائی جاتی ہیں سجدہ میں گر جاتے ہیں، اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولتے ہیں، اور تکبر نہیں کرتے (15)

ان کی کرشمیں جدا ہوتی ہیں خواہ گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے اور ہمارے دیئے ہوئے میں سے کچھ خیرات کرتے ہیں (16)

تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا (17)

تو کیا جو ایمان والا ہے، وہ اس جیسا ہو جائے گا جو بے حکم ہے یہ برابر نہیں (18) جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کے لیے نئے کے باغ ہیں ان کے کاموں کے صلہ میں سمانداری (19)

رہے وہ جو بے حکم ہیں، ان کا ٹھکانا آگ ہے، جب کبھی اس میں سے لگتا ہے اور گے پھر اسی میں پھیر دیئے جائیں گے اور ان سے فرمایا جائے گا، چکو اس آگ کا عذاب جسے تم جھٹلاتے تھے (20)

اور ضرور! ہم انہیں پھمائیں گے کچھ

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٣١﴾
فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ رُؤُوسِكُمْ هَذَا
إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ
بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا آخَرُوا سَاجِدًا أَوْ سَاجِدًا مَبْصُورًا
رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٣﴾

تَحْتَانِي جَنُودُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٤﴾

وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُوَّةِ
أَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾
أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا
لَّا يَسْتَوُونَ ﴿٣٦﴾

أَفَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿٣٧﴾

وَأَفَالَّذِينَ نَسُوا آيَاتِنَا وَذُوقُوا عَذَابَ
النَّارِ كُلَّمَا آرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا
فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ
الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٣٨﴾

وَلَنذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَلْوَنِ

smaller punishment before the greater punishment, so that one who sees it may hope that just they may turn back (repenting).

22. And who is more unjust than the one who is reminded by the Verses of his Rubb (Sustainer) and then such one turns away his (her) face from them? Surely We (Allah) are to punish the criminals.

SECTION 3

23. And certainly, I bestowed Book to Moosaa (Moses). You therefore, do not doubt about seeing Him. And We (Allah) made it a guidance for the children of Issraael.

24. And We (Allah) appointed from amongst them some Imams (leaders) to guide by Our (Allah's) Command, when they remained steadfast and firmly believed in Our (Allah's) Verses.

25. Surely, your Rubb (Sustainer) shall decide between them on the Day of Resurrection concerning that in which they used to differ.

26. And have they not been guided right by this that We (Allah) have already destroyed many generations before them in whose dwellings, they are today walking about? Surely in it are signs. Will not then they hear?

27. And do they not see that We (Allah) send water toward dry land, and produce thereby crops of which their cattle and they themselves eat? Do not then they see?

[THREE FOURTH OF PART 21 ENDS]

زردیک کا عذاب اس بڑے عذاب سے پہلے، جسے دیکھنے والا امید کرے کہ ابھی باز آئیں گے (21)

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جسے اس کے رب کی آیتوں سے فصاحت کی گئی، پھر اس نے ان سے منہ پھیر لیا، بیگم ہم مجرموں سے بدلا لینے والے ہیں (22)

اور بیگم ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو تم اس کے لئے میں شک نہ کرو اور ہم نے اسے نبی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا (23)

اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے کہ ہمارے حکم سے بتاتے جب کہ انہوں نے صبر کیا، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین لاتے تھے (24)

بیگم تمہارا رب ان میں فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن، جس بات میں اختلاف کرتے تھے (25)

اور کیا انہیں اس پر ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سگتیں ہلاک کر دیں کہ آج یہ ان کے گھروں میں جل بھر رہے ہیں بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں تو کیا سنتے نہیں (26)

اور کیا نہیں دیکھتے کہ ہم پانی بھیجتے ہیں خشک زمین کی طرف پھر اس سے کھیتی نکالتے ہیں، کہ اس میں سے ان کے چوپائے اور وہ خود کھاتے ہیں تو کیا انہیں سوچتا نہیں (27)

دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ آيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٣﴾

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ إِمَّةً لِّمُؤْمِنِي دُونِ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِمَا صَبَرُوا وَاتَّقُوا كِتَابَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ﴿٢٤﴾

إِن رَّبِّكَ هُوَ الْفَصْلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾
أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا مَنِ قَبْلِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْفُرُونَ ﴿٢٦﴾
فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْفُرُونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْفُرُونَ ﴿٢٧﴾

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٨﴾

28. And they say, "when will this victory take place, if you are truthful?"

29. Please declare, "on the day of victory the faithfulness of disbelievers shall not profit them and nor will they get time.

30. Therefore, keep away from them and wait. Surely, they are also waiting.

S. XXXIII

SURA AL-AHZAAB (THE ALLIES)

Revealed at Madina
(73 Verses, 9 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. O Nabi (Prophet Muhammad

S.A.W.—communicator of the hidden news) continue to be pious with Allah and do not comply with (wishes of) the disbelievers and hypocrites. Surely Allah is Knowing, Wise.

2. And follow what is revealed to you from your Rubb (Sustainer). Surely Allah is aware of your deeds.

3. And (O beloved) rely on Allah. And Allah is Sufficient as Protector.

4. Allah has not made two hearts within breast of a man, and nor has He made your those wives, whom you pronounce as equal to your mothers, your real mothers and nor He has made your assertion of your adopted sons as your real sons. These are only the words of your own mouth. And Allah speaks the truth and only He guides to the (right) way.

5. Call them after their fathers. This is more justified

اور کہتے ہیں 'یہ فیصلہ کب ہو گا اگر تم سچے ہو (28)

تم فرماؤ! فیصلہ کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا اور نہ انہیں مسلت لے (29)

تو ان سے 'منہ بجز لو' اور انتظار کرو، چپک انہیں بھی انتظار کرنا ہے (30)

سورہ احزاب عینہ میں نازل ہوئی اور اس میں (73) آیتیں اور نو (9) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی) اللہ کا یوں ہی خوف رکھنا اور کافروں اور منافقوں کی نہ سنا چپک اللہ علم و حکمت والا ہے (1)

اور اس کی بیروی رکھنا جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں وحی ہوتی ہے اے لوگو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے (2)

اور اے محبوب تم اللہ پر بھروسہ رکھو! اور اللہ بس ہے کام بتانے والا (3)

اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہ رکھے اور تمہاری ان عورتوں کو جنہیں تم ماں کے برابر کہہ دو تمہاری ماں نہ بنایا اور نہ تمہارے لے پالوں کو تمہارا بیٹا بنایا یہ تمہارے اپنے منہ کا کتا ہے اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی راہ دکھاتا ہے (4)

انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارو 'یہ

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْفَتْحِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾

قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢٩﴾

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ أَنَّهُمْ يَأْتِيهِمْ مَنظَرُونَ ﴿٣٠﴾

سُبْحَانَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

in the sight of Allah. But if you do not know their fathers, then they are your brothers in faith and your friends. And there is no sin on you regarding which you made a mistake, unintentionally. But that is a sin which you may commit with the intention of your heart. And Allah is Forgiving, Merciful.

6. The Nabi (Prophet Muhammad S.A.W) is nearer to the believers (Muslims), even more than their own selves and his wives are their mothers. And blood relations are nearer to one another in the Book of Allah than rest of the believers (Muslims) as well as emigrants, except that with whom you do any usual favor as your friends. This is inscribed in the Book.

7. And (O dear) remember when We (Allah) took a pledge from the Umbia (Prophets) and from you, and from Nuuh (Noah) and Ibraheem (Abraham) and Moosaa (Moses) and Eesa (Jesus) son of Maryam (Mary) and We (Allah) took from them a solemn pledge;

8. that He may question the truthful regarding their truth, and He has already prepared painful punishment for the disbelievers.

SECTION 2

9. O believers! remember Allah's favor upon you, when some armies pounced upon you. Then We (Allah) sent on them strong wind and army (of Angels) which you did not see. And Allah observes your deeds.

10. When they (disbelievers) came upon you from above

اللہ کے نزدیک زیادہ نیک ہے پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور بشریت میں تمہارے چچا زاد اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں، جو ناوانستہ تم سے صادر ہوا ہاں! وہ گناہ جو دل کے قصد سے کرو اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے (5)

یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور اس کی بیبیاں ان کی مائیں ہیں اور رشتہ والے اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں یہ نسبت اور مسلمانوں اور ماجروں کے مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر کوئی احسان کرو، یہ کتاب میں لکھا ہے (6)

اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے اور ہم نے ان سے گاڑھا عہد لیا (7)

تاکہ بچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے اور اس نے کافروں کے لئے درد ناک عذاب تیار کر رکھا ہے (8)

اے ایمان والو! اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آمدھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے (9)

جب کافر تم پر آئے تمہارے اوپر سے اور

اللَّهُ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاُولَئِكَ فِي الْإِيمَانِ وَمَوَالِيَهُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ⑤

الَّذِينَ أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأُولَآءِ حِجَّةٌ أَمَرْتُمْ بِهَا وَإِلَىٰ الْأَحْكَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ⑥ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ⑦

لَيْسَلُ الضُّلَّيْقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ⑧

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُرُوا نِعْمَةً مِّنَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ⑨ إِذْ جَاءَهُمْ مِنَ فَوْقِهِمْ وَمِنْ أَسْفَلٍ

you, and from below you and when eyes dazzled in amazement and hearts rose up to your throats and you began to think diverse thoughts about Allah (of hopes and despairs).

11. That was the place where believers (Muslims) were tested and they were shaken with severe shaking.

12. And when the hypocrites and those in whose hearts there was a disease said "Allah and His Rasool (Messenger) promised us no victory but deceived us".

13. And when a party of them said, "O people of Yathrib (Madina) you cannot stand for much longer, therefore, go back to your houses". And a party of them asked permission of the Nabi (Prophet), saying our houses are unsafe, but they were not unsafe. They wished not except a flee away.

14. And if the armies were entered upon them from the outsides (of Madina) and they would have asked to wage a war on them, they would not have occupied it except for a little time.

15. And certainly, they had already pledged with Allah before that, that they would not turn their backs. And the pledge with Allah shall be questioned.

16. Please declare, "your flight will never profit you, if you flee from death or slaying, and even then you shall not be allowed to enjoy (in the world) but a little"

17. Please declare, "who is that who can save you against Allah, if it be His wish, to do you harm or shown you His

تسارے بیچے اور جب کہ ٹھک کر رہ گئیں نگاہیں اور دل گلوں کے پاس آگے اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے (اسید ویاس کے) (10)

وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کی جانچ ہوئی اور خوب سختی سے سمجھو لے گئے (11)

اور جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں روگ تھا ہمیں اللہ و رسول نے وعدہ نہ دیا تھا مگر فریب کا (12)

اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، اے مدینہ والو یہاں تمہارے گھر کی جگہ نہیں تم گھروں کو واپس چلو اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اذن (اجازت) مانگتا تھا یہ کہہ کر کہ ہمارے گھر بے حفاظت ہیں۔ اور وہ بے حفاظت نہ تھے وہ تو نہ چاہتے تھے مگر بھانکا (13)

اور اگر ان پر فوجیں مدینہ کے اطراف سے آئیں پھر ان سے کفر چاہتیں تو ضرور ان کا مانگا دے بیٹھے اور اس میں دیر نہ کرتے مگر تھوڑی (14)

اور بے شک اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے، کہ پیٹھ نہ پھیریں گے اور اللہ کا عہد پورا چھایا جائے گا (15)

تم فرماؤ! ہرگز تمہیں بھانکا نفع نہ دے گا اگر موت یا قتل سے بھاگو اور جب بھی دنیا نہ برستے دیتے جاؤ گے مگر تھوڑی (16)

تم فرماؤ! وہ کون ہے جو اللہ کا حکم تم پر سے مائل دے اگر وہ تمہارا اہلکار ہے یا تم

وَمِنْكُمْ وَإِذْ غَابَتِ الْإِصْرُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَنَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا ①

هَذَاكَ ابْنِي التَّوَمِيُونَ وَذَلِيزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ②

وَإِذْ يَقُولُ الْمُبْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ③

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا هَذَا تَرْتَابٌ لَمْ يُقَاتِلْكُمْ فَلَاحِجُواؤُنْ تَأْوِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنَّ رَبَّنَا يَذُوقُونَ الْعَذَابَ ④

وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ آفَاطِهَا ثُمَّ سَأَلُوا الْفِتْنَةَ لَأْتَوْهَا وَمَا تَلَمَّتْهَا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ⑤

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يَأْتِيُونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ حَسْرَةً ⑥

قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْوَارِثِينَ قَدْ تَرَّمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذْ لَا تَمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ⑦

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ

the truth and it only increased them in faith and submission (to the pleasure of Allah).

23. Among believers (Muslims) are men who have made true the pledge they had made with Allah. There are some of them who have fulfilled their vows and some who are still waiting and they do not change to the least;

24. that Allah may reward the truthful for their truth and punish the hypocrites, if He Wills so or may turn towards them in Mercy. Surely, Allah is Forgiving, Merciful.

25. And Allah turned back the disbelievers in their heart burning. They did not obtain any advantage. And Allah is sufficient to believers (Muslims) is their fight and Allah is Powerful, Honorable.

26. And He brought down those of the followers of the Book who had helped them from their fortresses and He cast terror in their hearts. You slew a group of them and you made captive another one.

27. And He made you to inherit their lands and their houses and their wealth and a land on which you had not set foot yet. And Allah has power over everything.

SECTION 4

28. O Nabi (Prophet—the communicator of the hidden news) say to your wives, "if you wish the life of this world and its adornment, then come, I provide you wealth and leave you in a handsome manner.

سے انہیں نہ بچا کر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا (22)

مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو محمد اللہ سے کیا تھا، تو ان میں کوئی اپنی سنت پوری کر چکا اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے، اور وہ ذرا نہ بدلے (23)

تاکہ اللہ انہوں کو ان کے سچ کا صلہ دے اور منافقوں کو عذاب کرے اگر چاہے یا انہیں توبہ دے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے (24)

اور اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ چلا دیا، کہ کچھ بھلا نہ پایا، اور اللہ نے مسلمانوں کو لڑائی کی کفایت فرما دی اور اللہ زبردست عزت والا ہے (25)

اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی انہیں ان کے قلعوں سے اتارا، اور ان کے دلوں میں رعب ڈالا ان میں ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو، اور ایک گروہ کو قید (26)

اور ہم نے تمہارے ہاتھ لگائے ان کی زمین اور ان کے مکان اور اس کے مال اور وہ زمین جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے (27)

اے غیب بتانے والے (نبی) اپنی بیویوں سے فرما دے، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں (28)

صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ وَأَمَّا أَدَهُمُ
الْإِيمَانُ أَذْكَبِيْنَا ۞

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا
عَاهَدُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فِيمَنَّم مَن
قَضَىٰ حُبَّهُ وَفِيهِمْ مَن يَنْظُرُ ۚ وَ
مَا يَدَّبُّوا بِنَدِيْنَا ۞

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ
وَيُعَذِّبَ الْمُفْرِغِينَ إِن شَاءَ أَوْ
يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ أَلَّفَ الْكُفْرَ
عَقُورًا رَّحِيمًا ۞

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيْظِهِمْ
لَمَّيْنَا لَهُمُ الْخِزْيَاءَ الَّذِي أَلَّفَ اللَّهُ
الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ تَوَّابًا
عَزِيزًا ۞

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِّنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَّاصِيهِمْ
وَقَدَّ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ
فَوَيْفَا تَقْتُلُونَ وَتَأْبَهُونَ فَوَيْفَا ۞

وَأُوذِيْتُمْ أَسْرَٰضَهُمْ وَيَأْرَهُمْ
وَهُوَ اللَّهُمُّ وَأَرْضًا لَّمْ تَطُوعُوا
هَٰؤُلَاءِ كَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞

بِأَيْهَا النَّبِيُّ قُلْ لِيَأْرَاجَكَ إِنْ
كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وَزِينَتَهَا أَتَعَالَىٰ أَمْتِعْكَ
وَأَسْرُحْكَ سَوَآحًا جَمِيلًا ۞

29. And if you desire (company) of Allah and His Rasool (Messenger) and the home of the hereafter then surely Allah has kept prepared for the well doers among you a great reward.

30. O wives of the Nabi (Prophet) whoso of you dares to do open indecency (against modesty) shall have double punishment in comparison to others. And this is easy for Allah.

PART 22

S. AL-AHZAB (Contd.)

SECTION 4 (Contd.)

31. And whoso of you remains obedient to Allah and His Rasool (Messenger) and does good deeds, We (Allah) shall double her (wife of Prophet Muhammad, S.A.W.) reward in comparison to others and We (Allah) have kept prepared ready for her an honorable provision.

32. O wives of the Nabi (Prophet of Allah—the communicator of hidden news) you are not like other women. If you are so mindful (to Allah) be not so polite in your speech lest some one whose heart is sick should feel tempted. And yet, speak good words.

33. And stay in your houses and be not unveiled like that of the unveiling of the former days of ignorance, and establish Salaat (Muslim Prayer) and pay the Zakaat (poor-due) and obey the Commands of Allah and His Rasool (Messenger). Allah only wants to keep you away from every uncleanness, O people of the house (of Prophet) and keep you well

اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بیشک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر

رکھا ہے (29)

اے نبی کی بیویو جو تم میں مرتع حیا کے خلاف کوئی جرات کرے اس پر اوروں سے دوتا عذاب ہو گا اور یہ اللہ کو آسان

ہے (30)

اور جو تم میں فرمانبردار رہے اللہ اور رسول کی اور اچھا کام کرے ہم اسے

اوروں سے دوتا ثواب دیں گے اور ہم نے اس کے لئے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے (31)

اے نبی کی بیویو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو، کہ دل کا روٹی کچھ لالچ کرے، ہاں! اچھی بات کہو (32)

اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ

اور اس کے رسول کا حکم مانو اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے، اور تمہیں پاک کر

وَأَنَّ كُنْتُمْ تَرُدُّنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَأَلَدَ الْأُخْرَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ
لِ الْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا

عَظِيمًا ﴿۲۹﴾

لِ نِسَاءِ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَّفْ لَهَا
الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ

عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿۳۰﴾

وَمَن يُقَلِّتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَ
رَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتْهَا
أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا

كَرِيمًا ﴿۳۱﴾

لِ نِسَاءِ النَّبِيِّ لَسَنُنَّ كَا حَصِدٍ مِّن
النِّسَاءِ إِن تَقِيْنَ فَلَا تَخْضَعْنَ
بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ

مَرَضٌ وَذَلَن تَوَلَّاهُ مَعْرُوفًا ﴿۳۲﴾

وَقَوْنٍ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ
تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ
الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ

اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ

اللَّهُ يَسِيرًا ﴿۳۰﴾

purified after cleaning you thoroughly.

34. And keep to mind whatever is recited in your houses from the revelations of Allah and His Wisdom. Surely, Allah knows every subtlety, and is All-Aware.

SECTION 5

35. Surely, Muslim men and Muslim women, and the believing men and the believing women, and the obedient men and obedient women and the truthful men and truthful women and steadfast men and steadfast women and humble men and humble women, and the alms giving men and the alms giving women and the fasting men and the fasting women, and men and women who guard their chastity and men and women who remember Allah much, for all of them Allah has kept prepared forgiveness and great reward.

36. And it is not befitting to a Muslim man and a Muslim woman, when Allah and His Rasool (Messenger) have decreed something that they should have any choice in their matters, and whoever disobeys Allah and His Rasool (Messenger), he surely, strays away manifestly.

37. And O dear remember) when you said to him whom Allah bestowed a favor and you had bestowed a favor, keep your wife with yourself and be pious with Allah and you had in your heart what Allah had Willed to disclose and you were afraid (of people's taunting) and Allah has a greater right that you should fear Him. But when Zaid severed relations with

کے خوب ستمرا کر دے (33)

اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت و ہیکل اللہ ہر بار کی جانتا خبروار ہے (34)

بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرماں بردار اور فرماں برداریں اور سچے اور سچیاں اور صبر والے اور صبر والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے (35)

اور نہ کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ ورسول کچھ حکم فرما دیں تو انہیں اپنے معاملہ کا کچھ اختیار رہے اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا وہ بیک صریح گمراہی بکا (36)

اور اے محبوب یاد کرو! جب تم فرماتے تھے اس سے جسے اللہ نے نعت دی اور تم نے اسے نعت دی کہ اپنی بی بی اپنے پاس رہنے دے اور اللہ سے ڈر اور تم اپنے دل میں رکھتے تھے وہ جسے اللہ کو ظاہر

يُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣١﴾

وَأَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٢﴾

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ

وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ

وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ

وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ

وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ

فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ

اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ

لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا الْمُؤْمِنَةِ إِذَا

قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ

لَهُمْ خِيَرَةٌ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ

يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ

ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٣٦﴾

وَلِذَلِكَ قَالَ الَّذِي نَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ

وَأَنعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ

زُوجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي

نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى

her (adopted son of the Prophet S.A.W. married to Prophet's cousin Zainib, who got herself divorced), We (Allah) gave her in marriage to you so that there should be no difficulty upon the believers (Muslims) in respect of the wives of their adopted sons when they have accomplished their purpose with them. And Allah's Command is bound to be performed.

38. There is no hindrance for the Nabi (Prophet of Allah—the communicator of hidden news) regarding doing that which Allah has ordained him. Such has been the practice of Allah among those who have lived before and the Command of Allah is made absolute.

39. Those who preach the Message of Allah and fear Him and fear none except Allah; then Allah is Sufficient as a Reckoner.

40. Mohammad (S.A.W.) is not the father of any of your men. He is the Rasool (Messenger) of Allah and the last of the Umbia (Prophets). And Allah is Cognizant of all the things.

SECTION 6

41. O believers! remember Allah with much frequency.
42. And Glorify Him both in the morning and in the evening.

43. It is He Who sends blessings on you and so do His Angels that He may take you out of darkness into light. And He is Merciful to the believers (Muslims);

44. Their salutation on the day when they meet Him is "Peace" and He has kept

کرنا منظور تھا اور ہمیں لوگوں کے طعنہ کا اندیشہ تھا اور اللہ زیادہ سزا دار ہے کہ اس کا خوف رکھو پھر جب زید کی فرض اس سے نکل گئی تو ہم نے وہ تمہارے نکاح میں دے دی کہ مسلمانوں پر کچھ حرج نہ رہے ان کے لیے پاکلوں کی بیویوں میں جب ان سے ان کا کام ختم ہو جائے اور اللہ کا حکم ہو کر رہتا (37)

نبی پر کوئی حرج نہیں اس بات میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے انہیں جو پہلے گزر چکے اور اللہ کا کام مقرر تقدیر ہے (38)

وہ جو اللہ کے پیام پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ کرتے اور اللہ بس ہے حساب لینے والا (39)

محمدؐ تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پہلے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ (40)

اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو (41)
اور صبح و شام اس کی پاکی پڑھو (42)

وہاں ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے کہ ہمیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے (43)

ان کے لیے ملتے وقت کی دعا سلام ہے

النَّاسِ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُمْ
فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا
زَوَّجْنَاكَهَا لِيَأْكُلَ مِنْ
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي زَوَّاجِ أَيْمَانِهِمْ
إِذَا ضَلَّتْ وُجُوهُهُمْ أَصْفَرُ اللَّهُ
مَفْعُولًا ۝

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا
فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سِنَّةَ اللَّهِ فِي
الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ
اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ۝

الَّذِينَ يَبْلُغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ
وَيَخْشَوْنَ اللَّهَ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا
اللَّهَ وَكُفِيَ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ
وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ وَكُرُوا
كَيْبَرًا ۝

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُ
لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ

prepared for them an honorable reward.

45. O Nabi (Prophet of Allah—the communicator of hidden news) surely, We (Allah) have sent you as a witness and a bearer of glad news and a warner;

46. And a preacher of Allah by His permission and as a light-house source (for the entire mankind guidance to the Day of Judgement).

47. And give glad news to the believers that for them is great Bounty of Allah.

48. And do not do anything for the pleasure of disbelievers and hypocrites and overlook their annoyance and put your trust in Allah. And Allah suffices as an Accomplisher.

49. O believers! when you marry believer (Muslims) women, then divorce them before touching them, in that case you have no period of waiting which you may reckon for the purpose. So give some benefit to them and leave them in a noble manner.

50. O Nabi (Prophet of Allah—the communicator of hidden news)! We (Allah) have made lawful for you those of your wives whom you pay dower and those women whom your right hand possesses out of those whom Allah has given to you as the prisoners of war; and the daughters of your paternal uncles and the daughters of your paternal aunts and the daughters of your maternal uncles and the daughters of your maternal aunts who migrated with you, and the believing woman, if she

اور ان کے لئے عزت کا ثواب تیار کر رکھا ہے (44)

اے نبی کی خبریں بتانے والے! (نبی) ایک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دینا اور ڈر سنانا (45)

اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چکا دینے والا آفتاب (46)

اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لئے اللہ کا بڑا فضل ہے (47)

اور کافروں اور منافقوں کی خوشی نہ کرو اور ان کی ایذا پر درگزر فرماؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ بس ہے کارساز (48)

اے ایمان والو جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں بے ہاتھ لگانے چھوڑ دو تو تمہارے لیے ان پر کچھ عدت نہیں بنے گی، تو انہیں کچھ فائدہ دو اور اچھی طرح سے چھوڑ دو (49)

اے نبی بتانے والے (نبی) ہم نے تمہارے لیے حلال فرمائیں تمہاری وہ بیبیوں جن کو تم مردود اور تمہارے ہاتھ کا مال کینسرین جو اللہ نے تمہیں غنیمت میں دیں اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور بھوپھیوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالوں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی اور ایمان والی عورت اگر وہ اپنی جان نبی کی نذر کرے اگر نبی اسے

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ يَكْتُبُ لَكُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُكُمُ الْحِكْمَ وَيُؤْتِيكُم مِّنْ فَضْلِهِ وَإِن يَسْتَأْذِنكُمْ فَبِأَنَّ إِلَى اللَّهِ يَرْجِعُ الْكَلِمَٰتُ وَأَنَّ إِلَى اللَّهِ الْمُنْتَهَىٰ ۗ

وَدَاعِيَ إِلَى اللَّهِ يَأْذِنُهُ وَيَسْرَاجًا مُّبِينًا ۝

وَلِيُشِرَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَثِيرًا ۝

وَلَا يُطْعِمِ الْكُفْرِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَذَمَّ أَيْدِيَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ تَطْلُقَهُنَّ مِنْ بَيْتٍ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا هَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَأَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَدَيْتَ عَهْدَكَ وَبَدَيْتَ عَهْدَكَ وَبَدَيْتَ خَالِكَ وَبَدَيْتَ خَلِيكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأَمْرًا مُّؤَمَّنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ أَنْ

presents herself to the Nabi (Prophet) and the Nabi (Prophet) desires to marry her. This provision is specially for you and not for the rest believing men. We know what We (Allah) have ordered for them concerning their wives and the possession of their right hands, that there may not be any hardship on you. And Allah is Forgiving, Merciful.

51. You may defer the turn of any of your wives you select and may give place (in bed) as near you to any of them whom you like. And if you desire to have any one of those whose turn you had deferred, there is no harm on you. This is nearer than that their eyes may be cooled and that they may not be grieved and they all may be pleased with what you have given them. And Allah knows what is in the hearts of you all. And Allah is Knowing Forbearing.

52. Thereafter other women are not allowed to you, nor you can take other wives in exchange of them, though their beauty pleases you, except what your right hand possesses (of the captive women). And Allah is Watchful over all the things.

SECTION 7

53. O believers! donot enter the houses of the Nabi (Prophet) unless you get permission for a meal, not waiting for its cooking being finished. But when you are invited then enter and when you have taken your meal then disperse, not this that you may sit down and amuse yourselves in talks. Surely,

نکاح میں لانا چاہے یہ خاص تمہارے لیے ہے امت کے لئے نہیں ہمیں مطوم ہے جو ہم نے مسلمانوں پر مقرر کیا ہے، ان کی بیویوں اور ان کے ہاتھ کے مال کنبیوں میں یہ خصوصیت تمہاری اس لیے کہ تم پر کوئی سختی نہ ہو اور اللہ بخشنے والا مہربان

(50)

بیچے ہٹاؤ ان میں سے جسے چاہو اور اپنے پاس جگہ دو جسے چاہو اور جسے تم نے کنارے کر دیا تھا اسے تمہارا جی چاہے تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں یہ امر اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور غم نہ کریں اور تم انہیں جو کچھ عطا فرماؤ اس پر وہ سب کی سب راضی رہیں اور اللہ جانتا ہے جو تم سب کے دلوں میں ہے اور اللہ علم و حلم والا ہے (51)

ان کے بعد اور عورتیں جنہیں حلال نہیں اور نہ یہ کہ ان کے عوض اور بی بیایں بدلو اگرچہ جنہیں ان کا حسن بھائے مگر کنبیز تمہارے ہاتھ کا مال اور اللہ ہر چیز پر گنہگار ہے (52)

اسے ایمان والو نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اذن نہ پاؤ مثلاً کھانے کے لیے بلائے جاؤ نہ یوں کہ خود اس کے پکنے کی راہ نکو ہاں جب بلائے جاؤ تو حاضر ہو اور جب کھا چکو تو متفرق ہو جاؤ نہ یہ کہ بیٹھے باتوں میں دل بسلاؤ بیچک

كَسَبْتُمْ سِهَابًا خَالِصَةً لِّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

تَرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْتِي الْيَتَامَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتِ مِنْ عَرَكَتٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَءِي عَيْدَهُنَّ إِذَا كُنَّ وَرَىٰ وَرَضِينَ بِمَا آتَيْنَهُنَّ كُلِّهِنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۝

لَا يَجْعَلُ لَكَ الْبَسَاءُ مِنْ بَعْدِ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَجْنَبًا كَحَسَنَةٍ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَإِنْ كَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَبْزِئِينَ إِنَّهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا اطَّعْتُمْ فَانْتَبِرُوا وَ

this causes inconvenience to the Nabi (Prophet), and he has regard for you, but Allah is not shy of saying the truth. And when you ask from them (wives of the Prophet) any good ask from behind a curtain. This is for purity of your hearts and their hearts. And it does not behoove you that you should give trouble to the Rasool (Messenger of Allah) and nor that you should ever marry his wives after him. Surely, this is a grievous thing in the sight of Allah.

54. Whether you do any thing openly or conceal it, surely, Allah knows all the things.

55. There is neither any harm for them in respect of their fathers or their sons or their brothers, or their brothers' sons, or their sisters' sons or the women they own nor maids their right hands possess. And remain pious with Allah. Surely, every thing is witnessed by Allah.

56. Surely, Allah and His Angels shower their Blessings on the Nabi (Prophet of Allah—the communicator of hidden news). O you who believe! send upon him (Divine) blessings and salute him fully well with best salutation.

57. Surely, those who speak evil things about Allah and His Rasool (Messenger), Allah's curse is upon them in this world and in the hereafter and Allah has kept prepared for them a degrading punishment.

58. And those who speak evil things about the believing

اس میں نبی کو ایذا ہوئی تھی تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے، اور اللہ حق فرماتے ہیں نہیں شرمانا اور جب تم ان سے رہنے کی کوئی چیز مانگو، تو پردے کے باہر سے مانگو اس میں زیادہ ستمخیزی ہے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کی اور حمیس میں پہنچنا کہ رسول اللہ کو ایذا دو اور نہ یہ کہ ان کے بعد بھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے (53)

اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، تو بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے (54)

ان پر مضائقہ نہیں ان کے باپ اور بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجیوں اور بھانجیوں اور اپنے دین کی عورتوں اور اپنی کیزیوں میں اور اللہ سے ڈرتی رہو بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے (55)

بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے (نبی) پر اے ایمان والو! ان پر درود اور خوب سلام بھیجو! (56)

جنگ جو ایذا دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں اور اللہ نے ان کے لیے زلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے (57)

اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو

لَا مَسْئَلَةَ لِبَيْتٍ يُبْنَىٰ اِنَّ ذٰلِكَمْ كَانُ يُوَدُّوْنَ النَّبِيَّ فَيَسْتَعِجِبُوْنَ مِنْهُ وَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَعِجِبُ مِنَ الْحَقِّ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَانْسَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقَالِكُمْ وَاَنْتُمْ قَلُوْبِيْنَ وَصَالِكَانَ لَكُمْ اَنْ تُوَدُّوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ اَبَدًا اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ﴿۵۳﴾

اِنَّ بِنْدًا وَّاشِيًا اَوْ مُخْفُوَةً فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿۵۴﴾

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِيْ اَبَائِهِمْ وَلَا اَبْنَاؤِهِمْ وَلَا اِخْوَانِهِمْ وَلَا اَبْنَاؤَ اِخْوَانِهِمْ وَلَا اَبْنَاؤَ اَخْوَاتِهِمْ وَلَا نِسَائِهِمْ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ وَالَّذِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿۵۵﴾

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصَلُّوْنَ عَلٰى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ﴿۵۶﴾

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤَدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ لَعْنَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿۵۷﴾

وَالَّذِيْنَ يُؤَدُّوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿۵۸﴾

find therein neither any supporter, nor any helper.

66. The day when their faces shall be turned in the fire; they will say, "Oh, would that we had obeyed Allah and obeyed the Rasool (Messenger)".

67. And they shall say, our Rubb (Sustainer) surely, we obeyed our chiefs and our leaders, as they led us on the wrong way".

68. O our Rubb (Sustainer) give them double punishment of fire, and curse them with a great curse.

SECTION 9

69. O believers! be not like those who spoke evil about Moosaa (Moses). But Allah exonerated him of what they spoke of him. And Moosaa (Moses) is honorable in the Sight of Allah.

70. O believers! be pious with Allah and speak the right word.

71. He will set right your deeds for you and will forgive you your sins, and whoso obeys Allah and His Rasool (Messenger), has achieved success.

72. Surely, We (Allah) offered the Trust (of the Divine Trust as in the Holy Qur'aan) to the heavens and the earth and the mountains, but they refused to bear it and were afraid of it, but man bore it. Surely, he is the bearer of cruel hardship, the ignorant.

73. So Allah will punish hypocrite men and women and "muushrik" associator (idolatrour) men and women. And Allah may accept the repentance of faithful (Muslim) men and women.

معاہدہ پائیں گے نہ مددگار (65)
جس دن ان کے منہ الٹ کر آگ
میں تلے جائیں گے کہتے ہوں گے ہائے
کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور
رسول کا حکم مانا ہوتا (66)

اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم اپنے
سرمدوں اور اپنے بھوں کے کہنے پر چلے
تو انہوں نے ہمیں راہ سے ہٹا دیا (67)
اے ہمارے رب انہیں آگ کا دونا
عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر (68)

اے ایمان والو ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے
موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرمایا،
اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور
موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے (69)

اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی
بات کہو (70)

تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دیگا
اور تمہارے گناہ بخش دیگا، اور جو اللہ اور
اس کے رسول کی فرمائشوں کی کرے، اس
نے بڑی کامیابی پائی (71)

بیچک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور
زمین اور پہاڑوں پر تو انہوں نے اس
کے اٹھانے سے انکار کیا، اور اس سے ڈر
گئے اور آدمی نے اٹھالی بیچک وہ اپنی جان
کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا ناروان ہے
(72)

مکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور
منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک
عورتوں کو اللہ توبہ قبول فرمائے مسلمان
مردوں اور مسلمان عورتوں کی اور اللہ

وَلَا تَنْصُرُوا
يَوْمَ تَقُومُ السُّعُودُ وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا أَمْرًا كَبِيرًا

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَلَّطْنَا وَكَبَّرْنَا
فَاغْلِبْنَا السَّيِّئِينَ
رَبَّنَا انصُرْنَا عِدَابِ
وَالنَّهْمُ لَعْنًا كَبِيرًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا أَمْرًا كَبِيرًا
كَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ
فَقَدْ جَاءَ فَوْزًا عَظِيمًا

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ
إِنَّهٗ كَانَ ظَلُومًا جَاهِلًا

يَعْتَدِ اللَّهُ الْمُتَّقِينَ وَالْمُتَّقَاتِ
وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ
اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

And Allah is Forgiving,
Merciful.

بخشے والا مہربان ہے (73)

يَا كَانِ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

S. XXXIV

SURA US-SABA

(THE NATION OF QUEEN
SHEBA)

Revealed at Makkah

(54 Verses, 6 Sections)

Allah's Name, Who is the
most Affectionate, the most
Merciful.

سورہ سبأ کہ میں نازل ہوئی (اس میں)
چون (54) آیتیں اور چھ (6) رکوع (ہیں)

يَوْمَ يَكْفُرُ كُلٌّ بِمَا كَفَرُوا وَهُمْ فِي أَعْيُنِنَا ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّ رَبِّنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ يَبْسُطُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ السُّرَّةَ ۚ

SECTION 1

1. All praise to Allah,
Whom belongs whatever is in
the heavens and whatever is
in the earth and His is the
praise in the hereafter. And
He is the Wise, the Aware.

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان
رحم والا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

2. He knows what goes
into the earth and what
comes forth from it, and what
descends from the heaven
and what ascends from it.
And He is the Merciful, the
Forgiving.

سب خوبیاں اللہ کو کہ اسی کا مال ہے جو
کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین
میں اور آخرت میں اسی کی تریف ہے
اور وہی ہے برکت والا خیروار (1)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَلَهُ الْخُبْرُ
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۝
يَعْلَمُ مَا يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يُخْرِجُ
مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا
يَعْرِجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ۝

3. And the disbelievers
say, "the Hour will not come
upon us". Please declare,
"why not, by my Rubb
(Sustainer) it will certainly
come upon you". He knows
the unseen. Neither an
atom's weight in the heavens
and in the earth can escape
from Him nor anything less
than that or greater, but
everything is in a clear Book;

جاتا ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو
زمین سے نکلتا ہے اور جو آسمانوں سے
اترتا ہے اور جو اس میں چمکتا ہے اور
وہی ہے مہربان بخشے والا (2)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْآيَاتِنَا السَّفَاةُ
قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَأَتَيْنَنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ
لَا يُعْزَبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ
وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَ
لَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝

4. so that He may reward
those who believe and do
righteous deeds. These are
for whom there is forgiveness,
and an honorable provision.

اور کافر بولے! ہم پر قیامت نہ آئے گی
تم فرماؤ کیوں نہیں میرے رب کی قسم!
چیک ضرور تم پر آئے گی غیب جاننے والا
اس سے غائب نہیں ذرہ بھر کوئی چیز
آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ اس
سے چھوٹی اور نہ بڑی مگر ایک صاف
بتانے والی کتاب میں ہے (3)

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ ۝
وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن تَرْجُزٍ
أَلِيمٌ ۝

5. But those who try hard
to defeat Our (Allah's) Verses
for them is the suffering of
the painful punishment.

تاکہ صلہ دے انہیں جو ایمان لائے اور
ایسے کام کیے یہ ہیں جن کے لیے بخشش
ہے اور عزت کی روزی (4)

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن تَرْجُزٍ
أَلِيمٌ ۝

6. And those who have
been given knowledge know
that what has been revealed
to you from your Sustainer
(Rubb) is the truth and

دردناک میں سے عذاب ہے (5)
اور جنہیں علم ملا وہ جانتے ہیں کہ وہ جو
کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس

وَيَذِي الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِي
أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ ۚ وَ

guides to the path of the Honorable, the Praised.

7. The disbelievers say, 'should we point out to you a person who will tell you that when being torn into pieces you become small particles, how you are then to be re-created.

8. Has he forged a lie against Allah or is he afflicted with madness? No, but those who do not believe in the Hereafter are in the punishment and too far gone in the error.

9. Have they not seen what is before them and what is after them of the heaven and the earth? If We (Allah) Desire We (Allah) may cause them to sink in the earth or cause a piece of the sky to fall upon them. Surely, in it is a sign for every repentant devotee.

SECTION 2

10. And certainly, We (Allah) Bestowed to Daood (David) excellence. O mountains and birds repeat Allah's praise with him. And We (Allah) made the iron soft for him;

11. to make ample side coats of mail and keep regard of the measurement in making, and you all do righteousness. Surely I See all what you do.

12. And We (Allah) made wind subservient to Soolaimaan (Solomon). Its morning course was of a month journey and its evening course was of a month journey and We (Allah) made to flow a steam of molten brass for him. And the Jinns worked before him by the Command of his Rubb

سے اترا وہی حق ہے اور عزت والے سب فریوں سراپے کی راہ بتاتا ہے (6) اور کافر بولے! کیا ہم تمہیں ایسا مرد بتا دیں جو تمہیں خبر دے کہ جب تم پر تو ہو کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ تو پھر تمہیں نیا بنا ہے (7)

کیا اللہ پر اس نے جھوٹ باندھا یا اسے سورا ہے بلکہ وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے عذاب اور دور کی گمراہی میں ہیں (8)

تو کیا انہوں نے نہ دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے آسمان اور زمین ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں بیشک اس میں نشانی ہے ہر رجوع لانے والے بندے کے لئے (9)

اور بیشک ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل دیا اسے پہاڑوں کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو اور اسے پرندوں اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کیا (10)

کہ وسیع زہریں بنا اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھ اور تم سب نیکی کرو بیشک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں (11)

اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی اس کی صبح کی منزل ایک مہینہ کی راہ اور شام کی منزل ایک مہینہ کی راہ اور ہم نے اس کے لیے پھلے ہوئے تانبے کا چشہ بنایا اور جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم

يَعْبُدِي إِلَىٰ جِدَارِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ①
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدَبْنَاكَ عَلَىٰ
رَجُلٍ يَتَّبِعُكُمْ إِذَا مَرَّ قَوْمٌ كُفْرًا
مُؤْتَرِكًا لَكُمْ لِقَىٰ خَلْقٍ جَدِيدٍ ②

أَفَتَدْرِي عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ حِجَابٌ
بِالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي

الْعَذَابِ وَالصَّلَاتِ الْبَعِيدِ ③
أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا
خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ
نَاشِئَ خَشِيفٍ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ تُسْقَطُ
عَلَيْهِمْ كَسْفًا فَمَنْ السَّمَاءُ إِنْ فِي ذَلِكَ

بِأَلَاءِ رَبِّكَ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ④
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَمُوسَىٰ آخِصًا مِّمَّا نَالُ
أَوْ فِي مَعَاذِ الطَّيْرِ وَالنَّاسِ ⑤
الْحَمِيدِ ⑥

أَبْنِ أَعْمَلٍ سَيْغَبٍ وَقَدِرٍ فِي السُّورِ
وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ⑦

وَلَسَلَّمَ لِمَنْ الرِّيحُ عِنْدَ مَا شَهِدُوا
رُوحَهَا شَهْرًا وَأَسْنَأَ لَعْنِ
الْقَطْرِ وَمَنْ أَيْحَنَ مَنْ يَعْمَلُ يَنْ

(Sustainer). And those of them who do not obey Our (Allah's) Commands We (Allah) shall make them taste the punishment of the burning fire.

13. They made for him what he desired, lofty fortresses and statues and bowls as water reservoirs of the size of big tanks and cooking pots, not moving. O members of the family of Daoud (David)! give thanks. And But few of My devotees are thankful.

14. And when We (Allah) decreed death for him (Solomon) nothing pointed out (the jinns) about his death except a termite of the earth that ate his stick. When he fell down on earth, the reality was known by the jinns. If they had known the unseen, they would not have been in this degrading punishment.

15. Certainly, for Saba (Nation of Queen Sheba) there was a sign in their own dwelling place, two gardens on the right hand and on the left. You eat of the provision of your Rubb (Sustainer) and be grateful to Him. Fair is your clean city and Forgiving is your Rubb (Sustainer).

16. But they turned away. We (Allah) sent against them a fierce flood and We (Allah) replaced their two gardens with two other gardens yielding bitter fruit and tamarisk and a few lote trees.

17. That We (Allah) awarded them because of their ingratitude and We (Allah) punish only the ungrateful.

سے اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بجز کئی آگ کا عذاب چکھائیں گے (12)

اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا اور نچے اور نچے گل اور تصویریں اور بڑے حوضوں کے برابر گن، (بڑے ٹب) اور نگر وار دیکھیں اسے داؤد والو شکر کرو، اور میرے بندوں میں کم ہیں شکر والے (13)

پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی ریک نے، کہ اس کا عصا کھاتی تھی پھر جب سیلمان زمین پر آیا جنوں کی حقیقت کھل گئی اگر غیب جانتے ہوتے، تو اس خوار کی عذاب میں نہ ہوتے (14)

چیک سہا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی دو باغ اور باہنے اور باہیں، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب (15)

تو انہوں نے منہ پھیرا، تو ہم نے ان پر زور کا اہل بھیجا اور ان کے باغوں کے عوض دو باغ انہیں بدل دیئے جن میں بکٹا (کڑوا) میوہ اور جھاؤ اور کچھ تھوڑی سی بیڑیاں (16)

ہم نے انہیں یہ بدلا دیا ان کی ناشہری کی سزا اور ہم کسے سزا دیتے ہیں اسی کو جو ناشہرا ہے (17)

يَذُرُهُمْ يَارْذُنَ رَبِّهِ وَمَنْ يَذُرْهُمْ مِنْهُمْ عَنْ أَهْوَانِ ذِقْنَهُ مِنْ عَذَابِ

التَّعْذِيرِ ﴿١٠﴾
يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَكْرٍ يُبِ
وَمَا تَشَاءُ وَحُفَّانِ كَالْحُجَابِ وَقَدْ وُجِدَ
رُسُلَاتِهِمْ أَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَ
قَلِيلٌ مِنَ عِبَادِي الشُّكْرُ ﴿١٣﴾

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ
عَلَى مَوْتِهِمْ إِلَّا دَابَّةٌ الْأَرْضِ تَأْكُلُ
مِمَّا تَأْتِي فَلَمَّا حَضَرْتَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ
أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْعَيْبُ مَا لَبِثُوا
فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْجِدِهِمْ آيَةٌ
جَنَّتَيْنِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا
مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ الْبَلَدَةَ
طَيِّبَةً وَرَبِّ عَفُورٌ ﴿١٥﴾

فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرْمِ
وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ
أَعْلٍ خَمَطٍ وَاتِّالٍ وَتَشَىٰ مِنْ سِدْرٍ
قَلِيلٍ ﴿١٦﴾

ذَلِكَ جَزَاءُ يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ
يُجْزَىٰ إِلَّا الْكُفُورَ ﴿١٧﴾

18. And We (Allah) placed between them and the cities that We (Allah) had blessed, such towns along the highways and fixed them easy stages for journey. Saying, "travel in them night and day in safety".

19. But they said "O our Rubb (Sustainer) put longer distances in our journeys and they were cruel to themselves". Therefore, We (Allah) made their tales and We (Allah) broke them into pieces with full confusion. Surely, in it are signs for every steadfast and grateful person.

20. And certainly, Iblis (satan) proved his conjecture true to them. So they followed him except a party of the faithfuls (Muslims).

21. And he (devil) had no authority over them but it was so that We (Allah) may distinguish such one who believes in the hereafter and who is in doubt concerning it. And your Rubb (Sustainer) is Watchful over all the things.

SECTION 3

22. Please declare (O dear Prophet Muhammad S.A.W.), "call upon those whom you assert besides Allah. Neither they are owner of even an atom's weight in the heavens or in the earth nor they have any share in either of them and nor any of them is a helper to Him.

23. And no intercession avails with Him except for him whom He permits, until their hearts are relieved of fright they will ask, "what is it that your Rubb (Sustainer) has said? They (Messengers) just will answer, "only the

اور ہم نے کیے تھے ان میں اور ان
شہروں میں جن میں ہم نے برکت رکھی
سراہ کتے شہر اور انہیں منزل کے
اندازے پر رکھا ان میں چلو راتوں اور
دلوں امن و امان سے (18)

تو بولے! اے ہمارے رب ہمارے سفر
میں دوری ڈال اور انہوں نے خود اپنا ہی
تھکان کیا تو ہم نے انہیں کمائیاں کر دیا
اور انہیں پوری پریشانی سے پر آگندہ کر دیا
بیک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور ہر
بڑے مبروہ والے، ہر بڑے شکر والے کے
لے (19)

اور بیک اہلیس نے انہیں اپنا گمان بچ کر
دکھایا تو وہ اس کے پیچھے ہو گئے، مگر ایک
گروہ کہ مسلمان تھا (20)

اور شیطان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا مگر اس
کے لیے کہ ہم دکھادیں کہ کون آخرت
پر ایمان لاتا ہے اور کون اس سے شک
میں ہے اور تمہارا رب ہر چیز پر تمہاں
ہے (21)

تم فرماؤ! پکارو انہیں جنہیں اللہ کے سوا
کچھ بیٹھے ہو! وہ ذرہ بھر کے مالک نہیں
آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ ان
کا ان دونوں میں کچھ حصہ اور نہ اللہ کا
ان میں سے کوئی مددگار (22)

اور اس کے پاس شفاعت کام نہیں دینی
مگر جس کے لئے وہ اذن فرمائے سماں
تک کہ جب اذن دیکر ان کے دلوں کی
گھبراہٹ دور فرما دی جاتی ہے ایک
دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے
کیا ہی بات فرمائی وہ کہتے ہیں جو فرمایا حق

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي
بُرُكَّتْ فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا
فِيهَا السُّبُورَ سِيْرًا وَاجْعَلْنَا لِكُلِّ امْرَأَةٍ
أُحْسِنِينَ ﴿١٥﴾

فَقَالُوا لَا تَبْعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَ
ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فِجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ
وَمَرَدَّنَاهُمْ كُلَّ مَمْرَدٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٦﴾

وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمُ الْإِبْلِيسُ ظَنَّهُ
فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾
وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ إِلَّا
إِن تَلْمِزُوهُم بِمَا لَآخَرُوا مِنَّكُمْ
هُوَ مِنْهَا فِي شَيْءٍ وَلَئِكَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ حَافِظٌ ﴿٢١﴾

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِّنْ دُونِ
الَّذِي لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي
السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ
فِيهِمْ مِّنْ شَرِكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْكُمْ
مِّنْ ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾

وَلَا تَسْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ
أُذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ
قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ

truth". And He is the Exalted, the Great.

24. Please declare, "who provides for you sustenance from the heavens and the earth"? Please declare, "Allah". And surely, either we or you are upon the right guidance or in clear error".

25. Please declare, "you will not be asked about our crimes nor we shall be questioned as to what were your deeds".

26. Please declare, "our Rubb (Sustainer) shall bring us together. Then He will judge between us with truth". And He is the Greatest Judge, the All-Knowing.

27. Please declare, "just show me those "shareek" associates, whom you have joined with Him. By no means can you do it. Nay! He is Allah, the most Honorable, the most Wise.

28. And (O beloved)! We (Allah) have not sent you but for the entire mankind, as a bearer of good news and a warner, but most of the people do not understand.

29. Instead they say, "when will this promise be fulfilled if you are truthful".

30. Please declare, "for you is the promise of a day from which neither you can remain behind for a single moment nor you can go ahead of it".

[HALF OF PART 22

ENDS]

SECTION 4

31. And the disbelievers say, "we shall never believe in this Qur'aan nor in those books which were before it". And if you could see when the cruel will be made to stand before their Rubb (Sustainer)

فرمایا اور وہی ہے بلند بڑائی والا (23)

تم فرماؤ! کون جو تمہیں روزی دتا ہے آسمانوں اور زمین سے تم خود ہی فرماؤ! اللہ! اور بیگ ہم یا تم! یا تو ضرور ہدایت پر ہیں! یا کھلی گمراہی میں (24)

تم فرماؤ! ہم نے تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا تو اس کی تم سے پوچھ نہیں نہ تمہارے کوکوں (برے اعمال) کا ہم

سے سوال (25)

تم فرماؤ! ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہم میں سچا فیصلہ فرما دے گا اور وہی ہے بڑا نیاؤ چکانے والا سب کچھ جانتا

(26)

تم فرماؤ! مجھے دکھاؤ تو وہ شریک جو تم نے اس سے ملائے ہیں ہشت بلکہ وہی ہے اللہ عزت والا حکمت والا (27)

اور اے محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے خوشخبری دتا اور ڈر سنانا لیکن بہت لوگ نہیں جانتے (28)

اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو (29)

تم فرماؤ! تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو نہ آگے بڑھ سکو (30)

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣١﴾
قُلْ مَنْ يُزِقُّكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ أَيْكُمُ لَعَلِي
هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾

قُلْ لَأَسْأَلَنَّ عَنْ أَجْرِمْنَا وَلَا
نَسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِنَا ﴿٣٥﴾
قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا
بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾

قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَوْلِيَاءَ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٧﴾

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَاهٍ لِلنَّاسِ
بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرِ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٩﴾
قُلْ لَكُمْ مَقْعَدٌ تَجِرُونَ لَآتِيكُمْ
عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِرُونَ ﴿٤٠﴾

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا
الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا نُوَدِّعُ
تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْتُوا فَمَنْ عِنْدُ

اور کافر بولے! ہم ہرگز نہ ایمان لائیں گے اس قرآن پر! اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے آگے تھیں! اور کسی طرح تو دیکھے جب ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے

throwing back on one another the blame. Those who were deemed weak will say to those who were arrogant, "It is but for you otherwise we would surely have been the believers".

32. Those who were arrogant will say to those who were deemed weak, "did we turn you away from the guidance after it came to you. No, you were guilty to yourselves".

33. And those who were deemed weak will say to those who were boastful "no it was your plotting of night and day, when you used to bid us that we should disbelieve in Allah setting up equals for Him". And they will conceal remorse when they see the punishment. And We (Allah) shall put shackles on the necks of those who were disbelievers. What they shall be awarded, but only to the extent of their deeds.

34. And whenever We (Allah) sent any warner to any habitation, the well-off people thereof said, "surely we disbelieve that with which you have been sent".

35. And they said, "we have greater riches and children, and we are not going to be punished".

36. Please declare, "surely, my Rubb (Sustainer) expands the provision for whom He Pleases, and straitens it for whom He Pleases, but most of the people do not know".

SECTION 5

37. And neither your wealth and nor your children can bring you near Us (Allah) in ranks but those who believe and remain righteous

کے جائیں گے ان میں ایک دوسرے پر بات ڈالے گا وہ جو دے رہے تھے ان سے کہیں گے جو اونچے کھینچتے تھے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے (31)

وہ جو اونچے کھینچتے تھے ان سے کہیں گے جو دے رہے ہوئے تھے کیا ہم نے تمہیں روک دیا ہدایت سے بعد اس کے کہ تمہارے پاس آئی، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ (32)

اور کہیں گے، وہ جو دے رہے ہوئے تھے ان سے جو اونچے کھینچتے تھے، بلکہ رات دن کا راتوں تھا، جب کہ تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ اللہ کا انکار کریں اور اس کے برابر والے ٹھہرائیں اور دل ہی دل میں پچھتائے لگے جب عذاب دیکھا اور ہم نے طوق ڈالے ان کی گردنوں میں منگرتے، وہ کیا بدلا جائیں گے گمراہی جو کچھ کرتے تھے (33)

اور ہم نے جب بھی کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا وہاں کے آسوں نے یہی کہا کہ تم جو لے کر بھیجے گئے، ہم اس کے منکر ہیں (34)

اور بولے! ہم مال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں، اور ہم پر عذاب ہونا نہیں (35)

تم فرماؤ! بیگ میرا رب رزق وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے لیکن بہت لوگ نہیں جانتے (36)

رَبِّهِمْ يُرِجِعْ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ
الْقَوْلَ لِقَوْلِ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا
لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَالْوَالِدَاتُ
لَكُمْ

مُؤْمِنِينَ ۝۳۱

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ
اسْتَضَعُوا آمَنَّا صَدَدُكُمْ
عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَكُمْ
بَلْ كُنْتُمْ كٰفِرِينَ ۝۳۲

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ
اسْتَكْبَرُوا بَلْ كُنَّا بِيُتْلَىٰ وَالنَّهَارِ
بِذَاتِنَا وَرَبَّنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ
لَهُ آندَادًا وَأَسْرُوًّا لِنُدَامَةَ لَمَّا
ذُكِرَ الْعَذَابُ وَجَعَلْنَا الْأَشْخَالَ فِي
أَعْتَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجِزُونَ
إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۳۳

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا
قَالَ مَثَرُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسَلْنَاكُمْ بِهِ
كٰفِرُونَ ۝۳۴
وَقَالُوا آمَنَّا بِالَّذِينَ آمَنُوا وَالْوَالِدَاتُ
وَمَا حَسَنَ بِمَعْدَىٰ بَيْنَ ۝۳۵

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ
وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ ۝۳۶

اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب تک پہنچائیں، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیکی کی

وَمَا أَوْلَاؤُكُمْ إِلَّا أَوْلَادُكُمْ يَأْتِينِي
تَقَرُّبُكُمْ عِندَنَا زُفَىٰ الْأَمْنِ
وَعَمَلٌ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ

will have double reward for their deeds and they will be secured in highest palaces.

38. And those who try to defeat Our (Allah's) Verses, they shall be brought to face the punishment.

39. Please declare, "surely my Rubb (Sustainer) expands provision for those whom He Wills of His devotees and straitens for whom He Wills". And whatever you spend in the way of Allah, He will replenish it with more. And He is the best of the providers".

40. And (remember) the day He will gather them altogether. He will then say to the Angels, "did these men use to worship you"?

41. They shall submit, "Glorified be You. You are our Protector, not they. In fact they used to worship the (devil) Jinn as most of them were believers in them.

42. So, today none of you shall have power to do good or bad for one another. And We (Allah) shall say to the cruel "taste the punishment of this fire that you denied".

43. And when Our (Allah's) clear Verses are recited to them, they say, "this is not but a man who desires to turn you away from that your fathers worshipped". And they say "this is not but a lie which is forged". And the disbelievers say about the truth, when it comes to them, "this is not but an open magic".

44. And We (Allah) neither gave them (Arabs) any book to study, nor any warner came to them, before you (Muhammad).

ان کے لیے دوتا (فاصلہ رکھیں) (۱۰۱) صل
ان کے عمل کا بدلا اور وہ بالا خانوں میں
امن وامان سے ہیں (37)

اور وہ جو ہماری آیتوں میں ہر آنے کی
کوشش کرتے ہیں وہ عذاب میں لا
دھرے جائیں گے (38)

تم فرماؤ! بیشک میرا رب رزق وسیع فرماتا
ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے
اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے
اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو
اس کے بدلے اور دیکھا اور وہ سب سے
بہتر رزق دینے والا (39)

اور جس دن ان سب کو اٹھائے گا پھر
فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ تمہیں پوسنے
تھے (40)

وہ عرض کریں گے! ہاں ہے تمہ کو تو ہمارا
دوست ہے نہ وہ بلکہ وہ جنوں کو پوسنے
تھے ان میں اکثر انہیں پر یقین لائے تھے
(41)

تو آج تم میں ایک دوسرے کے بدلے
بڑے کا کچھ اختیار نہ رکھے گا اور ہم
فرمائیں گے ظالموں سے اس عمل کا
عذاب چلکو! جسے تم جھٹلاتے تھے (42)

اور جن پر ہماری روشن آیتیں پڑھی
جائیں تو کہتے ہیں 'یہ تو نہیں مگر ایک مرد'
کہ تمہیں روکنا چاہتے ہیں تمہارے باپ
دارا کے مہودوں سے اور کہتے ہیں 'یہ تو
نہیں مگر بہتان جوڑا ہوا اور کافروں نے
حق کو کہا' جب ان کے پاس آیا 'یہ تو
نہیں مگر کھلا جادو (43)

اور ہم نے انہیں کچھ کتابیں نہ دیں
جنہیں پڑھتے ہوں نہ تم سے پہلے ان کے
پاس کوئی ذرہ سانسے والا آیا (44)

الصَّعِيفِ بَاعُوا آلَهُمْ فِي
الْعُرْفِ اٰمِنُوْنَ ۝۳۸

وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِي الْبَيْتِ الْمَعْجِزِيْنَ
اُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخَضَّرُوْنَ ۝۳۹

قُلْ اِنْ رَّبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ
يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ مَا
اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مُخِفٌ ۝۴۰

وَهُوَ خَيْرُ الرَّزٰقِيْنَ ۝۴۱
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ
لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِهٰؤُلٰٓءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا
يَعْبُدُوْنَ ۝۴۲

قَالُوْا اَسْمٰجِيْلَكَ اَنْتَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَوَجَّهْتُمْ
بِلْ كَاۡنُوْا اِيْعٰبِدُوْنَ اِلٰٓهِيْنَ اَكْثَرُهُمْ
بِيْهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ۝۴۳

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمُ لِبَعْضٍ
تَفْعٰلًا وَّلَا ضَرًا وَّلَقَوْلِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا
ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا
تَكْتَبُوْنَ ۝۴۴

وَاِذْ اَنْتَ لِيْ عَلَيْهِمُ الْاِيْتَانِ تَنْزِيْلًا قَالُوْا
مَا هٰذَا اِلَّا جُلْدٌ يُرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ
عَمَّا كَانُوْا يَعْبُدُوْا اٰبَاؤَكُمْ وَقَالُوْا مَا
هٰذَا اِلَّا اَفْكٌ مُّفْتَرٰوِيْ وَقَالَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لِيَجَاۡهُمُ اِنْ هٰذَا
اِلَّا اِسْحٰوْطٌ مِّمَّنْ ۝۴۵

وَمَا اٰتَيْنٰهُمْ مِنْ كِتٰبٍ يَدْرُسُوْنَ فِيْهَا
وَمَا اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيْرٍ ۝۴۶

45. And those before them rejected (truth) and these had not yet attained one-tenth of what We (Allah) had given them. But they falsified My Rasools (Messengers). So how was the change which was to be brought about in their conditions?"

SECTION 6

46. Please declare, "I give you warning about one thing that you rise up for Allah's sake in two by two or one by one and then think to reflect. There is no insanity in your companion (Muhammad) who is only a warner to you of a dreadfully severe punishment.

47. Please declare, "let the reward I ask you for is, be yours". "My reward is only upon Allah, and He is witness over everything".

48. Please declare, "surely my Rubb (Sustainer) utters only the truth, the Great Knower of the unseen things".

49. Please declare, "the truth has come and falsehood neither shall have precedence nor shall get reproduction".

50. Please declare, "if I err I err only for myself to my own loss, and if I have been guided, it is on account of what my Rubb (Sustainer) has revealed to me. Surely, He is All-Hearing and is Nigh.

51. And could you see when they shall be terrified in confusion. But there would be no escape and they will be seized from a nearby place;

52. and they will say, "we now believe therein". But how can they get back to it from so a distant place.

اور ان سے انہوں نے جھٹلایا اور یہ اس کے دوسروں کو بھی نہ پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا، پھر انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو کیا ہوا میرا انکار کرنا؟ (45)

تم فرماؤ! میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے کھڑے رہو دو دو اور اکیلے اکیلے، پھر سوچو کہ تمہارے ان صاحب میں جنون کی کوئی بات نہیں وہ تو نہیں مگر تمہیں ڈر سنانے والے ایک سخت عذاب کے آگے (46)

تم فرماؤ! میں نے تم سے اس پر کچھ اجر مانگا ہو تو وہ تمہیں کو میرا اجر تو اللہ ہی ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے (47)

تو فرماؤ! بیک میرا رب حق کا اللہ فرماتا ہے، بت جانے والا سب غیبوں کا (48)

تم فرماؤ! حق آیا اور باطل نہ پہل کرے اور نہ پھر کر آئے (49)

تو فرماؤ! اگر میں بھکا تو اپنے ہی برے کو بھکا اور اگر میں نے راہ پائی، تو اس کے سبب جو میرا رب میری طرف وحی فرماتا ہے، بیک وہ سننے والا نزدیک ہے (50)

اور کسی طرح تو دیکھے جب وہ گھبراہٹ میں ڈالے جائیں گے پھر بچ کر نہ نکل سکیں گے اور ایک قریب جگہ سے پڑ لے جائیں گے (51)

اور کہیں گے، ہم اس پر ایمان لائے، اور اب وہ اسے کیونکر پائیں اتنی دور جگہ سے (52)

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَاَبْلَغُوا
وَعَسَا مَا آتَيْنَهُمْ فَلَئِمَّا يَأْتِيَنَّ
عَذَابٌ كَافٍ كَانَ نَذِيرًا ۝

قُلْ لَئِنَّمَا اَعْظَمَكُمْ بِوَاحِدٍ اِنْ تَقُوْا
بِلِلٰهِ مُشْفٰى وَّفِرَادٰى لَكُمْ تَتَفَكَّرُوْا مَا
بَصَاحِبِكُمْ مِنْ جَنْدٍ اِنْ هُوَ اِلَّا
نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدٰى عَذَابٍ
شَدِيْدٍ ۝

قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ فَاِنْ لَكُمْ مِنْ
اَجْرِي الْاَعْلٰى اِنَّ اللّٰهَ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ شٰهِدٌ ۝

قُلْ اِنْ رَبِّي يَقْدِرُ بِالْحَقِّ عَلٰى
الْغُيُوْبِ ۝
قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَاَيُّدِي الْاِبَاطِلِ
وَمَا يُعِيْدُ ۝

قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَا اضِلُّ عَلٰى
نَفْسِيْ وَاِنْ اِهْتَدَيْتُ فَمَا يُؤْتِي
اِلٰى رَبِّيْ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ ۝

وَلَوْ تَرَى اِذْ فِرَعُوْنُ اَفْلَاقًا
اُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ۝
وَقَالُوْا اَسْمٰكِيْنَةُ وَاِنَّا لَمُ الْفِتْنٰوْسُ
مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ۝

53. And they disbelieved in it before; and they utter conjectures with regard to the unseen from a distant place.

54. And a barrier shall be placed between them and that which they desire, as was done with the like of them before. Surely, they were in a deceiving doubts.

S. XXXV

SURA FATIR

(THE ORIGINATOR)

Revealed at Makkah

(45 Verses, 5 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. All praise be to Allah, the Originator of the heavens and the earth, the Appointer of the Angels as message bearers who have two, three and four wings. He increases in creation what He pleases. Surely, Allah is Powerful over every thing.

2. Whatever Allah grants from His Mercy for mankind there is none to withhold it, and whatever He withholds, there is none to release it thereafter. And He is the Honorable, the Wise.

3. O mankind! remember the favor of Allah upon you. Is there any creator besides Allah who provides for you from the heavens and the earth? There is none worth worship except He. Where are then you turning away?

4. And if they reject you (Muhammad S.A.W.) then certainly Allah's Rasools (Messengers) have been rejected before you. And to Allah is the return of all the affairs.

کہ پہلے تو اس سے کفر کر چکے تھے اور بے دیکھے پھینک مارتے ہیں دور مکان سے (53)

اور روک کر دی گئی ان میں اور اس میں جسے چاہتے ہیں جیسے ان کے پہلے گروہوں سے کیا گیا تھا بیک وہ دھوکا ڈالنے والے تک میں تھے (54)

سورۃ فاطر کہ میں نازل ہوئی (اس میں) پینتالیس (45) آیتیں اور پانچ (5) رکوع (پڑھیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا سب خوبیاں اللہ کو جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا فرشتوں کو رسول کرنے والا جس کے دو دو تین تین چار چار پر ہیں برہماتا ہے آفرینش میں جو چاہے بیک اللہ ہر چیز پر قادر ہے (1)

اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھولے اس کا کوئی روکنے والا نہیں اور جو کچھ روک لے تو اس کی روک کے بعد اس کا کوئی چھوڑنے والا نہیں اور وہی عزت و حکمت والا ہے (2)

اے لوگو اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے کہ آسمان اور زمین سے تمہیں روزی دے اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم کہاں اونہمہ جاتے ہو (3)

اور اگر یہ تمہیں بھٹلائیں تو بیک تم سے پہلے کتنے ہی رسول بھٹلائے گئے اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں (4)

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْدِرُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾

وَجِئِلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعِلَ بِأَشْيَاءِ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ ﴿٥٤﴾

سورۃ فاطر کیلئے پانچ حصے ہیں اور پانچ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبْعًا يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقِ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنِّي تُوفِّكُونَ ﴿٣﴾

وَإِن يَكْفُرْ بِنُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رَسُولَ بَنِي قَدِيلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تَرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤﴾

5. O mankind! surely, the promise of Allah is true. Therefore, let not the life of this world deceive you and let not the arch deceiver deceive you in the respect of Allah.

6. Surely, the satan (devil) is your enemy. So take him only as an enemy. He only assembles his party that they be among the companions of the burning fire.

7. For the disbelievers there is severe penalty and those who have believed and have done righteous deeds, for them is forgiveness and great reward.

SECTION 2

8. What! is he (she) whose evil deeds appear fair to him (her) so much so that he (she) considers them good. Allah leaves such one to err as He Pleases and Guides whom He Pleases. So do not waste yourself in griefs for them. Allah knows well whatever they do.

9. And Allah is He Who sends the winds that raise the clouds. Then We (Allah) drive it to a dead land and give life to the earth, therewith, after its death. This is how the resurrection be.

10. Whoever desires honor, should know that all honors belong to Allah. Towards Him ascend all pure words, and He exalts the righteous works. And those who plot evils, for them is the severe punishment. And their plans only will perish.

11. And Allah created you from clay, then from a semen drop, then made you pairs of male and female. And no

اسے لوگو بیک اللہ کا وعدہ ہے تو ہرگز ہمیں دھوکا نہ دے دنیا کی زندگی اور ہرگز ہمیں اللہ کے حکم پر فریب نہ دے وہ بڑا فریبی (5)

بیک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے کہ دوزخیوں میں ہوں (6)

کافروں کے لیے سخت عذاب ہے اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے (7)

تو کیا وہ جس کی نگاہ میں اس کا برا کام

آراستہ کیا گیا کہ اس نے اسے بھلا سمجھا ہدایت والے کی طرح جو جائے گا اس لیے اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور راہ دتا ہے جسے چاہے تو تمہاری جان ان پر حسرتوں میں نہ جائے اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں (8)

اور اللہ ہے جس نے بھیجیں ہوائیں کہ باہل بھارتی ہیں پھر ہم اسے کسی مردہ شر کی طرف رواں کرتے ہیں تو اس کے سبب ہم زمین کو زندہ فرماتے ہیں اس کے مرے پیچھے یونہی مشر میں اٹھتا ہے (9)

جسے عزت کی جاہ ہو تو عزت تو سب اللہ کے ہاتھ ہے اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام اور جو نیک کام ہے وہ اسے بلند کرتا ہے اور وہ جو بُرے واؤں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور انہیں لاکھ برباد ہو گا (10)

اور اللہ نے ہمیں بتایا مٹی سے پھر پانی کی بوند سے پھر ہمیں کیا جوڑے جوڑے اور

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَفْرَقَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْعَاقِبَةُ ۝

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حُزْنَ لَكُمْ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السُّعُورِ ۝

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝

أَمَنْ زَيْنٌ لَهُ سُوءٌ عَلَيْهِ فَرَأَاهُ حَسَنًا لَئِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِنُصْلَةٍ مِنْ شَيْءٍ وَرَهْمِي مِنْ شَيْءٍ فَلَا تَدْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِم بِمَا نَصَعُونَ ۝

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتَنِيذِرُ سَحَابًا فَسُقْنَهَا إِلَى الْبَلَدِ مَتَدِيَةً فَلْيَتَنَبَّأَهُ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ۝

مَنْ كَانَ يَرْيِدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُؤُكَ هُوَ يُبْذَرُ ۝

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَظْفٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا

female bears, nor she gives birth but with His knowledge. And no one whose life is lengthened has life extended or the age of whose is curtailed (can extend it). All this is in a Book. Surely it is easy for Allah.

12. And the two seas are not alike. One is palatable, sweet, and pleasant to drink and the other one is saltish, so bitter. And from each you eat fresh meat and take out ornaments to wear. And you see the ships therein ploughing the water so that you may seek His Bounty and that you be grateful.

13. He merges the night into the day and He merges the day into the night and He has pressed into service the sun and the moon that each one runs up to an appointed time. This is Allah your Rubb (Sustainer). His is the Kingdom of the entire Universe. And those whom you worship besides Him, do not own even the husk of a date palm.

14. If you call them they will not listen to your call, and even if they hear they cannot grant your wish. And on the Day of Resurrection they will deny your such associating "shirk" in their worship. And none can rightly acquaint you like the All-Aware.

[THREE FOURTH OF PART 22 ENDS] SECTION 3

15. O mankind! it is you who stand in need of Allah but Allah is He Who is All Sufficient, All-Praised

16. If He pleases, He may take you away and bring a new creation.

کسی مادہ کو بیٹ نہیں رہتا اور نہ وہ جنمی ہے مگر اس کے علم سے اور جس بی بی عمر والے کو عمر دی جائے یا جس کی کسی کی عمر کم رکھی جائے یہ سب ایک کتاب میں ہیں' بیچک ہے اللہ کو آسان ہے (11)

اور دونوں سمندر ایک سے نہیں یہ میٹھا ہے خوب میٹھا، پانی خوشگوار، اور یہ کھاری ہے تلخ اور ہر ایک میں سے تم کھاتے ہو تازہ گوشت اور نکالتے ہو پسنے کا ایک گنا اور تو کشتیوں کو اس میں دیکھے کہ پانی چرتی ہیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو' اور کسی طرح حق مانو (12)

رات لاتا ہے دن کے حصہ میں، اور دن لاتا ہے رات کے حصہ میں اور اس نے کام میں لگائے سورج اور چاند ہر ایک ایک مقرر میعاد تک چلا ہے یہ ہے اللہ تمہارا رب اسی کی بادشاہی ہے اور اس کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو وائے خرا کے چھلکے تک کے مالک نہیں (13)

تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، اور بالقرض، سن بھی لیں تو تمہاری حاجت روانہ کر سکیں اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے منکر ہو گئے اور تجھے کوئی نہ بتائے گا اس بتانے والے کی طرح (14)

تَجِبَلْ مِنْ اَنْثَىٰ وَلَا تَضْمُرْ الْاِبْرَهِيْمَةَ
وَمَا يَعْزُبُ عَنْكَ مِنَ الْاَنْثَىٰ وَلَا يَنْفَعُ
مِنْ عُمْرِهِ الْاِنْفَىٰ كِتَابٌ اِنْ ذٰلِكَ
عَلَىٰ اِلٰهٍ يَسِيْرٌ ۝۱۱

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرٰنِ هٰذَا عَذْبٌ
فُرَاتٌ سَاۡبِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا اَمْلَحٌ
اُجَابٌ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُوْنَ مِنْهَا طَرِيْقًا
وَلَا تَسْخِرُوْنَ جَلِيْبَةً تَلْهٰوْنَ بِهَا
وَتَنزٰى الْفُلُكُ فِيْهِ مَوَآخِرٌ لِّتُبْتَغٰى
مِنْ فَضْلِهٖ وَاعْلَمْتُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝۱۲

يُوَلِّجُ الْاِلٰهَ فِي الْبَهٰرِ وَيُوَلِّجُ الْبَهٰرَ
فِي الْاَيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
كُلٌّ يَجْرِيْ لِاٰصْلِ عَرْسِهٖ ذٰلِكَمُ
رَبُّكُمْ لَهٗ الْمَلٰٓئِكُ وَالْبَدِيْنَ تَدْعُوْنَ
مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قَطْمِيْرٍ ۝۱۳

اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دَعْوٰكُمْ
وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ وَيَوْمَ
الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا
تَجِدُ لِكٰفٍ لِّبَيْتِكَ مِثْلَ خَبِيْرٍ ۝۱۴

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ اِلٰى اللّٰهِ
وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝
اِنْ يَشَآءْ يَدْهَبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ
جَدِيْدٍ ۝۱۶

اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج اور اللہ ہی ہے نیاز ہے سب خوبیوں سرا (15)
وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے (16)

27 And this is not anything difficult for Allah.

18 And no self bearer of burden will bear the burden of another. And if any one heavily loaded calls any other to share his (her) load, not anyone will bear anything from its burden, even though he may be a near relation. (O beloved) your warning is useful only for those who fear their Rubb (Sustainer) without seeing and establish Salaat (Muslim Prayer). And whoso purifies, purifies for his (her) own good. And to Allah is the return.

19. And the blind and seeing are not equal;

20. and nor is the darkness equal to the light;

21. and nor the shade and the heat.

22. And the living and the dead never can be equal. Surely, Allah causes him to listen whom He pleases; but you cannot make those who are lying in their graves to hear.

23. You are but a warner.

24. (O beloved) surely, We (Allah) have sent you with truth as a bearer of good news and as a warner. And for every Oommah (grand community) a warner has been appointed.

25. And if they falsify you, then those before you have already been falsified. There came to them their Rasools (Messengers) with clear proofs and with the scriptures and the shining Books.

26. Then We (Allah) seized the disbelievers, then how was My disapproval.

SECTION 4

اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں (17)

اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی اور اگر کوئی بوجھ والی اپنا بوجھ ہٹانے کو کسی کو بلائے تو اس کے بوجھ میں سے کوئی کچھ نہ اٹھائے گا، اگرچہ قریب رشتہ دار ہو اسے محبوب تمہارا ڈر سنا انہیں کو کام دینا ہے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو ستمرا ہوا، تو اپنے ہی بھلے کو ستمرا ہوا ہے اور اللہ ہی کی طرف پھرتا ہے (18)

اور برابر نہیں اندھا اور اکھیرا (19)

اور نہ اندھیوں اور نہ اجالا (20)

اور نہ سایہ اور نہ تیز دھوپ (21)

اور برابر نہیں زندہ اور مرنے، چٹکے اللہ سنا تا ہے جسے چاہے، اور تم نہیں سنانے والے انہیں جو قبروں میں پرے ہیں (22)

تم تو یہی ڈر سنانے والے ہو (23)

اسے محبوب چٹکے ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا خوشخبری دینا اور ڈر سنانا اور جو کوئی گروہ تمہا میں ایک ڈر سنانے والا

گزر چکا (24)

اور اگر یہ تمہیں جھٹلائیں، تو ان سے اگلے بھی جھٹلا چکے ہیں ان کے پاس ان کے رسول آئے روشن دلیلیں اور صحیفے اور چمکنی کتاب لے کر (25)

پھر میں نے کافروں کو پکڑا، تو کیسا ہوا میرا ناکار (26)

وَمَا ذَلِكْ عَلَى اللَّهِ بَعِزٌّ ۝
وَلَا تَزِدُ وَازِرَةً وَذَرَّ آخِرِي وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِهْلِيهَا لَأُبْجِلَنَّ ۝
مِنْهُ شَيْءٌ وَاللَّوْكَانُ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يُحْشِنُونَ ۝
بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَرَكَنِي فَاِنَّمَا يَتَرَكَ لِنَفْسِهِ ۝
وَاللَّهُ الْمَعْزِيُّ ۝

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۝

وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ۝

وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ۝

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۝

إِنَّ اللَّهَ يَجْمَعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝

إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۝

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۝

وَلَنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۝

وَأَن يَكذَّبُواكَ فَتَعَدَّ كَذَبُ الَّذِينَ

مِن قَبْلِهِمْ جَاءَ قُرْبَهُمْ سُلْطَانٌ

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۝

وَاللَّهُ الْعَزِيزُ ۝

فَمَا أَخَذَتِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقِيفَ

عَيْنًا كَانَتْ نَكِيرًا ۝

27. Donot you see that Allah sends down water from the sky and then We (Allah) bring forth there with fruits of different colors. And in the mountains are streaks, white and red of different colors and some raven black.

28. And men and beasts and cattle are in like manner of various colors. Only those of His devotees who possess knowledge fear Allah. Surely, Allah is Honorable, Forgiving.

29. Surely, those who recite the Book of Allah and establish Salaat (Muslim Prayer) and spend out of what We have given them, secretly and openly, should hope for a trade in which there is no loss;

30. that He may give them their reward in full and give more out of His Bounty. Surely, He is Forgiving, Appreciating.

31. And the Book We (Allah) revealed to you is the truth confirming the Books before it. Surely, Allah is Aware of His devotees and Seeing them.

32. Then We (Allah) gave the Book for its inheritance to Our (Allah's) selected devotees. But amongst them are those who wrong themselves; and of them are those who take a middle course; and of them is he who excels others in righteousness by Allah's leave. This is indeed the great bountiness.

33. Paradises of eternity which they will enter. They will be made to wear bracelets of gold and pearls there and their dress therein will be silken.

کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے پھل نکالے رنگ رنگ اور پہاڑوں میں راستے ہیں سفید اور سرخ، رنگ رنگ کے اور کچھ کالے بھونچک (27)

اور آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں کے رنگ یونسی طرح طرح کے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں بیک اللہ بخشنے والا عزت والا ہے (28)

بیک وہ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دینے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں پوشیدہ اور ظاہر وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں (29)

جس میں ہرگز ٹوٹا نہیں تاکہ ان کے ثواب انہیں بھر پور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے بیک وہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے (30)

اور وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی وہی حق ہے اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہوئی بیک اللہ اپنے بندوں سے خیردار دیکھنے والا ہے (31)

پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنے پنے ہوئے بندوں کو تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور ان میں کوئی سیانہ حال پر ہے اور ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بھلاہوں میں سبت لے گیا یہی بڑا فضل ہے (32)

ہنسنے کے باغوں میں داخل ہو گئے، وہ ان میں سونے کے سگن اور موتی پستانے جائیں گے اور وہاں ان کی پوشاک ریشمی ہے (33)

الْقُرْآنَ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا

وَعَرَابٌ بَيْضٌ سَوْدٌ ۝۲۷

وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۝۲۸

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَالْفُقُورَاءُ مَارَفَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرِجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ ۝۲۹

يَوْمَ فِيهِمُ أَجْرٌ هَمٌّ وَيَزِيدُ اللَّهُ فِيهِمْ فَضْلَهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝۳۰

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

إِنَّ اللَّهَ بَعْبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ۝۳۱

تَعْرِ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ

وَمِنْهُمْ مَقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُأْتُونَ اللَّهَ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۝۳۲

جَدَّتْ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يَحْمِلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِدٍ مِنْ ذَهَبٍ وَتُلُوتًا

وَرِبَاسَهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝۳۳

34. And they will say, "all praise be to Allah Who has removed our grief. Surely, our Sustainer (Rubb) is Forgiving, Appreciating;

35. Who out of His Bounty has made us settle in a place of comfort for ever, wherein no trouble reaches us and nor any weariness affects us.

36. And those who disbelieve, for them is the fire of hell. Death will not be decreased for them so that they may die and nor will the punishment thereof be lightened for them. Thus do We (Allah) punish every ungrateful person.

37. And they will be crying therein, "O our Rubb (Sustainer) take us out that we may do good contrary to that we used to do before.

And did We (Allah) not give you a life in which he who wishes to reflect, should reflect? And a warner had come to you. Now, therefore, taste you (penalty) as there is no helper for the cruels.

SECTION 5

38. Surely, Allah is the Knower of every secret thing of the heavens and the earth. Surely He knows what is in the hearts.

39. He it is Who made our successors of the earth. Therefore, he who disbelieves will suffer for his disbelief. And the disbelief of the disbelievers will not increase with their Sustainer (Rubb) except disgust. And the disbelief of the disbelievers increases nothing except loss.

40. Please declare, "well, ask your associate gods whom you worship besides Allah. Show me what portion of the

اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمارا غم دور کیا بیشک ہمارا رب بخشنے والا قدر فرماتے والا ہے (34)

وہ جس نے ہمیں آرام کی جگہ ہمارا اپنے فضل سے ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے نہ ہمیں اس میں کوئی ٹکانا' (تھکاوٹ) لاحق ہو (35)

اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لئے جہنم کی آگ ہے نہ ان کی تھکائی کے مر جائیں' اور نہ ان پر اس کا عذاب کچھ ہلکا کیا جائے ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ہر بڑے ناشکرے کو (36)

اور وہ اس میں چلاتے ہوں گے اے ہمارے رب ہمیں نکال، کہ ہم اچھا کام کریں اس کے خلاف جو پہلے کرتے تھے اور کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی جس میں سمجھ لیتا جسے سمجھتا ہوتا اور ڈر سنانے والا تمہارے پاس تشریف لایا تھا تو اب چکھو، کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں (37)

بیشک اللہ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی بات کا بیشک وہ دلوں کی بات جانتا ہے (38)

وہی ہے جس نے ہمیں زمین میں آگوں کا جانشین کیا، تو جو کفر کرے اس کا کفر اسی پر پڑے اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے سامنے نہیں بربھائے گا مگر بیزاری اور کافروں کو ان کا کفر نہ بربھائے گا مگر نقصان (39)

تم فرماؤ! بھلا بتاؤ تو اپنے وہ شریک جنہیں اللہ کے سوا پوجتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ
عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ
الَّذِي أَحْلَقْنَا آذَانَ الْمُقَامِسَةِ مِنْ
فَضْلِهِ لَآرِيْبَتْنَا فِيهَا أَنْصَبٌ وَ
لَآرِيْبَتْنَا فِيهَا الْغُوبُ ﴿٣٥﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ
لَآ يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَآ تَوَاوَلُوا
يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا
كَذَٰلِكَ يُجْزَىٰ كُلُّ قَوْمٍ
بِمَا كَفَرُوا ﴿٣٦﴾

وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا
نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ
أَوَلَمْ نَعْبُدْكُمْ مَا يُتَدَكَّرُ فِيهِ مِنْ
تَدَكَّرُوجَاءَ كَمَا التَّذْبِيرُ قَدْ وُقُوتُوا
يَعْمَلُونَ الظَّالِمِينَ مِنْ تَصْيِيرٍ ﴿٣٧﴾

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمُوتِ وَ
الْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣٨﴾
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ
فَنَنْ كَفَرْتُمْ عَلَيْكُمْ كَفْرَةً وَلَا يُزِيدُ
الْكَافِرِينَ كَفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا
مَقْتًا وَلَا يُزِيدُ الْكَافِرِينَ كَفْرَهُمْ
إِلَّا اخْتِسَارًا ﴿٣٩﴾

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا

earth they have created, or have they any partnership in the heavens, or have We (Allah) given them any Book so that they are on clear proofs thereof? Not the least. What the cruel people promise to each other is nothing except deceit.

41. Surely, Allah upholds the heavens and the earth lest they deviate. If they deviate there will be none to hold them save Allah? Indeed He is Allah the Clement, the Forgiving.

42. And they swore by Allah with the utmost strength of their oaths that if a warner came to them, they will certainly be better guided than any of the other Oommahs (grand communities). But when a warner came to them, it increased them not but in hate (against him);

43. behaving boastfully on earth with evil plotting. But the evil plotting encircles only its plotters. Then what they are waiting for except for the same precedents of the ancients. But you will never find the laws of Allah changing, and will never find Divine laws altering.

44. Have they not travelled in the land and seen how has been the end of those before them who were stronger in power than they? Allah is not such that any thing in the heavens and the earth could go out of His control. Surely He is All-Knowing, All-Powerful.

45. And if Allah were to punish people for what they do, He would not have left any moving creature on the

لے زمین میں سے کون سا حصہ بنایا، یا آسمانوں میں کچھ ان کا سا جماعے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی روشن دلیلوں پر ہیں بلکہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کو وعدہ نہیں دیتے مگر فریب کا (40)

بیکگ اللہ روکے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو، کہ جنہیں نہ کریں اور اگر وہ ہٹ جائیں تو انہیں کون روکے اللہ کے سوا، بیکگ وہ علم والا بخشنے والا ہے (41)

اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنی قسموں میں حد کی کوشش ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا، تو وہ ضرور کسی نہ کسی گروہ سے زیادہ راہ پر ہوں گے پھر جب ان کے پاس ڈر سنانے والا اشریف لایا تو اس نے انہیں نہ برہایا مگر نفرت کرنا (42)

اپنی جان کو زمین میں اونچا کھینچتا اور برے واؤں، اور برے واؤں اپنے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے، تو کابے کے انتظار میں ہیں، مگر اسی کے جو اگلوں کا دستور ہوا، تو تم ہرگز اللہ کے دستور کو بدلتا نہ پاؤ گے (43)

اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے اگلوں کا کیا انجام ہوا اور وہ ان سے زور میں سخت تھے، اور اللہ وہ نہیں جس کی قابو سے نکل سکے کوئی شے آسمانوں اور نہ زمین میں بیکگ وہ علم و قدرت والا ہے (44)

اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے کیے پر پکڑتا تو زمین کی چیخ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا

خَلَقُوا مِنْ الْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ أَنْتُمْ لَهُمْ كُتُبًا فِيهِمْ عَلَى بَيِّنَاتٍ وَنَهَىٰ بَلَّ أَنْ يُعْوَدَ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾

إِنَّ اللَّهَ يُبْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَخَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْهُنَّ بَعْدَ إِذِ انبَأَهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ يَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إْحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نِفُورًا ﴿٤٢﴾

اسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَكُرُ السَّيِّئِ وَلَا يَصِحُّ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ

فَهَلْ يَنْظُرُونَ الْأَسْنَتَ الْأَوَّلِينَ ﴿٤٣﴾

لَكِنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبَدُّلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٤﴾

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّه كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٥﴾

وَلَوْ يَرَىٰ إِحْدَى الْأُمَّةِ السَّاسِ بِمَا كُفِرُوا

اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے کیے پر پکڑتا تو زمین کی چیخ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا

face of the earth. But He grants them respite until an appointed time. When their promise will come, then surely, all devotees of Allah will know that they are in His sight.

S. XXXVI

SURA YASEEN

Revealed at Makkah

(83 Verses, 5 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. Yaseen.
2. By the wise Qur'aan; (as witness);
3. surely, you are one of the best Rosoos (Messengers);
4. on the straight path.
5. Sent by the Dignified, the Merciful;
6. that you may warn people whose fathers were not warned, that they are unaware.
7. Certainly, the word (of sentence) has been proved true against most of them, but still they do not believe.
8. We (Allah) have put on their necks chains reaching their chins, so that they become unable in raising up their faces.
9. And We (Allah) have set a barrier before them and a barrier behind them and covered them from above. Therefore, they see nothing.
10. And it is equal for them whether you warn them or donot warn them, they are not to believe.
11. You warn only him who follows reminder and fears the most Affectionate without seeing. So give him good news of forgiveness and a respectable reward

میں ایک مقرر عرصہ تک انہیں ڈھیل دیا ہے۔ پھر جب ان کا وعدہ آئے گا تو بے شک اللہ کے سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں (45)

سورہ یس کہ میں نازل ہوئی (اس میں) تراسی (83) آیتیں اور پانچ (5) رکوع ہیں) اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمْ دَابَّةً وَ
لَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ۝

سورہ یس کے ذریعے میں انہیں تاخیر سے روکا
پس اللہ الرحمن الرحیم

یس ۱

- (1) حکمت والے قرآن کی قسم (2)
- بے شک تم (اے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) (3)
- سید مہی راہ پر بھیجے گئے ہو (4)
- عزت والے مہربان کا آثارا ہوا (5)
- تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ داوا نہ ڈرائے گئے تو وہ بے خبر ہیں (6)
- چیک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے (7)

ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیئے ہیں کہ وہ ٹھوڑیوں تک ہیں تو یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے (8)

اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور انہیں اوپر سے ڈھاک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجھتا (9)

اور انہیں ایک سا ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں (10)

تم تو اسی کو ڈر سناؤ جو جو نصیحت پر چلے اور رحمن سے بے دیکھے ڈرے تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو (11)

وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝

إِنَّكَ لَبِئْسَ الْمُرْسَلِينَ ۝

عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝

لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ۝

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلًا فِئْتَىٰ

إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ۝

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا

وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ

فَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ ۝

وَسَوْءَ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَفْرَمًا

تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذُّكُورَ وَخَشِيَ

الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ

وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ۝

12. Surely, We (Allah) give life to the dead and We (Allah) are noting down what they have sent forward and what signs they have left behind and We (Allah) have already kept counted every thing in a clear writing.

SECTION 2

13. And point out to them the example of the people of a city; when there came to them the Rasool (Messenger).

14. When We (Allah) sent to them two (messengers) they falsified them. So We (Allah) strengthened them with a third. Now they all said, "surely we have been sent to you as Messengers".

15. They replied, "you are not, but men like us and Rehmaan-the most Affectionate, has sent down nothing. You are only lying".

16. They said, "our Rubb (Sustainer) Knows that surely, we have been sent as Rasools (Messengers) to you".

17. "And on us is not but clear deliverance (of message)".

18. They replied, "we surely augur evil fortune from you. If you do not desist we shall surely, stone you, and a painful punishment will certainly fall you at our hands.

19. They (Messengers) said, "your evil fortune is with you. Is it that you are made to understand? No, you are a nation exceeding the limits".

20. And from the farthest part of the town came a man running. He said, "O my people, follow the Rasools, (Messengers)".

بیک ہم مردوں کو جلائیں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں (12)

اور ان سے نشانیاں بیان کرو اس شر والوں کی، جب ان کے پاس فرما دے (بیجھے ہوئے) آئے (13)

جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے، پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا، تو ہم نے تیسرے سے زور دیا اب ان سب نے کہا کہ بیک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں (14) بولے تم نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور رضی نے کچھ نہیں اتارا تم نے جموٹے ہو (15)

وہ بولے! ہمارا رب جانتا ہے کہ بیک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں (16) اور ہمارے ذمہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا (17)

بولے! ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں بیک تم اگر باز نہ آئے، تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے اور بیک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی (18)

انہوں نے فرمایا تمہاری نوحہ تو تمہارے ساتھ سے کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے کہ تم حد سے بڑھتے والے لوگ ہو (19)

اور شہر کے پر لے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا بولا اے میری قوم بیجھے ہوؤں کی پیروی کرو (20)

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَنَا بِحِسَابٍ ۖ أَوْ أَكْثَرٍ ۗ

وَاصْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابِ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِم اتْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَهُكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾

قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إِن أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا إِنَّا نَبَأُ يَعْلَمُ مَا إِلَيْكُم لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾ قَالُوا إِنَّا نَطْمِئِنُّ بِكُمْ كَمَا نَبَأُ لَمَّا تَدْتَبَعُوا لَنَجْزِيَنَّكُمْ وَيُؤَسِّسَنَّكُمْ وَمِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾

قَالُوا طَائِفُكُمْ مَعَكُمْ وَإِن يُدْرِكُوكُمْ يَلِئَنَّكُمْ فَوَفُّرُونَ ﴿١٩﴾

وَجَاءَ مِنَ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾

21. Follow those who do not ask any reward from you and they are on the right course.

ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیک (اجر) نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں (21)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ لَا يَسْئَلُونَكَ أَجْرًا وَهُمْ فَهْتَدُونَ ﴿۲۱﴾

PART 23

SURA YASEEN (Contd.)

SECTION 2 (Contd.)

22. And what reason I have that I should not worship Him Who has created me and to Whom you all are to return

اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے (22)

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۲۲﴾

23. Shall I take apart from Allah, others for worship? If Rehman (the Affectionate Allah) intends any harm to me, their intercession shall not avail me any relief nor can they rescue me?

کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤں، کہ اگر رٹن میرا کچھ بڑھا ہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں (23)

أَتَأْتِخُدُونَ دُونَهُ إِلَهًا إِنْ يُرِيدِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لِّأَقْبَانِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ ﴿۲۳﴾

24. Surely, I shall be on a clear wrong way.

بیشک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں (24)

إِنِّي لَأَذُ اللَّيْلِ ضَالِّ غُيُبِينَ ﴿۲۴﴾

25. Surely, in that case I believe in your Rubb (Sustainer). So listen to me.

مقرر میں تمہارے رب پر ایمان لایا، تو میری سنو (25)

إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَأَنامِعُونَ ﴿۲۵﴾

26. It was said to him, enter the Paradise. He said, "Alas my nation would have known";

اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو، کہا کسی طرح میری قوم جانتی (26)

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ تَوَدَّى يَعْلَمُونَ ﴿۲۶﴾

27. how my Rubb (Sustainer) has forgiven me and has included me amongst the honored ones.

جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا (27)

بِمَا عَفَوْتُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿۲۷﴾

28. And We (Allah) did not send against his nation, after him, any army from the heaven nor We (Allah) ever needed to send down any (army).

اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا (28)

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنُودٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿۲۸﴾

29. It was only a blast and they were extinct.

وہ تو بس ایک ہی جگہ تھی جیسی وہ بجھ کر رہ گئے (29)

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴿۲۹﴾

30. Alas ! woe on those devotees that there came to them not a Rasool (Messenger) but they mocked at him.

اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے، تو اس سے تمسک کرتے ہیں (30)

يَحْسُرُونَ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا يُنْبِئُهُم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿۳۰﴾

31. Have they not seen that how many generations before them We (Allah) have destroyed? Surely they are not to return to them.

کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک فرمائیں کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں (31)

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا هَلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنهَمْ إِلَيْهِمْ لَنَرْجِعُونَ ﴿۳۱﴾

32. And surely, all of them shall be made to appear before Us (Allah) altogether.

SECTION 3

33. And a sign for them is in the dead earth. We (Allah) give life to it and We (Allah) bring forth grains from it, then they eat therefrom.

34. And We (Allah) place gardens of dates and vines and We (Allah) cause to gush forth springs therein;

35. that they eat the fruits thereof, though their hands did not make it. Will then they not be grateful ?

36. Holy is He Who has made all pairs of what the earth grows and of themselves and of those things of which they have no knowledge.

37. And a sign for them is the night from which We (Allah) draw out the day and lo! they are in darkness.

38. And the sun moves on prescribed course. This is the Commandment of the most Honorable, the most Knowledgeable.

39. And We (Allah) have appointed stages for the moon till it becomes again like an old branch of palm tree.

40. The sun is not permitted to overtake the moon, nor the night can supersede the day. And each one is floating in an orbit.

41. And a sign for them is that We (Allah) carry their children in a laden ship ;

42. and We (Allah) have created for them similar (vessels) on which they ride.

اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر لائے جائیں گے (32)

اور ان کے لیے ایک نشانی مرہ زمین ہے ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر اس سے اناج نکالا، تو اس میں سے کھاتے ہیں (33)

اور ہم نے اس میں باغ بنائے کھجوروں اور انجوروں کے اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بنائے (34)

کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، اور یہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں تو کیا حق نہ مانیں گے؟ (35)

پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں (36)

اور ان کے لیے، ایک نشانی رات ہے ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں، جیسی وہ اندھیرے میں ہیں (37)

اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھمرے کے لیے، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا (38)

اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کیں یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈالی (خش) (39)

سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات دن پر سہت لے جائے، اور ہر ایک ایک گھیرے میں ہر (چل) رہا ہے (40)

اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی بیٹھ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا (41)

اور ان کے لیے وہی عی کشتیاں بنا دیں جن پر سوار ہوتے ہیں (42)

وَرَأَوْا كُلَّ لُحْمٍ مُّجْتَمِعٍ لِّدِينٍ مُّخْتَصِرُونَ ﴿٣٢﴾

وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا ﴿٣٣﴾

وَآخْرُضْنَا مِنْهَا حَبًّا فَرِمْتَهُ بِأَكْلُونِ ﴿٣٤﴾

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرًا مِّنَ الْأَعْيُونِ ﴿٣٥﴾

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِمَّا لَا يُعَلِّمُونَ ﴿٣٧﴾

وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْتَخِرُ مِنْهُ النَّهَارَ فَيَذٰهُمُ مُّظْتَمُونَ ﴿٣٨﴾

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٩﴾

وَالْقَمَرَ قَدْرًا مِّنَ الْأَمْثَالِ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْشُونِ الْقَدِيمِ ﴿٤٠﴾

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْبُرُجُ سَابِقَ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤١﴾

وَآيَةٌ لَهُمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ ﴿٤٢﴾

وَخَلَقْنَا لَهُمُ مِن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٣﴾

43. And if We (Allah) so will, We (Allah) can drown them. Then there will be none to their help nor they shall be rescued;

اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو سنیجے والا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں (43)

مگر ہماری طرف کی رحمت اور ایک وقت تک برتے دنیا (44)

44. except as a mercy from Us (Allah) and a provision for a time.

45. And when it is said to them, "be pious for what is before you and what is to come behind you that perhaps you may receive mercy.

اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو تم اس سے جو ہمارے سامنے ہے، اور جو ہمارے پیچھے آنے والا ہے اس امید پر کہ تم پر مہربان ہو، تو نہ پھیر لیتے ہیں (45)

46. And when there comes to them no sign from the signs of their Rubb (Sustainer) they turn away their faces from it.

اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے، تو اس سے منہ ہی پھیر لیتے ہیں (46)

47. And when it is said to them, spend something out of that which Allah has provided you, the disbelievers say to the believers (Muslims), "shall we feed those whom Allah would have fed, if He had so willed? You are not but in a manifest error".

اور جب ان سے فرمایا جائے اللہ کے دینے میں جو کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں، کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا تم تو نہیں مگر کلی گمراہی میں (47)

48. And they say, "when the promise will be fulfilled, if you are truthful".

اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ، اگر تم سچے ہو (48)

49. They do not wait. But only a blast will seize them when they will be busy in disputes.

راہ نہیں دیکھتے مگر ایک جج کی کہ انہیں آئے گی، جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے (49)

50. Then neither they will be able to make a will nor will they return to their families.

تو نہ وصیت کر سکیں گے، اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں (50)

SECTION 4

51. And the trumpet shall be blown, and lo! they will run towards their Rubb (Sustainer) from their graves.

اور پھونکا جائے گا صور، جسی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے (51)

52. They will say, "O, "woe to us, who has awakened us from our slumber". This is what (Rehmaan the Affectionate Allah) had promised and the Rasools (Messengers of Allah) spoke the truth.

کہیں گے ہائے۔ ہماری خرابی کس نے ہمیں سوئے سے جگا دیا یہ ہے وہ جس کا رحمن نے وعدہ دیا تھا، اور رسولوں نے حق فرمایا (52)

وَأَنْ لَّكَ أَنْفَرُ قَوْمٍ فَلَا صَوْرَةَ لَهُمْ وَلَا لَهُمْ يَنْقُدُونَ ﴿۵۱﴾

إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿۵۲﴾
وَأَذِيقُوا قَوْمَهُمُ النَّعْمَ إِنَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَمَبْأَلُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۵۳﴾

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِنَا إِلَّا كَأَن لَّمْ يَأْتُوا بِمَعْرُضِينَ ﴿۵۴﴾

كَذَٰلِكَ أَقِيلُ لِقَابَهُمْ أَنَّكَ لَأَنْفَرُوا إِمَارًا رَّزَقَهُمُ

اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ نَقَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ

إِنْ أَرَادْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۵۵﴾
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۵۶﴾

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿۵۷﴾

فَلَا تَسْطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿۵۸﴾

وَيَفْعَلُ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿۵۹﴾

قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْثَدِنَا ۗ إِنَّ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿۶۰﴾

53. It will be but a horrible blast. Lo! they all shall be brought before Us (Allah).

54. And on that day neither any self shall be committed any cruelty nor you shall be rewarded except what you used to do.

55. Surely, the dwellers of heaven will, on that day, be happy with their pastimes.

56. They and their wives will be in pleasant shades reclining on raised couches.

57. They will have fruits therein and they will have whatever they ask for.

58. "Peace be on you" will be a Word of greeting from the Merciful Rubb (Sustainer).

59 And today, be separate, O you criminals, (will be Commanded by Allah).

60. O children of Aadam, "had I not made promise with you that you should not worship the satan (devil)? Certainly, he is your open enemy".

61. "And that you should only worship Me. This is the straight path".

62. And surely, he (satan) has led on the wrong way a great number of people from amongst you. Why did you then not understand?

63. This is the hell which you were promised.

64. Enter it today, due to your disbelief.

65. This day We (Allah) shall set seal on their mouths and their hands will talk to Us (Allah) and their feet will bear witness of their doings.

66. If We (Allah) had so willed, We (Allah) could have put - out their eyes. Then they would have rushed

وہ تو نہ ہو گی مگر ایک چنگھاڑ جیسی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے (53)

تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہو گا اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا (54)

بے شک جنت والے آج دل کے بہلاؤں میں چین کرتے ہیں (55)

وہ ان کی بیبیاں سالیوں میں ہیں تختوں پر تکیہ لگائے (56)

ان کے لیے اس میں میوہ ہے اور ان کے لیے ہے اس میں جو مانگیں (57)

ان پر سلام ہو امران رب کا فرمایا ہوا (58)

اور آج الگ پھٹ جاؤ، اے مجرمو! (59)

اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا بیگ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے (60)

اور میری بندگی کرنا، یہ سیدھی راہ ہے (61)

اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بگاڑ دیا تو کیا تمہیں عقل نہ تھی (62)

یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا (63)

آج اسی میں جاؤ بدلا اپنے کفر کا (64)

آج ہم ان کے مونہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے (65)

اور اگر ہم چاہے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، پھر لپک کر رستہ کی طرف جاتے، تو

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿۵۳﴾

فَالْيَوْمَ لَا تَظْمَأُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْرَدُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵۴﴾

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكِينُونَ ﴿۵۵﴾

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرْضِ مَنكُونُونَ ﴿۵۶﴾

لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ فِيهَا زُجُجٌ ﴿۵۷﴾

سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴿۵۸﴾

وَأَمَّا زُجُجٌ وَالْيَوْمَ إِنَّمَا الْمُجْرِمُونَ ﴿۵۹﴾

أَلَمْ آعْهَدْ لَكُمْ يَبْنَئِي أَدْرَأْنَ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿۶۰﴾

وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۶۱﴾

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿۶۲﴾

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۶۳﴾

إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۶۴﴾

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۶۵﴾

وَلَوْ شَاءَ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ

towards the path. BUT how they would be able to see?

67. If We (Allah) willed so We (Allah) would have paralyzed them in their homes, and they could not have been able to go on or return back.

SECTION 5

68. And to whoso We (Allah) give long life, We (Allah) revert him (her) in weak condition of creation. Do they then not understand?

69. And We (Allah) have neither taught him (Muhammad) poetry nor it is befitting to his dignity. It is but a reminder and clearly luminous Qur'aan;

70. that it may warn one who is alive and feels. And that the Word may be proved against the disbelievers, justly.

71. And do they not see that Our (Allah's) Hands have created for them cattle? But they are their owners?

72. And We (Allah) have subjected the same for them that some of them they ride and some others they slaughter to eat.

73. And there are in them various other benefits and also drinks for them. Will they not then be grateful?

74. And they have taken besides Allah others for worship that perhaps they might get help.

75. They cannot help them, but they shall be brought being arrested as their allies.

76. Therefore, let not their speech grieve you. Surely, We (Allah) Know what they conceal and what they reveal by proclamation

انہیں کچھ نہ سوستا (66)
اور اگر ہم چاہے تو ان کے گھر بیٹھے ان
کی صورتیں بدل دیتے، نہ آگے بڑھ سکتے
نہ پیچھے لوٹتے (67)

اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش
میں الٹا پھیریں، تو کیا سمجھتے نہیں (68)

اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ
وہ ان کی شان کے لائق ہے وہ تو نہیں مگر
نصیحت اور روشن قرآن (69)

کہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو، اور کافروں
پر بات ثابت ہو جائے (70)

اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے
اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان
کے لیے پیدا کیے، تو یہ ان کے مالک ہیں
(71)

اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا، تو کسی
پر سوار ہوتے ہیں، اور کسی کو کھاتے ہیں
(72)

اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع
اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں
کے (73)

اور انہوں نے اللہ کے سوا اور خدا مقرر
لیے، کہ شاید ان کی مدد ہو (74)

وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور وہ ان کے
لفکر سب گرفتار حاضر آئیں گے (75)

تو تم ان کی بات کا غم نہ کرو، بیگم ہم
جاننے ہیں، جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر
کرتے ہیں (76)

فَأَسْتَقِمْ الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُصَوِّرُونَ ﴿٦٦﴾
وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ
فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا
يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا
يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴿٦٩﴾
لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيُحْيِيَ الْقَوْلَ
عَلَى الْكٰفِرِينَ ﴿٧٠﴾

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِن مَّاءٍ
عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا
مٰلِكُونَ ﴿٧١﴾

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا
يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۗ
أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ذُرِّيَّةِ الْبَيْتِ
لَعَنَهُمْ يُصَوِّرُونَ ﴿٧٤﴾
لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ
جُنْدٌ مُّحَضَّرُونَ ﴿٧٥﴾

فَلَا تَحْزَنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّآ نَعْلَمُ مَا
يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾

77. And does not the human being see that We (Allah) have made him (her) from a semen drop, but yet he (she) only openly quarrels.

78. And he (she) coins for Us (Allah) similitudes and forgets his (her) creation. He (she) says, "who will give life to the bones when they are totally decayed".

79. Please declare, "He will give life to them, Who created them the first time. And He knows every creation, fully well;

80. He Who produces fire for you out of the green tree, and behold! you kindle fire therefrom.

81. And what! How He Who created the heavens and the earth has not the power to create others as the like of them. Why not! He is the Great Creator, the All-Knowing.

82. Surely His Command is that whenever He intends to create any thing, He says to it, "BE" and it comes into BEING.

83. Therefore, Glorified is He in Whose hand is the Kingdom of every thing, and towards Him you all will be returned.

S. XXXVII

SURA US - SUFFAT

(THE RANKING ONES IN ROWS)

Revealed at Makkah

(182 Verses, 5 Sections)

Allah's Name, Who is the Most Affectionate, the Most Merciful.

SECTION 1

1. (I call to witness) those who range themselves in close ranks;

اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا جیسی وہ صریح مجازاً ہے (77)

اور ہمارے لیے کماوت کہتا ہے، اور اپنی پیدائش بھول گیا بولا: ایسا کون ہے کہ پڑیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئیں (78)

تم فرماؤ! انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے (79)

جس نے ہمارے لیے ہرے پڑ میں سے آگ پیدا کی، جیسی تم اس سے سلاگتے ہو (80)

اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا کیوں نہیں اور وہی ہے بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جانتا (81)

اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے! ہو جاوہ فوراً ہو جاتی ہے (82)

تو پائی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چہ کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف پھیرے جاوے گئے (83)

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾
وَضُوبٌ لِّأَمْثَلِهَا وَلِئِي خَلَقْنَاهُ قَالَ مَنْ يُنحِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾

قُلْ يُبَيِّنُهَا لَكُمُ الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾
الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾
أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهْ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾
فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

سورہ صفت کہ میں نازل ہوئی (اس میں) ایک سو بیاسی (182) آیتیں اور پانچ (5) رکوع (ہیں)

سُورَةُ الصَّفَاتِ مَكِّيَّةٌ مِّنْ جَمْعِ الْبَنَاتِ وَأَوَّلُ آيَةٍ فِيهَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

رحم والا
حکم ان کی! یا قاعدہ صف ہاند میں (1)

وَالصَّفَاتِ صَفًّا ﴿١﴾

2. and those who drive (the enemy) vigorously;
3. and those who recite the Remembrance (the Holy Qur'aan).

4. Surely your Being worth worship (Allah) is the One only.

5. The Rubb (Sustainer) of the heavens and the earth and what is in between them and the Rubb (Sustainer) of the Easts.

6. And surely, We (Allah) have decorated the lowest heaven with the decoration of the stars;

7. and have safeguarded it from every rebellious satan (devil).

8. They cannot listen anything from upper atmosphere and are pelted from every side;

9. to be driven away. And for them is the everlasting punishment;

10. except those who eye-drop and are persued by shooting flames.

11. Ask them, is their creation harder than other creations? Surely, We (Allah) have created them of cohesive black clay.

12. But you do wonder and they ridicule it.

13. And when they are admonished they do not pay heed.

14. And when they see any sign, they ridicule it.

15. And they say, "this is not but an open magic".

16. "What! when we are dead and become dust and bones, shall we certainly be raised again?";

17. "alongwith our forefathers"?

پہر ان کی کہ جھڑک کر چلائیں (2)

پہر ان جماعتوں کی کہ قرآن پڑھیں (3)

بیک ہمارا معبود ضرور ایک ہے (4)

مالک آسمانوں اور زمین کا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور مالک مشرقوں کا (5)

بیک ہم نے نیچے کے آسمانوں کو تاروں کے ستارے سے آراستہ کیا (6)

اور نگاہ رکھنے کو ہر شیطان سرس سے (7)

عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اور ان پر ہر طرف سے مار پھینک ہوتی ہے (8)

انہیں بھگانے کو اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب (9)

مگر جو ایک آدمہ بار ایک لے چلا تو روشن انکار اس کے پیچھے لگا (10)

تو ان سے پوچھو! کیا ان کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری اور مخلوق آسمانوں اور فرشتوں وغیرہ کی بیک ہم نے ان کو چپکنی مٹی سے بنایا (11)

بلکہ تمہیں اچھا آیا اور وہ ہنسی کرتے ہیں (12)

اور سمجھائے نہیں سمجھتے (13)

اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تمنا کرتے ہیں (14)

اور کہتے ہیں یہ تو نہیں مگر کھلا ہوا (15)

کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہوجائیں گے کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے (16)

اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ (17)

فَالَّذِينَ جَرَبُوا رَبًّا
فَالَّذِينَ يَذُكُرُونَ

إِنَّ إِلَهَهُمُ لَوَاحِدٌ
رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

وَرَبُّ الْمَشَارِقِ
إِنَّا زَيْنَانَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِيَزِينَتِهَا
الْكَوَاكِبِ

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ
لَّا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ وَ
يَعْتَدُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ

دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ
إِلَّا مَنِ خَطِئَ النَّظْفَةَ فَاتَّبَعَهُ
شِهَابٌ ثَاقِبٌ

فَأَسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنِ
خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن طِينٍ لَّازِبٍ

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ
وَلَا ذَاذِكُرُوا وَلَا يَنْذَرُونَ
وَلَا ذَاذِكُرُوا وَلَا يَنْذَرُونَ

وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ
أَوِ امْتَنَّا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا
لَمَعْمُوتُونَ

أَوِ ابْنَاؤُنَا الْأَوْلَادُ

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ
وَلَا ذَاذِكُرُوا وَلَا يَنْذَرُونَ
وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

أَوِ امْتَنَّا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا
لَمَعْمُوتُونَ

أَوِ ابْنَاؤُنَا الْأَوْلَادُ

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ
وَلَا ذَاذِكُرُوا وَلَا يَنْذَرُونَ
وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

أَوِ ابْنَاؤُنَا الْأَوْلَادُ

18. Please declare, "yes", and then you shall be disgraced ones.

19. Then it will be only a single horrible shout, they will begin to see.

20. And they will say, "alas for us! this is the Day of Judgement".

21. This is the Day of final decision which you used to deny.

SECTION 2

22. Drive (O Angels) and bring together the wrong doers and their companions, and whom they used to worship;

23. besides Allah, and lead them to the path of the hell.

[ONE FOURTH OF PART 23 ENDS]

24. And stop them, they are to be questioned.

25. What is to you, that you do not help each other?

26. But on that day they will surrender themselves.

27. And some of them will address others questioning each other.

28. They will say "surely you used to approach us for misleading from right side."

29. They will reply, "you yourselves were not believers";

30. "and we had no control over you, but rather you yourself were wrong doing people."

31. Now the word of our Rubb (Sustainer) has been justified against us that we are certainly to taste (punishment).

32. And we misled you for we ourselves had gone on the wrong way.

33. So on that day surely, they all will be partners in the punishment.

تم فرماؤ! ہاں یوں کہ ذیل ہو کے (18)
تو وہ تو ایک ہی جھڑک ہے جس میں وہ دیکھتے
گیس گے (19)

اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی! ان سے
کما جائے گا یہ انصاف کا دن ہے (20)
یہ ہے وہ فیصلہ کا دن جسے تم جھٹلاتے تھے
(21)

ہاگو ظالموں اور ان کے جوڑوں کو اور جو
کچھ وہ پوجتے تھے (22)
اللہ کے سوا ان سب کو ہاگو راہ دوزخ کی
طرف (23)

اور انہیں گھمراؤ ان سے پوچھتا ہے (24)
تمہیں کیا ہوا ایک دوسرے کی مدد کیوں
نہیں کرتے (25)

بلکہ وہ آج گردن ڈالے ہیں (26)
اور ان میں ایک نے دوسرے کی طرف
منہ کیا، آپس میں پوچھتے ہوئے (27)
بولے! تم ہمارے راہنی طرف سے بھگانے
آتے تھے (28)

جواب دیں گے تم خود ہی ایمان نہ رکھتے
تھے (29)
اور ہمارا تم پر کچھ قابو نہ تھا بلکہ تم
سرکش لوگ تھے (30)

تو ثابت ہو گئی ہم پر ہمارے رب کی بات
بیس ضرور چھٹنا ہے (31)
تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا کہ ہم خود گمراہ
تھے (32)

تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں
شریک ہیں (33)

قُلْ نَعْمَ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿۱۸﴾
فَأْتِمَاهُ زُجْرَةً وَاحِدَةً فَاذْأَبْهُمُ

يَنْظُرُونَ ﴿۱۹﴾
وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿۲۰﴾
هَذَا يَوْمُ الْفُصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ يَرِيبُهُ

تَكْذِبُونَ ﴿۲۱﴾
أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ
وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿۲۲﴾
مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ
الْحَجِيمِ ﴿۲۳﴾

وَقِفْوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿۲۴﴾

مَا لَكُمْ لَا تَنْصَرُونَ ﴿۲۵﴾
بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿۲۶﴾
وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
يَتَسَاءَلُونَ ﴿۲۷﴾
قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ
الْبَيْمِينِ ﴿۲۸﴾

قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا أَمْوِينِينَ ﴿۲۹﴾
وَمَا كَانُوا لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطِينٍ
بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَافِينَ ﴿۳۰﴾
فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّ آلَ الْإِنْقِومِ
فَاعْوَبْنِكُمْ إِنَّا كُنَّا عَوِينِينَ ﴿۳۱﴾

فَأَنْبَتَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ
مُسْتَوْتُونَ ﴿۳۲﴾

34. Surely thus We (Allah) deal with the criminals.

35. Surely, when it was said to them, "none is to be worshipped besides Allah", they turned away with boastfulness;

36. saying, "shall we indeed abandon our gods, for a mad poet?"

37. Nay indeed, rather he has brought the truth and he has confirmed (teachings of) all the previous Rasools (Messengers).

38. Surely, you are going to taste a painful punishment.

39. And you shall be awarded according to your own doings;

40. except the sincere devotees of Allah;

41. for whom is a known provision;

42. fruits of every kind and honors;

43. in the Paradise of delight;

44. where they will be on couches, face to face;

45. a cup to the full brim from the spring shall go around them;

46. white delicious to the drinkers;

47. neither dulling the senses nor intoxicating to exhaustiveness.

48. And they shall have chaste maidens who will not look except towards them, having beautiful large eyes;

49. as if these are preserved eggs.

50. They will address each other, questioning one another.

51. A speaker from among them will say, "surely there was a comrade of mine."

بجروں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں (34)

بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں تو اوہی کھینچتے تھے (35)

اور کہتے تھے، کیا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں ایک دیوانہ شاعر کے کہنے سے (36)

بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی (37)

چونکہ ہمیں ضرور دکھ کی مار پہنچنی ہے تو ہمیں بلا نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا (38)

مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کے لیے وہ روزی ہے جو ہمارے علم میں ہے (41)

سب سے اور ان کی عزت ہوگی (42)

جہن کے باغوں میں (43)

تختوں پر ہوں گے آنے سائے (44)

ان پر درود ہو گا نگاہ کے سائے بہتی شراب کے جام کا (45)

سفید رنگ پینے والوں کے لیے لذت (46)

نہ اس میں شمار ہے اور نہ اس سے ان کا سر ہمراہے (47)

اور ان کے پاس ہیں جو شوہروں کے سوا دوسری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں گی (48)

بڑی آنکھوں والیاں، گویا وہ انڈے ہیں پوشیدہ رکھے ہوئے (49)

تو ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا پوچھتے ہوئے (50)

ان میں سے کئے والا بولا! میرا ایک ہم نہیں تھا (51)

إِنَّا كَذَّبْنَا بِرَبِّكَ الْفَعْلُ بِالْمَجْرُومِينَ ۝
إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ۝

وَيَقُولُونَ إِنَّا لَأَنسَارُ كَوُوا إِلَهًا إِنَّا إِنَّمَا نَشَاعِرُ يُحْسِنُونَ ۝

يَلْجَأُ بَالِئَاتٍ فَصِدْقَ الْعَرْسَلِينَ ۝
إِنَّمَا لَكُمْ لَدَىٰ اللَّهِ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۝
وَمَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ۝
أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ۝
فَوَالِئِكَ وَهَمَّ مَكْرُمُونَ ۝
فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝
عَلَىٰ سُرُرٍ مَّرْفُوعِينَ ۝

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ۝
بِضَاءٍ لَّدَىٰ النَّارِ ۝
لَا يَسْمَعُونَ ۝
وَعِنْدَهُمْ قُصُورُ الطَّرْبَعِينَ ۝

كَانَ بَيْنَ بَعْضٍ مِّنْهُمْ ۝
فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
يَتَسَاءَلُونَ ۝
قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ۝

52. who use to say, "do you take it (Resurrection) to be true?"

53. What! when we will be rotten and become dust and bones, shall we then get the rewards and punishments?

54. He (Allah) will say, "will you have a look down?"

55. Then he will look down and see him (comrade) in the midst of hell.

56. He will say, "by Allah, you caused me to perish".

57. And had it not been the Blessing of my Rubb (Sustainer) I would surely have been seized and ruined";

58. What! Are we not going to die?;

59. save our first death and that "are we not to be punished"?

60. Surely, this will be the supreme triumph.

61. Therefore, let the strivers strive like this.

62. Is this hospitality better or that of the tree of Zaqqum (of bitter taste)?

63. Surely, We (Allah) have made it a test for the cruels.

64. Certainly, it is a tree grown in the bottom of hell;

65. fruit (spikes) of which are like the heads of satans (devils).

66. And indeed they shall eat of it, and fill their bellies with it.

67. Then surely, for them there is in addition to it a mixture of boiling water.

68. Then their return is certainly towards the hell.

69. Surely, they found their fathers on the wrong way;

مجھ سے کہا کرتا تم اسے سچ مانتے ہو (52)

کیا جب ہم سر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے؟ تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟

(53)

کہا کیا تم جھانک کر دیکھو گے (54)

پھر جھانکا تو اسے سچ بھرتی آگ میں دیکھا

(55)

کہا خدا کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دے (56)

اور میرا رب لفظ نہ کرے تو ضرور میں بھی پڑ کر حاضر کیا جاتا (57)

تو کیا ہمیں مرنا نہیں (58)

مگر ہماری پہلی موت اور ہم پر عذاب نہ ہو گا (59)

بے شک یہی بڑی کامیابی ہے (60)

ایسی ہی بات کے لیے کامیوں کو کام کرنا چاہیے (61)

تو یہ سمائی بجلی یا تھوڑ کا بیڑ (62)

بیٹک ہم نے اسے ظالموں کی جانچ کیا ہے (63)

بے شک وہ ایک بیڑ ہے کہ جہنم کی جز میں نکلتا ہے (64)

اس کا ٹھونڈ جیسے دیووں کے سر (65)

پھر بیٹک وہ اس میں سے کہاں گے پھر اس سے پیٹ بھرس گے (66)

پھر بیٹک ان کے لیے اس پر کھولے پانی کی ملتی ہے (67)

پھر ان کی بازگشت ضرور بھرتی آگ کی طرف ہے (68)

بیٹک انہوں نے اپنے دادا باپ گمراہ پائے (69)

يَقُولُ اَيْنَكَ لِمَنِ الْمَصَدِّقِينَ ﴿۵۲﴾

اِذَا هُمْتَا وَكُنْتَا تُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا

لَمَبْدِيُونُ ﴿۵۳﴾

قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ﴿۵۴﴾

فَاَطَّلَعُ فَرَاوِي سَوَاءَ الْجَحِيمِ ﴿۵۵﴾

قَالَ تَلَّهٗ اِنْ كُنْتَ لَتَّوْدِيْنَ ﴿۵۶﴾

وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ

الْمُحْضَرِّينَ ﴿۵۷﴾

اَفَمَا نَحْنُ بِمَبْتَلِيْنَ ﴿۵۸﴾

اَلَا مَوْتُنَا الْاُولٰٓئِ وَ مَا نَحْنُ

بِمُعَدِّيْنَ ﴿۵۹﴾

اِنَّ هٰذِهِ الْبُقْعَةُ الْكُبْرٰى الْعَظِيْمَةُ ﴿۶۰﴾

بِمِثْلِ هٰذَا فَنَيْمِلُ الْعٰلَمُوْنَ ﴿۶۱﴾

اِذْ لِكَ خَيْرٌ مِّنْ لَّا اَوْ شَجَرَةُ الرَّؤُوفِ ﴿۶۲﴾

اِنَّا جَعَلْنٰهَا اٰفِتْنَةً لِلظَّالِمِيْنَ ﴿۶۳﴾

اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْ اَصْلِ

الْجَحِيْمِ ﴿۶۴﴾

طَعُوْهَا كَاَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيْطٰنِ ﴿۶۵﴾

فَاَنفِهِمْ لَا يَكُوْنُ مِنْهَا فَمَا لَتَوْنَ مِنْهَا

الْبَطُوْنَ ﴿۶۶﴾

ثُمَّ اِنْ لَّهُمْ عَلَيْهِمْ لَشَوَابًا مِّنْ جَمِيْمٍ ﴿۶۷﴾

ثُمَّ اِنْ مَّرَجِعِهِمْ اِلَّا اِلَى الْجَحِيْمِ ﴿۶۸﴾

اِنَّهُمْ اَفْوَاهُ اٰبَاءِهِمْ ضَالِّيْنَ ﴿۶۹﴾

70. that they hurried in their foot-steps.

71. And surely, most of the ancients before them went on the wrong way;

72. and surely, We (Allah) sent warners to them.

73. Behold! Then how (evil) was the end of those who were warned;

74. except the chosen devotees of Allah.

SECTION 3

75. And certainly, Nuuh (Noah) called Us (Allah), and what an excellent answer did We (Allah) gave?

76. And We (Allah) saved him and his family from the great distress.

77. And We (Allah) made his children the only survivors.

78. And We (Allah) left for him a good name among later generations.

79. Peace be upon Nuuh (Noah) throughout the universe.

80. Surely, thus We (Allah) reward the righteous.

81. Surely, he was among My most dignified fully believing devotees.

82. Then We (Allah) drowned others.

83. And surely, Ibraaheem (Abraham) belongs to his group.

84. When he came to his Rubb (Sustainer) with a sound heart.

85. When he asked to his father and his people "whom do you worship"?

86. Do you solicit false gods beside Allah?

87. What do you think about the Rubb (Sustainer) of the universe?

88. Then he cast a glance at the stars;

تو وہ انہیں کے نشان قدم پر دوڑے جاتے ہیں (70)

اور بیگ ان سے پہلے بت سے اگلے گمراہ ہوئے (71)

اور بیگ ہم نے ان میں ڈر سنائے والے بھیجے (72)

تو دیکھو ڈرائے گئے کا کیا انجام ہوا (73)

مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے (74)

اور بیگ ہمیں نوح نے پکارا، تو ہم کیا ہی اچھے قول فرمانے والے (75)

اور ہم نے اسے اور اس کے گھروالوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی (76)

اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی (77)

اور ہم نے بچپلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی (78)

نوح پر سلام ہو جہان والوں میں (79)

بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں تمہیں کو (80)

بیگ وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الامان بندوں میں ہے (81)

پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا (82)

اور بے شک اسی کے گروہ سے ابراہیم ہے (83)

جبکہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوا غیر سے سلامت دل لے کر (84)

جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوجتے ہو؟ (85)

کیا بتان سے اللہ کے سوا اور خدا چاہتے ہو (86)

تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین پر (87)

پھر اس نے ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا (88)

لَهُمْ عَلَىٰ انْفُسِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧١﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ ﴿٧٢﴾

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ﴿٧٣﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الْخَاصِصِينَ ﴿٧٤﴾

وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلْيَعْمُرِ الْغَيْبُونَ ﴿٧٥﴾

وَمُتَيْنَاهُ وَمُؤَلِّفَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾

سَلِّمْ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾

إِنَّكَ ذَلِكِ نَجْوَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٠﴾

إِنَّكَ مِنَ عِبَادِنَا الْمُتَّوِّبِينَ ﴿٨١﴾

تَهَارَعُونَ الْآخِرِينَ ﴿٨٢﴾

وَأَنْ مِنْ شَيْعَتِهِ الْأَبْرَهِيمَ ﴿٨٣﴾

إِذْ جَاءَهُ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تُعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾

أَيُّكُمْ إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ تَرْيَدُونَ ﴿٨٦﴾

فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾

فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾

89. and said, "I am sick of whom you worship";
90. but they turned (away) from him.
91. Then he (Abraham) walked towards their idol gods secretly and said; "do you not eat".
92. "What happened to you that you do not speak"?
93. Thereupon he started to strike them with his right hand.
94. Then the disbelievers rushed towards him.
95. He said, "do you worship, what your hand carved out";
96. whereas Allah has created you and what you make.
97. They said, "build for him a high wooden structure, then cast him in the flaming fire".
98. Then they intended an evil design against him, but We (Allah) humiliated it.
99. And he said, "I am approaching my Rubb (Sustainer) who shall guide me".
100. "O my Rubb (Sustainer) bestow me a righteous son".
101. So We (Allah) gave him a good news of a prudent son (Ismael from Hajra—Hagar, as first son).
102. Then when he became able to work with him, he said, "O my son, I have seen a dream that I am sacrificing you. Now look what is your opinion". He replied, 'O my father, do as you -are commanded. Allah willing, you will find me steadfastly firm".
103. Then they both submitted to (Allah's)

- پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں (89)
- تو وہ اس پر بیٹھ دے کر پھر گئے (90)
- پھر ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلا تو کہا کیا تم نہیں کھاتے؟ (91)
- تمہیں کیا ہوا کہ نہیں بولتے (92)
- تو لوگوں کی نظر بچا کر انہیں دہنے ہاتھ سے مارنے لگا (93)
- تو کافر اس کی طرف جلدی کرتے آئے (94)
- فرمایا کیا اپنے ہاتھ کے تراشوں کو پوجتے ہو (95)
- اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو (96)

- بولے! اس کے لیے ایک عمارت چتو پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو (97)
- تو انہوں نے اس پر داؤں چلنا چاہا، ہم نے انہیں نیچا دکھایا (98)
- اور کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اب وہ مجھے راہ دے گا (99)
- ابھی! مجھے لائق اولاد دے (100)
- تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقلمند لڑکے کی (101)

- پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کرتا ہوں اب تو دیکھ، تیری کیا رائے ہے؟ کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے ساہرا پائیں گے (102)

- تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی (103)

فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ۝
فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ۝
فَرَأَىٰ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۝

مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ۝
فَرَأَىٰ عَلَيْهِمْ ضَرِيحًا بِالْجَبِينِ ۝
فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزُفُونَ ۝

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ۝
وَإِلَهُهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۝
قَالُوا ابْنُوا آلَهُهُ بِنِيَانًا فَلْنَقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ۝

فَأَمَّا آدُورُوبَهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلِينَ ۝
وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۝

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۝
فَبَشِّرْنَاهُ بِعَلِيمٍ حَلِيمٍ ۝
فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي

إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَازِلِ إِنِّي أَذْهَبُكَ ۝
فَأَنْظُرْ مَاذَا تَأْتِي قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ مَسْتَجِدُّ لِرَبِّي وَإِن شَاءَ اللَّهُ

مِنَ الصَّابِرِينَ ۝
فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ۝

command and he the (father) laid down him (son) by forehead;

104. We (Allah) called to him, O Ibraaheem (Abraham);

105. surely, you have fulfilled the dream. Thus We (Allah) reward the righteous.

106. Surely, it was a clear test.

107. And We (Allah) ransomed replacing for him a great sacrifice.

108. And We (Allah) left (a good name) for him in all successive generations.

109. Peace be upon Ibraaheem (Abraham).

110. And thus do We (Allah) reward the righteous.

111. Surely, he was among Our (Allah's) fully believing devotees.

112. And We (Allah) gave him the good news of Ishaque (Isaac), a Nabi (Prophet—Communicator of hidden news), one of the righteous men.

113. And We (Allah) blessed him and Ishaque (Isaac). And among their next generation some are righteous, and some clearly wrong themselves.

SECTION 4

114. And surely, We (Allah) bestowed favors on Moosaa (Moses) and Haroon (Aaron).

115. And We (Allah) saved them and their nation from the great distress.

116. And We (Allah) helped them, so they became victorious.

117. And We (Allah) bestowed to both a clear Book.

118. And We (Allah) guided them to the straight path.

اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لایا اس وقت کا حال نہ پوچھ اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بیگ تونے خواب سچ کر دکھایا (104)

ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو (105)

بے شک یہ روشن جانچ تھی (106)

اور ہم نے بڑا بڑھاسے اس کے فدیہ میں دے کر اسے بچالیا (107)

اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تریف باقی رکھی (108)

سلام ہو ابراہیم پر (109)

ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو (110)

بیگ وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل الایمان بندوں میں ہیں (111)

اور ہم نے اسے خوشخبری دی اسحق کی کہ غیب کی خبریں بتانے والا نبی ہمارے

قرب خاص کے سزاواروں میں (112)

اور ہم نے برکت آمیزی اس پر اور اسحق پر اور ان کی اولاد میں کوئی اچھا کام کرنے والا اور کوئی اپنی جان پر صریح ظلم کرنے والا (113)

اور بیگ تونے اسے خوشخبری دی اسحق کی کہ

غیب کی خبریں بتانے والا نبی ہمارے

قرب خاص کے سزاواروں میں (112)

اور ہم نے برکت آمیزی اس پر اور اسحق پر اور ان کی اولاد میں کوئی اچھا کام کرنے

والا اور کوئی اپنی جان پر صریح ظلم کرنے

والا (113)

والا (113)

والا (113)

اور بیگ تونے اسے خوشخبری دی اسحق کی کہ

غیب کی خبریں بتانے والا نبی ہمارے

قرب خاص کے سزاواروں میں (112)

اور ہم نے برکت آمیزی اس پر اور اسحق پر اور ان کی اولاد میں کوئی اچھا کام کرنے

والا اور کوئی اپنی جان پر صریح ظلم کرنے

والا (113)

والا (113)

والا (113)

اور ان کو سیدھی راہ دکھائی (118)

وَأَدْبَانَهُ أَنْ يَلْبَسَ بَرَاهِيمَ ﴿١٠٤﴾
فَلَمَّا صَدَقَتْ الرُّؤْيَا إِنَّا كُنَّا ذَكَرًا
نَجْمِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾

إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿١٠٦﴾
وَقَدَرْنَا بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾
سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٠٩﴾

كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾
إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾

وَبَشِّرْنَا بِإِسْحَاقَ بَيِّنَاتٍ الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾
وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَوَسَّعْنَا
قُرْبَهُمَا مَحْسِنًا وَظَلَمُوا لِنَفْسِهِمْ
بِئْسَ مِثْقَالٌ ﴿١١٣﴾

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٤﴾
وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ
الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾

وَنَصَّرْنَاهُمْ فَمَا كَانُوا هَمًّا لِلْعَالِيْنَ ﴿١١٦﴾
وَأَنزَلْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿١١٧﴾
وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾

119. And We (Allah) left their good names in later generations.

120. Peace be upon Moosaa (Moses) and Haroon (Aaron).

121. Surely, thus We (Allah) reward the righteous.

122. Surely, they were among Our (Allah's) most dignified, fully believing devotees.

123. And surely, Ilyas (Elias) is one of the Messengers (of Allah).

124. When he said to his nation, "do you not become pious?"

125. Do you worship your god Baal and leave the Best of the creators;

126. Allah, Who is your Rubb (Sustainer) and the Rubb (Sustainer) of your forefathers?

127. But they treated him as liar. So certainly they will come arrested;

128. except the chosen devotees of Allah.

129. And We (Allah) left his good name in later generations;

130. Peace be upon Ilyas (Elias).

131. Surely, thus We (Allah) reward the righteous.

132. Surely, he was among Our (Allah's) most dignified, fully believing devotees.

133. And surely Luut is among Messengers (of Allah).

134. When We (Allah) saved him and his all family members;

135. except an old woman who was among those who remained behind.

136. Then We (Allah) utterly destroyed the others.

137. And surely, you pass by (their ruined habitations) in

اور بچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی (119)

سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر (120)

بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو (121)

بے شک وہ دونوں ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل الایمان بندوں میں ہیں (122)

اور بیشک الیاس پیغمبروں سے ہے (123)

جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں (124)

کیا بعل کو پوجتے ہو اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والے (125)

اللہ کو جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا (126)

پھر انہوں نے اسے جھٹلایا، تو وہ ضرور پکڑے جائیں گے (127)

مگر اللہ کے پنے ہوئے بندے (128)

اور ہم نے بچھلوں میں اس کی ثاباتی رکھی (129)

سلام ہو الیاس پر (130)

بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو (131)

بیشک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل الایمان بندوں میں ہے (132)

اور بے شک لوط پیغمبروں میں ہے (133)

جب کہ ہم نے اسے اور اس کے سب گھروالوں کو نجات بخشی (134)

مگر ایک بڑھیا کہ رہ جانے والوں میں ہوئی (135)

پھر دوسروں کو ہم نے ہلاک فرما دیا (136)

اور بے شک تم ان پر گزرتے ہو صبح کو (137)

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿١١٩﴾
سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٠﴾

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾
إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾
إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ الْاَتَّقُونِ ﴿١٢٤﴾

أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿١٢٥﴾

اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ ﴿١٢٦﴾
فَلْتَذُوقُوا وَعَذَابُهُمْ لَهُمْ خُزُونٌ ﴿١٢٧﴾

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿١٢٨﴾

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢٩﴾
سَلَّمَ عَلَىٰ إِيَّا سِدْرًا ﴿١٣٠﴾

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣١﴾
إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾

وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾
إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٣٥﴾

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٣٦﴾
وَأَنْتُمْ لَمَرَّةٍ عَلَىٰهُمْ مُنْصِبِينَ ﴿١٣٧﴾

the morning;
138. and by the night. Why do you then have no wisdom?

SECTION 5

139. And surely, Younus (Jonah) is among Messengers (of Allah).

140. When he ran away towards a laden ship;

141. and when he drew lots (as to who be thrown in the sea) he was among the rejected (to be thrown in the river).

142. Then the fish swallowed him while he was blaming himself.

143. And had he not been among those who glorify Allah;

144. he would have surely, remained in its belly until the day of being raised up.

[HALF OF PART 23

ENDS]

145. Then We (Allah) cast him on a barren shore as he was sick (having remained in the belly of the fish).

146. And We (Allah) caused to grow over him a plant of gourd.

147. And then We (Allah) sent him as Messenger towards hundreds and thousands, rather more;

148. and they believed. Then We (Allah) allowed them to enjoy the life for an age.

149. Now ask them to pronounce, has your Rubb (Sustainer) daughters while they have sons;?"

150. or did we (Allah) create the Angels females, while they were witnessing?

151. Beheld! Surely, out of falsehood they say;

152. Allah has begotten (children). "But surely, they are liars.

اور رات میں تو کیا حیس عمل میں
(138)

اور بے شک بے یس بیہوشوں سے ہے
(139)

جب کہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا
(140)

تو قرعہ ڈالا، تو ڈھکیے ہوؤں میں ہوا (141)

پھر اسے چھلنے لگا لیا، اور وہ اپنے
آپ کو طاعت کرتا تھا (142)

تو اگر وہ سچ کرنے والا نہ ہوتا (143)

ضرور اس کے پیٹ میں رہتا جس دن تک
لوگ اٹھائے جائیں گے (144)

پھر ہم نے اسے میدان پر ڈال دیا، اور وہ
بیچارہ تھا (145)

اور ہم نے اس پر کدو کا پتلا گھایا (146)

اور ہم نے اسے لاکھ آدمیوں کی طرف
بھیجا، بلکہ زیادہ (147)

تو وہ ایمان لے آئے، تو ہم نے انہیں
ایک وقت تک رہنے دیا (148)

تو ان سے پوچھو کیا تمہارے رب کے
لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے (149)

یا ہم نے ملائکہ کو عورتیں پیدا کیا، اور
وہ حاضر تھے (150)

سنئے ہوا، بیگ وہ اپنے بتان سے کہتے ہیں
(151)

کہ اللہ کی اولاد ہے، اور بیگ وہ ضرور
جھوٹے ہیں (152)

بِأَيِّ نَبِيٍّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾

وَلَيْنَ يُؤْمَسُ لَيْسَ لَيِّنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾

إِذْ أَتَى إِلَى الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾

فَالْتَمَتَهُ الْحَوَاتِي وَهُوَ مُرْمِلٌ ﴿١٤٢﴾

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾

لَلدَّبْتُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾

فَلْيَدْنِهِ بِالْعُرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾

وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجْرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ﴿١٤٦﴾

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكُنَّا لِيَكْفُرُوا

بِأَيِّ نَبِيٍّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٤٧﴾

فَأَمْسَرُوا فَأَعْتَبْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ﴿١٤٨﴾

فَأَسْتَفْتِيهِمَ الذِّكْرَ الْبَنَاتِ وَ

لَهُمُ الْبَنُونَ ﴿١٤٩﴾

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ

شَاهِدُونَ ﴿١٥٠﴾

أَلَا لَيْتَكُمْ مِّنْ أَفْئِدَةٍ يُقُولُونَ ﴿١٥١﴾

وَكَدَّ اللَّهُ ذُرِّيَّتَهُمْ لَكُذِّبُونَ ﴿١٥٢﴾

153. Has He chosen daughters in preference to sons?

154. What is the matter with you? How you judge?

155. Will you not pay heed?

156. Or have you a clear authority?

157. So bring your Book, if you are truthful.

158. And they have set up a blood kinship between Him and the Jinns. And surely the Jinns know that they shall be presented (before Him);

159. Holy is Allah above what they attribute;

160. except the sincere devotees of Allah.

161. Surely, you and those you worship;

162. cannot mislead any one against Him;

163. except such one who is to be burnt into the hell.

164. (Angels say), "everyone of us has an appointed station there;

165. "and surely, we are those who stand ranged in ranks".

166. And surely, we are those who glorify Him.

167. And surely, they used to say;

168. "if we had a remembrance like that of the previous people;

169. we would surely have been the chosen devotees of Allah".

170. But they would have disbelieved it. They shall soon know it.

171. And surely, Our (Allah's) Word has already gone to Our (Allah's) sent one devotees, the Rasools (Messengers).

کیا اس نے بیٹیاں پسند کیں ہیں چھوڑ کر
(153)

تمہیں کیا ہے؟ کیا حکم لگاتے ہو (154)

تو کیا دھیان نہیں کرتے (155)

یا تمہارے لیے کوئی کھلی سند ہے (156)

تو اپنی کتاب لاؤ اگر تم سچے ہو (157)

اور اس میں اور جنوں میں رشتہ ٹھہرایا
اور بیٹک جنوں کو معلوم ہے کہ وہ ضرور
حاضر لائے جائیں گے (158)

پاکی ہے اللہ کو ان باتوں سے کہ یہ بتاتے
ہیں (159)

مگر اللہ کے پنے ہوئے بندے (160)

تو تم اور جو کچھ تم اللہ کے سوا پوجتے ہو
(161)

تم اس کے خلاف کسی کو بھگانے والے
نہیں (162)

مگر اسے جو بھڑکتی آگ میں جانے والا
ہے (163)

اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں ہر ایک کا ایک
مقام معلوم ہے (164)

اور بیٹک ہم پر پھیلانے حکم کے شکر ہیں
(165)

اور بیٹک ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں
(166)

اور بیٹک وہ کہتے تھے (167)

اگر ہمارے پاس انگوں کو کوئی نصیحت ہوتی
(168)

تو ضرور! ہم اللہ کے پنے ہوئے بندے
ہوتے (169)

تو اس کے منکر ہوئے تو غریب جان لیں
گے (170)

اور بیٹک ہمارا کلام گزر چکا ہے ہمارے
پیچھے ہوئے بندوں کے لیے (171)

أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿١٥٣﴾

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٤﴾

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٥﴾

أَمْ لَكُمْ سُلْطَنٌ مُّبِينٌ ﴿١٥٦﴾

فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٥٧﴾

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ لَمَبَازًا ﴿١٥٨﴾

لَقَدْ عَلِمْتُمُ الْجَنَّةَ إِذْ أَنْتُمْ تُخَضَّرُونَ ﴿١٥٩﴾

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١٦٠﴾

إِلَّا الْعِبَادَ الَّذِينَ الْمُخْلِصِينَ ﴿١٦١﴾

فَأَنْتُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ ﴿١٦٢﴾

مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفِتْنِينَ ﴿١٦٣﴾

إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿١٦٤﴾

وَمَا مِمَّا أَلَّاهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴿١٦٥﴾

وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّادِقُونَ ﴿١٦٦﴾

وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسْتَحِقُونَ ﴿١٦٧﴾

وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٨﴾

لَوْ أَنْ عِنْدَنَا ذِكْرُ أَمِّنِ الْأُولِينَ ﴿١٦٩﴾

لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿١٧٠﴾

فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧١﴾

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِجِبَادِنَا ﴿١٧٢﴾

الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٣﴾

172. Surely, only they shall be helped;

173. and surely, Our (Allah's) armies would be victorious.

174. So turn away your face from them for a while;

175. and wait; soon they will come to know.

176. Do they seek Our (Allah's) punishment to hasten on?

177. But when it will descend into their courtyard what an evil morning will that be of those who were warned.

178. So turn away from them for a while;

179. and wait that they will soon see (their end).

180. Holy is your Rubb (Sustainer), the Rubb (Sustainer) of Dignity from what they attribute.

181. And peace be upon the Messengers (of Allah).

182. And all praise be to Allah, the Rubb (Sustainer) of the universe.

S. XXXVIII

SURA SAAD

Revealed at Makkah

(88 Verses, 5 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. Saad and I call witness by this renowned Qur'aan (the repeated reading) as the greatest Remembrance.

2. But the disbelievers are in false pride and are in full of hostility.

3. How many a generation We (Allah) destroyed before them. They cried (for mercy) but it was too late to escape;

کہ بے شک انہیں کی مدد ہوگی (172)

اور بیشک ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا (173)

تو ایک وقت تم ان سے منہ پھیر لو (174)

اور انہیں دیکھتے رہو کہ عترتِ وہ دیکھیں گے (175)

تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں (176)

پھر جب اترے گا ان کے آگن میں تو ڈرائے گیوں کی کیا ہی بُری صبح ہوگی (177)

اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لو (178)

اور انتظار کرو کہ وہ عترتِ وہ دیکھیں گے (179)

پاکی ہے تمہارے رب کو عزت والے رب کو ان کی باتوں سے (180)

اور سلام ہے پیغمبروں پر (181)

اور سب خوبیاں اللہ کی جو سارے جہان کا رب ہے (182)

سورہ ص کہ میں نازل ہوئی (اس میں) اٹھاسی (88) آیتیں اور پانچ (5) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع ہو جو نہایت مہربان رحم والا

اس نامور قرآن کی قسم! (1)

إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿۱۷۲﴾

وَأَنَّ جُنُودَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿۱۷۳﴾

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۱۷۴﴾

وَأَبْصُرْهُمْ تَرْسُوفًا يُبْصِرُونَ ﴿۱۷۵﴾

أَفَتَعْذِرُ إِنَّا لَنَسْتَعْجِلُونَ ﴿۱۷۶﴾

فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَابُ الْمُنذِرِينَ ﴿۱۷۷﴾

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۱۷۸﴾

وَأَبْصُرْهُمْ تَرْسُوفًا يُبْصِرُونَ ﴿۱۷۹﴾

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۱۸۰﴾

وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۸۱﴾

بِحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۸۲﴾

سُورَةُ صَٰدٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا فِي الْكِتَابِ وَصَلَّىٰ وَسَلَّمًا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴿۱﴾

بِئِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عَذَابٍ مُّشْتَقٍ ﴿۱﴾

بلکہ کافر کبیر اور خلاف میں ہیں (2)

تم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھائیں، تو اب وہ پکاریں اور چھوٹے کا

وقت نہ تھا (3)

كُلَّهَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ قَبْلَهُمْ مِّن قَدَرٍ

فَنَادُوا أَوْلَادًا حِينٍ مِّنَاصٍ ﴿۱﴾

4. They wonder that a warner has come to them from among themselves, and the disbelievers say, "this is a magician, a great liar".

5. Has he (Prophet Muhammad S.A.W.) made many gods to be one God? Surely, this is a strange thing.

6. And their (Makkan's) chiefs departed saying, "go and stick to your gods" "Surely, this is a thing designed".

7. "We did not hear about this even in the previous creed. This is but a new fabrication".

8. "Has this remembrance (Qur'aan) been sent upon him from amongst us all"? No, rather they are in doubt concerning My remembrance (Book). No, but they have not yet tasted My punishment.

9. Or do they possess the treasure of the mercy of your Rubb (Sustainer), the most Honorable, the great Bestower?

10. Or is the kingdom of the heavens and earth and what is in between them is their's? If so, let them ascend by any means.

11. This is (a disgraced gathering) from amongst the allies who shall be made to be routed to the same place.

12. Before them the nation of Nuuh (Noah) and Aad and Firawn (Pharaoh), the lord of stakes, have already treated (the Messengers) as liars;

13. And Samood (Thamud) and the nation of Luut and dwellers of the wood were the allies.

14. Everyone of them treated the Rasools

اور انہیں اس کا اچھا ہوا کہ ان کے پاس انہیں میں کا ایک ڈر سنائے والا تشریف لایا اور کافر بولے یہ جادو گر ہے بڑا مجنونا (4)

کیا اس نے بہت خداؤں کا ایک خدا کر دیا بیگ یہ عجیب بات ہے (5)

اور ان کے سردار چلے کہ اس کے پاس سے چل دو اور اپنے خداؤں پر صابر رہو بیگ اس میں اس کا کوئی مطلب ہے (6)

یہ تو ہم نے سب سے بچھلے دین لھرائیت میں بھی نہ سنی یہ تو نری نئی گزمت ہے (7)

کیا ان پر قرآن اتارا گیا ہم سب میں سے بلکہ وہ شک میں ہیں میری کتاب سے بلکہ ابھی میری مار نہیں چکھی ہے (8)

کیا وہ تمہارے رب کی رحمت کے خزانچی ہیں وہ عزت والا بہت عطا فرمایا والا ہے (9)

کیا ان کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے تو رسیاں ٹکا کر چھ نہ جائیں (10)

یہ ایک ذلیل لنگر ہے انہیں لنگروں میں سے جو وہیں بھگا دیا جائے گا (11)

ان سے پہلے جھٹلا چکے ہیں نوح کی قوم اور عاد اور چوہیتا کرنے والا فرعون (12)

اور ثمود اور لوط کی قوم اور بنی واسیلے یہ ہیں وہ گمراہ (13)

ان میں کوئی ایسا نہیں جس نے رسولوں کو

وَيَجِبُونَ أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكُفْرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ ۝

أَجْعَلُ الْإِلَهَةَ الْهَامًا وَاجِدَ إِيَّانَ هَذَا الشَّيْءُ عَجَابٌ ۝

وَأَنْطَلِقَ الْمَلَائِكَةُ مِنْهُمْ أَنْ أَمْشُوا وَأَصْبِرُوا وَعَلَى الْإِلَهَتِكُمْ إِيَّانَ هَذَا لَشَيْءٍ يُزَادُ ۝

مَا مَعَنَا بِهَذَا فِي الْيَمَلَةِ الْاِخْتِرَافِ ۝

إِنْ هَذَا إِلَّا اِخْتِرَافٌ ۝
أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَاهُ
بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا
يَذُوقُوا عَذَابَ ۝

أَفَرَأَيْتُمْ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۝

أَفَرَأَيْتُمْ تِلْكَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا أَفَلَا يَرْتَوُونَ الْاِخْتِصَابَ ۝
جُنُودًا مَا هُنَّ لَكَ مَهْدُومٌ مِّنْ

الْاِخْتِصَابِ ۝
كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَرَعُونُ ذُو الْأَوْتَارِ ۝

وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ أُولَئِكَ الْاِخْتِصَابِ ۝

(Messengers of Allah) as liars. So My retribution rightly overtook them.

SECTION 2

15. And they wait for a single blast, which no one can defer.

16. And they said, "O our Rubb (Sustainer) hasten to us our shares before the Day of Reckoning.

17. Bear with patience what they say, and remember Our (Allah's) devotee Daood (David), a man, strong handed. Surely, he always turned (to Allah).

18. Surely We (Allah) subjected mountains to him that they with him Glorified Allah at nightfall and sunrise;

19. And the birds assembled; all were obedient to him.

20. And We (Allah) strengthened his kingdom and bestowed him wisdom and decisive judgement.

21. And had the news of the disputants reached you when they came into his (David's) chamber (mosque) climbing over its walls?;

22. When they entered upon Daood (David) he became afraid of them. They said, "fear not, we are two disputants, one of us has aggressed against the other. Therefore, judge between us with justice and be not unjust and guide us to the right path".

23. "Surely, this is my brother, who has ninety nine sheep and I have one sheep. Yet he says, give this one also to me and wants to dominate me by arguments."

24. He (David) said, "surely he is doing injustice

نه جھٹلایا ہو تو میرا عذاب لازم ہوا (14)
اور یہ راہ میں دیکھتے مگر ایک چمک کی ہے
کوئی پھیر نہیں سکتا (15)

اور بولے! اے ہمارے رب ہمارا حصہ
ہمیں جلد دے دے حساب کے دن سے
پہلے (16)

تم ان کی باتوں پر صبر کرو اور ہمارے
بندے داؤد نعتوں والے کو یاد کرو بچک
وہ بڑا رجح کر کے ولا ہے (17)

بچک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما
دیئے کہ تیغ کرتے شام کو اور سورج
چمکتے (18)

اور پرندے جمع کیے ہوئے سب اس کے
فرمانبردار تھے (19)

اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا
اور اسے حکمت اور قول فیصل دیا (20)

اور کیا تمہیں اس دعوے والوں کی بھی خبر
آئی جب وہ دیوار کوڑ کر داؤد کی مسجد میں
آئے (21)

جب وہ داؤد پر داخل ہوئے تو وہ ان سے
گھبرا گیا انہوں نے عرض کی ڈریئے نہیں
ہم دو فریق ہیں کہ ایک نے دوسرے پر
زیادتی کی ہے تو ہم میں سچا فیصلہ فرما
دینے اور خلاف حق نہ کیجئے اور ہمیں
سیدھی راہ بتائیے (22)

بچک یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس
ننانوے دنبیاں ہیں اور میرے پاس ایک
دنبی! اب یہ کہتا ہے وہ بھی مجھے حوالے کر
دے اور بات میں مجھ پر زور ڈال رہے
(23)

داؤد نے فرمایا: بچک یہ تمھ پر زیادتی کرتا

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْوَالِدِيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ اَعْيُنُوْا حَتّٰى يَضْرِبُوْا اِلَيْكُمْ ۗ وَبِالْوَالِدِيْنَ اِحْسَانًا ۗ وَبِالْوَالِدِيْنَ الْاِحْسَانُ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ ۙ
وَمَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا الْاٰصِيْمَةَ وَاٰجِدَةً
مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۙ
وَقَالُوْا اِنَّا نَحْنُ اَعْيُنُهُمْ اَلَمْ نَكُنْ اَقْبَلُ يَوْمَ
الْحِسَابِ ۙ

اَضْرِبُوْا عَلٰى مَا يَضْرِبُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدًا لَّنَا
دَاوُدَ ذَا الْاَلْوَابِ اِنَّهٗ اَوَابٌ ۙ
اِنَّا نَحْنُ اَعْيُنُهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَعَهُ يَوْمَ نَسِبَ حٰنَ
بِالْعَشِيِّ وَالْاَشْرَاقِ ۙ
وَالظَّيْرِ مَحْشُوْرَةً كُلِّ لَهٗ اَوَابٌ ۙ
وَشَدِّدًا مَّا مَلَكَهٗ وَاَتَيْنَهٗ الْجِبَالَ مَعُوْ

فَصَلِّ الْخُطَابِ ۙ
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَمْ نَكُنْ نَبِيًّا لِّقَوْمٍ اَتَّخَذُوْا
الْمِحْرَابَ ۙ

اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ
قَالُوْا اَلَمْ نَكُنْ مَعَهُ يَوْمَ نَسِبَ حٰنَ
عَلٰى بَعْضٍ فَاَحْكُمْ بَيْنَنَا يَا لِحَقِّ
وَلَا تَشْطَطْ وَاِهْدِنَا اِلٰى سَوَاءِ
الصِّرَاطِ ۙ

اِنَّ هٰذَا اَخِيْ لَهٗ تِسْعَةٌ وَّتَسْعُوْنَ
نَعَجَةً وَّلِيْ نَجْعَةٍ وَاٰجِدَةً فَقَالَ
اَكْفُلْنِيْ مَا عَزَّنِيْ فِي الْخُطَابِ ۙ
قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ لِسُوْاِلِ نَجِيْحِكَ

in demanding your sheep to add to his own sheep. And certainly, many of the partners show high-handedness against each other, but those who believe and are righteous are very few. And Daood (David) perceived that We (Allah) had tested him. Therefore, he begged forgiveness from his Rubb (Sustainer) and fell in prostration in homage and turned (to Him) in repentance.

[A Muslim who recites this verse or listens its recitation should prostrate with forehead on the ground in ablution facing Ka'aba].

25. So We (Allah) forgave him. And certainly he had indeed nearness to Us (Allah) and an excellent resort to repent.

26. O Daood (David) surely, We (Allah) have made you a Khaleefah (vicegerent) in the earth. Therefore, decide between mankind with justice, and do not follow your desire. Otherwise it would cause you to go on the wrong way from the path of Allah. Surely, those who go on the wrong way from the path of Allah, will have a severe punishment for they have forgotten the Day of Reckoning.

SECTION 3

27. And We (Allah) have not made the heavens and the earth, and what is in between them, in vain. This is the view of the disbelievers. Therefore, woe is to the disbelievers because of the fire.

28. Shall We (Allah) make those who believe and do

ہے کہ تیری دینی اپنی دنیوں میں ملائے کو مانگا ہے اور بیگ اکثر سامنے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور وہ بہت تمہارے ہیں اب داؤد سمجھا کہ ہم نے یہ اس کی جانچ کی تھی تو اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑا اور رجوع (تلا) (24)

إِلَىٰ عَاجِلِهِ وَإِنْ شِئْنَا لَمِنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَتَهُ فَأَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَخَرَدَ لِكَأْسِهِ وَإِنَّا بِمَا يَفْعَلُونَ

اس کے لئے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے (25)

فَعَفَرْنَا لَهُ ذَلِكُمْ وَإِن لَّهُ عِنْدَنَا لَكَرُوفِي وَحُسْنُ مَأْبٍ ۝۱۵

تو ہم نے اسے یہ معاف فرمایا: اور بیگ ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا، تو لوگوں میں سچا حکم کر، اور خواہش کے پیچھے نہ جانا، کہ تجھے اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی، بے شک وہ جو اللہ کی راہ سے سکتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے اس پر کہ وہ حساب کے دن کو بھول بیٹھے (26)

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝۱۶

اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار نہ بنائے یہ کافروں کا گمان ہے، تو کافروں کی خرابی ہے آگ سے (27)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكُمْ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ۝۱۷

کیا ہم انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام

أَفَرَجَعُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

righteous deeds similar to those who spread disorder in the earth or shall We (Allah) treat the pious ones like the wicked?

29. (This is) a Book that We (Allah) have revealed to you full of blessings so that they may ponder on its Verses and that those gifted with wisdom may be warned.

30. And We (Allah) bestowed to Daood (David) Sulaimaan (Solomon) who was an excellent devotee! Certainly, he always turned (to Allah).

31. Then noble bread horses were presented to him at ease, very swift of feat.

32. He said, "I love these good horses endearing me in the remembrance of my Rubb (Sustainer). Then he ordered to drive them until they were hidden from his sight behind the veil.

33. (He ordered) "bring them back to him." Then he began to pass his hand over their legs and necks.

34. And surely, We (Allah) tested Suulaimaan (Solomon) and placed on his throne a lifeless body, but he returned (to Allah).

35. He said, "O my Rubb (Sustainer) forgive me, and bestow me a kingdom which may not merit to anyone else after me. Surely, you are the Bestower

36. Then We (Allah) subjected to him the wind blowing by his order, wherever he desired;

37. and (subjected) giant satans (devil jinns), every builder and diver;

کے ان جیسا کر دیں جو زمین میں لٹا دیا جائے ہیں! یا ہم پر بیزار گاروں کو شرمے بے حکموں کے برابر ٹھہرا دیں (28)

یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف آماری برکت والی تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں اور عقلمند نصیحت مائیں (29)

اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا: کیا اچھا بندہ! بیچک وہ بہت رجوع لانے والا (30)

جبکہ اس پر پیش کیے گئے تیسرے پر کہ روکے تو تین پاؤں پر کھڑے ہوں چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے اور چلائے: تو ہوا ہو جائیں (31)

تو سلیمان نے کہا مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے اپنے رب کی یاد کے لیے پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے (32)

پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا (33)

اور بیچک ہم نے سلیمان کو جا بچھا اور اس کے تخت پر ایک بیجان بدن ڈالا یا پھر رجوع لایا (34)

عرض کی! اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لاؤ نہ ہو بیچک تو ہی ہے بڑی دین والا (35)

تو ہم نے ہوا اس کے بس میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ چاہتا (36)

اور دیو بس میں کر دیے ہر مسمار اور غوط خور (37)

الضَالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ
أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ۗ

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا
آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ
الْعَبْدَانِ إِنَّهُ آدَابٌ ۝

إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَنَقِي الضَّفِيرِ
الْبِحْيَادُ ۝

فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْلِ
عَنْ ذِكْرِي، فَحَاشَى تَوَاسُتَ
بِالْحِجَابِ ۝

رَدُّوْهَا عَلَيَّ لَفَطْفِقَ مَصْحَابُ السُّوْقِ
وَالْإِعْتِنَاقِ ۝

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَانَ عَلَيَّ
كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ۝

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُدْكًا
لَأَيُّبُقِيَ لِصَخْرَةٍ مِن بَعْدِي إِنَّكَ
أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ
رُحًا حَيْثُ أَصَابَ ۝

وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَعَوَّاصٍ ۝

38. and others bound in fetters.

39. This is Our (Allah's) gift. So do favor whom you like or withhold. There is no account of it.

40. And surely, he has nearness to Us (Allah) and a handsome resort.

SECTION 4

41. And remember My devotee Ayub (Job). He called his Rubb (Sustainer) that the satan (devil) has afflicted me with weariness and oppression.

42. (Allah said) "strike your foot with the ground. Here is the cool stream for washing and for drinking".

43. And We (Allah) bestowed him his family and as many more with them in addition as a mercy from Us (Allah) and as reminder to the men of understanding.

44. And We (Allah) said, "take in your hand a dry bundle of bushes and strike therewith and do not break your oath. Surely We (Allah) found him steadfast. What an excellent devotee he was? Certainly he was always turning (to Allah)".

45. And remember Our (Allah's) devotee Ibraaheem (Abraham) and Ishaque (Isaac) and Yaqoob (Jacob), the men of authority and vision.

46. Certainly, We (Allah) purified them exclusively for reminding (people) of the abode of hereafter.

47. And surely, they are chosen and the best in Our (Allah's) Sight.

48. And remember Ismael (Ishmael) and Al-Yasa (Elisha) and Zulkifl

اور دوسرے اور بیڑوں میں جکڑے ہوئے (38)

یہ ہماری عطا ہے، اب تو چاہے تو احسان کر یا روک رکھ تجھ پر کچھ حساب نہیں (39)

اور بیگ اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانا ہے (40)

اور یاد کرو ہمارے بندہ ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا لگا دی (41)

ہم نے فرمایا: زمین پر اپنا پاؤں مار، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو (42)

اور ہم نے اسے اس کے گھروالے اور ان کے برابر عطا فرمادئے اپنی رحمت کرنے اور عقلمندوں کی نصیحت کو (43)

اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ بیگ ہم نے اسے صابر پایا کیا اچھا بندہ ہے شک وہ بہت رجوع لایا ہے (44)

اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم اور اسمٰعیل اور یعقوب قدرت اور علم والوں کو (45)

بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے امتیاز بخشا، کہ وہ اس گھر کی یاد ہے (46)

اور بیگ وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے پسندیدہ ہیں (47)

اور یاد کرو اسمعیل اور یسع اور ذوالکفل کو اور سب اچھے ہیں (48)

وَآخَرِينَ مُقَدَّرِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝

هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ
بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

وَإِن لَّكَ عِنْدَنَا لُزْفٌ وَحَسَنٌ مَّأْتِبٌ ۝

وَإِذْ ذَكَرْنا عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ

أَنِّي مُسَيِّئٌ مُّسْتَضِئٌ
عَذَابٍ ۝

أَلْقِ نَضْرِبِكَ هَذَا مَغْتَسِلٌ
بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۝

وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ
رَحْمَةً مِنَّا وَذُكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝

وَخَذْنا بِيَدِكَ ضِعْفًا فَضْرَبْ رَبِّهِ
وَلَا تَحْضَنْدُهُ إِنَّا وَجَدناه صَابِرًا نِعْمَ

الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝

وَإِذْ ذَكَرْنا عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحٰقَ
وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ۝

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذُكْرَى
الدَّارِ ۝

وَإِنَّمَا عِنْدَنَا لِلْمَنِّ الْمُهْطَفِينَ
الْأَخْيَارِ ۝

وَإِذْ ذَكَرْنا إِسْمٰعِيلَ وَيَسَعَ وَذَالْكَفْلِ
وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ ۝

(Dhulkifl). And they were all the best ones.

49. This is a reminder. And surely, the resort of pious ones is good;

50. Paradise of eternal living, the gate thereof are open for them.

51. Reclining therein they shall ask for plenty of fruits and drinks;

52. and they will have chaste women of equal age with restrained looks.

53. This is what you are promised for the Day of Reckoning.

[THREE FOURTH OF PART 23 ENDS]

54. Surely, this is Our (Allah's) provision which will never exhaust.

55. This is for them (believers). But surely, for the transgressors is the evil resort;

56. the hell, in which they shall burn; what an evil cradle?

57. This is for them (burning in hell for the disbelievers). Therefore, let them taste the boiling water and intensely cold stinky drink;

58. and other torment coupled with the punishments of the same nature.

59. (They will be told), "This is the multitude rushing in along with you". There will be no welcome for them. They must roast in the fire.

60. They will say, nay! "rather it will be you who shall not get a welcome. You brought this distress to us." Therefore, what an evil destination it is

یہ نصیحت ہے اور بیک پر ہیزگاروں کا ٹھکانا بہلا (49)

بے کے باغ ان کے لیے سب دروازے کھلے ہوئے (50)

ان میں تمہی لگائے ان میں بہت سے میوے اور شراب مانگتے ہیں (51)

اور ان کے پاس وہ بیبیاں ہیں کہ اپنے شوہر کے سوا اور کی طرف آنکھ نہیں اٹھائیں ایک عمر کی (52)

یہ ہے وہ جس کا ہمیں وعدہ دیا جاتا ہے حساب کے دن (53)

بیک یہ ہمارا رزق ہے کہ کبھی ختم نہ ہو گا (54)

ان کو تو یہ ہے اور بیک سرکشوں کا بُرا ٹھکانا (55)

جہنم کہ اس میں جائیں گے تو کیا ہی بُرا بھجوا (56)

ان کو یہ ہے تو اسے پھینکیں کھول پانی اور پیپ (57)

اور اسی فعل کے اور جوڑے (58)

ان سے کہا جائے گا یہ ایک اور فوج تمہارے ساتھ دھنسی پڑتی ہے جو تمہاری

تمہی وہ کہیں گے ان کو کھلی جگہ نہ لیو آگ میں تو ان کو جانا ہی ہے وہاں بھی

تک جگہ میں رہیں (59)

تالی بولے بلکہ ہمیں کھلی جگہ نہ لیو یہ معیت تم ہمارے آگے لائے تو کیا ہی بُرا ٹھکانا (60)

هَذَا اِذْ كُوْنُوا لِلْمُتَّقِيْنَ كَحَسَنٍ مَّا لِيْ

جَلَّتْ عَدُوِّيْ مُفَفَّحَةً لِّهَمِّ الْاَبْوَابِ

مُتَّكِيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِغَاكِبَرَةٍ كَثِيْرَةً وَّشَرَابٍ

وَعِنْدَهُمْ قُضُوٰتُ الطَّرْفِ اَنْتَرَابٍ

هَذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ

اِنَّ هَذَا الرِّزْقَ مَا لِهٖ مِنْ لَفَايِدٍ

هَذَا وَاِنَّ لِلظَّالِمِيْنَ لَشَرَّ اٰبٍ

جَهَنَّمَ يَصَلُوْنَ فِيْهَا فَيُنْسِ الْوَيْهَادُ

هَذَا فَيَلِيْدُوْهُ وَحَمِيْمٌ وَعَسَّاقٌ

وَاٰخَرِيْنَ شَكِيْبَةً اَزْوَاجٍ

هَذَا فَوْجٌ مَّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْجَا بِيْهِمْ اِيْهِمْ صَالُوْا النَّارَ

قَالُوْا اَيْلَ اَنْتُمْ لَا مَرْجَا بِيْكُمْ اَنْتُمْ قَدْ مَاتُمْوْهُ لَنَا فَيُنْسِ الْقُرَادُ

بِيْهِمْ اِيْهِمْ صَالُوْا النَّارَ

قَالُوْا اَيْلَ اَنْتُمْ لَا مَرْجَا بِيْكُمْ اَنْتُمْ قَدْ مَاتُمْوْهُ لَنَا فَيُنْسِ الْقُرَادُ

بِيْهِمْ اِيْهِمْ صَالُوْا النَّارَ

قَالُوْا اَيْلَ اَنْتُمْ لَا مَرْجَا بِيْكُمْ اَنْتُمْ قَدْ مَاتُمْوْهُ لَنَا فَيُنْسِ الْقُرَادُ

61. They will say, "our Rubb (Sustainer) whoso brought this distress to us, increase him in punishment two-folds in the fire.

62. And will add, "what has happened to us that we do not see the men whom we used to count among evil ones".

63. "It is because we treated them in ridicule or our eyes have missed them"?

64. Surely, such disputing together of the people of the fire is a truth.

SECTION 5

65. Please declare (O dear Muhammad Rasool), "I am only a warner and there is none worth worship except Allah, the only One, the most Dominant;

66. the Rubb (Sustainer) of the heavens and the earth and whatever is in between, the Honorable, the All Forgiver.

67. Please declare, "that is a great news";

68. "from which you are negligent".

69. What knowledge I have about heavenly world, which they discussed together.

70. I am only revealed that with which I am a distinct warner.

71. When your Rubb (Sustainer) said to the Angels, I am creating a man from the clay.

72. So when I fashion him perfectly, and breath into him My Spirit, you fall down in prostration to him.

73. Therefore, Angels fell down prostrate, all of them together;

وہ بولے! اے ہمارے رب جو یہ معیت ہمارے آگے لایا اسے آگ میں دونا غزا بہ بڑھا (61)

اور بولے! ہمیں کیا ہوا ہم ان مردوں کو نہیں دیکھتے جنہیں پرا سمجھتے تھے (62)

کیا ہم نے انہیں نہیں بنا لیا، یا آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئیں (63)

بیک یہ ضرور حق ہے دوزخیوں کا باہم جھگڑا (64)

تم فرماؤ! میں ڈر سنانے والا ہی ہوں، اور معبود کوئی نہیں مگر ایک اللہ سب پر غالب (65)

مالک آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے صاحب عزت بڑا بخشنے والا (66)

تم فرماؤ! وہ بڑی خبر ہے (67)

تم اس سے غفلت میں ہو (68)

مجھے عالم بالا کی کیا خبر تھی جب وہ جھگڑے تھے (69)

مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ میں نہیں مگر روشن ڈر سنانے والا (70)

جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا: کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا (71)

پھر جب میں اسے ٹھیک بناؤں اور اس میں اپنی طرف کی روح بھونکوں تو تم اس کے لئے سجدے میں گرنا (72)

تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا ایک ایک نے کوئی باقی نہ رہا (73)

قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فِرْدَوْا عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴿٦١﴾

وَقَالُوا مَا لَنَا لَنْبِيِّ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ ﴿٦٢﴾

أَتَمَخَّنْهُمْ نَبِهِمْ سَخِرَاءً أَمْ مَرَأَعْتُمْ عَنْهُمْ الْأَنْصَارَ ﴿٦٣﴾

إِن ذَٰلِكَ لَعَنَ تَحْتَضَمُ أَهْلَ النَّارِ ﴿٦٤﴾

قُلْ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ وَمَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٦٦﴾

قُلْ هُوَ نَبِيُّ عَظِيمٍ ﴿٦٧﴾

أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾

مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَآئِكَةِ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾

إِن يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٠﴾

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَآئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ ﴿٧١﴾

فَإِذْ أَسَوَّيْتَهُ وَكَفَحْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَسَجَدُوا لَهُ سَبِّحِينَ ﴿٧٢﴾

فَسَجَدَ الْمَلَآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾

74. except Iblis, who became boastful that he opted to be among the disbelievers.

75. He (Allah) said, "O Iblis, what prevented you from falling prostrate before that which I made by My own power"? Are you boastful that you consider yourself exalted one?"

76. He (satan) said, "I am better than him. You have made me of fire and created him of clay."

77. He (Allah) said, "get you out (from the Paradise) for you are rejected".

78. "And surely, My curse is on you till the Day of Doom".

79. He said, "O my Rubb (Sustainer) if it is so then grant me respite till the day when they shall be raised";

80. Allah said, "certainly, you are of those that are granted respite";

81. "till the appointed day".

82. He said, "by Your Dignity, I shall certainly lead all of them astray";

83. "except those among them who are Your chosen devotees".

84. He (Allah) said, "then the truth is this, and I speak only the Truth".

85. "Surely, I shall fill the hell with you and those who will follow you, altogether".

86. Please declare, "I ask you no reward for it (for this Qur'aan) nor I am of those who pretend".

87. That (the Holy Qur'aan) is not but a Remembrance for the entire universe.

مگر ابلیس نے اس نے فرود کیا اور وہ
تھای کافروں میں (74)

فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ
تو اس کے لیے سجدہ کرے جسے میں نے
اپنے ہاتھوں سے بنایا کیا تجھے فرود آگیا یا
تو تھای مخلوقوں میں (75)

بولتا: میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے
آگ سے بنایا اور اے مٹی سے پیدا کیا
(76)

فرمایا: تو جنت سے نکل جا کہ تو رائے نہ رہا گیا
(77)

اور بیچک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت
تک (78)

بولتا: اے میرے رب ایسا ہے تو مجھے
صلت دے اس دن تک کہ اٹھائے
جائیں (79)

فرمایا تو صلت والوں میں ہے (80)
اس جانے ہوئے وقت کے دن تک (81)

بولتا: تیری عزت کی قسم! ضرور میں ان
سب کو گمراہ کر دوں گا (82)

مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے
ہیں (83)

فرمایا تو سچ یہ ہے اور میں سچ ہی فرماتا
ہوں (84)

بیچک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے
اور ان میں سے جتنے تیری پیروی کریں
گے سب سے (85)

تم فرماؤ! میں اس قرآن پر تم سے کچھ اجر
نہیں مانگتا اور میں بناوٹ والوں میں نہیں
(86)

وہ تو نہیں مگر فصیح سارے جہان کے
لے (87)

إِلَّا ابْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ
الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾

قَالَ يَا ابْلِيسَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ
لِمَا خَلَقْتُ بِيدِي اسْتَكْبَرْتَ

أَهْرُكُنْتَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٧٥﴾

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ
نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿٧٦﴾

قَالَ فَأَخْرِجْهُمَا فَأَنَا كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾
وَأَنْ عَلَيَّ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ
الْدِينِ ﴿٧٨﴾

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ
يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٨٠﴾
إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾

قَالَ فَبِعَدَّتِكَ لأَعْوِجَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾

إِلَّا الْعِبَادَ الَّذِينَ مَخَّصِينَ ﴿٨٣﴾

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقْوَلٌ ﴿٨٤﴾
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَوَتَنٍ يَبْعَثُ
مِنْهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا
أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾

88. And you shall surely know its truth after a while.

S. XXXIX

SURA UZ-ZOUMAR (THE SMALL GROUPS)

Revealed at Makkah

(75 Verses, 8 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. The revelation of this Book is from Allah the most Honorable, the most Wise.

2. Surely, it is We (Allah) Who have revealed this Book to you with truth. Therefore, worship Allah being sincere to Him in obedience.

3. Remember that the sincere obedience exclusively is to Allah only. And those who have taken protectors, other than Him, say, "we worship them only that they may bring us nearest to Allah. Surely, Allah will decide among them concerning that wherein they differ. Surely, Allah does not guide him who is an ungrateful liar.

4. If Allah intended to take a son for Himself, He would have chosen whom He had willed out of His creatures and Holy is He. He is Allah the only One, the most Dominant.

5. He created the heavens and the earth with truth. He

makes the night to cover the day and He makes the day to cover the night; and He has pressed the sun and the moon into service. Each moves on its course to an appointed time. Do you hear? He is the most Honorable, the most Forgiving.

اور ضرور ایک وقت کے بعد تم اس کی خبر
جانو گے (88)

سورہ زمر کہ میں نازل ہوئی (اس میں)
پچتر (75) آیتیں اور آٹھ (8) کوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم
والا

کتاب اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت
والے کی طرف (1)

بیک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق
کے ساتھ اتاری تو اللہ کو پوجو نہ اس
کے بندے ہو کر (2)

ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے اور وہ
جنہوں نے اس کے سوا اور والی بنا لیے
کہتے ہیں، ہم تو انہیں صرف اتنی بات
کے لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے
پاس نزدیک کر دیں اللہ ان میں فیصلہ کر
دے گا اس بات کا جس میں اختلاف کر
رہے ہیں بیک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو
جموٹا، بڑا ناشکرا ہو (3)

اللہ اپنے لیے پچہ بناتا تو اپنی مخلوق میں
سے جسے چاہتا جن لینا پاکی ہے اسے، وہی
ہے ایک اللہ، سب پر غالب (4)

اس نے آسمان اور زمین حق بنائے، رات
کو دن پر لپیٹا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا
ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام
میں لگایا ہر ایک ایک ٹھکانے کے
لئے چنا ہے۔ وہی صاحب عزت
بخشے والا ہے (5)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي يَخْلُقُ
مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ
الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

سورہ الزمر مکیہ، ۷۵ آیتیں اور ۸ کوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَنْزِيلِ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ

الْحَكِيمِ (1)

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2)

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ

اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ

إِلَّا لِيُقْرِبُوهُمْ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ

يَبْخَسُهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ

يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ

كَاذِبٌ كَفَّارٌ (3)

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا

لَأَصْطَفَىٰ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ إِهْنًا مَسْكُونَةً

هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (4)

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

يَكُونُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُونُ

النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ وَسَعَدَ الشَّمْسُ

وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى

إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (5)

6. He has created you from a single self, then He made its mate from that and sent down for you eight species of cattle in pairs. He creates you in the wombs of your mothers, creation after creation in three fold darkness (of womb). This is Allah your Rubb (Sustainer). His is the Authority. None is to be worshipped, besides Him. Then where are you turning away?

7. If you disbelieve, then surely Allah is self-Sufficient and He does not like the disbelievers amongst His devotees. But if you be grateful to Him then He likes it in you. And no self will bear the burden of another's. Then to your Rubb (Sustainer) is your return. And He will inform you of what were your deeds. Surely, He knows well the secrets of the hearts.

8. And when any trouble befalls on a person, he (she) calls upon his (her) Rubb (Sustainer) leaning towards Him. Then when He (Alla's) grants him (her) any favor from Himself, such one forgets what he (she) prayed for before. And initiates to assign rivals to Allah that he (she) may lead (human beings) on the wrong way, away from His path. Please declare, "enjoy life a little with your disbelief. Surely, you are the inhabitant of the hell".

9. Can someone, who remains in the hours of the night in devotion, prostrating and standing in fear of the hereafter and hoping for the Mercy of His Rubb

اس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، پھر اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور تمہارے لیے چہایوں میں سے آٹھ جوڑے اتارے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے، ایک طرح کے بعد اور طرح تمہیں اندھیریوں میں یہ ہے اللہ تمہارا رب اس کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کسی کی بدگئی نہیں پھر کہاں پھیرے جاتے ہو؟

(6) اگر تم ناشکری کرو تو بیشک اللہ بے نیاز ہے تم سے اور اپنے بندوں کی ناشکری اسے پسند نہیں اور اگر شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی پھر تمہیں اپنے رب کی ہی طرف پھرنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے بیشک وہ دلوں کی بات جانتا ہے (7)

اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اپنے رب کو پکارتا ہے اسی طرف جھکا ہوا پھر جب اللہ نے اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دی، تو بھول جاتا ہے جس لیے پہلے پکارتا تھا اور اللہ کے لیے برابر والے ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ اس کی راہ سے بھگادے تم فرماؤ! تمہوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ برت لے بیشک تو دوڑ نہیں (8)

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلْ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أزواجاً مِخْلَقَكُمْ فِي بَطُونَ أُمَّهَاتِكُمْ خَلَقْتُمْ بَعْدَ خَلْقِي فِي ظِلْمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَن تَصَرَّفُونَ

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى تَعَالَى رَبُّكُمْ فَجَعَلَكُمْ قِيَتَكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

وَذَا مَثَلُ الْإِنْسَانِ ضَرَدًا عَارِيَةً فَبَشِيرًا يَلْبِغُ إِذَاحْوَالَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ لَيْسَ مَا كَانَ يُدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

کیا وہ بے فرمائندگاری میں رات کی گھنٹاں گزریں سجد میں اور قیام میں آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت

اَقْنِ هُوَ قَائِلٌ إِنَّهُ الْبَلِ السَّاجِدًا وَقَائِلًا تَحَدَّرُ الْأَرْضُ وَيَرْجُو رَحْمَةً

(Sustainer), be like the one (who is disobedient)? Please declare, "are those who know equal to those who do not know? Surely those understand who are wise.

SECTION 2

10. Please declare (O beloved Rasool Muhammad S.A.W.), "O My devotees, who believe, fear your Rubb (Sustainer). There is good for those who do good in this world. And Allah's earth is spacious. Surely, the steadfast shall be fully rewarded without measure.

11. Please declare, "I have surely, been commanded to worship Allah, being sincere to Him in religion";

12. "and I am commanded to submit as Muslim, first of all".

13. Please declare, "surely I fear to disobey my Rubb (Sustainer), for the punishment of the big severe day".

14. Please declare, "I worship Allah exclusively, being sincere to Him in my religion".

15. "You may worship what you like besides Him". Please declare, "surely they will be losers who ruin their own selves and their families on the Day of Resurrection. Yes, remember that it will surely be the clear loss".

16. They will have coverings of fire over them and beneath them will be the similar fire coverings. With this Allah warns His devotees. O My devotee, "you be pious with Me".

17. And those who saved themselves from worshipping idols and turned towards

کی آس لگائے کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا تم فرماؤ! کیا برابر ہیں جانے والے اور انجان نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں (9)

تم فرماؤ! اے میرے بندو جو ایمان لائے اپنے رب سے ڈرو! جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی (10)

تم فرماؤ! مجھے حکم ہے کہ اللہ کو پوجوں نرا اس کا بندہ ہو کر (11)

اور مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلے گردن رکھوں (12)

تم فرماؤ! بالفرض اگر مجھ سے نافرمانی ہو جائے تو مجھے بھی اپنے رب سے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے (13)

تم فرماؤ! میں اللہ ہی کو پوجتا ہوں نرا اس کا بندہ ہو کر (14)

تو تم اس کے سوا جسے چاہو پوجو تم فرماؤ! پوری ہار انہیں جو اپنی جان اور اپنے گھر والے قیامت کے دن ہار بیٹھے ہاں ہاں یہی کھلی ہار ہے (15)

ان کے اوپر آگ کے پہاڑ ہیں اور ان کے نیچے پہاڑ اس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو اے میرے بندو تم مجھ سے ڈرو (16)

اور وہ جو بتوں کی پوجا سے بچے اور اللہ

رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۙ

قُلْ يٰۤاٰیُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمۡ لِلَّذِيْنَ اٰخَسَنُوۡا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّاَرْضُ اللّٰهِ وَّاسِعَةٌ اِنَّمَا يُوۡفَى الصّٰبِرُوۡنَ اَجْرَهُمۡ بَغۡيِرِ

حِسَابٍ ۙ

قُلْ اِنِّيۤ اُمِرْتُۤ اَنْ اَعۡبُدَ اللّٰهَ مُخۡلِصًا لِّهُ الدِّيۡنَ ۗ وَاُمِرْتُۤ اِلَّاۤ اَنْ اَكُوۡنَ اَوَّلَ الْمُسۡلِمِيۡنَ ۙ

قُلْ اِنِّيۤ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ سِرِّيۡ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيۡمٍ ۙ

قُلِ اللّٰهُ اَعۡبُدْ مُخۡلِصًا لِّهُ دِيۡنِيۡ ۙ

فَاعۡبُدُوۡا مَا سَخَّرۡتُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهٖ قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِيۡنَ الَّذِيۡنَ خَسِرُوۡۤا اَنْفُسِهِمۡ وَاٰهۡلِيۡهِمۡ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِلَّا ذٰلِكَ هُوَ الْخٰسِرُوۡنَ الْمُبِيۡنَ ۙ

لِيۡهِمۡ مِّنۡ نُّوۡقِيۡهِمۡ ظُلُلٌ مِّنَ النَّارِ وَاِنَّ مِنْ تَحْتِهِمۡ ظُلُلٌۢ ذٰلِكَ يَخۡوۡفُ اللّٰهَ بِهٖ عِبَادَةٌ يٰۤاٰقُوۡنَ ۙ

وَالَّذِيۡنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوۡتَ اِنَّ

Allah in repentance, for them are good news. So give good news to My such devotees;

18. who listen to the word attentively and follow the best thereof. It is they whom Allah has guided and it is they who possess wisdom.

19. Will he (she), against whom the sentence of punishment is decreed, (fit to be saved)? Can you rescue such one who is in the fire?

20. But those who fear their Rubb (Sustainer) for whom there are lofty chambers, over which again are lofty chambers, beneath which streams flow. That is the promise of Allah. And Allah does not break His Promise.

21. Have you not seen that Allah has sent down water from the sky and then made springs in the earth, therefrom. Then He causes to grow, therewith crops of diverse colors. Thereafter it dries up and you see that it turns yellow. Then He breaks it into small grains. Surely, in it is a lesson for men who are wise.

SECTION 3

22. Cannot such one, whose heart Allah has opened for Islam (peace), possess a light from his Rubb (Sustainer)? But woe to those whose hearts are hardened from the remembrance of Allah. They are clearly on the wrong way.

23. Allah has revealed the best Book that from beginning to the end is alike (in beauty, truth and fairness), having repeated descriptions (promise of reward and award of punishment) at which do

کی طرف رجوع ہوئے انہیں کے لیے خوشخبری ہے، تو خوشی سناؤ میرے ان بندوں کو (17)

جو کان لگا کر بات سنیں، پھر اس کے بہر پر چلیں، یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت فرمائی اور یہ ہیں جن کو عقل ہے (18)

تو کیا وہ جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی، نجات والوں کے برابر ہو جائے گا، تو کیا تم ہدایت دے کر آگ کے مستحق کو بچا لو گے؟ (19)

لیکن جو اپنے رب سے ڈرے، ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان پر بالا خانے بنے، ان کے نیچے سرس بسیں اللہ کا وعدہ اللہ وعدہ، خلاف نہیں کرتا (20)

کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے زمین میں چشمے بنائے پھر اس سے کھیتی نکالتا ہے کئی رحمت کی پھر سوکھ جاتی ہے تو تو دیکھے کہ وہ چلی پڑ گئی پھر اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، پینک اس میں دھیان کی بات ہے عقلمندوں کو (21)

تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے اس جیسا ہو جائے گا جو مستدل ہے تو خرابی ہے ان کی جن کے دل یاد خدا کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہیں (22)

اللہ نے آمانی سب سے اچھی کتاب، کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے دوسرے بیان والی، اس سے بال کفر سے ہوتے ہیں

يَعْبُدُونَهَا وَانَابُوا إِلَى اللَّهِ إِنَّهُم بَشَرٌ قَبْلُهَا ۝۱۷

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْاٰلِيَآبِ ۝۱۸
اٰمَنَ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ

اٰمَنَتْ تَنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ۝۱۹
لٰكِنَ الَّذِيْنَ اٰتَوْا رُءُوْسَهُمْ لِهٰمْ عٰوْفٌ مِّنْ قُوَّتِهَا عَرَفَ مَبِيْنَةٌ ۝۲۰
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَعَدَا اللّٰهُ لَآ يَخْلِفُ اللّٰهُ الْمِعَادَ ۝۲۱

الْقُرْآنَ الَّذِيْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَ نَبَآئِعَ فِي الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُ ثُمَّ يَھْبِطُ فِيْهَا فَتَرٰهُ مُصْفًرًا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَّآءًا اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٌ لِّاُولِي الْاٰلِيَآبِ ۝۲۲

اٰمَنَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ صَدْرَةَ الْاِسْلَامِ فَهٗوَ عَلَى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبِهِمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ اُوْلٰئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝۲۳

اللّٰهُ نَزَلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا فَتَشٰبَهٰ اَقْسٰمَانِيْ تَلَقُّوْنَ مِنْهُ جَلُوْدَ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ

shiver the skins of those who fear their Rubb (Sustainer). Their skins and hearts soften on the remembrance of Allah. This is the guidance of Allah. He guides therewith whom He Pleases. And he (she) whom Allah leaves to go on the wrong way, there is none to guide him (her).

24. He, (she) who will make his (her) face to undergo the great punishment on the Day of Resurrection is not equal to him (her) who will be saved)? And it will be said to the criminals, "taste what you earned".

25. Those who before them falsified, faced punishment whereas they knew not.

26. Therefore, Allah made them to taste humiliation in the life of this world. But the punishment of the hereafter is the greatest. Would that they knew.

27. And certainly, We (Allah) have narrated in this Qur'aan all types of examples for the mankind in order that they may take heed.

28. It is an Arabic Qur'aan wherein there is no deviation from reality, that they become pious.

29. Allah sets an example: a servant belonging to several disagreeing rude masters and another belonging solely to one master. Are they both equal in condition? All praise be to Allah, but most of them do not know.

30. Surely, you shall die, and surely they shall also die.

31. Then on the Day of Resurrection you will surely, dispute each other before your Rubb (Sustainer).

ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کمائیں اور دل نرم پڑتے ہیں یاد خدا کی طرف رغبت میں یہ اللہ کی ہدایت ہے، راہ دکھائے اس سے جسے چاہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھائے والا نہیں (23)

تو کیا وہ جو قیامت کے دن برے عذاب کی ذمہ دار نہ پائے گا اپنے چہرے کے سوا نجات والے کی طرح ہو جائے گا، اور ظالموں سے فرمایا جائے گا اپنا کیا چکھو! (24)

ان سے انگوٹے بھٹایا، تو انہیں عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر نہ تھی (25) اور اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور بیگ آخرت کا عذاب سب سے بڑا کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے (26)

اور بیگ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی کمالت بیان فرمائی، کہ کسی طرح انہیں دھیان ہو (27)

عربی زبان کا قرآن جس میں اصلاً کبھی نہیں کہہ سکتے وہ ڈریں (28)

اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے ایک غلام میں کئی بدخو آقا شریک اور ایک نرے ایک مولیٰ کا کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہے سب خوبیاں اللہ کو بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے (29)

بیگ تمہیں انتقال فرماتا ہے، اور ان کو بھی مرنا ہے (30)

پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے (31)

تَلِيْنٌ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُدٰى اللّٰهُ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُضِلِّ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝۳۱

اَفَمَنْ يَّتَّقِيْ بُوْحِيْمِهٖ سُوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَّقِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۝۳۲

كَذٰبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاْتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝۳۳ فَاذِاقَهُمُ اللّٰهُ الْحٰزِمِيْنَ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابِ الْاٰخِرَةِ الْكَبِيْرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝۳۴

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنّٰسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝۳۵ قَدْ اٰنَا عَدِيْبِيْنَ اَعِيْزِيْ عَوِيْحٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝۳۶

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَاءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيْنَ مَثَلًا الْاِحْمَدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۳۷

اِنَّكَ مَدِيْنَةٌ اَنْتُمْ مَقِيْمُوْنَ ۝۳۸ ذُوْرًا لَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ فَاجْتَنِبُوْا ۝۳۹

PARA 24

S. UZ-ZOOMAR (Contd.)

SECTION 3

32. Who is then more unjust than he who utters a lie against Allah and falsifies the truth when it comes to him? Is not the hell, an abode of the disbelievers?

33. But those who come with truth and confirm it as truth, these are among the pious.

34. For them is what they desire from their Rubb (Sustainer). This is the reward of their goodness.

35. Allah will remove from them the worst that they did and confer them their reward for the best of their deeds.

36. Is Allah not sufficient for His devotee? Yet they frighten you with others besides Him. And whom Allah leaves to go on the wrong way, for him there is no guide.

37. And whom Allah guides, for him there is none to mislead. Is not Allah the Honorable, the Master of retribution?

38. And if you ask them who created the heavens and the earth they will certainly say, 'Allah'. Please declare, "tell me then that those whom you worship besides Allah, if Allah desires any harm for me can they prevent His such harm? Or if He desires mercy for me, could they prevent His such mercy?" Please declare, "Allah is enough for me. In Him the trusting ones put their trust".

39. Please declare (O dear Muhammad S.A.W.), "O my nation continue to act in the

تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر
محبت ہائے؟ اور حق کو جھٹلائے جب
اس کے پاس آئے، کیا جنم میں کافروں کا
نہکانا نہیں (32)

اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور
وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہی ڈر
والے ہیں (33)

ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں اپنے رب
کے پاس، نیکیوں کا یہی صلہ ہے (34)

تاکہ اللہ ان سے آثار دے بڑے سے برا
کام جو انہوں نے کیا، اور انہیں ان کے
ثواب کا صلہ دے اچھے سے اچھے کام پر
جو وہ کرتے تھے (35)

کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں، اور
جنہیں ڈراتے ہیں اس کے سوا اوروں
سے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی
ہدایت کرنے والا نہیں (36)

اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی
بمکانے والا نہیں، کیا اللہ عزت والا، بدلا
لینے والا نہیں (37)

اور اگر تم ان سے پوچھو! آسمان اور زمین
کس نے بنائے؟ تو ضرور کہیں گے، اللہ
نے، تم فرماؤ! جھلا تاؤ تو وہ جنہیں تم اللہ
کے سوا پوجتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی
تکلیف پہنچاتا ہے، تو کیا وہ اس کی بھیجی
تکلیف ٹال دیں گے، یا وہ مجھ پر مہر (رحم)
فرماتا ہے، تو کیا وہ اس کی مرہو روک
رکھیں گے، تم فرماؤ! اللہ مجھے بس ہے،

بمرد سے والے اس پر مجبور سا کریں (38)
تم فرماؤ! اے میری قوم! اپنی جگہ کام کیے

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى
اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ
الْبَيِّنَاتُ فِي جَهَنَّمَ مُشْوَى لِلْكَافِرِينَ ۝

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ
بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ
جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝

لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي
عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ
وَيَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ
مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝

وَمَنْ يَقْدِرِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ
أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ۝

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ
مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ
اللَّهُ بِضَرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضَرِّي أَوْ
أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ
رَحْمَتِهِ قُلْ صَبِرْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ
يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

قُلْ يَقُولُوا عَمَلُوا وَعَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ

الْبَيِّنَاتُ فِي جَهَنَّمَ مُشْوَى لِلْكَافِرِينَ ۝

alone can decide between Your devotees concerning that in which they differ.

47. And if those who are cruels had all that is in the earth and the like thereof in addition to it, they would certainly have offered all of it as ransom to get saved from the severe punishment on the Day of Resurrection. But there will appear to them from Allah that which they never imagine.

48. And their own earned evils will become apparent to them and they will be encircled by that which they used to mock at.

49. So when any harm touches human beings they call on Us (Allah). Then when We (Allah) grant someone any favor from Us (Allah) he (she) says, "it came to me because of my own intelligence". In reality it is only a trial, but most of people do not know.

50. Those before them said so but all that they had earned did not benefit anything to them.

51. So the evil (consequences) of their earnings will overtake them. And those who are cruel among them, too shall be overtaken by the evils of their earnings and they cannot escape it.

52. Do they not know that Allah enlarges the provisions for whom He pleases and restricts it for whom He pleases? Surely, in it are signs for the nation of the believers.

SECTION 6

53. Please declare. "O My devotees, who have committed excesses against

فرمائے گا، جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے (46)

اور اگر ظالموں کے لیے ہوتا جو کچھ زمین میں ہے سب اور اس کے ساتھ اس جیسا، تو یہ سب چھڑائی میں دیتے، روز قیامت کے بڑے عذاب سے، اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوگی جو ان کے خیال میں نہ تھی (47)

اور ان پر اپنی کمائی ہوئی برائیاں کھل گئیں، اور ان پر آپڑا وہ جس کی ہنسی بنا تھے (48)

پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بلاتا ہے، پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعت عطا فرمائیں، کتا ہے یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے، بلکہ وہ تو آزمائش ہے، مگر ان میں بہتوں کو علم نہیں (49)

ان سے اگلے بھی ایسے ہی کہہ چکے، ان کا کمایا ان کے کچھ کام نہ آیا (50)

تو ان پر پڑ گئیں ان کی برائیاں کی کمائیاں اور وہ جو ان میں ظالم ہیں عقرب ان پر پڑیں گی ان کی کمائیوں کی برائیاں اور وہ قابو سے نہیں نکل سکتے (51)

کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کٹاوا کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ فرماتا ہے، بیشک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے (52)

تم فرماؤ! اے میرے وہ بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت

بَيْنَ عِبَادِي لِمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلَ مَتَاعِهِمْ لَأَقْبَدَ وَارِبَهُ مِنْ سُورِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَأَ اللَّهُ مِنْ آيَاتِهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَتَّبِعُونَ ﴿٤٧﴾

وَبَدَأَ اللَّهُ مِنْ آيَاتِهِ مَا كَسَبُوا وَاصَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٤٨﴾

فَلَمَّا أَصَابَ الْإِنْسَانَ صُدَّ دَعْوَاهُ لَكُمْ إِذْ أَخَذْتُمْ نِعْمَتَهُمْ قَالُوا إِنَّمَا أُوتِينَا عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ الْكُفْرَ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾

فَدَعَا لَهَا الَّذِينَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥١﴾

أُولَٰئِكَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ

الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

قُلْ يُعِيبُ الَّذِينَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ

their own selves, be not despaired of the Mercy of Allah." Surely, Allah forgives all the sins. Indeed He is the most Forgiving, the most Merciful.

54. And turn towards your Rubb (Sustainer) and submit yourselves to Him, before there comes to you the punishment and then you shall not be helped.

55. And follow the best which has been sent to you from your Rubb (Sustainer) before the punishment overtakes you suddenly, while you perceive it not.

56. Lest any self should say, "Ah woe to me for what I fell short of my duty to Allah. And, surely, I used to laugh".

57. or lest some one should say, "surely had Allah guided me I would have been among pious ones";

58. or lest some one should say, seeing the punishment, "if I could turn back I would have been among the benevolent"

59. Yes, why not, surely, My signs came to you but you falsified them and became boastful and you were amongst the disbelievers.

60. And on the Day of Resurrection you will see those who fabricated lies against Allah that their faces will be black. Is not the hell an abode for the boastfuls?

61. And Allah will save them who are pious to their achievement. No evil shall touch them nor they shall be grieved.

62. Allah is the Creator of everything and He is guardian over everything.

سے نامید نہ ہو، بیک اللہ سب گناہ بخش دتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے (53)

اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ، اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے، پھر تمہاری مدد نہ ہو (54)

اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچھا آجائے، اور تمہیں خبر نہ ہو (55)

کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے، کہ ہائے السوس! ان تقصیروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کیں، اور بے شک میں ہنسی بنایا کرتا تھا (56)

یا کہے، اگر اللہ مجھے راہ دکھاتا تو میں ڈر والوں میں ہوتا (57)

یا کہے، جب عذاب دیکھے، کسی طرح مجھے وابہی ملے، کہ میں نیکیاں کروں (58)

ہاں! کیوں نہیں؟ بیک تمہرے پاس میری آیتیں آئیں، تو تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافر تھا (59)

اور قیامت کے دن تم دیکھو گے انہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، کہ ان کے منہ کالے ہیں، کیا مغرور کا ٹھکانا جہنم میں نہیں؟ (60)

اور اللہ بچائے گا پرہیزگاروں کو ان کی نجات کی جگہ، نہ انہیں عذاب چھوئے اور نہ انہیں غم ہو (61)

اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز کا بھاری ہے (62)

أَنْفُسِهِمْ لَاتَقْطُوعًا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾
وَإِنِّي دُونَكَ خَائِبٌ ﴿٥٤﴾
وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٥﴾

وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾
أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَحْسَرُنِي عَلَىٰ مَا ضَلَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴿٥٧﴾
أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٨﴾

أَوْ تَقُولَ لَئِن لَوِيتُ مِنَ الْغَيْبِ لَشَأَىٰ آلِيَكَ إِذْ يَأْتِيَنَّكَ أَلْيَٰتِي فَلَئِنَّ لَكَ لَأَجْرًا وَإِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ الْكَاذِبِينَ ﴿٥٩﴾

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ اللَّهِ وُجُوهُهُم مَّسْوُودَةٌ لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾
وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِثْلِ أَثْمَارِهِمْ لَا يَسْتَهْمِلُهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾
اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾

63. To Him belong the keys of the heavens and the earth. And those who disbelieve the Verses of Allah, they are the people who are in loss.

SECTION 7

64. Please declare, "do you bid me to worship other than Allah? O! you ignorant ones".

65. And certainly, it has been revealed to you, and to those before you that "if you associate other gods with Allah, then surely, all your actions shall go in vain and you shall certainly remain in loss".

66. Instead you should worship Allah alone and be amongst the thankfuls.

67. And they do not honor Allah as was due to Him and He will roll up the entire earth on the Day of Resurrection. And all the heavens shall be rolled up by His right hand Authority. And glorified be He as He is Exalted from what they make "shareek" - associate (with Him).

68. And the trumpet shall be blown, and all who are in the heavens and all who are in the earth will be senseless except those whom Allah will exempt. Then it will be blown the second time and lo! they shall stand up from graves awaiting.

69. And the earth shall shine with the light of its Rubb (Sustainer) and the Book shall be laid down and the Ambia (Prophets) shall be brought the and witnesses too, and true judgement will be given between them equitably and they shall not be treated unjustly.

اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی کتبیاں اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، وہی نقصان میں ہیں (63)

تم فرماؤ! تو کیا اللہ کے سوا دوسرے کو پوجنے کو مجھ سے کہتے ہو؟ اے جاہل! (64)
اور بیک وقت کی گئی تمہاری طرف اور تم سے انگوں کی طرف، کہ اے سننے والے اگر تو نے اللہ کا شریک کیا، تو ضرور تیرا سب کیا دھرا اکارت جائے گا، اور ضرور تو ہار میں رہے گا (65)

بلکہ اللہ ہی کی بندگی کر اور شکر والوں سے ہو (66)

اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کا حق تھا، اور وہ قیامت کے دن سب زمینوں کو سمیٹ دے گا، اور اس کی قدرت سے سب آسمان لپٹ دیئے جائیں گے، اور ان کے شرک سے پاک اور برتر

ہے (67)

اور صور پھونکا جائے گا، تو بے ہوش ہو جائیں گے بتنے آسمانوں میں ہیں، اور بتنے زمین میں، مگر جسے اللہ چاہے، پھر وہ دوبارہ پھونکا جائے گا جیسی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے (68)

اور زمین جھکا اٹھے گی اپنے رب کے لور سے، اور رکھی جائے گی کتاب، اور لائے جائیں گے انبیاء اور یہ نبی، اور اس کی امت کے ان پر گواہ ہوں گے، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ ہو گا (69)

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَا أَيُّهَا اللَّهُ أُولَئِكَ
فِي هُمَا الْخَسِرُونَ ﴿٦٣﴾

قُلْ أَفَعْبُدُونَ مَا تَعْبُدُونَ يَا عِبَادُ
أَيُّهَا السَّيِّئُونَ ﴿٦٤﴾

وَلَقَدْ أَوْحَى إِلَيْنَا وَإِلَى الَّذِينَ مِن
قَبْلِكَ لَئِنِ اشْرَكُوا لَيَحْطَبُنَّ
عَمَلَكُمُ وَلَيَنصُرَنَّ مِنِ الْخَسِرِينَ ﴿٦٥﴾

يَلِ اللَّهُ فَاَعْبُدُوهُ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾
وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ
جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ
مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَعَلَى
عَرْشِهِ يَرْجُونَ ﴿٦٧﴾

وَنفَخَ فِي الصُّورِ فَمَضَى مِنَ فِي
السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ الْأَمْنُ

شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ أُخْزَى
فَأَذَاهُمْ قِيَامًا يَنْظُرُونَ ﴿٦٨﴾

وَأَسْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا
وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَتْ بِالسَّابِقِينَ
وَالشَّاهِدِءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٩﴾

70. And every self shall be paid in full what it did. And He knows best what you do.

SECTION 8

71. And the disbelievers shall be driven towards hell in companies. Until when they shall reach to it, its gates will be opened and its keepers shall say to them, "did not Rasools (Messengers of Allah) come to you from amongst you reciting to you Verses of your Rubb (Sustainer) and warning you of the meeting of this day of yours? They will say, "why not". But the words of punishment would have been justified on the disbelievers.

72. It shall be said to them, "enter the gates of hell to reside for ever therein. Evil is the destination of the boastfuls.

73. And those who remained pious to their Rubb (Sustainer) they shall be escorted to Paradise, in companies. Till they reach there. Its gates shall be opened and its keepers will say to them, "peace be upon you". "Excellent were you", "so enter the Paradise to abide there for ever".

74. And they will say, "all praise be to Allah Who has made good His promise to us, and made us inherit this land, so that we may dwell in the Paradise, wherever we please. What is an excellent reward of the actives (in piety).

75. And you will see the Angels surrounding His Authority glorifying the praise of their Rubb (Sustainer). And it will be decided between them justly. And it will be said "all praise

اور ہر جان کو اس کا کیا بھروسہ دیا جائے گا، اور اسے خوب معلوم ہے جو وہ کرتے تھے (70)

اور کافر جنم کی طرف ہانکے جائیں گے گروہ گروہ، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اس کے دروازے کھولے جائیں گے، اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے، اور تمہیں اس دن کے ملنے سے ڈراتے تھے، کہیں گے، کیوں نہیں؟ مگر عذاب کا قول کافروں پر ٹھیک اترا (71)

فرمایا جائے گا، جاؤ! جنم کے دروازوں میں اس میں بیٹھ رہے، تو کیا ہی بُرا ٹھکانا حکیموں کا (72)

اور جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کی سواریاں گروہ گروہ جنت کی طرف چلائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے، اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، اور اس کے داروغہ سے کہیں گے، سلام تم پر خوب رہے، تو جنت میں جاؤ بیٹھ رہنے (73)

اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا، اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا کہ ہم جنت میں رہیں جہاں چاہیں، تو کیا ہی اچھا ثواب کامیوں کا (74)

اور تم فرشتوں کو دیکھو گے عرش کے آس پاس حلقہ کیے، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرمایا جائے گا، اور کہا جائے گا،

وَوَقَّيْتُ كُلَّ نَفْسٍ فَاَعْمَلَتْ وَهُوَ عَالِمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٧٠﴾

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۚ هَٰذَا جَزَاءُ ۙ وَهَٰذَا فِتْنَةٌ ۚ أُولَٰئِكَ يَكْفُرُونَ ۚ قَالَ لَهُمْ خُذُوا ۙ هَٰذَا ۚ قَالُوا ۙ لِمَ يَأْتِيكُم رُسُلٌ مِنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُم آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ ۙ هَٰذَا قَالُوا ۙ لَبِىٰ وَلكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾

قِيلَ اذْخُلُوا ابوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ لَيْسَ مَن مَّا فِيهَا ۗ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا ۚ هَٰذَا جَزَاءُ ۙ وَهَٰذَا فِتْنَةٌ ۚ أُولَٰئِكَ يَكْفُرُونَ ۚ قَالَ لَهُمْ خُذُوا ۙ هَٰذَا ۚ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ ۖ وَأَدْرَأَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ ۗ حَيْثُ نَشَاءُ ۗ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٤﴾

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَتُضَىٰ بَيْنَهُمُ الرُّسُلُ ۚ وَقِيلَ الْحَمْدُ

belongs to Allah the Rubb (Sustainer) of the universe."
[ONE FOURTH OF PART
24 ENDS]

S. XL

**SURA AL-MOMIN
(THE BELIEVER)**

Revealed at Makkah

(85 Verses, 9 Sections)

Allah's Name, who is the Most Affectionate, the Most Merciful.

SECTION 1

1. HAA - MEEEM (H.M.)
2. The revelation of this Book is from Allah, the most Honorable, the most Knowing;
3. The Forgiver of sins, Acceptor of repentance, Severe in punishment, the utmost Bountiful. There is none worth worship except Him. Towards Him is the return (of everyone).
4. None dispute concerning the Verses of Allah except the disbelievers. Let not then (O dear Rasool) their going about in the cities deceive you.
5. Before them, the people of Nuuh (Noah) and other groups after them falsified (Prophets). And every Uummah (grand community) aimed that they may seize their Rasool (Messenger) and disputed with false arguments that they may render the truth null thereby. So I seized them. How then was My penalty?
6. So the word of your Rubb (Sustainer) proved true against the disbelievers that they are the inmates of the fire.
7. Those who bear the Divine Authority and those around it glorify their Rubb

کہ سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب (75)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورہ مؤمن کی ہے (اس میں) پچاسی (50) آیتیں اور نو (9) رکوع (ہیں)

سورہ مؤمن کی ہے (اس میں) پچاسی (50) آیتیں اور نو (9) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا تم (1)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یہ کتاب آتا ہے اللہ کی طرف سے جو عزت والا علم والا (2)

حَسْبُكَ مَا تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

گناہ بخشے والا اور توبہ قبول کرنے والا سخت عزت کرنے والا بڑے انعام والا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرتا ہے (3)

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهٌ مُّصِيبٌ

اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نہیں کرتے مگر کافر تو اے سننے والے! تجھے دھوکا نہ دے ان کا شہروں میں اہلے کیلے (حک) حکم کر پھرتا (4)

مَا يَأْتُواكَ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْزِرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ

ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد کے گروہوں نے جھگڑایا اور ہر امت نے یہ قصد کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لیں اور باطل کے ساتھ جھگڑے کہ اس سے حق کو ٹال دیں، تو میں نے انہیں پکڑا، پھر کیا ہوا میرا عذاب (5)

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابِ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدُوا بِآيَاتِنَا ظِلًّا لِيَنْدِجُوا بِهِ الْعَقَبِ فَآخُذْتُهُمْ كَذِبًا كَانَ عِقَابِ

اور یوں ہی تمہارے رب کی بات کافروں پر ثابت ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی ہیں (6)

وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ

وہ جو عرش اٹھاتے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ

(Sustainer) with praise and believe in Him and beg forgiveness for the believers (Muslims) saying, "O our Rubb (Sustainer) You comprehend every thing in mercy and knowledge. So forgive those who repent and follow Your way and save them from the punishment of the hell".

8. O our Rubb (Sustainer)! admit them into eternal Paradise which You have promised them, as well as those who are righteous to their parents and wives and children. Surely, You are the most Honorable, the most Wise.

9. And guard them from evils. And whom You guard from the evil on that day, certainly, You show Your Mercy upon such one. And this is the greatest success.

SECTION 2

10. Surely, the disbelievers shall be informed that of course the displeasure of Allah is greater than your own hatred to each other today, when you were called towards the faith but you disbelieved.

11. They shall say, "O our Rubb (Sustainer), You have caused us to die twice and have given us life twice. Now we confess our sins. Is there then any way of getting out (of the fire)?"

12. That is because when Allah alone was called upon as the One you disbelieved, but when "shareek" - partners were associated to Him, you believed. Therefore, now the Command is only for Allah the Highest, the Greatest.

اس کی پائی بولتے، اور اس پر ایمان لاتے اور مسلمانوں کی مغفرت مانگتے ہیں، اے رب ہمارے! تیرے رحمت و علم میں ہر چیز کی سائی ہے! تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی، اور تیری راہ پر چلے، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچالے (7)

اے ہمارے رب! اور انہیں بسنے کے باغوں میں داخل کر، جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ان کو جو نیک ہوں ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں بے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے (8)

اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچالے اور جسے تو اس دن گناہوں کی شامت سے بچائے، تو بچک تو نے اس پر رحم فرمایا اور یہی بڑی کاسیابی ہے (9)

بیک جنہوں نے کفر کیا، ان کو خدا کی جائے گی، کہ ضرور تم سے اللہ کی ہزاری اس سے بہت زیادہ ہے، جیسے تم آج اپنا جان سے ہزار ہو، جبکہ تم ایمان کی طرف بلائے جاتے، تو تم کفر کرتے (10)

کہیں گے، اے ہمارے رب! تو نے ہمیں دوبارہ مراد کیا اور دوبارہ زندہ کیا! اب ہم اپنے گناہوں پر مقرر ہوئے تو آگ سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے (11)

یہ اس پر ہوا کہ جب ایک اللہ پکارا جاتا تو تم کفر کرتے، اور اس کا شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے، تو حکم اللہ کے لیے ہے جو سب سے بلند بڑا (12)

حَوْلَهُ يَسْتَعِينُ بِحَبَدِ رَبِّهِمْ وَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْحَجِيمِ ①

رَبَّنَا اَدْخُلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ابَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①
وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَاُولَئِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ①

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَنْتَظِرُوْنَ لِمَقْعَدِ اللّٰهِ الْكَبِيْرِ مِنْ مَّقْعَتِكَ اَنْفُسُكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتُكْفَرُوْنَ ①
قَالُوْا رَبَّنَا اَمَنَّا بِاَشْرَئِثِنِمْ وَاَصْحٰبِنَا اَشْرَئِثِنِمْ فَاَعْتَوْنَا بِذُنُوْبِنَا فِهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلِ ①

ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمْ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحِدًا كَفَرْتُمْ وَاِنْ يُشْرَكْ بِهِ لَتُوْمِنُوْا فَالْتَمِسْ لِحٰبِ اللّٰهِ الْكَبِيْرِ ①

13. It is He Who shows you His Verses and sends down for you provision from the sky. But none pays heed except him who returns (to Allah).

14. Therefore, submit only to Allah being sincere to Him even though the disbelievers may be averse to it.

15. He is most Exalted with His Highest Authority. He casts the spirit of faith (the revelation) by His Command upon whom He Pleases out of His devotees, that He may warn of the Day of meeting;

16. the Day when they will fully come forth. Nothing concerning them shall remain hidden from Allah. Whose is the Kingdom this day? Of One Allah, All Dominant.

17. Today, every self shall be rewarded what it earned. There will be no injustice to any one on this day. Surely, Allah is swift in reckoning.

18. And warn them of near approaching inevitable day of calamity when the hearts will reach to the throats full of grief inwardly. The cruel shall have no friend nor any such helper whose request may be acceded.

19. He knows the rebellious eyes and what is concealed in the breasts.

20. And Allah decides with truth. But those whom they worship beside Him decide nothing. Surely, Allah is All-Hearing, All-Seeing.

SECTION 3

21. Have they not travelled in the earth, and seen how was the end of those before them? They were greater than them in might and in fortifications on the earth; Yet

وہی ہے کہ ہمیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور ہمارے لئے آسمان سے روزی اتارتا ہے اور صیحت نہیں مانتا مگر جو رجوع لائے (13)

تو اللہ کی بندگی کو نہ لے سکے بندے ہو کر پڑے بُرا نامیں کافر (14)

بلند رو رہے دینے والا، عرش کا مالک، ایمان کی جان وہی والا ہے اپنے ستم سے اپنے بندوں میں جس پر چاہے کہ وہ لے لے کے دن سے ڈرائے (15)

بادشاہی ہے ایک اللہ سب پر غالب کی (16)

آج ہر جان اپنے کیے کا بدلہ پائے گی آج کسی پر زیادتی نہیں ہے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے (17)

اور انہیں ڈراؤ، اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گھول کے پاس آ جائیں گے، غم میں بھرے، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست، نہ کوئی سفارشی جس کا کمانا جائے (18)

اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ، اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے (19)

اور اللہ سچا فیصلہ فرماتا ہے اور اس کے سوا جن کو پوستے ہیں وہ کچھ فیصلہ نہیں کرتے، بے شک اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے (20)

تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے، کیا انجام ہوا ان سے انہوں کا؟ ان کی قوت اور زمین میں جو نشانیاں چھوڑ گئے، ان سے زائد، تو اللہ نے انہیں ان

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّل لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴿۱۳﴾

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿۱۴﴾

رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْزِلَ عَلَيْهِمُ الْبُحُرَانَ ﴿۱۵﴾

يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّلَّذِينَ الْإِيمَانُ الْيَوْمَ

بِاللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿۱۶﴾

الْيَوْمَ يُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَلَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۱۷﴾

وَأَنْذَرْتَهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظَمِينَ فَأَلْظَمُوا لَپِّئًا ﴿۱۸﴾

مِنْ حَبِيبِهِمْ وَلَا شَفِيعَ إِلَّا طَائِفَةٌ ﴿۱۹﴾

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورَ ﴿۲۰﴾

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿۲۱﴾

Allah seized them for their sins. And there was none to save them from Allah.

22. This is because their Rasools (Messengers of Allah) came to them with clear arguments but they disbelieved. So Allah seized them. Surely Allah is Mighty, Severe in punishment.

23. And certainly, We (Allah) sent Moosaa (Moses) with Our (Allah's) Verses and a clear authority;

24. to Firawn (Pharaoh) and Haamaan and Qaroon (Korah). But they said, "he is a magician, a liar".

25. And when he brought to them the truth from Us (Allah), they said, "slay the sons of those who believe with him and keep their women alive". And the design of the disbelievers is nothing but a wasteful effort.

26. And Firawn (Pharaoh) said, "leave me alone that I may kill Moosaa (Moses) and let him call his Rubb (Sustainer). I fear that he will change your religion or he will cause disorder in the land".

27. And Moosaa (Moses) said, "I take refuge with my Rubb (Sustainer) and your Rubb (Sustainer) from every arrogant who does not believe in the Day of Accountability.

SECTION 4

28. And a faithful (Muslim) from amongst the people of Firawn (Pharaoh), who concealed his faith, said, "do you slay a man because he says, "my Rubb (Sustainer) is Allah. And if he is a liar then the curse of his lying is upon him; but if he is truthful then some of that, which he

کے گناہوں پر پکڑا، اور اللہ سے ان کا کوئی بچانے والا نہ ہوا (21)

یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر وہ کفر کرتے، تو اللہ نے انہیں پکڑا، بیشک اللہ زبردست سخت عذاب والا ہے (22)

اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانوں اور روشن سند کے ساتھ بھیجا (23)

فرعون اور ہامان اور قارون کی طرف تو وہ بولے، جاؤ اگر ہے برا جھوٹا (24)

پھر جب وہ ان پر ہمارے پاس سے حق لایا، بولے! جو اس پر ایمان لائے، ان کے بیٹے قتل کرو اور عورتیں زندہ رکھو، اور کافروں کا واؤں نہیں مگر بھگتا پھرتا (25)

اور فرعون بولا! مجھے چھوڑو! میں موسیٰ کو قتل کروں، اور وہ اپنے رب کو پکارے میں ڈرتا ہوں، کہیں وہ تمہارا دین بدل دے یا زمین میں فساد پکائے (26)

اور موسیٰ نے کہا، میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر تکبر سے کہ حساب کے دن پر یقین نہیں لاتا (27)

اور بولا: فرعون والوں میں سے ایک مرد مسلمان کہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، کیا ایک مرد کو اس پر مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور بیشک وہ روشن نشانیاں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے لائے، اور اگر بالفرض وہ غلط کہتے ہیں، تو ان کی غلط گویا کو وبال

يَذُوبُ بِهِمْ، وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ
بِئْسَ وَاقٍ ۝۲۱

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ
إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝۲۲

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا
وَأَنبَأْنَا فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَكَارُونَ
سُلْطِينَ مُبِينِينَ ۝۲۳
إِنِّي فِرْعَوْنُ وَهَامَانُ وَكَارُونَ
فَقَالُوا أَسْجُودُ لَكَ يَا ۝۲۴

فَلْيَأْتِكُمْ حُرْفٌ مِنَ الْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا
قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا
مَعَهُ وَاسْتَضْيَبُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ
الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝۲۵
وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ
وَلْيَدْعُ رَبِّي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ
دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ
الْفُسَادَ ۝۲۶

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَ
رَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ إِلَّا يُؤْمِنُ
بِتَبْوِيرِ الْحِسَابِ ۝۲۷

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِمَّنْ آلِ فِرْعَوْنَ
يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ
يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ
ذُنُوبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ

threatens you, shall befall you. Surely, Allah does not guide the one who is an extravagant and a shameful liar.

29. O my people, "yours is the sovereignty today. You have dominance in this land. But who will save us from the punishment of Allah, if it comes upon us? Firawn (Pharaoh) said, "I show you only that which I see and I do not tell you except that which leads to the perfect way".

30. And he (Moses) who believed said, "O my people surely, I fear for you a day like that of the former factions:

31. which fell on the nation of Nuuh (Noah) Samood (Thamud) and those after them. And Allah does not wish justice for His devotees

32. And O my people, "I fear for you the day of calling out;

33. the day when you shall flee turning your backs. There shall be none to save you from Allah; and whom Allah leaves to err there is none to guide him.

34. And certainly, Yusuf (Joseph) came to you before this with clear arguments, but you remained in doubt about that (message) which he brought to you, until he died, and you said, "never shall Allah send any Rasool (Messenger) after him." Thus Allah leaves such ones to go in the wrong way who become extravagant, and remain in doubt.

35. Those who dispute concerning the Verses of

ان پر اور اگر وہ سچے ہیں تو تمہیں ہیج جائے گا کچھ وہ جس کا تمہیں وعدہ دیتے ہیں 'بیک الله راه نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا بڑا جموٹا ہو (28)

اسے میری قوم! آج بادشاہی تمہاری ہے اس زمین میں غلبہ رکھتے ہو تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچالے گا؟ اگر ہم پر آئے فرعون بولا: میں تو تمہیں وہی سمجھتا ہوں جو میری سوچ ہے اور میں تمہیں وہی بتاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے (29)

اور وہ ایمان والا بولا: اسے میری قوم! مجھے تم پر اگلے گروہوں کے دن کا سا خوف ہے (30)

جیسا دستور گزرا نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ان کے بعد اوروں کا اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں چاہتا (31)

اور اسے میری قوم! میں تم پر اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن پکار پکے گی (32)

جس دن پیٹھ دے کر بھاگو گے، اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی راہ دکھانے والا نہیں (33)

اور بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف روشن نشانیاں لے کر آئے، تو تم ان کے لئے ہوئے سے شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے انتقال فرمایا: تم بولے! اب اللہ کوئی رسول نہ بھیجے گا، اللہ یونہی گمراہ کرتا ہے اسے جو حد سے بڑھنے والا شک لانے والا ہے (34)

بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ انِ اِنَّ اَللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿۲۹﴾

يَقُولُ لَكُمْ اَلْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَهَرَ لِي فِي الْاَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اَللّٰهِ اِنْ جَاءَنَا قَالِ فِرْعَوْنُ مَا اُرِيكُمْ اِلَّا مَا اَسْرَىٰ وَمَا اَهْدِيكُمْ اِلَّا لِسَبِيلِ الرَّشَادِ ﴿۳۰﴾

وَقَالَ الَّذِي اٰمَنَ يَقُولُ اِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ﴿۳۱﴾

مِثْلَ ذٰلِكَ يَوْمِ نُوْحٍ وَعَادٍ وَثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اَللّٰهُ يَزِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰبَادِ ﴿۳۲﴾

وَيَقُولُ اِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿۳۳﴾

يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُدْبِرِيْنَ مَا لَكُمْ مِنْ اَللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اَللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿۳۴﴾

وَلَقَدْ جَاءَكَ نُوْسُفٌ مِنْ قَبْلِهَا بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي سَكِّتٍ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهَا حَتّٰى اِذَا هَلَكَ قَلْبُكُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اَللّٰهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُوْلًا كَذٰلِكَ يُضِلُّ اَللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ﴿۳۵﴾

الَّذِيْنَ يَجَادِلُوْنَ فِيْ آيٰتِ اَللّٰهِ بَعْدِ

Allah, without any authority, received by them, it is greatly hateful to Allah and to the believers. Thus Allah seals up the heart of all the boastful and arrogant ones.

36. And Firawn (Pharaoh) said, "O Haamaan, build for me a lofty tower that I may attain means of upper approach;

37. the means of approach to the heavens, so that I may have a look at God of Moosaa (Moses). And surely, I think that he is liar. And thus his evil deed was made to look fair in the eyes of Firawn (Pharaoh) and he was barred from the (right) way. And the design of Firawn (Pharaoh) ended in ruin.

SECTION 5

38. And he who believed said, "O my nation, follow me, I will guide you to the perfect way.

39. O my nation this life of the world is only a temporary enjoyment, and the hereafter is surely, the home for permanent residence.

40. Whoso does an evil deed, shall be awarded only with the like of it and whoso does righteous deeds, whether male or female and be believer (Muslim), shall enter the Paradise and they shall be provided therein countlessly.

41. O my nation what happened to me that I call you towards salvation while you call me towards the fire.

[HALF OF PART 24

ENDS]

42. You call me that I should disbelieve in Allah and associate with Him that of which I have no knowledge, while I invite you towards the

تدرخت بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک اللہ یوں ہی سر کر دیتا ہے حکیم سرکش کے سارے دل پر (35)

اور فرعون بولا: اے ہان! میرے لیے اونچا محل بنا، شاید! میں پہنچ جاؤں راستوں تک (36)

کاہے کے راستے آسمانوں کے، تو موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں اور چیک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے اور یونسی فرعون کی نگاہ میں اس کا بڑا کام بھلا کر دکھایا گیا اور وہ راستے سے روکا گیا اور فرعون کا داؤں ہلاک ہونے ہی کو تھا (37)

اور وہ ایمان والا بولا: اے میری قوم! میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاؤں (38)

اے میری قوم! یہ دنیا کا جینا تو کچھ برتا ہی ہے، اور بے شک وہ پچھلا پیش رہنے کا گھر ہے (39)

جو بڑا کام کرے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اتنی ہی اور جو اچھا کام کرے مرد خواہ عورت اور ہو مسلمان، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، وہاں بے سستی رزق پائیں گے (40)

اور اے میری قوم! مجھے کیا ہوا، میں تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے بلاتے ہو دوزخ کی طرف؟ (41)

مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ اللہ کا انکار کروں، اور ایسے کو اس کا شریک کروں جو میرے علم میں نہیں، اور میں تمہیں اس

سَاطِنِ اَتَمَّهُمْ كِبْرًا مَّقَاتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبٍ مُّتَدَبِّرًا ۝۳۶

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا مَعْزِبُ اِنِّىْ لَاصْبِيْحًا عَلٰى اَبْنِىْ ۝۳۷

اَسْبَابَ السَّمُوْتِ فَاطَّلَعَ اِلَى اللّٰهِ مُوسٰى وَاِنِّىْ لَاطَّلَعْتُ كَاذِبًا وَاَنَّكَ لَرٰزِقٌ لِّفِرْعَوْنَ سُوْءٍ عَمَلِهٖ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيْلِ وَمَا كُنْتُ فِرْعَوْنَ اِلٰى اِلٰفٍ تَبٰبٍ ۝۳۸

وَقَالَ الَّذِيْ اٰمَنَ يَقُوْمُ اَتَّبِعُوْنِ اِهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرُّشْدِ ۝۳۹

يَقُوْمُ اَتَّبٰهُدِهٖ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا مَتَاعًا ۝۴۰

اِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَاۤءِمٌ الْقٰرِرٰتِ ۝۴۱

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰى اِلَّا مِثْلَهَا وَاَمَنْ عَمِلَ صٰلِحًا مِّنْ دُوْرٍ اَوْ اَنْشٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُوْلٰئِكَ

يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يَرْزُقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝۴۲

وَيَقُوْمُ مَا لِيْ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجْوٰةِ وَتَدْعُوْنِيْ اِلَى النَّارِ ۝۴۳

تَدْعُوْنِيْ لَآ اَكْفُرُ بِاللّٰهِ وَاَشْرِكُ بِدَمٰلِئِيسِ لِيْ بِدَعْوٰى وَاَنَا اَدْعُوْكُمْ

Honorable, the Great Forgiver.

43. Surely, that to which you call me is of no use anywhere, neither in this world nor in the hereafter; and that our return is towards Allah and that the extravagants are the inmates of the fire.

44. You shall soon remember when time comes as to what I say to you. And I entrust my affairs to Allah. Allah Sees all His devotees.

45. So Allah saved him from the evils of their plot and an evil punishment surrounded the people of Firawn (Pharaoh)

46. The fire, to which, they are exposed in the morning and evening, and the day when the Hour shall come, it shall be ordered, cause the people of Firawn (Pharaoh) to enter the most grievous punishment.

47. And when they will argue with one another in the fire, then the weak shall say to those who became boastful, surely, we were your followers. Will you relieve us of any portion of the fire?

48. Those who were boastful will say, "we are all in it". "Surely, Allah has already judged between His devotees".

49. And those in the fire shall say to the keepers of the hell, pray to your Rubb (Sustainer) that He may lighten for us the punishment for a day.

50. They will say, "did not your Rasools (Messengers) use to bring to you bright signs". They will reply, "why not". They will again say, "then you yourselves

عزت والے بہت بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں (42)

آپ ہی ثابت ہوا کہ جس کی طرف مجھے بلاتے ہو، اسے بلانا کہیں کام کا نہیں، دنیا میں نہ آخرت میں، اور یہ ہمارا پھرنا اللہ کی طرف ہے، اور یہ کہ حد سے گزرنے والے ہی دوزخی ہیں (43)

تو جلد وہ وقت آتا ہے کہ جو میں تم سے کہ رہا ہوں، اسے یاد کرو گے، اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بیشک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے (44)

تو اللہ نے اسے بچا لیا ان کے مکر کی برائیاں سے، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آگیرا (45)

آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، تم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو (46)

اور جب وہ آگ میں باہم جھگڑیں گے، تو کزود ان سے کہیں گے، جو بڑے بڑے تھے، ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ گھٹا لو گے (47)

وہ تکبر والے بولے! ہم سب آگ میں ہیں، بے شک اللہ بندوں میں فیصلہ فرا جکا (48)

اور جو آگ میں ہیں اس کے واروگوں سے بولے! اپنے رب سے دعا کرو، ہم پر عذاب کا ایک دن ہلکا کر دے (49)

انہوں نے کہا، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول روشن نشانیاں نہ لاتے تھے، بولے! کیوں نہیں؟ بولے! تو تمہیں دعا کرو اور

إِلَى الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿۴۲﴾
لَا يَصْرُمُ أَنْتُمْ مَدِينَةُ الْيَوْمِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَوْءَدًا إِلَى اللَّهِ وَإِنَّ الْمَسْرِ فِينِ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿۴۳﴾

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَوَأَتُوسُّ إِلَهُي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿۴۴﴾
فَوْقَهُ اللَّهُ سَيِّدَاتٍ مَأْمُورَاتٍ وَأَوَّحَاتٍ بِأَلْفِ فِرْعَوْنَ سَوْءَ الْعَذَابِ ﴿۴۵﴾

النَّارِ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿۴۶﴾
وَإِذْ يَتَحَاكَمُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضَّعُفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا أَفَهَلْ أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ عَلَانَصِيبًا مِمَّنَّ النَّارِ ﴿۴۷﴾

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿۴۸﴾
وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَدْنَةِ رَبِّكُمْ ادْعُوا رَبَّكُمْ مَخْفِقًا عَسَىٰ يَوْمًا يَمُنَّ مِنَ الْعَذَابِ ﴿۴۹﴾

قَالُوا أَوَلَمْ تَكُن تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا أَيْلَىٰ قَالُوا فادْعُوا

pray". And such praying of the disbelievers only will go astray.

SECTION 6

51. Surely, We (Allah) shall help Our (Allah's) Rasools (Messengers) and the believers in the life of the world and on the day when the witnesses shall stand forth;

52. the day when the excuse of cruel people will not profit, and for them is the curse and for them is the evil abode.

53. And surely, We (Allah) bestowed guidance to Moosaa (Moses) and made the children of Issraael the inheritors of the Book;

54. as a guidance and a reminder for the persons of understanding.

55. Therefore, (O dear) be steadfast. Surely, the promise of Allah is true. And ask forgiveness for your (followers') faults from your Rubb (Sustainer) praising Him in the morning and in the evening.

56. Surely, those who dispute concerning the Verses of Allah without any authority they may have got, there is nothing in their hearts but an ambition of greatness to which they shall not reach. So you seek refuge with Allah. Surely, He is All-Hearing, All-Seeing.

57. Certainly, the creation of the heavens and the earth is greater than the creation of mankind, but most of the mankind do not know.

58. And neither the blind and the seeing ones are equal, and nor those who believe and do righteous deeds are

کافروں کی دعا نہیں مگر بھیجتے پھرنے کو (50)

بیک ضرور! ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے (51)

جس دن ظالموں کو ان کے ہمارے کچھ کام نہ دیں گے اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر (52)

اور بیک ہم نے موسیٰ کو رہنمائی عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث کیا (53)

عقل مندوں کی ہدایت اور صیحت کو (54)
تو اے محبوب! تم میرا کہو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اپنیوں کے گناہوں کی معافی چاہو اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے صبح اور شام اس کی پائی بولو (55)

وہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بے کسی سند کے جو انہیں ملی ہو ان کے دلوں میں نہیں مگر ایک بڑائی کی ہوس جسے نہ پہنچیں گے، تو تم اللہ کی پناہ مانگو، بیک وہی سنتا دیکھتا ہے (56)

بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے بہت بڑی، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے (57)

اور اندھا اور اکتھارا برابر نہیں اور نہ وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور

وَمَا وَعَدَ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ صُلْبٍ ۝۵۰

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالدِّیْنَ اٰمَنُوْا
فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ
الْاَشْهَادُ ۝۵۱

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعٰذِرَتُهُمْ
وَلِيْهِمُ الْعَذَابُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدّٰرِ ۝۵۲

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰى الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا
بَنِيْۤ اِسْرٰٓءِیْلَ الْكِتٰبَ ۝۵۳

هُدٰى وَّذِكْرٰى لِاُولٰٓئِی الْاَلْبَابِ ۝۵۴

فَاٰصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ
لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ۝۵۵

اِنَّ الدِّیْنَ یُبٰدِلُوْنَ فِیْ اٰیٰتِ اللّٰهِ
بَغیْرِ سُلْطٰنٍ اَتَهُمْ اِنْ فِیْ صُدُوْرِهِمْ
اِلٰبٌ رَّغَمًا هُمْ بِبِالْعِیْنِ فَاَسْتَعِذُّ بِاللّٰهِ
اِنَّهُ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ۝۵۶

لَخَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ
خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ
لَا یَعْلَمُوْنَ ۝۵۷

وَمَا یَسْتَوِی الْاَعْمٰی وَالبَصِیْرُ
وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

equal to the evil doers. How little do you remember.

59. Surely, the Hour is to come. There is no doubt in it, but most of mankind do not believe.

60. And your Rubb (Sustainer) says, "pray to Me, I shall acknowledge your call. Surely, those who are too boastful to worship Me, soon will enter the hell disgraced".

SECTION 7

61. It is Allah Who has made for you night that you may get rest in it and He made the day enabling you to see. Surely, Allah is Bounteous to mankind but most of mankind are ungrateful.

62. Such is Allah, your Rubb (Sustainer) the Creator of everything. None is worth worship except He. Where are you then turning away.

63. Thus turned away those who deny the Verses of Allah.

64. Allah is He Who made the earth for you a resting place and the sky as a roof and shaped you. Then made you shapes perfect and provides you good things. Such is Allah, your Rubb (Sustainer). So Blessed is Allah, the Rubb (Sustainer) of the universe.

65. He is Ever-Living. None is to be worshipped except Him. So worship Him being sincere only to Him in the religion. All praise belongs to Allah, the Rubb (Sustainer) of the universe.

66. Please declare, "I have been forbidden to worship those whom you worship besides Allah, since clear arguments have come to me from my Rubb (Sustainer). And I have been commanded

بدکار کتنا کم دھیان کرتے ہو (58)

بے شک قیامت ضرور آئے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں، لیکن بہت لوگ ایمان نہیں لاتے (59)

اور تمہارے رب نے فرمایا: مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے سمجھتے ہیں، عقرب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر (60)

اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام پاؤ، اور دن بنایا آسمان کھولا، ایک اللہ لوگوں پر فضل والا ہے، لیکن بہت آدمی شکر نہیں کرتے (61)

وہ ہے اللہ، تمہارا رب، ہر چیز کا بنانے والا اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، تو کہاں اوندھے جاتے ہو؟ (62)

یونہی اوندھے ہوتے ہیں وہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں (63)

اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین ٹھہراؤ بنائی، اور آسمان چھت اور تمہاری تصویر کی، تو تمہاری صورتیں اچھی بنائیں اور تمہیں ستمی چیزیں روزی دیں، یہ ہے اللہ تمہارا رب، تو بڑی برکت والا ہے اللہ، رب سارے جہان کا (64)

وہی زندہ ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، تو اسے پوجو نہ اس کے بندے ہو کر، سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب (65)

تم فرماؤ! میں منع کیا گیا ہوں کہ انہیں پوجوں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو جب کہ میرے پاس روشن دلیلیں میرے رب کی طرف سے آئیں، اور مجھے حکم

وَلَا الْمَسِيءَ قَلِيلًا فَاَتَدْرِكُوْنَ ۝
اِنَّ السَّاعَةَ الْاَيُّمَةَ اَلَا رَيْبٌ فِيهَا وَا
لَكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝
وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ
اِنَّ الدِّينَ يَسْتَعْبِدُوْنَ عَنِّي وَلَكِنْ
بَا سَيْدٌ خُلُوْنَ جِهَنَّمَ ذُرِّيَّتِي ۝

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ
لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اِنَّ
اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنْ

اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝
ذُرِّيَّتِي ۝
اِنَّ رَبَّكُمْ اَللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْكُلَّ شَيْءًا
لِّاَلَّهِ الْاُلُوهَ فَاَلَىٰ تَوَكَّلُوْنَ ۝

كَذٰلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
بِآيٰتِ اللّٰهِ لِيَجْذُبُوْنَ
اَللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ضَ
قَوَارِرًا وَّ السَّمٰءَ بِنٰءٍ وَّ وَّصَوَّرَكُمْ
فَاَحْسَنُ صُوْرًا وَّ رَزَقَكُمْ مِّنَ
الطَّيْبٰتِ ذُرِّيَّتِكُمْ اَللّٰهُ سَرَّ بِكُمْ ۝

فَتَبٰرَكَ اَللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝
هُوَ الَّذِي لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَدْعُوْهُ
مُخْلِصِيْنَ لَهٗ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَّ لِلّٰهِ
رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

قُلْ اِنِّي نُهَيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ
تَدْعُوْنَ مِن دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَاءَنِي
الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَبِّي وَاُمِرْتُ اَنْ اَسْلُمَ

to submit only to the Rubb (Sustainer) of the entire universe.

67. It is He Who made you (Adam) from dust. Then from semen drop, then from a blood clot, then brings you forth as an infant, then causes you to live so that you may attain your full strength. Then you become old, though some of you are caused to die before it and that you may reach to an appointed term and that you may understand.

68. It is He Who gives life and causes death; and when, He decrees a thing, He only says it, "BE", and it comes into BEING".

SECTION 8

69. Have you not seen those who dispute in the Verses of Allah? How they turn away?

70. Those who reject the Book with which We (Allah) have sent Our (Allah's) Rasools (Messengers). They soon shall know;

71. when in the iron fetters and chains around their necks they shall be dragged;

72. into the boiling water, then burnt in the fire;

73. then it will be said to them, "where went those whom you used to make (Allah's) "shareek"—associates";

74. besides Allah? They will say, "they are lost away from us, but rather we never worshipped any thing before." Thus Allah leaves the disbelievers confused.

75. That is because they enjoyed on the earth without right and because they behaved boastfully.

76. They will enter the gates

ہوا ہے کہ رب العالمین کے حضور گردوں رکھوں (66)

وہی ہے جس نے ہمیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی چمک سے، پھر ہمیں نکالا ہے بچہ، پھر ہمیں باقی رکھا ہے کہ اپنی جوانی کو پہنچو، پھر اس لیے کہ بوڑھے ہو، اور تم میں کوئی پہلے ہی اٹھایا جاتا ہے، اور اس لیے کہ تم ایک مقرر وعدہ تک پہنچو، اور اس لیے کہ سمجھو (67)

وہی ہے کہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب کوئی حکم فرماتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، جیسی وہ ہو جاتا ہے (68)

کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگرتے ہیں، کہاں پھرے جاتے ہیں؟ (69)

وہ جنہوں نے جھٹلائی کتاب، اور جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا، وہ عنقریب جان جائیں گے (70)

جب ان کی گردوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں مہینے جائیں گے (71)

کھولتے پانی میں، پھر آگ میں دھکائے جائیں گے (72)

پھر ان سے فرمایا جائے گا، کہاں گئے وہ جو تم شریک بتاتے تھے؟ (73)

اللہ کے مقابل، کہیں گے، وہ تو ہم سے تم گئے، بلکہ ہم پہلے کچھ پوتتے ہی نہ تھے، اللہ یونسی گمراہ کرنا ہے کافروں کو (74)

یہ اس کا بدلا ہے جو تم زمین میں باطل پر خوش ہوتے تھے، اور اس کا بدلا ہے جو تم اترتے تھے (75)

جاؤ! جسم کے دروازوں میں، اس میں بیٹھ

لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ
مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ
يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْتَلِيَغُوكُمْ
أَشَدُّكُمْ ثُمَّ يُرْجِعُكُمْ لِقَاؤِ رَبِّكُمْ
وَأَنْتُمْ عَنْ ذَلِكَ مُخِلُونَ ﴿٦٧﴾
وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا
قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ
فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ رَبِّيَ
عَن آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يَصِفُونَ ﴿٦٩﴾
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أُرْسِلُوا
بِهِ رَسُولُنَا فَكُلَّمَا يَخْتَفُونَ
إِذَا الْإِعْتَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسُلُ
يَلْبَسُونَ ﴿٧٠﴾

فِي الْحَبِيبِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُجْعَلُونَ
لَهُمْ قَبْرٌ عَظِيمٌ ﴿٧١﴾
مَنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ
لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ
يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٢﴾
ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنَّمَا كُنْتُمْ تَحْمِلُونَهُ
أَدْخَلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ

of hell to remain therein for ever, and how it is an evil abode for the boastfuls?

77. So you should be patient. Surely, the promise of Allah is true. Then whether We (Allah) let you see something of what We (Allah) have promised them or should We (Allah) cause you to die before. In any case they are to return to Us (Allah).

78. And certainly, We (Allah) sent many Rasools (Messengers) before you (O dear Prophet Muhammad). But there are some of them whom We (Allah) have mentioned to you, and there are some whom We (Allah) have not mentioned to you. And it is not for any Rasool (Messenger) that he should bring any argument without Allah's permission. But when the Command of Allah comes the matter is justly decided, and then the persons at falsehood and vanity shall remain losers in grief.

SECTION 9

79. It is Allah Who has made for you the cattle that you may ride on some and eat some others;

80. and you have other advantages in them that you may attain the desires of your hearts. On their backs, and on ships you are carried.

81. And He shows you His symbols, then which of the symbols of Allah will you deny?

82. Have they not travelled in the land that they might see how has been the end of those before them? They were more numerous and stronger in might than these. But

رہے تو کیا ہی بُرا مکانا ملعونوں کا (76)

تو تم مبرک رہو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو اگر ہم تمہیں دکھادیں کچھ وہ چیز جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یا تمہیں پہلے ہی وفات دیں، برعکس! انہیں ہماری ہی طرف پھرتا (77)

اور جنگ ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول بھیجے، کہ جن میں کسی کا احوال تم سے بیان فرمایا: اور کسی کا احوال نہ بیان فرمایا: اور کسی رسول کو نہیں پہنچتا کہ کوئی نشان لے آئے بے حکم خدا کے، پھر جب اللہ کا حکم آئے گا سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور باطل والوں کا وہاں خسارہ (78)

اللہ ہے جس نے تمہارے لیے چرائے بنائے، کہ کسی پر سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ (79)

اور تمہارے لیے ان میں کتنے ہی فائدے ہیں، اور اس لیے کہ تم ان کی پیٹھ پر اپنے دل کی مرادوں کو پہنچو، اور ان پر اور کشتیوں پر سوار ہوتے ہو (80)

اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تو اللہ کی کون سی نشانیاں کا انکار کرو گے (81) کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا، کہ دیکھتے ان سے انہوں کا کیسا انجام ہوا؟ وہ ان سے بہت تھے اور ان کی قوت، اور

فَمَا أُوتِئْتُمْ مَثْوًى الْمَثَكِرِينَ ﴿٧٦﴾

فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، فَمَا كَانَ نُبُوءَتِكَ بِبَعْضِ الَّذِي نَعَدُهُمْ أَوْ نَتُوفِينَاكَ فَإِنَّا نَبْرَحُوعُونَ ﴿٧٧﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا قَبْلِكَ وَنُهْمُ مَن قَبْلِكَ فَصَصْنَا عَلَيْكَ وَنُهْمُ مَن قَبْلِكَ فَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالنُّبُوءَاتِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَا تَجِدَ لَهَا مَثْوًى مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا قَبْلِكَ وَنُهْمُ مَن قَبْلِكَ فَصَصْنَا عَلَيْكَ وَنُهْمُ مَن قَبْلِكَ فَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالنُّبُوءَاتِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَا تَجِدَ لَهَا مَثْوًى مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٨٠﴾

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَتَ فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفَالِكِ تَحْمِلُونَ ﴿٨١﴾

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، فَآيَاتِ اللَّهِ تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٢﴾

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدُّ قُوَّةً وَأَثَرًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَعْنَى

what they earned did not benefit them.

83. When their Rasools (Messengers of Allah) came to them with clear Verses they kept rejoicing in what knowledge they had but what they mocked at overtook them.

84. But when they saw Our (Allah's) punishment they said, "we believe in only one Allah and we deny all that which we used to associate with Him.

85. But their belief was of no use to them when they had seen Our (Allah's) punishment. This is Allah's law which is prescribed for His devotees. And the disbelievers will remain there in loss.

S. XLI
SURA HAA-MEEEM-US-SAJDAH
(PROSTRATION)
Revealed at Makkah
(54 Verses, 6 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. HAA-MEEEM (H.M.)
2. This is a revelation from Rehman (the Affectionate Allah) the most Merciful.
3. A Book whose Verses have been fully explained, is this the Qur'aan in Arabic (eloquent language) for a nation who are knowledgeable;
4. a bearer of good news and a warner. But most of them turn away and do not listen.
5. And they say, "our hearts are in covers from that to which you invite us and in our ears is a heaviness and

زمین میں نشانیاں ان سے زیادہ تو ان کے کیا کام آیا جو انہوں نے کیا (82) تو جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لائے، تو وہ اسی پر خوش رہے، جو ان کے پاس دنیا کا علم تھا، اور انہیں پر اٹ پڑا جس کی ہنسی بتاتے تھے (83)

پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا بولے! ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، اور جو اس کے شریک کرتے تھے ان سے منکر ہوئے (84)

تو ان کے ایمان نے انہیں کام نہ دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، اللہ کا دستور جو اس کے بندوں میں گزر چکا اور وہاں کافر گھمائے میں رہے (85)

عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٤﴾
فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ
فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَ
حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٥﴾

فَلَمَّا آوَاوَا سَأَلُوا أَوْلِيَاءَهُمْ بِاللَّهِ وَحَدَّةً
وَكَفَرُوا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٥٦﴾
فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ لِيَوْمِئِذٍ لُبٌّ لَهَاوَا
بِاسْتَأْذِنَتْ اللَّهُ الَّتِي تَدَّخَلَتْ
بَيْنَ عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٥٧﴾

سورہ حم سجدہ کی ہے (اس میں) چنانچہ (54) آیتیں اور چھ (6) رکوع (ہیں)

سُورَةُ الْحَمْدِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
سُورَةُ الْحَمْدِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

حم (1)
یہ آمارا ہے بڑے رحم والے مہربان کا (2)
ایک کتاب ہے جس کی آیتیں مفصل فرمائی گئیں، عربی قرآن محل والوں کے لیے (3)

حَمْدٌ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

خوشخبری دینا اور ڈر سنانا، تو ان میں اکثر نے منہ پھیرا، تو وہ سنتے ہی نہیں (4)
اور بولے! ہمارے دل غلاف میں ہیں اس بات سے جس کی طرف تم ہمیں بلائے ہو، اور ہمارے کانوں میں ٹیٹ (روٹی) ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان

يَكْتُبُ فَضَّلْتُ الْيَمَّةَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٤﴾

بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَصَ الْأَكْثَرُ مِنْهُمْ
فَلَهُمْ لَا يُعْمَعُونَ ﴿٥٥﴾

وَقَالُوا أَفَلَوْ بِنَاتِنَا آيَةٌ مِمَّا تَدْعُونَا
إِنَّهُمْ يَقِفُونَ وَإِنَّا لَأَنبَاءُ مِمَّا تَدْعُونَا
وَبَيْنَاكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّا

between us and you there is a veil. So you do your deed and we do our deeds.

[THREE FOURTH OF PART 24 ENDS]

6. Please declare, "I am a human being, indeed, like you. To me it is revealed that surely for you only One Allah is worth worship". Therefore, be firm before Him and beg His forgiveness. And woe be on the "muushriks" - idolators;
7. who do not pay Zakaat (compulsory due) and they disbelieve in the hereafter".
8. Surely, those who believe and do righteous deeds shall have endless rewards.

SECTION 2

9. Please declare, "do you disbelieve in Him Who created the earth in two periods? And do you set up equals to Him? He is the Rubb (Sustainer) of the entire universe.
10. And He set therein firm mountains rising above it and placed blessings in it and He determined provisions for its inhabitants, in four periods. This is for those who question.
11. Then He observed the heavens and it was a smoke. Then He said to it and to the earth, "come both of you willingly or unwillingly" to obedience. They both submitted, "we come willingly".
12. So He ordained them in seven heavens in two periods and inspired each heaven its own mandate. And We (Allah) adorned the lower heaven with glittering stars

روک ہے، تو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں (5)

تم فرماؤ! آدمی ہونے میں تو میں تمی جیسا ہوں مجھے وحی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اس کے حضور سیدھے رہو، اور اس سے معافی مانگو، اور خرابی ہے شرک والوں کو (6)

وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے سکر ہیں (7)

بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے (8)

تم فرماؤ! کیا تم لوگ اس کا انکار رکھتے ہو جس نے دو دن میں زمین بنائی، اور اس کے ہر سر ٹھہراتے ہو، وہ ہے سارے جہان کا رب (9)

اور اس میں اس کے اوپر سے نگر ڈالے اور اس میں برکت رکھی، اور اس میں اس کے بسنے والوں کی روزیاں مقرر کیں یہ سب ملا کر چار دن میں ٹھیک جواب پوچھنے والوں کو (10)

پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا، اور وہ دھواں تھا، تو اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں حاضر ہو، خوشی سے چاہے ناخوشی سے، دونوں نے عرض کی، کہ ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے (11)

تو انہیں پورے سات آسمان کر دیا، دو دن میں، اور ہر آسمان میں اسی کے کام کے احکام بھیجے، اور ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا، اور گھمبائی کے

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدًا فَاسْتَعِينُوا بِالْغَيْبِ وَأَسْتَعْفُؤهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَاهِرُونَ ﴿٥﴾

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾

قُلْ إِنْتُمْ تَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ إِندَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبُرُوكَ فِيهَا وَقَدَرَ فِيهَا أَمْوَالَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلشَّالِبِينَ ﴿١٠﴾

ثُمَّ أَسْرَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لِبَنَاتِ الْأَرْضِ إِنِّي بَاطِعٌ أَوْ كَرِهًا فَأَلَّتْ آئِنُنَّ طَائِعِينَ ﴿١١﴾

فَقَضَيْنَا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَحِفْظًا

and guards. This is the regulation of the most Honorable, the All Knowing 13. But if they turn away their faces then please declare, "I warn you of a thunderbolt like the thunderbolt faced by the Aad and the Samood (Thamud)".

14. Then their Rasools (Messengers) came to them from before them and from behind them saying, "worship none except Allah". They said, "had our Rubb (Sustainer) wished so He would have sent down Angels. So we disbelieve in what you have been sent with.

15. And as for the Aad they became unjustly boastful in the land and said, "who is stronger in might than us"? Did they not know that Allah Who created them is stronger than they in might? But they continued to deny Our (Allah's) Verses.

16. We (Allah) loosened on them a furious cold wind in the days of their misfortune so that We (Allah) make them taste the penalty of being degraded in the life of this world. And surely, the penalty of the hereafter is more degrading and they shall not be helped.

17. And as for Samood (Thamud) We (Allah) guided them but they preferred blindness to the guidance. Therefore, the thunder of a degrading penalty overtook them, as the earning of their doings.

18. And We (Allah) save those who believe and remain pious.

لے، یہ اس عزت والے، علم والے کا ٹھہرایا ہوا ہے (12)

پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرماؤ کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک کڑک سے جیسی کڑک عداور ثمود پر آئی تھی (13)

جب رسول ان کے آگے بچھے پھرتے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو! بولے! ہمارا رب چاہتا تو فرشتے اتارتا، تو جو کچھ تم بے کر بھیجے گئے ہم اسے نہیں مانتے (14)

تو وہ جو عادت تھے انہوں نے زمین میں نائن تکبر کیا، اور بولے! ہم سے زیادہ کس کا زور؟ اور کیا انہوں نے نہ جانا؟ کہ اللہ جس نے انہیں بنایا ان سے زیادہ قوی ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے (15)

تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی سخت گرج کی، ان کی شامت کے دنوں میں کہ ہم انہیں رسوائی کا عذاب دکھائیں دنیا کی زندگی میں، اور جیک آخرت کے عذاب میں سب سے بڑی رسوائی ہے، اور ان کی مدد نہ ہوگی (16)

اور رہے ثمود، انہیں ہم نے راہ دکھائی تو انہوں نے جو سجنے پر اندھے ہونے کو پسند کیا، تو انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے آیا، سزا ان کے کیے کی (17)

اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے (18)

ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٥﴾

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتَكُمْ صُعِقَةً مِّثْلَ صُعِقَةِ عَادٍ وَثَمُوْدٍ ﴿٦﴾

اِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا يَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ قَالُوْا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كٰفِرُوْنَ ﴿٧﴾

فَاَسْأَعَادُ فَاَسْتَكْبِرُوْا فِي الْاَرْضِ يَغۡوِرُ الْحَقُّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مَنَّا قُوَّةً اَوْ لَعَنُوْا اِنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿٨﴾

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيۡحًا صٰرِفًا اَيۡۤامًا مَّحْسُوۡبَاتٍ لَّا تَدۡرِيۡقُهُمۡ عَذَابُ الْاٰخِرَةِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْاٰخِرَةُ اٰخِرُۢى وَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٩﴾

وَاَمَّا ثَمُوۡدُ فَهَدٰٓىنَا لَهُمۡ فَاَسْتَحۡبُوۡا الْعَصٰى عَلٰى الْيَمۡدٰى فَاَخَذُوۡا مِنْهَا صُعِقَةً الْعَذَابِ الْهُوۡنِ يَمًا كَانُوۡا يَكۡسِبُوۡنَ ﴿١٠﴾

وَنَجَّيۡنَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَكَانُوۡا يَتَّقُوۡنَ ﴿١١﴾

SECTION 3

19. And on the day when the enemies of Allah shall be driven towards the fire, then they will be goaded on.

20. Till when they will reach there, their ears and their eyes and their skins will bear witness against their doings.

21. And they will say to their skins, "why did you bear witness against us"? They (skins) will say, "Allah made us to speak, he who bestowed speaking power to every thing. And He created you the first time and towards Him you are to return.

22. And how could you veil yourselves that your ears and your eyes and your skins should bear witness against you? You thought that Allah did not know most of your doings.

23. This was your evil conception which you formed about your Rubb (Sustainer) and it had ruined you. So now you are amongst the losers.

24. Then if they persist, the fire is their destination. And if they beg to favor, non will favor them.

25. And We (Allah) have appointed for them some comrades who made to appear fair in their eyes what is before them and what is behind them, and the sentence was justified against them along with those Uummah (grand communities) that had already gone before them from amongst the jinns and mankind. Surely, they were the losers to perish.

SECTION 4

26. And the disbelievers say, "listen not to this Qur'aan

اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف ہانکے جائیں گے، تو ان کے انگوں کو روکیں گے (19)

یہاں تک کہ پچھلے آئیں یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جڑے سب ان پر ان کے کیے کی گواہی دیں گے (20)

اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے، تم نے ہم پر کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی، ہمیں اللہ نے بلوایا، جس نے ہر چیز کو گواہی بخشی، اور اس نے ہمیں پہلی بار بنایا، اور اسی کی طرف ہمیں پھرنا ہے (21)

اور تم اس سے کہاں چھپ کر جاتے کہ تم پر گواہی دیں، تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں، لیکن تم تو یہ کبھی بیٹھے تھے کہ اللہ تمہارے بت سے کام نہیں جانتا (22)

اور یہ ہے تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا، اور اس نے ہمیں ہلاک کر دیا، تو اب رہ گئے ہمارے ہوؤں میں (23)

پھر اگر وہ مبر کریں، تو آگ ان کا ٹھکانا ہے، اور اگر وہ منانا چاہیں، تو کوئی ان کا منانا نہ مانے (24)

اور ہم نے ان پر کچھ ساتھی تعینات کیے انہوں نے بھلا کر دکھایا، جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے، اور ان پر بات پوری ہوئی ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے، جن اور آدمیوں کے بیچک وہ زیاں کار تھے (25)

اور کافر بولے! یہ قرآن نہ سنو! اور اس

وَيَوْمَ يُنْفَخُ أَصْفَادُ الْعَذَابِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿۳۱﴾

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءَهُمْ وَهَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ سَوْعِهِمْ وَاِبْصَارَهُمْ وَجُلُودَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۲﴾

وَقَالُوا لَوْلَا جِئُوا بِآيَاتِنَا كَمَا كَانُوا يُزَعُونَ ﴿۳۳﴾

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرْشِدُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَيْفَ يَرَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿۳۴﴾

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَأَيْتُمْ فَاصِّحَاتِكُم مِّنَ النَّاسِ ﴿۳۵﴾

فَإِنْ يَصْهَرُؤُنَّ فَإِنَّ لَنَا لَأَمْشَرًا لَهُمْ ۖ وَإِن يَسْتَغِيثُوا فَمَا هُمْ بِمُعْتَجِبِينَ ﴿۳۶﴾

وَيَقِضْنَا لَهُمْ قَرْبَاءَ فَتَرَئُوهُمْ قَوْمًا يَبُورُونَ ﴿۳۷﴾

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا

and make absurd noise therein, perhaps you may get the upper hands.

27. Certainly We (Allah) shall make the disbelievers taste a severe punishment. And We (Allah) shall certainly award them for their worst deeds they used to do.

28. That is the award of the enemies of Allah, the fire wherein they shall have the eternal home, as the punishment for that they denied Our (Allah's) Verses.

29. And the disbelievers shall say, "O our Rubb (Sustainer) show us those among the Jinns and men who mislead us that we may trample them under our feet, so that they may remain among the lowest.

30. Surely, those who say, "our Rubb (Sustainer) is Allah then remain firm on it, the Angels descend upon them, saying, 'fear not, nor grieve and be glad in the Paradise which you were promised'".

31. "We are your guardians in the life of this world and in the hereafter. And for you therein is that which yourselves desire, and you shall get therein that which you may ask for";

32. "hospitality from the Forgiving, the Merciful".

SECTION 5

33. And who is better in speech than him who invites towards Allah and does righteousness and says, "I am a Muslim".

34. And the good and the evil are not equal. Repel (the evil) with that which is the best. And then between

میں ہے ہونہ غل کرو؛ شاید! یونسی تم غالب ہو (26)

تو بے شک ضرور ہم کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے، اور بے شک ہم ان کے بُرے سے بُرے کام کا انہیں بدلا دیں گے (27)

یہ ہے اللہ کے دشمنوں کا بدلا، اس میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے، سزا اس کی کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے (28)

اور کافر بولے! اے ہمارے رب! ہمیں دکھا وہ دونوں جن اور آدمی، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، کہ ہم انہیں اپنے پاؤں سے ڈالیں، کہ وہ ہر نیچے سے نیچے رہیں (29)

بیک وہ جنہوں نے کہا، ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں، کہ نہ ڈرو، اور نہ غم کرو، اور خوش ہو، اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا (30)

ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے ہے اس میں جو تمہارا ہی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں جو مانگو (31)

مہمانی بخشنے والے مہربان کی طرف سے (32)

اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی؟ جو اللہ کی طرف بلائے، اور نیکی کرے اور اس میں مسلمان ہوں (33)

اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی اسے سننے والے! بُرائی کو بھلائی سے ٹال جی

لِيَهْدِيَ الْقُرْآنَ وَالْغَوَايِئِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

فَلَنذَرِيَنَّهُمُ الْبُرْجَانَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَدَابًا شَدِيدًا أَوْ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾

ذَلِكَ جَزَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُم كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٢٨﴾

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَّأْنَا أَرْضَنَا وَقَدْ عَلِمْنَا مِنَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنَّا كَانُوا مِنِ الْأَسْفَلِينَ ﴿٢٩﴾

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا أَبْسَوُوا بِالْحَنَةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ ﴿٣٠﴾

مَنْ أَوْلِيَاكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ نَزَّلْنَا مِن غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴿٣٢﴾

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي

come safe on the Day of Resurrection? Do what you desire. Surely, He is seeing your deeds.

41. Surely, those who disbelieve the Remembrance (Qur'aan) when it comes to them, (are losers) as surely, it is an honorable Book;

42. in which no falsehood can be inserted, either from its front or from its rear. It is a revelation from the All Wise, the All Praiseworthy.

43. Nothing is said to you (O Prophet Muhammad) which was not said to the Rasools (Messengers of Allah) before you. Surely, your Rubb (Sustainer) confers the forgiveness and also awards the punishment.

44. And had We (Allah) made it Qur'aan in a foreign language, they definitely would have said, "why not its Verses have been made clear"? Why this is in foreign language but you (Prophet) are Arabian. Please declare, "that is a guidance and a healer for the believers". But the disbelievers have deafness in their ears and a blindness in them. They are like those who are called from a far off place.

SECTION 6

45. And surely, We (Allah) bestowed a Book to Moosaa (Moses) but differences were made therein. And if a Word had not gone before from your Rubb (Sustainer) then the matter would have been decided between them. And surely, they are in a confusing doubt about it.

46. Whoso does right deeds it is for his own good credit and whoso commits wrongful

بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے (40)

بے شک جو ذکر سے منکر ہوئے جب وہ ان کے پاس آیا، ان کی خرابی کا کچھ حال نہ پوچھ، اور بیگک وہ عزت والی کتاب ہے (41)

باطل کو اس کی طرف راہ نہیں، نہ اس کے آگے سے، نہ اس کے پیچھے سے اتارا ہوا ہے حکمت والے سب خوبیوں سرچا کا (42)

تم سے نہ فرمایا جائے گا مگر وہی جو تم سے اگلے رسولوں کو فرمایا گیا، کہ بے شک تمہارا رب بخشش والا اور درد ناک عذاب والا ہے (43)

اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن کرتے تو ضرور کہتے، کہ اس کی آیتیں کیوں نہ کھولی گئیں؟ کیا کتاب عجمی اور نبی عجمی؟ تم فرماؤ! وہ ایمان والوں کے لئے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ٹیٹ (روٹی) ہے، اور وہ ان پر اندھا پن ہے، گویا وہ درد جب سے پکارے جاتے ہیں (44)

اور بیگک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر ایک بات تمہارے رب کی طرف سے گزر نہ چکی ہوتی، تو جہی ان کا فیصلہ ہو جاتا، اور بیگک وہ ضرور اس کی طرف سے ایک دھوکا ڈالنے والے شک میں ہیں (45)

جو نیکی کرے وہ اپنے بھلے کو، اور جو برائی

الْقِيَمَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّ لَهُمْ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

مَا يَقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٣﴾

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَجْجَبِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيهِ إِذْ أَنبَهُمْ قَوْلُهُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَسَىٰ أُولَٰئِكَ يَنذَرُونَ ﴿٤٤﴾

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَآخْتَلَفُ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَفَضَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَأَلْتَمَعْنَا لِفِي شِقِّ قَلْبِهِمْ مَّرْيَبٌ ﴿٤٥﴾

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَآخْتَلَفُ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَفَضَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَأَلْتَمَعْنَا لِفِي شِقِّ قَلْبِهِمْ مَّرْيَبٌ ﴿٤٥﴾

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَ

deeds, it is for his own discredit to bear its guilt. And your Rubb (Sustainer) is not at all unjust to His devotees.

PARA 25

SURA US-SAJDAH

(Contd.)

SECTION 6 (Contd.)

47. The knowledge of the Hour is referred to Him alone. And no fruit comes forth from its spathe, and neither any female bears nor brings forth (a child) but He has the knowledge of it. And on the day when He will call them, "where are (My) "shareek" - associates? They will say, "we have already professed to You that there is no witness among us for them".

48. And those whom they used to worship before, will be lost from them and they will know for certain that they have no place of escape.

49. A human being does not tire in praying for good, but if any evil touches then he (she) loses hope, becoming despair.

50. And if We make him (her) taste Our (Allah's) mercy after the hardship befalls on him (her), he (she) will surely say this is my own due, and in my opinion the Hour will not come. And even if I be returned to my Rubb (Sustainer) certainly, for me there is good with Him. Surely We (Allah) shall then tell the disbelievers all that they did, and We (Allah) shall certainly, make them taste hard punishment.

51. And when We (Allah) bless human being he (she) turns away, withdrawing

کے تو اپنے تڑے کو اور تمہارا رب
بدلوں پر ظلم نہیں کرتا (46)

قیامت کے علم کا اسی پر حوالہ ہے اور
کوئی پھل اپنے ظلاف سے نہیں نکلتا اور
نہ کسی ماں کو بیٹ نہ ہے، مگر
اس کے علم سے اور جس دن انہیں
ندفرایا جائے گا کہیں میرے شریک؟ کہیں
ہے ہم تم سے کہہ چکے کہ ہم میں کوئی
گواہ نہیں (47)

اور تم کیا ان سے جسے پہلے پوچھتے تھے اور
سمجھ لے کہ انہیں کہیں بھانسنے کی جگہ
نہیں (48)

آدی بھلائی مانگنے سے نہیں آگاتا، اور کوئی
بڑائی پہنچے تو ناامید آس ٹوٹا (49)

اور اگر ہم اسے کچھ اپنی رحمت کا مزہ دیں
اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی تو
کے گا، یہ تو میری ہے اور میرے گمان
میں قیامت قائم نہ ہوگی اور اگر میں
رب کی طرف لوٹا یا بھی گیا تو ضرور
میرے لیے اس کے پاس بھی خوبی ہی ہے
تو ضرور! ہم بتا دیں گے کافروں کو جو
انہوں نے کیا اور ضرور! انہیں گناہوں کا
عذاب چکھائیں گے (50)

اور جب ہم آدی پر احسان کرتے ہیں تو
منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ

مَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا سِرُّكَ
بِظَلَامِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

الَّذِي يُرِيدُ عِلْمَ السَّاعَةِ وَمَا
تَخْتَرُونَ مِنْ تَمَرَاتٍ وَمَا يَمْهَمُّهَا
وَمَا تَحْضُرُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ الْأ
بِعُلْبَةِ وَنِعْمَ يَكُونُ لَهُمْ أَعْيُن
شُرَكَاءَ ۝ قَالُوا أَإِذَا ذُكِرَ مُلْكُ
شَهِيدٍ ۝

وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ
مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ نَجِيصٍ ۝

لَا يَخْتَرُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ
وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَحْسَبْ أَنَّ
وَلَيْنَ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا لَوْنٌ بَعْدَ
ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا
أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ
إِلَىٰ رَبِّي لَأَن لِّي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ
فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا عَمَلُوا
وَلَنُنذِرَنَّهُمْ مِنَ عَذَابِ عَلِيظٍ ۝
وَإِذَا النُّعْمَانُ عَلَى الْإِنْسَانِ أُغْرِضَ

aside, and when evil befalls on him (her) then he (she) offers long prayers.

52. Please declare, "tell me if this (Qur'aan) is from Allah but yet you reject it. Who is then more on the wrong way than the one who is in a far off dissent (from Allah)?"

53. We (Allah) shall soon show them Our (Allah's) signs in the horizon and in themselves, till it becomes clear to them that it is the truth. Is it not sufficient that your Rubb (Sustainer) is witness over everything?

54. Listen, they are surely, in doubt concerning the meeting with their Rubb (Sustainer)! Behold! He encompasses everything.

S. XLII

SURA USH-SHOORA (THE CONSULTATION)

Revealed at Makkah

(53 Verses, 5 Sections)

Allah's Name, Who is the Most Affectionate, the Most Merciful.

SECTION 1

1. HAA - MEEEM (H.M.)
2. Aiin - Seen - Qaaf (A.S.Q.);

3. Thus reveals to you and to those before you, Allah the Honorable, the Wise.

4. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. He is the Exalted, the Great.

5. (It is near) that the heavens may fall down above them but the Angels glorify their Rubb (Sustainer) with His praise and beg forgiveness for those on the earth. Behold, Allah is the most Forgiving, the most Merciful.

جاتا ہے اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو چوڑی دعا والا ہے (51)

تم فرماؤ! بھلا بتاؤ! اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہے، پھر تم اس کے منکر ہوئے تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو دور کی ضد میں ہے (52)

ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں، اور خود ان کے آپے میں یہاں تک کہ ان پر کھل جائے، کہ بیگ وہ حق ہے، کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ (53)

سنو! انہیں ضرور اپنے رب سے ملنے میں شک ہے، سنو! وہ ہر چیز کو محیط ہے (54)

سورہ شوریٰ مکی ہے (اس میں تہمیں (53) آیتیں اور پانچ (5) رکوع (چین)

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا

تم (1) عسق (2).
یونہی وحی فرماتا ہے تمہاری طرف اور تم سے آگلوں کی طرف اللہ عزت و سکت والا (3)

اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور وہی بلند و عظمت والا ہے (4)

قریب ہوتا ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے شق ہو جائیں اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کیساتھ اس کی پاکی بولتے، اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں، سنو!

بیگ اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے (5)

وَأَبْجَانِبُهُ وَإِذْ أَمْسَكَ الشَّرْقُودُ
دُعَاءَ عَرِيضٍ ﴿٥١﴾

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
تَكْوَفٌ لَكُمْ تَوْبَةٌ مِنْ أَضَلِّ مِنْهُنَّ هُوَ
فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي
أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمُ اللَّهُ
الْحَقُّ أَوْ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنْتَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾

إِلَّا أَنْتُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ
إِنَّ إِلَهَنَا بِكُلِّ شَيْءٍ مُخْبِطٌ ﴿٥٤﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدٌ عَسَقٌ ﴿٥١﴾

كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥٢﴾

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٥٣﴾

تَكَذَّبُوا بِالسَّمَاوَاتِ وَيَقْتَرُونَ مِنْ قَوْمِينَ
وَالهَيْلِكَةَ يَسْخَرُونَ مِنْكُمْ وَرَبِّهِمْ
وَيَسْتَعْفِفُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾

6. And those who take for them others besides Him as protectors Allah Watches them But you are not duty bound to remain their caretaker attorney.

7. And We (Allah) revealed to you the Arabic Qur'aan so that you may warn thereby the metropolis of all cities (people of Makkahs) and those who live around it; and you may warn them of a Day of gathering wherein there is no doubt. A party will be in the Paradise and a party will be in the hell.

8. And had Allah willed He would have made them an Uummah (grand community) under one faith. But He admits into His mercy whomso He pleases. And so far the unjust, they have neither a friend nor a helper.

9. Have they taken to them others as patrons besides Him? But it is Allah, Who is the Patron. And He will give life to the dead and He is Powerful over everything.

SECTION 2

10. In whatever you differ, the decision thereof is with Allah. This is Allah, the Rubb (Sustainer). In Him I put my trust and I turn towards Him.

11. The Originator of the heavens and the earth. He has made for you pairs of your own selves and the cattle pairs, whereby He spreads you therein. None is therein like Him, and He is the All-Hearing, the All-Seeing.

12. To Him belong the keys of the heavens and the earth. He expands the

اور جنہوں نے اللہ کے سوا اور والی بنا رکھے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں ہیں اور تم ان کے ذمہ دار نہیں (6)

اور یونسی ہم نے تمہاری طرف علی قرآن وحی بھیجا کہ تم ڈراؤ سب شہروں کی اصل مکہ والوں کو اور جتنے اس کے گرد ہیں اور تم ڈراؤ اٹھنے ہونے کے دن سے جس میں کچھ شک نہیں ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ دوزخ میں (7)

اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک دین پر کر دیتا لیکن اللہ اپنی رحمت میں لپکتا ہے جسے چاہے اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ مددگار (8)

کیا اللہ کے سوا اور والی ٹھہرا لیے ہیں تو اللہ ہی والی ہے اور وہ مرسے جلائے گا اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے (9)

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ
عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا
عَرَبِيًّا تَتْلُوهُ الْقُرْآنُ وَمَنْ

حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ يَوْمِ الْجُمُعِ لَا رَيْبَ
فِيهِ فَمَنْ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِحْنِي فِي
السَّعِيرِ ۝

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَلَكِنْ يَدْعُلُ مِنْ كِشَاءٍ فِي
رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ
وَالِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ
هُوَ الْوَالِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

تم جس بات میں اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے یہ ہے اللہ میرا رب میں نے اس پر بھروسہ کیا اور میں اس کی طرف رجوع لانا ہوں (10)

آسمانوں اور زمین کا بنانے والا تمہارے لیے تم میں سے جوڑے بنائے اور زواہد چوپائے اس سے تمہاری نسل پھیلاتا ہے اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سنتا دیکھتا ہے (11)

اس کے لئے ہیں آسمانوں اور زمین کی کھینچاں روزی وسیع کرتا ہے جس کے لیے

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ
إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝

فَأَطْرَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ
لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْثًا وَأَجَاذِمْ
الْأَنْعَابِ وَأَنْثًا وَأَجَاذِمْ رُؤُوسِهِمْ فِيهِ
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ ۝

لَهُمْ عَقَابُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

provision for whomso He pleases and straightens it too. Surely, He knows everything fully well.

13. He has prescribed for you the religion which He enjoined upon Nuuh (Noah) and that which We (Allah) have revealed to you and that which We (Allah) enjoined upon Ibraaheem (Abraham), Moosaa (Moses) and Eesa (Jesus) saying, "remain steadfast in the religion and cause no division therein. Very hard upon the "muushrik" - associator - pagans is that to which you call them. Allah chooses to Himself whom He pleases and guides those who turn towards Him.

14. And they did not divide but after the knowledge had come to them, on account of their own jealousy. And had not a saying of your Rubb (Sustainer) gone forth for an appointed term the matter would have been settled among them. And surely, those who came to inherit the Book after them are also in a doubt and are disturbed regarding it.

15. So, for this, you call and remain steadfast as you have been commanded and do not follow their evil desires. But please declare, "I believe in whatever Book Allah has revealed and I have been commanded that I should do justice between you. Allah is our Rubb (Sustainer) and Rubb (Sustainer) of you all. For us are our deeds and for you are your deeds. There is no dispute between us and you. Allah will gather us together, and towards Him is the destination of all.

چاہے اور نیک فرماتا ہے، بیگ وہ سب
کچھ جانتا ہے (12)
تمہارے لیے دین کی وہ راہ ڈالی جس کا
حکم اس نے نوح کو دیا، اور جو ہم نے
تمہاری طرف وحی کی، اور جس کا حکم ہم
نے ابراہیم (علیہ السلام) اور موسیٰ (علیہ
السلام) اور عیسیٰ (علیہ السلام) کو دیا، کہ
دین ٹھیک رکھو، اور اس میں پھوٹ نہ
ڈالو! مشرکوں پر بہت ہی گراں ہے وہ جس
کی طرف تم انہیں بلائے ہو، اور اللہ
اپنے قرب کے لیے انہیں لیتا ہے جسے
چاہے، اور اپنی طرف راہ دیتا ہے اسے جو
رجوع لائے (13)

اور انہوں نے پھوٹ نہ ڈالی مگر بعد اس
کے کہ انہیں علم آچکا تھا، انہیں کے حسد
سے، اور اگر تمہارے رب کی ایک بات
گزر نہ چلی ہوتی ایک مقرر مہلک تک، تو
کب کا ان میں فیصلہ کر دیا ہوتا اور بے
شک وہ جو ان کے بعد کتاب کے وارث
ہوئے، وہ اس سے ایک دھوکا ڈالنے
والے شک میں ہیں (14)

تو اسی لیے بلاؤ! اور ثابت قدم رہو، جیسا
جہیں حکم ہوا ہے، اور ان کی خواہشوں
پر نہ چلو، اور کسوکہ میں ایمان لایا اس پر
جو کوئی کتاب اللہ نے اتاری، اور مجھے حکم
ہے کہ میں تم میں انصاف کروں، اللہ
ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے، ہمارے
لیے ہمارا عمل، اور تمہارے لیے تمہارا
کیا، کوئی جت نہیں ہم میں اور تم میں،
اللہ ہم سب کو جمع کرے گا، اور اسی کی
طرف پھرنا ہے (15)

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُقَدِّرُ
أَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۲﴾
شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ
نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا
وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَ
عِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا
تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ
مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي
إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ
مُنْتَهِيٍّ ﴿۱۳﴾

وَمَا تَقَدَّرُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ
الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَا لَوْلَا كَلِمَةٌ
سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
لَفُضِّضَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا
الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ
مِنْهُ مُرْتَبِئِينَ ﴿۱۴﴾

فَلَيْلِكَ فَادْرُكُوا عُقْبَتَكُمْ لِمَا أُمِرْتُمْ
وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ هُمْ وَقُلْ أَمْرُنَ
بِهِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مَنْ كَتَبَ وَأُمِرْتُمْ
لِلْعَدْلِ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ رُؤُوفٌ رَحِيمٌ
لِنَا أَعْمَالُنَا وَلكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا
حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ
بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿۱۵﴾

16. And those who dispute concerning Allah after that the believers (Muslims) have already accepted His Call, their argument is futile in the sight of their Rubb (Sustainer) and upon them is the wrath and for them is the severe punishment.

17. Allah is He Who has revealed the Book with the truth and the balance of justice. And what makes you know that the Hour is not near?

18. Those who do not believe in it seek to hasten it, and those who believe therein are dreadful of it and know that surely, it is the truth. Beware! certainly those who are in doubt concerning the Hour are indeed on a far-off wrong path.

19. Allah is Gracious to His devotees. He provides for whomso He pleases, and He is the Powerful, the Honorable.

SECTION 3

20. Whoso desires harvest of the hereafter, We (Allah) shall give him increase in his produce and whoso desires the harvest of this world, We (Allah) shall give him thereof. But in the hereafter he shall have no share.

21. Have they some "shareek" - associate gods who have made for them some other law code for which Allah has given no permission. And had there not been the promise of a final decision (by Allah) in the hereafter) it would have been decided between them here. And surely for the cruel people is a painful punishment.

اور وہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بعد اس کے کہ مسلمان اس کی دعوت قبول کر چکے، ان کی دلیل ٹھس بے ثبات ہے، ان کے رب کے پاس اور ان پر غضب ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے (16)

اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری، اور انصاف کی ترازو اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو (17)

اس کی جلدی مچا رہے ہیں وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جنہیں اس پر ایمان ہے وہ اس سے ڈر رہے ہیں، اور جانتے ہیں کہ بیک وقت وہ حق ہے، سنتے ہو، بیک وقت قیامت میں ٹک کرتے ہیں، ضرور! دور کی گمراہی میں ہیں (18)

اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے، جسے چاہے روزی دتا ہے اور وہی قوت و عزت والا ہے (19)

جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اسکی کھیتی برعنائیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں (20)

یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں، جنہوں نے ان کے لیے وہ دین نکال دیا ہے کہ اللہ نے اس کی اجازت نہ دی، اور اگر ایک فیصلہ کا وعدہ نہ ہوتا تو ہمیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور بیک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے (21)

وَالَّذِينَ يُخَاجِرُونَ فِي اللَّهِ وَمِن بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتْهُمْ دَاحِضَةٌ عَنَّا دَرَجَتِهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَآلِيمٌ عَذَابُ شَرِيدٍ ﴿١٦﴾

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٧﴾

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ الْإِنَّا الَّذِينَ يُمَسِّرُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿١٨﴾

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿١٩﴾

مَنْ كَانَ يُؤِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ لُحْفًا حَرْثُهُ وَمَنْ كَانَ يُؤِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُزِذْ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ شَيْءٍ ﴿٢٠﴾

أَفَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أُولَئِكَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَاللَّهُ يَكْفُرُ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي سَدْحَةٍ مَسِيئَةٍ ﴿٢١﴾

22. You shall see the wrong-doers fearful of what they had earned and it shall fall on them. But those who believe and do good deeds will be in the meadows of the Paradise. They shall have with their Rubb (Sustainer) whatever they desire. This is the great bounty.

23. This is that of which Allah gives the good news to His devotees who believe and do good deeds. Please declare, "I do not demand from you any reward for it but only love to make you (faithful) as obligation of relations". And whoso acquires righteousness, We (Allah) increase goodness in excellence. Surely, Allah is the Forgiving, the Appreciating.

24. Or do they say, "he has forged a lie against Allah". But if Allah had Willed, He could have set a seal of His Mercy upon your heart. And Allah wipes out the falsehood and establishes the truth with His Words. Surely, He knows fully well what is in the hearts.

25. And it is He Who accepts the repentance from His devotees and pardons the sins and He knows whatever you do;

26. and He answers prayer of those who believe and do righteous deeds and gives them more reward out of His Bounty. And as for the disbelievers there is a severe punishment for them.

27. And had Allah increased the provisions of all His devotees, (even then they would have certainly rebelled

تم ظالموں کو دیکھو گے کہ اپنی کمائیوں سے
سے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان پر پڑ کر
رہیں گی، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام
کئے، وہ جنت کی پہلواڑیوں میں ہیں ان
کے لیے ان کے رب کے پاس ہے جو
چاہیں، یہی بڑا فضل ہے (22)

یہ ہے وہ جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ
اپنے بندوں کو جو ایمان لائے، اور اچھے
کام کئے، تم فرماؤ! میں اس پر تم سے کچھ
اجرت نہیں مانگتا مگر قربت کی محبت اور
جو نیک کام کرے، ہم اس کے لیے اس
میں اور خوبی بربھائیں، بیشک اللہ بخشنے والا
قدر فرمائے والا ہے (23)

یا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ
باندھ لیا، اور اللہ چاہے تو تمہارے دل پر
اپنی رحمت و مہلت کی مہر فرما دے، اور
مٹاتا ہے باطل کو اور حق کو ثابت فرماتا
ہے، اپنی باتوں سے، بیشک وہ دلوں کی
باتیں جانتا ہے (24)

اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول
فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور
جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو (25)

اور دعا قبول فرماتا ہے ان کی جو ایمان
لائے، اور اچھے کام کئے، اور انہیں اپنے
فضل سے اور انعام دیتا ہے، اور کافروں
کے لیے سخت عذاب ہے (26)

اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق
وسیع کر دیتا، تو ضرور زمین میں فساد

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا
وَهُوَ وَاِقَامَ بِهِمُ وَالَّذِينَ آمَنُوا

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي سَرَاوَضٍ
الْجَنَّةِ لَهُمْ نَائِمَاتٌ وَنَعْمَ عِنْدَ رَبِّهِمْ
ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٢٢﴾

ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا
الْمُؤَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ
حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنَاتٍ
إِن يَشَاءُ اللَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٣﴾

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
فَإِن يَشَاءُ اللَّهُ يَخْتَمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ
وَيَمْحُ اللَّهُ النَّبَاتِطَ الَّذِي تَرَى
بِكَلِمَتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ﴿٢٤﴾

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن
عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ
وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾

وَلَسْتَ حَسِبَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ
وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ
لَبَغَّتْ فِي الْأَرْضِ لَكِن يَسْزِيلُ

in the earth. But He sends down according to a measure as He wills. Surely, He is Aware and sees His devotees.

28. And it is He Who sends down rain after they have despaired, and spreads out His Mercy. And He is the Protector, the Praiseworthy.

29. And of His signs is the creation of the heavens and the earth and of whatever moving creatures He has spread forth amongst them. And He has the power to gather them together when He pleases.

[ONE FOURTH OF PART 25 ENDS]

SECTION 4

30. And whatever misfortune befalls on you, is due to what your own hands earn; but He pardons much.

31. And you cannot frustrate His control in the earth. You have neither any friend nor any helper except Allah.

32. And of His signs are ships running in the sea like mountains.

33. If He pleases, He may cause the wind to become still, so that they (ships) stand still on its back. Surely, therein are signs for every one who is most steadfast and the grateful.

34. Or He can destroy them on account of their sins but there is much that He pardons.

35. And those who dispute in Our (Allah's) signs should know that for them there is no place to escape.

36. And whatever you have been given is only a temporary provision of present life, but what is with

پھیلائے، لیکن وہ اندازہ سے اتارتا ہے جتنا چاہے، یحکم وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دکھاتا ہے (27)

اور وہی ہے کہ کہینہ اتارتا ہے ان کے نامید ہونے پر، اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے اور وہی کام بنائے والا، سب خوبیوں سربراہ (28)

اور اس کی نشانیوں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اور جو چلنے والے ان میں پھیلائے، اور وہ ان کے اکٹھا کرنے پر جب چاہے قادر ہے (29)

بَعْدَ مَا نَسَا لَكُمْ لِيَبْغِيَ اِيَّاهُمْ حَبِيْرًا
بَصِيْرًا ۝۲۸

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ
مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ
الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ ۝۲۹

وَمَنْ اَتَيْتُمْ مِنْكُمْ فَاغْرَبْ اَوْ اَسْرَفْ
وَمَا يَشَاءُ مِنْهُمْ اِنَّ دَابَّةَ وَهُوَ عَلٰى
كُلِّ شَيْءٍ جَمِيْعٌ اِذَا اِيْتَا قَدِيْرًا ۝۳۰

اور جس جس جو معصیت پہنچی وہ اس کے سبب ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے (30)

اور تم زمین میں قابو سے نہیں نکل سکتے اور نہ اللہ کے مقابل، تمہارا کوئی دوست نہ مددگار (31)

اور اس کی نشانوں سے ہیں، دریا میں چلنے والیاں جیسے پہاڑیاں (32)

وہ چاہے تو ہوا تھما دے کہ اس کی پیٹھ پر ٹھہری رہ جائیں، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر بڑے صابر، بڑے شاکر کو (33)

یا انہیں تباہ کر دے لوگوں کے گناہوں کے سبب، اور بہت کچھ معاف فرما دے (34)

اور جان جائیں وہ جو ہماری آجوں میں جھلڑتے ہیں، کہ انہیں کیسے بھانجے کی جگہ نہیں (35)

جس جس جو کچھ ملا ہے وہ جیتی دنیا میں برستے کا ہے، اور وہ جو اللہ کے پاس ہے ہر

وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَبِمَا
كَسَبْتُمْ اَنْفُسِكُمْ وَتَعْذِرُوْا عَنْ
كُتُوْبِكُمْ ۝۳۱

وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ
وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ
لَا نَصِيْرٍ ۝۳۲

مَنْ اِيْتَيْتُمُ الْبَحْرَ فِي الْفُلِ اَنْ اَغْرَبْ
اِنَّ اِيْتَا سَكِيْنَ الرِّيْحَ فَيُظَلُّنَّ
رَوَاكِدَ عَلٰى ظُهُورِهِمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبِيْرٍ شٰكِرٍ ۝۳۳

اَوْ يُوْفِقُوْنَ بِمَا كَسَبُوْا وَيُعْفُوْا
عَنْ كُتُوْبِكُمْ ۝۳۴

وَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْ اٰيٰتِنَا
مَا لَهُمْ مِنْ مُّجِيْبٍ ۝۳۵

فَمَا اَوْفِيْتُمُوْنَ شَيْءًا فَمَتَّعْ

Allah is better and more enduring for those who believe and repose their trust in their Rubb (Sustainer);

37. who avoid major sins and indecencies and, when they are angry, they forgive.

38. And those who obey the Command of their Rubb (Sustainer) and establish Salaat (Muslim Prayer) and their affairs are decided by mutual consultation and they spend what We (Allah) have provided.

39. And who, when aggression is made against them, defend themselves.

40. And the retaliation of injury is in the like injury. But whoso forgives and puts the things right his reward is with Allah. Surely, He does not love the cruels.

41. And surely, whoso take revenge after being victimised of oppression, there is no blame on them.

42. The blame lies only against those who do wrong against the mankind and transgress in the earth without right. For them is the painful punishment.

43. And the one who shows patience and forgives certainly, complies with strong divine determination.

SECTION 5

44. And whom Allah leaves to go on the wrong way, has no protector for him, thereafter. And you will see the wrongdoers when they will see the punishment, saying, "is there any way to return"?

45. And you will see them exposed to it (fire) dejected with disgrace looking stealthily. And the believers

ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ان کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں (36)

اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب غصہ آئے معاف کر دیتے ہیں (37)

اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے اور ہمارے دینے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں (38)

اور وہ کہ جب انہیں بھارت پہنچے بدلا لیتے ہیں (39)

اور بُرائی کا بدلا اسی کی برابر بُرائی ہے تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بیک وہ دست نہیں رکھتا ظالموں کو (40)

اور بیک جس نے اپنی مظلومی پر بدلا لیا ان پر کچھ مواخذہ کی راہ نہیں (41)

مواخذہ تو انہیں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے (42)

اور بیک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یہ ضرور امت کے کام ہیں (43)

اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی رستہ نہیں، اللہ کے مقابل اور تم ظالموں کو دیکھو گے، کہ جب عذاب دیکھیں گے کہیں گے، کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ (44)

اور تم انہیں دیکھو گے کہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں ذلت سے دبے لپے، چھٹی ٹکڑیوں دیکھتے ہیں اور ایمان والے کہیں

الْحَيوةَ الدُّنْيَا وَمَاعِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَلْقَى الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كِبِيرَ الْأَثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَدْتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

وَلَمَنْ اتَّصَرَ بِعَدُوِّهِ فَأُوبِيَ عَلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ ﴿٤١﴾

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَجْرِ الْأُمُورِ ﴿٤٣﴾

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَرْدٍ وَمَنْ يَعْذِبِهُ وَيَتَوَكَّلِ الظَّالِمِينَ لِمَا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مَرَدٌّ

مِنْ رَبِّنَا سَبِيلٌ ﴿٤٤﴾

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَضَبِينَ

مِنَ الدَّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ حَرْفٍ

will say, "surely, the losers are those who have lost themselves and their families on the Day of Resurrection". Behold! certainly the cruels are in lasing punishment.

46. And they have no protectors to help them except Allah. And whomsc Allah leaves to go on the wrong way, has no way.

47. Obey the Commands of your Rubb (Sustainer) before the coming of the day that is not to be averted against Allah. You would have no refuge that day, nor you can dare to deny it.

48. But if they turn aside, then We (Allah) have not sent you as a warden over them. Your duty is only to deliver the Message. And surely when We (Allah) let human beings taste the mercy from Us (Allah), they rejoice over it. But if any evil befalls them because of what their hands have sent forth, the human beings become most ungrateful.

49. To Allah belongs the Authority of the heavens and the earth. He creates whatever He likes. He bestows daughters on whomso He pleases and He bestows sons on whomso He pleases;

50. Or He couples both, the sons and the daughters, and He makes whomoso He likes issueless. Surely, He is Knowing, Powerful.

51. And it is not fit for a human being that Allah should speak to him (her) except through revelations, or from behind the veil. Or He may send any messenger

کے ایک ہار میں وہ ہیں جو اپنی جانیں اور اپنے گھروالے ہار بیٹھے، قیامت کے دن سننے ہو! ایک ظالم بیٹہ کے عذاب میں ہیں (45)

اور ان کے کوئی دوست نہ ہوئے کہ اللہ کے مقابل ان کی مدد کرے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کس راست میں ہیں (46)

اپنے رب کا حکم مانو اس دن کے آنے سے پہلے جو اللہ کی طرف سے نکلے والا نہیں، اس دن ہمیں کوئی پناہ نہ ہو گی اور نہ ہمیں انکار کرتے بنے (47)

تو اگر وہ منہ پھیریں، تو ہم نے ہمیں ان پر تمسبان بنا کر نہیں بھیجا، تم پر تو نہیں مگر پہنچا رہا، اور جب ہم آدمی کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ دیتے ہیں اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں کوئی بُرائی پہنچے، بدلا اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تو انسان بڑا ناشکرا ہے (48)

اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت پیدا کرتا ہے جو چاہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، اور جسے چاہے بیٹے دے (49)

یا دونوں ملا دے بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بچھ کر دے، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے (50)

اور کسی آدمی کو نہیں پہنچتا کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ وہ بشرِ ردہٴ عقلت کے اور ہو، یا کوئی فرشتہ بھیجے، کہ وہ اس کے حکم سے

حَفِيظًا وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا الْخَيْرُ مِنَ
الَّذِينَ حَسَبُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي

عَذَابٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٥﴾
وَمَا كَانَ لِمَنْ يَلْمِزُكَ مِنَ الَّذِينَ
آمَنُوا أَنْ يَتَّخِذُوا مِنْكَ
وَمَا كَانَ لِمَنْ يَلْمِزُكَ مِنَ الَّذِينَ
آمَنُوا أَنْ يَتَّخِذُوا مِنْكَ

أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٥﴾
فَأَن أَعْرَضُوا فَأَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
حَفِيظًا أَنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا
إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَوَسَّخْ

بِهَا وَإِن نَّصَبْنَاهُمْ سَبِيحَةً بِمَا قَدَّمْت
أَيْدِيَهُمْ فَلَا تَلْمِزُكَ الْإِنْسَانُ كُفُورًا ﴿٤٦﴾
وَمَا كَانَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَتَّخِذُوا مِنْكَ
وَمَا كَانَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَتَّخِذُوا مِنْكَ

مَلِيحًا يَهْتَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا نَأْتِي
يَهْتَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الَّذِي كُفِّرُ ﴿٤٦﴾
أَوْ يُرِيحَهُمْ ذُرًّا نَّأْتِي وَإِنَّا نَأْتِي وَنَجْعَلُ
مَنْ يَشَاءُ عَاقِبَةً إِنَّهُ عَلَىٰ

قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

وَمَا كَانَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَتَّخِذُوا مِنْكَ
وَمَا كَانَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَتَّخِذُوا مِنْكَ
وَمَا كَانَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَتَّخِذُوا مِنْكَ

(Angel) that he may reveal by His Command what He Wills. Surely, He is High, Wise.

52. And thus We (Allah) have revealed to you a spirit by Our Command. You did neither know the Book before it nor the details of the laws of religion. But, We (Allah) made it a light whereby We (Allah) guide Our (Allah's) devotees We please. And surely you (Muhammad) guide to the straight path; 53. the path of Allah, to Whom belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. Behold all the affairs return to Allah only.

S. XLIII

SURA AL-ZOOKHRUUF (ORNAMENTS)

Revealed at Makkah

(89 Verses, 7 Sections)

Allah's Name, Who is the Most Affectionate, the Most Merciful.

SECTION 1

1. HAA - MEEEM (H.M.)
2. I call to witness the clear Book.
3. We (Allah) have sent it (Qur'aan) in Arabic (clear, eloquent language) that you may understand.
4. And surely, it is (safe) in the Mother Book with Us (Allah), which indeed is exalted, full of wisdom.
5. Should We (Allah) then take away this Remembrance from you because you are the people exceeding limits?
6. And how many Nabi (Prophets — Communicators of unseen) did We (Allah) send among the earlier people?
7. And none of the (Prophets — Communicators

دی کرے جو وہ چاہے، بیگ وہ بلندی و حکمت والا ہے (51)

اور یونہی ہم نے تمہیں وہی بھیجی ایک جانتھرا چیز اپنے حکم سے، اس سے پہلے نہ، تم کتاب جانتے تھے، نہ احکام شرع کی تفصیل، ہم نے اسے نور کیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں سے جسے چاہتے ہیں، اور بے شک تم ضرور سیدھی راہ بتاتے ہو (52)

اللہ کی راہ کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سنتے ہو، سب کام اللہ ہی کی طرف مہرتے ہیں (53)

سورۃ زخرف کی ہے (اس میں) نواسی (89) آیتیں اور سات (7) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

ہم (1)

دوشن کتاب کی قسم (2)

ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو (3)

اور بیگ وہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ضرور بلندی و حکمت والا ہے (4)

تو کیا ہم تم سے ذکر کا پہلو ہیر دیں، اس پر کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو (5)

اور ہم نے کتنے ہی غیب بتانے والے (نبی) انگوں میں بھیجے (6)

اور ان کے پاس جو غیب بتانے والا (نبی)

يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِأَذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ۝۱

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا ۝۲

ثُمَّ هَدَيْنَاكَ سَبِيلًا وَلَكِنْ لَّمْ يَكُن لَّكَ صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۝۳

صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ اِلَّا اِلٰى اللّٰهِ ۗ نَصِيْرُ الْاَمْوْرِ ۝۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝۱

of the unsean) came to them, but they mocked at.

8. And We (Allah) destroyed those who were stronger in power than these, and the example of the earlier people has gone before.

9. And if you ask them, "who has created the heavens and the earth", they will certainly say, "the Honorable, the All-Knowing created them.

10. He Who has made the earth for you a cradle, and has made pathways, for you therein, that you may follow the right ways.

11. He, Who sends down water from the heaven in measures, and We (Allah) thereby give life to a dead land; similarly you shall be brought forth;

12. And who created all the pairs and made for you ships and cattle that you ride;

13. that you firmly mount upon their backs, and then you remember the favours of your Rubb (Sustainer) when you firmly seat upon them and say, "Glory is to Him Who has subjected this, though this was not controllable by our power;

14. and surely, we are to return to our Rubb (Sustainer).

15. Yet they have made some of His devotees a part of Him (as His children). Surely, human being is clearly ungrateful (doing such "shirk" - paganism).

SECTION 2

16. Has He taken for Himself daughters from His creatures and bestowed sons for you?

آیا اس کی نسی ہی بنایا کیے (7)
تو ہم نے وہ ہلاک کر دیئے جو ان سے بھی
بکڑ میں سخت تھے، اور انگوں کا حال گذر
چکا ہے (8)

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور
زمین کس نے بنائے؟ تو ضرور کہیں گے،
انہیں بنایا اس عزت والے علم والے نے
(9)

وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا
کیا، اور تمہارے لیے اس میں راستے کیے
کہ تم راہ پاؤ (10)

اور وہ جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک
اندازے سے، تو ہم نے اس سے ایک
مرہ شمر زندہ فرما دیا، یونہی تم نکالے جاؤ
گے (11)

اور جس نے سب جوڑے بنائے، اور
تمہارے لیے کشتیوں اور چوہایوں سے
سواریاں بنائیں (12)

کہ تم ان کی بیٹیوں پر ٹھیک بیٹھو، پھر
اپنے رب کی نعمت سے یاد کرو جب اس
پر ٹھیک بیٹھ لو، اور یوں کہو، پاکی ہے اسے
جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں
کر دیا، اور یہ ہمارے بوتے (بس میں) نہ
تھی (13)

اور بیٹک ہمیں اپنے رب کی طرف پھٹنا
ہے (14)

اور اس کے لیے اس کے بندوں میں سے
کھرا ٹھہرایا، بیٹک آدمی کھلا ٹھہرا ہے
(15)

کیا اس نے اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے
بیٹیاں لیں، اور ہمیں بیٹوں کے ساتھ
خاص کیا (16)

يَسْتَفْتُونَ ۝
فَاهْلِكُنَا أَكْثَرُ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمُضَىٰ
مِثْلَ الْاُولٰٓئِیْنَ ۝

وَلَیْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَ الْاَرْضَ لَیَقُوْلُنَّ خَلَقْتَهُنَّ الْعَزِیْزُ
الْعَلِیْمُ ۝

الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ مَهْدًا
وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سَبٰلًا لَّعَلَّكُمْ
تَهْتَدُوْنَ ۝

وَالَّذِیْ نَزَّلَ مِنَ السَّمٰوٰتِ مَآءً
بَعْدَ رَفَاثَتْرِ نَابِهٖ بَلَدًا مَّیْمِنًا
كَذٰلِكَ نَخْرُجُوكُمْ
وَالَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَّ
جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ
مَا تَرْكَبُوْنَ ۝

لَتَسْتَوُوْا عَلٰی ظُهُوْرِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوْا
بِعَمَلِهِ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوٰیْتُمْ عَلَیْهِ وَّ
تَقُوْلُوْا اَنْبَحْنُ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا
هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ ۝
وَلَا اِلٰهَ اِلَّا رَبُّنَا الْمُنْقَلِبُوْنَ ۝

وَجَعَلُوْا لِدٰنِ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا
مِّمَّا يَخْتَصِمُ الْاِنْسَانُ لِكُفُوْرٍ مُّبِیْنٍ ۝
اَوْ اَمْ اخْتَصَمْنَا بِذَنۢبِ وَّ
اَضْفَكُنَا بِالْبَنِيْنَ ۝

وَجَعَلُوْا لِدٰنِ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا
مِّمَّا يَخْتَصِمُ الْاِنْسَانُ لِكُفُوْرٍ مُّبِیْنٍ ۝
اَوْ اَمْ اخْتَصَمْنَا بِذَنۢبِ وَّ
اَضْفَكُنَا بِالْبَنِيْنَ ۝

وَجَعَلُوْا لِدٰنِ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا
مِّمَّا يَخْتَصِمُ الْاِنْسَانُ لِكُفُوْرٍ مُّبِیْنٍ ۝
اَوْ اَمْ اخْتَصَمْنَا بِذَنۢبِ وَّ
اَضْفَكُنَا بِالْبَنِيْنَ ۝

وَجَعَلُوْا لِدٰنِ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا
مِّمَّا يَخْتَصِمُ الْاِنْسَانُ لِكُفُوْرٍ مُّبِیْنٍ ۝
اَوْ اَمْ اخْتَصَمْنَا بِذَنۢبِ وَّ
اَضْفَكُنَا بِالْبَنِيْنَ ۝

17. And yet when any of them is given the news that whoso ascribes the like to Rehmaan (the most Affectionate Allah), his (her) face remains darkened and he (she) is inwardly chocked with grief.

18. And what! is one who is brought up in ornaments, and does not speak clearly in disputes (be associated with Allah)?

19. And they describe the Angels who are devotees of Rehmaan (the most Affectionate Allah), as females. Did they witness their creation? Their witness shall be written down and they shall be questioned.

20. And they say, "had Rehmaan (the most Affectionate Allah) so Willed, we would not have worshipped them (idols). They know nothing about its reality as they are only telling lies.

21. Or did We (Allah) give them a Book before this to which they are holding fast?

22. No but infact they say, "we found our fathers on this system (religion) and we are guided by their footsteps".

23. Similarly when We (Allah) sent any warner in any city before you the affluent thereof said to him, "indeed we found our forefathers on a system (religion) and we are guided by their footsteps.

24. He (that Prophet) said, "and what! even though I may bring to you a better guidance than you found your fathers upon"? They said, "surely we disbelieve in that which you are sent with."

اور جب ان میں کسی کو خوشخبری دی جائے اس چیز کی جس کا وصف رحمن کے لیے بتا چکا ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہے، اور غم کھایا کرے (17)

اور کیا وہ جو گننے میں پروان چڑھے، اور بحث میں صاف بات نہ کرے (18)

اور انہوں نے فرشتوں کو کہ رحمن کے بندے ہیں عورتیں ٹھہرایا، کیا ان کے بناتے وقت یہ حاضر تھے، اب کلمہ لی جائے گی ان کی گواہی، اور ان سے جواب طلب ہو گا (19)

اور بولے! اگر رحمن چاہتا ہم انہیں نہ پوچھے، انہیں اس کی حقیقت کچھ معلوم نہیں، یونہی اٹھیں دوڑاتے ہیں (20)

یا اس سے نقل ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جسے وہ تمہارے ہوئے ہیں (21)

بلکہ بولے! ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا، اور ہم ان کی لکیر پر چل رہے ہیں (22)

اور ایسے ہی ہم نے تم سے پہلے جب کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا وہاں کے آسودوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا، اور ہم ان کی لکیر کے پیچھے ہیں (23)

نبی نے فرمایا: اور کیا جب بھی کہ میں تمہارے پاس وہ لاؤں جو سیدھی راہ وہ اس سے جس پر تمہارے باپ دادا تھے؟ بولے، جو کچھ تم لے کر بھیجے گئے، ہم اسے نہیں مانتے (24)

وَاذْأَبْشَرًا حَدُّهُمْ بِمَا ضَرَبَ
الرَّحْمَنُ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا
وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿۱۷﴾

أَوْ مَنْ يُنْشِئُوا فِي الْحَيَاةِ وَهُوَ فِي
الْخُصَاوِعِ غَيْرِ مُبِينٍ ﴿۱۸﴾

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ
الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ
سَكَنَتِ شَهَادَتُهُمْ وَيَسْأَلُونَ ﴿۱۹﴾
وَقَالُوا أَلَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ
مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا
يُخْرَصُونَ ﴿۲۰﴾

أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ
بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿۲۱﴾

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ آثَرِهِ
وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴿۲۲﴾

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي
قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا
إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ آثَرِهِ وَإِنَّا عَلَىٰ
آثَرِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴿۲۳﴾

قُلْ أَلَوْ جِئْتُمْ بِآيَاتٍ فَاعْبُدُونَهَا
وَمَا كُنْتُمْ بِعِندَ رَبِّكُمْ إِلَّا مُقْتَدُونَ ﴿۲۴﴾

25. Therefore, We (Allah) took retribution from them. Behold! how was the end of the liars!

[HALF OF PART 25
ENDS]

SECTION 3

26. And when Ibraaheem (Abraham) said to his father and his people "I disown what you worship;

27. except Him Who created me, and He will surely, guide me".

28. And he made it a word of his legacy for his descendants that perhaps they may turn (to Allah).

29. In fact I allowed them and their fathers worldly enjoyments, until there came to them the Truth (the Qur'aan) and the Rasool (Messenger of Allah) preaching clearly.

30. And when the Truth (Qur'aan) came to them, they said, "this is a magic, and we disbelieve it".

31. And they said, "why has not this Qur'aan been revealed to any great man of the two cities"?

32. What! is it they who distribute the Mercy of your Rubb (Sustainer)? It is We (Allah) Who apportion their livelihood among them in the present life and We (Allah) raise some of them above others in rank, so that some of them may take the others in their service. And the Mercy of your Rubb (Sustainer) is better than that they amass?

33. And if it were not so that all mankind was one community, We (Allah) would have surely made for those who disbelieve in

تو ہم نے ان سے بدلا لیا، تو دیکھو!
جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا؟ (25)

اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا: میں بیزار ہوں تمہارے معبودوں سے (26)

سوا اس کے جس نے مجھے پیدا کیا کہ ضرور وہ بہت جلد مجھے راہ دے گا (27)
اور اسے اپنی نسل میں باقی کام رکھا کہ کہیں وہ باز آئیں (28)

بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ و دادا کو دنیا کے فائدے دیئے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف بتانے والا رسول تشریف لایا (29)

اور جب ان کے پاس حق آیا، بولے! یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں (30)

اور بولے! کیوں نہ آتا گیا یہ قرآن ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر؟ (31)

کیا تمہارے رب کی رحمت وہ ہائٹھے ہیں؟ ہم نے ان کی زنت (زندگی) کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا، اور ان میں ایک دوسرے پر درجوں بلندی دی، کہ ان میں ایک دوسرے کی نمس بنائے، اور تمہارے رب کی رحمت ان کی جمع جتنا سے بہتر (32)

اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں، تو ہم ضرور رخصن کے منکرین

فَأَتَّخَمْنَا لَئِنَّمَا كَانُوا
عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي
بِرَبِّكُمْ سَأْعِبُدُونَ ﴿٢٦﴾

إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي إِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾
وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾

بَلْ مَتَّعْتُ هَذَا أُمَّةً وَأَبَاءَهُمْ حَتَّى
جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٩﴾

وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالَ الْوَاحِدُ الْآخَرُ
وَأِنَّا بِهِ لَكَافِرُونَ ﴿٣٠﴾

وَقَالُوا لَوْلَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى
رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٣١﴾

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ
فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ عَيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَارْتَقْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَأَرْحَمُهُمْ
رَبُّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً
وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ

Rehmaan (the most Affectionate Allah) roofs of silver for their houses and stairs whereon they go up;

34. and for their houses silver doors and silver couches upon which they could recline;

35. and various adornments of gold. But all this is only a provision of the present life. And the hereafter with your Rubb (Sustainer) is for the pious ones.

36. And he (she) who turns away from the Remembrance of Rehmaan (the most Affectionate Allah) We (Allah) assign to him (her) a satan (devil) and he (she) becomes his (devil's) companion.

37. And surely, he (devil) hinders them from the right way but they imagine that they are perfectly guided;

38. till when such one will come to Us (Allah) he (she) will say, "Ah! would that there had been between me and you (devil) a distance of east and west! How evil comrade are you?"

39. But it shall not profit you on that day, as you committed cruelties that you will be partners in the punishment.

40. What! can you make the deaf to hear, or guide the blind on the way and those who are on clear wrong way?

41. And whether We (Allah) take you away, We (Allah) shall surely, take retribution from them;

42. Or We (Allah) show you that We (Allah) promised them for We (Allah) have full power over them.

کے لیے چاندی کی چھتیاں اور سیڑھیاں بناتے ہیں جو چڑھتے (33)

اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت جن پر ٹکیے لگاتے (34)

اور طرح طرح کی آرائش اور یہ جو کچھ ہے جیٹن دنیا ہی کا اسباب ہے اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے (35)

اور جسے روکنے (کراہت) آئے رحمن کے ذکر سے، ہم اس پر ایک شیطان تعینات کریں، کہ وہ اس کا ساتھی رہے (36)

اور بیشک وہ شیاطین ان کو راہ سے روکتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ وہ راہ پر ہیں (37)

یہاں تک کہ جب کافر ہمارے پاس آئے گا، اپنے شیطان سے کہے گا، ہائے! کسی طرح مجھ میں تجھ میں پورب پیچم کا فاصلہ ہوتا، تو کیا ہی برا ساتھی ہے (38)

اور مرکز تمہارا اس سے بھلا نہ ہو گا، آج جب کہ تم نے ظلم کیا کہ تم سب عذاب میں شریک ہو (39)

تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے، یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے، اور انہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں (40)

تو اگر ہم تمہیں لے جائیں، تو ان سے ہم ضرور بدل لیں گے (41)

یا تمہیں دکھا دیں جس کا انہیں ہم نے وعدہ دیا ہے، تو ان پر بڑی قدرت والے ہیں (42)

بِالرَّحْمَنِ لِيُؤْتِيَهُمْ سُقْفًا مِّنْ
فِضَّةٍ وَمَعَارِمٍ عَلَيْهِمْ يُظَهَّرُونَ ﴿٣٣﴾
وَلِيُؤْتِيَهُمْ آبَاءَ وَسُرُرًا عَلَيْهَا
يَسْكُونَ ﴿٣٤﴾
وَذُخْرًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا
مَتَاءَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ
عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾

وَمَنْ يَعْصُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ
تَقِيضَ لَهُ شَيْطَانًا مُّؤَلَّجًا قَرِينًا ﴿٣٦﴾

وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّوهُمْ عَنِ السَّبِيلِ
وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي
وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَلْسَنُ
الْقَرِينِ ﴿٣٨﴾

وَلَن يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَكُفْرًا
فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٩﴾

أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْىَ
وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٠﴾
فَأَمَّا نَذْرٌ هُنَّ بَلَغْنَا مَنَّهُمْ
مُنْتَقِمُونَ ﴿٤١﴾

أَوَلَيْسَ لَكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا
عَلَيْنَاهُمْ مَقْتَدِرُونَ ﴿٤٢﴾

43. So you hold fast to that which has been revealed to you. Surely, you are on the straight path.

44. And surely, it (the Qur'aan) is a remembrance for you and for your people, and you will soon be questioned about it.

45. And ask those of Our (Allah's) Rasools (Messengers) whom We (Allah) sent before you". "Did We (Allah) appoint other gods except Rahmaan (the most Affectionate Allah) to be worshipped?"

SECTION 5

46. And surely, We (Allah) sent Moosaa (Moses) with Our (Allah's) signs to Firawn (Pharaoh) and his chiefs, and he (Moses) said, "surely, I am the Rasool (Messenger) of Him Who is the Rubb (Sustainer) of the entire universe.

47. But when he brought Our (Allah's) Verses to them, they began to laugh at them (Verses).

48. And We (Allah) did not show them any Verse but it had greater (miracle) than the previous one and We (Allah) seized them in misery in order that they may turn (to Allah).

49. But they said, "O magician! pray to your Rubb (Sustainer) for us because of His promise made with you. Surely we shall then accept guidance".

50. Then when We (Allah) removed from them the punishment, they broke the word (undertaking).

51. And Firawn (Pharaoh) proclaimed among his people, "O my people! does not the

تو مضبوط تھامے رہو اسے جو تمہاری طرف وحی کی گئی، یقیناً تم سیدھی راہ پر ہو (43)

اور یقیناً وہ شرف ہے تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے، اور مغرب تم سب سے پوچھا جائے گا (44)

اور ان سے پوچھو جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، کیا ہم نے رخصت کے سوا کچھ اور خدا تمہارے جن کی پوجا ہو؟ (45)

اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو اس نے فرمایا: یقیناً میں اس کا رسول ہوں جو سارے جہان کا مالک ہے (46)

پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لایا، جیسی وہ ان پر نہیں گئے (47)

اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے وہ پہلے سے بڑی ہوتی، اور ہم نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا، کہ وہ باز آئیں (48)

اور بولے! کہ اے جاادوگر! ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، اس عہد کے سبب جو اس کا تیرے پاس ہے (49)

بے شک ہم ہدایت پر آئیں گے، پھر جب ہم نے ان سے وہ مصیبت مٹادی، جیسی وہ عہد توڑ گئے (50)

اور فرعون اپنی قوم میں پکارا کہ اے میری قوم! کیا میرے لیے معرکی سلطنت

فَأَسْقِمْ سَكًا بِالَّذِي أَوْحَى إِلَيْكَ ،
إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۴۳﴾
وَأِنَّهُ لَلَّذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ
نُتَسَلَوْنَ ﴿۴۴﴾

وَسَلُّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ وَنُرْسِلْنَا أَجْعَلُنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ
عِزًّا رَبِّهِمْ يُعْبَدُونَ ﴿۴۵﴾
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى
فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۴۶﴾

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذْ أَهْمُ مِنْهَا
يَضْحَكُونَ ﴿۴۷﴾
وَمَا تَرَوْهُمْ بِقِيَلٍ إِلَّا رِيًّا كَبْرًا
مِنْ أُمَّتِهِمْ وَأَخَذْنَا لَهُمُ الْعَذَابَ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۴۸﴾

وَقَالُوا يَا أَيُّهُ الشُّجْرَاءُ لِمَ نَأْتِيكَ
بِمَاعِ هَدً عِنْدَكَ إِنَّا لَنَهْتَدُونَ ﴿۴۹﴾
فَلَمَّا أَكْشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذْ أَهْمُ
يَنْتَسِلُونَ ﴿۵۰﴾

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ

kingdom of Egypt belong to me alongwith these streams that flow beneath me"? "Do you not then see"?

52. Nay! am I not better than him (Moses) who has committed contempt and can hardly express himself clear in speech?

53. Why not the bracelets of gold have been bestowed to him or Angels accompany him in ranks?

54. So he befooled his nation and they obeyed him. Surely, they were the wicked nation.

55. And when they made Us (Allah) angry, We (Allah) took retribution on them and We (Allah) drowned them all;

56. and We (Allah) made them a precedent of the past and an example for the coming generations.

SECTION 6

57. And when the example of the son of Maryam (Mary) is narrated, behold! your nation begins to laugh thereat.

58. And they say, "are our deities better or he"? They say this only for dispute. Thus they are a quarrelsome nation.

59. He was only Our (Allah's) devotee whom We (Allah) favoured and We (Allah) made him an example for the children of Isrraael.

60. And if We (Allah) wish We (Allah) would have made some of you Angels to succeed in the earth in place of you.

61. And surely, he is a sign of the Hour. So do not have doubt about it and follow me. This is the straight path.

نہیں؟ اور یہ نہیں کہ میرے نیچے ہستی؟
ہیں تو کیا تم کہتے نہیں (51)

یا میں بہتر ہوں اس سے کہ ذیل ہے اور
بات صاف کرتا معلوم نہیں ہوتا (52)

تو اس پر کیوں نہ ڈالے گئے سونے کے
نگن، یا اس کے ساتھ فرشتے آتے کہ
اس کے پاس رہتے (53)

پھر اس نے اپنی قوم کو کم عمل کر لیا، تو
اس کے کئے پر چلے، بنگ وہ بے حکم
لوگ تھے (54)

پھر جب انہوں نے وہ کیا جس سے ہمارا
غضب ان پر آیا، ہم نے ان سے بدلا لیا
تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا (55)

انہیں ہم نے کر دیا اگلی داستان، اور
کماوت پچھلوں کے لیے (56)

اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جائے
جیسی تمہاری قوم اس سے ہنسے لگتے ہیں
(57)

اور کہتے ہیں، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا
وہ، انہوں نے تم سے یہ نہ کہی، مگر ناحق
بھڑکے کو؟ بلکہ وہ ہیں ہی بھڑالو لوگ
(58)

وہ تو نہیں مگر ایک بندہ، جس پر ہم نے
احسان فرمایا، اور اسے ہم نے
نبی اسرائیل کے لیے عجیب نمونہ بنایا
(59)

اور اگر ہم چاہے تو زمین میں تمہارے
بدلے فرشتے بنا دے (60)

اور بیگ سبیل قیامت کی خبر ہے، تو ہرگز
قیامت میں لگ نہ کرنا، اور میرے
ہونا، یہ سیدھی راہ ہے (61)

الَيْسَ لِي مَلَكٌ يُصَرِّهُ هَذِهِ الْاَنْهَارُ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِي اَفَلَا تَبْصُرُونَ ﴿٥١﴾
اَمْ اَنْ اَخْبِرَ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَعِينٌ
وَلَا يَكَاذِبُ بَيْنَ يَدَيْهِ ﴿٥٢﴾

فَلَوْلَا اَلْبِقَاعُ عَلَيْهِ اَسْوَدَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ
اَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقَرَّنٰٓيْنَ ﴿٥٣﴾
فَاَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوْهُ اِنَّهُمْ
كَانُوْا قَوْمًا فَسٰٓقِيْنَ ﴿٥٤﴾

فَلَمَّا اَسْقَمْنَا اَنْ نَّخْتَمِنَا مِنْهُمْ
فَاَعَزَّ قَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥٥﴾
فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا اَمْثَلًا لِلاَّخِرِيْنَ ﴿٥٦﴾

وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا
قَوْمًا مِّنْهُ يَصِدُّوْنَ ﴿٥٧﴾
وَقَالُوْا اَلِهٰٓئَةُ الْبَنِيّٰٓئِ خَيْرٌ اَمْ هُوَ مَا
ضَرَبُوْهُ لَكَ الْجَدَّلُ اَلَيْلَ هُمْ قَوْمٌ
خٰصِمُوْنَ ﴿٥٨﴾

اِنَّ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اُنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَ
جَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيْٓ اِسْرٰٓءِيْلَ ﴿٥٩﴾
وَلَوْ نَشَاۗءُ لَجَعَلْنٰ مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً فِى
الْاَرْضِ يَخْلُقُوْنَ ﴿٦٠﴾

وَاِنَّ لَوْلَا لِسَاعَةِ فَلَا تَمَتَّرُوْنَ
بِهٰٓءَا تَتَّبِعُوْنَ هٰذَا اِحْرَاطٌ
مِّنْ سَبِيْغِهِ ﴿٦١﴾

62. And let not the satan (devil) misdirect you. Surely, he is your open enemy.

63. And when Eesa (Jesus) came with clear miraculous signs, he said, "I have come to you with wisdom and in order to make clear to you some of that wherein you differ. Therefore, be pious to Allah and obey me".

64. Surely, Allah is my Rubb (Sustainer) and is your Rubb (Sustainer). Therefore, worship Him only. This is the straight path.

65. But some factions differed among themselves. Therefore, woe is to the cruels because of the punishment of a painful day.

66. Are they waiting for the Hour that would come upon them suddenly and catch them, unaware.

67. Friends on that Day shall be foes to one another, except the pious ones.

SECTION 7

68. O My devotees there is neither any fear for you this day, nor shall you grieve;

69. who believe in Our (Allah's) signs and are Muslims.

70. Enter the Paradise, you and your wives, joyfully and honorably.

71. There shall be passed around them dishes and cups of gold and therein shall be everything the hearts desire and eyes delight in, and therein you shall remain for ever.

72. And this is Paradise that you will inherit because of your pious deeds.

73. You have therein plenty of fruits that you will

اور ہرگز شیطان تمہیں نہ روک دے
بلکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے (62)

اور جب عیسیٰ روشن نشانیوں لایا، اس نے فرمایا: میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا، اور اس لیے میں تم سے بیان کر دوں بعض وہ باتیں جن میں تم اختلاف رکھتے ہو، تو اللہ سے ڈرو! اور میرا حکم مانو! (63)

بے شک اللہ میرا رب اور تمہارا رب تو ہے پھر یہ سیدھی راہ ہے (64)

پھر وہ گردہ آہیں میں مختلف ہو گئے، تو ظالموں کی خرابی ہے، ایک دردناک دن کے عذاب سے (65)

کاہے کے انتظار میں ہیں مگر قیامت کے کہ ان پر اچانک آجائے، اور انہیں خبر نہ ہو (66)

مگر بے دلت اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار (67)

ان سے فرمایا جائے گا، اے میرے بندو!

وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٢﴾

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ
جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِإِيْنِ لَكُمْ
بَعْضُ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فَبَيِّنَاتٍ فَاتَقُوا
اللَّهَ وَأَطِيعُوا عِيسَىٰ ﴿٦٣﴾

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا اللَّهَ
هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ
يَوْمِ الْيَوْمِ ﴿٦٥﴾

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ
تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾

الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
بَغِيضٌ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾

يُعْبَادُوا لِخَوْفِ عَائِكُمُ الْيَوْمِ وَلَا
أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾

الَّذِينَ آمَنُوا يَا بَنِي آدَمَ لَا تَكُونُوا
مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾

أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
تَحْسِبُونَ ﴿٧٠﴾

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصَفَافٍ مِنْ ذَهَبٍ
وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهُهُ النَّفْسُ
وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا ظِلُونَ ﴿٧١﴾

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾

لَكُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرٍ وَمِنْهَا

آج نہ تم پر خوف، نہ تم کو غم ہو (68)

وہ جو ہماری آنکھوں پر ایمان لائے اور مسلمان تھے (69)

داخل ہو جنت میں تم اور تمہاری بیویاں اور تمہاری خاطر میں ہو تم (70)

ان پر روزہ ہو گا سولے کے پالوں اور جاسوں کا، اور اس میں ہے جو جی چاہے اور جس سے آنکھ کو لذت پہنچے، اور تم اس میں بیٹھ رہو گے (71)

اور یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث کیے گئے اپنے اعمال سے (72)

تمہارے لیے اس میں بہت میوے ہیں کہ

eat.

74. Surely, the criminals will abide for ever in the punishment of the hell.

75. It shall never be withdrawn from them and they shall remain seized there despaired.

76. And We (Allah) never wronged them but they themselves were cruels.

77. They shall call, O keeper (of hell)! let your Rubb (Sustainer) make an end of us". He shall say, "you shall stay on in it".

78. Certainly, We (Allah) brought you the Truth (Qur'aan) but most of you were averse to this Truth.

79. Have they determined any affair in their opinion? Then We (Allah) are too determined.

80. Or do they think that We (Allah) do not hear their secrets and what they conspire? Yes, indeed, and Our (Allah's) Angel messengers are present with them writing everything.

81. Please declare (O dear Muhammad), "if there had been a son to Rehmaan (the most Affectionate Allah) then I would have worshipped him first".

82. Holy is (Allah) the Rubb (Sustainer) of the heavens and the earth, the Rubb (Sustainer) of the Supreme Authority, free from all those things which they attribute (to Him).

83. So leave them alone to indulge in vain discourses and let them amuse themselves until they meet that day which they are promised.

84. And it is He Who is worth worship for those in

ان میں سے کہاؤ (73)

بیگ مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں (74)

وہ کبھی ان پر سے ہلکا نہ پڑے گا اور وہ اس میں بے آس رہیں گے (75)

اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا ہاں! وہ خودی ظالم تھے (76)

اور وہ پکاریں گے، اے مالک! تیرا رب ہمیں تمام کر چکے، وہ فرمائے گا، تمہیں تو ٹھہرنا ہے (77)

بیگ ہم تمہارے پاس حق لائے مگر تم میں اکثر کو حق ناکوار ہے (78)

کیا انہوں نے اپنے خیال میں کوئی کام پکا کر لیا ہے، تو ہم اپنا کام پکا کرنے والے ہیں (79)

کیا اس گھمنڈ میں ہیں کہ ہم ان کی آہستہ بات اور ان کی مشورت نہیں سنتے ہاں! کیوں نہیں؟ اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں (80)

تم فرماؤ! بفرضِ محال، رحمن کے کوئی پیر ہوتا تو بس سے پہلے میں پوجتا (81)

پاکی ہے آسمانوں اور زمین کے رب کو عرش کے رب کو، ان باتوں سے جو یہ بتاتے ہیں (82)

تو تم انہیں چھوڑو کہ بے ہودہ باتیں کریں اور کھلیں، یہاں تک کہ اپنے اس دن کو پائیں جس کا ان سے وعدہ ہے (83)

اور وہی آسمان والوں کا خدا اور زمین

تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٧٤﴾

لَا يَفْتَرِعُهُمْ وَهُمْ فِيهَا مُبْسُونَ ﴿٧٥﴾

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾

وَنَادُوا إِلَيْنَا لِنُقِضْ عَلَيْكَ قَوْلًا

قَالَ إِنَّكُمْ لِمُكَشَّرُونَ ﴿٧٧﴾

لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴿٧٨﴾

أَمْ أَرَبْتُمْ أَمْ رَبًّا فَإِنَّا مُبْرَمُونَ ﴿٧٩﴾

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾

قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَكَدَّ كُنَّا أَوْلَىٰ الْعِبَادِينَ ﴿٨١﴾

سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٨٢﴾

فَدَّرٰهُمْ يَخْضَعُونَ وَيَلْعَبُونَ اَحْسٰى يُلْقَوْنَ اَيُّوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿٨٣﴾

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ اِلٰهٌ وَّسِيْفٌ

the heavens and worth worship for those on the earth. And He is the most Wise, the All-Knowing.

85. And blessed is He for Whom belongs the Kingdom of the heavens and the earth and whatever is in between them and He has the knowledge of the Hour and you are to return to Him.

86. And those whom they call besides Him have no power of intercession. But those who testify the truth, only they know it (intercession).

87. If you ask them who created them, they will certainly say, Allah. Then how are they perverted?

88. And (the Prophet) will say, "O my Rubb (Sustainer) these are the people who do not believe".

89. Overlook them and say, Peace; and soon they shall know.

S. XLIV

SURA UD-DOOKHAN (THE SMOKE)

Revealed at Makkah

(57 Verses, 3 Sections)

Allah's Name, Who is the Most Affectionate, the Most Merciful.

SECTION 1

1. HAA-MEEEM (H.M.)
2. I make witness this clear Book.
3. Surely, We (Allah) revealed it in a Blessed Night. That We (Allah) should Warn with surety.
4. Therein all matters of wisdom are sorted out for Decree.
5. by a Command from Us (Allah). Surely, We (Allah) always have been sending Messengers.

والوں کا خدا اور وہی حکمت و علم والا ہے (84)

اور بڑی برکت والا ہے وہ کہ اسی کے لئے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم اور ہمیں اسی کی طرف پھرنا (85)

اور جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے ہاں! شفاعت کا اختیار انہیں ہے جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں (86)

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا؟ تو ضرور کہیں گے اللہ نے تو کہاں ادب سے جاتے ہیں؟ (87)

مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم! کہ اے میرے رب! یہ لوگ ایمان نہیں لاتے (88)

تو ان سے درگزر کرو اور فرماؤ! بس سلام ہے کہ آگے جان جائیں گے (89)

سورۃ دخان کی ہے (اس میں) آئیتیں اور تین (3) رکوع ہیں (89)

الْأَرْضِ اللَّهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۝
وَتَبَارَكَ الَّذِي لَدَيْهِ مَلَكُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ
السَّاعَةِ وَالَّذِي تَرْتَجِعُونَ ۝

وَلَا تَعْبُدُونَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ
دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَاءَ بِالْحَقِّ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۝
وَقِيلِهِ رَبِّ ان هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا
يُؤْمِنُونَ ۝

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ
عَلَيْهِمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سُورَةُ الدُّخَانِ مَكِّيَّةٌ مَبْتُورَةٌ خَمْسُونَ آيَةً وَكُلُّهَا مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
عَ حَسْرَةً ۝ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ فَتَبَارَكَ الَّذِي
كَتَابَ الْقَدْرَ ۝

فِيهَا يَقْرَأُ كُلُّ نَفْسٍ حِكْمِهَا ۝
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ مُسْتَكْبِرِينَ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان
رحم والا

تم اس کی روشنی کتاب کی (2)

بے شک ہم نے اسے برکت والی رات
میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے
ہیں (3)

اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا
کام (4)

ہمارے پاس کے علم سے، بے شک ہم بھیجے
والے ہیں (5)

6. A mercy from your Rubb (Sustainer). Surely, He is the All-Hearing, the All-Knowing;
7. The Rubb (Sustainer) of the heavens and the earth and whatso is between them, if you are sure.
8. None is to be worshipped but He. He gives life and causes death. He is your Rubb (Sustainer) and the Rubb (Sustainer) of your forefathers.
9. But they are in doubt, playing.
10. So wait for the day when the heaven will bring a clear smoke;
11. that will envelop the mankind. This will be a painful punishment.
12. (They will say that day), "O our Rubb (Sustainer) remove from us the punishment, surely we believe".
13. At that time how they can accept admonition, where already a Rasool (Messenger of Allah) had come to them, explaining things so clearly;
14. yet they turned away from him and said, "he is a tutored, madman".
15. Surely, if We (Allah) remove the punishment for sometime, you will indeed again revert to disbelief.
16. And on the day when We (Allah) shall seize with full might, indeed We are to take retribution.
17. And certainly, We (Allah) tried the nation of Firawn (Pharaoh) before them, and a noble Rasool (Messenger) came to them.
18. Saying, "hand over to me the devotees of Allah. Indeed I am a Rasool

تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے
بلکہ وہی سنتا جانتا ہے (6)

وہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو
کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تمہیں یقین
ہو (7)

اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، وہ جلائے
اور مارے، تمہارا رب اور تمہارے اگلے
باپ دادا کا رب (8)

بلکہ وہ تنگ میں پڑے کھیل رہے ہیں (9)
تو تم اس دن کے شکر رہو، جب آسمان
ایک ظاہر دھواں لائے گا (10)

کہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ہے درد
ناک عذاب (11)

اس دن کہیں گے، اے ہمارے رب! ہم
پر سے عذاب کھول دے، ہم ایمان لائے
ہیں (12)

کہاں سے ہو انہیں نصیحت ماننا، حالانکہ
ان کے پاس صاف بیان فرمانے والا
رسول تشریف لا چکا (13)

پھر اس سے روگرداں ہوئے، اور بولے!
سکھایا ہوا دیوانہ ہے (14)

ہم کچھ دنوں کو عذاب کھولے دیتے ہیں تم
پھر وہی کر دے (15)

جس دن ہم سب سے بڑی پکڑ پکڑیں گے
چیک ہم بدلا لینے والے ہیں (16)

اور چیک ہم نے ان سے پہلے فرعون کی
قوم کو جانچا اور ان کے پاس ایک معزز
رسول تشریف لایا (17)

کہ اللہ کے بندوں کو مجھے سپرد کر دو چیک

رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴿٦﴾

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٧﴾

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَ
رَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ ﴿٨﴾

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ﴿٩﴾

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ
مُّبِينٍ ﴿١٠﴾

يُعَذِّبُ النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾

مَا بَدَأْنَا شَرِّ عَذَابٍ آتَا
مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

أَنَّا لَهُمْ الدُّرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ
رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾

لَهُمْ نُوَاعِنُهُ وَقَالُوا مَعْلَمٌ
مُّجَنَّبُونَ ﴿١٤﴾

إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ إِنْ كُنْتُمْ
عَاقِدُونَ ﴿١٥﴾

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا
مُنْتَقِمُونَ ﴿١٦﴾

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَوْمَهُمْ تَوَمَّنْ يُؤْمِنُونَ
جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٧﴾

أَن أَدِّأُوا إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ إِنْ لَمْ

(Messenger of Allah) towards you, faithful to my trust;

19. and do not rise up against Allah. Surely, I bring to you a clear authority.

20. I take refuge with my Rubb (Sustainer) and your Rubb (Sustainer), lest you stone me.

21. And if you do not believe in me, then keep apart from me.

22. Then he called to his Rubb (Sustainer). These are a criminal nation.

[THREE FOURTH OF PART 25 ENDS]

23. Take My devotees, away by the night, for surely you shall be followed;

24. and leave the river when it is motionless. Surely, they are the band who shall be drowned.

25. How many gardens and fountains, they left behind;

26. and sown fields and nice houses;

27. and comforts they rejoiced;

28. so was it, and We (Allah) made another people to inherit them.

29. And the heaven and the earth did not shed tears for them, nor were they given respite.

SECTION 2

30. And surely, We (Allah) got freed the children of Issraael from disgraceful punishment;

31. from Firawn (Pharaoh) who was surely, a tyrant haughty and guilty of excesses.

32. And surely, We (Allah) exalted them knowingly above the people of that time;

میں تمہارے لیے امانت والا رسول ہوں
(18)

اور اللہ کے مقابل سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس ایک روشن سند لاتا ہوں
(19)

اور میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو
(20)

اور اگر تم میرا یقین نہ لاؤ، تو مجھ سے کنارے ہو جاؤ
(21)

تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم لوگ ہیں
(22)

ہم نے حکم فرمایا: کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے نکل، ضرور! تمہارا پیچھا کیا جائے گا
(23)

اور دریا کو یونہی جگہ جگہ سے کھلا چھوڑ دے، بیگ و لٹکر ڈوبیا جائے گا
(24)

کتنے چھوڑ گئے باغ اور بخشے
(25)

اور کھیت اور عمدہ مکانات
(26)

اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے
(27)

ہم نے یونہی کیا، اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا
(28)

تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے، اور انہیں سہلت نہ دی گئی
(29)

اور بیگ ہم نے بنی اسرائیل کو زلت کے عذاب سے نجات بخشی
(30)

فرعون سے، بیگ وہ تکبر، حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا
(31)

اور بیگ ہم نے انہیں دانستہ چن لیا اس زمانہ والوں سے
(32)

نَسُوْلًا اٰمِيْنَ ۝

وَاَنْ لَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ

بِاَسْلٰطِيْنَ قٰبِيِيْنَ ۝

وَاِنْ اِيْتٰتٰتُكُم مِّنْ رَّبِّيْ ذُرًّا مَّا يَكْتُمُوْنَ

وَاِنْ لَّمْ تُوْمِنُوْا لِيْ فَاَعْتَدُوْا لِنَفْسِكُمْ

فَاَعْتَدُوْا لِنَفْسِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ كٰفِرِيْنَ ۝

فَاَعْتَبِرْ بِعِبَادِيْ لِيَاذُرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ ۝

وَاَتْرَكَ الْبٰحِرَ رَهْوًا اَلَا هُمْ جُنْدٌ

مُغْرَقُوْنَ ۝

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَدَّتٍ وَعِيُوْنَ ۝

وَزُرُوْرٍ ۝ وَمَقٰمٍ كَرِيْمٍ ۝

وَنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِيْمِيْنَ ۝

كَذٰلِكَ عٰوَدْنَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ۝

فَمَا يَكْتُمُوْنَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنظُرِيْنَ ۝

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اِسْرٰٓءِيْلَ مِنَ

الْعَذٰبِ الْمُهِيْنِ ۝

مِنْ فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيًّا رٰٓسًا

الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝

وَلَقَدْ اَخْرَجْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ

عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ ۝

33. And We (Allah) gave them the token which was clear trial.

34. Even then these people say;

35. "it is only our first and the only death and we shall not be raised again.

36. "Raise up our (dead) fathers if you are truthful".

37. Are they better or the people of Tubba and those before them whom We (Allah) destroyed? Indeed they were criminals.

38. And We (Allah) did not create the heavens and the earth and whatsoever is amongst them, in sport.

39. We did create them but with truthful purpose, but most of them do not understand.

40. Surely, the Day of Decision is the appointed time for all of them.

41. The day when a friend shall not help a friend at all and nor they shall be helped;

42. except those on whom Allah Bestows Mercy. Surely, He is the most Honorable, the most Merciful.

SECTION 3

43. Lo! the tree of Zaqqoom (Cactus);

44. will be the food of the sinners;

45. like molten copper, it shall boil in the bellies;

46. as the boiling water bubbles.

47. "Seize him and push him into the midst of the hell";

48. "then pour over his head the punishment of boiling water".

49. Taste it, Yes, Certainly, you were the mighty and the noble.

اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا فرمائیں
جن میں صریح انعام تھا (33)

بے شک یہ کہتے ہیں (34)

وہ تو نہیں مگر ہمارا ایک دفعہ کا مرنا اور
ہم اٹھائے نہ جائیں گے (35)

تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ! اگر تم سچے
ہو (36)

کیا وہ بہتر ہیں یا حج کی قوم اور جو ان
سے پہلے تھے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا
بیگ وہ مجرم لوگ تھے (37)

اور ہم نے نہ بنائے آسمان اور زمین اور
جو کچھ ان کے درمیان ہے، کھیل کے طور
پر (38)

ہم نے انہیں نہ بنایا مگر حق کے ساتھ
لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں (39)

بیگ فیصلہ کا دن ان سب کا میعاد ہے
(40)

جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ
کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی

(41)
مگر جس پر اللہ رحم کرے، بیگ وہی
عزت والا مہربان ہے (42)

بیگ توہور (کڑوا پودا) کا بیڑ (43)

گھنٹا رول کی خوراک ہے (44)

گلے ہوئے آتے کی طرح بیڑوں میں جوش
مارتا ہے (45)

جیسا کھولتا پانی جوش مارے (46)

اسے پکڑو! ٹھیک بھرتی آگ کی طرف
بزدور سمجھتے لے جاؤ (47)

پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے پانی کا
غراب ڈالو (48)

کچھ ہاں! تو ہی بڑا عزت والا کرم
والا ہے (49)

وَأَتَيْنَهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهَا بَلَاوًا
مُّبِينًا ۝۳۳

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ۝۳۴

إِنْ هِيَ إِلَّا أَمْوَاتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ
بِعَاثِرِينَ ۝۳۵

فَأْتُوا يَا بَنِي آدَمَ أَنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝۳۶

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ
مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا
مُجْرِمِينَ ۝۳۷

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا الْعِبَادِينَ ۝۳۸

مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ
الْأَكْثَرَ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۳۹

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ
أَجْمَعِينَ ۝۴۰

يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا
وَلَا هُمْ يُصْرَفُونَ ۝۴۱

إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ
الرَّحِيمُ ۝۴۲

إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقُودِ ۝۴۳

طَعَامُ الْأَثِيمِ ۝۴۴

كَأَمْهَلٍ يُغِي فِي الْبُطُونِ ۝۴۵

كَغَلِي الْحَمِيمِ ۝۴۶

خُدُوهُ فَاعْلَوْهُ إِلَىٰ سَوَادِ الْجَحِيمِ ۝۴۷

ثُمَّ صَبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِّنْ عَذَابِ
الْحَمِيمِ ۝۴۸

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۝۴۹

50. Surely, it is that in which you were doubting.

51. Surely, the pious shall be in a place of security;

52. amidst the gardens and fountains.

53. Wearing fine silk and brocade, facing one another.

54. So it will be and We (Allah) shall get them married to black and bright large eyed beautiful maidens.

55. They will call therein every kind of fruit in peace and satisfaction.

56. They will not taste death therein, except the first death, and they shall be guarded from the punishment of the hell;

57. as a Bounty of your Rubb (Sustainer). This is the greatest triumph.

58. And We have made this (Qur'aan) easy in your language so that they may remember it.

59. So you wait, they too are waiting.

S. XLV

SURA AL-JATHIYAH (THE KNEELING)

Revealed at Makkah

(37 Verses, 4 Sections)

Allah's Name, Who is the Most Affectionate, the Most Merciful.

SECTION 1

1. HAA-MEEEM (H.M.)
2. The revelation of this Book is from Allah, the Honorable, the Wise.
3. Surely there are signs in the heavens and the earth for the believers.
4. And in your creation, and in the moving creatures He scatters, there are signs for a people who have faith.
5. And in the difference of night and day and in the rain

پک ہے وہ جس میں تم شبہ کرتے تھے (50)

پیک ڈر والے امان کی جگہ میں ہیں (51)
باغوں اور چشموں میں (52)

پہنیں گے کرب اور قاذر آنے سائے (53)

یونہی ہے اور ہم نے انہیں بیاہ دیا نہایت سیاہ اور روشن بڑی آنکھوں والیوں سے (54)

اس میں ہر قسم کا میوہ مانگیں گے امن و امان سے (55)

اس میں پہلی موت کے سوا پھر موت نہ چھینیں گے اور اللہ نے انہیں آگ کے عذاب سے بچالیا (56)

تمہارے رب کے فضل سے یہی بڑی کامیابی ہے (57)

تو ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کیا کہ وہ سمجھیں (58)

تو تم انتظار کرو وہ بھی انتظار میں ہیں (59)

سورہ جاہلیہ کی ہے (اس میں) سستیس (37) آیتیں اور چار (4) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا (1)

کتاب کا اتارنا ہے اللہ عزت و رحمت والے کی طرف سے (2)

پیک آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے (3)

اور تمہاری پیدا کنش میں اور جو جو جانور وہ پھیلاتا ہے ان میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے (4)

اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں اور

إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَشْكُرُونَ ۝

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ۝

فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝

يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَأَسْتَرَبَرٍّ ۝

مُتَقَابِلِينَ ۝

كَذَلِكَ وَتَرَوْهَا بِخُورٍ ۝

عَيْنٍ ۝

يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ ۝

أَمِينٍ ۝

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ ۝

الْأُولَىٰ ذُقْتُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝

فَضَلَّ مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ ۝

الْعَظِيمُ ۝

فَأَنبَأ سُرَّتْهُ بِلسَانِكَ لَعَلَّهُمْ ۝

يَتَذَكَّرُونَ ۝

يَا قَدْ تَقَبَّلْتُمْ مِنْهُمْ مُّزْتَقِنُونَ ۝

سُبْحٰنَ الَّذِي يَخْتَارُ حَيْثُ يَشَاءُ ۝

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
حَسْبُكَ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ
الْعَزِیْزِ الْحَكِیْمِ ۝
إِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَآیٰتٍ
لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ۝
وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا یَبْدُءُ مِنْ ذَآبِیۃٍ
أَنْتَ لِقَوْمٍ یُّؤْمِنُونَ ۝
وَلِخَلْقِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ مَا نُنزَلُ

Allah sends down are the means of the provision from the heaven whereby He gives life to the dead earth and in the change of the winds, there are signs for the people of understanding.

6. These are the signs of Allah that We (Allah) recite to you with truth. In what thing then, leaving the signs of Allah, will they believe?

7. Woe is to every imposter, sinner?;

8. who hears the signs of Allah being recited to him, yet persists boastfully, denying them as if he has not heard them. So give him the news of a painful punishment.

9. And when he comes to know anything from Our (Allah's) messages, he takes them in mockery. For such ones is a disgraceful punishment.

10. Behind them is the hell and nothing will benefit them what they have earned, nor those whom they had taken as supporters besides Allah. And for them is the great punishment.

11. This is a guidance. And those who disbelieve the revelations of their Rubb (Sustainer) will suffer a dreadful doom.

SECTION 2

12. It is Allah Who has subjected to you the sea that the ships may run on it by His Command, and that you may seek His Bounty and that you may be grateful.

13. And He has subjected to you what is in the heavens

اس میں کہ اللہ نے آسمان سے روزی کا سبب بنا دیا، تو اس سے زمین کو اس کے مرے پیچھے زندہ کیا، اور ہواؤں کی گردش میں نشانیاں ہیں جنہوں نے لے

(5) یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم تم پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر اللہ اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر، کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ (6)

خرابی ہے ہر بڑے ہمتان ہارے ہمتگار کے لیے (7)

اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے کہ اس پر ہنسی جاتی ہے، پھر ہمت (خدا) پر جتا ہے فرود کرتا، گویا انہیں سنا ہی نہیں، تو اسے خوشخبری سناؤ، رو رو ناک عذاب کی (8)

اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی پر اطلاع پائے، اس کی ہنسی بناتا ہے، ان کے لیے خوراک کا عذاب (9)

ان کے پیچھے جہنم ہے، اور انہیں کچھ کام نہ دے گا، ان کا کامیاب ہوا، اور نہ وہ جو اللہ کے سوا حاجی ٹھہرا رکھے تھے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے (10)

یہ راہ دکھانا ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا، ان کے لئے درد ناک عذاب میں سے سخت تر عذاب ہے (11)

اللہ ہے جس نے ہمارے بس میں دریا کر دیا کہ اس میں اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ حق مانو (12)

اور ہمارے لیے کام میں لگائے جو کچھ

اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَالْحَيَا
بِهِ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ
الرِّيحِ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٥﴾

تَبٰكُ اٰیٰتِ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَیْكَ
بِالْحَقِّ فَاٰیٰی حٰدِیْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰیٰتِهِ یُؤْمِنُوْنَ ﴿٦﴾

وَاٰیٰتِ لِّكُلِّ اٰقَاوِمٍ اٰیٰتٍ ﴿٧﴾
یَسْمَعُ اٰیٰتِ اللّٰهِ تَتْلٰی عَلَیْهِ ثُمَّ
یُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ یَسْمَعْهَا
فَبِئْسَ رَعْدًا وَاٰیٰتِ اللّٰهِ ﴿٨﴾

وَ اِذْ اَعْلَمْنَا مِنَ الْاٰیٰتِ اَنَّهَا
هُدًى وَاٰیٰتِ لِّكُلِّ اٰقَاوِمٍ اٰیٰتٍ ﴿٩﴾

مِنْ وَّرَآءِهِمْ جَهَنَّمَ وَلَا یُعْنٰی عَنْهُمْ
ثَاكِبُوْا اٰیٰتِ وَاٰیٰتِ لِّكُلِّ اٰقَاوِمٍ اٰیٰتٍ ﴿١٠﴾
اللّٰهِ اَوْ اٰیٰتِ وَاٰیٰتِ لِّكُلِّ اٰقَاوِمٍ اٰیٰتٍ ﴿١١﴾
هُدًى وَاٰیٰتِ لِّكُلِّ اٰقَاوِمٍ اٰیٰتٍ ﴿١٢﴾

اللّٰهُ الَّذِیْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِبَ
الْفُلَکَ فِیْهِ بِاَمْرِہٖ وَتَلْبَحْثُوْا مِنْ
فَضْلِہٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٣﴾
وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ

and what is in the earth by His Command. Certainly in it are signs for a people who ponder.

14. Tell the believers to forgive those who do not fear the days fixed by Allah so that He may award a nation for their deeds.

15. Whoso does right deeds does it for his own self, and whoso does evil, does it for his own loss. Then to your Rubb (Sustainer) you all will be returned.

16. And certainly We (Allah) bestowed the children of Issraael, the Book, the sovereignty, and Naboo-wut (Prophethood), and We (Allah) provided them with good things and exalted them over the people of their time.

17. And We (Allah) gave them bright arguments regarding Our (Allah's) laws but they differed after true knowledge had come to them. Surely, your Rubb (Sustainer) will decide between them on the Day of Resurrection concerning that wherein they differ.

18. Then We (Allah) set you upon a clear path of religion. So follow it but do not associate with the wishes of those who are ignorant.

19. Surely, they will avail you nothing against Allah. And certainly the cruels are the friends of one another. And the friend of the pious ones is only Allah.

20. This (Book) opens the eyes of the mankind and is a guidance and mercy for a nation who are firm in faith.

21. Do those who commit evil deeds think that We (Allah) shall make them

آساں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں اپنے ہم سے رکھ اس میں نشانیاں ہیں سوئے والوں کے لیے (13)

ایمان والوں سے فرماؤ: درگزر میں ان سے جو اللہ کے دلوں کی امید نہیں رکھے، تاکہ اللہ ایک قوم کو اس کی کمائی کا بدلہ دے (14)

جو بھلا کام کرے تو اپنے لیے اور بُرا کرے تو اپنے بُرے کو، پھر اپنے رب کی طرف پھیرے جاوے گا (15)

اور جیک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں ستمی روزیاں دیں، اور انہیں ان کے زمانہ والوں پر فضیلت بخشی (16)

اور ہم نے انہیں اس کام کی روشن دلیلیں دیں، تو انہوں نے اختلاف نہ کیا مگر بعد اس کے کہ علم ان کے پاس آپکا آپس کے حسد سے، جیک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں اختلاف کرتے ہیں (17)

پھر ہم نے اس کام کے عمدہ راستہ پر تمہیں کیا، تو اسی راہ چلو اور نادانوں کی خواہشوں کا ساتھ نہ دو (18)

بے شک وہ اللہ کے مقابل تمہیں کچھ کام

جَعَلْنَا آيَاتِنَا فِي ذٰلِكَ لِيَاذِّنَ الْقَوْمَ يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا عَفْوَ الَّذِيْنَ لَا يُرْجُونَ اٰيَاتِ اللّٰهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٤﴾

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلِمَا تُعْرٰى سَاءَ تَرْجَعُوْنَ ﴿١٥﴾

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِي اِسْرٰٓءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ وَوَرَقْنٰهُمْ مِنَ الطَّيْبِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾

وَاَتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوْا اِلَّا اَمْرًا بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَبِمَا بَيْنَهُمْ اٰيَاتِنَا لِيَقْضٰى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِمْا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٧﴾

فَجَعَلْنٰكَ عَلٰى سُرَّةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاَتَّبِعْهَُا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاَ الْاٰدِيْنَ لِيَعْلَمُوْنَ ﴿١٨﴾

اِنَّهُمْ لَنْ يَغْتَوٰا عَنكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَّاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَبَعْضُهُمْ اَوْلٰٓءُ بَعْضٍ وَّاللّٰهُ وٰلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩﴾

هٰذَا بَصٰٓرِلُ الْاٰتِمْتٰتِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُوقِنُوْنَ ﴿٢٠﴾

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا

نہ دیں گے، اور جیک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ڈر والوں کا دوست اللہ (19)

یہ لوگوں کی آنکھیں کھولنا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت (20)

کیا جنہوں نے بُرائیوں کا ارتکاب کیا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان جیسا کر دیں گے جو

equal to those who believe and act righteous. Is their life and their death equal? What an evil judgments they make?

SECTION 3

22. And Allah created the heavens and the earth with truth that every one may be awarded for his (her) earnings and they shall not be wronged.

23. Have you seen him (her) who has made his (her) desire to be his (her) god but Allah leaves him (her) to go on the wrong way despite his knowledge and sets a seal upon his (her) ears and his (her) heart and lays a covering on his (her) eyes. Who would guide him (her) except Allah. Do you not then heed?

24. And they say, "it is only our worldly life in which we die and we live and none destroys us but the time, and they have no knowledge of it. They merely conjecture.

25. And when Our (Allah's) clear Verses are recited to them, they have no argument except that they say, "bring back our fathers, if you are truthful".

26. Please declare (O beloved Prophet Muhammad S.A.W.), "only Allah gives life to you, then causes you to die, then He will gather you all on the Day of Resurrection, about which there is no doubt. But most of mankind does not know.

SECTION 4

27. And for Allah is the Kingdom of the heavens and the earth. And on the Day when the Hour shall be established, on that Day the liars will be the losers.

ایمان لائے اور اچھے کام کیے، کہ ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے، کیا ہی عجب بڑا لگاتے ہیں (21)

اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا، اور اس لیے کہ ہر جان اپنے کیے کا بدلہ پائے، اور ان پر ظلم نہ ہو گا (22)

بھلا دیکھو تو! وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا لیا، اور اللہ نے اسے باوصف علم کے گمراہ کیا، اور اس کے کان اور دل پر مرگہ دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا، تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے؟ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے (23)

اور بولے! وہ تو ہمیں نہیں مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی، مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ، اور انہیں اس کام کا علم نہیں، وہ تو زے گمان دوڑاتے ہیں (24)

اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں، تو بس ان کی جنت میں ہوتی ہے کہ کہتے ہیں، ہمارے باپ دادا کو لے آؤ تم آکر سچے ہو (25)

تم فرماؤ! اللہ تمہیں جلاتا (زندہ کرنا) ہے پھر تم کو مارے گا، پھر تم سب کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں لیکن بہت آدمی نہیں جانتے (26)

اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، اور جس دن قیامت قائم ہو گی، باطل والوں کی اس دن ہار ہے (27)

السَّيِّئَاتِ أَنْ يَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ

أَفْتُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سَوَاءٌ لِيُخَيَّرَهُمْ وَمِمَّا تَنَاهَى سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وَلَيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝۲۱

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَصْلَحَ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عَشْرَةَ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝۲۲

وَقَالُوا إِنَّمَا هِيَ إِلهَاتُنَا الذِّنْبَانِ مَا تَدْعُو وَخَيَّرُوا وَيَأْتِيهِمُ الْآلَاءُ الْكَافِرُونَ وَمَا لَهُمْ يَدُ الْيَوْمِ مِنْ عِلْمٍ أَنَّ هُمُ الْإِلَاطُونَ ۝۲۳

وَإِذَا تَلَّىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا تَبَيَّنَتْ مَا كَانُ جَحِيمُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّوَابْنَا يَا كَرِيمًا إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝۲۴

قَالَ اللَّهُ يُخَيِّرُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝۲۵

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُؤْمِنُونَ بِحُجَّتِ الْمُبْتَلُونَ ۝۲۷

28. And you shall see every Oommah (grand community) on their knees. Every Oommah (grand community) will be summoned to see their record. Today you shall be awarded according to your deeds.

29. This is Our (Allah's) Book which speaks truth against you. We (Allah) were recording whatever you did.

30. But those who believed and did righteous deeds, their Rubb (Sustainer) will admit them to His Mercy. This is the clear success.

31. And those who disbelieved, it will be said to them, "were not My Verses recited to you, but you were arrogant and you were criminal people.

32. "And when it was said, "surely, the promise of Allah is true and there is no doubt in the Hour", you used to say, "we do not know what the Hour is. We think it only as a conjecture and we do not have faith in it".

33. And the evil (consequences) of their deeds will become apparent to them and they will be encircled by the punishment that they mocked at.

34. And it will be said to them, "today We (Allah) forget you as you had forgotten the meeting of this day, and your destination is the fire and you have no helper.

35. That is a fact that you took the Verses of Allah in mockery and the present life of this world deceived you. Therefore, that day neither they will be taken out (from

اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے زانو کے بل گرے ہوئے ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج ہمیں تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا (28)

ہمارا یہ نوشتہ (لکھا ہوا) تم پر حق یوں ہے، ہم لکھتے رہے تھے جو تم نے کیا (29)

تو وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں لے گا، یہی کھلی کامیابی ہے (30)

اور جو کافر ہوئے ان سے فرمایا جائے گا کیا نہ تھا کہ میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تو تم تکبر کرتے، اور تم مجرم لوگ تھے (31)

اور جب کہا جاتا ہے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور قیامت میں شک نہیں، تم کہتے، ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے؟ ہمیں تو یونہی کچھ گمان سا ہوتا ہے، اور ہمیں یقین نہیں (32)

اور ان پر کھل گئیں ان کے کاموں کی بڑائیاں اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کی نبی بناتے تھے (33)

اور فرمایا جائے گا، آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے جسے تم اپنے اس دن کے نکلے کو بھولے ہوئے تھے، اور تمہارا ٹھکانا آگ ہے، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں (34)

یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا ٹھٹھا بنایا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں فریب دیا، تو آج نہ وہ آگ سے نکالے جائیں،

وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِئِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾

هَذَا كِتَابُنَا يُنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۗ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿٣٠﴾

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا سَاءَ مَا كَانُوا يَكُونُونَ ﴿٣١﴾

وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾

وَإِذْ أُوحِيَٰ لَنَا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا السَّاعَةَ ۖ وَأَرزَبَ فِيهَا كُنتُمْ مَّانِدِينَ ﴿٣٣﴾

وَمَا السَّاعَةُ إِلَّا نَظْنُ الْأَطْفَالِ ۗ وَمَا نَحْنُ بِمُستَقْبِرِينَ ﴿٣٤﴾

وَبَدَأَ لَهُمْ فِيهَا عَمَلُهُمْ وَأَوْحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٥﴾

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسِيتُمْ مِمَّا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۖ وَمَا كُنتُم تَأْتُرُونَ ۗ وَمَا لَكُم مِّن تَصْرِيحٍ ۗ ﴿٣٦﴾

ذِكْرُكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَعَرَضْتُمْ نَحْوَةَ الدُّنْيَا قَالِیَوْمَ لَا نُخْرِجُكُمْ مِنْهَا وَلَا لَكُمْ

the fire) nor any favour of Allah will be allowed to them.
36. All praise, belongs to Allah, the Rubb (Sustainer) of the heavens, the Rubb (Sustainer) of the earth and the Rubb (Sustainer) of the universe.
37. And for Him is the Greatness in the heavens and in the earth and He is the Honorable, the Wise.

PART-26

S. XLVI

SURA AL-AHQAAF

(THE SAND HILLS)

Revealed at Makkah

(35 Verses, 4 Sections)

Allah's Name, Who is the Most Affectionate, the Most Merciful.

SECTION 1

1. HAA - MEEEM (H.M.)
2. This book is revealed from Allah, the Honorable, the Wise.
3. We have not created the heavens and the earth and what is between them except with truth and for an appointed term. But the disbelievers turn away from that they were warned of.
4. Please declare, "do you see whom you worship besides Allah? Show me what particle of the earth they have created, or have they any share in the creation of the heavens? Bring me a book before this or anything of knowledge, if you are truthful.
5. And who is more on the wrong way than the one who worships besides Allah such ones who may not hear his (her) prayer till the Day of Resurrection and even they are unaware of such worship to them.

اور نہ ان سے کوئی ماننا ہے (35)
تو اللہ ہی کے لیے سب خوبیاں ہیں
آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، اور
سارے جہان کا رب (36)
اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور
زمین میں، اور وہی عزت و حکمت والا
ہے (37)

يَسْتَعْبِدُونَ ﴿٣٥﴾

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ
الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٦﴾
وَلَهُ الْكِبْرِيَاۗءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ
بِغِ الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٧﴾

سورہ احقاف کی ہے (اس میں) پینتیس
(35) آیتیں اور چار (4) رکوع ہیں (1)
(اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہمان
رہوالا)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾

یہ کتاب آمارتا ہے اللہ عزت و حکمت
والے کی طرف سے (2)

حٰمٓ ۙ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ
الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾

ہم نے نہ بنائے آسمان اور زمین اور جو
کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے
ساتھ، اور ایک مقرر مہاد پر اور کافر اس
چیز سے کہ ڈرائے گئے، نہ بھگرے ہیں
(3)

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّا۟ اُنزِلُوْا
مُعْرِضُوْنَ ﴿٣﴾

تم فرماؤ! بھلا بتاؤ تو! وہ جو تم اللہ کے سوا
پوٹتے ہو، مجھے دکھاؤ، انہوں نے زمین کا
کون سا ذرہ بنایا، یا آسمان میں ان کا کوئی
حصہ ہے، میرے پاس لاؤ! اس سے پہلے
کوئی کتاب یا کچھ بچا کچھ علم، اگر تم سچ
ہو (4)

قُلْ اَرٰى كَيْفَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ اُرُوْۤنِيْ مَاذَا خَلَقْتُمْ مِنَ الْاَرْضِ
اَمْ لَكُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ اَيُّ شَيْءٍ
يَكْتُمْنَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا اُو۟۟۟ اَنْزَلْنٰمْ
عِلْمًا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤﴾

اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کے
سوا ایسوں کو پوٹے، جو قیامت تک اس کی
نہ سنیں، اور انہیں ان کی پوجا کی خبر تک
نہیں (5)

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوۡا مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيْبُ لَهٗ اِلَّا يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دَعْوٰۤاهُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٥﴾

6. And when mankind shall be gathered, they shall be enemies to them (idols) and will deny their worship.

7. And when Our (Allah's) clear Verses are recited to them, the disbelievers say about the truth, when it reaches them, "this is a clear magic".

8. Or do they say, "he has concocted it". Please declare, "if I have concocted it, you have no power to help me against Allah. He knows well what you are stressing upon. And He suffices to be a Witness between me and you, and He is the most Forgiving, the most Merciful."

9. Please declare, "I am not new amongst the Rasools (Messengers) and I do not know what shall be done with me and with you. I only follow what is revealed to me. And I am not but a clear warner."

10. Please declare, "do you see that it (Qur'aan) is from Allah and you disbelieve it, while a witness from the children of Issraael testifies its similarity (to previous Scriptures) and believes, while you became arrogant. Surely, Allah does not guide the wrong doers.

SECTION 2

11. And the disbelievers said about believers (Muslims), "if it had been good, they would not have preceded ahead of us to come to it". And since they have not been guided thereby, therefore, they will say, "this is an old lie."

12. And before it there was the Book of Moosaa (Moses)

اور جب لوگوں کا حشر ہو گا وہ ان کے دشمن ہوں گے، اور ان سے مکر ہو جائیں گے (6)

اور جب ان پر پڑھی جائیں ہاری روش آتیں تو کافر اپنے پاس آئے ہوئے حق کو کہتے ہیں 'یہ کھلا جادو ہے' (7)

کیا کہتے ہیں 'انہوں نے اسے جی سے بنایا تم فرماؤ! اگر میں نے اسے جی سے بنایا ہو گا تو تم اللہ کے سامنے میرا کچھ اختیار نہیں رکھتے' وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو' اور وہ کالی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ' اور وہی بخشنے والا مہربان ہے (8)

تم فرماؤ! میں کوئی انوکھا رسول نہیں، اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا' اور تمہارے ساتھ کیا' میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے' اور میں نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا (9)

تم فرماؤ! بھلا دیکھو تو! اگر وہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو اور تم نے اس کا انکار کیا اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس پر گواہی دے چکا تو وہ ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا' بیگ اللہ راہ نہیں دیتا ظالموں کو (10)

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً
وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ①

وَإِذَا تَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا سَنُتَذَرُهُمْ
فَالَّذِينَ كَفَرُوا لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ
هَذَا إِسْحَاقُ يَوْمَئِذٍ ②

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ
فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ
أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ وَكَفَىٰ بِهِ
شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ③

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَاعِيَ الرُّسُلِ وَمَا
أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنِ
أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا
نَذِيرٌ مُّبِينٌ ④

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ رَبِّي
إِنَّمَا لَوْلَا عُنَىٰ رَبِّي وَأَمَّنَ وَ
اسْتَكْبَرْتَ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يُهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑤

اور کافروں نے مسلمانوں کو کہا اگر اس میں کچھ بھلائی ہوئی تو یہ ہم سے آگے اس تک نہ پہنچ جائے' اور جب انہیں اس کی حیات نہ ہوئی تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا بستان ہے (11)

اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے پیشوا

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا
لَوْ كُنَّا خَيْرًا لَّأَمْسَقْتُمُونَا الْيَهُودُ وَإِذْ
لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا
إِنْ كُنَّا قَدِيرِينَ ⑥

وَوَعَدَ قَبْلَهُ كَتَبَ مُوسَىٰ إِذَا مَا دَا

as a guide and mercy; and this Qur'aan is a confirming Book in Arabic language that it may warn the wrong doers, and be a good news for the righteous.

13. Surely, those who say, "our Rubb (Sustainer) is Allah, and then are steadfast by it. No fear shall be upon them nor shall they be grieved.

14. They are the inhabitants of Paradise, dwelling eternally therein as a reward of their deeds.

15. And We have enjoined human beings to do good to their parents. His (her) mother bears him (her) painfully (in womb) and gives birth to him (her) painfully. And his (her) bearing and weaning are in thirty months, till when he (she) reaches to strength of manhood and attains the age of forty years. He (she) says, "O my Rubb (Sustainer), grant me (power) that I may be thankful for Your blessing which You bestowed upon me and my parents, and that I may do righteous deeds which may please You. And make my children righteous for me. I turn towards you, and I submit (as Muslim)".

16. We (Allah) shall accept their good deeds and will overlook their evil deeds. They are among the dwellers of Paradise - under the true promise made to them.

17. But there is the one who says to his parents, "I am sorry for you both. Do you threaten me that I shall be brought forth again, whilst generations have already passed before me? And they

اور مہربان اور یہ کتاب ہے تعذیب فرمائی
عربی زبان میں کہ خالوں کو ڈر سنائے
اور نیکیوں کو بشارت (12)

بے شک وہ جنہوں نے کہا 'ہمارا رب اللہ
ہے' پھر ثابت قدم رہے، نہ ان پر خوف
نہ ان کو غم (13)

وہ جنت والے ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے
ان کے اعمال کا انعام (14)

اور ہم نے آدمی کو حکم کیا کہ اپنے ماں
باپ سے بھلائی کرے، اس کی ماں نے
اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے، اور جنی
اس کو تکلیف سے، اور اسے اٹھائے پھرنا
اور اس کا دودھ چھڑانا تیس مہینہ میں
ہے، یہاں تک کہ جب اپنے زور کو پہنچا
اور چالیس برس کا ہوا، عرض کی، اے
میرے رب! میرے دل میں ڈال کہ میں
تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور
میرے ماں باپ پر کی، اور میں وہ کام
کروں جو تجھے پسند آئے، اور میرے لیے
میری اولاد میں اصلاح رکھ، میں تیری
طرف رجوع لایا، اور میں مسلمان ہوں
(15)

یہ ہیں وہ جن کی نیکیاں ہم قبول فرمائیں
گے، اور ان کی تقصیروں سے درگزر
فرمائیں گے، جنت والوں میں سچا وعدہ جو
انہیں دیا جاتا تھا (16)

اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا
اف! تم سے دل بچ گیا، کیا مجھے یہ وعدہ
دیتے ہو کہ پھر زندہ کیا جاؤں گا، حالانکہ
مجھ سے پہلے ستمیں گزر چکیں، اور وہ

رَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانِ
عَرَبِيَّائِ الْبَنِيَّةِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا
بِشْرِيْ لِلْمُحْسِنِيْنَ ۝

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ
اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَّلَا
هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِيْنَ
فِيْهَا اَجْرًا لِّمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا
صَلٰتَكَ اُمَّةً لِّرُحْمٰٓةٍ وَّوَضَعْتَهُ كُرْهُا
وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا حَتّٰى
اِذَا بَلَغَ اَشَدَّهُ وَّبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً
قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ
اَسْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ
دُوْنِيْ اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ
الْمُسْلِمِيْنَ ۝

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ
اِحْسٰنًا فَاَعْمَلُوْا وَاَوْجِبُوْا رِضًا سِيْرًا
فِيْ اَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الْبَصِيْقُ
الَّذِيْ كَانُوْا يُوعَدُوْنَ ۝
وَالَّذِيْ قَالَ لُوٰلِيْدِيْهِ اَفْتِكُمْ
اَتَعِدُّنِيْ اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَّتْ

both cry to Allah for help, Woe to you. Better is that you believe, that surely, the promise of Allah is true. Then he (son) says, "this is nothing but the tales of the ancients".

18. These are they against whom the sentence (of Allah) has already become due, alongwith grand communities of jinns—and mankind had gone before them. Surely, they were the losers to perish.

19. And for everyone there is degree according to their own actions, and that Allah may pay them in full for their deeds, and they shall not be dealt unjustly.

20. And on the day when the disbelievers will be exposed to the fire, (it shall be said to them) "you had exhausted your good things in your worldly life and fully enjoyed them. Therefore, today you shall be awarded the degrading punishment, a punishment for that you were arrogant in the earth without justification and because you acted rebelliously.

SECTION 3

21. And make mention of Hood, the brother of Aad, when he warned his nation along the Ahkaf (sand hills). Certainly, many warners had already come before him and after him (saying) worship none except Allah". Surely, I fear for you the punishment of a mighty day.

22. They said, "have you come for this that you may turn us away from our gods"? "Bring us then that with which you threaten us, if you are truthful".

دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں، حیرت خرابی ہو، ایمان لا، بھگ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو کہتا ہے، یہ تو میں مگر انہوں کی کہانیاں (17)

یہ وہ ہیں جن پر بات ثابت ہو چکی ان گروہوں میں جو ان سے پہلے گزرے جن اور آدمی، بھگ وہ نیاں کار تھے (18)

اور ہر ایک کے لیے اپنے اپنے عمل کے درجے ہیں، اور تاکہ اللہ ان کے کام انہیں پورے پورے (19)

اور ان پر ظلم نہ ہو گا، اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے، ان سے فرمایا جائے گا، تم اپنے حصہ کی پاک چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں ناکر چکے، اور انہیں برت چکے، تو آج تمہیں ذلت کا عذاب بدلا دیا جائے گا، سزا اس کی کہ تم زمین میں باحق تکبر کرتے تھے، اور سزا اس کی کہ تم عدول کرتے تھے (20)

اور یاد کرو عاد کے ہم قوم کو، جب اس نے ان کو سرزمین احقاف (قوم عاد کے رہنے کی جگہ) میں ڈرایا، اور بے شک اس سے پہلے ڈرسانے والے مگر چکے اور اس کے بعد آئے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے (21)

بولے! کیا تم اس لئے آئے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو، تو ہم پر لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دیتے ہو، اگر تم سچے ہو (22)

الْقُرُونِ مِن قَبْلِي وَهُمْ لَا يَسْتَفِيدُونَ مِنْهُ لَوْلَا أَن وَعَدَ اللَّهُ حَقَّ تَقْوِيلٍ مَا هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ بَيِّنَاتٌ وَالْإِنسَانُ إِنَّهُم كَانُوا خٰسِرِينَ ۝

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَإِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لِيُظَلَّمُونَ ۝

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَهُمْ طَبِيبَاتٌ فِي حَبَابِكُمْ الَّذِينَ يَأْوِسْتُمْ بِيَأْتِيهِمُ الْيَوْمَ يَجْعَلُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كَانْتُمْ تَفْسُقُونَ ۝

وَأَذْكُرُ لَكُمْ آعَادٍ إِذْ أَنْذَرْتُمْ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ التَّنْذِرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

قَالُوا اجْعَلْنَا لِحَاظِنَا مِنَ الرَّحْمَنِ قَاتِلًا يَأْتِيَنَا بِمَا نَعْبُدُ وَإِنَّا لَكُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِينَ ۝

23. He said, "the knowledge thereof is only with Allah, and I only convey to you what I have been sent with. But I see that you are totally an ignorant nation."

24. Then, when they saw it (torment) like clouds coming towards their valleys, they said, "this is a cloud which will rain over us". No, rather it is that which you sought to hasten a wind storm wherein is a painful punishment;

25. which will destroy everything by the command of its Rubb (Sustainer). So in the morning there remained nothing to be seen except their deserted dwellings. Thus We (Allah) punish the criminal people.

26. And certainly, We (Allah) established them that We (Allah) did not establish you; and We (Allah) bestowed them ears and eyes and hearts. But neither their ears nor their eyes or their hearts availed them any thing, as they denied the Verses of Allah. So they were encircled (by the punishment) that they used to mock at.

SECTION 4

27. And certainly, We (Allah) destroyed the cities round about you and We (Allah) brought varying Verses to them so that they may turn to Us (Allah).

28. Why, then did those gods did not help them whom they had taken for worship instead of Allah. In fact they strayed away from them. That was result of their lies and concoctions.

29. Behold (O dear Prophet S.A.W.)! when We

اس نے فرمایا: اس کی خبر تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو تمہیں اپنے رب کے پیام پہنچاتا ہوں، ہاں! میری دانست میں تم نے جاہل لوگ ہو (23)

پھر جب انہوں نے عذاب کو دیکھا بادل کی طرح آسمان کے کنارے میں پھیلا ہوا ان کی دایوں کی طرف آتا ہونے! یہ بادل ہے کہ ہم پر برسے گا، بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم جلدی چاہتے تھے، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب (24)

ہر چیز کو تباہ کر ڈالتی ہے اپنے رب کے حکم سے، کہ صبح ہو گئے کہ نظر نہ آتے تھے، مگر ان کے سونے (برہان) مکان، ہم اسی ہی سزا دیتے ہیں مجرموں کو (25)

اور بے شک ہم نے انہیں وہ مقدور دیئے تھے جو تم کو نہ دیئے اور ان کے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے تو ان کے کان اور آنکھیں اور دل کچھ کام نہ آئے، جب کہ وہ اللہ کی آجوں کا انکار کرتے تھے، اور انہیں گمیر لیا اس عذاب نے جس کی ہنسی بناتے تھے (26)

اور بیگ ہم نے ہلاک کر دیں تمہارے آس پاس کی بستیوں اور طرح طرح کی نشانیاں لائے کہ وہ باز آئیں (27)

تو کیوں نہ مدد کی ان کی جن کو انہوں نے اللہ کے سوا قرب حاصل کرنے کو خدا ٹھہرا رکھا تھا، بلکہ وہ ان سے گم گئے اور یہ ان کا ہستان وافترا ہے (28)

اور جب کہ ہم نے تمہاری طرف تکتے

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا رَسُولُ اللَّهِ قَائِلٌ بِمَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَكُم مِّن قَوْمٍ تُجَاهِلُونَ ﴿٢٣﴾

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مِّمَّنْ طَرَأْنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾

تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا أَسْكَرُتِهِمْ لَذَلِكَ لَمْ يُحْزِرُوا الْقَوْمَ الْمَجْرُمِينَ ﴿٢٥﴾

وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا آتَيْنَاهُم مِّمَّا فِيهِنَّ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ قَوْمٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حولَكُم مِّن الْقُرَىٰ وَوَضَعْنَا لَهَا آيَاتٍ أَلَامَةً لِّئَلَّ يَعْرِفُونَ ﴿٢٧﴾

فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلَّ صَلَوَاتُ عَنْهُمْ وَذَلِكَ أَتَتْهُمْ وَمَا كَانُوا يُعْتَدُونَ ﴿٢٨﴾

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْعَجِزِ

(Allah) turned towards you a company of jinns, to listen the Qur'aan and when they came in presence (of its recitation) they said, "be silent." And when it (recitation) ended, they went back to their nation warning them.

30. They said, "O our nation, we have heard a Book, that has been revealed after Moosaa, (Moses) confirming the former (books) and guiding towards the truth and to the straight path.

31. O Our nation! respond to Allah's Sumner and believe in Him that He (Allah) may forgive some of your sins and save you from the painful punishment.

32. And whoso does not respond to Allah's Sumner, he (she) cannot frustrate Him in the earth and such one has no helper against Him. Such are in clear error.

33. Have they not known that Allah, Who created the heavens and the earth and was not tired while creating them, has the power to give life to the dead? Yea, surely, He has the power over everything.

34. And on the Day when the disbelievers shall be exposed before the fire it will be said to them, "is not this the truth"? They will say, "why not, it is so by our Rubb (Sustainer)". It will be said to them, "taste then the punishment as the award of your disbelief".

35. So be patient, as the determined Rasools (Messengers) were constant. And dont be in haste about them. On that day they will

جن پھرے کان لگا کر قرآن سننے پھر جب وہاں حاضر ہوئے، آپس میں بولے! خاموش رہو، پھر جب پڑھا ہو چکا، اپنی قوم کی طرف ڈر سناٹے پلے (29)

بولے! اے ہماری قوم! ہم نے ایک کتاب سنی کہ موسیٰ کے بعد اتاری گئی، اہل کتابوں کی تصدیق فرماتی تھی اور سیدھی راہ دکھاتی (30)

اے ہماری قوم! اللہ کے منادی کی بات مانو، اور اس پر ایمان لاؤ، کہ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے، اور تمہیں دردناک عذاب سے بچالے (31)

اور جو اللہ کے منادی کی بات نہ مانے، وہ زمین میں قابو سے نکل کر جانے والا نہیں، اور اللہ کے سامنے اس کا کوئی مددگار نہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہیں (32)

کیا انہوں نے نہ جانا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور ان کے بنانے میں نہ تھکا، قادر ہے کہ مرنے والے کو زندہ کرے، کیوں نہیں؟ بچک وہ سب کچھ کر سکتا ہے (33)

اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے، ان سے فرمایا جائے گا، کیا یہ حق نہیں، کیسے گے، کیوں نہیں؟ ہمارے رب کی قسم! فرمایا جائے گا، تو عذاب پکھو، بدلا اپنے کفر کا (34)

يَذَرُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٣٠﴾

قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣١﴾

يَقُولُونَ أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَالصَّوْءِ بِهِ يَعْزُبُ عَنْكُمْ مِمَّنْ دُونِكُمْ وَمِنْكُمْ وَمِنْ عَذَابِ إِلِيِّمْ ﴿٣٢﴾

وَمَنْ لَمْ يَجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ۗ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٣﴾

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَعْزُبْ عَنْهُمْ يَخْلُقُ مَنْ يَشَاءُ عَلَىٰ أَنْ يَشَاءَ ۗ أَلَمْ يَتَّقِ الْمَوْتِ بَلَىٰ ۗ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٤﴾

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ

يَهَانَتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾

فَأَصْبَحُوا صَابِرِينَ وَالْعَظِيمِ الرَّسُولِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ

see that the penalty which they were promised. It shall be as if they had not stayed in the world but for an hour of a single day. This (warning) is conveyed. Then who shall be destroyed, only the disobedient nation.

**[ONE FOURTH OF PART
26 ENDS]**

S XLVII

SURA MUHAMMAD

(THE HIGHLY PRAISED)

Revealed at Madinah

(38 Verses, 4 Sections)

Allah's Name, Who is the Most Affectionate, the Most Merciful.

SECTION 1

1. Those who disbelieve and hinder from the path of Allah, render their deeds in vain.

2. And those who believe and do the righteous deeds and believe in what has been revealed upon Muhammad (S.A.W.) which is the Truth from their Rubb (Sustainer) then He will remove their sins and make their conditions good.

3. This is because the disbelievers follow the falsehood and believers follow the truth from their Rubb (Sustainer). Thus Allah narrates to mankind the precedents of wisdom.

4. So when you encounter the disbelievers (in battle) strike at their necks, till when you have overcome them efficiently, then tie them fast, and afterwards release them, either by grace or for ransom, till the war lays down its burden (ends). This is so (low). And had Allah Willed, He would have punished them Himself but He tries

وہ جس دن دیکھیں گے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، دنیا میں نہ ٹھہرے تھے مگر دن کی ایک گھڑی بھر، یہ پہچانا ہے، تو کون ہلاک کیے جائیں گے، مگر بے حکم لوگ (35)

سورہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مدینہ میں نازل ہوئی (اس میں) اڑتیس (38) آیتیں، چار (4) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے عمل برباد کیے (1)

اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور اس پر ایمان لائے، جو محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) پر اتارا گیا، اور وہی ان کے رب کے پاس سے حق ہے، اللہ نے ان کی بُرائیاں اتار دیں، اور ان کی حالتیں سنوار دیں (2)

یہ اس لیے کہ کافر باطل کے پیرو ہوئے اور ایمان والوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے، اللہ لوگوں سے ان کے احوال یونسی بیان فرماتا ہے (3)

تو جب کافروں سے تمہارا سامنا ہو تو گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر لو، تو مضبوط ہاتھوں، پھر اس کے بعد چاہے احسان کر کے چھوڑ دو، چاہے فدیہ لے لو، یہاں تک کہ لڑائی اپنا بوجھ رکھ دے، بات یہ ہے اور اللہ جانتا تو آپ ہی ان سے بدلا لیتا، مگر اس لیے کہ

يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا
الْإِسْلَامَ قَبْلَ ذَلِكَ بَلْ كَانُوا
يَكْفُرُونَ ۝۱
۝۲
۝۳
۝۴
۝۵
۝۶
۝۷
۝۸
۝۹
۝۱۰
۝۱۱
۝۱۲
۝۱۳
۝۱۴
۝۱۵
۝۱۶
۝۱۷
۝۱۸
۝۱۹
۝۲۰
۝۲۱
۝۲۲
۝۲۳
۝۲۴
۝۲۵
۝۲۶
۝۲۷
۝۲۸
۝۲۹
۝۳۰
۝۳۱
۝۳۲
۝۳۳
۝۳۴
۝۳۵
۝۳۶
۝۳۷
۝۳۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝۱

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَأَمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ۝۲

ذَلِكَ يَأْتِي الَّذِينَ كَفَرُوا وَاتَّبَعُوا
الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا
الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ
اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ۝۳

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبِ
الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَنتَحَسَبْتُمْهُمْ
فَشُدُّوا أَلْوَابَهُمْ فَانصَابُ بَعْدُ
وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

you one against the other. And those who are killed in the way of Allah, He shall never render their deeds vain.

5. He will guide them and improve their conditions;

6. and will admit them to the Paradise that He has made known to them.

7. O believers! if you help the religion of Allah, Allah will help you and will make your feet firm.

8. But those who disbelieve, for them is the destruction and Allah will make their deeds vain.

9. This is because they hate what Allah has revealed, so He has made their deeds futile.

10. Have they not travelled in the land that they may see what was the end of those who were before them? Allah destroys them utterly and the disbelievers shall get the like thereof.

11. This is because Allah is the Protector of the believers (Muslims) but for the disbelievers there is no protector.

SECTION 2

12. Surely, Allah will make those who believe and do righteous deeds to enter the Paradise under which the streams flow; while the disbelievers subsist and eat as cattle eat, and the fire is their resort.

13. And how many a city that were stronger in might than your this city, which expelled you out, We (Allah) destroyed them and they had no helper.

14. Is he who stands upon a clear proof from his Rubb

تم میں ایک کو دوسرے سے جانچے اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، اللہ ہرگز ان کے عمل ضائع نہ فرمائے گا (4)

جلد انہیں راہ دے گا اور ان کا کام بنا دے گا (5)

اور انہیں جنت میں لے جائے گا، انہیں اس کی پہچان کرا دی ہے (6)

اے ایمان والو! اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمادے گا (7)

اور جنہوں نے کفر کیا، تو ان پر تباہی پڑے، اور اللہ ان کے اعمال برباد کرے (8)

یہ اس لیے کہ انہیں ناگوار ہوا جو اللہ نے انہیں دیا، تو اللہ نے ان کا کیا دھرا اکارت (ضائع) کیا (9)

تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے انہوں کا کیا انجام ہوا؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈالی اور ان کافروں کے لیے بھی دیکھتے ہی ہیں (10)

یہ اس لیے کہ مسلمانوں کا مولیٰ اللہ ہے اور کافروں کا کوئی مولیٰ نہیں (11)

بے شک اللہ داخل فرمائے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے جانوں میں جن کے نیچے نہریں رواں اور کافر برستے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھائیں اور آگ میں ان کا ٹھکانا ہے (12)

اور کتنے ہی شہر کہ اس شہر سے قوت میں زیادہ تھے جس نے تمہیں تمہارے شہر سے باہر کیا، ہم نے انہیں ہلاک فرمایا، تو ان کا کوئی مددگار نہیں (13)

تو کیا جو اپنے رب کی طرف سے روشن

تبع أوزارها ذلک، ولو يشاء الله لا اتصرونهم ولكن ليبسوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يقبل الله عنهم سيئاتهم ويصلح بالهمم ودد جملهم الجنة عرفها لهم ياتيا الذين امنوا ان تصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا اقتصمناهم واصل اعمالهم

ذالك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم اقلهم يسروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمرنا الله عليهم وللكافرين انشالها

ذالك بان الله صولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم ان الله يدخل الذين امنوا و عملوا الصالحات جنت تجرى من تحتها الانهار والذين كفروا يمتعون وياكلون كما تاكل الازعام والناسموى لهم

وكاين من قريه هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك اهلكتهم فلاناصروهم

انهم كان على بينة من ربهم

انهم كان على بينة من ربهم

انهم كان على بينة من ربهم

انهم كان على بينة من ربهم

انهم كان على بينة من ربهم

انهم كان على بينة من ربهم

انهم كان على بينة من ربهم

انهم كان على بينة من ربهم

انهم كان على بينة من ربهم

انهم كان على بينة من ربهم

انهم كان على بينة من ربهم

(Sustainer) like those whose evil deeds have been shown fair to them and they followed their evil intentions?

15. The description of the Paradise promised to the pious is that therein are rivers of such water which never stagnate; and rivers of milk of which the taste does not change, and rivers of drink of delightfulness; and the rivers of honey purified. And therein for them are every kind of fruit, and forgiveness from their Rubb (Sustainer). Can those enjoying such comforts be equal to those who are to remain for ever in the fire and are given to drink boiling water so that it may cut their bellies into pieces?

16. And among them are some who listen to you till when they go forth from before you saying to the men of learning, "what he has said just now"? These are they upon whose hearts Allah has set a seal and they follow their own evil inclination.

17. But those who have been guided, Allah adds to their guidance and bestows them their piety.

18. What they are then waiting for but the Hour that it should come upon them suddenly? The signs thereof have already come. But of what avail the admonition will be to them when it actually comes upon them?

19. Know that there is none worth worshipping except Allah and (O dear) ask forgiveness for the sins of yours (foregone near ones) and for the believers (Muslim), men and believer

دلیل پر ہو، اس جیسا ہو گا جس کے بُرے عمل اسے بدلے دکھائے گئے، اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے (14)

احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیز گاروں سے ہے، اس میں ایسی پانی کی نہریں ہیں جو کبھی نہ ٹھکے اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے، اور ایسی شد کی نہریں ہیں جو صاف کیا گیا، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں، اور اپنے رب کی منفرت، کیا ایسے چین والے ان کی برابر ہو جائیں گے، جنہیں ہمیشہ آگ میں رہنا اور انہیں کھولنا پانی پلایا جائے، کہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے (15)

اور ان میں سے بعض تمہارے ارشاد سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر جائیں، علم والوں سے کہتے ہیں، ابھی انہوں نے کیا فرمایا: یہ ہیں وہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی اور اپنی خواہشوں کے تابع ہوئے (16)

اور جنہوں نے راہ پائی، اللہ نے ان کی ہدایت اور زیادہ فرمائی، اور ان کی پرہیز گاری انہیں عطا فرمائی (17)

تو کاہے کے انتظار میں ہیں مگر قیامت کے کہ ان پر اچانک آ جائے، کہ اس کی علامتیں تو آ ہی چکی ہیں، پھر جب وہ آئے جائے گی، تو کہاں وہ، اور کہاں ان کا سمجھنا (18)

تو جان لو کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور اے محبوب! اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو! اور اللہ جانتا ہے

زَيْنَ لَهُ سَوْءَ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا
أَهْوَاءَهُمْ ⑩

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ
فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ
فِيهَا لَبَنٌ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ
فِيهَا خَيْرٌ لَذَّةٍ لِلشَّرَبِ لَمْ يَتَغَيَّرْ
وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا
مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا
مَاءً حَارًّا فَاقْطِعُ أَمْعَاءَهُمْ ⑪

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا
خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ
أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَيفَأُولَئِكَ
الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ
وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ⑫

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَ
أَسْبَغَتْ لَهُمْ نُورَهُمْ ⑬

فَقُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ
تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا
فَأَنى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذُكُرْتُمْ؟ ⑭

فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُوا
لِذُنُوبِكُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

women. And Allah knows your moving about and your taking the rest.

SECTION 3

20. And the believers (Muslims) say, "why not a Sura (Chapter of Holy Qur'aan) has been revealed about war? But when well defined Sura (Chapter) is revealed and therein fighting is ordained, you will see those in whose hearts is sickness staring at you with a look of a person fainting to see the shadow of death. So alas the woe is for them.

21. They should obey and speak good words. And when the matter is resolved, if they remain true to Allah, it would be better for them.

22. Do you then have the desire that if you get the authority, you would spread disorder in the land and sever your ties of relationship?

23. These are they whom Allah has cursed and made them deaf from the truth and made their eyes blind.

24. Do they yet not ponder over the Qur'aan, or there are locks on their hearts?

25. Surely, those who have turned on their backs, after the guidance has become clear to them, the satan (devil) has tempted them and given them false hopes.

26. That is because they said, to those who hate what Allah has revealed, "we shall obey you in some matter". And Allah knows their secrets.

27. How then shall it be, when the Angels will cause

دن کو شمارا بھرتا اور رات کو شمارا آرام لینا (19)

اور مسلمان کہتے ہیں کوئی سورت کیوں نہ آتاری مئی پھر جب کوئی پختہ سورت آتاری مئی اور اس میں جہاد کا حکم فرمایا گیا تو تم دیکھو گے انہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ تمہاری طرف اس کا دیکھنا دیکھتے ہیں جس پر مروئی چھائی ہو تو ان کے حق میں ہترے ہی تھا (20)

کہ فرماں برداری کرتے اور اچھی بات کہتے، پھر جب حکم ناطق ہو چکا تو اگر اللہ سے بچ رہے، تو ان کا بھلا تھا (21)

تو کیا تمہارے یہ پھمن نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے، تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو (22)

یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں (23)

تو کیا وہ قرآن کو سوچے نہیں؟ یا بیٹھے دلوں پر ان کے قفل لگے ہیں (24)

بے شک وہ جو اپنے پیچھے پلٹ گئے بعد اس کے کہ ہدایت ان پر کھل چکی تھی، شیطان نے انہیں فریب دیا اور انہیں دنیا میں مدھوں رہنے کی امید دلائی (25)

یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا، ان لوگوں سے جنہیں اللہ کا آثارا ہوا ناگوار ہے ایک کام میں ہم تمہاری مانیں گے اور اللہ ان کی بھیجی ہوئی جاتا ہے (26)

تو کیا وہ گا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے، ان کے منہ اور ان کی بیٹیٹیں

بُحَّ وَاللَّهِ يَعْلَمُ مَقَالِكُمْ وَمُنُوكُمْ ۝۱۱

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نَزَّلَتْ سُورَةٌ فَأَلْزَمْتَ فِيهَا الْحُكْمَ ۗ وَذَكَرْنَا الْقِتَالَ وَذَيْتُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُنظَرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ

طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَأَلْزَمْتَ الْأَمْرَ فَلَوْصَدَّقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۝۱۲

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۝۱۳

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ۝۱۴ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ۝۱۵

إِنَّ الَّذِينَ الرَّسَدُ أَعْلَىٰ أَدْبَارِهِمْ

مَنْ بَعْدَ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَىٰ لَهُمْ ۝۱۶

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا الَّذِينَ كَرِهُوا آفَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنَطِيعًا كُمْ فِي بَعْضِ الْأَقْمَرِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۝۱۷

كَلَيْفَ إِذَا تَوَلَّيْتُمْ الْمَلَائِكَةَ يُصْرَبُونَ

them to die, beating their faces and their backs?

28. That is because they follow what displeases Allah and is averse to His Pleasure. So He renders their deeds vain.

SECTION 4

29. Do those in whose hearts there is disease think that Allah will not bring to light their hatred?

30. And if We (Allah) Will, We (Allah) could show them to you so that you should recognize them by their faces and you shall certainly recognize them by the tone of their speech. And Allah knows your deeds.

31. And We (Allah) shall certainly test you until We (Allah) see those among you who struggle and are steadfast. And We (Allah) will make known the facts about you.

32. Surely, those who disbelieve and hinder others from the way of Allah and oppose the Rasool (Messenger of Allah) after the guidance becomes clear to them, they shall never harm Allah and He will make their works fruitless.

33. O believers! obey Allah, and obey His Rasool (Messenger) and let not your works go vain.

34. Surely, those who disbelieve and hinder from the way of Allah and then die as disbelievers, Allah shall never forgive them.

35. So be not slack but persue for peace for you will have upper hand as Allah is with you. He will never give

مارتے ہوئے (27)

یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے تابع ہوئے جس میں اللہ کی ناراضی ہے، اور اس کی خوشی انہیں گوارا نہ ہوئی، تو اس نے ان کے اعمال اکارت کر دیئے (28)

کیا جتنے دلوں میں بیماری ہے اس سمندر میں ہیں کہ اللہ ان کے چھپے بھر ظاہر نہ فرمائے گا (29)

اور اگر ہم چاہیں تو ہمیں ان کو دکھا دیں کہ تم ان کی صورت سے پہچان لو اور ضرور تم انہیں بات کے اسلوب میں پہچان لو گے، اور اللہ تمہارے عمل جانتا ہے

(30)

اور ضرور ہم تمہیں جانچیں گے یہاں تک کہ دیکھ لیں تمہارے جہاد کرنے والوں اور صابروں کو اور تمہاری خبریں آنا لیں

(31)

بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ ہدایت ان پر ظاہر ہو چکی تھی، وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچائیں گے، اور بہت جلد اللہ ان کا کیا وحررا اکارت کر

دے گا (32)

اے ایمان والو! اللہ کا حکم مانو! اور رسول کا حکم مانو! اور اپنے عمل باطل نہ کرو

(33)

بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، پھر کافر ہی مر گئے، تو اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا (34)

تو تم سستی نہ کرو اور آپ صلح کی طرف نہ بلاؤ، اور تم ہی غالب آؤ گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ ہرگز تمہارے

وَجُوهُهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴿۲۷﴾
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ
بَعْدَ وَكْرِهِهِمْ وَإِصْرًا لَّنَا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿۲۸﴾

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
أَنْ لَّنْ نَّخْبُرَهُمْ اللَّهُ أَعْضَاغَ نَهْمٍ ﴿۲۹﴾
وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ
بِسِيمَانِهِمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ
الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿۳۰﴾

وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ
مِنْكُمْ وَالصَّادِقِينَ وَيَلْمِزُوا أَجْبَابَكُمْ ﴿۳۱﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْصَدُوا عَن سَبِيلِ
اللَّهِ وَسَأَفَىٰ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرَّ وَاللَّهُ
شَهِيدٌ وَسَيَحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ﴿۳۲﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَبْطُلُوا
أَعْمَالَكُمْ ﴿۳۳﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْصَدُوا عَن
سَبِيلِ اللَّهِ فَتَمَّ مَأْوَاهُمْ فَكُفَّارٌ
فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿۳۴﴾
فَلَا تَبْتَغُوا سُبُلَ إِلَى السَّلَامِ وَ
أَنْتُمْ أَعْلَانُ لِلَّهِ مَعَكُمْ وَ

you loss in your deeds.

36. The present life is but a sport and diversion. And if you believe and be pious, He will give you your rewards, and will not ask you your wealth.

37. If He asks you for it and presses you, you would be miser, and the miserliness will bring to light the malice of your hearts.

38. Ha, you are those who are called upon to spend in the way of Allah. Then of you there are some who are miser, and whoso is miser is only miser to his soul. And Allah is Self-Sufficient, and you all are needy. And if you turn your face, He will substitute for you another nation and they will not be like you.

S. XLVIII SURA AL-FATH (THE VICTORY)

Revealed at Madinah
(29 Verses, 4 Sections)

Allah's Name, Who is the Most Affectionate, the Most Merciful.

SECTION 1

1. Surely, We (Allah) have granted you a clearly splendid victory;
2. That Allah may forgive the sins of your formers and of your later on account of you and may complete His favors upon you and may guide you to the straight path;
3. and give you honorable help.
4. It is He Who sends down satisfaction in the hearts of the believers so that they may add to their belief. And to Allah belong all the

اعمال میں تمہیں نقصان نہ دے گا (35)
دنیا کی زندگی تو یہی کھیل کود ہے اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو وہ تم کو تمہارے ثواب عطا فرمائے گا اور کچھ تم سے تمہارے مال نہ مانگے گا (36)

اگر انہیں تم سے طلب کرے اور زیادہ طلب کرے، تم بخل کرو گے اور وہ بخل تمہارے دلوں کے میل ظاہر کر دے گا (37)

ہاں! ہاں! یہ جو تم بلائے جاتے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان پر بخل کرتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج اور اگر تم منہ پھیرو تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل لے گا پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے (38)

سورہ فتح معنی ہے (اس میں) انیس (29) آیتیں اور چار (4) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

بے شک ہم نے تمہارے لیے روستن فتح فرمادی (1)

تاکہ اللہ تمہارے سب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور بچیلوں کے اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے اور تمہیں سیدھی راہ دکھائے (2)

اور اللہ تمہاری زبردست مدد فرمائے (3)
وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ انہیں یقین پر یقین بڑھے اور اللہ ہی کی ملک ہیں تمام

لَنْ يَبْرِكُمْ اَعْمَالَكُمْ ۝
اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۝
وَإِنْ تُوَفُّوْا وَتَشْكُرُوْا يُؤْتِكُمْ اَكْثَرَ ۝
وَلَا يُسْئَلُكُمْ اَمْوَالُكُمْ ۝
اِنْ كُنْتُمْ كٰفِرًا فَيَحْطَمْكُمْ يُتِمَّ تَلْوَاكُمْ ۝
وَيُخْرِجْكُمْ اَصْحٰنًا لَّكُمْ ۝
هَآءِنتُمْ هٰؤُلَاءِ لِمَنْ عٰوَنَ لَّبُّفِقُوْا ۝
فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَنْكَمْ مَنْ يَّجْعَلْ ۝
وَمَنْ يَّجْعَلْ فَاِنَّمَا يَجْعَلْ عَنْ نَفْسِهِ ۝
وَاللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْغَنِيُّ ۝
وَإِنْ تَوَلَّوْا اَلْبَسْتُمْ لِيَوْمِ الْاٰخِرَةِ ۝
لَكُمْ لَآ يَكُوْنُوْنَ اَمْثَالَكُمْ ۝

مَنْ يَّجْعَلْ مَثَلًا لِّمَنْ يَّجْعَلْ ۝
مَنْ يَّجْعَلْ مَثَلًا لِّمَنْ يَّجْعَلْ ۝
مَنْ يَّجْعَلْ مَثَلًا لِّمَنْ يَّجْعَلْ ۝

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ۝
لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ۝
ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ ۝
عَلَيْكَ وَيَهْدِيْكَ صِرٰطًا ۝
مُسْتَقِيْمًا ۝

وَيُبَصِّرْكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ۝
هُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ ۝
الْمُؤْمِنِيْنَ لِيُزَيِّدَهُمْ اِيْمَانًا مَّعَ ۝

multitudes of the heavens and the earth. And Allah is Knowing, Wise;

5. that He may cause the believing men and the believing women to enter the gardens underneath which streams flow, to reside therein acquitting them of their evils. And this is the great success in the Sight of Allah.

6. And that He may punish the hypocritical men and hypocritical women and the "muushrik" - pagan men and the "muushrik" - pagan women who have evil thoughts concerning Allah. On them is the evil fortune and wrath of Allah is on them. And He has cursed them and has prepared hell for them. And that is an evil destination.

7. And to Allah belong all the multitudes of the heavens and the earth. And Allah is Honorable, Wise.

8. Surely, We (Allah) have sent you as a Witness and a Bearer of good news and a Warner;

9. so that people should believe in Allah and His Rasool (Messenger) and honor him, and that you may glorify Him in the morning and in the evening.

10. Surely, those who swear allegiance to you, indeed swear allegiance to Allah. The Hand of Allah is over their hands; but who over their hands; but who breaks his oath, he breaks it to his own loss, and who fulfils the promise which he had made with Allah, then Allah shall soon give him (her) a great reward.

لکر آسمانوں اور زمین کے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے (4)

تاکہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو باغوں میں لے جائے، جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں، اور ان کی برائیاں ان سے آثار دے، اور یہ اللہ کے یہاں بڑی کامیابی ہے (5)

اور عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، جو اللہ پر برا گمان رکھتے ہیں انہیں پر ہے بڑی گردش، اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا، اور انہیں لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار فرمایا، اور وہ کیا ہی برا انجام ہے (6)

اور اللہ ہی کی ملک ہیں آسمانوں اور زمین کے سب لشکر، اور اللہ عزت و حکمت والا ہے (7)

بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناہر اور خوشی اور ڈر سنا تا (8)

تاکہ اے لوگو! تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو! اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو! (9)

وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو جس نے عہد توڑا اس نے اپنے برے کو عہد توڑا، اور جس نے پورا کیا، وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا، تو بہت جلد اللہ اسے بڑا ثواب دے گا (10)

إِنَّمَا لَهُمْ وَدِدَهُ جَنَّاتُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾
لِيَدْخُلَ الْجَنَّةَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
جَلَّتْ تَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَوْ يُفَرَّعْنَهُمْ سَيَرَاتِهِمْ
وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٥﴾

وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ
وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ
بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ
السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَوَعَدَ لَهُمْ
لَعْنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ
مَصِيرًا ﴿٦﴾

وَإِلَهُ جَنَّاتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٧﴾
إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا
وَنَذِيرًا ﴿٨﴾

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ
وَتُوَفِّرُوهُ وَتَكْفُرُوهُ بَكْرَةً وَآخِثًا ﴿٩﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ
اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ
كَلَّفَكَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ
أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيَهُ
عَاجِرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

SECTION 2

11. The desert Arabs (Badouins) who were left behind will say to you, "our properties and our families kept us busy". Therefore, you ask forgiveness for us"? They say with their tongues that which is not in their hearts. Please declare, "who has any prevailing power for you against Allah, if He desires to harm you or if He intends for you good." In fact, Allah is aware of your doings.

12. Indeed you thought that the Rasool (Messenger) and the believers (Muslims) would never return to their homes, and the same appeared to you fair in your hearts. But you conceived an evil thought, and you were a people to be ruined.

13. And whoso does not believe in Allah and His Rasool (Messenger), We (Allah) have surely prepared for such disbelievers a blazing fire.

14. And only Allah has the authority of the heavens and the earth. He forgives whom He Pleases and punishes whom He Pleases. And Allah is Forgiving, Merciful.

15. Then those who lagged behind, said, "when you go to take the spoils (war left outs), we also will follow you". They desire to change the words of Allai. Please declare, "you shall by no means follow us. Thus has Allah said before." Then they said, "no but you envy us". Not so. Rather, they do not understand except a little.

16. Please declare to the desert Arabs (Badouins) who lagged behind, "soon you

اب تم سے کہیں گے جو گنوار پیچھے رہ گئے تھے کہ ہمیں ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے جانے سے مشغول رکھا، اب حضور ہماری مغفرت چاہیں اپنی زبانوں سے "وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں" تم فرماؤ! تو اللہ کے سامنے کے ہمارے یہ اختیار ہے، اگر وہ ہمارا بڑا چاہے یا تمہاری بھلائی کا ارادہ فرمائے، بلکہ اللہ کو ہمارے کاموں کی خبر ہے (11)

بلکہ تم تو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ رسول اور مسلمان ہرگز گمراہوں کو واپس نہ آئیں گے، اور اسی کو اپنے دلوں میں بھلا سمجھے ہوئے تھے، اور تم نے بڑا گمان کیا، اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے (12)

اور جو ایمان نہ لائے اللہ اور اس کے رسول پر تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکی آگ تیار کر رکھی ہے (13)

اور اللہ ہی کے لئے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے (14)

اب کہیں گے پیچھے بیٹھ رہنے والے، جب تم غنیمتیں لینے چلو تو ہمیں بھی اپنے پیچھے آنے دو، وہ چاہتے ہیں اللہ کا کلام بدل دیں، تم فرماؤ! ہرگز تم ہمارے ساتھ نہ آؤ، اللہ نے پہلے سے یونہی فرما دیا ہے، تو اب کہیں گے، بلکہ تم ہم سے جلتے ہو، بلکہ وہ بات نہ سمجھتے تھے مگر تمہاری (15)

ان پیچھے رہ گئے ہوئے گنواروں سے فرماؤ! مغرب تم ایک سخت لڑائی والی قوم کی

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلَانَا فَاسْتَعْفِرْنَا فَيَقُولُونَ يَا سَنِيهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قَوْلٌ مِّنْ يَتَذَكَّرُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَمَادًا يَكْمُرُ فَلْيَفْعَلْ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١١﴾

بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَّنْ يَتَّقِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَآزْوَاجَهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿١٢﴾

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٣﴾
وَاللَّهُ يَتْلُوكَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا رَحِيْمًا ﴿١٤﴾

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذْ انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَعَانِمِ لِنَأْخُذْ وَهَادِرُونَ أَنَّا نَبِغُكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَبِيدُوا كَلِمَةَ اللَّهِ قُلْ لَنْ يَتَّبِعُونَكُم لِيَذَكَّرُوا أَنَّهُمْ قَدْ فُتِقُوا قُلُوبُهُمْ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسَدُ وَنَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾

قُلْ لِلَّهِ خَلْفَيْنِ مِنَ الْأَعْرَابِ

shall be summoned to fight against a people of mighty valour or they should surrender (become Muslims). Then, if you will obey, Allah will give you a good reward, but if you turn away as you turned away before, He will punish you with a painful punishment.

17. There is no binding on the blind and no binding on the lame, and nor there is binding on the sick. And whoso obeys Allah and His Rasool (Messenger), Allah will admit them into Paradise underneath which streams flow, but whoso will turn away, He will suffer a painful doom.

[ONE HALF OF PART 26 ENDS].

SECTION 3

18. Certainly, Allah was pleased with the believers when they were swearing allegiance to you under the tree (Byate - Ridhwan) (For Uthman the 3rd Caliph), and He knew what were in their hearts. So He sent down on them tranquillity and rewarded them with an expeditious victory (of Sulh Haudybia - the great Agreement near Makkah in 6th A.H.).

19. Big left outs were captured by them. And Allah is Honorable, Wise.

20. And Allah promised you abundant left outs (War spoils) that you captured. He gave you the same immediately and restrained the hands of men from you that it may be a definite proof to the believers and that He may guide you on a straight path;

مرف بلائے جاوے کہ ان سے لڑو یا وہ مسلمان ہو جائیں پھر اگر تم فرمان مانو گے، اللہ تمہیں اچھا ثواب دے گا، اور اگر پھر جاؤ گے، جیسے پہلے پھر گے، تو تمہیں دردناک عذاب دے گا (16)

اندھے پر تکلی نہیں، اور نہ لنگڑے پر مضائقہ، اور نہ بیمار پر مواخذہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں، اور جو پھر جائے گا اسے دردناک عذاب فرمائے گا (17)

سَتَدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ بَابٍ شَدِيدٍ
تَقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ فَإِنْ لَطِيعُوا
يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَوَلَّوْا
كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا

الْبِئْسَاءُ ﴿١٦﴾

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى
الْعُرْجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرْيُومِ
حَرَجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يَعدِّبْهُ اللَّهُ عَذَابًا

الْبِئْسَاءُ ﴿١٧﴾

بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس بیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے، تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے، تو ان پر اطمینان آمارا، اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا (18)

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ
يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ
مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ
وَأَنَابَهُمْ فَتَحَّاقَدِ يَبَايَعُ ﴿١٨﴾

اور بہت سی غنیمتیں جن کو لیں، اور اللہ عزت و حکمت والا ہے (19)

اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت سی غنیمتوں کا کہ تم لوگے تو تمہیں یہ جلد عطا فرما دی، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اس لئے کہ ایمان والوں کے لئے نشانی ہو، اور تمہیں سیدھی راہ دکھائے (20)

وَمَعَانِمْ كَثِيرَةً يُأْخِذُ وَنَهَابًا وَكَانَ
اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٩﴾

وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَعَانِمْ كَثِيرَةً
تَأْخِذُ وَنَهَابًا فَجَعَلَ لَكُمْ هُدًى وَكَفَّ
يَدِي النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً
لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا
مُسْتَقِيمًا ﴿٢٠﴾

21. and the other (victory benefits) which you had not obtained are with Allah. And Allah has full power over everything.

22. Had the disbelievers fought they would certainly have turned back. They would neither have any supporter nor helper.

23. This is the law of Allah being practised from before, and you shall never find the law of Allah changing.

24. And it is He Who restrained their hands from you and restrained your hands from them in the valley of Makkah after He had given you victory over them (the famous conquest of the Holy city of Makkah). And Allah Sees your deeds.

25. They are the ones who disbelieved and hindered you from Masjid-ul-Haram (Sacred Mosque), and the offering (sacrificial animals) were detained from reaching their place of sacrifice. And if it had not been for certain believing men and women, whom you knew not, you might have trampled them, and there would have fallen on you a harm for that, unknowingly. Allah admits into His Mercy whom He Wills. And had they been separated, We (Allah) would have punished the disbelievers among them with a grievous punishment.

26. When the disbelievers fostered in their hearts a sense of honor, of the days of pagan ignorance, Allah sent down His tranquillity of self-restraint on His Rasool (Messenger) and on the believers and made

اور ایک اور جو تمہارے مل کی نہ تھی وہ اللہ کے قبضہ میں ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے (21)

اور اگر کافر تم سے لڑیں تو ضرور تمہارے مقابلہ سے پینے پھیر دیں گے پھر کوئی حمایت نہ پائیں گے نہ مددگار (22)

اللہ کا دستور ہے کہ پہلے سے چلا آتا ہے اور ہرگز تم اللہ کا دستور بدلنا نہ پاؤ گے (23)

اور وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیئے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیئے، واوی مکہ میں بعد اس کے کہ تمہیں ان پر قابو دے دیا تھا اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے (24)

وہ ہیں جنہوں نے مکہ کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانور رکے

پڑے اپنی جگہ پہنچنے سے اور اگر یہ نہ ہوتا کچھ مسلمان مرد اور کچھ مسلمان عورتیں جن کی تمہیں خبر نہیں، کسیں تم انہیں روند ڈالو! تو تمہیں ان کی طرف سے اہمالی میں کوئی کمرہ پہنچے تو ہم تمہیں ان کے قتل کی اجازت دیتے ان کا یہ پھاؤ اس لئے ہے کہ اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے جسے چاہے، اگر وہ جدا ہو جاتے تو ہم ضرور ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب دیتے (25)

جبکہ کافروں نے اپنے دلوں میں آڑ رکھی وہی زمانہ جاہلیت کی آڑ، تو اللہ نے اپنا اطمینان اپنے رسول اور ایمان والوں پر اٹارا اور پرہیزگاری کا کلہ ان پر لازم

وَأَخْرَى لَهُمُ تَقْدِيرًا وَعَيْنِيَا قَدْحًا حَلًا
اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأُيُودُ بِطَغْوَىٰ جَدُونَ وَيُنَادُوا نُصَيْرًا ۝

سُئِلَ اللَّهُ الْبُحَىٰ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلُ
وَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ
أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ
بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ
اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْلُوفًا
أَنْ يَبْتَلَّ جِلَّةً وَلَوْ لَا رَجُلٌ
مُؤْمِنُونَ وَرِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَكُمْ
تَعْلَمُوهُنَّ هُوَ ان تَطَّوَّهُمْ فِتْنَتِكُمْ
مِنْهُمْ مَعْرَةً بغير علم لِيُدْخِلَ اللَّهُ
فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوَلَّوْا الْعَذَابَ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

أَدْجَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ
الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ
اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى

incumbent on them the righteousness to which they had a better right and were worthy of it. And definitely Allah Knows everything.

SECTION 4

27. Certainly, Allah fulfilled the true vision of His Rasool (Messenger). You certainly, entered the Masjid-ul-Haram (Sacred Mosque), as Allah Willed, in security, having your heads shaved or hair cut - short without any fear. But He knew what you did not know so He appointed apart from that a near victory at hand (the highest value conquest of Makkah city in 8th year After Hijra, without shedding a drop of blood. This is the only big conquest in human history without bout or any fight and with complete tranquillity).

28. It is He Who has sent His Rasool (Messenger) with guidance and the religion of truth that he may make it to prevail over all other religions. And Allah suffices as a Witness.

29. Mohammad (S. A. W.) is the Rasool (Messenger) of Allah and those with him are severe against the disbelievers but compassionately tender among themselves. You will see them bowing and prostrating themselves (in Muslim Prayer) seeking Grace of Allah and His Pleasure. They have fine marks on their faces as the traces of prostrations. This description of theirs is in the Taurait (Tourah) and their this description is also in the Injeel (Bible - Gospel) as a cultivated seed that puts forth its shoots, then strengthens

فرمایا اور وہ اس کے زیادہ سزاوار اور اس کے اہل تھے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے (26)

ہے شک اللہ نے سچ کر دیا اپنے رسول کا سچا خواب، بیشک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہو گے اگر اللہ چاہے امن و امان سے، اپنے سروں کے بال منڈاتے یا ترشواتے بے خوف، تو اس نے جانا جو تمہیں معلوم نہیں، تو اس سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی (27)

وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ نبیجا کر اسے سب دینوں پر غالب کرے، اور اللہ کافی ہے گواہ (28)

محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے، ان کی علامت ان کے چروں میں ہے، سجدوں کے نشان سے، یہ ان کی صفت توریت میں ہے، اور ان کی صفت انجیل میں ہے، جیسے ایک کھیت، اس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اسے طاقت دی، پھر دیز ہوئی، پھر اپنی ساق پر سیدھی کھڑی ہوئی،

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَلِمَةَ التَّقْوَى
وَكَانُوا أَهْلِهَا وَأَهْلِهَا وَكَانَ اللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٦﴾

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ بِالْهُدَى
وَالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
إِنْ شَاءَ اللَّهُ آوِينَ مَحَلِّقِينَ
رُءُوسِكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ
فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ
دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى
وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
كُلِّهِ وَلَفِي يَدِ اللَّهِ سَيْدٌ ﴿٢٨﴾

فَعَدَّ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ
أَشِدَّاءَ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمًا بَيْنَهُمْ
تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا
مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي
وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ
مِثْلَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمِثْلَهُمْ فِي
الْإِنْجِيلِ كَذَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ
فَأَذْرَةً فَأَسْغَلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى

then it becomes stout, then rises straight upon the stem, pleasing the cultivators that through them He may cause hearts of the disbelievers to burn in dismay. Allah has promised to those of them who believe and do righteous deeds, forgiveness and a great reward.

S. XLIX

SURA AL-HOOJORAT (THE APARTMENTS)

Revealed at Madinah

(18 Verses, 4 Sections)

Allah's Name, Who is the Most Affectionate, the Most Merciful.

SECTION 1

1. O believers! do not commit any excess before Allah and His Rasool (Messenger) and fear Allah. Surely, Allah Hears, Knows.

2. O believers! donot raise your voices above the voice of Nabi (Prophet Muhammad) and do not speak aloud in his presence as you speak aloud to one another, lest your deeds become vain while you are unaware.

3. Surely, those who lower down their voices in the presence of the Rasool (Messenger) of Allah, are the ones whose hearts Allah has tested for piety. For them is forgiveness and great reward.

4. Surely, many of those who call you out from behind your private apartments, have no understanding.

5. And if they had patience, until you (Muhammad S. A. W.) yourself came out to them that would have been better for them. And Allah is Forgiving, Merciful.

کسانوں کو بھلی لگتی ہے، تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں، اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ایمان اور اچھے کاموں والے ہیں، بخش اور بڑے ثواب کا (29)

سورۃ الحجرات منیٰ ہے (اس میں) اٹھارہ (18) آیتیں اور دو (2) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا
اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو! اور اللہ سے ڈرو! بیشک اللہ سنتا جاتا ہے (1)

اے ایمان والو! اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، اس غیب بتانے والے (نبی) کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں، اور تمہیں خبر نہ ہو (2)

بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے (3)

بیشک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں اکثر بے عقل ہیں (4)

اور اگر وہ صبر کرتے، یہاں تک کہ تم آپ ان کے پاس تشریف لاتے، تو یہ ان کے لئے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے (5)

سُوْرَةُ الْحَجْرَاتِ الرَّزَّازِ الرَّزَّازِ لِيُؤْتِيَهُمْ بِهِمْ الْكَفَّارُ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

السُّورَةُ الْحَجْرَاتِ الرَّزَّازِ الرَّزَّازِ لِيُؤْتِيَهُمْ بِهِمْ الْكَفَّارُ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدْ مُوا
بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَانفَعُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا
أصْوَابَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا
تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ
لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ
لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾

إِنَّ الَّذِينَ يُفَضِّلُونَ أَصْوَابَهُمْ
عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى إِنَّهُمْ
مَغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَكَ مِنْ خَلْفِكَ
وَأَنْتُمْ لَمْ تَخْرُجْ إِلَيْهِمْ
لَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴿٤﴾

6. O believers! if any disobedient comes to you with any news make a strict enquiry lest you may punish any people in ignorance. Then later on remain regretful on what you may have done.

اسے ایمان والو! اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے، تو تحقیق کرو کہ کہیں کسی قسم کو بے جا نہ دے غیو پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ (6)

7 And know that the Rasool (Messenger) of Allah is among you. If he were to do according to your liking in much of the affairs you would surely, have been in trouble. But Allah has made the faith dear to you and has made it look beautiful to your hearts. And He has made disbelief and wickedness and disobedience hateful to you. Such are the right minded people;

اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں بہت معاملوں میں اگر یہ تمہاری خوش کریں، تو تم ضرور مشقت میں پڑو، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے، اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، اور کفر اور حکم عدول اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی، ایسے ہی لوگ راہ پر ہیں (7)

8. by such grace and favour of Allah. And Allah is Knowing, Wise.

اللہ کا فضل اور احسان، اور اللہ علم و حکمت والا ہے (8)

9. And if two groups of the believers (Muslims) fight each other, then make peace between them. But if one of them commits excessiveness against the other, then fight the one that has committed excessiveness till they revert to Command of Allah. Then if they revert decide between them in equity and do the justice impartially. Surely, Allah loves the just ones.

اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں، تو ان میں صلح کراؤ! پھر اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے، تو اس زیادتی والے سے لڑو! یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر پلٹ آئے، تو انصاف کے ساتھ ان میں اصلاح کرو! اور عدل کرو! بے شک عدل والے اللہ کو پیارے ہیں (9)

10. Surely, all the believers (Muslims) are brothers. Therefore, make peace between brothers and fear Allah that mercy may be bestowed to you.

مسلمان مسلمان بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو، اور اللہ سے ڈرو! کہ تم پر رحمت ہو (10)

[THREE FOURTH OF PART 26 ENDS] SECTION 2

11. O believers! let not the one nation cut any joke of the other nation. Perhaps they may be better than them

اسے ایمان والو! نہ مرد مردوں سے نہیں، مجب نہیں کہ وہ ہنسنے والوں سے بہتر ہوں،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

وَاعْلَمُوا أَن فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأُمْرِ لَعَزَمْتُم وَلَكِنِ اللَّهُ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَذَيِّنَةً فِي قُلُوبِكُمْ وَكَذَّابًا إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْأَعْيَابَ إِنَّ أَوْلَىٰ لِكُمْ هُمُ الرِّشْدُونَ ﴿٧﴾

فَضَلَّاهُم بِاللَّهِ وَرِعْمَةً مِّنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ حِكْمَةٌ بَاطِنَةٌ

وَإِن طَافْتُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ائْتَمْتُمُوهُمُ فَإِذَا صُحِبُوا بِإِثْمِهِمْ فَأِن بَغْتًا أَحَدٌ لَّهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّى تَفِيءَ

إِلَىٰ أَمْرٍ أَلَّهُ فَإِن قَاءَتْ فَاصْتَبُوا بِعِدَّتِهَا بِالْعَدْلِ وَأَقْرَبُوا إِلَهُ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْخَرُوا قَوْمًا مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا

(who joke). And the women should not joke other women. Perhaps they may be better than them (women who joke). And neither find faults in one another nor call one another by nick-names. What a bad thing it is, to be called a disobedient after believing. And those who do not repent, they are the cruels.

12. O believers! avoid most of suspicions. Surely, some suspicions are sins. And do not spy and do not backbite one another. Would any of you like to eat the flesh of his dead brother? Certainly you would hate it. And fear Allah, surely Allah is Forgiving, Merciful.

13. O mankind! We (Allah) created you from one male and one female and distributed you in communities and tribes that you may recognize each other. Surely, the noblest among you in the Sight of Allah is he who is more pious. Surely, Allah is Knowing, Aware.

14. The desert Arabs (the Badouins) said, "we have belief" Please declare, "you do not believe." You better say, "we submit." for belief has not yet entered your hearts. However, if you obey Allah and His Rasool (Messenger). He will not diminish anything of your (pious) deeds." Surely, Allah is Forgiving, Merciful.

15. The believers are only those who believe in Allah and His Rasool (Messenger) and then have no doubt and struggle with their possession and their persons in the way of Allah. They are the truthful ones.

اور نہ عورتیں عورتوں سے 'دور نہیں کر وہ ان ہنسنے والیوں سے بچ رہیں' اور آپس میں طعن نہ کرو' اور ایک دوسرے کے بڑے نام نہ رکھو' کیا ہی بڑا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کلمانا' اور جو توبہ نہ کریں' تو وہی ظالم ہیں (11)

اے ایمان والو! بت گمانوں سے بچو! بیگ کسی گمان گناہ ہو جاتا ہے' اور عیب نہ ڈھونڈو' اور ایک دوسرے کی نیت نہ کرو' کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے سرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ حمیس گوارا نہ ہو گا' اور اللہ سے ڈرو! بیگ اللہ بت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے (12)

اے لوگو! ہم نے حمیس ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا' اور حمیس شاخیں اور قبیلے کیا' کہ آپس میں پہچان رکھو! بیگ اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے' بیگ اللہ جاننے والا خبردار ہے (13)

گنوار بولے! ہم ایمان لائے' تم فرماؤ! تم ایمان تو نہ لائے' ہاں! یوں کہو' کہ ہم مطیع ہوئے' اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا؟ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمائنداری کرو گے' تو تمہارے کسی عمل کا حمیس نقصان نہ دے گا' بیگ اللہ بخشنے والا مہربان ہے (14)

ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے' پھر شک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا' وہی سچے ہیں (15)

وَتَنَّهُمْ وَلَا تَنَاهَا مَنْ يَنْهَى عَنْهُ
أَنْ يَكُونَ خَيْرًا فَمَنْ نَهَى عَنْهُ
وَلَا تَلْمِزُوا
أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِاللِّقَابِ
بِئْسَ الْأَسْمَاءُ الَّتِي نُسِبَتْ
بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْجَبِينُوا لَيْسَ
بِمِنَ الظَّنِّ أَنْ بَعْضُ الظَّنِّ إِثْمٌ
وَلَا تَحْسَبُوا
وَلَا يَغْتَابُ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ
لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا

اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ﴿١٥﴾
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ
ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَأَقْبَابَ

كِبَالٍ لِتَعَارَفُوا إِنَّ الْأَكْرَمَ عِنْدَ
اللَّهِ الْأَتْقَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
قَالَتِ الْأَعْرَابُ لَمَّا قُلْنَا لَمْ تَكُونُوا
وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ
الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ طَئِفَةٌ
أَخَذَتِ مِنْكُمْ مَتَاعًا فَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ
شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجْهًا
وَأَمْرًا إِلَهُمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ ﴿١٥﴾

16. Please declare, "do you teach Allah what is your religion? And Allah knows whatever is in the heavens and whatever is in the earth. And Allah knows everything.

17. (O beloved Prophet) they count it as a favor to you that they have embraced Islam. Please declare, "do not count your embracing Islam as a favor to me. Rather Allah has conferred a favour upon you in that He has guided you to belief (in Islam) if you are truthful.

18. Surely, Allah knows the secrets of the heavens and of the earth, and Allah Sees all your deeds.

S. L

SURA QAAAF (THE POSSESSORS OF POWER)

Revealed at Makkah
(18 Verses, 4 Sections)

Allah's Name, Who is the Most Affectionate, the Most Merciful.

SECTION 1

1. Qaaaf. I call to witness the glorious Qur'aan (you are a great Messenger).

2. But they wondered that a warner has come to them from among themselves. And the disbelievers say, "this is a strange thing".

3. What! When we are dead and become dust (we will be raised again to life)? That return is far (not possible).

4. We know what the earth diminishes for them; and with Us (Allah) is a preserving Book.

5. But they have falsified the truth when it came to them, so they are in a state of confusion.

تم فرماؤ! کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے (16)

اے محبوب! وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، تم فرماؤ! اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو! بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت کی، اگر تم سچے ہو (17)

بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے سب غیب اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے (18)

سورہ ق کی ہے (اس میں) پینتالیس (47) آیتیں اور تین (3) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

قُلْ اَتَعْلَمُونَ اللّٰهَ بِدِيْنِكُمْ وَاللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۶﴾

يَعْتَبُونَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمْتَ وَاَقُلُّ لَكَ تَمَتُّوْا عَلٰى اِسْلَامِكُمْ بِئِلّٰهٍ مِّنْ عِنْدِكُمْ اَنْ هٰذِكُمْ لِلرِّمٰنِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۷﴾

اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ بِبَصِيْرٍ ﴿۱۸﴾

سورہ ق کی ہے (اس میں) پینتالیس (47) آیتیں اور تین (3) رکوع (ہیں)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿۱﴾

ق ۵۰ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ ﴿۱﴾

بَلْ يَحْتَبِوْنَ اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ ۗ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا نَسِيْ حَفِيْظٌ ﴿۲﴾ اِذْ اَمْتَنَّا وَكُنَّا تَرٰبًا ۗ ذٰلِكَ تَرٰجِعٌۭ بِعِيْدٍ ۙ

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۗ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ﴿۳﴾

بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَمَنْ فِيْ اٰمْرِمْ رٰبِحٌ ﴿۴﴾

6. Have they not looked at the sky above them? How We (Allah) have built it and adorned it and that there is no flaw therein?

7. And the earth - We (Allah) have spread it out, and placed there in firm mountains and made to grow therein every kind of beautiful species;

8. for an insight and understanding for every penitent devotee.

9. And We (Allah) send down from the sky water as a blessing and make to grow thereby gardens and the grain that is harvested;

10. and tall date-palm trees having compact spathes pile on pile;

11. as a provision for devotees. And We (Allah) thereby revive the dead land. In similar way you will come out from the graves.

12. The nation of Nuuh (Noah) and the people of Rass and Samood (Thamud) rejected the truth before you;

13. and the Aad, Firawn (Pharaoh) and the brothers of Luut;

14. and the dwellers of wood and the people of Tubba. Every one of them took the Rassoos (Messengers) as liars so the promise of My punishment hefell on them.

15. What? Were We (Allah) exhausted by the first creation? But they are in doubt even regarding the new creation.

SECTION 2

16. And certainly We (Allah) have created human being and We (Allah) know what his (her) self whispers

تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہ دیکھا ہم نے اسے کیا بنایا اور ستارا اور اس میں کسیں رخنہ نہیں (6)

اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں لکر ڈالے اور اس میں ہر باروتی جوڑا اگیا (7)

سوچو اور سمجھو ہر رجوع والے بندے کے لیے (8)

اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا تو اس سے باغ اگائے اور اناج کہ کاٹا جاتا ہے (9)

اور سمجھو کے لیے درخت جن کا پکا گامبا (10)

بندوں کی روزی کے لیے اور ہم نے اس سے مردہ شہر جلایا یونسی قبروں سے تمہارا لکنا ہے (11)

ان سے پہلے جھٹلایا نوح کی قوم اور رس والوں اور ثمود (12)

اور عاد اور فرعون اور لوط کے ہم قوموں (13)

اور بنی والوں اور تیج کی قوم نے ان میں ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا (14)

تو کیا ہم پہلی بار بنا کر تھک گئے بلکہ وہ نئے بننے سے شبہ میں ہیں (15)

أَلَمْ نَنْظُرْ إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ
كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَرَمَيْنَاهَا وَمَا لَهَا
مِنْ فَوْجٍ ۝

وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْلَانَ ذُؤَابِقٍ

وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝

تَوَصُّوهُ وَذُكِّرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا

فَأَنْبَتْنَا بِهِ جِبْتًا وَحَبَّ الثَّمِينِ ۝

وَالنَّخْلَ بِسِقِّهَا طَلْحًا لِيضْحِكُوا

رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا

كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ۝

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ

الرَّسِّ وَثَمُودُ ۝

وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطَ ۝

وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۝

كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدُ ۝

أَفَعَيِينَا بِخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ

فِي لُبْسٍ مِن خَلْقٍ حَدِيدٍ ۝

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُمْ

اور بیگ ہم نے آدمی کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو سوسہ اس کا لیس ڈالنا ہے

within him (her), and We (Allah) are nearer to him (her) than even his (her) life vein jugular.

17. The two Recorders (Angels), one sitting on right and the other at left (of human beings) record the deeds.

18. Not a word is uttered but there is an observer ready with everyone to record it.

19. And there comes the choking moment of death with truth. This is from which you were trying to escape.

20. And the Trumpet shall be blown. This is the Day of the promised punishment.

21. And every self shall come out being driven along with a witness

22. Certainly, you were heedless of this. Therefore, We (Allah) remove from you the covering. So today your sight is sharp.

23. And his (her) companion (Angel) will say, "this (account) is ready with me".

24. It will be commanded, "cast into the hell every ungrateful;

25. forbiddler of the good, transgressor of limits and the sceptic doubter;

26. who had set up other gods with Allah. So cast him (her) into the severe punishment."

27. His associate (god) will say, "Our Sustainer (Rubb) I did not cause him (her) to rebel but he (she) himself (herself) was in a great error".

28. (Allah) will say, "do not quarrel before Me! for I had already warned you of the punishment".

اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہیں (16)

جب اس سے لیتے ہیں وہ لینے والے ایک دماغے بیٹھا اور ایک بائیں (17)

کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو (18)

اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا (19)

اور صور پھونکا گیا یہ ہے وعدہ عذاب کا دن (20)

اور ہر جان یوں حاضر ہوئی کہ اس کے ساتھ ایک ہانکے والا اور ایک گواہ (21)

بیکہ تو اس سے غفلت میں تھا تو ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھایا تو آج تیری نگاہ تیز ہے (22)

اور اس کا ہم دشمن فرشتہ بولا! یہ ہے جو میرے پاس حاضر ہے (23)

حکم ہو گا تم دونوں جہنم میں ڈال دو، ہر بڑے ناشکرے ہٹ دھرم کو (24)

جو بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا (25)

جس نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ٹھہرایا تو تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈالو (26)

اس کے ساتھی شیطان نے کہا اے ہمارے رب میں نے اسے سرکش نہ کیا ہاں! یہ آپ ہی دور کی گمراہی میں تھا (27)

فرماتے گا: میرے پاس نہ جھگڑو میں تمہیں پہلے ہی عذاب کا ڈر سنا چکا تھا (28)

تَوَسُّوسٍ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ
الْبَيْدِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾
أَذِيئَلْتَلْقَى الْمُتَلَقِّينَ عَنِ الْيَمِينِ
وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ
عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ
مَا كُنْتُمْ مَعْتَدِينَ ﴿١٩﴾

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعِيدِ ﴿٢٠﴾
وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَ
شَهِيدٌ ﴿٢١﴾

لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا
فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ
الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾

وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ ﴿٢٣﴾
الْقِيَافِي فِي جَهَنَّمَ كُلٌّ كَقَرِينِ اللَّهِ
مَنَّارٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ﴿٢٤﴾

الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
فَأَلْقَيْنَهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٢٥﴾
قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطَّغَيْتَهُ وَلكِنَّ
كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٢٦﴾

قَالَ لَا تَحْتَصِمُوا لَدَايَ وَقَدْ
قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ﴿٢٧﴾

29. The sentence passed cannot be changed with Me, nor I am unjust to My devotees.

SECTION 3

30. On that day We (Allah) shall say to hell, "are you filled up"? It will say "are there any more?"

31. The Paradise shall be brought near to the pious, not far off from them.

32. This is what you were promised. It is for every one who repents and guards;

33. Who fears Rehmaan (the Affectionate Allah) without seeing and comes to Him with a repentive heart.

34. (It will be said to them), "enter in the Paradise in peace." This is the Day of Eternity.

35. For them there is whatever they wish and with Us (Allah) there is still more than that.

36. How many generations We (Allah) destroyed before them who were stronger in power than they. So they ran about in the land (when penalty was imposed). Was there a place of refuge?

37. Surely, there is admonition in it for such one who has a heart or who gives ear and is attentive.

38. And certainly, We (Allah) created the heavens and the earth, and all that is in between, in six periods and no fatigue touched Us (Allah).

39. So be patient over what they say, and praise your Rubb (Sustainer) glorifying Him, before the rising of the sun and before its setting.

میرے یہاں بات بدلتی نہیں اور نہ میں بندوں پر ظلم کروں (29)

جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے، کیا تو بھر گئی؟ وہ عرض کرے گی، کچھ اور زیادہ ہے (30)

اور پاس لائی جائے گی جنت پر بیزگاروں کے کہ ان سے دور نہ ہوگی (31)

یہ ہے وہ جس کا تم وعدہ دیئے جاتے ہو ہر رجوع لانے والے حمدداشت والے کے لئے (32)

جو رخصت سے بے دیکھے ڈرتا ہے، اور رجوع کرتا ہو اول لایا (33)

ان سے فرمایا جائے گا، جنت میں جاؤ سلامتی کے ساتھ، یہ بیٹگی کا دن ہے (34)

ان کے لیے ہے اس میں جو چاہیں اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے (35)

اور ان سے پہلے ہم نے کتنی سسکتیں ہلاک فرمادیں، کہ گرفت میں آنے سخت تھیں، تو شہروں میں کاوشیں کیں، ہے کہیں بھاگنے کی جگہ (36)

بیگ اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو، یا کان لگائے اور متوجہ ہو (37)

اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، چھ دن میں بنایا، اور ٹکنا (تھکاوٹ) ہمارے پاس نہ آئی (38)

تو ان کی باتوں پر مہر کرو اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو! سورج چمکنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے (39)

مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَيْ وَهَذَا أَنَا بِظُلْمِ الْعَبِيدِ

يَوْمَ نَقُولُ لِيَهْدِيَهُمْ هَذِهِ امْتَلَأَتْ وَنَقُولُ هَلْ مِنْ قَزِيْبٍ

وَأَرْزَقْتِ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيْدٍ

هَذَا مَا كُودُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيْبٍ مِّنْ حَشَى الرَّحْمَنِ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّبِيْنٍ

أَدْخَلُوْهُمُ السَّلَامَ ذَلِكَ يَوْمَ الْخُلُوْدِ

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا نَزِدُّهُمْ وَأَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَبْلٍ هُمْ أَسَدٌ مُّتَبَعًا فَتَقْبِرَ أَعْيُنُ النَّاسِ عَنْ مَّقَامِهِمْ هُنَّ

إِن فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِّمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِِيْدٌ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لَّغْوٍ

مِّنْ لَّغْوٍ قَاصِدٌ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوِّ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ

40. And glorify Him in the night and after prostrations.

41. And listen attentively, on the day when the caller will call from a nearby place;

42. the day when they will hear the uproar in truth. This is the day of coming forth (from the graves).

43. Surely, We (Allah) give life and cause death and to Us (Allah) is the return;

44. On the day when the earth will be rent asunder from over them and they will come out hastening. That will be the gathering together, quite easy for Us (Allah).

45. We (Allah) know best what they say and you are not (assigned) to compel them. So admonish those by the Qur'aan who fear My warning.

S. LI

SURA AL-ZARIAAT (THE SCATTERING WINDS)

Revealed at Makkah

(18 Verses, 4 Sections)

Allah's Name, Who is the Most Affectionate, the Most Merciful.

SECTION 1

1. I call to witness the wind that scatters far and wide;

2. then by those which are the burden bearers (of clouds);

3. then by the smooth runners (ships);

4. and then the (Angel) distributors (of blessings) by command and the executors of affairs;

5. surely, what is promised to you is true;

6. and surely, the justice is to be done.

اور کچھ رات گئے اس کی صبح کرو اور نمازوں کے بعد (40)

اور کان لگا کر سنو! جس دن پکارنے والا پکارے گا ایک پاس جگہ سے (41)

جس دن چکھاڑ سنیں گے حق کے ساتھ یہ دن ہے قبروں سے باہر آنے کا چنگ ہم جلائیں (42)

اور ہم ماریں اور ہماری طرف ہی پھرتا ہے (43)

جس دن زمین ان سے پھینے گی، تو جلدی کرتے ہوئے تھیں گے، یہ حشر ہے ہم کو آسان (44)

ہم خوب جان رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، اور کچھ تم ان پر جبر کرنے والے نہیں، تو قرآن سے نصیحت کرو اسے جو میری دھمکی سے ڈرے (45)

سورۃ زاریات کی ہے (اس میں) ساتھ آیتیں (60) اور تین (3) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا قسم ان کی جو نکمیر کر اڑانے والیاں (1)

پھر بوجھ اٹھانے والیاں (2)

پھر نرم چلنے والیاں (3)

پھر حکم سے بانٹنے والیاں (4)

بے شک جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، ضرور سچ ہے (5)

اور چنگ انصاف ضرور ہوتا (6)

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَادْبَارَ الْمَسْجِدِ وَالشُّجُودِ ﴿٤٠﴾

وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٤١﴾

يَوْمَ يَكْفُتُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ ﴿٤٢﴾

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ﴿٤٣﴾

يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا لَيْسَ إِلَّا كَيْفَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ

مَنْ يَخَافُ وَيَعِيبُ ﴿٤٥﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

وَالَّذِي رِيَّتْ دَرُودًا ﴿٢﴾

فَالْمُحَدِّثِ وَالْوَكَّاادِ ﴿٣﴾

فَالْمُجْرِيَّتِ يُسْرًا ﴿٤﴾

فَالْمَقْتَدِمَاتِ أُمْرًا ﴿٥﴾

إِنَّمَا تَوَعَّدُونَ لَصَادِقًا ﴿٦﴾

وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾

7. I call to witness the heaven full of ways that;
8. surely, you are contradictory in what you say;
9. as he alone turns away from this (Qur'aan) who himself is turned away.
10. Cursed be the liars;
11. who are lost in deception.
12. They ask, "when will be the Day of Judgement".
13. It will be a day when they shall be tormented on the fire.
14. And it will be said to them, "taste your trial". This is what you were hastening.
15. Surely, the pious are in the Paradises and springs;
16. to receive what their Rubb (Sustainer) gives them. It is because before that they lived profound life.
17. They used to sleep little in the night;
18. and in the last part of the night (Tahajjud) they used to seek forgiveness.
19. And in their wealth there was the right of the needy and the deprived.
20. And in the earth there are signs for those having sure faith.
21. And also in your selves (are similar signs). Do you not see?
22. And in the heaven is your provision, and that which you are promised.
23. So by the Rubb (Sustainer) of the heavens and the earth, surely, this (Qur'aan) is the truth in the same language which you speak.

SECTION 2

24. (O beloved Prophet) has the information of the honored guests of Ibraaheem (Abraham) come to you?

آرامش والے آسمان کی قسم! (7)
تم مختلف بات میں ہو (8)
اس قرآن سے وہی اوندھا کیا جاتا ہے
جس کی قسمت ہی میں اوندھا پایا جاتا ہے (9)

مارے جائیں دل سے تراشے والے (10)
جو نئے میں بھولے ہوئے ہیں (11)
پوچھتے ہیں انصاف کا دن کب ہو گا (12)
اس دن ہو گا جس دن وہ آگ پر تپائے
جائیں گے اور فرمایا جائے گا (13)
چکو! اپنا تپنا یہ ہے وہ جس کی ہمیں
جلدی تھی (14)

بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں
ہیں (15)

اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے بے
شک وہ اس سے پہلے ٹیکو کرتے تھے (16)
وہ رات میں کم سویا کرتے (17)
اور بچھلی رات استغفار کرتے (18)

اور ان کے مالوں میں حق تھا، منگتا اور
بے نصیب کا (19)
اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کو
(20)

اور خود تم میں، تو کیا ہمیں سوچتا نہیں
(21)

اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جو
ہمیں وعدہ دیا جاتا ہے (22)
تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم! چیک
یہ (قرآن) حق ہے، مکی ہی زبان میں جو
تم بولتے ہو (23)

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُوبِ ۝
إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۝
يُؤْفِكُ عَنْهُ مِنَ الْقَوْلِ ۝

قَتِيلَ الْخَرِّ صُورٍ ۝
الَّذِينَ هُمْ فِي عَمْرٍاهُمْ سَاهُونَ ۝
يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمَ الدِّينِ ۝
يَوْمَهُمْ عَلَى الْعَارِ يَهْتَمُونَ ۝
ذُو قُوَّةٍ فَاتَّقُوا هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ

بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۝
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝
أَجْنِدِينَ فَأَنظَرْنَاهُمْ فِي عَمْرِهِمْ
كَأَنَّهُمْ لَمَّا قَابَلُوا ذَلِكَ فَخَسِبْنَا ۝
كَأَنَّهُمْ لَمَّا قَابَلُوا مِنْ أَيْلٍ مَا يَهْتَجُونَ ۝
وَبِالْأَسْطِحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمُحْرَوِّمِ ۝

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ۝

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝
وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۝
فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ
بِمَا تَقُولُونَ ۝

اے محبوب! کیا تمہارے پاس ابراہیم کے
معزز مسلمانوں کی خبر آتی (24)

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَعِيفِ
إِبْرَاهِيمَ الْمَكْرُمِ ۝

25. When they came to him they said, "salutations." He replied, "salutations." They were the unknown people (he could not recognize).

26. Then he went to his family and brought a fat calf (roasted);

27. and laid it before them. He said, "will you not eat"?

28. He conceived a fear in his mind on account of them. They said, "do not be afraid and gave him good news, of the birth of a wise son".

29. Then his wife came forward lamenting and struck her forehead and said, "what? I am just a barren old woman"?

30. But they said, "thus has said your Rubb (Sustainer). And surely, He is the All-Wise, the All Knowing.

جب وہ اس کے پاس آکر بولے! سلام
کما سلام، ناشاسا لوگ ہیں (25)

پھر اپنے گھر گیا، تو ایک قرہ چھڑالے آیا
(26)

پھر اسے ان کے پاس رکھا، کیا تم
کھاتے نہیں (27)

تو اپنے جی میں ان سے ڈرنے لگا وہ
بولے! ڈریے نہیں، اور اسے ایک علم
والے لڑکے کی بشارت دی (28)

اس پر اس کی بی بی چلائی آئی، پھر اپنا ماتھا

ٹھوکا، اور بولی! کیا بڑھیا ہوں؟ (29)

انہوں نے کہا، تمہارے رب نے یونسی
فرمایا ہے، اور وہی حکیم دانا ہے (30)

إِذْ حَلَوُا عَلَيْهِمْ فَقَالُوا أَسْلَمْنَا قَالَ
سَلِّمُوا قَوْمَ مُنْكَرُونَ ﴿٢٥﴾

فَدَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَأَبَىٰ بَعْضُ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾

فَقَدِرَ بِهِ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾
فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا
تَخَفْ وَبَشِّرْهُ بِبَعْلٍ عَلِيمٍ ﴿٢٨﴾
فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَاحَةٍ فَصَكَتْ

وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٩﴾
قَالُوا كَذَّبْتَ بِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ
الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾

PART-27

S. ALI - ZARIAAT (Contd.)

SECTION 2 (Contd.)

31. He (Abraham) said what is your affair O the messengers (Angels)?

32. They said, "we have surely been sent to a criminal nation;

33. that We (Allah) may let loose upon them stones of backed clay;

34. sent forth from your Rubb (Sustainer) marked for those guilty of excesses."

35. Then We (Allah) brought forth therefrom those who were faithfuls.

36. But We (Allah) found there nothing except one house of (Muslims).

37. And We (Allah) left therein a sign for those who fear a painful punishment.

ابراہیم نے فرمایا: تو اسے فرشتو! تم کس کام
سے آئے؟ (31)

بولے! ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے
گئے ہیں (32)

کہ ان پر گارے کے بنائے ہوئے پھر
چھوڑیں (33)

جو تمہارے رب کے پاس حد سے بڑھے
دلوں کے لیے نشان کیے رکھے ہیں (34)

تو ہم نے اس شرم میں جو ایمان والے تھے،
نکال لیے (35)

تو ہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمان پایا
(36)

اور ہم نے اس میں نشانی باقی رکھی، ان
کے لیے جو درد ناک عذاب سے ڈرتے
ہیں (37)

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا
الْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينٍ ﴿٣٣﴾

فَمَسَوْمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٤﴾

فَأَخْرَجْنَا مِمَّنْ كَانَ فِيهَا مِنْ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ
الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾

وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ
الْعَذَابَ الْإِلِيمَةَ ﴿٣٧﴾

38. And in Moosaa (Moses) also, when We (Allah) sent him to Firawn (Pharaoh) with clear authority.

39. But he (Pharaoh) turned away with his forces and said, "a magician or a madman (is Moses)."

40. So seizing him and his forces, We (Allah) threw them into the sea in a condition that he was blaming himself.

41. And for Aad too, We (Allah) sent to them a destructive windstorm;

42. which made every thing, it came upon, like a rotten bone.

43. And for Samood (Thamud) too, when it was said to them, "enjoy yourselves for a while".

44. But they revolted against the Command of their Rubb (Sustainer). Then a thunderbolt overtook them while they were seeing it.

45. So they were neither able to rise up nor they could defend themselves.

46. And We (Allah) destroyed the people of Nuuh (Noah) before them. Surely, they were the disobedient nation.

SECTION 3

47. And We (Allah) have raised the heaven with power, and surely, We (Allah) are the makers of the things so vast.

48. And We (Allah) have made the earth as a spread out carpet and how excellently We (Allah) shape out things by spreading.

49. And We (Allah) have made pairs of everything that you may understand.

50. Therefore, ^{haste} towards Allah. Surely, I

اور سوئی میں جب ہم نے اسے روشن
سند لے کر فرعون کے پاس بھیجا (38)

تو اپنے فخر سمیت پھر گیا اور بولا! جادوگر
ہے یا دبو اند (39)

تو ہم نے اسے اور اس کے فخر کو پھوڑ
دیا میں ڈال دیا اس حال میں کہ وہ اپنے
آپ کو طامت کر رہا تھا (40)

اور عاد میں جب ہم نے ان پر خشک
آندھی بھیجی (41)

جس چیز پر گزرتی اسے کھلی ہوئی چیز کی
طرح کر چھوڑتی (42)

اور ثمود میں جب ان سے فرمایا گیا ایک
وقت تک برت لو (43)

تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے
سرکشی کی تو ان کی آنکھوں کے سامنے
انہیں کڑک لے آیا (44)

تو وہ نہ کھڑے ہو سکے اور نہ وہ بدلا لے
سکتے تھے (45)

اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک فرمایا
بے شک وہ فاسق لوگ تھے (46)

وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ
بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۝۳۸

فَقَالَ يَا مَعْجُودُ
مَتَى بِرُكْبَتِهِ وَقَالَ سَجَدَاؤُ
يَعْبُدُونَ ۝۳۹

فَلَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي
الْبَحْرِ وَهُمْ وٰهِيْمٌ ۝۴۰

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ
الْعَاقِمَةَ ۝۴۱

مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنتَ عَلَيْهِ إِلَّا
جَعَلْتَهُ كَالرِّيمِ ۝۴۲

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا
حَتَّىٰ حِينٍ ۝۴۳

فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذْنَا
الضُّعْفَةَ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۝۴۴

فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا
كَانُوا مِّنْ مُّصْبِرِينَ ۝۴۵

وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا
بِئْسَ قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝۴۶

اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا اور
چیک ہم وسعت دینے والے ہیں (47)

اور زمین کو ہم نے فرش کیا تو ہم کیا ہی
اچھے بچھانے والے (48)

اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑ بنائے کہ تم
دھیان کرو (49)

تو اللہ کی طرف بھاگو چیک میں اس کی

وَالسَّمَاءَ بَيْنَ يَدَيْنَا يُرْسِلُهَا
رِزْقًا لِّلْمُوسِعُونَ ۝۴۷

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَا لَنَعْمَ الْمُهْدُونَ
وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا سَوْجَدًا
لِّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝۴۸

فَعَرَّفُوا إِلَى اللَّهِ لِيُنزِلَ
رِزْقًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا

(Muhammad) am a clear warner to you from Him.

51. And do not set any god for worship along with Allah. Surely, I am a clear warner to you from Him.

52. In the same way, whenever any Rasool (Messenger) came to those before them, they only said "a magician or a madman (he is)".

53. Have they charged each other with this? No! Rather they are a rebellious nation.

54. Therefore, (O dear) keep away from them and there is no blame on you.

55. And continue to warn because the admonition benefits the faithfuls (Muslims).

56. And I (Allah) have not created the jinns and the human beings except to worship Me.

57. Neither I ask any provision from them, nor I desire that they should feed Me.

58. Surely, it is only Allah, Who is the Great Provider, the Powerful, the Strong.

59. So surely, then those who were cruel shall have a portion of (comforts) like their companions of early times. Therefore, let them not ask Me to hasten (penalty).

60. Woe is to those who disbelieve because of that day of theirs which they are promised.

S. LII

SURA AT-TOOR
(THE MOUNT TOOR)

Revealed at Makkah
(49 Verses, 3 Sections)

طرف سے تمہارے لیے صریح ڈر سنانے

والا ہوں (50)

اور اللہ کے ساتھ اور معبود نہ ٹھہراؤ بیچک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں (51)

یونہی جب ان سے اگلوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا، تو یہی بولے! کہ جاوگر ہے یا دیوانہ (52)

کیا آپس میں ایک دوسرے کو یہ بات کہہ مرے ہیں؟ بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں (53)

تو اے محبوب! تم ان سے منہ پھیر لو! تم پر کچھ الزام نہیں (54)

اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے (55)

مُؤْمِنِينَ ﴿٥٠﴾

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ،
إِنِّي لَكُمْ مُنذِرٌ بَرُّمِيمٍ ﴿٥١﴾

كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ
مَجْنُونٌ ﴿٥٢﴾

أَوَاصْوَابُهُمْ يَلْعَنُ قَوْمٌ عَدُوٌّ ﴿٥٣﴾

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴿٥٤﴾

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں (56)

میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں (57)

بیچک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے (58)

تو بیچک ان ظالموں کے لیے عذاب کی ایک باری ہے جیسے ان کے ساتھ والوں کے لیے ایک باری تھی، تو مجھ سے جلدی نہ کریں (59)

تو کافروں کی خرابی ہے، ان کے اس دن سے جس کا وعدہ دیئے جاتے ہیں (60)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ
أَنْ يُطْعَمُونِ ﴿٥٧﴾

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

فَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ أَنْبَأُوا بِشَدِّ
ذُنُوبِ أَعْمِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥٩﴾

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ
الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾

سورہ طور کی ہے (اس میں) انچاس (49)

آیتیں اور دو (2) رکوع (ہیں)

الْبَطْنِيُّ بِبَيْتِهِ مُحَمَّدٌ فِي مَكَّةَ الْبَيْتِ الْمَكِّيِّ وَالْمَكِّيَّ وَالْمَكِّيَّ

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. I call to witness the Mount Toor (Sinai);
2. and the written Book;
3. (Written) in an open unrolled scroll;
4. and by the frequently visited House (Ka'aba);
5. and by the so elevated canopy (of heavens);
6. and by the swollen sea;
7. surely, the punishment of your Rubb (Sustainer) is indeed to occur;
8. but there is none to avert;
9. the day when the heaven will shake with awful shaking;
10. and the mountains will move with an awful moving.
11. Woe is then on that day to those who reject truth;
12. and those who are playing in idle discourses.
13. The day when they shall be driven towards the fire of hell with forceful pushing;
14. (and told) this is the fire which you treated as a lie.
15. Is this magic or you do not see it?
16. Go into it roasted, now whether you be patient or be not patient, all is equal to you. You are merely recompensed for your (pious deeds).
17. Surely, the pious are in Paradise and in delight;
18. and they are happy with what their Rubb (Sustainer) has bestowed them. And their Rubb (Sustainer) will save them from the punishment of hell.
19. Eat and drink pleasantly (as recompense) of

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان
رحم والا

- وَالطُّورِ ①
وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ②
فِي سَاتِي مَنشُورٍ ③
وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ④
وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ⑤
وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ⑥
إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ⑦
مَا لَكُمْ مِنْ دَافِعٍ ⑧
يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَورًا ⑨
وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ⑩
فَوَيْلٌ لِلْيَمِينِ لِلْمَكْدِيِّينَ ⑪
الَّذِينَ هُمْ فِي حَوْضٍ يَلْعَبُونَ ⑫
يَوْمَ يَدْعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعْوًا
هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا
تَكْتَبُونَ ⑬
أَفَسِحْرَ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تَبْصُرُونَ ⑭
إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا
سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا
كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ⑮
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُوبٍ ⑯
فَلْيَهِنِ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَّهَمُ
رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ⑰
كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ
- طور کی قسم (1)
اور اس نوشتہ کی (2)
جو کلمے دفتر میں لکھا ہے (3)
اور بیت معمور (4)
اور بلند چھت (5)
اور سلاگے ہوئے سمندر کی (6)
بیک تیرے رب کا عذاب ضرور ہوتا ہے (7)
اسے کوئی ٹالنے والا نہیں (8)
جس دن آسمان ہلنا سا ہلنا پھیں گے (9)
اور پہاڑ چلنا سا چلنا پھیں گے (10)
تو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے (11)
وہ جو مشغلہ میں کھیل رہے ہیں (12)
جس دن جہنم کی طرف دھکا دے کر دھکیے جائیں گے (13)
یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے (14)
تو کیا یہ جاؤ ہے یا تمہیں سوچتا نہیں (15)
اس میں جاؤ! اب چاہے مبرک کرو یا نہ کرو سب تم پر ایک سا ہے، اسی کا بدلہ جو تم کرتے تھے (16)
بے شک پرہیزگار باغوں اور عین میں ہیں (17)
اپنے رب کی دین پر شاد شاد! اور انہیں ان کے رب نے آگ کے عذاب سے بچا لیا (18)
کھاؤ اور پیو خوشگوار سے صلہ اپنے

your (pious) deeds;

20. reclining on thrones set in rows. And We (Allah) shall unite them with fair maidens having large beautiful eyes.

21. And those who believe and whose children follow them with faith, We shall join them with their children and shall not diminish anything from their deeds. Every person is responsible for what he (she) shall bring in deeds?

22. And We (Allah) shall aid them with fruits and flesh, as they desire.

23. They shall pass from one to another a cup wherein is neither any vain thing nor any sin.

24. And the youths in their service will go round them as if they are well preserved pearls.

25. And they will turn to one another, asking mutual questions;

26. saying "surely before this we were full of fear (of Allah) in our families".

27. "But Allah has been gracious to us and saved us from the punishment of scorching hot wind."

28. "Surely, we worshipped Him before. Surely, He is the Beneficent, the Merciful.

SECTION 2

29. Then (O dear Prophet) admonish that by the Grace of your Rubb (Sustainer) neither you are a witchcraft nor mentally sick person.

30. Or do they say, "he is a poet, for whom we are waiting for an adverse term of his fortune".

31. Please declare (O dear Muhammad S.A.W.), "keep on waiting. I am too among

اعمال کا (19)

تختوں پر تکیے لگائے جو قطار لگا کر بچے ہیں اور ہم نے انہیں بیابان بڑی آنکھوں والی حوروں سے (20)

اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی بیوی کی، ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی، اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی، سب آدمی اپنے کیس میں گرفتار ہیں (21)

اور ہم نے ان کی مدد فرمائی سوسے اور گوشت سے جو چاہیں (22)

ایک دوسرے سے لیتے ہیں، وہ جام جس میں نہ بیہوشی اور نہ گنہگاری (23)

اور ان کے خدمت گزار لڑکے ان کے گرد پھرس گئے، گویا وہ موتی ہیں چمکا کر رکے گئے (24)

اور ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا پوچھتے ہوئے (25)

بولے! بیگم ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں سے ہوئے تھے (26)

تو اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور ہمیں لو کے عذاب سے بچالیا (27)

بیگم ہم نے اپنی پہلی زندگی میں اس کی عبادت کی تھی، بیگم وہی احسان فرمائے والا مرہبان ہے (28)

تو اے محبوب! تم نصیحت فرماؤ! کہ تم اپنے رب کے نعمت سے نہ کاہن ہو، نہ جمنون

(29)

یا کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، ہمیں ان پر حواہت زمانہ کا انتظار ہے (30)

تم فرماؤ! انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے

تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

مُنكِمِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَرَوَّحْنَهُمْ مِّنْ حُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مِزَّاتٍ مِّنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرَأٍ يَمَّا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿٢١﴾

وَأَمَّا دُونَهُمْ بِفِكْمَةٍ وَأَحْوَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾

يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِنَّ ۚ

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وُعْلَمَانٌ لَهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿٢٣﴾

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٤﴾

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٥﴾

فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَّعْنَا عَذَابَ السَّمُورِ ﴿٢٦﴾

إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدُوعُونَ أَنَّهُ هُوَ ۚ بَلِّغْ إِلَيْنَا الرِّجْهَمُ ﴿٢٧﴾

فَلَا تَكْرَهْمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ يَكَاهِنُ وَلَا جُنُونٌ ﴿٢٨﴾

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ مِّثْلَ بَدِئِهِ رَيْبُ الْمُنُونِ ﴿٢٩﴾

قُلْ تَرَبُّصُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ

those who are waiting with you."

32. Does their reasoning prompt them to this or are they a rebellious nation?

33. Or do they say, "he (Prophet) has concocted it (Qur'aan)"? In fact they will never believe it.

34. Let them bring a single declaration (chapter of Qur'aan) like this, if they are truthful.

35. Have they not been created or are they the creators?

36. Or did they create the heavens and the earth? In fact they have no faith.

37. Or have they treasures of your Rubb (Sustainer) with them. Or have they been reposed some treasurers' authority?

38. Or have they the ladder by means of which they climb to listen? Then let the one who has listened bring a clear proof.

39. Or has He daughters and you have sons?

40. Or do you ask them some wage that they are overburdened under such expense.

41. Or have they the unseen (power) with them by which they give written command.

42. Or do they intend to stage any deception? But it is the disbelievers who are to get deceived.

43. Or do they have any other god besides Allah? Glorified be Allah from which they associate with Him.

44. And if they see a portion of the sky falling down they would say, "these are clouds piled-up"

انتظار میں ہیں (31)

کیا ان کی عقلیں انہیں سچی بتاتی ہیں یا وہ

سرکش لوگ ہیں (32)

یا کہتے ہیں انہوں نے یہ قرآن بنا لیا بلکہ

وہ ایمان نہیں رکھتے (33)

تو اس جیسی ایک بات تو لے آئیں، اگر

سچے ہیں (34)

کیا وہ کسی اصل سے نہ بنائے گئے یا وہی

بنائے والے ہیں (35)

یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے بلکہ

انہیں یقین نہیں (36)

یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے

ہیں یا وہ کڑوے (ضامن) ہیں (37)

یا ان کے پاس کوئی زینہ ہے جس میں چڑھ

کر سن لیتے ہیں، تو ان کا سننے والا کوئی

روشن سنا لائے (38)

کیا اس کو بیٹیاں اور تم کو بیٹے (39)

یا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو، تو وہ

جنی کے بوجھ میں رہے ہیں (40)

یا ان کے پاس فیث ہیں جس سے وہ حکم

لگاتے ہیں (41)

یا کسی داؤں کے ارادہ میں ہیں، تو کافروں

عی پر داؤ پڑتا ہے (42)

یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے، اللہ

کو پاکی ان کے شرک سے (43)

اور اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیکھیں تو

کس کے ہلے = = ہلے ہلے (44)

الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿٣١﴾

أَمْ تَزَعَمُوهُمْ أَهْلًا لَهُمْ بِهِدَايَتِنَا

هُمْ قَوْمًا عَتُونَ ﴿٣٢﴾

أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُ ذِكْرًا لَّذُنُوفُونَ ﴿٣٣﴾

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ

كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ

الْمُخْلِقُونَ ﴿٣٥﴾

أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

بَلْ لَا يُؤْقِنُونَ ﴿٣٦﴾

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رِزْقِ رَبِّهِمْ

الْمَصْطَرِطُونَ ﴿٣٧﴾

أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ مَقْرُونَةٌ فِئْتَابُ

فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعِهِمْ يُسَلِّطِينَ

مُصِيبِينَ ﴿٣٨﴾

أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ ﴿٣٩﴾

أَمْ نَسْتَأْجُرُهُمْ أَجْرًا فَيُفَرِّقُونَ

مُتَعَلِّقُونَ ﴿٤٠﴾

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَيُمْسِكُونَ

أَمْ يَرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا

هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٤١﴾

أَمْ رَبُّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سُبْحَانَ اللَّهِ

عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٢﴾

وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا

يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ﴿٤٣﴾

45. Leave them, till they meet their that day wherein they shall become terrified.

46. The day their deception shall avail them nothing, nor they shall be helped.

47. And surely, the cruel people shall have a punishment besides that. But most of them do not know.

48. And (O beloved Prophet)! wait patiently for the Judgement of your Rubb (Sustainer) as you are always before Our eyes. And glorify your Rubb (Sustainer) praising Him when you rise up;

49. and glorify Him in a part of the night and after the setting of the stars.

S. LIII

SURA UN-NAJM (THE STAR)

Revealed at Makkah

(62 Verses, 3 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. I (Allah) swear by the lovely shining star (Muhammad S.A.W.), when he descended from the Ascension (Meraj or Al-Issraa).

2. Your companion (Muhammad) neither went astray nor was misled.

3. And he does not speak of his own desire.

4. It is only through the revelation that is sent to him.

5. He was taught this by the One possessing supreme power;

6. the Lord of mighty strength Who manifested this ascendance (of Muhammad S.A.W.);

تو تم انہیں چھوڑ دو، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملیں جس میں بے ہوش ہوں گے (45)

جس دن ان کا داؤں کچھ کام نہ دے گا اور نہ ان کی مدد ہو (46)

اور بیک فاعلوں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے مگر ان میں اکثر کو خبر نہیں (47)

اور اے محبوب! تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو، کہ بیک تم ہماری حمد و ثناء میں ہو، اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پائی بولو، جب تم کھڑے ہو (48)

اور کچھ رات میں اس کی پائی بولو! اور آدوں کے پیٹھ دیتے (49)

سورۃ النجم مکہ میں نازل ہوئی (اس میں) پانچ (62) آیتیں اور تین (3) رکوع (پڑھیں)

فَذَرُهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾

يَوْمَ لَا يَنفَعُهُمْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴿٤٩﴾

النجم سورۃ ۵۳ آیتیں ۶۲ رکوع ۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿١﴾

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰی ﴿٢﴾
مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰی ﴿٣﴾

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰی ﴿٤﴾
اِنْ هُوَ اِلَّا وَاْحٰی يُوحٰی ﴿٥﴾

عَلَّمَهُ شَدِیْدُ الْقُوٰی ﴿٦﴾

ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوٰی ﴿٧﴾

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) (1)

جب یہ معراج سے اترے، تمہارے صاحب نہ بھٹکے، نہ بے راہ چلے (2)

اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے (3)

وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے (4)

انہیں سکھایا سخت قوتوں والے (5)

طاقتور نے، پھر اس جلوہ نے قصہ فرمایا (6)

7. And he went on the highest horizon (to see Splendid Divine Sight).

8. Then he (Muhammad) drew nearest, then he came close well;

9. so his was a distance of two bows or rather less than that.

10. And He revealed to His devotee whatever He wanted to reveal.

11. The heart (of Muhammad) was not untrue to what he saw.

12. Will you then dispute with him concerning what he saw?

13. And indeed he saw that Splendid Sight twice;

14. Near the farthest Lote tree beyond which none can pass.

15. Close to which is the Paradise of Eternity.

16. When the Lote tree was covered over with best covering;

17. the eye (of Muhammad) did not deviate, nor exceeded the limit.

18. Certainly, he saw very big signs of his Rubb (Sustainer).

19. Have you considered the Laat and Uzza (idols) as seen by you?;

20. and the Manaat, as third and the last one?

21. Are there sons for you, and daughters for Him?

22. This indeed is an unjust division (of your idols).

23. These are but some names, you and your fathers have replaced for Allah Who has not sent down any authority for them. They follow mere conjectures and desires of their selves, whereas there has already

اور وہ آسمان بریں کے سب سے بلند کنارہ پر تھا (7)

پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا (8)
تو اس جلوے اور اس محبوب میں وہ ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم (9)

اب وہی فریانی اپنے بندے کو جو وہی فریانی (10)

دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا (11)

تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو (12)

اور انہوں نے تو وہ جلوہ دوبارہ دیکھا (13)
سدرۃ المنتہی کے پاس (14)

اس کے پاس جنت المادئی ہے (15)

جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا (16)
آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی (17)

چیک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں (18)

تو کیا تم نے دیکھا لات اور عزیٰ (19)

اور اس تیسری منات کو (20)

کیا تم کو بیٹا اور اس کو بیٹی (21)

جب تو یہ سخت ہموئی تقسیم ہے (22)

وہ تو نہیں مگر کچھ نام، کہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں آداری، وہ تو نرسے گمان اور نفس کی خواہشوں کے پیچھے ہیں، حالانکہ چیک ان کے پاس ان

وَهُوَ الْأَفْقَى الْأَعْلَى ۝
تَمَرُّدًا فَتَدَلَّى ۝

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۝
فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۝

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۝
أَتَخْرَوْنَ عَلَىٰ مَا لَا يُرَىٰ ۝
وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۝

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۝
عِنْدَ هَاجِئَةِ الْمَأْوَىٰ ۝
إِذْ يُغَشَى السِّدْرَةَ مَا يُغَشَىٰ ۝

مَا رَأَىٰ الْبَصَرُ وَمَا طَعَىٰ ۝
لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۝
أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۝
وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرَىٰ ۝

الْكُمُ الذِّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ۝
تِلْكَ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا ۝
إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ
وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ
سُلْطٰنٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
وَمَا هُمْ بِأَعْيُنِ النَّفْسِ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ

come to them guidance from their Rubb (Sustainer).

24. Can the man have whatso he wishes?

25. But Allah is the Owner of the hereafter and the entire existence.

SECTION 2

26. And how many Angels are there in the heavens but their recommendation avails nothing to anyone without permission of Allah to whom He Pleases and Chooses.

27. Surely, those who do not believe in the hereafter, name the Angels with female names.

28. But they have no knowledge of it. They follow mere conjectures and surely the conjectures avail nothing against the truth.

29. Therefore, turn aside from them who turn away from Our (Allah's) remembrance and who seek only the life of this world.

30. That is the utmost limit of their knowledge. Surely, your Rubb (Sustainer) knows well who went wrong from His way, and He knows the one who follows the right guidance.

[ONE FOURTH OF PART 27 ENDS]

31. And to Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth that He awards the evil-doers for their deeds and rewards with best those who are righteous.

32. Those who keep aloof from grave sins and indecencies, except minor anomalies (trespasses). Surely, your Rubb (Sustainer) is liberal in forgiving. He knows you well, He created you from

کے رب کی طرف سے ہدایت آئی (23)

کیا آدمی کو مل جائے گا جو کچھ وہ خیال

ماندے (24)

تو آخرت اور دنیا سب کا مالک اللہ ہی ہے

(25)

اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی، مگر جب کہ اللہ اجازت دے دے، جس کے لیے

چاہے اور پسند فرمائے (26)

بے شک وہ جو آخرت پر ایمان رکھتے نہیں تھے، ملائکہ کا نام عورتوں کا سا

رکھتے ہیں (27)

اور انہیں اس کی کچھ خبر نہیں، وہ تو نرے گمان کے پیچھے ہیں، اور چنگ گمان یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دتا (28)

تو تم اس سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھرا، اور اس نے نہ چاہی مگر دنیا کی زندگی

(29)

یہاں تک ان کے علم کی پہنچ ہے، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھاگا، اور وہ خوب جانتا ہے جس

نے راہ پائی (30)

مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ۱۷

أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَعَى ۱۸

قُلْ لِلَّهِ الْأَخْوَۃُ وَالْأَوْلَىٰ ۱۹

وَكَمْ قَوۡنِ مَلَٰئِكِ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُعۡقِبُنَّ شَفَاعَتَهُمۡ شَيْۡاَ اِلَّا بِاِذۡنِ اللّٰهِ لَیۡسَ لَہُنَّ اِشۡاۃٌ وَّیُوضٰی ۲۰

اِنَّ الَّذِیۡنَ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡاٰخِرَةِ لَیَسۡمُوۡنَ الْمَلَائِکَۃَ تَسۡمِیۃً الْاُنۡثٰی ۲۱

وَمَا لَہُمۡ بِہِمۡ مِنْ عَلَوٰنٍ یَّتَّبِعُوۡنَ اِلَّا الظَّنُّ وَاِنَّ الظَّنَّ لَیۡعۡقِبُنَّ مِنَ الْحَقِّ شَیۡاَ ۲۲

فَاَعۡرِضۡ عَنۡ مَّنۡ تَوَلٰی ذٰلَکَ وَاذۡکُرۡ نَا وَاکُمۡ یُرِیۡدُ اِلَّا الْحَیۡوۃَ الدُّنۡیَا ذٰلِکَ مَبۡلَغُهُمۡ مِنَ الْعِلۡمِ اِنَّ رَبَّکَ هُوَ اَعۡلَمُ بِمَنۡ ضَلَّ عَنۡ سَبِیۡلِہٖ وَهُوَ اَعۡلَمُ بِمَنۡ اٰهۡتٰدٰی ۲۳

اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے

اور جو کچھ زمین میں، تاکہ جبرائی کرنے والوں کو ان کے کیے کا بدلہ دے، اور نکی کرنے والوں کو نمانیت اچھا صلہ عطا

فرمائے (31)

وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، چنگ تمہارے رب کی مغفرت دستغ ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے،

وَرَبِّہٖ مَنَی السَّمٰوٰتِ وَمَنَی الْاَرْضِ لَیۡجِزِی الَّذِیۡنَ اَسٰۤءُوۡا وَاِیۡہَا عَمِلُوۡا وَیَجِزِی الَّذِیۡنَ اٰحْسَنُوۡا بِالۡحَسٰنِ ۲۴

الَّذِیۡنَ یَجۡتَنِبُوۡنَ کِبۡرَ الْاِثۡمِ وَ الْفَوَاحِشِ اِلَّا اللّٰمَہَ اِنَّ رَبَّکَ وَاَسِعَ الْمَغۡفِرۃُ هُوَ اَعۡلَمُ بِکُمۡ اِذۡ اَنۡشَاکُمۡ مِنَ الْاَرْضِ وَاِذۡ اَنۡتُمۡ

the dust and when you were foetus in the wombs of your mothers. Therefore, do not justify your purity. He knows well who are the pious.

SECTION 3

33. Have you seen him who turns away?;

34. And gives a little and then grudges.

35. Has he the knowledge of the unseen so that he can see?

36. Or has he not been informed of what is in the scriptures of Moosaa (Moses)?;

37. and of Ibraaheem (Abraham) who fulfilled his trust;

38. that no one, bearing burden, bears the burden of others;

39. that a man (woman) surely, will not get except what he (she) endeavours;

40. and that his (her) endeavours shall soon be judged;

41. and only then he (she) shall be fully rewarded for it;

42. and surely to your Rubb (Sustainer) is your return;

43. And that it is surely He Who makes you to laugh and makes you to weep;

44. and that it is surely, He Who gives death and causes life;

45. and that it is surely He Who creates the pairs, male and female;

46. from the semen drop when it is emitted;

47. and it is surely, for Him to bring the second time recreation.

48. And that it is surely He Who enriches and grants wealth satisfaction;

حمیس مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل تھے تو آپ اپنی جالوں کو سحرنا بناؤ وہ خوب جانتا ہے

جو پرہیزگار ہیں (32)

تو کیا تم نے دیکھا جو پھر گیا (33)

اور کچھ توڑا ساوا اور روک رکھا (34)

کیا اس کے پاس فیب کا علم ہے تو وہ دیکھ رہا ہے (35)

کیا اسے اس کی خبر نہ آئی جو صحیفوں میں ہے سوئی کے (36)

اور ابراہیم کے جو احکام پورے بجا لایا (37)

کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتی (38)

اور یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش (39)

اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی (40)

پھر اس کا پھر پورا بدلا دیا جائے گا (41)

اور یہ کہ جیک تمہارے رب ہی کی طرف اتنا ہے (42)

اور یہ کہ وہی ہے جس نے بسایا اور رولایا (43)

اور یہ کہ وہی ہے جس نے مارا اور جلایا (44)

اور یہ کہ اس نے دو جوڑے بنائے نر اور مادہ (45)

نطفہ سے جب والا جائے (46)

اور یہ کہ اسی کے ذمہ ہے پھیلا اٹھانا (47)

اور یہ کہ اس نے غنی دی اور قاعدت دی (48)

أَجْنَةً فِي بَطُونٍ أَمْهَلَكُمْ فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن يَخْتَفِي ۝

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ۝
وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ۝

أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَتُبْرِئِي ۝
أَفَرَأَيْتَ نَبِيَّ يُبَايِعُ صَاحِبَهُ مَوْسَى ۝

وَأَبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ۝
الْأَنْزِلَ وَزَادَهُ قِلْدًا أُخْرَى ۝
وَأَن لِّكُلِّ نَسَمَةٍ لِّلْإِنْسَانِ أَلْمَاسِي ۝

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ۝
ثُمَّ يُجْزَى بِالْجِزَاءِ الْأَوْفَى ۝
وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ۝

وَأَنَّهُ هُوَ أَصْحَاكَ وَأَبْلَى ۝
وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْيَى ۝
وَأَنَّهُ خَلَقَ الزُّوجَيْنِ الذَّكَرَ وَ
الْأُنثَى ۝
مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تَمْنَى ۝

وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَ الْأُخْرَى ۝
وَأَنَّهُ هُوَ أَعْنَى وَأَقْنَى ۝

49. and that surely, it is He Who is the Rubb (Sustainer) of the star Sirius;

اور یہ کہ وہی ستارہ شعلی کا رب ہے (49)

50. and that surely it is He Who destroyed the Aads of the old;

اور یہ کہ اسی نے عاد کو ہلاک فرمایا (50)
اور ثمود کو تو بانی نہ چھوڑا (51)

51. and also the Samood (Thamud) and then He spared none;

اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو بیکھ وہ ان سے بھی ظالم اور سرکش تھے (52)

52. and before this the nation of NuuH (Noah). Surely, they were oppressor cruels and most rebellious.

53. And He overturned the demolished cities;

اور اس نے اللہ والی بستی کو نیچے گرایا (53)

54. then covered them with what they were to be covered.

تو اس پر چھایا جو کچھ چھایا (54)

55. (O listener) which of your Rubb's (Sustainer's) favours would you deny?

تو اے سننے والے! اپنے رب کی کونسی نعمتوں میں شک کرے گا؟ (55)

56. He (Muhammad) is a warner like the former warners.

یہ ایک ڈر سنانے والے ہیں اگلے ڈرانے والوں کی طرح (56)

57. It (hour) has come near that was imminent to come.

پاس آئی پاس آنے والی (57)

58. There is none besides Allah to avert it.

اللہ کے سوا اس کا کوئی کھولنے والا نہیں (58)

59. Do you then wonder at this news?;

تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو (59)

60. and do you laugh, but donot weep?;

61. and will you remain proudly heedless?

اور ہنسنے اور روٹی نہیں (60)

62. Therefore, prostrate yourselves to Allah and worship (Him only).

اور تم کھیل میں پڑے ہو (61)
تو اللہ کے لیے سجدہ اور اس کی بندگی کرو (62)

[A Muslim who recites this verse or listens its recitation should prostrate with forehead on the ground in ablution facing Ka'aba]

S. LIV

SURA AL-QAMAR (THE MOON)

Revealed at Makkah

(55 Verses, 3 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

وَإِنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى ۝۱

وَإِنَّهُ أَهْلَكَ عَادَ الْأُولَى ۝۲

وَتَشْمُدُ إِذْ مَا أَبْقَى ۝۳

وَقَوْمِ نُوحٍ ۝۴

هَمَّ أَظْمَرُ وَاطغى ۝۵

وَالْمُوتِفِكَةَ أَهْوَى ۝۶

فَغَشَّهَا مَا غَشَّى ۝۷

فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكَ تَتَمَارَى ۝۸

هَذَا أَنْذِيرٌ ۝۹

أَزِفَتِ الْأَرْفَةُ ۝۱۰

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۝۱۱

أَفِينِ هَذَا الْحَدِيثِ تَجْجِبُونَ ۝۱۲

وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۝۱۳

وَأَنْتُمْ سَمِدُونَ ۝۱۴

لِيَعْلَمَ مَا سَجَدُوا لِإِلَهِهِ وَاعْبُدُوا ۝۱۵

سورہ قمر کی ہے (اس میں) پچپن (55)

سورہ القمر کی ہے پچپن اور اس میں تین اور ایک آیت ہے اور اس میں ایک آیت ہے

آیتیں اور تین (3) رکوع ہیں

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

1. The Hour is drawing near when the moon is to be split-up.

2. And if they see a miracle they turn away their faces and say this is a perpetual magic.

3. And they falsify it and follow their low desires, and all the affairs have appointed term.

4. And certainly some news have come to them wherein there are enough preventive orders;

5. containing perfect wisdom, but warnings did not bring result.

6. So you turn away from them till the day when the caller will call towards a painful task;

7. their eyes cast down they will come out of the graves as they are scattered swarm of locusts;

8. hastening towards the caller. The disbelievers will say, "this day is a hard day".

9. The people of Nuuh (Noah) falsified before them. They declared Our (Allah's) devotee to be liar and said, "he is a mad man and he was driven away."

10. He, therefore, prayed to his Rubb (Sustainer) "I have been overcome. You help me."

11. Then We (Allah) opened the gates of sky with water pouring down forcefully (raining).

12. And We (Allah) made the water of the springs to flow on the earth so two waters gathered to such a quantity which was already ordered.

13. And We (Allah) carried him (Noah) on planks and nails (fixed in boat);

پاس آئی قیامت اور سن ہو گیا چاند (1)

اور اگر دیکھیں کوئی نشانی تو منہ پھیرتے

اور کہتے ہیں 'یہ تو جادو ہے چلا آ' (2)

اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں

کے پیچھے ہوئے اور ہر کام قرار پا چکا ہے

(3)

اور جبکہ ان کے پاس وہ خبریں آئیں جن

میں کافی روک تھمی (4)

انہا کو پہنچی ہوئی حکمت، پھر کیا کام دیں

ڈر سنا لے (5)

تو تم ان سے منہ پھیر لو! جس دن بلائو لا

ایک سخت بے پیمانی بات کی طرف بلائیگا

(6)

نبی آئیں گے ہوئے قبروں سے نکلیں

کے گویا وہ ٹیڑھی ہیں جھکی ہوئی (7)

بلانے والے کی طرف لپکتے ہوئے 'کافر

کس کے 'یہ دن سخت ہے (8)

ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو

ہمارے بندہ کو جھوٹا بتایا اور بولے! وہ

جھون ہے' اور اسے جھڑکا (9)

تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں

مظلوم ہوں تو میرا بدلا لے (10)

تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیئے

زور کے بستے پانی سے (11)

اور زمین جھٹھے کر کے بنا دی تو دو دروں پانی

مل گئے اس مقدار پر جو مقدر تھی (12)

اور ہم نے نوح کو سوار کیا تختوں اور

کیلوں والی پر (13)

إِقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَالشَّقُ الْقَمَرِ

وَلَا يَرْوُوا إِلَيْهِ يُعْرِضُونَ وَيَقُولُوا

سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ

وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ

أَمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا

فِيهِ مُرَدُّ جَرٍّ

حِكْمَةٌ بِاللِّغَةِ فَمَا تَعْنِي التَّنذِرُ

فَقُولْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ الدَّارِ

إِلَى شَيْءٍ تُكْفِرُونَ

خَشَعَتِ أَبْصَارُهُمْ تَخِرُّونَ مِنْ

الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرُونَ

مَهْطِعِينَ إِلَى الدَّارِ يَقُولُ

الْكٰفِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ

كَذَّبْتُمْ قَبْلَهُمْ قَوْمَ نُوْحٍ فَكَذَّبُوا

عَبْدَنَا وَآقَالُوهُمُ فَجَسَدُونَ وَأَرَادُ جَرٍّ

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ

مُنْهَمِرٍ

وَجَمَعْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى

الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدَرٍ

وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْاَوْبَانِ وَأَوْسُوا

14. sailing before Our (Allah's) eyes, a reward for him who was rejected.

15. And certainly, We (Allah) left it as a symbol (for future). Is there any one who would pay attention?

16. Therefore, how great was My punishment for which they had My warning?

17. And certainly, We (Allah) have made the Qur'aan easy for comprehension. Is there then any one to pay attention?

18. And falsified it then how was My punishment for which they had My warning?

19. Surely, We (Allah) sent against them a strong windstorm in a day whose ill-fortune remained lasting over them.

20. It used to beat down the men as though they are the roots of uprooted palm trees.

21. Then how (terrible) was My punishment for which they had My warning?

22. And certainly, We (Allah) made the Qur'aan easy for comprehension. Is there any one to remember it.

SECTION 2

23. Samood (Thamud) rejected the warners.

24. And they said, "shall we follow a man from amongst ourselves"? Surely, we will be in error and insane ones."

25. Has the reminder been revealed upon him from all among us? No rather he (Noah) is a self-boasting liar".

26. Very soon, the next day they had known who was a big liar, self boaster?

27. We (Allah) sent the she-camel for their trial.

کہ ہماری نگاہ کے رو بہد ہستی، اس کے صلہ میں جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا (14)

اور ہم نے اسے نشانی چھوڑا، تو ہے کوئی دھیان کرنے والا (15)

تو کیا ہوا میرا عذاب اور میری دھمکیاں (16)

اور بیشک ہم نے قرآن یاد کرنے کیلئے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا (17)

عاد نے جھٹلایا، تو کیا ہوا میرا عذاب؟ اور میرے ڈر دلانے کے فرمان؟ (18)

بیشک ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی، ایسے دن میں جس کی نعمت ان پر بیشک کیلئے رہی (19)

لوگوں کو یوں دسے مارتی تھی، کہ گویا وہ

اٹھتی ہوئی کھجوروں کے ڈنڈے ہیں (20)

تو کیا ہوا میرا عذاب، اور ڈر کے فرمان (21)

اور بیشک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا (22)

ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا (23)

تو بولے! کیا ہم اپنے میں سے ایک آدمی کی تابعداری کریں، جب تو ہم ضرور گمراہ اور دہوانے ہیں (24)

کیا ہم سب میں سے اس پر ذکر اتارا گیا بلکہ یہ سخت جھوٹا ارتوا ہے (25)

بست جلد کل جان جائیں گے، کون تھا بڑا جھوٹا ارتوا؟ (26)

ہم بات (ادنیٰ) بھیجے والے ہیں، ان کی

تَجِدُنِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرًا ﴿١٤﴾

وَلَقَدْ تَرَكُنَا آيَةً فَبُهْلٍ مِنْ قَدْ كُفِرٍ ﴿١٥﴾

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿١٦﴾

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿١٧﴾

كَذَّبْتَ عَادَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿١٨﴾

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَعِيرٍ ﴿١٩﴾

تَنْزِيلُ النَّاسِ كَانْتِهَمُ أَعْيَادَ مَخِيلٍ مُتَعَبِرٍ ﴿٢٠﴾

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿٢١﴾

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿٢٢﴾

كَذَّبْتَ ثَمُودَ بِالتَّنْذُرِ ﴿٢٣﴾

فَقَالُوا الْبَشَرُ أَمْثَلُ ذَاكَ اتَّبِعْتَهُ إِنَّا إِذًا الْفَىٰ ضَلِيلٌ وَسُعِيرٌ ﴿٢٤﴾

أَلَيْسَ الَّذِي كَرَّمْنَاهُ مِنْ بَنِي نَابُلٍ هُوَ كَذَّابٌ أَشْرَرٌ ﴿٢٥﴾

سَيَعْلَمُونَ عَذَابَ الْكَذَّابِ الْأَشْرَرِ ﴿٢٦﴾

إِنَّا مَرْسِلُوا الْفَأَقِمْ وَفَنَّا لَهُمْ

Therefore, (Saleh) watched them and remained patient.

28. And informed them that the water has been divided between them (and the she camel) in shares. He who has his turn should be presented the share.

29. Then they called their companion and he after taking the sword cut her legs to death.

30. Then how was My punishment for which they had My warning?

31. Surely, We (Allah) sent against them a single cry. They became like dry fragments of trees, trampled upon.

32. And certainly, We (Allah) made the Qur'aan easy for comprehension. Is there any one to remember it?

33. The people of Lout falsified the warners.

34. Surely, We (Allah) sent over them a storm of stones except the followers of Lout. We (Allah) saved them by little before the day-break;

35. as a favour from Us (Allah). Thus do We (Allah) reward the one who is grateful.

36. And certainly he warned them of Our (Allah's) violent seizer but they doubted in the warnings.

37. And certainly they endeavoured to turn him away from his guests (Angels). But We (Allah) blinded their eyes to make futile their sayings. Taste My torment and My warning.

38. And surely, early in the morning a lasting punishment overtook them.

39. Taste My punishment

جانچ کو تو اسے صالح! تو راہ دیکھ اور میرا
کر (27)

اور انہیں خبر دیے کہ پانی ان میں
حصوں سے ہے، ہر حصہ پر وہ حاضر ہو
جس کی ہاری ہے (28)

تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس
نے لیکر اس کی کوجھس کاٹ دیں (29)

پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈر کے فرمان
(30)

چنگ ہم نے ان پر ایک چگھاڑ بھیجی جیسی
وہ ہو گئے جیسے گھیرا بنانے والے کی بیٹی
ہوئی گھاس، سوکھی روئی ہوئی (31)

اور چنگ ہم نے آسان کیا قرآن یاد
کرنے کیلئے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا
(32)

لوٹ کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا (33)

بے شک ہم نے ان پر پتھراؤ بھیجا، سوائے
لوٹ کے گھروالوں کے، ہم نے انہیں
بچھلے پر بچا لیا (34)

اپنے پاس کی نعمت فرما کر، ہم یونہی صلہ
دیتے ہیں اسے جو شکر کرے (35)

اور چنگ اس نے انہیں ہماری گرفت
سے ڈرایا، تو انہوں نے ڈر کے فرمانوں
میں شک کیا (36)

انہوں نے اسے اس کے ممانوں سے
پھیلانا چاہا، تو ہم نے ان کی آنکھیں میت
دیں، فرمایا: چکھو! میرا عذاب اور ڈر کے
فرمان (37)

اور چنگ صبح ترکے ان پر ٹھہرنے والا
عذاب آیا (38)

تو چکھو! میرا عذاب اور ڈر کے فرمان (39)

فَلَا تَقْبَلُهُمْ وَاصْطَبُوا ۝

وَنَبَّهْتُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ

كُلٌّ يَّوْبُحُّ فُتَحْتَصَرُّ ۝

فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَنَاهَى فَعَقَرُوهُ

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذِيرِ ۝

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً

فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ۝

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ

مِنْ مُنْكَرٍ ۝

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ ۝

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا

أَل لُّوطٍ نَجَّيْنَاهُ بِسَحَابٍ ۝

نِعْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي

مَنْ شَكَرَ ۝

وَلَقَدْ آتَيْنَاهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا

بِالنُّذُرِ ۝

وَلَقَدْ آتَيْنَاهُمْ دَاوُدَ وَهَارُونَ وَصَالِحًا

وَنُوحًا وَقَدْ وَفَّوْا عِدَابِي وَنَذِيرِ ۝

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ

مُسْتَقْبِرٌ ۝

فَذُوقُوا عَذَابِي وَنَذِيرِ ۝

and My warning.

40. And certainly, We (Allah) made the Qur'aan easy for comprehension. Is there any one to remember.

SECTION 3

41. And certainly the warning message came to the people of Firawn (Pharaoh).

42. They rejected all Our (Allah's) Verses. So We (Allah) seized them with the grip of the Honorable and the All Authoritative.

43. Are (these Makki) disbelievers among you any better than they? Or have you an exemption in the Scriptures?

44. Or do they say, "we are a victorious force altogether".

45. These multitudes will be routed out and they will be put to flight.

46. No, rather the Hour is their promised time and the Hour is the hardest and bitterest.

47. Surely, the criminals are on the wrong way and gone mad.

48. The day when they shall be dragged into the fire from their faces and it will be said to them, "taste the flames of the hell".

49. Surely, We (Allah) have created every thing properly in due measure.

50. And Our (Allah's) Command is unique one, carried swiftly within the twinkling of an eye.

51. And certainly, We (Allah) have destroyed (people) like you. But is there anyone who will mind to receive warning?

52. And whatever they have done is in the records.

اور بیگ ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا (40)

اور بیگ فرعون والوں کے پاس رسول آئے (41)

انہوں نے ہماری سب نشانیاں جھٹلائیں تو ہم نے ان پر گرفت کی جو ایک عزت والے اور عظیم قدرت والے کی شان تھی (42)

کیا تمہارے کافران سے بہتر ہیں یا کتابوں میں تمہاری چھٹی لکھی ہوئی ہے (43)

یا یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر بدلہ لیں گے (44)

اب بھاگی جاتی ہے یہ جماعت اور پیٹھیں پھیر دیں گے (45)

بلکہ ان کا وعدہ قیامت پر ہے، اور قیامت نہایت کڑی اور سخت کڑی (46)

بے شک مجرم گمراہ اور دوڑانے والے ہیں (47)

جس دن آگ میں اپنے مومنوں پر گھسیٹے جائیں گے، اور فرمایا جائے گا، پھکوا! (دوزخ کی آج (48)

بیگ ہم نے ہر چیز ایک اندازہ سے پیدا فرمائی (49)

اور ہمارا کام تو ایک بات کی بات ہے جیسے پلک مارنا (50)

اور بیگ ہم نے تمہاری وضع کے ہلاک کر دیئے، تو ہے کوئی دھیان کرنے والا (51)

اور انہوں نے جو کچھ کیا سب کتابوں میں ہے (52)

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ۝۱

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذِيرُ ۝۱

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَلِمًا فَاخَذْنَا مِنْهُمْ

أَخَذًا عَزِيزًا مُّقْتَدِرًا ۝۲

أَلْفَاظِكُمْ خَيْرًا مِمَّنْ أَوْلَيْكُمُ أَمْرًا لَكُمْ

بِرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ۝۳

أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرُونَ ۝۴

سَيُزَمُّرُ الْجَمْعُ وَيُؤْتُونَ الدُّبُرَ ۝۵

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ

أَذْهَبِي وَأْمُرِي ۝۶

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۝۷

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ

ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ۝۸

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۝۹

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ

بِالْبَصَرِ ۝۱۰

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ

مِنْ مُدَكِّرٍ ۝۱۱

وَكُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ۝۱۲

53. And everything, small or big is written down.
54. Surely, the pious are midst Paradises and streams;
55. on a seat of truth before the Most Authoritative Sovereign (of the entire universe).

اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے (53)
ریک پر بیٹے گار باغوں اور نہریں ہیں (54)
جگ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور (55)

وَكُلُّ شَيْءٍ وَكَيْدٍ مُّسْتَطَرٌّ ﴿٥٣﴾
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهْرٍ ﴿٥٤﴾
فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ ﴿٥٥﴾
يَا مُّقْتَدِرُ ﴿٥٦﴾

S. LV SURA AR-RAHMAAN (THE MOST AFFECTIONATE)

Revealed at Madinah
(78 Verses, 3 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. Ar - Rahman - The most Affectionate,
2. has taught the Qur'aan (to the Soul of His dear Prophet Muhammad).
3. He created the human beings (later).
4. Taught them the mode of plain expression.
5. The sun and the moon have been set proportionately.
6. And the greenery and the trees prostrate.
7. And He raised the heavens high and set their balance.
8. That you may not transgress in the balance.
9. And keep up the weight with justice and do not shorten the balance of measures.
10. And He has set the earth for the creatures;
11. Wherein are fruits and date-palm trees with their clusters, sheathed;
12. and husked grain and fragrant flowers.
13. So which of the Bounties of your Rubb (Sustainer) you both will deny?

سورہ رحمن مدنی ہے (اس میں) اٹھتر (78)
آیتیں اور تین (3) رکوع (ہیں)
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان
رحم والا

سورة الرحمن من دون الرحمن
سورة الرحمن من دون الرحمن
سورة الرحمن من دون الرحمن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿١﴾

رحمن (1)
نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا (2)
انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا (3)
ماکان مائکون (اول تا آخر) کا بیان انہیں
سکھایا (4)
سورج اور چاند حساب سے ہیں (5)
اور ہرے اور بیڑ سمجھ کرتے ہیں (6)
اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو
رکھی (7)

الرَّحْمٰنُ ﴿١﴾
عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٢﴾
خَلَقَ الْاِنْسَانَ ﴿٣﴾
عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾
الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُسَبِّحَانِ ﴿٥﴾
وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿٦﴾
وَالسَّمَاءُ رُفْعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾
الَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾

کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو (8)
اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور
وزن نہ گھٹاؤ (9)
اور زمین رکھی مخلوق کے لیے (10)
اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں
(11)

وَاقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا
تَخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾
وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاِنْسَانِ ﴿١٠﴾
فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ
الْاَكْمَامِ ﴿١١﴾

اور بھس کے ساتھ! تاج اور خوشبو کے
پھول (12)
تو اسے جن والنس! تم دونوں اپنے رب کی
کوئی نعمت گھٹاؤ؟ (13)

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٣﴾

14. He created man from ringing clay, like backed pottery;

اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے، جیسے
ٹھیکری (14)

15. and created the jinns from the flame of the fire.

اور جن کو پیدا فرمایا، آگ کے لوکے
(پلٹ) سے (15)

16. So which of the Bounties of your Rubb (Sustainer) you both will deny?

تو تم دونوں اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاؤ
گے؟ (16)

17. (He is) the Rubb (Sustainer) of the Easts and the Wests.

دونوں پورب کا رب اور دونوں بچم کا
رب (17)

18. So which of the Bounties of your Rubb (Sustainer) you both will deny?

تو تم دونوں اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاؤ
گے؟ (18)

19. He has made the two seas to flow looking joined.

اس نے دو سمندر بجائے کہ دیکھنے میں
معلوم ہوں طے ہوئے (19)

20. And there is barrier in between them that one cannot cross the other.

اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر
بڑھ نہیں سکتا (20)

21. So which of the Bounties of your Rubb (Sustainer) you both will deny?

تو تم دونوں اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاؤ
گے؟ (21)

22. From them come out the pearl and the coral.

ان میں سے موتی اور موٹکا نکلتا ہے (22)

23. So which of the Bounties of your Rubb (Sustainer) you both will deny?

تو تم دونوں اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاؤ
گے؟ (23)

24. And His are the lofty ships raised up in the sea like mountains.

اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کہ دریا میں
اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ (24)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ
كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ نَارٍ مِنْ تَارٍ ﴿١٥﴾
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿١٦﴾

رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبِّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿١٨﴾

مَوَازٍ مَبْجُورِينَ يَلْتَقِينَ ﴿١٩﴾

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِينَ ﴿٢٠﴾
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٢١﴾

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٢٣﴾
وَاللَّهُ الْجَوَارِ الْمُنشِئَاتِ فِي الْبَحْرِ
كَالْأَعْلَامِ ﴿٢٤﴾

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾
كُلٌّ مِنْ عِنْدِهَا فَإِنْ ﴿٢٦﴾

وَيَبْقَى وَجْهٌ رَبِّكَ ذُو الْجَلِيلِ
الْأَكْرَامِ ﴿٢٧﴾

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٢٨﴾

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٢٩﴾

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٣٠﴾

[HALF OF PART 27

ENDS]

25. So which of the Bounties of your Rubb (Sustainer) you both will deny?

تو تم دونوں اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاؤ
گے؟ (25)

SECTION 2

26. Every one on it (earth) is to perish;

زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے (26)

27. And there is to endure for ever the Entity of your Rubb (Sustainer) the Majestic and the Splendid.

اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت
اور بزرگی والا (27)

28. So which, of the Bounties of your Rubb (Sustainer) you both will deny?

تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت
جھٹلاؤ گے؟ (28)

29. All that are in the heavens and in the earth beg from Him. Every moment He has a better state of Glories.

30. So which of the Bounties of your Rubb (Sustainer) you both will deny?

31. Soon We (Allah) shall take you to account, O two big groups of Jinns and human beings.

32. So which of the Bounties of your Rubb (Sustainer) you both will deny?

33. O Company of jinns and human beings, if you can cross the bounds of the heavens and the earth, then do so if you have the ability. You cannot go without using high energy.

34. So which of the Bounties of your Rubb (Sustainer) you both will deny?

35. The flames of fire and smoke shall be sent on you but you will not be able to defend yourselves.

36. So which of the Bounties of your Rubb (Sustainer) you both will deny?

37. And when the heaven will be split, it will become crimson red like red hide.

38. So which of the Bounties of your Rubb (Sustainer) you both will deny?

39. On that day none shall be questioned about their sin, neither human beings nor the jinns.

40. So which, of the Bounties of your Rubb (Sustainer) you both will deny?

اسی کے سنگا ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، اسے ہر دن ایک کام ہے (29)
تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ (30)

جلد سب کام بننا کر ہم تمہارے حساب کا قصہ فرماتے ہیں، اے دونوں بھاری گروہ! (31)

تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ (32)

اے جن و انس کے گروہ! اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ! تو نکل جاؤ، جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلسلت ہے (33)

تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ (34)

تم پر چھوڑی جائے گی بے دھجوں کی آگ کی لپٹ، اور بے لپٹ کا کالا دھواں تو پھر بدلانہ لے سکو گے (35)

تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ (36)

پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا، جیسی سرخ زری (37)

تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے (38)

تو اس دن گنہگار کے گناہ کی پوچھ نہ ہو گی، کسی آدمی اور جن سے (39)

تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے (40)

يَسْأَلُكَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
مَلِكٌ يُّوْمٍ هُوَ فِيْ سَاۗءِ
يَوْمٍ ۙ فَاَيُّ الْاٰلِهٰٓءٍ زِيۡكُرٌ لِّبِنِ

سَنُفِرُّ لَّكُمْ اَيُّهُ الثَّقَلَيْنِ ۙ

فَاَيُّ الْاٰلِهٰٓءٍ زِيۡكُرٌ لِّبِنِ

بِعَشْرِ الْجَنِّ وَالْاِنْسِ اِنْ اَسْطَعْتُمْ
اَنْ تَنْفُذُوْا وَاِنْ اَنْفَطَرَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ فَلَنْفُذُوْا اِلَّا تَنْفُذُوْا
اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۙ

فَاَيُّ الْاٰلِهٰٓءٍ زِيۡكُرٌ لِّبِنِ ۙ

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّوُ
نُحٰسٌ فَلَا تَنْصُرُوْنَ ۙ

فَاَيُّ الْاٰلِهٰٓءٍ زِيۡكُرٌ لِّبِنِ ۙ

فَاِذَا انشَقَّتِ السَّمٰوٰتُ فَكَانَتْ وَرْدَةً
كَالْدِّهَانِ ۙ

فَاَيُّ الْاٰلِهٰٓءٍ زِيۡكُرٌ لِّبِنِ ۙ

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِۦٓ اِنْسٌ
وَّلَا جَانٌّ ۙ

فَاَيُّ الْاٰلِهٰٓءٍ زِيۡكُرٌ لِّبِنِ ۙ

41. The criminals shall be recognized by their marks (on faces) and will be seized by the forelocks and feet.

مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو
اتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں
گے (41)

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ
فِيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴿۴۱﴾

42. So which of the Bounties of your Rubb (Sustainer) you both will deny?

تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت
بخلاؤ گے (42)

فِي أَيِّ آيَاتِنَا كُذِّبْتُمْ ﴿۴۲﴾

43. This is the hell which the criminals falsified.

یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم بخلائے ہیں (43)

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا
الْمُجْرِمُونَ ﴿۴۳﴾

44. They will go round between it and the fierce boiling water.

پھیرے کریں گے اس میں اور اتھا کے
جلنے کو لے پانی میں (44)

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آتِن
فِي أَيِّ آيَاتِنَا كُذِّبْتُمْ ﴿۴۴﴾

45. So which of the Bounties of your Rubb (Sustainer) you both will deny?

تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت
بخلاؤ گے (45)

فِي أَيِّ آيَاتِنَا كُذِّبْتُمْ ﴿۴۵﴾

SECTION 3

46. And for him (her) who fears to stand before his (her) Rubb (Sustainer) there are two Paradises;

اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے
سے ڈرے۔ اس کے لیے دو جنتیں ہیں
(46)

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ﴿۴۶﴾

47. so which of the Bounties of your Rubb (Sustainer) you both will deny?;

تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت
بخلاؤ گے؟ (47)

فِي أَيِّ آيَاتِنَا كُذِّبْتُمْ ﴿۴۷﴾

48. containing overhanging branches of varied fruits.

جنتوں میں ہوں گی پھانسی والی شاخیں
بہت سی ڈالوں والیاں (48)

ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴿۴۸﴾

49. So which of the Bounties of your Rubb (Sustainer) you both will deny?

تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت
بخلاؤ گے؟ (49)

فِي أَيِّ آيَاتِنَا كُذِّبْتُمْ ﴿۴۹﴾

50. In both of them two fountains are flowing.

ان میں دو چشمے بہتے ہیں (50)

فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيانِ ﴿۵۰﴾

51. So which of the Bounties of your Rubb (Sustainer) you both will deny?

تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت
بخلاؤ گے؟ (51)

فِي أَيِّ آيَاتِنَا كُذِّبْتُمْ ﴿۵۱﴾

52. In both of them are two pairs of every fruit.

ان میں ہر قسم کا دو دو قسم کا (52)

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ ثَمَرٍ زَوْجَانِ ﴿۵۲﴾

53. So which of the Bounties of your Rubb (Sustainer) you both will deny?

تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت
بخلاؤ گے؟ (53)

فِي أَيِّ آيَاتِنَا كُذِّبْتُمْ ﴿۵۳﴾

54. (They will be) reclining on couches over carpets and the fruits of both the Paradises will be within easy reach.

اور ایسے پھونوں پر تکیے لگائے جن کا ستر
قادر کا اور دونوں کے سامنے آگے بچھے
ہوئے کہ نیچے سے چن لو (54)

مُتَّكِنِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَّيْنَاهَا مِنْ

أَسْتَبْرَقٍ وَجَنَّاتٍ مُتَّكِنِينَ دَانٍ ﴿۵۴﴾

55. So which of the Bounties of your Rubb (Sustainer) you both will deny?

تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت
معتاد گے؟ (55)

56. There will be those (maidens) that glance towards none, untouched before by any human being or jinn.

ان پھولوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے
سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں ان
سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ
جن نے (56)

57. So which of the Bounties of your Rubb (Sustainer) you both will deny?

تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت
معتاد گے؟ (57)

58. As if they are rubies and pearls.

گویا وہ لعل اور یاقوت اور موتی ہیں
(58)

59. So which of the Bounties of your Rubb (Sustainer) you both will deny?

تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت
معتاد گے؟ (59)

60. The reward of kindness is, but kindness only.

نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی
(60)

61. So which of the Bounties of your Rubb (Sustainer) you both will deny?

تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت
معتاد گے؟ (61)

62. And besides these, there are two other Paradises.

اور ان کے سوا دو بہتیں اور ہیں (62)

63. So which of the Bounties of your Rubb (Sustainer) you both will deny?

تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت
معتاد گے؟ (63)

64. Dark green, with lush foliage.

نمایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے
رہی ہیں (64)

65. So which of the Bounties of your Rubb (Sustainer) you both will deny?

تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت
معتاد گے؟ (65)

66. There will be two springs gushing forth.

ان میں دو چشمے ہیں چھلکے ہوئے (66)

67. So which of the Bounties of your Rubb (Sustainer) you both will deny?

تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت
معتاد گے؟ (67)

68. In both of them there will be fruits and dates and pomegranates.

ان میں میوے اور کھجور اور انار ہیں
(68)

69. So which of the Bounties of your Sustainer (Rubb) you both will deny?

تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت
معتاد گے؟ (69)

70. In both there are maidens, good natured, beautiful.

ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک
صورت کی اچھی (70)

فِي أَيِّ الْأَرْبَابِ رَبِّكُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٥٥﴾
فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ لَطِيفَاتٌ لَمْ نَبْطِئْنَهُنَّ
إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٥٦﴾

فِي أَيِّ الْأَرْبَابِ رَبِّكُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٥٧﴾
كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾
فِي أَيِّ الْأَرْبَابِ رَبِّكُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٥٩﴾
هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾

فِي أَيِّ الْأَرْبَابِ رَبِّكُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦١﴾
وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَيْنِ ﴿٦٢﴾
فِي أَيِّ الْأَرْبَابِ رَبِّكُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٣﴾

مُدَاهَاتَيْنِ ﴿٦٤﴾
فِي أَيِّ الْأَرْبَابِ رَبِّكُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٥﴾

فِيهِمَا عَيْنَاتٌ نَضَّاجَتَيْنِ ﴿٦٦﴾
فِي أَيِّ الْأَرْبَابِ رَبِّكُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرِيحَانٌ ﴿٦٨﴾
فِي أَيِّ الْأَرْبَابِ رَبِّكُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٩﴾

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حَسَنَاتٌ ﴿٧٠﴾

71. So which of the Bounties of your Rubb (Sustainer) you both will deny?

72. Lovely pure maidens guarded in the pavilions.

73. So which of the Bounties of your Rubb (Sustainer) you both will deny?

74. Neither man nor jinn have touched them before.

75. So which of the Bounties of your Rubb (Sustainer) you both will deny?

76. Reclining on green cushions and beautiful attractive carpets;

77. So which of the Bounties of your Rubb (Sustainer) you both will deny?

78. Greatly Blessed is the Name of your Rubb (Sustainer) the Majestic and the Splendid.

S. LVI

SURA AL-WAQIAH (THE INEVITABLE EVENT)

Revealed at Makkah

(96 Verses, 3 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. When the (inevitable) event shall come to pass;
2. and there shall be no room for any one to deny its happening.
3. Degrading (some) low and exalting (some others).
4. When the earth shall shake terrible shaking;
5. and the mountains shall crumble in pieces;
6. and will become scattered dust particles;

تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت
جھٹلاؤ گے؟ (71)

خودریں ہیں عیموں میں پردہ نشین (72)
تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت
جھٹلاؤ گے؟ (73)

ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی
اور نہ جن نے (74)

تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے
(75)

کھینے لگائے ہوئے سبز چھوٹیوں اور متعش
خوبصورت چاندنیوں پر (76)

تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت
جھٹلاؤ گے؟ (77)

بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام
جو عظمت اور بزرگی والا (78)

فِي أَيِّ الْأَعْيُنِ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝
حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْبُيُوتِ ۝
فِي أَيِّ الْأَعْيُنِ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝
لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا
جَانٌّ ۝

فِي أَيِّ الْأَعْيُنِ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝
مُتَّكِنِينَ عَلَى رُءُوفٍ خَضِرٍ وَّ
عَبَقَرٍ فِي حُجُرٍ ۝
فِي أَيِّ الْأَعْيُنِ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝
تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَّ
الْإِكْرَامِ ۝

سورۃ واقعہ ہر جگہ اور ہر وقت
مستورہ جگہ ہے جسے سب کو اذیت دینا

سورۃ واقعہ کی ہے اس میں (96)
چھپانے آتیں اور تین (3) رکوع ہیں

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہمان
رحم والا

جب ہو لے گی وہ ہونے والی (1)
اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو انکار
کی گنجائش نہ ہوگی (2)

کسی کو پست کرنے والی کسی کو بلندی دینے
والی (3)

جب زمین کانپے گی تھر تھرا کر (4)
اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے چورا
ہو کر (5)

تو ہو جائیں گے جیسے روزن کی دھوپ میں
غبار کے باریک ذرے پھیلے ہوئے (6)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝
لَيْسَ لَهَا دُفْعَةٌ ۝
خَافِضَةٌ سَرِيفَةٌ ۝

إِذَا رَجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۝
وَبَسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝
فَكَانَتْ هَبَاءً مُتَّبَثًا ۝

7. and you will be distributed in three kinds.
8. (Firstly) the companions of the right hand (how happy) are companions of the right hand?
9. And (Secondly) the companions on the left hand (how unhappy) are companions of the left hand?
10. And (Thirdly) are those who take the lead (how happy) are they having already taken the lead in Hereafter.
11. They will be the favourite persons (to Allah).
12. In the Paradise of blissfulness;
13. A big group from the earlier (Muslims).
14. And few from the later folks.
15. (Seated) on thrones studded with diamonds and pearls;
16. reclining on them facing each other.
17. Obedient youths, not to go old, shall wait on them;
18. carrying goblets and showers and cups filled from flowing spring;
19. giving them no headache nor any intoxicative unconsciousness;
20. and (carrying) fruits as they choose;
21. and the flesh of birds as they may desire.
22. (called upon by) lovely large eyed pure maidens;
23. like preserved, hidden pearls;
24. as the reward for their deeds.
25. Therein, they will not hear any nonsense or any sinful talk;
26. but saying "peace", "peace" (on you).

- اور تم میں تم کے ہو جاؤ گے (7)
 تو داہنی طرف والے کیسے داہنی طرف
 والے (8)
 اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف
 والے (9)
 اور جو سبت لے گئے وہ تو سبت ہی
 لے گئے (10)

- وہی مقرب بارگاہ ہیں (11)
 جہن کے باغوں میں (12)
 انگوں میں سے ایک گروہ (13)
 اور بچپنوں میں سے تھوڑے (14)
 جڑاؤ تختوں پر ہوں گے (15)
 ان پر تکیہ لگائے ہوئے آئے سائے (16)
 ان کے گرد لپے پھریں گے بیٹھ رہنے
 والے لڑکے (17)
 کوزے اور آفتاب اور جام اور آنکھوں
 کے سائے جی شراب (18)

- کہ اس سے نہ انہیں درد سر ہو نہ ہوش
 میں فرق آئے (19)
 اور میوے جو پسند کریں (20)
 اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں (21)
 اور بڑی آنکھ والیاں حوریں (22)
 جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی (23)
 صلہ ان کے اعمال کا (24)
 اس میں نہ سنیں گے نہ کوئی بیکار بات
 نہ گنگھاری (25)
 ہاں! یہ کہتا ہو گا سلام سلام (26)

وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ۝
 فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ
 الْمَيْمَنَةِ ۝
 وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ
 الْمَشْأَمَةِ ۝
 وَالسُّقُونَ الثَّقُونَ ۝

أُولَٰئِكَ الْمَقَرُّونَ ۝
 فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ۝
 ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۝
 وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ۝
 عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ۝
 مَّتَّكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَلِّبِينَ ۝
 يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۝
 بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن
 لَّوْنٍ ۝

لَا يَصِدُّ عَنْهَا وَلَا يُزْفُونَ ۝
 وَقَالِهَةٌ أَهْبَاءٌ تَنْزِيلُونَ ۝
 وَكُحْرٍ طَيْرٍ مَّتَّاشْتَمُونَ ۝
 وَحُورٌ عِينٌ ۝
 كَأَمْثَالِ النُّوْلِ لَمْ يَكُن لَّهُنَّ
 جُذَاءٌ يَمَسُّهُنَّ أَهْلُ الْعَمَلُونَ ۝
 لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهِمُ
 إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ۝

27. The companions of the right side-(how) happy are companions of the right side?

اور دائیں طرف والے کیسے دہنی طرف والے (27)

28. (They) will be under the shade of thornless lote trees;

بے کانٹوں کی بہریوں میں (28)

29. and acacia covered with heaps of bloom;

اور کیلے کے پھولوں میں (29)

30. and lengthening shade,

اور بیش کے سائے میں (30)

31. and the gushing water;

اور بیش جاری پانی میں (31)

32. neither ending, nor forbidden;

اور بہت سے میوں میں (32)

33. and the couches raised so high;

جو نہ ختم ہوں، اور نہ روکے جائیں (33)

34. Surely, We (Allah) have raised perfect maidens;

اور بلند چھوٹیوں میں (34)

35. and made them virgins;

بیگم ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان

36. loving, attractive of equal age;

اٹھایا (35)

37. for companions of the right hand.

تو انہیں بنایا ستوریاں اپنے شوہر پر پیارا

SECTION 2

39. A big group from amongst the early (Muslims);

(36)

40. and a big group from amongst the later ones.

انہیں پیار دلاتاں (37)

41. And companions of the left hand; how (un-happy) are the companions of left hand?;

ایک عمر والیاں، دائیں طرف والوں کے

42. as (they will be) in the midst of scorching winds and boiling waters;

لئے (38)

43. and under the shadow of black smoke;

انگولوں میں سے ایک گروہ (39)

44. which is neither fresh nor pleasant.

اور پھولوں میں سے ایک گروہ (40)

45. Surely, before that they lived at ease with plenty;

اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف

46. but persisted in disobedience of great sins;

والے (41)

47. And used to say, "is it that when we are dead and become dust and bones, shall we indeed be raised up again"?

جلی ہو اور کھولتے پانی میں (42)

48. And so will be our forefathers too?

اور جلتے دھوس کی چھاؤں میں (43)

49. Please declare, "surely, all earlier ones and the later ones;

جو نہ ٹھنڈی نہ عزت کی (44)

50. and a big group from amongst the later ones.

بیگم وہ اس سے بے نعمتوں میں تھے

51. And so will be our forefathers too?

(45)

52. Please declare, "surely, all earlier ones and the later ones;

اور اس بڑے گناہ کی ہٹ رکھتے تھے (46)

53. and a big group from amongst the later ones.

اور کہتے تھے، کیا جب ہم مرجائیں، اور

54. and a big group from amongst the later ones.

پڑیاں مٹی ہو جائیں، تو کیا ضرور ہم

55. and a big group from amongst the later ones.

اٹھائے جائیں گے؟ (47)

56. and a big group from amongst the later ones.

اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ (48)

57. and a big group from amongst the later ones.

تم فرماؤ! چنگ سب اگلے اور پچھلے (49)

وَأَصْحَابِ الْيَمِينِ هَٰذَا أَصْحَابِ

الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾

فِي سِدْرٍ مِّنْضُودٍ ﴿٢٨﴾

وَكُطَيْبٍ مِّنْضُودٍ ﴿٢٩﴾

وَوَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ﴿٣٠﴾

وَمَاءٍ مُّسْكَبٍ ﴿٣١﴾

وَوَافِكِهِمْ كَثِيرَةٌ ﴿٣٢﴾

لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٣﴾

وَدَفْرَتِينَ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٣٤﴾

إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً ﴿٣٥﴾

فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾

عُدْبًا بَآئِرَاتٍ ﴿٣٧﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

لَا تَلْمِزُوا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٣٨﴾

ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾

وَتِلْكَ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿٤٠﴾

وَأَصْحَابِ الشَّمَالِ هَٰذَا أَصْحَابِ

الشَّمَالِ ﴿٤١﴾

فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾

وَوَظِلٍّ مِّنْ يَّمُومٍ ﴿٤٣﴾

لَا يَارِدُ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾

إِنَّهُمْ كَانُوا أَتَابِلَ ذَٰلِكَ مُتَرَفِّعِينَ ﴿٤٥﴾

وَكَانُوا يَصْرُونَ عَلَى الْغَيْثِ الْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾

وَكَانُوا يَقُولُونَ هَٰذَا إِذْ بَدَأْنَا وَكُنَّا تُرَابًا

وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٧﴾

أَوْ آبَاءٌ وَآلٌ الْأَوَّلُونَ ﴿٤٨﴾

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾

50. shall be altogether gathered on the appointed time of a known day.

51. Then, surely, O you the erring ones, the deniers,

52. will eat of the tree of Zaqqoom (bitter thorny cactus);

53. and therewith fill your bellies.

54. And you will drink thereafter boiling water;

55. drink it like sick thirsty she-camels.

56. This is their hospitality on the Day of Judgement.

57. We (Allah) created you, then why do you not confirm the truth?

58. So look you, the (semen) drop that you emit.

59. Is it you who create (human being of it) or We (Allah) are the Creator?

60. We (Allah) have fixed death in your constitution: and We (Allah) cannot be outstripped;

61. from bringing in your place others like you and make you to grow in form, which you do not know.

62. And certainly you know the first creation. Why then, you do not remember?

63. Have you considered what you sow?

64. Do you make crop to grow or are We (Allah) the Growers?

65. If We (Allah) Willed, We (Allah) could have made it broken bits then you would have remained lamenting;

66. that surely, we are ruined and fallen in debt;

67. rather we are deprived altogether.

68. Have you considered the water you drink?

69. Do you send it down

ضروڑ اکٹھے کیے جائیں گے ایک جگہ
ہوئے دن کی بھاد پر (50)

پھر بے شک تم اسے گراہو! جھٹلانے والو!
(51)

ضروڑ تمہارے کے پیڑ میں سے کھاؤ گے (52)
پھر اس سے پیٹ بھرو گے (53)

پھر اس پر کھول پانی پیو گے (54)
پھر ایسا پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ

ہیں (55)
یہ ان کی سمانی ہے انصاف کے دن (56)

ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں نہیں ج
مانتے؟ (57)

تو بھلا دیکھو تو وہ منی جو گراتے ہو (58)
کیا تم اس کا آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے

والے ہیں (59)

ہم نے تم میں مرنا پھرایا اور ہم اس سے
ہارے نہیں (60)

کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہاری
صورتیں وہ کر دیں جس کی تمہیں خبر نہیں

(61)
اور بیٹک تم جان چکے ہو پہلی اٹھان پھر

کیوں نہیں سوچتے؟ (62)
تو بھلا بتاؤ تو! جو بولتے ہو (63)

کیا تم اس کی کھین بناتے ہو یا ہم بنانے
والے ہیں (64)

ہم چاہیں تو اسے روندن کر دیں پھر تم
باتیں بناتے رہ جاؤ (65)

کہ ہم پر جتنی پڑی (66)
بلکہ ہم بے نصیب رہے (67)

تو بھلا بتاؤ تو! وہ پانی جو پیتے ہو (68)

لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيعَاتٍ يُؤْمَرُ
مَعْلُومٍ ۝

ثُمَّ إِنَّكُمْ لِيُهَا الضَّالُّونَ الْمَكِيدُونَ ۝
لَا يُكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زُكُوفٍ ۝

فَمَا لَتَوْنَ مِنْهَا الْبَطُونَ ۝
فَتَشْرَبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ۝

فَتَشْرَبُونَ شَرِبَ الْهَيْبِيُّ ۝
هَذَا نَزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ۝

أَمْحَنَ خَلْقَكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ ۝
أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَمْنُونَ ۝

ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ۝

نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا
نَحْنُ بِمَبْذُوقِينَ ۝

عَلَىٰ أَنْ تَبْدِلَ أَثَالِكُمْ وَتُنشِئَكُمْ
فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا
تَتَذَكَّرُونَ ۝

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرَثُونَ ۝
ءَأَنْتُمْ مَرْعُونَ ءَأَمْ نَحْنُ الْمَرْعُونَ ۝

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطًا مَا نَبَلَ لَكُمْ
تَعْلَمُونَ ۝

إِنَّا الْمَحْرَمُونَ ۝
بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۝

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۝

from the clouds, or do We (Allah) send it?

70. If We (Allah) Willed, We (Allah) would have made it bitter. Then why are you not grateful?

71. Have you the fire you kindle?'

72. Did you produce the tree for it or We (Allah) are the Producer?

73. We (Allah) have made it a reminder and advantageous for the desert dwellers.

74. Therefore, glorify the Name of your Rubb (Sustainer), the Greatest.

[THREE FOURTH OF PART 27 ENDS] SECTION 3

75. Indeed, I call to witness the places where the stars set;

76. and, if you know, that is great evidence.

77. Surely, it is the Magnificent Qur'aan;

78. in a well preserved Book;

79. none touch it except those with ablution.

80. It is a revelation from the Rubb (Sustainer) of all the universe.

81. Why do you then reject this announcement in contempt?

82. And do you get your subsistence only in falsifying it?

83. Then how it is when the breath of the dying one reaches to the throat;

84. and you are watching (death) at that time;

85. and We (Allah) are near to it than you, but you do not see.

86. Why you are not indebted (to Allah for life).

کیا تم نے اسے پابل سے آمارا؟ یا ہم ہیں
آمارے والے (69)

ہم ہاں ہیں تو اسے کھاری کر دیں، پھر کیوں
نہیں شکر کرتے؟ (70)

تو بجلا بناؤ تو! وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو
(71)

کیا تم نے اس کا بیڑا کیا؟ یا ہم ہیں پیدا
کرنے والے (72)

ہم نے اسے جنم کا یادگار بنایا، اور جگہ
میں مسافروں کا قاعدہ (73)

تو اسے محبوب! تم پاکی بولو! اپنے علمت
والے رب کے نام کی (74)

تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے
ڈوبتے ہیں (75)

اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے (76)

بے شک یہ عزت والا قرآن ہے (77)

محموظ نوشتہ میں (78)

اسے نہ چھوئیں مگر با وضو (79)

آمارا ہوا ہے سارے جہاں کے رب کا
(80)

تو کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو (81)

اور اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ جھٹلاتے ہو
(82)

پھر کیوں نہ ہو جب جان گلے تک پہنچے
(83)

اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو (84)

اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے مگر
تمہیں نگاہ نہیں (85)

تو کیوں نہ ہو اگر تمہیں بدلا ملتا نہیں
(86)

ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمْوهُ مِنَ السَّمَاءِ اَمْ
نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اَجَاجًا فَلَوْلَا
تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧١﴾
ءَاَنْتُمْ اَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا اَمْ

نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ﴿٧٢﴾
نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا

لِلْمُقْوِينَ ﴿٧٣﴾
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

فَلَا اَقْسَمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٥﴾
وَءَاِنَّ لِقَسَمٍ لَّوَتَعْلَمُونَ عَظِيمٍ ﴿٧٦﴾

ءَاِنَّهٗ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾
فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾

لَا يَمَسُّهٗ اِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾
تَنْزِيلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾

اَفِهَذَا الْحَدِيثِ اَنْتُمْ قَدْ هِنْتُمْ ﴿٨١﴾
وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ اَنْتُمْ تَكَذِبُونَ ﴿٨٢﴾

فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُقُوفُ ﴿٨٣﴾
وَاَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٨٤﴾

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ
لَا تَبْصُرُونَ ﴿٨٥﴾

فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾

87. Can you not bring it back, if you are truthful?
 88. Then if he (she) be one of those who are honored (by Allah)
 89. for such one is the comfort and fragrance and a Paradise of bliss.
 90. And if he (she) be of the companion of the right hand;
 91. salutations be upon you being among those on the right hand.
 92. And if some one be of the deniers and the erring;
 93. then such ones' entertainment is the boiling water.
 94. and the burning into the hell.
 95. Surely, this is the truth of certainty.
 96. Therefore, (O dear) glorify the Name of your Rubb (Sustainer), the Greatest.

S. LVII

SURA AL-HADID
THE IRON

Revealed at Madinah

(29 Verses, 4 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

- All that is in the heavens and in the earth glorify Allah; and He is the Honorable, the Wise.
- His is the Kingdom of the heavens and the earth. He gives life and causes death; and He has power over everything.
- He is the First, He is the Last, He is the Manifest, He is the Hidden and He Knows everything.
- It is He Who created the heavens and the earth in

- کہ اسے لوٹا لائے اگر تم ہے ہو (87)
 پھر وہ مرنے والا اگر ستمیوں سے ہے (88)
 تو راحت ہے اور پھول اور چین کے باغ (89)
 اور اگر وہ اپنی طرف والوں سے ہو (90)
 تو اسے محبوب! تم پر سلام ہے وہ اپنی طرف والوں سے (91)
 اور اگر جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو (92)
 تو اس کی مسکانی کھولنا پانی (93)

- اور بجز کسی آگ میں دھنسا (94)
 یہ بیگ اعلیٰ درجہ کی قیمتی بات ہے (95)
 تو اسے محبوب! تم اپنے نعمت والے کے رب کے نام کی پائی بولو! (96)

سورۃ حدید معنی ہے (اس میں) آتیس (29)
 آتیس چار (4) رکوع (ہیں)

- اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا
 اس کی پائی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہی عزت و حکمت والا ہے (1)
 اسی کے لئے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، چلا تا ہے اور مارتا، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے (2)
 وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن اور وہی سب کچھ جانتا ہے (3)
 ویسے ہی جس نے آسمان اور زمین چھ دن

تَرَجَعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾
 فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾
 فَدَوْسُكُمْ ذُورِيحَانٌ وَرَجَدَتْ نَجِيمٌ ﴿٨٩﴾
 وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْمَيْمَنِ ﴿٩٠﴾
 فَسَلَامٌ عَلَيْكَ مِنْ أَصْحَابِ الْمَيْمَنِ ﴿٩١﴾
 وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكْفُرِينَ ﴿٩٢﴾
 فَسَاءَ مَا يَزِيدُهُمْ نَارَ الْجَهَنَّمَ كَمَا يُزِيدُكَ نَارَ الْكَلْبِ إِذَا سَخِرَ مِنَ الْكَلْبِ لِلْإِنْسَانِ ﴿٩٣﴾

وَصَلِيَةً جَجِيمًا ﴿٩٤﴾
 إِنَّ هَذَا لَهَوٌّ مُّبِينٌ ﴿٩٥﴾
 يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿٩٦﴾
 قُمْ فَأَنبِئْ بِلِقَاءِ رَبِّكَ ﴿٩٧﴾
 إِنَّكَ لَكَاذِبٌ كَرِيمٌ ﴿٩٨﴾
 وَاللَّهُ يَسْمَعُ الْوَهْوَهَ مِنَ النَّاسِ ۚ وَبِهِ يَرْجِعُونَ ﴿٩٩﴾
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٠٠﴾

سُورَةُ الْحَدِيدِ مَكِّيَّةٌ مَبْتُورَةٌ ثَلَاثُونَ آيَةً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يُحْيِي
 وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣﴾

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ
 وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٤﴾

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

six periods, and He is firm in His Authority to His dignity. He knows what enters in the earth and what comes out of it and what comes down from the heavens and what goes up into it. And He is with you whatsoever you may be. And Allah Sees all that you do.

5. His is the Sovereignty of the heavens and the earth. And to Allah is the return of all the affairs.

6. He causes the night enter into the day and causes the day to enter into the night. And He knows the thoughts of the hearts.

7. Believe in Allah and His Rasool (Messenger) and spend out of that to which He has made you heirs. And those of you who believe and spend, for them is the great reward.

8. And what reason have you that you do not believe in Allah whereas the Rasool (Messenger) calls you to believe in your Rubb (Sustainer). Indeed, He has made a promise with you if you surely, are faithful.

9. It is He Who reveals upon His devotees clear verses so that He may bring you forth from the utter darkness to the light. And surely, Allah is Compassionate and Merciful to you.

10. And what reason have you, that you do not spend in the way of Allah, whereas Allah's is the heritage of the heavens and the earth, altogether. Those of you who spent and fought before the victory (of Makkah) are not equal to those who did not. They are exalted in rank than

میں پیدا کیے، پھر عرش پر استواء فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے، اور جو اس سے باہر نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ، تم کہیں ہو، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے (4)

اسی کی ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی رجوع (5)

رات کو دن کے حصے میں لاتا ہے، اور دن کو رات کے حصے میں لاتا ہے، اور وہ دلوں کی بات جانتا ہے (6)

اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کی راہ میں کچھ خرچ کرو جس میں تمہیں اوروں کا جائزین کیا، تو جو تم میں ایمان لائے اور اسکی راہ میں خرچ کیا انکے لئے بڑا ثواب ہے (7)

اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ پر ایمان نہ لاؤ، حالانکہ یہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور بیچک وہ تم سے پہلے ہی عہد لے چکا ہے، اگر تمہیں یقین ہو (8)

وہی ہے کہ اپنے بندہ پر روشن آیتیں آتا رہے، تاکہ تمہیں اندھیروں میں اجالے کی طرف لے جائے، اور بیچک اللہ تم پر ضرور مہربان، رحم والا (9)

اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں سب کا وارث اللہ ہی ہے، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح کے سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں، جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا،

فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ تَقُومُ السُّبُوتُ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِيهِمْ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْرُهُمْ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَاتِعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

أَمْثُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِقِينَ فِيهِ ۝

فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا وَقَدْ آخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَكَرِيمٌ ۝

رَّحِيمٌ ۝

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَ لِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَن قَبْلَ الْفَتْحِ وَقَتْلِ أَوْلِيَاكِ أَعْظَمُ

those who spent and fought afterwards. And Allah has promised to all the reward (of the Paradise). And Allah is Aware of your deeds.

SECTION 2

11. Who is there that will lend to Allah a good gift, and He will double it for such one and there is a generous reward for him (her).

12. And on the day you shall see the believing men and women, their light advancing ahead of them and to their right hand. (They be told) good news are for you, today, the Gardens beneath which the streams flow, wherein you will reside for ever. This is the greatest triumph.

13. The day when the hypocrite men and the hypocrite women will say to believers (Muslims), "look towards us, so that we may take something from your light". It will be said to them, "go back to your rear and seek there a light". Then a wall of separation shall be set up between them, in which will be a door. The inside of it will be all mercy and in the front outside will be punishment.

14. They (hypocrites) will call them (Muslims), "were we not with you"? They will say, "yea, but you caused yourselves in temptation and walted and doubted for evils (for the Muslims). And your vain desires deceived you till Allah's Command came and the great deceiver (satan) deceived you regarding Allah.

15. So this day neither a ransom shall be accepted from you nor from the

اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے (10)

کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تو وہ اس کے لئے دوگنے کرے اور اس کو عزت کا ثواب ہے (11)

جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے، کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دہنے دوڑتا ہے ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے حُرس ہیں، تم ان میں بیش رہو، یہی بڑی کامیابی ہے (12)

جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہمیں ایک نگاہ دیکھو، کہ ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ لیں، کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹو وہاں نور ڈھونڈو، وہ لوٹیں گے، جہی ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہے اس کے اندر کی طرف رحمت اور اس کے باہر کی طرف

عذاب (13)

منافق مسلمانوں کو پکاریں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، وہ کہیں گے، کیوں نہیں، مگر تم نے تو اپنی جانیں فتنہ میں ڈالیں اور مسلمانوں کی برائی سمجھے اور تک رکھے، اور جموںی طبع نے ہمیں فریب دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور ہمیں اللہ کے حکم پر اس بڑے فریبی نے مشغول رکھا (14)

تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے اور نہ

دَرَجَةٌ مِّنَ الَّذِينَ انْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَتَلَّوْا وَمَكَرُوا وَاللَّهُ الشَّكِيُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۱۰﴾

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضِعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿۱۱﴾

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يُشْرِكُوا لِيَوْمِ جَنَّتِ بَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱۲﴾

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا نَارَ النَّارِ بِسْمِ مِنْ تَرَكْتُمْ وَمِنْ أَرَجَعُوا إِلَيْنَا لَعَنَّا لَعْنًا أُولَئِكَ فِيهَا الضَّرْبُ الَّذِي كُتِبَ لَهُمْ يَوْمَ تَلَقُّهُمُ الْأَجْسَاءُ بِالْحُنُفِ فِيهِ الرِّحْمَةُ وَالظَّاهِرَةُ مِنْ قَبْلِهَا الْعَذَابُ ﴿۱۳﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمَّا كُنْتُمْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّكَ لَمَّا كُنْتُمْ مَعَكُمْ فَتَنَّاكُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَكْتُمْوَارْتَبْتُمْ وَعَزَّيْبُ الْأَعْيَانِ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَعَزَّيْبُ اللَّهِ الْغُرُورُ ﴿۱۴﴾

فَالْيَوْمَ لَا يَخْذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا

disbelievers. Your refuge is the fire. It is your friend, and what an evil destination it is.

16. Has not yet the time come for the believers that their hearts should feel humbled at the remembrance of Allah and for what has been revealed. But they should not become like those who were given the Book before. Then the term was prolonged for them, but their hearts were hardened. And most of them are disobedients.

17. Know that Allah gives life to the earth after its death. Indeed We (Allah) have made the Verses clear to you, that you may understand.

18. Surely, the charitable men and the charitable women and those who lend interest free good loan to Allah, it shall be manifold for them and for them is a generous reward.

19. And those who believe in Allah and His Rasools (Messengers), they are the truthfals and witnesses against others before their Rubb (Sustainer). For them is their reward and their light. But those who disbelieve and reject Our (Allah's) Verses they are the inmates of the hell.

SECTION 3

20. Know that this worldly life is only a sport and diversive amusement and an adornment and a source of boasting among yourselves and a rivalry in multiplication of riches and children against one another. It (this life) is like the rain whose vegetation

کھلے کافروں سے، تمہارا ٹھکانا آگ ہے اور تمہاری رشت ہے، اور کیا ہی برا انجام

(15)

کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا اور ان جیسے نہ ہوں جن کو پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر مدت دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں بہت فاسق ہیں (16)

جان لو کہ اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے سے پہلے بیٹھک ہم نے تمہارے لئے نشانیاں بیان فرمادیں کہ تمہیں سمجھ ہو (17)

بیٹھک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، ان کے دونے ہیں، اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے (18)

اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائیں، وہی ہیں کامل سچے اور اوروں پر گواہ، اپنے رب کے میاں، ان کے لیے ان کا ثواب، اور ان کا نور ہے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں، وہ دوزخی ہیں (19)

جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا، اس سینہ کی طرح جس کا اگایا سبزہ کسانوں کو بھایا، پھر

مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَمْوَالُهُمُ النَّارُ
هِيَ مَوْلَاهُمْ وَيُسِ الْمَصِيرُ ⑤
الَّذِينَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ
قُلُوبُهُمْ لِيذْكُرُوا اللَّهَ وَمَا نَزَلَ مِنْ
الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ
الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ
مِنْهُمْ فَسِقُونَ ⑥

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ⑦

إِنَّ الْمُسْتَضِئِينَ وَالْمُضِدِّتِ
وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لِيُضْعِفَ
لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ⑧

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ
هُمْ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ
رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا أُولَئِكَ بُرَىٰ مِنْهُمْ
بِأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ⑨

اعْلَمُوا أَنَّهَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا الْعِبَادُ
لَهُمْ وَرَبِّهِمْ وَنَفَاخُورٌ بَيْنَهُمْ وَ
تَكَثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ لِكُلِّ
عَدِيٍّ أَجْبَبَ الْكُفَّارِ نَبَاتُهُ ثُمَّ

pleases the tillers, then it dries up that you see it yellow, then it becomes broken pieces. And in the hereafter there is severe punishment and (also a) forgiveness from Allah and His Pleasure. And the life of this world is nothing but a deceitful temporary enjoyment.

21. Compete with each other in seeking forgiveness of your Rubb (Sustainer) and to get Paradise, the value of which is equal to the width of the heavens and the earth prepared for those who believe in Allah and His Rasool (Messenger). This is the grace of Allah. He bestows it whom He pleases. And Allah is highly Bountiful.

22. No calamity reaches either in the earth or in your own persons, but it is recorded in a Book, before We (Allah) bring into being. Surely, that is easy for Allah.

23. You should neither grieve over what you miss, nor rejoice over what is given to you. Allah does not love any self-centered boaster.

24. Those who are miser and bid others to be miser and those who turn away, (should know) that surely, Allah is All-Sufficient, Praiseworthy.

25. Certainly, We (Allah) have sent Our Rasools (Messengers) with clear arguments and have sent down with them the Book and the balance of equity, so that men might uphold justice. And We (Allah) have sent down iron, wherein is great strength and benefits for mankind, and in order that Allah may see him who helps

سوکا کہ تو اسے زرد دیکھے، پھر مددن ہو گیا، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا اور دنیا کا جینا تو میں گرد و خاک کا مال (20)

بڑھ کر چلو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی جیسے آسمان اور زمین کا پھیلاؤ، تیار ہوئی ہے ان کے لیے جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے، یہ اللہ کا فضل جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے (21) نہیں پہنچی کوئی مصیبت زمین میں، اور نہ تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک کتاب میں ہے، قلم اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں، جیکہ یہ اللہ کو آسان ہے (22)

اس لیے کہ ہم نہ کھاد اس پر جو ہاتھ سے جائے، اور خوش نہ ہو اس پر جو تم کو دیا اور اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتروا بڑائی مارنے والا (23)

وہ جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کو کس، اور جو منہ پھیرے، تو جیکہ اللہ ہی بے نیاز ہے سب خوبیوں سرا (24)

جیکہ ہم نے اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری، کہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت آج اور لوگوں کے فائدے، اور اس

يَهَيِّجُ قَلْبَهُ مُصْفَرٌ لَّا يَكُونُ
حَطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَ
رِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا
مَتَاعٌ الْعَوْرُورِ ۝

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَ
جَنَّةٍ عَرْضُهَا عَرْضُ السَّمَاءِ وَ
الْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ
يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ ۝

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ
وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ
أَن نُّبْرَأَهَا إِنْ ذَلِك عَلَى اللَّهِ
يَسِيرٌ ۝

لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا
تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
كُلَّ مُتَكَبِّرٍ ۝

الَّذِينَ يَخْتُونُونَ وَمَا يَتُورُونَ النَّاسَ
بِالْبَغْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ
الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ ۝

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا
مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَر
النَّاسَ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ
فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

Him and His Rasools (Messengers) without seeing. Surely, Allah is Powerful, Honorable.

26. And surely, We (Allah) sent Nuuh (Noah) and Ibraaheem (Abraham) and We (Allah) placed Nabooawat (Prophethood) and the Book amongst their children. Some of them were guided but most of them were disobedients.

27. Then We (Allah) sent after them Our (Allah's) other Messengers to follow their footsteps, and We (Allah) sent afterwards, Eesa Bin Maryam (Jesus son of Mary) and bestowed him the Injeel (Gospel - Bible). And We (Allah) placed kindness and mercy in the hearts of his followers. And as for adopting of monkhood by innovation into the religion, it was on their own accord. We (Allah) never prescribed it for them. This was for seeking the pleasure of Allah, but they did not observe it as it was to be observed. Therefore, We (Allah) gave those of them who believed the due award but most of them are disobedient.

28. O believers! be pious with Allah, and believe His Rasool (Messenger). He will give you a two fold portion of His Mercy and will provide you a light wherein you will walk, and will grant you forgiveness. And Allah is Forgiving, Merciful;

29. The followers of the Book may know that they have no control over the Grace of Allah and that the grace is entirely in the hands of Allah give it to whom He Pleases. And Allah is highly Bountiful.

لیے کہ اللہ دیکھے اس کو جو بے دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے' ایک اللہ قوت والا غالب ہے (25)

اور ایک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی تو ان میں کوئی راہ پر آیا' اور ان میں جیسے فاسق ہیں (26)

پھر ہم نے ان کے بچے اسی راہ پر اپنے اور رسول بھیجے' اور ان کے بچے محمد بن مریم کو بھیجا' اور اسے انجیل عطا فرمائی' اور اس کے پیروں کے دل میں نرمی اور رحمت رکھی' اور وہ راہب بنا' تو یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف نکالی' ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی' ہاں! یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کو پیدا کی' پھر اسے نہ نبھا جیسا اس کے نبھانے کا حق تھا' تو ان کے ایمان والوں کو ہم نے ان کا ثواب عطا کیا' اور ان میں سے جیسے فاسق ہیں (27)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ! وہ اپنی رحمت کے دو حصے تمہیں عطا فرمائے گا' اور تمہارے لیے نور کر دے گا جس میں چلو اور جس میں بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے (28)

یہ اس کے لیے کہ کتاب والے کافر جان جائیں کہ اللہ کے فضل پر ان کا کچھ قابو نہیں' اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ ہے' رتا ہے جسے چاہے' اور اللہ بڑے فضل والا ہے (29)

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرَسُولَهُ
بِأَلْغَيْبٍ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَ
جَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبِيَّةَ وَالْكِتَابَ
فَمِنْهُمْ مُّهْتَبٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ
فَسِقُونَ ﴿٢٦﴾

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرِسَالِنَا
وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ
الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ
اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابِيَّةً
ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا
ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا
حَقَّ رِعَايَتِهَا كَاتِبْنَا الَّذِينَ آمَنُوا
وَمِنْهُمْ أَجْرُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ
فَسِقُونَ ﴿٢٧﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا
بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِّن رَّحْمَتِهِ وَ
يَجْعَلْ لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيُعْفِرْ
لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٨﴾

لَيْلًا يَعْلَمُ أَهْلَ الْكِتَابِ الْأَقْبَرُونَ
عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ
الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن
عُيَسَاءَ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾

PART 28

S LVIII

SURA AL-MOOJADILAH
(THE PLEADING WOMAN)

Revealed at Madina

(22 Verses, 3 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. Allah has indeed heard the plea of the woman who argues with you about her husband and complains to Allah. Allah has heard the dialogue of both of you. Surely, Allah is Hearing, Seeing.

2. Those of you who leave (divorce) their wives calling them mothers, they do not become their mothers. Their mothers are only those who gave them the birth; and surely they utter a hateful word and falsehood. Surely, Allah is Pardoning, Forgiving.

3. And those who call their wives as mothers, then wish to revoke what they said, it is incumbent upon them that they should free a captive before they touch each other. This is to warn you (to conform); and Allah is Aware of what you do.

4. But whoever has not such means (freeing a captive), let him fast for two months, successively, before they touch each other; then as for him who is not able, let him feed sixty needy ones; that is in order that you may have faith in Allah and His Rasool (Messenger). And these are Allah's limits, and the disbelievers shall have a painful punishment.

5. Surely, those who oppose Allah and His Rasool

سورۃ مجادلہ مثنیٰ ہے (اس میں) ہائیں
(22) آیتیں، تین (3) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان
رحم والا

بے شک اللہ نے سنی اس کی بات جو تم
سے اپنے شوہر کے معاملہ میں بحث کرتی
ہے، اور اللہ سے شکایت کرتی ہے، اور
اللہ تم دونوں کی منگوسن رہا ہے، بیگ
اللہ سنا رہتا ہے (1)

وہ جو تم میں اپنی بیبیوں کو اپنی ماں کی جگہ
کہہ بیٹھے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں، ان
کی مائیں تو وہی ہیں جن سے وہ پیدا ہیں،
اور وہ بے شک بڑی اور نری جھوٹ بات
کہتے ہیں، اور بیگ اللہ ضرور معاف
کرنے والا، اور بخشنے والا ہے (2)

اور وہ جو اپنی بیبیوں کو اپنی ماں کی جگہ
کہیں، پھر وہی کرنا چاہیں جس پر اتنی بڑی
بات کہہ چکے، تو ان پر لازم ہے ایک برہہ
(غلام) آزاد کرنا، قبل اس کے کہ ایک
دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یہ ہے جو صیحت
جمیس کی جاتی ہے، اور اللہ تمہارے
کاسوں سے خزاں ہے (3)

پھر جسے برہہ نہ ملے، تو لگا تار دو مہینے کے
روزے، قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو
ہاتھ لگائیں، پھر جس سے روزے بھی نہ
ہو سکیں، تو ساٹھ مسکینوں کا پیٹ بھرنا، یہ
اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر
ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور
کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے (4)
بیگ وہ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس

سورۃ المجادلہ اور من انشاہن وقت کوئی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ
فِي زَوْجِهَا وَتَشْكُرِي اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ
يَسْمَعُ سَخَّوْرًا كَمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ
بَصِیْرٌ ①

الَّذِيْنَ يَظْهَرُوْنَ مِنْكُمْ مِّن
تَسَابُحِهِمْ فَهِنَّ اُمَّهَاتِهِمْ اِنَّ
اُمَّهَاتَهُمْ اِلَّا اَبْوَاءٌ وَلَدْنَهُمْ وَاِنَّهُمْ
لَيَقُولُوْنَ مِنْكُمْ اَقْرَبُ الْقَوْلِ وَاَزْوَاجًا
وَ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوْ غَفُوْرٌ ②

وَالَّذِيْنَ يَظْهَرُوْنَ مِنْ تَسَابُحِهِمْ
تَعْرِ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِیْرُ
رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّمْسَا سَادِيْكُمْ
تَوْعَطُوْنَ رِبَّهٖ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
خَبِیْرٌ ③

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّمْسَا
فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاَطْعَامَ سِتِّیْنَ
مِسْكِيْنًا ذَلٰلًا لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ
رَسُوْلِهِ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَ
لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ④

اِنَّ الَّذِيْنَ يَخٰذِلُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ

(Messenger) shall be laid down face down as those before them were laid down face down. Indeed We (Allah) have revealed clear Verses and the disbelievers shall have a humiliating punishment.

6. On that day Allah will raise them up altogether, then inform them of what they did. Allah has recorded it while they have forgotten it; and Allah is Witness to all the things.

SECTION 2

7. Do not you see that Allah knows whatever is in the heavens and whatever is in the earth? Nowhere is there a secret deal between three persons but He is the fourth of them, nor (between) five but He is the sixth of them, nor less than that nor more but He is with them wherever they are. He will inform them of what they did on the Day of Resurrection. Surely, Allah knows well of all the things.

8. Have you not seen those who are forbidden from secret deals. Then they return to what they are forbidden, and they hold secret deal for sin and revolt and commit disobedience to and the Rasool (Messenger). And when they come to you they greet you with a greeting with which Allah has not greeted you. And they say in themselves, "why does not Allah punish us for what we say"? Hell is enough for them. They shall burn in it, and evil is this end.

9. O believers! when you confer together secretly, do not give to each other deals of

کے رسول کی ذیل کیے گئے جیسے ان سے انگوں کو زلت دی گئی اور بیگ ہم نے روشن آیتیں اتاریں اور کافروں کے لیے خواری کا عذاب ہے (5)

جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں ان کے کوٹک (بد اعمالیوں کو) بتا دے گا اللہ نے انہیں من رکھا ہے اور وہ بھول گئے اور ہر چیز اللہ کے سامنے ہے (6)

اے سننے والے! کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں جہاں کہیں تین شخصوں کی سرگوشی ہو تو چوتھا وہ موجود ہے اور پانچ کی تو چھتا وہ اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ کی گمر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں ہوں پھر انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا بیگ اللہ سب کچھ جانتا ہے (7)

کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں بُری مشورت سے منع فرمایا گیا تھا پھر وہی کرتے ہیں جس کی ممانعت ہوئی تھی اور آپس میں گمناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان لفظوں سے تمہیں بجا کرتے ہیں جو لفظ اللہ نے تمہارے اعزاز میں نہ کہے اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہمیں اللہ عذاب کیوں نہیں کرتا؟ ہمارے اس کئے پر انہیں جہنم بس ہے اس میں دھیس ہے تو کیا ہی بُرا انجام (8)

اے ایمان والو! تم جب آپس میں

كَيْتُوا كَمَا كَيْتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ يَتَذَكَّرُ فِيهَا
عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

يَوْمَ يَنْبَعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا
فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ
اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ ۝

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى
ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَالْخَفِيفَةِ
الْأَثْوَرِ سَادِسُهُمْ وَلَا آدَنَىٰ مِنْ ذَلِكَ
وَلَا أَكْرَبَ الْأَهْوَمَ مَعَهُمْ أَيُّنَ مَا
كَانُوا ثُمَّ يَنْبَعَثُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ
الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهَوْنَا عَنِ النَّجْوَى
ثُمَّ يَعْوَدُونَ لَهَا أَنَّهُمْ وَعَدُوا بِنَجْوَانِ
بِالْأَثْوَرِ الْعُدْوَانِ وَمَعْصِدَتِ
الرُّسُولِ وَإِذْ اجْمَعُوا وَكَ حَيُّوكَ
بِمَا لَمْ يَجْعَلْ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ
فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ
بِمَا نَقُولُ حَسْبُكُمْ جَهَنَّمُ
يَصْلَوْنَهَا فَبئسَ الْمَصِيرُ ۝
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ

sin and revolt and disobedience against the Rasool (Messenger). But give to each other counsel of virtue and piousness. And be pious to Allah, to Whom you shall be gathered together.

10. Secret deals are only (the work of the satan (devil) that he may cause to grieve those who believe, and he cannot hurt them to the least, except with Allah's permission. And only in Allah the believers put their trust.

11. O believers! when it is said to you, "make room in (your) assemblies, then make ample room, Allah will make ample room for you. And when it is said rise up, then rise up. Allah will exalt those of you who believe from among you and those who are given knowledge, in high degrees. And Allah is Aware of what you do.

12. O believers! when you consult the Rasool (Messenger), then offer something in charity before your consultation. That is better for you and purer; but if you do not find anything then surely, Allah is Forgiving, Merciful.

13. Do you fear that you will not (be able to) give in charity before you go for consultation? But when you do not do it and Allah has turned to you (mercifully), then establish Salaat (Muslim Prayer) and pay the Zakaat (compulsory due) and obey Allah and His Rasool (Messenger). And Allah is Aware of what you do.

SECTION 3

14. Have you not seen

مشورت کرو، تو گناہ اور حد سے بڑھے اور رسول کی نافرمانی کی مشورت نہ کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کی مشورت کرو، اور اللہ سے ڈرو، جس کی طرف اٹھائے جاؤ گے (9)

وہ مشورت تو شیطان ہی کی طرف سے ہے اس لیے کہ ایمان والوں کو رنج دے اور وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بے حکم خدا کے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسا چاہیے (10)

اے ایمان والو! جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو، تو جگہ دو، اللہ تمہیں جگہ دے گا، اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو، تو اٹھ کھڑے ہو، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے (11)

اے ایمان والو! جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو، تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، اور یہ تمہارے لیے بہتر اور بہت ستمرا ہے، پھر اگر تمہیں مقدور نہ ہو، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے (12)

کیا تم اس سے ڈرے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دو، پھر جب تم نے یہ نہ کیا، اور اللہ نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمائی، تو نماز قائم رکھو، اور زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان بردار رہو، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے (13)

کیا تم نے امنیں نہ دیکھا جو ایسوں کے

فَلَا تَتَّخِذُوا لِلْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجُوا بِالْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَالْعَمَلِ وَاللَّهِ الَّذِي فِي يَدَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۹﴾

إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَرَارِهِمْ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۰﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَنْشُرِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَرِجْتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۱۱﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۲﴾

أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَتْ فَأَذِّنُوا لَكُمْ لَعْنُوا وَأَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۳﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ

those who befriend a people who deserve penalty of Allah? They are neither yours nor of themselves. And they swear falsely while they know.

15. Allah has prepared for them a severe punishment. Surely, what they do is evil.

16. They make their oaths to serve as a cover so they turn away from Allah's way. Therefore, they shall have a humiliating punishment.

17. Neither their wealth, nor their children shall help them anyway against Allah. They are the inmates of the fire, wherein they shall remain for ever.

18. On the day that Allah will raise them up all, they will swear to Him as they swear to you, and they think that they have some stand. Surely, they are the liars.

19. Satan (devil) has gained the mastery over them. So he has made them forget the remembrance of Allah. They are the satan's party. Surely, the satan's (devil) party is the loser.

20. Surely, those who act in opposition to Allah and His Rasool (Messenger), will be among the lowest.

21. Allah has decreed, "I and My Rasools (Messengers) shall surely, prevail. Surely, Allah is Powerful, Honorable.

22. You shall not find a people who believe in Allah and the Last Day loving those who act in opposition to Allah and His Rasool (Messenger). Even though they be their fathers, or their sons, or their brothers, or their kinsfolk. These are they into whose hearts He has impressed faith, and whom He has

دوست ہوئے جن پر اللہ کا غضب ہے وہ نہ تم میں سے نہ ان میں سے وہ دانستہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں (14)

اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بیشک وہ بہت ہی بُرے کام کرتے ہیں (15)

انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے تو اللہ کی راہ سے روکا، تو ان کے لیے خواری کا عذاب ہے (16)

ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ دیں گے، وہ دوزخی ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا (17)

جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے حضور بھی ایسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسی تمہارے سامنے کھا رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا، سنتے ہو، بیشک وہی جھوٹے ہیں (18)

ان پر شیطان غالب آ گیا تو انہیں اللہ کی یاد بھلا دی، وہ شیطان کے گروہ ہیں، سنتا ہے! بیشک شیطان ہی کا گروہ ہار میں ہے (19)

بے شک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ذیلیوں میں ہیں (20)

اللہ لکھ چکا کہ ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول، بیشک اللہ قوت والا عزت والا ہے (21)

تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور بچھلے دن پر، کہ دوستی کریں اور ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں، یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش

اللہ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَجْفُونَ عَلَى الْكُذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝۱۴
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۱۵

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً أَصْدَوْا عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝۱۶

لَنْ نغْفِرَ عَنْهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝۱۷

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا لِيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَسْبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا لَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ۝۱۸

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ الْأُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ هُمْ الْخَسِرُونَ ۝۱۹

إِنَّ الَّذِينَ يَخْذَرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذْذَلِينَ ۝۲۰

كَتَبَ اللَّهُ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَرَسُولِهِ أَنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝۲۱

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَ

strengthened with an inspiration from Him. And He will cause them to enter Paradise beneath which streams flow, to remain there in eternity. Allah is well pleased with them and they are well pleased with Him. These are Allah's party. Surely, the party of Allah are the successful ones.

S LIX

SURAAL-HASHR
(THE CONFRONTATION)

Revealed at Madina

(24 Verses, 3 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. Whatever is in the heavens and whatever is in the earth glorifies Allah, and He is the most Honorable, the most Wise.

2. It is He Who expelled (Jews) those who disbelieved amongst the followers of the Book to go forth from their homes at the first confrontation (from Madina). You did not think that they would go forth, while they were certain that their fortresses would defend them against Allah. But Allah came upon them from where they did not expect, and filled their hearts with terror. They demolished their houses with their own hands and the hands of the believers. Therefore, take a lesson, O you men of sight.

3. And surely, had it not been that Allah had decreed for them the exile, He would certainly have punished them in this world. But in the hereafter they would have punishment of the fire.

فرمایا اور اپنی طرف کی مدد سے ان کی مدد کی اور انہیں بانوں میں لے جایا جن کے بچے مرس بسیں ان میں بیش رہیں اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی یہ اللہ کی جماعت ہے سنتا ہے! اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے (22)

سورہ شرمینی ہے (اس میں) چوبیس (24) آیتیں تین (3) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

اللہ کی پاکی بولا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور وہی عزت و حکمت والا ہے (1)

وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا ان کے پلے حشر کے لیے ہمیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچالیں گے تو اللہ کا حکم ان کے پاس آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا کہ اپنے گھر ویران کرتے ہیں اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں تو عبرت لیا اے نگاہ والو! (2)

اور اگر نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر گھر سے اجزا لکھ دیا تھا تو دنیا ہی میں ان پر عذاب فرماتا اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے (3)

أَيُّدُهُمْ يَرْزُقُهُمْ قَوْلَهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَرْضٌ يُرْوَى مِنْهَا الْعُودُ لَهُمْ رِزْقًا وَسَعَةً أُولَئِكَ جِزْيَةُ اللَّهِ الْإِنِّ أَنْ جِزْيَةُ اللَّهِ وَالْمُفْرَحُونَ ۝

وَأَيُّدُهُمْ يَرْزُقُهُمْ قَوْلَهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَرْضٌ يُرْوَى مِنْهَا الْعُودُ لَهُمْ رِزْقًا وَسَعَةً أُولَئِكَ جِزْيَةُ اللَّهِ الْإِنِّ أَنْ جِزْيَةُ اللَّهِ وَالْمُفْرَحُونَ ۝

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝
هُوَ الَّذِي اَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اٰهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا اَنْهُمْ مٰرَءَتَهُمْ حٰصُوا مِنْهُمْ فَاِنَّ اللَّهَ فَاتَهُمْ مِنَ اَيْنَ مَا لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَقَدْ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبُ يُخْرَجُوْنَ يُرْوٰهُمْ اَيُّدِيْهِمْ وَيَاوِيْ اِلَيْنَا ۝

وَلَوْلَا اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَزَاءَ لَعَذَّبْتَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَاُولٰٓئِكَ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۝

4. That is because they opposed Allah and His Rasool (Messenger). And whoever acts in opposition to Allah, then surely, Allah is severe in retribution.

5. The palm-tree you (Muhammad) cut down or left standing upon its roots, it was by Allah's Command. And He will disgrace the disobedients.

6. And whatever Allah gave to His Rasool (Messenger) as the war spoils (left outs) you neither urged to get a horse nor a camel for that; but Allah grants authority to His Rasool (Messenger) against whom He pleases. And Allah has power over all the things.

7. Whatever Allah has given to His Rasool (Messenger) as war spoils (left outs) from the people of the towns, it is for Allah and for the Rasool (Messenger), and for the near of kin and the orphans and the needy and the wayfarers, so that it may not circulate only among the rich of you. And whatever the Rasool (Messenger) gives you, take it, and from whatever he forbids you abstain from that, and be pious to Allah. Surely, Allah is severe in retribution.

8. Spoils (war left out) are for the poor refugees who were driven from their homes and their possessions, seeking grace of Allah and (His) pleasure, and assisting Allah and His Rasool (Messenger). These are the truthful.

9. And those (locals) who had their homes in this (Madina) city and accepted faith before (the arrival of the

یہ اس لیے کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے پھرتے رہے اور جو اللہ اور اس کے رسول سے پھرتے رہے، تو جیکے اللہ کا عذاب سخت ہے (4)

جو درخت تم نے کاٹے یا ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیئے، یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا، اور اس لیے کہ فاسقوں کو رسوا کرے (5)

اور جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو ان سے، تو تم نے ان پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ! ہاں! اللہ اپنے رسولوں کے قابو میں دسے دیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے (6)

جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے، وہ اللہ اور رسول کی ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے کہ تمہارے انبیاء کا مال نہ ہو جائے اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں، وہ لو! اور جس سے منع فرمائیں، باز رہو! اور اللہ سے ڈرو! بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے (7)

ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے اور اللہ و رسول کی مدد کرتے، وہی سچے ہیں (8)

اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا، دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے

ذَلِكَ بِأَنَّكُمْ شَأَقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَمَنْ يَشَأَقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ۝

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا
قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ
وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ۝

وَمَا آفَاءُ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ
فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ
لَارِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ
رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

مَا آفَاءُ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ
الْقُرَى فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَ
ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً
بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ
أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
وَيُنصَرُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
هُمُ الصَّادِقُونَ ۝

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ
مِنْ قَبْلِهِمْ يَجْعَلُونَ مَنْ هَاجَرَ
إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ

Holy Prophet there) love those who came to them for refuge, and do not mind a need of what they (refugees) are given, and prefer refugees to themselves, even though poverty may afflict them. And whoever is away from the miserliness of his own self, these are the successful ones.

10. And those (Makkans) who came after them submitted, "Our Rubb (Sustainer) forgive us and our brothers who preceded us in faith. Do not leave a grudge to remain in our hearts towards those who believe. Our Rubb (Sustainer)! surely, you are Kind, Merciful."

[ONE FOURTH OF PART 28 ENDS]

SECTION 2

11. Have you not seen those who are hypocrites? They say to their brethren who disbelieve from among the followers of the Book: "if you are driven out, we shall certainly go forth with you, and we will never obey any one against you. And if you are fought against, we will certainly help you. But Allah bears witness that they are surely, liars.

12. Certainly if they are turned out, they will not go forth with them, and if they are fought against, they will not help them. And even if they help them, they will certainly turn (their) backs. But then they shall not be helped.

13. Certainly they have greater fear of you in their hearts than of Allah. That is because they are a nation who are devoid of reason.

اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پائے اس چیز کی جو دینے گئے، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ انہیں شدید عیب ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا گیا تو وہی کامیاب ہیں (9)

اور وہ جو ان کے بعد آئے، عرض کرتے ہیں، 'اے ہمارے رب! ہمیں بخش دے، اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، اے رب ہمارے! بیک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے (10)

کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے بھائیوں کافر کتابیوں سے کہتے ہیں، کہ اگر تم نکالے گئے، تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور ہرگز تمہارے بارے میں کسی کی نہ مانیں گے، اور تم سے لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں (11)

اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے، اگر ان کی مدد کی بھی تو ضرور پیچھے پھیر کر بھائیں گے، پھر مدد نہ پائیں گے (12)

بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے، یہ اس لیے کہ، وہ نا سمجھ لوگ ہیں (13)

حَاجَةً وَمَا أُوْتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُؤْتِ شَيْئًا مِّنْ نَّفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِن أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نَطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَذِبُونَ ﴿١١﴾

لَئِن أُخْرِجُوا لَئِن أُخْرِجُوا مَعَهُمْ وَإِن قُوتِلُوا لَئِن نَصُرُوا لَهُمْ وَإِن تَضَرَّتْهُمُ الْغُلَابُ رَنَدُ لَنَصُرْنَّهُمْ لَئِن نَصُرُونَّ ﴿١٢﴾

لَآ تَنفَعُكُمْ شَتْرُكُمْ فِي صُدُورِهِمْ مِن آلِهِ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾

14. They will not even fight against you together, save in fortified towns or from behind walls. Their fighting between themselves is severe. You may think them as one body, but their hearts are disunited. That is because they are a nation who have no sense.

15. They are like those who were just before them. They tasted the evil result of their doings. And they shall have a painful punishment.

16. Like the satan (devil) when he says to a person to disbelieve. But when he disbelieves, he says, "I have surely, nothing to do with you. Surely, I fear Allah, the Rubb (Sustainer) of the entire universe."

17. Therefore, the end of both of them will be that they both will be in the fire to remain therein for ever. This is the award of the cruels.

SECTION 3

18. O you who believe! be pious to Allah, and let every self look forward as to what it has sent on for the morrow. And be pious to Allah. Surely, Allah is Aware of what you do.

19. And be not like those who forget Allah, so He puts them in distress of forgetting their own selves. These are the disobedients.

20. The inmates of the fire and the dwellers of the Paradise are not equal. The dwellers of the Paradise are they who are the achievers.

21. Had We (Allah) revealed this Qur'aan on a mountain, you would certainly have seen it humbled down, splitting asunder because of the fear of

یہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر قلعہ بند شہروں میں یا ڈھسوں (قلعے کی نفیل) کے پیچھے، آپس میں ان کی آنج سخت ہے، تم انہیں جتھا سمجھو گے، اور ان کے دل الگ الگ ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں (14)

ان کی سی کماوت جو ابھی قریب زمانہ میں ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے (15)

شیطان کی کماوت جب اس نے آڑی سے کہا، کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا، بولا! میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب (16)

تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے (17)

لَا يُقَاتِبُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا قَوْمٌ مِّنْكُمْ
مُحْصَنِينَ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ
بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا
وَقَلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿۱۴﴾

كَمِثْلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا
ذَاتُوا أَوْ بَالٍ أَمْ رَهُمْ وَأَلَّامٌ عَذَابِ
الْجَحِيمِ ﴿۱۵﴾

كَمِثْلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ
اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ
إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶﴾

فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ
فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿۱۷﴾

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو! اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے سمجھا، اور اللہ سے ڈرو، چیک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے (18)

اور ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے، تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ انہی جانمیں یاد نہ رہیں، وی فاسق ہیں (19)

دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں جنت والے ہی مراد کو پہنچے (20)

اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے، تو ضرور تو اسے دیکھتا، جکا ہوا، پاش پاش ہوتا، اللہ کے خوف سے، اور یہ مثالیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّامَتْ لِبَعْدٍ وَ
الْقَوْلَ اللَّهُ إِنْ أَدَلَّةٌ حَسِبْتُمْ مِمَّا
تَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ
فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ ﴿۱۹﴾

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ
الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ
الْقَائِمُونَ ﴿۲۰﴾

لَوْ أَنزَلْنَاهُ عَلَىٰ جَبَلٍ
لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ

Allah. And We (Allah) set forth these examples to human beings that they may ponder upon.

22. He is Allah besides Whom there is none worth worship; the Knower of the unseen and the seen. He is Rehmaan (the Affectionate Allah), the Merciful.

23. He is Allah, besides Whom there is none worth worship; the Sovereign, the Holiest, the best Source of peace, the top Bestower of security, the highest Guardian, the most Honorable, the best Subduer, the Possessor of every greatness. Glory be to Allah from what they commit as "shirk" (making associate with Him).

24. He is Allah the Creator, the Maker, the Fashioner. His are the most beautiful names. Whatever is in the heavens and the earth glorifies Him. And He is the most Honorable, the most Wise.

S LX

SURA AL-MOOMTAHINA
(THE TESTED WOMAN)

Revealed at Madina

(13 Verses, 2 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. O believers do not take My enemy and your enemy as friends. Would you offer them love while they deny what truth has come to you, driving out the Rasool (Messenger) and yourselves because you believe in Allah as your Rubb (Sustainer)? If you go forth struggling hard in My way and seeking My

لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں کہ وہ سوچیں (21)

وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہر نماں دعیاں کا جانے والا وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا (22)

وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں بادشاہ نہایت پاک سلامتی دینے والا امان بخشنے والا حفاظت فرماتے عزت والا عظمت والا تکبر والا اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے (23)

وہی ہے اللہ بنائے والا پیدا کرنے والا ہر ایک کو صورت دینے والا اسی کے ہیں سب ایسے نام اس کی پاکی بڑا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہی عزت و حکمت والا ہے (24)

سورۃ ممتحنہ مکی ہے (اس میں) تیرہ (13) آیتیں (اور) دو (2) رکوع (ہیں) اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

اے ایمان والو! میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ تم انہیں خبریں پچھاتے ہو دوستی سے حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا مگر سے جدا کرتے ہیں رسول کو اور تمہیں اس پر کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے اور میری

حَسْبِيَ اللَّهُ وَبِذَلِكَ الْوَعْدِ
لَا أَشْكُرُ
لَهُ شَيْئًا لَّئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ
رَبِّي لَأَكْفُرَنَّ ۝۱۰
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ
الْقُدُّوسُ وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ ۝۱۱

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ
الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيَّبُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝۱۲

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ
لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ
عِزُّ الْعَرْشِ الْحَكِيمُ ۝۱۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ
الَّذِينَ هُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ وَكُفْرًا
وَأَبْهَاجَةً مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ
الرَّسُولَ وَإِذْ أَنْتُمْ تَوَدُّونَ
أَنَّ تَكْفُرُونَ

pleasure, would you secretly love them? And I know what you conceal and what you reveal. And whoever of you does this, he indeed has gone on the wrong way away from the straight path.

2. If they get upper hand on you, they will become your enemies, and will stretch forth towards you their hands and their tongues with evil. They ardently desire that you may become disbeliever.

3. Neither your relationship would profit you, nor your children, on the Day of Resurrection. He will decide between you. And Allah sees what you do.

4. Indeed there is a good model for you in Ibraaheem (Abraham) and those with him. When they said to their nation, "Surely, we have nothing to do with you and with that you worship, except Allah. We disbelieve all that you believe. Enmity and hatred have arisen between us and you for ever until you believe in Allah alone. But what Ibraaheem (Abraham) said to his father was, "I would certainly ask forgiveness for you, though I have no authority. O Our Rubb (Sustainer), on You do we rely, and to You do we turn, and to You is our final return.

5. Our Rubb (Sustainer)! do not make us a trial for those who disbelieve, and forgive us. Our Rubb (Sustainer)! surely, you are the most Honorable, the most Wise.

رضا چاہئے کہ تو ان سے دوستی نہ کرو، تم انہیں خفیہ پیام محبت کا بھیجتے ہو اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو! اور تم میں جو ایسا کرے، چیک وہ سیدھی راہ سے بھگا (1)

اگر تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہوں گے، اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں بڑائی کے ساتھ دراز کریں گے، اور ان کی تمنا ہے کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ (2)

ہرگز کام نہ آئیں گے تمہیں تمہارے رشتے اور نہ تمہاری اولاد، قیامت کے دن تمہیں ان سے الگ کر دے گا اور

اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے (3)
بے شک تمہارے لیے اچھی بیوی تھی ابراہیم اور اس کے ساتھ والوں میں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، بے شک ہم ہزار ہیں تم سے اور ان سے جنہیں اللہ کے سوا پوجتے ہو، ہم تمہارے منکر ہوئے اور ہم تم میں دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی بیشک کے لیے، جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا کہ میں ضرور تمہاری مغفرت چاہوں گا، اور میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی نفع کا مالک نہیں، اے ہمارے رب! ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا، اور تمہی ہی طرف رجوع لائے، اور تمہی ہی طرف پھرتا ہے (4)

اے ہمارے رب! ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، اور ہمیں بخش دے، اے ہمارے رب! چیک تو ہی عزت و حکمت والا ہے (5)

كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي
وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ
بِالْمُؤَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ
وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ
فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ①
إِنْ يَتَّقَوْكُمْ يُكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً
وَيَسْطُوْا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَسْطُمُ
بِالشُّؤْرِ وَيُوَدُّوْا لِمُتَكَفِّرُوْنَ ②

إِن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصَلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ③
قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ
وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْقَوْمِ هُمُ إِنَّا
بِرَبِّهِمْ وَأَنْتُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَ
بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا
حَتَّى تَوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَّةَ الْأَقْوَالِ
إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَفِرَّكَ لَكَ
وَمَا أَفِيكَ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ
رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَأْنَا
إِلَيْكَ الْمَصِيرُ ④

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا
وَأَعِزَّنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ⑤

6. Certainly there is for you in them a good model for him who has hope in Allah and the Last Day. But whose turns away, then Surely, Allah is All Self-sufficient, All Praised.

SECTION 2

7. It may be that Allah will bring about friendship between you and those whom you hold to be your enemies among them. But Allah is All-Powerful. And Allah is Forgiving, Merciful.

8. Allah does not forbid you in respecting those who have not fought against you on account of (your) religion, and who have not expelled you out from your homes, that you show them kindness and deal with them justly. Surely, Allah loves the just ones.

9. Allah only forbids you in respect of those who have fought against you on account of (your) religion and expelled you from your homes and backed (others) in your expulsion, that you befriend them. And whoever makes friendship with them, these are the cruels.

10. O believers! when believing women come to you as refugees, examine them. Allah knows best their faith. Then if you find them to be true believers, do not send them back to the disbelievers. Neither are these (women) lawful for them, nor are they (men) lawful for these (women). But give them (disbeliever husbands) what they have spent. And there is no sin if you marry them when you give them their dowries. And hold not to the

بے شک تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی تھی اسے جو اللہ اور پچھلے دن کا امیدوار ہو، اور جو منہ پھیرے، تو بیشک اللہ ہی بے نیاز ہے سب خوبیوں سرا (۶)

قریب ہے کہ اللہ تم میں اور ان میں جو ان میں سے تمہارے دشمن ہیں دوستی کر دے، اور اللہ قادر ہے اور بخشنے والا مہربان ہے (7)

اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا، تو جو تم سے دین میں نہ لڑے، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالے، کہ ان کے ساتھ احسان کرو، اور ان سے انصاف کا برتاؤ برتو، بیشک انصاف والے اللہ کو محبوب ہیں (8)

اللہ تمہیں انہی سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے، یا تمہیں تمہارے گھروں سے نکالے، یا تمہارے نکالنے پر مدد کی، کہ ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کرے، تو وہی سنگار ہیں (9)

اسے ایمان والا! جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان سے اپنے گھر چھوڑ کر آئیں، تو ان کا امتحان کرو، اللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے، پھر اگر تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں، تو انہیں کافروں کو واپس نہ دو، نہ یہ انہیں حلال نہ وہ انہیں حلال، اور ان کے کافر شوہروں کو دے دو جو ان کا خرچ ہوا، اور تم پر یہ کچھ گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کرو جب ان کے مرا نہیں دو، اور کافر نہیں

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَفَضَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ قُرْبًا مِمَّا قُودُوا ②

وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ③
لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ④

إِنَّمَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَلَمُوا عَلَىٰ أَخْرَاجِهِمْ أَنْ تُكُونُوا لَهُمْ قُرْبًا مِمَّا قُودُوا ⑤
هُمُ الظَّالِمُونَ ⑥

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ مَهْجَرَاتٌ فَأُمِتُّوهنَّ اللَّهُ أَعْلَمَ بِأِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٌ فَلَا يَنْكِحُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهْنَّ جِلَّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَنْكِحُوهُنَّ لَقِنَ وَأَتْوَهُنَّ مَا آتَفَقُوا وَ لِحُجَّتِمْ عَلَيْهِمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا

ties of marriage the disbelieving women, but ask for what you have spent on them. And let them ask for what they have spent. That is Allah's judgement. He decides between you. And Allah is All - Knowing, Wise.

11. And if any one from your wives slips away from you to the disbelievers, then you retaliate. Give to those whose wives have gone away the like of what they have spent (on such wives) and be righteous with Allah in Whom you believe.

12. O Nabi (Phrophet Communicator of the hidden news) when believing women come to you giving you a pledge that they will not commit "shirk" (associate anyone with Allah), and they will neither steal, nor commit adultery nor will kill their children, nor bring a scandle which they have forged of themselves, and will not disobey you in what is right, then accept their pledge, and ask forgiveness for them from Allah. Surely, Allah is Forgiving, Merciful.

13. O you who believe! do not make friends with a people with whom Allah is wrathful. Indeed they are in despair of the hereafter just as the disbelievers are in despair of those who are in graves.

[HALF OF PART 28 ENDS]

S. LXI

SURA US-SAFF
(THE RANKS)

Revealed at Madina

(14 Verses, 2 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION I

کے نکاح پر جسے نہ رہو، اور مانگ لو جو تمہارا خرچ ہوا، اور کافر مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تم میں فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے (10)

اور اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں، پھر تم کافروں کو سزا دو، تو جن کی عورتیں جاتی رہی تھیں غنیمت میں سے انہیں اتنا دے دو جو ان کا خرچ ہوا تھا، اور اللہ سے ڈرو، جس پر تمہیں ایمان ہے (11)

اے نبی! جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا کچھ شریک نہ ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ بدکاری، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ وہ بتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی موضع ولادت میں اٹھائیں، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لو، اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو، بھگ اللہ بخشنے والا مہربان ہے (12)

اے ایمان والو! ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہے، وہ آخرت سے آس توڑ بیٹھے ہیں، جیسے کافر آس توڑ بیٹھے قبر والوں سے (13)

سورہ صف مدنی ہے (اس میں) چودہ (14) آیتیں (اور) دو (2) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

اَتَيْتُمُوهُنَّ اَمْوَالَهُنَّ وَلَا تَسْئَلُوهُنَّ اِذَا جَاؤُنَّ بِاَلْحَبْلِ الْمُحْتَمَلِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسُبُّوْنَ
وَلَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ فِى شَيْءٍ مِّنْ اَعْمٰلِكُمْ
وَالَّذِي يَخْتَفِىْ بِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿۱۰﴾

وَرٰنٍ فَاَتٰكُمْ سُبْحٰنُ الَّذِىْ اَرْزٰوْا حٰكِمًا
اِلَى الْكٰفِرِ فَعَايَبْتُمْ فَاُولٰٓئِكَ لِيْنَ
دَهَبَتْ اَرْزٰوْا حٰكِمًا مِّثْلَ مَا اَلْفَقُوْا
وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ اَنْتُمْ بِهٖ
مُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۱﴾

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا جَاؤَكَ الْمُؤْمِنٰتُ
يَبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لَا يُسْرِقْنَ بِاللّٰهِ
سُبْحٰنًا وَلَا يُسْرِقْنَ وَلَا يُزْنِبْنَ وَلَا
يَقْتُلْنَ اَوْ لَا دِهْنَ وَلَا يَأْتِيْنَ
بِبَهْتٰنٍ يَخْفٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ
وَاَنْدَحِيْلِهِمْ وَلَا يُعْصِبْنَكَ رِفِيْ
مَعْرُوْفٍ يَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرُ
لَهُنَّ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲﴾

يٰۤاَيُّهَا الَّذِىْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ
عَظِيْبٌ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدَّ يَسُوْا
مِنَ الْاٰخِرَةِ لَمَّا يَسِسَ الْكٰفِرٰتُ
اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ﴿۱۳﴾

الصفیٰ نے فرمایا: اے نبی! جب کافروں کی طرف سے بیعت کی جائے تو ان سے بیعت کرنا جائز ہے، لیکن ان سے بیعت کرنے کے بعد ان سے نفرت رکھنا ضروری ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

1. Whatever is in the heavens and whatever is in the earth glorifies Allah; and He is the most Honorable, the most Wise.

2. O believers! why do you profess which you do not practise.

3. It is most hateful to Allah that you say that which you do not act upon.

4. Surely, Allah loves those who fight in His way in full formation ranks as if they were a firm wall cemented with lead.

5. And (remember) when Moosaa (Moses) said to his nation, "O my nation! why do you give me trouble? And you know indeed that I am Allah's Rasool (Messenger) to you. But when they deviated, Allah caused their hearts to deviate. And Allah does not guide the transgressing nation.

6. And when Eesa Bin Maryam (Jesus son of Mary) said, "O children of Israa'el! surely, I am Rasool (Messenger) of Allah to you, confirming that which is before me in the Taurait (Torah) and giving the good news of a Rasool (Prophet Muhammad) who will come after me. His name shall be Ahmad. But when he came to them with clear proofs they said, "this is clear magic."

7. But who is more cruel than he who forges a lie against Allah when he is invited to Islam. Allah does not guide the cruel nation.

8. They desire to extinguish the light of Allah blowing it with their mouths, but Allah will perfect His

اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور وہی عزت و حکمت والا ہے (1)

اسے ایمان والا کہیں کہتے ہو جو ہمیں کرتے؟ (2)

کیسی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرے (3)

بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انہیں جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں، پرا بانہ کر، گویا وہ عمارت ہیں رانکا (سید) پائی (4)

اور یاد کرو، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم! مجھے کیوں ستاتے ہو؟ حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف

اللہ کا رسول ہوں، پھر جب وہ ٹیڑھے ہوئے، اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیئے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نہیں دیتا (5)

اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا، اے نبی اسرائیل! میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اپنے سے پہلے کتاب توہرت کی تصدیق کرتا ہوں، اور ان رسول کی بشارت سنا تا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام "احمد" ہے پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، بولے! یہ کھلا جادو

ہے (6) اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ پر جھوٹ بانڈے، حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور ظالم لوگوں کو اللہ راہ نہیں دیتا (7)

چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منوں سے بجھا دیں، اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ②

كَيْفَ مَقْتَضِيْ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ③

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًا كَمَا تَنْهَرُ بَنِيَّانَ مَرْصُوْصٍ ④

وَ اِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهِ يُقُوْمُوْا لِمَ تُوَدُّوْنَ نَبِيَّ وَ قَدْ تَعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ فَلَمَّا تَرٰ اَعْوَابَ اِذَا عِ اللّٰهِ قُلُوْبُهُمْ وَاَللّٰهُ لَازِيْمٌ بِالْقَوْمِ الضّٰلِيْنَ ⑤

وَ اِذْ قَالَ عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ بِنَتِيْ اِسْرٰٓءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنْ التّٰوْرَةِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُوْلِ يٰٓاْتِيْ مِنْ بَعْدِي اَسْمٰةُ اَحْمَدُ فَلَمَّا جَاؤُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّزْمُوْنٌ ⑥

وَ مَن اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلٰى اللّٰهِ الْكُذْبَ وَ هُوَ يَدْعٰى اِلَى الْاِسْلَامِ وَاَللّٰهُ لَازِيْمٌ بِالْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ⑦

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاَللّٰهُ مُمِتُّمُ نُوْرِهِ

light, though the disbelievers may hate it.

9. It is He Who sent His Rasool (Messenger) with the guidance and the true religion, that He may cause it to dominate over all the religions, though the "muushrik" associator (equator pagans) may hate it.

SECTION 2

10. O believers! should I point out to you a bargain which may save you from a painful punishment?

11. That is you believe in Allah and His Rasool (Messenger) and struggle hard for the cause of Allah with your wealth and your person. That is the best for you, if you know!

12. He will forgive you your sins and cause you to enter into the Paradise, beneath which streams flow, and there are purely best dwellings in the Paradise of eternity; that is the greatest triumph.

13. And yet another (blessing) that you love is the help from Allah and a victory near at hand. So give good news to the believers.

14. O believers! be helpers (in the cause) of Allah as Eesa Bin Maryam (Jesus son of Mary) said to (his) disciples, "who will help in the way of Allah? The disciples said, "we are helpers in the way of Allah." So a party of the children of Issraael believed and another party disbelieved. Then We (Allah) gave power to those who believed against their enemy, and they became victorious.

پڑے برا بھائی کافر (8)

وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، پڑے برا بھائی
مشرک (9)

اے ایمان والو! کیا میں بتا دوں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچالے
(10)

ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم جانو
(11)

وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، اور تمہیں باغوں میں لے جائے گا، جن کے نیچے نہریں رواں، اور پاکیزہ محلوں میں جو بسنے کے باغوں میں ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے
(12)

اور ایک نعت تمہیں اور دے گا جو تمہیں پیاری ہے، اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح، اور اے محبوب! مسلمانوں کو خوشی سنا دو
(13)

اے ایمان والو! دین خدا کے مددگار ہو جیسے عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، کون ہیں جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کریں؟ حواری بولے! ہم دین خدا کے مددگار ہیں، تو نبی اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لایا، اور ایک گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی، تو غالب ہو گئے (14)

وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٥﴾
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ

وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ
بِأَنَّ كَلْبَهُ وَالْوَكْرَةَ الْمَشْرُوكُونَ ﴿٦﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ
تِجَارَةٍ تُخَيِّرُكُمْ مِنْ عَذَابِ الْيَوْمِ ﴿٧﴾

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

يَعْفُو عَنْكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَسُكُنَ

طَيِّبَاتٍ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾

وَآخِرُ مَا يُجِيبُونَ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ وَ
نُفْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارًا
لِلَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ؟
قَالَ السَّوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ
فَأَمْنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا
عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿١١﴾

S. LXII

SURA AL-JUUM-AH
(THE FRIDAY
CONGREGATION)

(Revealed at Madina)

(11 Verses, 2 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION I

1. Whatever is in the heavens and whatever is in the earth glorifies Allah, the Sovereign, the most Holy, the most Honorable, the most Wise.

2. It is He Who raised among the unlettered people a Rasool (Messenger of Allah) from among themselves, who recites to them His revelations and purifies them, and teaches them the Book and the Wisdom, although they were before that in clear error;

3. and also the others from among them who had not yet joined them. And He is the most Honorable, the most Wise.

4. That is Allah's grace. He grants it to whom He Pleases. And Allah is Rubb (Sustainer) of immense Bounty.

5. They are like those who were given the Taurait (Taurah), but they did not observe it. It is like an ass which carries load of books. Evil is the likeness of the nation who reject the revelations of Allah. And Allah does not guide the cruel nation.

6. Please declare. "O Jews, if you assert that you are the favorites of Allah to the exclusion of other mankind, then wish for death, if you are truthful.

سورہ جمعہ علی ہے (اس میں) گیارہ (11)
آیتیں (اور) دو (2) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان
رحم والا

اللہ کی پاکی بولا ہے جو کچھ آسمانوں میں
ہے اور جو کچھ زمین میں ہے 'پادشاہ کمال
پاکی والا، عزت والا، حکمت والا (1)

وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں
سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی
آیتیں پڑھتے ہیں، اور انہیں پاک کرتے
ہیں، اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم
عطا فرماتے ہیں، اور بچک وہ اس سے پہلے
ضرور کھلی گمراہی میں تھے (2)

اور ان میں سے اوروں کو پاک کرتے، اور
علم عطا فرماتے ہیں جو ان انگوٹوں سے نہ
ٹپے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے (3)
یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے اور
اللہ بڑے فضل والا ہے (4)

ان کی مثال جن پر تورات رکھی گئی تھی
پھر انہوں نے اس کی حکم برداری نہ کی،
گدھے کی مثال ہے جو پیٹھ پر کتابیں
اٹھائے، کیا ہی بڑی مثال ہے ان لوگوں کی
جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں، اور
اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا (5)

تم فرماؤ! اے یہودیو! اگر تمہیں یہ گمان
ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو، اور لوگ
نہیں، تو مرنے کی آرزو کرو، اگر تم سچے ہو
(6)

الطَّالِقَاتِ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَرَبُّهُمُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
سورہ بعد از اہل حدیث سورہ آیتہ و فیہا لای کونتاوی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

يَسْبُحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا
فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقَدُوْسِ
الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ○

هُوَ الَّذِي يَعْزِقُ فِي الْاَقْمِيْنَ رَسُوْلًا
مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَ
اِنْ كٰنُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ
مُّبِيْنٍ ○

وَآخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ
وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○
ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ
يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○
مَثَلُ الَّذِيْنَ حَمَلُوْا التَّوْرٰتَ ثُمَّ
لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْجَمٰرِ يَمْجُلُ
اَسْفٰرًا اَبْسُ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ
كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا لِلّٰهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظٰلِمِيْنَ ○

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ هٰدٰوْا اَنْ
زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ
النَّاسِ فَتَمَتَّعُوْا الْمَوْتِ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ○

7. And they will never wish for it because of what their hands have sent before; and Allah knows well the cruel ones.

اور وہ کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے ان کو کھوں (بد اعمالیوں) کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں اور اللہ خالص کو جانتا ہے (7)

8. Please declare, "the death from which you flee, will surely, overtake you, then you shall be sent back to the Knower of the unseen and the seen, and He will inform you of that which you did.

تم فرماؤ! وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو تو ضرور تمہیں ملنی ہے، پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ گے، جو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم نے کیا تھا (8)

SECTION 2

9. O you who believe! when the call is made for Salaat-ul-Juum-ah (Friday Muslim congregation Prayer) hasten to the remembrance of Allah and leave off all the merchandise. That is best for you, if you know.

اے ایمان والو! جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو! اور خرید و فروخت چھوڑ دو! یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم جانو (9)

10. But when the Salaat (Muslim Prayer) is completed, then disperse in the land and seek Allah's Grace, and remember Allah much, that you may prosper.

پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو بہت یاد کرو، اس امید پر کہ نفع پاؤ (10)

11. And when they see some merchandise or amusement they slip away for it, and leave you standing. Please declare, "that which is with Allah is better than amusement and merchandise. And Allah is the best Provident.

اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا اس کی طرف چل دیئے، اور تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے، تم فرماؤ! وہ جو اللہ کے پاس ہے کھیل سے، اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ کا رزق سب سے اچھا (11)

S. LXIII

SURA AL-

MUUNAFIQOON

(THE HYPOCRITES)

(Revealed at Madina)

(11 Verses, 2 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. When the hypocrites come to you, they say, "we bear witness that you are surely, Allah's Rasool (Messenger), Allah indeed knows that you are surely,

سورۃ منافقون منی ہے (اس میں) گیارہ (11) آیتیں اور دو (2) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، کہ حضور چیک یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور

وَلَا يَتَمَنَّوْنَ اَنْ اَبْدَا اِيْمَانًا قَدِمَتْ

اَبْدِيهِمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝۱

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّوْنَ

مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلْقِيْكُمْ ثُمَّ تُوَدُّوْنَ

اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ

فَاِنَّ يَتَذَكَّرُ اَنْ يَّعْمَلَ ۝۲

يَآٰئِهٖمُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِيَ

لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

فَاَسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذُرُّوْا

الْبَيْعَ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُوْنَ ۝۳

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا

فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ

اللّٰهِ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ

تَفْلِحُوْنَ ۝۴

وَ اِذَا رَاوُا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا

اَنْفَضُوْا اِلَيْهَا وَتَوَدُّوْا قٰلِيْمًا قُلْ مَا عِنْدَ

اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ

وَاللّٰهُ خَيْرُ الرَّزٰقِيْنَ ۝۵

سُوْرَةُ الْمُنٰفِقُوْنَ ۙ اٰیٰتُهَا اَرْبَعُوْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝۱

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا اَشْهَدُ

اِنَّكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ

His Rasool (Messenger). But Allah bears witness that the hypocrites are surely, liars.

2. They make their oaths a shield, and thus turn away others from Allah's way. Surely, evil is that which they do.

3. That is because they believe, then disbelieve. So a seal is set upon their hearts that they do not understand.

4. And when you see them, their presence pleases you. And if they speak, you listen to their speech. Yet (they are) as if they were wooden panelling on wall. They think every rebuke is against them. They are the enemy. Therefore, beware of them. Allah's curse is upon them. How perverted they are?

5. And when it is said to them, "come, the Rasool (Messenger) of Allah will ask forgiveness for you, they turn aside their heads and you see them keeping back while they are full of boastfulness.

6. It is alike to them whether you beg forgiveness for them or do not beg forgiveness for them. Allah will never forgive them. Surely, Allah does not guide the rebellious nation.

7. It is they who say, "do not spend upon those who are with the Rasool (Messenger) of Allah till they break up (and leave him). To Allah belong the treasures of the heavens and the earth, but the hypocrites do not understand.

8. They say, "if we return to Madina the stronger will surely, turn out the poor therefrom". And to Allah

اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں (1)

اور انہوں نے اپنی قسموں کو حوالہ لھرا لیا، تو اللہ کی راہ سے روکا، چنگ وہ بہت ہی بُرے کام کرتے ہیں (2)

یہ اس لیے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر ہوئے، تو ان کے دلوں پر سر کر دی گئی، تو اب وہ کچھ نہیں سمجھتے (3)

اور جب تو انہیں دیکھے، ان کے جسم تجھے جیسے معلوم ہوں، اور اگر بات کریں، تو ان کی بات غور سے سنے، گویا وہ کڑیاں ہیں دیوار سے لٹکائی ہوئی، ہر بلند آواز اپنے ہی اوپر لے جاتے ہیں، وہ دشمن ہیں، تو ان سے بچتے رہو، اللہ انہیں مارے، کہاں اوندھے جاتے ہیں (4)

اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ، رسول اللہ تمہارے لیے معافی چاہیں، تو اپنے سر گھماتے ہیں، اور تم انہیں دیکھو، کہ غرور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں (5)

ان پر ایک سا ہے تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا (6)

وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں، یہاں تک کہ پریشان ہو جائیں، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانے مگر منافقوں کو سمجھ نہیں (7)

کہتے ہیں ہم ہند پھر کر گئے، تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال

إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يُشْهِدُ انْ مِّنَ النَّافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ①

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنُودًا وَاصْدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِلَهُهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ②

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَاطْمَئِنَّا عَلَى قُلُوبِهِمْ لَمْ يَأْتِ قَوْلًا لَّا يَفْقَهُونَ ③

وَإِذَا رَأَوْهُمُ تَفَيَّأْتُمْ أَجْسَامَهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّكُمْ خُشْبٌ مِّنْ سِدْرٍ مَّحْجُوبُونَ كُلِّ صِخْرَةٍ عَلَيْهِمْ ثُمَّ الْعَدُوِّ فَاحْذَرْنَاهُمْ فَعَلَّامٌ اللَّهُ إِنِّي يَوْمِئِذٍ لَّكَافٍ ④

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا أَسْرًا وَسَاءَ مَا رَأَوْهُمُ بِصِدْقِهِمْ وَأَعْمَى عَلَىٰ آلِهِمْ فَاصْبِرْ لَهُمْ رُءُوسًا لَّهُمْ لَسْتَغْفِرَ لَهُمْ إِنْ تَعْفِرْ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ⑤

هُوَ الَّذِي لَا يُغْفِرُ لِقَوْمِ أَهْلِ الْبَيْتِ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ⑥

يَعْلَمُونَ لِيَنْزِلَ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَمَن يَخْفَافْ يَفْقَهُونَ ⑦

belongs the dignity and to His Rasool (Messenger) and to the believers, but the hypocrites do not know.

SECTION 2

9. O you who believe! let not your wealth, or your children, divert you from the remembrance of Allah. And whoever does that, they are the losers.

10. And spend out of what We (Allah) have given you before the death comes upon one of you and he says, "my Rubb (Sustainer), if You grant me respite for a little time I shall give alms and become the righteous.

11. And Allah does not defer any one when his (her) appointed term comes. And Allah is Well Aware of what you do.

S. LXIV

SURA AL-TAGHABUNN (THE GATHERING)

Revealed at Madina

(18 Verses, 2 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. Whatever is in the heavens and whatever is in the earth glorifies Allah. To Him belongs the entire sovereignty, and His is (all) the praise and He has power over all the things.

2. It is He Who created you, but some of you are disbelievers and another of you believers; and Allah Sees what you do.

3. He created the heavens and the earth with truth, and He shaped you. Then He perfected your forms in beauty. To Him is the

دیا اسے جو نہایت ذلت والا ہے اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کیلئے ہے، مگر منافقوں کو خبر نہیں (8)

اسے ایمان والو! تمہارے مال، نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں (9)

اور ہمارے دیئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے، اے میرے رب! تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں ملت نہ دی، کہ میں صدقہ دیتا اور نیکیوں میں ہوتا (10)

اور ہرگز اللہ کسی جان کو ملت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آجائے اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے (11)

سورہ تغابن مدنی ہے (اس میں) اٹھارہ (18) آیتیں اور دو (2) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

اللہ کی پائی بولا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اسی کا ملک ہے اور اسی کی تعریف اور وہ ہر چیز پر قادر ہے (1)

وہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، تو تم میں کوئی کافر اور تم میں کوئی مسلمان اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے (2)

اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے اور تمہاری تصویر کی، تو تمہاری ابھی صورت بنائی اور اسی کی طرف پھرا

لِيَخْرُجَنَّ الْأَعْرَضُ مِنْهَا الْأَرْضُ وَرَبُّهَا الْعِزَّةُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ مُؤْمِنِينَ وَرَبُّ الْكِنِ الْمُتَّقِينَ لَا يَعْزُبُونَ

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِاتْلَاهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْتُ وَأَكُنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ

وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَسْبَحُ رَبُّكَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ① هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ②

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ

ultimate return.

4. He knows what is in the heavens and the earth, and He knows what you conceal and what you reveal; and Allah is Cognizant of what is in the hearts.

5. Has there not come to you the news of those who disbelieved before? Then they tasted the evil result of their conduct, and they had a painful punishment.

6. That is because there came to them their Rasools (Messengers) with clear arguments, but they said, 'shall mortals guide us? So they disbelieved and turned away, and Allah did not need them. And Allah is Self-Sufficient, All-Praised.

7. Those who disbelieve stress that they shall never be raised up again. Please declare, "yea, indeed I swear by my Rubb (Sustainer)! you shall certainly be raised up, then you shall certainly be informed of what were your deeds? And that is easy for Allah.

8. Therefore, believe in Allah and His Rasool (Messenger) and the Light which We (Allah) have sent down. And Allah is Aware of what you do.

9. On the day when He will bring you together on the day of gathering, that shall be the day of loss and gain. But those who believe in Allah and are righteous, He will remove from them their evil and cause them to enter the Paradise, beneath which streams flow, to reside therein for ever. That is the great achievement.

(3) ہے
جاتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جاتا ہے جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے

(4)
کیا تمہیں ان کی خبر نہ آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا اور اپنے کام کا وبال چکا اور ان کے لیے درد ناک عذاب ہے

(5)
یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لاتے تو بولے! کیا آدمی ہمیں راہ بتائیں گے تو کافر ہوئے اور پھر گئے اور اللہ نے بے نیازی کو کام فرمایا اور اللہ بے نیاز ہے سب خوبیوں سراہا

(6)
کافروں نے بکا کہ وہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے، تم فرماؤ! کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم! تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہارے کو تک (بد اعمال) تمہیں بتا دیئے جائیں گے اور یہ اللہ کو آسان ہے (7)

تو ایمان لاؤ! اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر جو ہم نے اتارا اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے (8)

جس دن ہمیں اکٹھا کرے گا سب جمع ہونے کے دن وہ دن ہے ہار والوں کی ہار کھلنے کا اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے، اللہ اس کی برائیاں اتار دے گا اور اسے باغوں میں لے جائیگا جن کے نیچے نہریں ہیں، کہ وہ ہمیشہ ان میں رہیں، یہاں بڑی کامیابی ہے (9)

وَصَوَّرْنَاهُمْ فَاَحْسَنُ صُوْرًا كُفْرًا
اَلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَيَعْلَمُ مَا تُكْتَبُوْنَ وَمَا تَعْلَمُوْنَ وَاَللّٰهُ
عَلَيْكُمْ بِذٰلِكَ الصّٰدِقُ ۝

اَلْعَرٰبِيْنَ كُفْرًا وَاَمِنْ قَبْلُ
قَدْ اَقْرَبُوْا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
كُفَرُوْا اِنَّكُمْ لَعِنٌ عَلٰى
اَللّٰهِ عٰلَمٌ خَبِيْرٌ ۝

فَرَاكَ بَاثِدًا كَانَتْ تَاْتِيْهِمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ
فَقَالُوْا الْاِنْسٰنُ كٰذِبٌ وَّنٰنَا
لَكٰفِرُوْنَ اَوْتُوْا وَاَسْتَغْنٰى
اَللّٰهُ وَاَللّٰهُ وَ

اَللّٰهُ عٰلَمٌ خَبِيْرٌ ۝
تَسْعَمُ الَّذِيْنَ كُفَرُوْا اِنَّ لَنْ
يُّغْنُوْا كَلَّ بَلِيٍّ وَّوَدِيٍّ
لَتَتَّبِعُنَّ ثُمَّ لَتَنبَغُوْنَ
بِمَا عَمِلْتُمْ وَّذٰلِكَ عَلٰى
اَللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝

فَاَعِيْنُوْا يٰۤاَللّٰهُ وَّرَسُوْلِهِ
وَالسُّوْرٰى الَّذِيْ اَنْزَلْنَا
وَاَللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

يَوْمَ يَجْعَلُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ
ذٰلِكَ يَوْمُ الشّٰقِيْنَ وَاَمِنْ
يَوْمِيْنَ يٰۤاَللّٰهُ وَيَعْمَلُ
صٰلِحًا يَكْفُرْ عَنْهُ سَيَاتِه
وَيَدْخُلْهُ جَنَّتْ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا
اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

ذٰلِكَ يَوْمُ الشّٰقِيْنَ وَاَمِنْ
يَوْمِيْنَ يٰۤاَللّٰهُ وَيَعْمَلُ
صٰلِحًا يَكْفُرْ عَنْهُ سَيَاتِه
وَيَدْخُلْهُ جَنَّتْ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا
اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

ذٰلِكَ يَوْمُ الشّٰقِيْنَ وَاَمِنْ
يَوْمِيْنَ يٰۤاَللّٰهُ وَيَعْمَلُ
صٰلِحًا يَكْفُرْ عَنْهُ سَيَاتِه
وَيَدْخُلْهُ جَنَّتْ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا
اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

ذٰلِكَ يَوْمُ الشّٰقِيْنَ وَاَمِنْ
يَوْمِيْنَ يٰۤاَللّٰهُ وَيَعْمَلُ
صٰلِحًا يَكْفُرْ عَنْهُ سَيَاتِه
وَيَدْخُلْهُ جَنَّتْ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا
اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

ذٰلِكَ يَوْمُ الشّٰقِيْنَ وَاَمِنْ
يَوْمِيْنَ يٰۤاَللّٰهُ وَيَعْمَلُ
صٰلِحًا يَكْفُرْ عَنْهُ سَيَاتِه
وَيَدْخُلْهُ جَنَّتْ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا
اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

ذٰلِكَ يَوْمُ الشّٰقِيْنَ وَاَمِنْ
يَوْمِيْنَ يٰۤاَللّٰهُ وَيَعْمَلُ
صٰلِحًا يَكْفُرْ عَنْهُ سَيَاتِه
وَيَدْخُلْهُ جَنَّتْ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا
اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

ذٰلِكَ يَوْمُ الشّٰقِيْنَ وَاَمِنْ
يَوْمِيْنَ يٰۤاَللّٰهُ وَيَعْمَلُ
صٰلِحًا يَكْفُرْ عَنْهُ سَيَاتِه
وَيَدْخُلْهُ جَنَّتْ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا
اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

ذٰلِكَ يَوْمُ الشّٰقِيْنَ وَاَمِنْ
يَوْمِيْنَ يٰۤاَللّٰهُ وَيَعْمَلُ
صٰلِحًا يَكْفُرْ عَنْهُ سَيَاتِه
وَيَدْخُلْهُ جَنَّتْ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا
اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

10. And (as for) those who disbelieve and reject Our (Allah's) Verses, they are the inmates of the fire, to abide therein for ever. What an evil resort it is?

[THREE FOURTH OF PART 28 ENDS]

SECTION 2

11. No calamity befalls except by leave of Allah. And whoever believes in Allah, He guides rightly his heart; and Allah is Cognizant of all the things.

12. And obey Allah and obey the Rasool (Messenger), but if you turn away, then upon Our Messenger is only the responsibility to deliver clear message.

13. Allah, there is none worth worship except Him. Therefore, only upon Allah, the believers should rely.

14. O believers! surely, from among your wives and your children there are some who are your enemies. Therefore, beware of them. But if you pardon and overlook and forgive them, then surely, Allah is Forgiving, Merciful.

15. Surely, your possessions and your children are only a trial, but with Allah is an immense reward.

16. Therefore, be straightly pious to Allah as much as you can, and hear and obey and spend. It is better for your selves. And whoever guards himself from the greediness of his self, these are the successful.

17. If you lend Allah a good loan, He will double it for you and forgive you; and Allah is the Appreciating, Forbearing;

اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ آگ والے ہیں ہمیشہ اس میں رہیں اور کیا ہی بُرا انجام (10)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
لَمَصْرُومٌ ۝۱۰

کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ اس کے دل کو ہدایت فرما دیتا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے (11)

اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو پھر اگر تم منہ پھیرو، تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف صریح پہنچاتا ہے (12)
اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں اور اللہ ہی پر ایمان والے مجروسا کریں (13)

اے ایمان والو! تمہاری کچھ بی بیوں اور بچے تمہارے دشمن ہیں، تو ان سے احتیاط رکھو! اور اگر معاف کرو اور درگزر اور بخش دو، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے (14)

تمہارے مال اور تمہارے بچے جاچ ہی ہیں، اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے (15)
تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے اور فرمان سنو! اور حکم مانو! اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو! اپنے منہ کے اور جو اپنی جان کے لالچ سے بچایا گیا، تو وہی تلاش پانے والے ہیں (16)

اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے، وہ تمہارے لیے اس کے دو گنے کر دیتا، اور ہمیں بخش دے گا، اور اللہ قدر فرمانے والا علم والا ہے (17)

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا
بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَكَفِّرْ
عَنْهُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَطِيعُوا
رَسُولَهُ إِنَّا لِلَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَكْبَرُ
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَى
الْعَرْشِ الْمُبِينِ ۝۱۲
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَى
الْعَرْشِ الْمُبِينِ ۝۱۳

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن
مِنَ زُجَّاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ
عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ
وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصْفَحُوا
وَتَعْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۱۴
إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ
فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَآ
عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝۱۵
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا
وَأَطِيعُوا أَوْفِقُوا خَيْرٌ
لِلنَّفْسِمْ وَمَنْ يُؤَقِّ
شَحْرَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ
الْمُفْلِحُونَ ۝۱۶
إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا يَضْعِفْهُ لَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ
شَكُورٌ رَحِيمٌ ۝۱۷

18 the Knower of the unseen and the seen, the most Honorable, the most Wise.

S. LXV

SURA UT-TALAQ
(THE DIVORCE)

Revealed at Madina

(12 Verses, 2 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. O Nabi (Prophet - Communicator of hidden news) when you (your followers) divorce wives, divorce them for their prescribed time, and calculate the prescribed period and be pious to Allah. Do not expel them out of their houses, nor should they themselves leave, unless they commit an open indecency. These are the limits of Allah. And whoever goes beyond the set limits of Allah, he indeed does injustice to his own self. You do not know that Allah may after this let something new to happen.

2. Then when they reach their prescribed term, keep them with kindness or separate them with kindness, and call to witness two just persons from among you, and give upright evidence for Allah. With this that one is warned who believes in Allah and the Last Day. And whoever is pious to Allah, He will make for him a way out;

3. and give him sustenance from where he cannot imagine. Whoso trusts in Allah. He is Sufficient for him. Surely, Allah attains His purpose.

ہر نماں اور میاں کا جائے والا، عدت والا، حکمت والا (18)

سورہ طلاق مکی ہے (اس میں) بارہ (12) آیتیں اور دو (2) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

عَلَّمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ
يَعْلَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ
يَعْلَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ

سورہ الطلاق مدنی ہے یعنی انصاف اور عدل کا نام ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسے نبی! جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو، تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو اور اپنے رب اللہ سے ڈرو، عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، اور نہ وہ آپ تلکس مگر یہ کہ کوئی صریح بے حیائی کی بات لائیں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا، بیشک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، تمہیں نہیں معلوم، شاید! اللہ اس کے بعد کوئی نیا حکم بھیجے (1)

تو جب وہ اپنی میعاد تک پہنچے کو ہوں، تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو، یا بھلائی کے ساتھ جدا کرو، اور اپنے میں وہ اللہ کو گواہ کر لو، اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو، اس سے صحیح فرمائی جاتی ہے اسے جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا (2)

اور اسے وہاں سے روزی دیا جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسا کرے تو وہ اسے کافی ہے، بیشک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بیشک اللہ نے ہر چیز کا

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلَّقْتُمُنَّ بَعْدَ تَيْهِنٍ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ الْأَنَافُ
يَأْتِيَنَّ بِمَا جَشَعْنَ مِنْ بَيْنَتِهِ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ
أَمْرًا ۝۱

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَآتِهِنَّ مَالَهُنَّ الَّذِي تَمَسَّكْنَ مِنْهُ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝۲

وَكَيْفَ تَقْوَاهُنَّ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
إِنَّ اللَّهَ بِالْأُمُورِ قَدِيرٌ

Allah indeed has appointed a measure for everything.

4. Those of your women who lost hope of (monthly) menstruation course, and in case you have a doubt, their prescribed period (for divorce) is three months, and of those too who have not had their courses. And for the pregnant women, their prescribed time is that they lay down their burden (give birth to child). And whoso is pious to Allah, He will make easy for him his affairs.

5. That is the Command of Allah which He has revealed to you, and whoso is pious to Allah, He will remove from them evil and give increased reward.

6. House them (the divorced women) where you dwell, according to your means, and do not harass them in order to pose hardship to them. And if they are pregnant, spend on them until they lay down their burden (give birth to child). Then if they suckle (child) for you, give them their due compensation and enjoin one another among you to be kind. And if you find it difficult let another (woman) suckle the child.

7. Let him who has abundance of means spend out of his abundance, and whoever has limited means of subsistence, let him spend out of that which Allah has bestowed him. Allah does not lay on any one a burden except to the extent to which He has given that one. Allah brings about ease after difficulty.

ایک اندازہ رکھا ہے (3)

اور تمہاری عورتوں میں جنہیں حیض کی امید نہ رہی، اگر تمہیں کچھ شک ہو، تو ان کی عدت تین مہینے ہے، اور ان کی جنہیں ابھی حیض نہ آیا، اور حمل والیوں کی عیاض یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں، اور جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے کام میں آسانی فرمادے گا (4)

یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس نے تمہاری طرف اتارا، اور جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کی برائیاں تار دیکھا، اور اسے بڑا ثواب دیکھا (5)

عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہو اپنی طاقت بھر، اور انہیں ضرر نہ دو، کہ ان پر سختی کرو، اور اگر حمل والیاں ہوں تو انہیں نان و نفقہ دو، یہاں تک کہ ان کے بچہ پیدا ہو، پھر اگر وہ تمہارے لیے بچہ کو دودھ پلائیں، تو انہیں اس کی اجرت دو، اور آپس میں مستقل طور پر مشورہ کرو، پھر اگر باہم مضائقہ کرو، تو قریب ہے کہ اسے اور دودھ پلانے والی مل جائے گی (6)

مقدور والا اپنے مقدور کے قائل نفقہ دے، اور جس پر اس کا رزق تک کیا گیا وہ اس میں سے نفقہ دے، جو اسے اللہ نے دیا، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قائل جتنا اسے دیا ہے، قریب ہے اللہ دشواری کے بعد آسانی فرمادے گا (7)

اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ①
وَالَّذِي يَتَّقِ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ قَعْدَتَهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتِ الْأَحْصَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ②

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفُرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ③
أَسْكَنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَقْضُوا إِلَهُنَّ تَضَيُّقًا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلْنَ فَلَا تَقْضُوا أَعْلَاهُنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَضَعْنَ لَكُمْ فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ وَأَبْنَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ لَعَسَتْكُمْ فَسَارِعُوا إِلَيْهِنَّ ④
لَهُ آخِرَى ⑤

لِيَتَّقِيَ ذُرِّيَّتَهُ وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيَتَّقِ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا نَسِيًّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِهِ يُسْرًا ⑥

SECTION 2

8. And how many a town rebelled against the Commandments of Rubb (Sustainer) and His Rasools (Messengers). So We (Allah) called it to account severely and punished it with a severe punishment.

9. So they tasted the evil result of their conduct, and the end their affair was total loss.

10. Allah has prepared for them severe punishment. So be straightforward to Allah, O men of understanding who believe! Allah has indeed sent to you a reminder;

11. by a Rasool (Messenger) who recites to you the clear Verses of Allah so that He may bring forth those who believe and act righteously out of darkness into light. And whoso believes in Allah and acts righteously, He will cause him to enter Paradise beneath which streams flow, to reside therein for ever. Allah has surely, made for him (her) a best provision.

12. It is Allah Who created seven heavens, and same number earths, like them. They continue to get the command, that you may know that Allah has power over all the things and that Allah encircles all the things in (His) knowledge.

S. LXVI

SURA UT-TAHREEM (THE PROHIBITION)

Revealed at Madina

(12 Verses, 2 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا، اور انہیں بری ماری (8)

تو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکا اور ان کے کام کا انجام گھانا ہوا (9) اللہ نے ان کیلئے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اللہ سے ڈرو! اے عمل والو! وہ جو ایمان لائے ہو، یحک اللہ نے تمہارے لیے عزت آماری ہے (10)

وہ رسول کہ تم پر اللہ کی روشن آیتیں پڑھتا ہے، تاکہ انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے، اور جو اللہ پر ایمان لائے، اور اچھا کام کرے، وہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے ٹھہریں ہیں، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، یحک اللہ نے اس کے لیے اچھی روزی رکھی (11)

اللہ ہے جس نے سات آسمان بنائے، اور انہی کی برابر زمینیں، حکم ان کے درمیان اترتا ہے، تاکہ تم جان لو، کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے (12)

سورۃ تحریم مدینہ میں نازل ہوئی (اس میں) بارہ (12) آیتیں اور دو (2) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

وَكَايَتُنَّ مِنَ قَوْلِي وَعَدَّتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَأَوْسَلَهُ فَمَا سَمِعَتْهَا حِصَابًا شَدِيدًا وَأَعَدَّ بُنَاءَ عَدَابَاتِكُمْ ۝ قَدْ أَقْبَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۝

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا أَفَأَنْقَضُوا بِعِ اللَّهِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝

رَسُولًا يَتْلُو آيَاتِ كُورَانِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّلْخَيْرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظَّالِمَاتِ إِلَى التَّوْرَةِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَكَ رِزْقًا ۝

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

سورۃ التحریم مدینہ میں نازل ہوئی (اس میں) بارہ (12) آیتیں اور دو (2) رکوع (ہیں)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

1. O Nabi (Prophet-Communicator of the hidden news)! why do you prohibit (yourself) from that which Allah has made lawful for you only to please your wives. And Allah is Forgiving, Merciful.

2. Allah has sanctioned for you to keep firm your oaths. And Allah is your Protector. And He is the All-Knowing, the most Wise.

3. When the Nabi (Prophet-Communicator of hidden news) conveyed a piece of information in confidence to one of his wives, but she disclosed it to others, Allah revealed it to him. He made known part of it (to other one) but avoided a part thereof. When he informed her of it, she asked as to who informed him of this? He said, "the All-Knowing, the All-Aware, informed me".

4. If both of you (two wives) repent to Allah, your hearts are already inclined (to this); and if you back up each other against him, then surely, it is Allah Who is his Guardian, and also Jibreel and the righteous believers, and further more the Angels are his supporters.

5. It may be that if he divorces you his Rubb (Sustainer) will give him in your place wives better than you, submissive, faithful, obedient, repentant, devoted to Salaat (Muslim Prayer) and fasting, whether widows or virgins. (Holy Prophet Muhammad never divorced any).

6. O believers! save yourselves and your families from a fire whose fuel are

اے غیب بتانوالے! (نبی!) تم اپنے اوپر کیوں حرام کیے لیتے ہو، وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہو، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے (۱)

بیک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا اتار مقرر کیا، اور اللہ تمہارا موٹی ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے (2)

اور جب نبی نے اپنی ایک بی بی سے ایک راز کی بات فرمائی، پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھی اور اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا، تو نبی نے اسے کچھ بتایا، اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی، پھر جب نبی نے اسے اس کی خبر دی، بولی! حضور کو کس نے بتایا؟ فرمایا: مجھے علم والے خبروار نے بتایا (3)

نبی کی دونو بیویاں! اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو، تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں، اور اگر ان پر زور باندھو، تو بیک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں (4)

ان کا رب قریب ہے اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں، کہ انہیں تم سے بہتر بیبیاں بدل دے، اطاعت والیاں، ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ والیاں، بندگی والیاں، روزہ داریں، بیابیاں، اور کتوریاں (5)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ لَمَّا نُبِّئْتَنِي مَرَضَاتٍ زَوَاجِكَ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ①

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ②
وَإِذْ أَسْرَأْتُ النَّبِيَّ إِلَى بَعْضِ زَوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهُ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْوَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ③

إِنْ تَوَّابًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمُ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ④

عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَمْرًا وَاجِبًا خَيْرًا أَفَنُكِّنَنَّ فَسَلِّمَنَّ لَهُمْ مِنْهُنَّ قِيْدَتٍ تَبْدِيْدٍ عِيدَةٍ سَپَّحَتِ تَبْدِيْدٍ وَأَبْكَارًا ⑤

اے ایمان والو! اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَ

men and stones Over it are Angels, stern and strong. They do not disobey Allah in what He Commands them and act as they are commanded.

7. O disbelievers do not urge any excuses today. You shall be rewarded only according to what you did.

SECTION 2

8. O believers! repent to Allah in sincere repentance. It may be that your Rubb (Sustainer) may remove from you your evil and cause you to enter Paradise beneath which streams flow, on the day on which Allah will not humiliate the Prophet and the believers with him. Their light will be moving before them and on their right hands. They shall say, "Our Rubb (Sustainer), make perfect for us our light, and grant us protection. Surely, You have power over all things.

9. O Nabi (Prophet - Communicator of hidden news), strive hard against the disbelievers and the hypocrites, and be hard against them. And their abode is hell. What an evil destination it is.

10. Allah sets forth an example to disbelievers of the wife of Nuuh (Noah) and the wife of Luut. They were both under two of Our (Allah's) righteous devotees but they betrayed them. But nothing helped them against Allah, and it was said, "enter both in the fire with those who enter it".

11. And Allah sets forth for the believers an example of the wife of Firawn (Pharaoh)

ایندھن آدی اور پھر ہیں اس پر سخت کرے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں (6)

اے کافرو! آج ہمارے نہ بتاؤ ہمیں وہی

بدلا لے گا جو تم کرتے تھے (7)
اے ایمان والو! اللہ کی طرف الٹی توبہ کرو جو آگے کو صیحت ہو جائے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری گجائیاں تم سے اتار دے، اور ہمیں بانگوں میں لے جائے جن کے نیچے نرس بسیں، جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نبی اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو، ان کا نور دوڑنا ہو گا ان کے آگے اور ان کے دہنے، عرض کریں گے! اے ہمارے رب!

ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بیگ تجھے ہر چیز پر قدرت ہے (8)

اے نبی بتانے والے! (نبی) کافروں پر اور منافقوں پر جہاد کرو، اور ان پر سختی فرماؤ، اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے، اور کیا ہی بڑا انجام (9)

اللہ کافروں کی مثال دتا ہے عورت کی عورت اور لوط کی عورت، وہ ہمارے بندوں میں دو سزا دار، قرب بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے ان سے دتا کی، تو وہ اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے، اور فرما دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں جہنم میں جاؤ، جانوروں کے ساتھ (10)

اور اللہ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے

الْبَيْتِ اسْتَأْذِنُكُمْ عَلَيْهِمْ مَلَائِكَةُ غِلَظٌ شِدَادًا لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ مَكْنُوتٌ ﴿٧﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوَلَّوْا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً تَصَوحًا عَنِّي رَبِّكُمُ أَنْ يُكْفِرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاعْفُ عَنَّا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَمِنْ الْمَصِيرِ ﴿٩﴾
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَاتٍ لُوطٍ وَإِسْرَاتٍ لَهَا تَحْتِ عَيْدُونِ مِنْ عِبَادِ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا إِتْمَمَ فَتَاكُم بِمَا قَالَتْ فَيُنَادِي عَنَهُمَا مِنَ اللَّهِ سُورًا أَنْ يَدْخُلَا السَّارَةَ فَالَّذَا فِيهَا لِيَيْنِ ﴿١٠﴾

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا

when she said, "my Rubb (Sustainer), build for me a house with You in the Paradise and deliver me from Firawn (Pharaoh) and his misdeeds, and deliver me from the cruel nation."

12. And Maryam (Mary), the daughter of Imran, who guarded her virginity, We (Allah) breathed into her Our (Allah's) spirit and she confirmed the truth of the words of her Rubb (Sustainer) and His Books, and was amongst the obedient.

ART 29

S. LXVII

SURA AL-MUULK
(THE SOVEREIGNTY)

Revealed at Makkah

(30 Verses, 2 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. Blessed is He in Whose control is the total sovereignty (of all the universe), and He has power over all the things;
2. Who created death and life that He may try you as to which of you is best in deeds. And He is the Honorable, the Forgiving;

3. Who created the seven heavens, one above another. You see no disparity in the creation of Rehmaan (the Affectionate Allah). Then observe again. Can you see any disorder?

4. Then turn back the eye again and again; your look shall come back to you confused while it is fatigued.

5. And certainly We (Allah) have adorned this lower heaven with lamps (stars) and We (Allah) have made these

فرعون کی بی بی، جب اس نے عرض کی!
اسے میرے رب! میرے لیے اپنے پاس
جنت میں گھر بنا، اور مجھے فرعون اور اس
کے کام سے نجات دے، اور مجھے ظالم
لوگوں سے نجات بخش (11)

اور عمران کی بیٹی مریم، جس نے اپنی
پارسی کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں
اپنی طرف کی روح پھونکی، اور اس نے
اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی
تصدیق کی، اور فرماں برداروں میں ہوئی
(12)

سورۃ الملك مکہ میں نازل ہوئی (اس میں)
تیس (30) آیتیں اور دو (2) رکوع (پیر)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان
رحم والا

بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضہ میں
سارا ملک، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے (1)
وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ
تسماری جاچ ہو، تم میں کس کا کام زیادہ
اچھا ہے، اور وہی عزت والا، بخشش والا
ہے (2)

جس نے سات آسمان بنائے ایک کے اوپر
دوسرا، تو رخص کے بنانے میں کیا فرق
دیکھتا ہے، تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، تجھے کوئی
رہنہ نظر آتا ہے (3)

پھر دوبارہ نگاہ اٹھا، نظر تیری طرف ناکام
پلٹ آئے گی کھلی ہانڈی (4)

اور بے شک ہم نے چمچے کے آسمان کو

اَمْرَاتٍ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ
ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَ
نَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَ
نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝۱
وَمَرْيَمَ اِذْ نَادَتْ عِمْرَانَ اَلْحَمْدُ
اَلْحَمْدُ لَكَ رَبِّ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ
الْمُضِلِّيْنَ ۝۲
وَمِنْ اٰوَجِبَاتِهَا وَكَلِمَاتِهَا
وَكِتٰبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ۝۳

سُوْرَةُ الْمَلِكِ مَكَّةَ فِي الْاَوَّلِ
سُوْرَةُ الْمَلِكِ مَكَّةَ فِي الْاَوَّلِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

تَبْرٰکَ الَّذِیْ بِيْدِهٖ الْمُلْكُ
وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝۱
الَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوةَ لِيَبْلُوْكُمْ
اَیُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِیْزُ
الْعَفُوْرُ ۝۲

الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا
مَا تَرٰی فِیْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ
تَفٰوُتٍ فَاَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰی
مِنْ فُتُوْرٍ ۝۳

ثُمَّ اَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ
اِلَيْكَ الْبَصَرُ خٰسِیًا وَهُوَ حَسِیْرٌ ۝۴
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِمَصٰبِحٍ

missiles for the satans (devils), and We (Allah) have prepared for them the punishment of burning.

6. And for those who disbelieve in their Rubb (Sustainer), for them is the punishment of hell. And what an evil destination it is.

7. When they shall be thrown therein, they will hear a loud moaning of it, as it boils;

8. almost bursting for fury. Whenever a group will be thrown into it, its keeper shall ask them, did there not come to you a warner?

9. They shall say; yea! indeed there came to us a warner, but we rejected (him) and said, "Allah has not revealed anything. You are only in a great error."

10. And they shall say, "had we but listened or used intelligence, we should not have been among the inmates of the burning fire".

11. They will then confess their sins, but far will be (forgiveness) from the inmates of the burning fire.

12. (As for) those who fear their Rubb (Sustainer) without seeing, they shall surely have forgiveness and a great reward.

13. And whether you hide your word or publish loudly; surely He knows what is in the hearts.

14. Does he not know, Who created? And He is the Knower of the minutest, being the well Aware.

SECTION 2

15. It is He Who made the earth subservient to you. Therefore, go about in the spacious sides thereof, and eat of His sustenance And to

چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا اور ان کے لیے بڑی آگ کا عذاب تیار فرمایا (5)

اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور کیا ہی بڑا انجام (6)

جب اس میں ڈالے جائیں گے اس کا ریگنا نہیں گے کہ جوش مارتی ہے (7)

معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے واروہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر

سنانے والا نہ آیا تھا؟ (8)

کیسے گے کیوں نہیں؟ بچک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں (9)

اور کیسے گے اگر ہم سننے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے (10)

اب اپنے گناہ کا اقرار کیا تو پھٹکار ہو دوزخوں کو (11)

بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے (12)

اور تم اپنی بات آہستہ کو یا آواز سے وہ توہوں کی جانتا ہے (13)

کیا وہ نہ جانتے جس نے پیدا کیا اور وہی ہے ہر بار کی جانتا خبردار (14)

وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین رام کر دی تو اس کے رستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی

وَجَعَلْنَا رِجْوَا لِلشَّيْطَانِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ۝

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابَ جَهَنَّمَ وَسِئسَ الْمَصِيرُ ۝

اِذْ اَلْقَوْا فِيهَا سَمْعًا مَّوَالِهَا شَيْخًا وَهِيَ تَقْوَرُ ۝

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا اُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۝

قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللهُ مِن شَيْءٍ اِنْ اَنْزَلَ اِلَّا فِي صُلْبِ كَبِيرٍ ۝

وَقَالُوا اَلَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي اَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝

فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحِقًا لِاصْحَابِ السَّعِيرِ ۝

اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاَجْرٌ كَبِيرٌ ۝

وَاَسْرَوْا قَوْلَكُمْ اُوْا جَهَنَّمَ رُوْبِهٖ اِنَّكَ عَلَيْهِمْ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْاَلِطِيفُ الْخَبِيرُ ۝

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ رِضًا ذُلُوْلًا فَاسْتَوِيْا فِيْ مَنَاطِكِهَا وَكُلُوْا

Him is the return (after death).

16. Do you feel secure of Him whose is the heaven that He shall not make the earth to swallow you up as it shakes (as in earth quake)?

17. Or do you feel secure of Him Whose is the heaven that He shall not send down upon you rain of stones as a punishment? So will you know how was My warning?

18. And certainly those before them rejected (the truth). Then how was My disapproval.

19. Have they not seen the birds above them spreading and closing their wings? None withholds them save Rehmaan (the Affectionate Allah). Surely He Sees

everything.

20. Or who is it that will be a host for you to assist you besides Rehmaan (the Affectionate Allah)? The disbelievers are only in deception.

21. Or who is it that will give you sustenance if He withholds His provisions? No! they persist in hate and aversion.

22. What! is he who goes oblong upon his face better guided or he who walks upright upon a straight path?

23. Please declare, "it is He Who brought you into being and made for you the ears and the eyes and the hearts. Little is it that you give in thanks.

24. Please declare, it is He Who multiplies you in the earth and to Him you shall be gathered."

طرف اٹھائے (15)

کیا تم اس سے نڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے، کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، جسی وہ کاٹتی رہے، (16) یا تم نڈر ہو گئے اس سے جسکی سلطنت آسمان میں ہے، کہ تم پر پھراؤ بھیجے، تو اب جانو گے کیا تھا میرا ڈرانا (17)

اور بے شک ان سے اگلوں نے جھٹلایا، تو: کیا ہوا میرا انکار (18)

اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے، پر پھیلاتے اور سمیٹتے، انہیں کوئی نہیں روکتا، سوا رحمن کے، بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے (19)

یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمن کے مقابل تمہاری مدد کرے، کافر نہیں مگر دھوکے میں (20)

یا کون سا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے، بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں (21)

تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے زیادہ راہ پر ہے، یا وہ جو سیدھا چلے سیدھی راہ پر (22)

تم فرماؤ! وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے، کتنا کم حق مانتے ہو؟ (23)

تم فرماؤ! وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے (24)

مِنْ رِزْقِهِ وَالْيَدِ الْمُسْتَوْرِ ۝
ءَأَمِنْتُمْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ
بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورٌ ۝
أَمْ أَمِنْتُمْ مَنِ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ
عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَمْ أَسْتَعْمَلُونَ
كَيْفَ نَذِيرٍ ۝

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝
أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ
صَفَّتْ وَبِقَيْصِنَّ مَا يَمْسُكُنَّ
إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

بَصِيرٌ ۝
أَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جَدُّكُمْ
يُنصِرُكُمْ مِنَ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنَّ
الْكَافِرُونَ الْآفِي عُذُورِ ۝
أَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي يُرْزِقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ
رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ۝

أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى وَجْهِهِ
أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝
قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝
قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ
وَالْيَهُ تَحْشُرُونَ ۝

25. But they say, "when shall this promise be (executed), if you are truthful?"

26. Please declare, "the knowledge (thereof) is only with Allah and I am only a plain warner."

27. But when they will realize that it is nearby, the faces of those who disbelieve shall be sorry, and it shall be said; "this is that which you used to call for."

28. Please declare, "have you considered if Allah should destroy me and those with me - rather He will have Mercy on us; yet who will protect disbelievers from a painful punishment?"

29. Please declare, "only He is Rehmaan (the Affectionate Allah). We believe in Him and on Him do we rely. So you shall come to know who is on clear error."

30. Please declare, "have you considered if your water vanishes into the earth who will bring you the flowing water"?"

S. LXVIII

SURA AL-QALAM (THE PEN)

Revealed at Makkah
(52 Verses, 2 Sections)

Allah's Name. Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. Nuun (N). I call to witness the pen and what they (Angels) write;

2. by the Grace of your Rubb (Sustainer) you are not at all insane.

3. And surely, for you is an endless reward.

4. And surely, you possess the highest moral excellence.

اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا، اگر تم سچے ہو (25)

تم فرماؤ! یہ علم تو اللہ کے پاس ہے، اور میں تو بی صاف ڈر سنانے والا ہوں (26)

پھر جب اسے پاس دیکھیں گے کافروں کے، منہ بگڑ جائیں گے، اور ان سے فرما دیا جائیگا، یہ ہے جو تم مانگتے تھے (27)

تم فرماؤ! بھلا دیکھو تو! اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے، یا ہم پر رحم فرمائے، تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچالے گا (28)

تم فرماؤ! وہی رحمان ہے ہم اس پر ایمان لائے، اور اسی پر بھروسہ کیا، تو اب جان جاؤ گے، کون کھلی گمراہی میں ہے؟ (29)

تم فرماؤ! بھلا دیکھو تو! اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے، تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے، نگاہ کے سامنے بتا (30)

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝۱

قُلْ إِنَّمَا الْوَعْدُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝۲

فَلَمَّا آذَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الْكٰفِرِيْنَ كَقَدْرٍ أَوْ قِنَدٍ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ تُعٰدِيْنَ تَدٰعُونَ ۝۳

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي أُمَّةٌ وَ مَن مَّبْعِي أَوْ رَحِمْنَا فَمَنْ يُّجْزِي الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابِ الرَّبِّ ۝۴

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اِمْتٰنٌ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسْتَغْلَمُونَ مَن هُوَ فِى ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝۵

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ يُجْعَلُ عَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَآءٍ مُّبِيْنٍ ۝۶

سورہ قلم مکہ میں نازل ہوئی (اس میں)

پانچوں (52) آیتیں اور دو (2) رکوع ہیں)

(اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا)

قلم اور ان کے لکھے کی قسم (1) تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں (2)

اور ضرور تمہارے لیے بی انتہا ثواب ہے (3)

اور بے شک تمہاری خور (عادت) بڑی شان کی ہے (4)

فَسَوْفَ يَكْفُرِيْنَ بِالْحَقِّ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝۸

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۝۹
مَا اٰنْتَ بِمُجْتَنِبٍ ۝۱۰

وَاِنَّ لَكَ لَآخِرًا اَعْيٰدًا مُّمْتُوْنَ ۝۱۱

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خَلْقٍ عَظِيْمٍ ۝۱۲

5. So you shall soon see it, and they (too) shall see;
6. as to which of you suffers such (insanity)?
7. Surely, your Rubb (Sustainer) best knows him who errs from His way, and He best knows the followers of the right guidance.
8. So, do not yield to the rejecters (of true faith);
9. They wish that you should compromise. So, they (too) would compromise.
10. But donot yield to any mean swearer;
11. back-biter, going about slandering;
12. forbiddler of good, transgressor, sinful;
13. ignoble, mean, besides all that, of doubtful birth;
14. simply because he possesses wealth and children.
15. When Our (Allah) verses are recited to him, he says, "these are stories of the ancients".
16. We (Allah) shall brand him on the nose.
17. Surely, We (Allah) shall try them as We (Allah) tried the owners of the garden, when they swore that they would certainly pluck all the produce in the morning;
18. but were not willing to set aside a portion (for the poor).
19. Then a calamity from your Rubb (Sustainer) encircled it, while they were sleeping;
20. and till the morning it became as cut down, barren land.
21. And they called out each other in the morning;

تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھ لو گے، اور وہ بھی دیکھ لیں گے (5)

کہ تم میں کون جیٹن تھا؟ (6)

بیک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے نیکے، اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے (7)

تو جھٹلانوالوں کی بات نہ سنا (8)

وہ تو اس آرزو میں ہیں کہ کسی طرح تم نرمی کرو، تو وہ بھی نرم پڑ جائیں (9)

اور ہر ایسے کی بات نہ سنا جو بڑا قسمیں کھائیوا ذیل (10)

بت طعنے دینے والا، بت اوھر کی اوھر لگاتا، پھرے والا (11)

بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، گنہگار (12)

درشت خو، اس سب پر طویہ کہ اس کی اصل میں خطا (13)

اس پر کہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے (14)

جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں، کتا ہے، کہ انگوں کی کھانیاں ہیں (15)

قریب ہے کہ ہم اس کی سوز کی سقر تھنی پر داغ دیں گے (16)

بیک ہم نے انہیں جانچا، جیسا اس باغ والوں کو جانچا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس کے کھیت کاٹ لیتے (17)

اور ان شاء اللہ نہ کما (18)

تو اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیرا کر گیا، اور وہ سوتے تھے (19)

صبح رہ گیا جیسے پھل ٹوٹا ہوا (20)

پھر انہوں نے صبح ہوتے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا (21)

فَسْتَبْصِرُ وَ يُبْصِرُونَ ﴿٥﴾
بِأَيْتِكُمُ الْفِتْنُونَ ﴿٦﴾
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٧﴾

فَلَا تَطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٨﴾
وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿٩﴾
وَلَا تَطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾
هَمَّا زَمَنَّا بِمَيْمُونٍ ﴿١١﴾

مَكَارٍ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ضَلُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴿١٢﴾
عَتَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْتَابٌ ﴿١٣﴾
أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿١٤﴾
إِذْ اتَّسَلَى عَلَيْهِ إِيتْنَا قَالِ اسْأَلِيزِ الْأَوْلِينَ ﴿١٥﴾

سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُطُورِ ﴿١٦﴾
إِنَّا لَنَعْلَمُ فَهْمَهُمْ كَمَا يَكُونُ أَلْحَبُ الْجَنَّةِ إِذَا قَامُوا الصُّبْحَ مِنْهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾
وَلَا يَسْتَتِنُونَ ﴿١٨﴾

فَطَافَ عَلَيْهِ طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُوَ تَائِبُونَ ﴿١٩﴾
فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾
فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾

22. saying, "go forth early to your field, if you want to pluck (the fruit).

23. So they went, while whispering together;

24. saying, "let no needy person enter it today, against you";

25. and in the morning they proceeded determined to achieve the purpose.

26. But when they saw it, they said, "surely, we have adopted the wrong way";

27. No "in fact we have been deprived".

28. The moderate among them said, "did I not say to you, "why do you not glorify (Allah)?"

29. They said, "glory be to our Rubb (Sustainer). Surely, we have been the cruel."

30. Then some of them advanced against others, blaming each other.

31. They said, "woe to us! Surely, we were disobedients";

32. "it may be that our Rubb (Sustainer) will give us, instead, one better (garden) than it. Surely, to our Rubb (Sustainer) we make our humble submission.

33. Such is the punishment here and certainly the punishment of the hereafter is greater. Did they but know!

SECTION 2

34. Surely, those who are pious shall have with their Rubb (Sustainer) Paradises of Bliss.

35. What! Shall We (Allah) then treat those, who are Muslims, as the criminals?

36. What has happened to you? How do you judge?

کہ ترکے اپنی مکتی کو چلو، اگر تمہیں

کافی ہے (22)

تو چلے اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے

جاتے تھے (23)

کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ

میں آنے نہ پائے (24)

اور ترکے چلے اپنے اس ارادہ پر قدرت

مجھے (25)

پھر جب اسے دیکھا، بولے! بے شک ہم

رات بیک کئے (26)

بلکہ ہم بے نصیب ہوئے (27)

ان میں جو سب سے قیمت تھا، بولا! کیا

میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ بیعہ کیوں

نہیں کرتے؟ (28)

بولے! پاکی ہے ہمارے رب کو، بیگہ ہم

ظالم تھے (29)

اب ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتا

متوجہ ہوا (30)

بولے! ہائے خرابی ہماری! بیگہ ہم سرسبز

تھے (31)

امید ہے ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر

بدل دے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت

لائے ہیں (32)

مار ایسی ہوتی ہے اور بے شک آخرت کی

مار سب سے بڑی، کیا اچھا تھا اگر وہ

جاتے (33)

أَبِنَا عَدُوًّا عَلَىٰ حَرْبِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

صٰرِبِيْنَ ۝۲۲

فَأَنْطَلَقُوا وَهُمْ يَخْتَفَتُونَ ۝۲۳

أَنْ لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ

مَسْكِيْنَ ۝۲۴

وَعَدُوًّا عَلَىٰ حَرْبٍ قٰدِرِيْنَ ۝۲۵

فَلَمَّازٍ وَّهٰذَا قَالُوْا اِنَّا لَظٰلِمُوْنَ ۝۲۶

بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ۝۲۷

قَالَ اَوْ سَطَمْتُمْ الْاَرْضَ اَقْلَ لَكُمْ لَوْلَا

كَسَبْتُمْ سَوِيْءًا

قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا

ظٰلِمِيْنَ ۝۲۸

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

يَتَلٰوْمُوْنَ ۝۲۹

قَالُوْا يٰوَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝۳۰

عَسٰى رَبِّنَا اَنْ يُّبَدِلَ لَنَا خَيْرًا مِنْهَا

اِنَّا اِلٰهِي رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ ۝۳۱

كَذٰلِكَ الْعٰدَابُ وَلَءَاذَابُ الْاَرْضِ

اِنْ رَجَعْتُمْ اِلَيْهَا لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝۳۲

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنٰتٍ

الَّتِي فِيْهَا

الَّذِيْنَ

فَتَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ

فَاَلْمُجْرِمِيْنَ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۝۳۳

۝۳۴

۝۳۵

۝۳۶

بیگہ ڈر والوں کیلئے ان کے رب کے پاس

بھن کے باغ ہیں (34)

کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کا سا کر دیں

(35)

تمہیں کیا ہوا، کیا حکم لگائے ہو (36)

37. Or have you a book wherein you read;
38. that you have surely, therein what you choose?
39. Or have you received from Us an agreement confirmed by an oath extending to the Day of Resurrection that you shall surely, have what you order?
40. Ask them which of them will guarantee that?
41. Or do they have associate gods? If they have associate gods let them bring them, if they are truthful.
42. On the day when the calamity shall fall down, and they will be called upon to prostrate themselves, but they will not be able to do it.
43. Their eyes will be cast down and humiliation shall overtake them. But surely, they were called upon to prostrate themselves, indeed while yet they were all safe and sound.
44. So leave Me with those who reject this announcement; We (Allah) shall overtake to ruin them step by step, which they do not perceive;
45. and I shall respite them. Surely, My plan is firm.
46. Or do you ask from them a reward, but they are burdened with debt?
47. Or have they (knowledge) of the unseen, so that they write it down?
48. So wait patiently for the Command of your Rubb (Sustainer), and be not like the companion of the fish, when he called (to Rubb) while he was in distress.

- کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس میں پڑھتے ہو (37)
- کہ تمہارے لیے اس میں جو تم پسند کرو (38)
- یا تمہارے لیے ہم پر کچھ قسمیں ہیں قیامت تک پہنچتی ہوئی کہ تمہیں ملے گا جو کچھ دعویٰ کرتے ہو (39)
- تم ان سے پوچھو! ان میں کون سا اس کا ضامن ہے (40)
- یا ان کے پاس کچھ شریک ہیں، تو اپنے شریکوں کو لے کر آئیں، اگر سچے ہیں (41)
- جس دن ایک ساق کھولی جائے گی (جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے) اور سجدہ کو بلائے جائیں گے، تو نہ کر سکیں گے (42)
- نبیٰؐ لگا رہیں کیسے ہوئے، ان پر خواری چڑھ رہی ہو گی، اور بیچک دنیا میں سجدہ کیلئے بلائے جاتے تھے جب تندرست تھے (43)
- تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے، اسے مجھ پر چھوڑ دو، قریب ہے کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی (44)
- اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خیر تدبیر بہت لمبی ہے (45)
- یا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ وہ جہنمی کے بوجھ میں دبے ہیں (46)
- یا ان کے پاس فیہ ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں (47)
- تو تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو اور اس مجمل والے کی طرح نہ ہونا جب اس حال میں پکارا کہ اس کا دل گھٹ رہا تھا (48)

- أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾
- إِنْ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿٣٨﴾
- أَمْ لَكُمْ آيَاتُنَا بِالْغَيْثِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنْ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٣٩﴾
- سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ إِنَّهُمْ بِرِزْقِكُمْ سَاهُونَ ﴿٤٠﴾
- أَمْ لَكُمْ شُرَكَاءَ فَلْيَأْتُوا بِحُكْمِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٤١﴾
- يَوْمَ يَكْشِفُ عَنْ سَاقٍ وَيُذْعِنُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾
- خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ ذُلَّةٌ وَدَعْدًا وَإِنَّا لَوَالِدُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿٤٣﴾
- فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَلِّبْ بِهِ الْهُدْيَ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾
- وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾
- أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿٤٦﴾
- أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَمَا يَكْتُمُونَ ﴿٤٧﴾
- فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾

49. Were it not so that favour from his Rubb (Sustainer) had overtaken him, he would certainly have been thrown down upon the bare tract of the land while he was condemned (by his people).

50. Then his Rubb (Sustainer) chose him, and placed him among the righteous.

51. And the disbelievers would strike you with their angry glances when they hear the reminder, and said, "surely, he was insane."

52. And it is not but a remembrance to the universe.

S. LXIX

SURA AL-HAA-AQQAH (THE SURE REALITY)

Revealed at Makkah

(52 Verses, 2 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION I

1. The concrete reality (is to happen).
2. What is the concrete reality!
3. And what would make you realize what the concrete reality is!
4. (Nation of) Samood (Thamud) and Aad called the striking calamity a lie.
5. Then as to Samood (Thamud) they were destroyed by a violent blast.
6. And as to Aad, they were destroyed by a fierce roaring wind;
7. which He imposed against them for seven nights and eight days continuously, so that you might have seen the people therein prostrate as if they were the trunks of fallen date-palm trees.

اگر اس کے رب کی نعمت اس کی خبر نہ پہنچ جاتی، تو ضرور میدان پر پھینک دیا جاتا الزام دیا ہوا (49)

تو اسے اس کے رب نے جن لیا اور اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں کر لیا (50)

اور ضرور کافر تو ایسے مٹوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر جہنمیں گرا دیں گے، جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ ضرور عقل سے دور ہیں (51)

اور وہ تو نہیں مگر صحبت سارے جہان کے لیے (52)

سورہ حاقہ کی ہے (اس میں) ہادون (52) آیتیں اور دو (2) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

وہ حق ہونے والی (1)

کسی وہ حق ہونے والی؟ (2)

اور تم نے کیا جانا کسی وہ حق ہونے والی؟ (3)

ثمود اور عاد نے اس سخت صدمہ دینے والی کو جھٹلایا (4)

تو ثمود تو ہلاک کئے گئے حد سے گزری ہوئی جھٹھاڑ سے (5)

اور رہے عاد وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے (6)

وہ ان پر قوت سے لگا دی سات راتیں اور آٹھ دن لگا تار، تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو! بچھڑے ہوئے، گویا وہ سمجھور کے ڈھنڈ ہیں گرے ہوئے (7)

لَوْلَا اَنْ تَدْرُكُهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ
لَنَبَذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾
فَاَجْنَبَهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ
الضَّالِّينَ ﴿٥٠﴾

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْفِقُوا
بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ
وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾
وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

فَلَمَّا تَوَلَّوْا لَهَا قَالُوا لَوْلَا
أَنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا
فِي أَصْحَابِ الْمَكَنَةِ ﴿٤٩﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَاقَّةُ ﴿١﴾

مَا الْحَاقَّةُ ﴿٢﴾

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ﴿٣﴾

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِوَآءِ الْقَارِعَةِ ﴿٤﴾

فَاتَّخَذُوا ثَمُودَ قَاهِلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ﴿٥﴾

وَأَقَامُوا قَاهِلِكُوا بِرِجْمٍ صَرَصٍ ﴿٦﴾

عَاتِيَةٍ ﴿٧﴾

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَلَاثَةَ

أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا

صَرَّعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَابُ سُخْرٍ

خَالِيَةٍ ﴿٨﴾

8. Do you then see any one of them remaining?
 9. And Firawn (Pharaoh) and those before him and the overthrown cities continuously committed sins.
 10. And they disobeyed the Rasool (Messenger) of their Rubb (Sustainer), so He seized them with a severe seizing.
 11. Surely, We (Allah) carried you in a moving ship when the water of flood went high;
 12. that We (Allah) may make it a reminder to you, and that the retaining ears might preserve it.
 13. And when the trumpet is blown with a single blast;
 14. and the earth and the mountains are borne away and crushed to powder with a single levelling blow;
 15. on that day shall the great event come to pass;
 16. and the heaven shall be split and on that day it shall fall to pieces;
 17. and the Angels shall be standing on the sides thereof; and above them shall be, on that day, power of your Rubb (Sustainer) so effective.
 18. On that day you shall be exposed to view and no secret of yours shall remain hidden.
 19. Then as for such one who is given his (her) record in his (her) right hand, he in his (her) right hand, he (she) will say, "here, take and read my ledger".
 20. "Surely, I knew that I shall meet my account".
 21. So he shall be in a life of pleasure;
 22. in a lofty Paradise;
 23. the clusters of fruits of which are near at hand.

- تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو (8)
 اور فرعون اور اس سے اگلے اور اتنے والی بستیاں خلا لائے (9)
 تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کا حکم نہ مانا، تو اس نے انہیں بڑی جرمی گرفت سے پکڑا (10)
 بیشک جب پانی نے سر اٹھایا تھا، ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا (11)
 کہ اسے تمہارے لیے یادگار کریں، اور اسے محفوظ رکھے، وہ کان کہ سن کر محفوظ رکھتا ہو (12)
 پھر جب صور پھونک دیا جائے ایک دم (13)
 اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دھستے چورا کر دیئے جائیں (14)
 وہ دن ہے کہ ہو پڑے گی وہ ہونے والی (15)
 اور آسمان پھٹ جائیگا تو اس دن اس کا پتلا حال ہو گا (16)
 اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوتے، اور اس دن تمہارے رب کا عرض اپنے اوپر، آٹھ فرشتے اٹھائیں گے (17)
 اس دن تم سب پیش ہو گے کہ تم میں کوئی جیسے والی جان چھپ نہ سکے گی (18)
 تو وہ جو اپنا ٹائڈ اعمال اپنے ہاتھ میں دیا جائے گا، کہے گا تو میرے نامہ اعمال پر دعو (19)
 مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنوں گا (20)
 تو وہ من مانتے جہنم میں ہے (21)
 بلند باغ میں (22)
 جس کے خوشے جگے ہوئے (23)

- فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَاقِيَةٍ ۝
 وَجَا فِرْعَوْنَ وَمَنْ قَبْلَهُ وَ
 الْمُؤْتَفِكَةَ بِالْأَعْيُنِ ۝
 فَعَصَا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُم
 أَخَذَةً رَّابِيَةً ۝
 إِنَّهَا طَاطِقًا الْمَاءَ حَمَلْنَاكُمْ فِي
 الْجَارِيَةِ ۝
 لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذَكُّرًا وَتَعْيِبًا
 أَدْنَىٰ وَأَعْيِنَا ۝
 فَأَذَانُفَعُ فِي الصُّورِ نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ ۝
 وَصَهَّتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا
 دَكَّةً وَاحِدَةً ۝
 فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝
 وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَسُيُوفُ يَوْمَئِذٍ
 وَاهِيَةٌ ۝
 وَالْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ وَأَيْحُسُ
 عَرْشِ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ
 تَمْبِيهَةٌ ۝
 يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ
 خَافِيَةٌ ۝
 فَأَمَّا مَنْ أُوذِيَ كِتَابًا بِرَيْبِنَةٍ
 فَيَقُولُ هَذَا مَا فَرَّوْا كِتَابِيَهُ ۝
 إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلِقٌ حَسَابِيَهُ ۝
 فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝
 فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝
 قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۝

24. Eat and drink pleasantly for what you did before hand in the days gone by.

25. And as for him who is given his accounts book in his left hand he shall say, "O would that my record had never been given to me."

26. "And I had not known what my account was."

27. "Would that it had been my end."

28. "My wealth has availed me nothing."

29. "My authority has been stripped away from me."

30. Get hold of him, then put fetters on him;

31. then cast him into the burning fire;

32. then thrust him into a chain, the length of which is seventy cubits.

33. Surely, he did not believe in Allah, the Great;

34. nor he urged the feeding of the poor.

35. Therefore, neither he has here today a true friend;

36. nor any food except refuse;

37. which none but the wrongdoers eat.

SECTION 2

38. But no! I swear by that which you see;

39. and that which you do not see.

40. Surely,, it is the speech of the noble Rasool (Messenger of Allah));

41. and it is not at all the word of a poet; little is it that you believe;

42. nor it is the word of a soothsayer. Little is it that you mind.

کھاؤ اور پیو رجا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گذرے دنوں میں آگے سمجھا (24)

اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں لیا جائے گا، کے گا: ہائے! کسی طرح مجھے اپنا

نوشتہ نہ لیا جاتا (25)

اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے (26)

ہائے! کسی طرح موت ہی قصہ چکا جا ہی (27)

میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال (28)

میرا سب نذر جاتا رہا (29)

اسے پکڑو! پھر اسے طوق ڈالو (30)

پھر اسے بجزئی آگ میں دھنساؤ (31)

پھر ایسی زنجیر میں جس کا ٹاپ ستر ہاتھ ہے، اسے پودو (32)

بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لایا تھا (33)

اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا (34)

تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں (35)

اور نہ کچھ کھانے کو مگر روزنیوں کا پیپ (36)

اسے نہ کھائیں گے مگر خطا کار (37)

تو مجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو (38)

اور جنہیں تم نہیں دیکھتے (39)

بیکج یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں (40)

اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں، کتنا کم یقین رکھتے ہو؟ (41)

اور نہ کسی کاہن کی بات، کتنا کم دھیان کرتے ہو؟ (42)

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِمَّا آسَلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝

وَأَقِمْنَ وَاقِفْنَ أَوْقِي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَتَيْبَنِي لَمْ أَوْتِ كِتَابِيهِ ۝

وَلَمْ أَدْرِ مَا حَسَابِيهِ ۝

يَتَيْبَهَا كَانَتْ الْفَاضِيَةَ ۝

مَا أَعْنَى عَنِّي مَالِيهِ ۝

هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ ۝

خُدُوهُ فَعَلُوهُ ۝

تَوَلَّوْا حَيْثُ مَوَّلُوهُ ۝

تَكْفُرِي سِلْسِلَةً ذُرْعَهَا سَمْعُونَ فِدَاعًا فَاسْأَلُوهُ ۝

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحْضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْيَسْكِينِ ۝

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسَلِينٍ ۝

أَلَيْسَ كَلِمَةً إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۝

فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۝

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمَنُونَ ۝

وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَّا تَدَّكُرُونَ ۝

43. It is a revelation from the Rubb (Sustainer) of the universe.

44. And if he had fabricated against Us (Allah) some of the sayings;

45. We (Allah) would certainly have seized him by the right hand;

46. then We (Allah) would certainly have cut off his life-artery;

47. and not one of you could have withheld Us (Allah) from him.

48. And surely, it is a reminder for those who are pious.

49. And surely, We (Allah) know that some of you deny it.

50. And surely, it is a great grief to the disbelievers.

51. And surely, it is the true certainty.

52. Therefore, glorify the Name of your Rubb (Sustainer), the Great.

S. LXX

SURA AL-MA-AARIJ

(THE WAYS OF ASCENT)

Revealed at Makkah

(44 Verses, 2 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. A questioner asks for the punishment about to fall;

2. upon the disbelievers; which none may avert;

3. (as it is) from Allah, the Rubb (Sustainer) of the ways of ascent.

4. To Him ascend the Angels and the Spirit in a day the measure of which is fifty thousand years.

5. Therefore, be steadfast with a admirable patience.

اس نے آمارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے (43)

اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے (44)

ضرور ہم ان سے بقوت بدلا لیتے (45)

پھر ان کی رگ دل کاٹ دیتے (46)

پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا

(47)

اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کو نصیحت

ہے (48)

اور ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں کچھ بھٹلانے والے ہیں (49)

اور بیک وہ کافروں پر حسرت ہے (50)

اور بیک وہ یقینی حق ہے (51)

تو اے محبوب! تم اپنے نعمت والے رب کی پاکی بولو (52)

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٣﴾
وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾
لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾
فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٤٧﴾

وَإِنَّهُ لَتَنْذِيرٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾
وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾

وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾
وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿٥١﴾
فَاذْكُرْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾

سورہ معارج کی ہے (اس میں) چوالیس (44) آیتیں اور دو (2) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے (1)

جو کافروں پر ہونوالا ہے، اس کا کوئی ٹانے والا نہیں (2)

وہ ہو گا اللہ کی طرف سے جو بندیوں کا مالک ہے (3)

ملائکہ اور جبریل اس کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں، وہ عذاب اس دن ہو گا

جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے (4)

تو تم اچھی طرح مہر کرو (5)

سُوْرَةُ الْمَعَارِجِ مَكِّيَّةٌ مِنْ ثَمَانِيَةِ آيَاتٍ وَرُكُوعَيْنِ وَبِاسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿٢﴾

بَلِّغْ الْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿٣﴾

مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿٤﴾

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ

فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ

أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٥﴾

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿٦﴾

6. Surely, they see it to be far off;
 7. but We (Allah) see it nearby.
 8. On the day when the heaven shall be as molten copper;
 9. and the mountains shall be as flakes of wool;
 10. and bosom friend shall not ask about bosom friend.
 11. They shall be made to see each other. A criminal would wish to be redeemed from the punishment of that day by offering sons;
 12. and his wife and his brother;
 13. and the nearest of his kinsfolk, who gave him shelter;
 14. and all those that are on the earth, that they altogether might save him;
 15. but never. It is a flaming fire;
 16. dragging skin from the head;
 17. it shall invite him who turned and fled (from truth);
 18. and amassed (wealth) then hoarded it up.
 19. Surely, man is created of a impatient temperament;
 20. being greatly perturbed when evil touches him;
 21. and becomes miser when he gets benefitted;
 22. except those who offer prayer;
 23. the people, who are regular in offering their Salaat (Muslim Prayer);
 24. and those in whose wealth there is a known right;
 25. for the one who asks help and for those who are deprived;
 26. and those who accept the Day of Judgement to be a reality;

- وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں (6)
 اور ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں (7)
 جس دن آسمان ہو گا جیسی گل چاندنی (8)
 اور پہاڑ ایسے بلکے ہو جائیں گے جیسے اون (9)
 اور کوئی دست کسی دست کی بات نہ پڑھے گا (10)
 ہوں گے انہیں دیکھتے ہوئے، مجرم آرزو کرے گا، کاش! اس دن کے عذاب سے بچنے کے بدلے میں دیوے اپنے بیٹے (11)
 اور اپنی جوڑ (بیوی) اور اپنا بھائی (12)
 اور اپنا کنبہ جس میں اس کی جگہ ہے (13)
 اور جتنے زمین میں ہیں سب پھر یہ بدلا دینا اسے بچالے (14)
 ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی آگ ہے (15)
 کھال اتار لینے والی بارہی ہے (16)
 اس کو جس نے پیٹھ دی اور منہ پھیرا (17)
 اور جوڑ کر بیت (بچا) رکھا (18)
 بے شک آدمی بنایا گیا ہے بڑا بے مبرا حریص (19)
 جب اسے برائی پہنچے، تو سخت گھبرانے والا (20)
 اور جب بھلائی پہنچے، تو روک رکھنے والا (21)
 مگر نمازی (22)
 جو اپنی نماز کے پابند ہیں (23)
 اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے (24)
 اس کے لیے جو مانگے اور جو نامک بھی نہ سکے، تو محروم رہے (25)
 اور وہ جو انصاف کا دن بچ جاتے ہیں (26)

- إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۝
 وَنُرَاهُ قَرِيبًا ۝
 يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْهَلِ ۝
 وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝
 وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۝
 يَبْصُرُونَهُمْ يَوْمَ الْعَذَابِ يُؤْمِنُونَ بِعَذَابِهِ ۝
 وَأَصْحَابُهَا وَأَخِيهِ ۝

- وَفَصِيحَتِهِ الَّتِي تُؤَيِّدُ ۝
 وَصَفِيحَتِهِ الَّتِي تُؤَيِّدُ ۝
 وَصَفِيحَتِهِ الَّتِي تُؤَيِّدُ ۝
 وَصَفِيحَتِهِ الَّتِي تُؤَيِّدُ ۝
 وَصَفِيحَتِهِ الَّتِي تُؤَيِّدُ ۝
 وَصَفِيحَتِهِ الَّتِي تُؤَيِّدُ ۝
 وَصَفِيحَتِهِ الَّتِي تُؤَيِّدُ ۝
 وَصَفِيحَتِهِ الَّتِي تُؤَيِّدُ ۝
 وَصَفِيحَتِهِ الَّتِي تُؤَيِّدُ ۝
 وَصَفِيحَتِهِ الَّتِي تُؤَيِّدُ ۝

- إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝
 إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝
 وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝
 إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۝
 الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۝
 وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۝
 لِلْمَسْكِينِ وَالْمَحْرُومِ ۝
 وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ ۝

27. and those who are fearful of the punishment of their Rubb (Sustainer).

28. Surely, the punishment of their Rubb (Sustainer) gives no security;

29. except to those who guard their private parts;

30. save from their wives: Or those whom their right hands possess because they surely, are not to be blamed.

31. But he who seeks to go beyond this, such are transgressors.

32. And those who are watchful to their trusts and their promises;

33. and those who are upright in their testimonies;

34. and those who keep profound devotion in their Salaat (Muslim Prayer);

35. they shall be in Paradises of honor.

SECTION 2

36. But what ails those who disbelieve that they hasten on around you;

37. from the right hand and the left, in different parties?

38. Is every one of them eager that he should be made to enter the Paradise of Bliss?

39. By no means! Surely, We (Allah) have created them of that which they know.

40. But no! I swear by the Rubb (Sustainer) of the Easts and the Wests that We (Allah) are certainly powerful;

41. to bring in their place others better than them. And We (Allah) cannot be frustrated.

42. Therefore, leave them alone to indulge in idle talk and to play until they come face to face with that day of theirs which they are promised;

اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں (27)

بیک ان کے رب کا عذاب بڑھوے گی چیز نہیں (28)

اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں (29)

مگر اپنی بیبیوں یا اپنے ہاتھ کے مال کنیزوں سے، کہ ان پر کچھ ملامت نہیں (30)

تو جو ان دو کے سوا اور چاہے، وہی حد سے بڑھنے والے ہیں (31)

اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں (32)

اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں (33)

اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں (34)

یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا (35)

تو ان کا فرسوں کو کیا ہوا، تسماری طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں (36)

دائے اور بائیں گردہ کے گردہ (37)

کیا ان میں ہر شخص یہ طمع کرتا ہے کہ جہن کے باغ میں داخل کیا جائے (38)

ہرگز نہیں، بیک ہم نے انہیں اس حق سے بنایا جسے جانتے ہیں (39)

تو مجھے قسم ہے اس کی جو سب پوروں (مشرقوں) سب پچھوں (مغربوں) کا مالک ہے، کہ ضرور ہم قادر ہیں (40)

کہ ان سے ایسے بدل دیں اور ہم سے کوئی نکل کر نہیں جاسکتا (41)

تو انہیں چھوڑ دو ان کی بیوقوفیوں میں پڑے، اور کھیلتے ہوئے یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملیں جس کا انہیں وعدہ

دیا جاتا ہے (42)

وَالَّذِينَ هُمْ قِنُّ عَذَابٍ رَبِّهِمْ
مُسْفِقُونَ ﴿٢٧﴾

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَا يُوعَدُونَ ﴿٢٨﴾
وَالَّذِينَ هُمْ يُحَافِظُونَ ﴿٢٩﴾

إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ
رِعْوُونَ ﴿٣٢﴾

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿٣٣﴾
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٣٤﴾

أُولَٰئِكَ فِي جَهَنَّمَ مُكْرَمُونَ ﴿٣٥﴾
فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِبَلَاغَتِكَ

مُهْطِعِينَ ﴿٣٦﴾
عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ

أَيُّطِعُ كُلَّ آمْرٍ مِّنْهُمْ أَنْ
يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿٣٧﴾

كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾
فَلَا أَقْسَمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَ

الْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿٣٩﴾
عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا

نَحْنُ بِمُسْتَوْتِينَ ﴿٤٠﴾
فَذَرِهِمْ يَخْضَبُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يَلْقَا

يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٤١﴾

43. the day on which they shall come forth from their graves in haste, as if they were hastening to a target;
44. their eyes cast down. Disgrace shall overcome them. That is the day which they were promised.

S. LXXI

SURA NUUH

(NOAH THE PROPHET)

Revealed at Makkah

(28 Verses, 2 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. Surely, We (Allah) sent Nuh (Noah) to his nation, saying, "warn your nation, before there comes upon them a painful punishment.
2. He said, "O my nation! I am a plain warner to you;"
3. "that you should worship Allah and fear Him and obey me".
4. He will forgive you your sins and grant you a delay to an appointed term. Surely, the term of Allah, when it comes, is not postponed, if you but know!
5. He (Noah) said, "O my Sustainer (Rubb)! surely, I have called my people by night and by day;"
6. "but the more I call them the more they run away."
7. "And whenever I called them that You (Allah) may forgive them, they put their fingers in their ears, covered themselves with their garments, and persisted and became boastful."
8. "Then surely, I called to them aloud";

جس دن قبروں سے اٹھنے کے لئے گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں (43)
آئیں نہیں کیے ہوئے ان پر زلت سوار ہے ان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا (44)

سورہ نوح کی ہے (اس میں) اٹھائیس (28) آیتیں اور دو (2) رکوع (ہیں)
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہمان روم والا

بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے (1)

اس نے فرمایا: اے میری قوم! میں تمہارے لیے مرجح ڈر سناٹا ہوں (2)
کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو (3)

اور میرا حکم مانو، وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر عبادت تک تمہیں مہلت دے گا بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے بنایا نہیں جاتا، کسی طرح تم جانتے (4)

عرض کیا: اے میرے رب! میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا (5)
تو میرے بلانے سے انہیں بھاگتا ہی پڑا (6)

اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے، انہوں نے اپنے کانوں میں اٹھائیں دے لیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لے اور ہٹ (ضمنا) کی اور بڑا غور کیا (7)
پر میں نے انہیں علانیہ بلایا (8)

يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ
سِرًا مَا كَانُوا إِلَىٰ نُصُبِ يُوقِظُونَ
خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ
ذُلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي كَانُوا
يُؤْمَرُونَ ﴿٤٤﴾

سُبْحَانَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ
انذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١﴾

قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي كُنْتُ نَذِيرٌ
مُبِينٌ ﴿٢﴾

إِنِ اعْبُدُوا لِلَّهِ الْقُوَّةَ وَأَطِيعُوا
يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا
جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي
لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٤﴾

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاؤِي إِلَّا فِرَارًا ﴿٥﴾
وَإِنِّي كُنْتُ دَاعِيَهُمْ لِيَتَّعِبُوا
جَعَلُوا الْأَصَابِعَ فِي أَذَانِهِمْ
وَاسْتَعْصَمُوا بِرِثَابِهِمْ وَاصْتَبَرُوا

اسْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا ﴿٦﴾
تَعْرَانِي دَعْوَتَهُمْ جَهْرًا ﴿٧﴾

9. and surely, I preached them in public and I spoke to them in secret."

10. I said "ask forgiveness of your Rubb (Sustainer). Surely, He is the Forgiving."

11. "He will send down upon you the abundance of rain";

12. "and strengthen you with wealth and children, and allocate for you Paradises, and springs of water."

13. "What is to you that you do not get impressed by the Greatness of Allah";?

14. "and how He has created you in different forms and conditions."

15. Do you not see how

Allah has created the seven heavens in harmony;

16. and placed the moon therein as a light, and made the sun a lamp?

17. And Allah has caused you to grow out of the earth as its growth;

18. then He returns you to it and then will bring you forth again.

19. And Allah has made for you the earth a wide carpet;

20. that you may go in its high ways.

SECTION 2

21. Nuuh (Noah) said, "my Rubb (Sustainer) they have disobeyed me and followed him whose wealth and children added nothing but his ruin.

22. And they have devised a plot of great magnitude;

23. and said, "by no means leave your gods, nor leave Wadd, nor Suwa, nor Yaghuth, and Yauq and Nasr (idols of paganism).

24. Indeed, they have led many astray. So the cruels

بجھ میں نے ان سے بااعلان بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی کہا (9)

تو میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو! وہ بڑا محاف فرمائے والا ہے (10)

تم پر شرائے کا سینہ (بارش) بھیجے گا (11)

اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائیگا (12)

تمہیں کیا ہوا اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے (13)

حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا (14)

کیا تم نہیں دیکھتے! اللہ نے کیونکر سات آسمان بنائے ایک پر ایک (15)

اور ان میں چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ (16)

اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا (17)

پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا اور دوبارہ نکالے گا (18)

اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھوٹا بنایا (19)

کہ اس کے وسیع راستوں میں چلو (20)

روح لے عرض کی! اے میرے رب! انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کے پیچھے ہو لیے جسے اس کے مال اور اولاد

نے نقصان ہی پہنچایا (21)

اور اب بہت بڑا واؤں کیلئے (22)

اور بولے! ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور سواع اور بلوث اور یوق اور نسر کو (23)

اور بے شک انہوں نے بتوں کو بھکا یا

تَمَرَانِي أَعَدَدْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ①

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ②

يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ③ وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيُبَيِّنُ وَ يَجْعَلُ لَكُمْ جَدَّتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهْرًا ④

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ⑤

وَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ أَطْوَارًا ⑥

أَلَمْ تَرَ وَكَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ⑦

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَوَجَعَلَ الشَّمْسُ بِرِجَابٍ ⑧

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ⑨

ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ⑩

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ⑪

لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا خِطَابًا ⑫

قَالَ نُوحٌ رَبِّ انَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالًا وَوَلَدًا إِلَّا خَسَارًا ⑬

وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا ⑭

وَقَالُوا لَا تَنْدِرُنَّ إِلَهُتَكُمْ وَلَا تَنْدِرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ

وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ⑮

وَقَدْ أَضَلُّوا كَيْدِيَاهُمْ وَلَا تَسُدُّ

are left to increase in their error.

25. Because of their felonies they were drowned, then made to enter fire. So they did not find any helpers, except Allah.

26. And Nuuh (Noah) said, "my Rubb (Sustainer)! donot leave upon the land a single dweller from among the disbelievers."

27. "For surely, if You leave them they will lead to the wrong way Your devotees, and will not give birth to any but to the immoral and the disbeliever (children)".

28. My Rubb (Sustainer)! forgive me and my parents and him who enters my house believing, and the believing men and the believing women; and do not increase the cruels except in destruction!

S. LXXII

SURA JINN

(THE JINNS)

Revealed at Makkah

(28 Verses, 2 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. Please declare (O dear Prophet Mohammad S.A.W.), "it has been revealed to me that a party of the jinn listened, and they said, "surely, we have heard the wonderful Qur'aan";

2. "guiding to the right way. So, we believe in it, and we will not commit "shirk" set up any one as associate with our Rubb (Sustainer)";

3. "and that exalted be the Highest Glory of our Rubb (Sustainer) who has neither

اور تو ظالموں کو زیادہ نہ کرنا مگر گمراہی

(24)

اپنی کسی خطاؤں پر ڈوبے گئے، پھر اہل میں داخل کیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پایا (25)

اور لوح نے عرض کی! اے میرے رب! زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ (26)

بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کے اولاد ہوگی، تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بے کار بچی نامشروع (27)

اے میرے رب! مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو، اور اسے جو ایمان کیساتھ میرے گھر میں ہے، اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو، اور کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہی (28)

سورہ جن کی ہے (اس میں اٹھائیس (28)

آیتیں اور دو (2) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

الظَّالِمِينَ بِالْأَضْلَاءِ ۝
وَمَا كُنَّا بِمَنصُورِينَ أَعْرَضُوا فَأُدْخِلُوا
لَكَرَاهٍ فَكَفَرُوسُجُودًا وَالْمُحْرَمِينَ دُونَ
اللَّهِ أَنْصَارًا ۝

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي
الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ وَكَارِهِيَا ۝

أَتْلَفَانِ تَذَرُهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ
وَلَا يَلِدُوا وَأَلَّا فاجراً كَفَّارًا ۝
رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ
دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَالْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا
فِي الْأَنْبَارِ ۝

وَالَّذِينَ ظَلَمُوا فِي الْأَنْبَارِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْمُكَ فَقَرُونُ

الْحَيُّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا
عَجَبًا ۝

يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَ

لَنْ نَشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝

وَأَنَّهُ تَعَلَّى جَدًّا رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ
صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۝

ایک عجیب قرآن سنا (1)

کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے، اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے (2)

اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اس نے عورت اختیار کی اور نہ

taken any one as wife, nor a son";

4. and that the foolish amongst us used to forge senseless lies against Allah";

5. "and that we thought that human beings and jinn" will never utter a lie against Allah";

6. "and that commoners from among the human beings used to seek refuge with persons from among jinns, so they increased them in wrong attitude";

7. "and indeed they thought as you think, that Allah would never raise again anyone";

8. "and that we sought to reach the sky, but we found it filled with strong guards and flame shooting stars";

9. and that we used to sit on the listening observatory posts thereof, to steal a (heavenly) hearing. But who would (try to) listen would find a flame shooting star lying in wait for him.

10. Therefore, we do not know whether evil is meant for those who are on earth or whether their Rubb (Sustainer) wants to bring them guidance;

11. and that some of us are righteous and some of us are otherwise. We are thus sects following different views;

12. and we know that we cannot frustrate Allah in the earth, nor can we escape Him by flight;

13. and that when we heard the call to guidance, we believed in it. So whoever believes in his Rubb (Sustainer), has neither fear of loss nor of disgrace;

(3) پچھ

اور یہ کہ ہم میں کا یہ قوف، اللہ پر بیچہ کر

بات کتا تھا (4)

اور یہ کہ ہمیں خیال تھا کہ ہرگز آدمی اور

جن اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے (5)

اور یہ کہ آدمیوں میں کچھ مروجوں کچھ

مردوں کی پناہ لیتے تھے، تو اس سے اور

بھی ان کا تکبر بڑھا (6)

اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا جیسا تمہیں

گمان ہے، کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے

گا (7)

اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا، تو اسے

پایا کہ سخت پیرے اور آگ کی چنگاریوں

سے بھرا دیا ہے (8)

اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے

کچھ موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے، پھر اب جو

کوئی سنے وہ اپنی ناک میں آگ کا لو کا

پائے (9)

اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں

سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے، یا

ان کے رب نے کوئی بھلائی چاہی ہے

(10)

اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ

دوسری طرح کے ہیں، ہم کئی راہیں پھینے

ہوئے ہیں (11)

اور یہ کہ ہم کو یقین ہوا کہ ہرگز زمین میں

اللہ کے قابو سے نہ نکل سکیں گے، اور

نہ بھاگ کر اس کے قبضہ سے باہر ہوں

(12)

اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت سنی اس پر

ایمان لائے، تو جو اپنے رب پر ایمان

لائے اسے نہ کسی کی کا خوف اور نہ

نرا دلی کا (13)

وَإِنَّهٗ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَىٰ
أَدْبَاهِ شَطَطًا ۝

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَّقُولَ ٱلْإِنسِ
وَٱلْجِنِّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۝

وَإِنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ
يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَرَادٍ مِّنْهُمْ
رَهَقًا ۝

وَأَنهٗمُ ظَنُّوْا ٱلْمَآظِنَ ظَنْمًا أَن لَّن
يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ۝

وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَا فِيهَا
مُجَلِبَاتٍ حَرِّيًّا شَدِيدًا ۝

وَأَنَّا لَكُنَّا نَعْبُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ ٱلشَّمْعِ
فَمَنْ يَسْمِعِ ٱلْأَن يَجِدْ لَهُ

شِهَابًا ٱكْصَادًا ۝

وَأَنَّا لَآ نَدْرِي أَسْرَأُيُدُ بَعْنُ فِي
ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهٖمْ سَرًّا ۝

رَيْبًا ۝

وَأَنَّا مِمَّا الضَّالِّينَ وَمِنَّا مَن ذُلِقْنَا
كُنَّا طَرِيقًا قَدًّا ۝

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ ٱللَّهَ فِي
ٱلْأَرْضِ وَلَٰكِن نُّعْجِزُهُ هَرَبًا ۝

وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَىٰ أٰمَنَّا بِهٖ
فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ
بُخْسًا وَلَا رَهَقًا ۝

14. and that some of us are Muslims and some of us are the deviators. So those who submit, find the right way.

15. And as to the deviators, they are fuel of hell;

16. and that if they should keep to the (right) way, We (Allah) would certainly give them to drink abundant water;

17. that We (Allah) might try them thereby. And whoso turns aside from the remembrance of Rubb (Sustainer), He will make such one enter into an increasing punishment by Him.

18. All the Masajid as places of worship belong to Allah. Therefore, do not call upon any one besides Allah.

19. And when the devotee of Allah (Muhammad) stood up to pray to Him, they crowded him to suffocate him (in the Ka'aba).

SECTION 2

20. Please declare (O dear Prophet Muhammad S.A.W.), "I only call upon my Rubb (Sustainer), and I do not equate (associate) any one with Him."

21. Please declare, "I do not control for you any harm or benefit."

22. Please declare, "surely, no one can protect me against Allah, nor can I find besides Him any place of refuge."

23. "I only convey the revelation from Allah as His message. And whoever disobeys Allah and His Rasool (Messenger) surely, he shall have the fire of hell, to abide therein for a long long time;

24. until they see what they are promised. Soon shall they

اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ خالم' تو جو اسلام لائے انہوں نے سہلائی سوجی (14)

اور رہے خالم وہ جہنم کے اندر من ہوئے (15)

اور فرماؤ! کہ مجھے یہ وحی ہوئی ہے کہ اگر وہ راہ پر سیدھے رہے، تو ضرور ہم انہیں وافرانی دیتے (16)

کہ اس پر انہیں جان نہیں اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے، وہ اسے چڑتے عذاب میں ڈالے گا (17)

اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں، تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو (18)

اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی بندگی کرنے کھڑا ہوا، تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر غصہ کے غصہ (گروہ کے گروہ) ہو جائیں (19)

تم فرماؤ! میں تو اپنے رب ہی کی بندگی کرتا ہوں، اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا (20)

تم فرماؤ! میں تمہارے کسی بڑے بھلے کا مالک نہیں (21)

تم فرماؤ! ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا، اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پائیں گا (22)

مگر اللہ کے پیام پہنچانا اور اس کی رسالتیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے، تو بیگ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں (23)

یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو وعدہ دیا

وَأَلَمْنَا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ
فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿۱۴﴾
وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿۱۵﴾

وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ
لَأَسْقَيْنَهُمْ غَاءً عَذَابًا ﴿۱۶﴾

لَتَقْفَيْنَهُمْ فِيهِ وَهَمَّ مِنْ وَعْرِهِ عَنْ
وَكُرِّيهِ يَسُدُّكَ عَذَابًا مُّضَعًا ﴿۱۷﴾

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا
مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿۱۸﴾

وَأَنْتَ لِنَا قَامِعٌ عَبْدُ اللَّهِ يُدْعُوكَ
بِحُكْمٍ كَادُوا يُكْفَرُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا ﴿۱۹﴾

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ
بِهِ أَحَدًا ﴿۲۰﴾

قُلْ لِي لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا
رَشَدًا ﴿۲۱﴾

قُلْ إِنِّي لَا يَجِدُنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدًا
وَأَنْ أَجِدُ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا ﴿۲۲﴾

إِلَّا لِبِغَاةٍ مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَنْ
يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ
جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ﴿۲۳﴾

حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ
فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا

know who is weaker in aid and poorer in number.

25. Please declare, "I do not know whether that which you are promised is near or whether my Rubb (Sustainer) has appointed for it a term"?

26. He is the Knower of the unseen! He does not reveal His secrets to any;

27. except to him whom He chooses as a Rasool (Messenger). Surely, He makes a guard to march before him and behind him;

28. so that He may know that they have truly delivered the message of their Rubb (Sustainer), and He encompasses what is with them, and He keeps count of all the things.

S. LXXIII

SURA AL-MOZAMMIL (THE WRAPPED-UP)

(Revealed at Makkah

(20 Verses, 2 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION I

1. O you WRAPPED up (in the heavy responsibilities of Prophethood)!

2. remain rise-up (to pray) in the night except some portion thereof;

3. a half of it, or little less;

4. or little more, and recite the Qur'aan slowly and distinctly.

5. Surely, We (Allah) are charging you with a heavy Word (with solemnity).

6. Surely, the rising up by night is the firmest way to subdue the self and the best corrective for the words (of Prayer).

7. Surely, you have in the day time a long (schedule of) engagements.

جاتا ہے 'تو اب جان جائیں گے کہ کس کا

مددگار کنوز' اور کس کی گنتی کم (24)

تم فرماؤ! میں نہیں جانتا آیا نزدیک ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے' یا میرا رب اسے کچھ وقفہ دے گا (25)

غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرنا (26)

سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے (27)

تاکہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیام پہنچا دیئے' اور جو کچھ ان کے پاس سب اس کے علم میں ہے' اور اس

نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے (28)

سورہ مزمل کئی ہے (اور اس میں) میں

(20 آیتیں اور دو (2) رکوع ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان

رحم والا

آئے جھومت مارنے والے (1)

وَأَقْلَّ عَدَدًا ۞

قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ فَأَتُوْعَدُوْنَ

أَمْ يَجْعَلُ لِي رُحِي أَمَدًا ۞

عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ

غَيْبِهِ أَحَدًا ۞

إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ

يَسْمَعُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ

خَلْفِهِ رَصَدًا ۞

لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَهُمْ

وَاحْطَاطًا بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْطَىٰ

كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۞

سُوْرَةُ الْمَزْمَلِ مَكِّيَّةٌ مَعْرُوفَةٌ بِآيَةِ وَرَبِّهَا الْحَمْدِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الْمَرْمُومُ ۞

قُمْ الْيَلِ الْأَقْيَلِ ۞

نِصْفَةً أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۞

رات میں قیام فرما' سوا کچھ رات کے (2)

آدھی رات یا اس سے کچھ کم کرو (3)

یا اس پر کچھ بڑھاؤ' اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو (4)

بیگ عقریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے (5)

بیگ رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈال ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے (6)

بیگ دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں (7)

أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۞

إِنَّا سَأَلْنَا عَلَيْكَ فَأَوْلًا قَلِيلًا ۞

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأًا

أَقْوَمُ قِيلًا ۞

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۞

8. And remember the Name of your Rubb (Sustainer) and devote yourself to Him with (exclusive) devotion.

9. He is the Rubb (Sustainer) of the East and the West. There is none worth worship except He. Therefore, take Him as a Protector.

10. And bear patiently all that they say and go apart from them gracefully.

11. And leave to Me alone those who rejected faith as the lovers of ease and comforts. But let them wait a little.

12. Surely, with Us (Allah) are the heavy fetters and a flaming furnace;

13. and the food that chokes throats and a painful punishment;

14. on the day when the earth and the mountains shall quake and the mountains shall become (as) heaps of sand let loose.

15. Surely, We (Allah) have sent to you a Rasool (Messenger), who is a witness against you, as We (Allah) sent a Rasool (Messenger) toward Firawn (Pharaoh);

16. but Firawn (Pharaoh) disobeyed that Rasool (Messenger Moosaa). So We (Allah) seized him with a terrible seizure.

17. How, then, if you disbelieve, will you become pious, on the day which shall make children grey-headed?:

18. when the sky shall be rent asunder thereby. His promise is bound to be fulfilled.

اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو ہو (8)

وہ پورب (شرق) کا رب اور پچھم (مغرب) کا رب اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم اسی کو اپنا کار ساز بناؤ (9)

اور کافروں کی باتوں پر صبر فرماؤ اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو (10)

اور مجھ پر چھوڑو ان جھٹلانے والے مالداروں کو اور انہیں تمہاری سملت دو (11)

بے شک ہمارے پاس بھاری پینیاں ہیں اور بھڑکی آگ (12)

اور گلے میں پھنستا کھانا اور درد ناک عذاب (13)

جس دن قمر قمرائیں گے زمین اور پہاڑ اور پہاڑ ہو جائیں گے رسیے کا ٹیلہ بنا ہوا (14)

پیک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے کہ تم پر حاضر ناظر ہیں جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے (15)

تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا (16)

پھر کیسے بچ گئے؟ اگر کفر کو اس دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا (17)

آسمان اس کے صدمہ سے پھٹ جائے گا اللہ کا وعدہ ہو کر رہتا (18)

وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلْ اِلَيْهِ
تَبْتَئِلًا ①

رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلَهَ
اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَرَبًّا ②

وَاصْبِرْ عَلٰی مَا يَقُولُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ
هَجْرًا جَمِيْلًا ③

وَذُرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِي النَّعْمَةِ
وَمَقْلَبُهُمْ قَلِيْلًا ④

اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالَ وَّوَجِيْهًا ⑤
وَطَعَامًا وَاَعْصَبًا وَاَعْدَابًا اِيْمًا ⑥

يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَاَنْ
كَانَتْ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ⑦

اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا هٰذَا شٰهَدًا
عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ
رَسُوْلًا ⑧

فَعَصٰى فِرْعَوْنُ رَسُوْلًا فَاَخَذْنٰهُ
اَخْذًا وَّوَبِيْلًا ⑨

فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا
يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِجَابًا ⑩

السَّمَاءُ مَنقُطِرٌ رَبِّهٖ كَانَ وَعْدُهُ
مَفْعُوْلًا ⑪

19. Surely, this is a reminder. Then let him, who wills so, take the way to his Rubb (Sustainer).

SECTION 2

20. Surely, your Rubb (Sustainer) knows that you remain stand-up in devotion nearly two-thirds of the night, and sometimes half of it, and sometimes a third of it, alongwith a party of Your Companions, with you. And Allah measures the night and the day. He knows that you are not able to calculate it. So He has turned to you (mercifully). Therefore, recite how much is easy out of the Qur'aan. He knows that there must be among you sick, and others who travel in the land seeking the Bounty of Allah, and others who fight in cause of Allah. Therefore, recite as much of it as is easy (to you), and keep up Salaat (Muslim Prayer) and pay the Zakaat (compulsory due of the have-nots) and offer to Allah a good loan. And whatever of good you send before hand for yourselves, you will find it with Allah, better and greater in reward. And ask forgiveness of Allah. Surely, Allah is Forgiving, Merciful.

S. LXXIV

SURA AL-MOODDASSIR

(ENFOLDED IN SHEET)

Revealed at Makkah

(56 Verses, 2 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. O you who have enfolding yourself with in your mantle (of reforms);
2. a rise and warn;

بے شک یہ نصیحت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے (19)

بچک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کبھی دو تہائی رات کے قریب کبھی آدھی رات، کبھی تہائی، اور ایک جماعت تمہاری ساتھ والی، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانو! تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا، تو اس نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمائی، اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھو، اسے معلوم ہے کہ عنقریب کچھ تم میں سے بیمار ہوں گے اور کچھ زمین میں ستر کریں گے، اللہ کا فضل تلاش کرنے اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے تو جتنا قرآن میسر ہو پڑھو، اور نماز قائم رکھو، اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کو اچھا قرض دو، اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پادہ گے، اور اللہ سے بخشش مانگو! بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے (20)

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿١٩﴾

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْدَرُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَأَخْرُونَ يُضَاهُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَعَوَّنُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَالْأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّرُوا مَوْلَا أَنْفُسِكُمْ فَمَنْ خَيْرٌ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرْ لِلَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

سورۃ مدثر کی ہے (اس میں) چھپن (56) آیتیں اور دو (2) رکوع (ہیں)

سُورَةُ الْمُدَّثِّرِ مَكِّيَّةٌ مَجْمُوعَةٌ فِي سِتِّ عَشْرِينَ آيَةً وَتَسْتَدِيرُ الْكُتُبَ

اللہ کے نام سے شروع جو نایت مہربان رحم والا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

اسے بلا پوش اوڑھنے والے (1)

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿٢﴾

کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ (2)

قُمْ فَأَنْذِرْ ﴿٣﴾

3. and glorify the Dignity of your Rubb (Sustainer);
4. and purify your garments;
5. and keep away from idolatry;
6. and do not bestow favours in expectation of returns;
7. and be steadfast in the way of your Rubb (Sustainer).
8. But when the trumpet is sounded;
9. that day, shall be a difficult day;
10. not easy for the disbelievers;
11. leave him to Me alone whom I have created;
12. and gave him (her) abundant riches;
13. and sons always present by his side;
14. and I made affairs for him (her) adjustable;
15. and yet such one (disbeliever) desires that I should add more.
16. No not at all as indeed he (she) is hostile to Our (Allah's) revelations.
17. I shall inflict on him (her) a distressing punishment.
18. Surely, he (she) has thought out and has calculated;
19. but he (she) may be ruined as to how he (she) calculated;
20. then again, he (she) be accursed how he (she) calculated?;
21. then he (she) looked around;
22. then he (she) frowned and became gloomy;
23. then he (she) turned back and became boastful;

- اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو (3)
 اور اپنے کپڑے پاک رکھو (4)
 اور جوں سے دور رہو (5)
 اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کرو (6)
 اور اپنے رب کے لیے صبر کیے رہو (7)
 مگر جب صور پھونکا جائے گا (8)
 تو وہ دن کرا دن ہے (9)

- کافروں پر آسان نہیں (10)
 اسے مجھ پر چھوڑ جسے میں نے اکیلا پیدا کیا (11)
 اور اسے وسیع مال دیا (12)
 اور بیٹے دیئے سامنے حاضر رہتے (13)
 اور میں نے اس کے لیے طرح طرح کی تیاریاں کیں (14)
 مگر یہ طمع کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں (15)
 ہرگز نہیں وہ تو میری آیتوں سے غبار رکھتا ہے (16)

- قریب ہے کہ میں اسے آگ کے پار صعد پر چڑھاؤں (17)
 بیشک وہ سوچا اور دل میں کچھ بات ٹھہرائی (18)

- تو اس پر لعنت ہو کیسی ٹھہرائی (19)
 پھر اس پر لعنت ہو کیسی ٹھہرائی (20)
 پھر نظر اٹھا کر دیکھا (21)
 پھر تیرے چڑھائی اور منہ بگاڑا (22)
 پھر پیچھے پھیری اور ٹکیر کیا (23)

- وَذِكْكَ فَلَکِیْرٌ ۝۱
 وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝۲
 وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝۳
 وَلَا تَمَنَّ أَنْ تَمُنَّ ۝۴
 وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝۵
 فَاذْأَنْفِرَ فِي النَّاقُورِ ۝۶
 فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِیْرٌ ۝۷
 عَلَى الْكَافِرِیْنَ عَذَابٌ عَسِیْرٌ ۝۸
 ذُرِّيٌّ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۝۹
 وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ۝۱۰
 وَبَنِينَ شَبُودًا ۝۱۱
 وَمَهْدَاتٍ لَهُ تَهْنِیْدًا ۝۱۲
 ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۝۱۳
 كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِیْدًا ۝۱۴
 سَأَدْرِهِنَّ صَعُودًا ۝۱۵

- إِنَّهُ فَكَّرٌ وَقَدَّرَ ۝۱۶
 فَقَسَمَ أَنْ يَحْمِلَهُ قَدَرٌ ۝۱۷

- ثُمَّ قَسَمَ أَنْ يَحْمِلَهُ قَدَرٌ ۝۱۸
 ثُمَّ نَظَرَ ۝۱۹
 ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۝۲۰
 ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۝۲۱

24. and he (she) said, "this (Qur'aan) is only a magic narrated (from the old);

25. this is only the speech of a person (Muhammad).

26. I shall cast such one into the hell;

27. and what will make you realize what hell is?

28. It neither leaves nor it spares any.

29. It scorches the faces of persons.

30. Over it are nineteen (Angels).

31. And We (Allah) have appointed Angels the wardens of the fire and We (Allah) have not fixed their numbers except as a trial for those who disbelieve, that those who have been given the Book may become certain and that the believers may increase in faith, and those who have been given the Book as well as all the believers may not be deceived. Those in whose hearts is a disease and the disbelievers may say, "what does Allah mean by this example"? Thus does Allah let him err whom He Pleases, and He may guide whom He Pleases. And none knows the forces of your Rubb (Sustainer) But He Himself. And this is only a reminder to the people.

SECTION 2

32. Indeed, I call as witness the shining moon;

33. and the night when it departs;

34. and the daybreak when it shines.

35. Surely, it (hell) is one of the greatest (misfortunes);

36. a warning to persons;

37. among you who wish to

پھر یوں! یہ تو وہی جادو ہے اگلوں سے
سیکھا (24)

یہ نہیں مگر آدمی کا کلام (25)

کوئی دم جاتا ہے کہ میں اسے دوزخ میں
دھنساتا ہوں (26)

اور تم نے کیا جانا 'دوزخ کیا ہے؟' (27)

نہ چھوڑے، نہ گھی رکھے (28)

آدمی کی کھال آتا رہتی ہے (29)

اس پر انیس (19) داروغہ ہیں (30)

اور ہم نے دوزخ کے داروغہ نہ کیے مگر
فرشتے، اور ہم نے ان کی یہ گنتی نہ رکھی
مگر کافروں کی جانچ کو، اس لیے کہ کتاب
والوں کو یقین آئے اور ایمان والوں کا
ایمان بڑھے، اور کتاب والوں اور
مسلمانوں کو کوئی شک نہ رہے، اور دل
کے روگی اور کافر کس، اس اپنے کی
بات میں اللہ کا کیا مطلب ہے، یوں ہی
اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے، اور ہدایت
فرماتا ہے جسے چاہے، اور تمہارے رب
کے لکھروں کو اس کے سوا کوئی نہیں
جاتا، اور وہ تو نہیں مگر آدمی کے لیے
صیحت (31)

فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ قَدِيمٌ ﴿٢٤﴾

إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾

سَأُصَلِّيَنَّهٖ سَقَرَ ﴿٢٦﴾

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ ﴿٢٧﴾

لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾

لَوَاحِجَةً لِلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا
مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عَدُوَّ لَهُمْ إِلَّا
فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيُوَدِّعُوا
الَّذِينَ آمَنُوا وَإِيمَانًا وَلَا يَنَابِئُ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ
وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا
مَثَلًا كَذَلِكِ يُضِلُّ اللَّهُ مَن
يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا
يَعْلَمُ جَسُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ

إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٣١﴾

كَلَّا وَالْقَمَرَ ﴿٣٢﴾

وَاللَّيْلَ إِذَا دَبَّرَ ﴿٣٣﴾

وَالصُّبْحَ إِذَا أَصْفَرُ ﴿٣٤﴾

إِنَّهَا إِلَّا حُدَى النَّكَرِ ﴿٣٥﴾

نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾

لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقَدَّ مَرَأُو

- go forward or remain behind.
 38. Every soul is held in pledge for what it earns;
 39. except the people of the right hand.
 40. In Paradises, they shall ask each other;
 41. about the cruel ones;
 42. "what has brought you into lower hell?"
 43. They will say, "we were not of those who established Salaat (Muslim Prayer)";
 44. "and we did not feed the poor";
 45. "and we used to enter into vain discourses with those who indulged therein";
 46. "and we used to deny the Day of Judgement";
 47. "till death overtook us."
 48. So the intercession of intercessors shall not avail them.
 49. What is then the matter with them, that they turn away from the admonition;
 50. as if they were frightened asses;
 51. which flee from a lion.
 52. Indeed, every one of them desires that he may be given scrolls of revelations spread out (like Prophets);
 53. but by no means (can by done so). Indeed, they do not fear the hereafter.
 54. No! it is surely, an admonition.
 55. So let him who wills be warned.
 56. But they will not pay heed unless Allah Wills. He alone is worthy to be feared and worthy to forgive.

S. LXXV

SURA AL-QIYAMAH (THE RESURRECTION DAY)

Revealed at Makkah
(40 Verses, 2 Sections)

- بچے رہے (37)
 ہر جان اپنی کنی میں گروی ہے (38)
 مگر اپنی طرف والے (39)
 باغوں میں پوچھتے ہیں (40)
 مجرموں سے (41)
 تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گی (42)
 وہ بولے! ہم نماز نہ پڑھتے تھے (43)
 اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے (44)
 اور بیوہ فکر والوں کے ساتھ بیوہ
 فکریں کرتے تھے (45)
 اور ہم انصاف کے دن کو بھٹلاتے رہے
 (46)
 یہاں تک کہ ہمیں موت آئی (47)
 تو انہیں سفارش کی سفارش کام نہ
 دے گی (48)
 تو انہیں کیا ہوا نصیحت سے منہ پھیرتے
 ہیں (49)
 گویا وہ بجز کے ہوئے گدھے ہوں (50)
 کہ شیر سے بھاگے ہوں (51)
 بلکہ ان میں کا ہر شخص چاہتا ہے کہ کلمے
 سمیٹے اس کے ہاتھ میں دے دیئے جائیں
 (52)
 ہرگز نہیں بلکہ ان کو آخرت کا ڈر نہیں
 (53)
 ہاں ہاں! بے شک وہ نصیحت ہے (54)
 تو جو چاہے اس سے نصیحت لے (55)
 اور وہ کیا نصیحت نامیں مگر جب اللہ چاہے
 وہی ہے ڈرنے کے لائق اور اسی کی شان
 ہے مغفرت فرمانا (56)

سورہ قیامت کی ہے (اس میں چالیس
 آیتیں اور دو (2) رکوع ہیں)

يُنَاخِرُونَ ﴿٣٧﴾
 كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾
 إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِيْنِ ﴿٣٩﴾
 فِي جَنَّاتٍ شَاتِئَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴿٤٠﴾
 عَنِ الْمَجْرُمِيْنَ ﴿٤١﴾
 مَا سَأَلُوكُمْ فِي سَفَرٍ ﴿٤٢﴾
 قَالُوا لِمَ نَكُ مِنَ الْمَصْلِيْنَ ﴿٤٣﴾
 وَلِمَ نَكُ نَطْعِمُ الْمَسْكِيْنَ ﴿٤٤﴾
 وَكُنَّا نَحْوُصُّ مَعَ الْفَاطِيْنِ ﴿٤٥﴾
 وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٤٦﴾
 حَتَّىٰ آتَانَا الْيَقِيْنَ ﴿٤٧﴾

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشُّفَعِيْنَ ﴿٤٨﴾
 فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٩﴾
 كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٠﴾

فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾
 بَلْ يَرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ
 صُحُفًا مُنشَرَّةً ﴿٥٢﴾
 كَلَّا بَلْ لَرُبَّمَا فُتِنُوا بِالْإِخْرَافِ ﴿٥٣﴾
 كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٤﴾
 فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ﴿٥٥﴾
 وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ
 أَهْلُ السُّعُوْىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾

سورہ قیامت کی ہے (اس میں چالیس
 آیتیں اور دو (2) رکوع ہیں)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. Indeed! I call to witness the Day of Resurrection;
2. and indeed I - call to witness the reprehensive self.
3. Does human being think that We (Allah) shall not gather his bones?
4. Yea indeed! We (Allah) are able to make complete his very fingertips.
5. But the human being desires to falsify what is before him.
6. He asks, "when is the Day of Resurrection?";
7. when the eyes are dazzled;
8. and the moon is eclipsed;
9. and the sun and the moon are brought together.
10. Human being will say on that day: where to escape?
11. But there will be no refuge!
12. With your Rubb (Sustainer) on that day will be the place of rest.
13. Human being shall on that day be informed of what he sent before and left behind.
14. But human being is witness against himself;
15. though he (she) puts forth his (her) excuses.
16. Do not move (O Muhammad S.A.W.) your tongue with it (Qur'aan) to make it (to be remembered);
17. as surely, on Us (Allah) is the collecting of it and the reciting of it.
18. Therefore when We (Allah) have recited it, follow its recitation.

- اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا
روز قیامت کی قسم یاد فرماتاہوں (1)
اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت
طامت کرے (2)
کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی
ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے (3)
کیوں نہیں؟ ہم قادر ہیں کہ اس کے پور
ٹھیک بنا دیں (4)
بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی ٹانہ کے
سانے ہڈی کرے (5)
پوچھتا ہے 'قیامت کا دن کب ہو گا؟' (6)
پھر جس دن آنکھ چونڈھیائے گی (7)
اور چاند گئے (گرہن ہو) گا (8)
اور سورج اور چاند ملا دیئے جائیں گے
(9)
اس دن آدمی کے 'گا' کو مہر بھاگ کر
جاؤں (10)
ہرگز نہیں، کوئی پناہ نہیں (11)
اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر
ٹھہرنا ہے (12)
اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا بنا
دیا جائے گا (13)
بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری ٹانہ
رکتا ہے (14)
اور اگر اس کے پاس جتنے بھانے ہوں
سب لا ڈالے، جب بھی نہ سنا جائیگا (15)
تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کیساتھ
اپنی زبان کو حرکت نہ دو (16)
بیک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے
ذمہ ہے (17)
جب ہم اسے پڑھ لیں، اس وقت اس
پڑھے ہوئے کی اتباع کرو (18)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَا أَقْسَمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ①
وَلَا أَقْسَمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ②
أَلْحَسِبَ الْإِنْسَانَ أَنْ تَجْمَعُ
عِظَامَهُ ③
بَلَىٰ قَدَرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ④
بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرْ أَمَامَهُ ⑤
يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ⑥
فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ⑦
وَحَسَفَ الْقَمَرُ ⑧
وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ⑨
يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ
الْمَفْرُ ⑩

كَلَّا لَا وَوَزَرٌ ⑪
إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ⑫
يَنْبُؤُا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ
وَأَخَّرَ ⑬
بَلِ الْإِنْسَانِ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ⑭
وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيهِ ⑮
لَا تَخْشَىٰكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ
بِهِ ⑯
إِن عَلَيْنَا جُمُعَةُ وَقُرْآنَهُ ⑰
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ⑱

19. On Us is (devolved) the explaining of it.

20. No indeed! but you (people) love the present life;

21. and you neglect the hereafter.

22. That day some of the faces shall be bright;

23. looking towards their Rubb (Sustainer).

24. And (other) faces on that day shall be gloomy;

25. thinking that a back breaking great calamity is to fall on them.

26. But when it (soul of the dying person) comes up to the throat;

27. and it is said, "who is the magician (to save you)?

28. He (she) then will realise that it is the (hour of) parting (death);

29. and an anguish is combined with an anguish;

30. to your Rubb (Sustainer) on that day shall be the driving.

SECTION 2

31. But he (she) did not accept the truth, nor did he (she) offer Salaat (Prayer);

32. instead he (she) called the truth a lie and turned back;

33. then he (she) went to his (her) kinsfolks, walking away in haughtiness.

34. Woe to you and the woe again;

35. again woe to you and woe again.

36. Does man think that he is to be left to wander without being controlled?

37. Was he (she) not a semen drop spilled forth?

38. Then he (she) became a clot of blood. So He created then made (him) her) perfect

پھر ایک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر

فرمایا ہمارے ذمے ہے (19)

کوئی نہیں! بلکہ اے کافرو! تم پاؤں تلے

کی دوست رکھتے ہو (20)

اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو (21)

کچھ منہ اس دن ترومانہ ہوں گے (22)

اپنے رب کو دیکھتے (23)

اور کچھ منہ اس دن گڑے ہوئے ہوں

گے (24)

مجھے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کی

جانے کی جو کر کو توڑ دے (25)

ہاں! ہاں! جب جان گلے کو پہنچ جائے گی

(26)

اور کیسے گے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک

کرے (27)

اور وہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کی گھڑی

ہے (28)

اور پنڈلی سے پنڈلی پٹ جائے گی (29)

اس دن تیرے رب ہی کی طرف ہانکتا ہے

(30)

اس نے نہ توجہ مانا، اور نہ نماز پڑھی

(31)

ہاں! بھٹایا اور منہ پھیرا (32)

پھر اپنے گھر کو آگیا چلا (33)

تیری خرابی آگئی، اب آگئی (34)

پھر تیری خرابی آگئی، اب آگئی (35)

کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ آزاد چھوڑ

دیا جائے گا (36)

کیا وہ ایک بوند نہ تھا اس منی کا کہ گرائی

جائے (37)

پھر خون کی پٹک ہوا، تو اس نے پیدا فرمایا

پھر نمیک بنایا (38)

تُعْرَانِ عَلَيْنَا بَيَانُهُ ۞

كَلَّا بَلْ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۞

وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۞

وَجُوهٌ يُّوْمِنُونَ نَاصِحَةً ۞

إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ۞

وَجُوهٌ يُّوْمِنُونَ بِآسِرَةٍ ۞

تَتَّظَنُّونَ أَنْ يَفْعَلَ بِهِنَّ مَا فَعَلَتْهُ ۞

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۞

وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ۞

وَتَطَّنَّ إِنَّهُ الْفِرَاقُ ۞

وَالتَّتَفَتِ السَّائِقُ السَّائِقُ ۞

عِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ۞

فَلَا صَدْقَ وَلَا وِصْلَىٰ ۞

وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۞

ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَمْتَطِي ۞

أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ۞

ثُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ۞

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ ۞

سُدَىٰ ۞

أَلَمْ يَكُنْ لَطْفًا مِنْ قَبْلِي نَمِي ۞

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَتُهُ فِئْتَانًا يَنْسَوِي ۞

39. Then He made of that two pairs, the male and the female.

40. Has not such One the power to raise the dead?

S. LXXVI

SURA AL-DAHAR (THE TIME)

Revealed at Medina

(31 Verses, 2 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. Was there certainly not a time over the life of a human being when he (she) was not a thing worth mentioning.

2. Surely, We (Allah) have created human being from a mingled semen drop uniting (itself): We (Allah) mean to try them, so We (Allah) have made them hearing, seeing.

3. Surely, We (Allah) have shown them the way: they may be grateful or ungrateful.

4. Surely, We (Allah) have prepared for the disbelievers chains and shackles and a burning fire.

5. Surely, the righteous shall drink from a cup the admixture of which is camphor.

6. A fountain from which the devotees of Allah shall drink; and make it to flow a forceful gushing forth in abundance.

7. They fulfil their vows and fear a day the evil of which shall be spreading far and wide.

8. And they feed out of love for Him to the needy and the orphan and the prisoners:

9. (saying) we only feed you for Allah's Pleasure; we desire from you neither any reward nor thanks.

تو اس سے دو جوڑ بنائے مرد اور عورت
(39)

کیا جس نے یہ کچھ کیا وہ مردے نہ جلا سکے گا (40)

سورہ دہر کی ہے (اس میں) اکتیس (31) آیتیں اور دو (2) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

بے شک آدمی پر ایک وقت وہ مگر راکہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا (1)

بیک ہم نے آدمی کو پیدا کیا لی ہوئی مٹی سے کہ وہ اسے جان نہیں، تو اسے سنتا رکھتا کرنا (2)

بیک ہم نے اسے راہ بتائی یا حق مانتا یا ناشکری کرتا (3)

بے شک ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں اور طوق اور بجزئی آگ (4)

بے شک نیک ہیں گے اس جام میں سے جس کی لٹنی کافور ہے، وہ کافور کیا، ایک چشمہ ہے (5)

جس میں سے اللہ کے نہایت خاص بندے ہیں گے اپنے مٹلوں میں، اسے جہاں چاہیں بنا کر لے جائیں گے (6)

اپنی تمیز پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے (7)

اور کھانا کھاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور امیر (بقیدی) کو (8)

ان سے کہتے ہیں، ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے (9)

فَجَعَلَ مِنْهُ الذَّكَوٰةَ
الْاُنثٰى ﴿٣٩﴾

الْيَسَّ ذٰلِكَ بِقَدْرِ عَلٰى اَنْ
يَّجِيَّءَ الْمَوْتٰى ﴿٤٠﴾

سُوْرَةُ الدَّهْرِ
مِنْ اَحْسَنِ التَّوْحِيْدِ
اَنْبِيَاؤِ الْاَنْبِيَاةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
هَلْ اَتٰى عَلٰى الْاِنْسَانِ حِيْنَ مِّنَ

الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا ﴿١﴾
اِنَّا خَلَقْنٰ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ

اَمْشٰجٍ نَّبْتَلِيْهِ فِجْعَلْنٰهُ سَمِيْعًا
بَصِيْرًا ﴿٢﴾

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا
وَ اِمَّا كَفُوْرًا ﴿٣﴾

اِنَّا اَعَدَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ سَلْسِلًا
وَ اَعْلٰلًا وَ سَعِيْرًا ﴿٤﴾

اِنَّ الْاَبْرٰرَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَأْسٍ
كَانَ مِزْاجُهَا كَأْفُوْرًا ﴿٥﴾

عِيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ
يُفَجِّرُوْنَ بِهَا تَفْجِيْرًا ﴿٦﴾

يُوْفُوْنَ بِالْاَنْذٰرِ وَ يَخٰفُوْنَ يَوْمًا
كَانَ شَرًّا مَّسْتَطِيْرًا ﴿٧﴾

وَ يَطْعَمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حَبِيْبِهِ
مُسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اٰسِيْرًا ﴿٨﴾

اِنَّمَا نَطْعَمُكُمْ لُوْجِهَةِ اللّٰهِ لَا لِنَرِيْذٍ
مِّنْكُمْ جَزَاءً وَّ لَا شُكُوْرًا ﴿٩﴾

10. Surely, we fear from our Rubb (Sustainer) a stern, distressful day.

11. Therefore, Allah will guard them from the evil of that day and cause them to meet with joyfulness and happiness.

12. And He will reward them with gardens and silk robes and Paradises because they were steadfast;

13. to recline therein upon raised couches. They shall find there neither (the severe heat of) the sun nor intense cold.

14. And close down upon them (shall be) its shadows. And its fruits shall be easy to reach.

15. And there shall be made to go round about them the vessels of silver and goblets of glass;

16. and crystal clear bottles of silver; they measure them accurately.

17. And they shall be made to drink therein a cup, the admixture of which shall be flavoured with ginger.

18. (It will be from) a fountain therein which is named Salsabeel.

19. And round about them shall go youths never altering in age. When you see them you will think them to be scattered pearls.

20. And when you see there, you will see blessings and a great dominion.

21. Upon them shall be garments of fine green silk and thick brocade. And they shall be adorned with bracelets of silver. And their Rubb (Sustainer) shall make them drink a pure beverage.

ہے لگ ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے (10)

تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا، اور انہیں تازگی اور شادمانی دی (11)

اور ان کے مبرا انہیں جنت اور ریشی کپڑے صلہ میں دیئے (12)

جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ ٹھنڈ (13)

اور اس کے سامنے ان پر سجھے ہوں گے اور اس کے کچے جکا کر چھ کر دیئے گئے ہوں گے (14)

اور ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہو گا، جو شیشے کے مش ہو رہے ہوں گے (15)

کیسے شیشے، چاندی کے، ساتھوں (پلاٹے والوں) نے انہیں پورے اندازہ پر رکھا ہو گا (16)

اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے جس کی لٹنی (رگت) اورک ہوگی (17)

وہ اورک کیا ہے؟ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہتے ہیں (18)

اور ان کے آس پاس خدمت میں بھروسے کے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، جب تو انہیں دیکھے، تو انہیں سمجھے کہ موتی ہیں بکھیرے ہوئے (19)

اور جب تو ادھر نظر اٹھائے ایک جہنم دیکھے، اور بڑی سلطنت (20)

ان کے بدن پر ہیں کرب کے سبز کپڑے اور تاقویز کے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے گئے، اور انہیں ان کے رب نے تھمی شراب پلائی (21)

إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا غَمًّا
قَمَطَرًا ۝

فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شِرْكَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَرُو
لَقَهُمْ نَصْرًا وَسُرُورًا ۝

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَ
حَرِيرًا ۝

فَتَجِدُنَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا
يَرُونَ فِيهَا سُمْرًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ۝

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ
أَقْطُوفُهَا تَذِينًا ۝

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ
وَالْأُكُوبِ كَأَنَّهُمْ قَوَارِيرًا ۝

قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا
تَقْدِيرًا ۝

وَيَسْقُونَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا
شَرِبًا ۝

عَيْنًا فِيهَا تُسْقَى سَلْسَبِيلًا ۝
وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ
إِذْ أَمَّا آيَاتُهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا
مُنْتَوِرًا ۝

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمْرًا رَأَيْتَ نَجِيمًا وَمُنْكَرًا
كِبْرًا ۝

عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ
وَإِسْتَبْرَقٌ وَخُلُوعٌ أَسَاوِرٌ مِنْ
فِضَّةٍ وَسَقَمَهُمُ رَبُّهُمْ شَرَابًا
طَهُورًا ۝

۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰

22. Surely, this is a reward for you, and your labor shall be appreciated.

SECTION 2

23. Surely, We (Allah) Ourselves have revealed the Qur'aan to you piecemeal.

24. So, be steadfast for the Command of your Rubb (Sustainer). Buy never obey from among them a sinner or an ungrateful one.

25. And remember the Name of your Rubb (Sustainer) morning and evening;

26. and prostrate to Him during part of the night, and glorify Him for long through the night.

27. surely, they love this transitory life and neglect a too hard day before them.

28. We (Allah) created them and made firm their make, and when We (Allah) please We (Allah) shall bring in their place the likes of them by a change.

29. Surely, this is a reminder. So, whoever wishes may take a way to his Rubb (Sustainer).

30. But you (Muhammad S.A.W.) do not desire except what Allah Wills. Surely, Allah is Knowing, Wise.

31. He causes whom He Wills to enter into His Mercy; and (as for) the unjust, He has prepared for them a painful punishment.

S. LXXVII

SURA AL-MOORSALAAT (THE EMISSARIES)

Revealed at Makkah

(50 Verses, 2 Sections)

Allah's Name, Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

ان سے فرمایا جائے گا، یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی (22)

بے شک ہم نے تم پر قرآن بتدریج اتارا (23)

تو اپنے رب کے حکم پر صابر رہو، اور ان میں کسی گنہگار یا ناشکرے کی بات نہ سناؤ! (24)

اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو (25)

اور کچھ رات میں اسے سجدہ کرو، اور بڑی رات تک اس کی پائی بولو (26)

بے شک یہ لوگ پاؤں تلے کی عزیز رکھتے ہیں، اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں (27)

ہم نے انہیں پیدا کیا، اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان جیسے اور بدل دیں (28)

بیک یہ نصیحت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے (29)

اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ چاہے، بیک وہ علم و حکمت والا ہے (30)

اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے (31)

إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا ﴿٢٢﴾

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿٢٣﴾

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِمَّنْ آثَمًا أَوْ كُفُورًا ﴿٢٤﴾

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾

إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَ

يَذُرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾

أَمْحَنَ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا آسْرَهُمْ وَإِذْ أَسْنَأْنَا بِدَلْتِنَا أَمْثَ الْهَمِّ

تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾

إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ

اتَّخِذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾

يُدْخِلْ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَ

الظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣١﴾

سورہ مرسلات مکی ہے (اس میں) پچاس (50) آیتیں اور دو (2) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. I call to witness those (Angels) who are sent consecutively (for the human benefit);

2. and who push on with a forceful pushing;

3. spreading truth by quick process;

4. then distinctly distinguish fully (between good and evil);

5. then they (Angels) bring down the remembrance (Qur'aan);

6. to end arguments of some or to warn others.

7. Surely, what you are promised must come to pass.

8. So (it will be) when stars are made to lose their light;

9. and when the sky is rent asunder;

10. and when the mountains are blown away;

11. and when the Rasools (Messengers) are gathered at their appointed time.

12. For what day the doom has been fixed?

13. The Day of Decision making;

14. and what will make you understand what is the Day of Decision making?

15. Woe will be on that day to those who falsified it (Qur'aan/Islam).

16. Did We (Allah) not destroy the former generations?

17. So We (Allah) shall cause the later ones to follow them.

18. Thus shall We (Allah) deal with the criminals.

19. Woe on that day to those who falsify (the truth).

20. Did We (Allah) not create you from mean water sprout?

تم ان کی جو بھیجی جاتی ہیں لگا تار (1)

پھر زور سے جمونکا دینے والیاں (2)

پھر ابھار کر اٹھانے والیاں (3)

پھر حق باحق کو خوب جدا کرنے والیاں (4)

پھر ان کی قسم! جو ذکر کا القا کرتی ہیں (5)

حجت تمام کرنے یا ڈرانے کو (6)

بیگ جس بات کا تم وعدہ دیئے جاتے ہو ضرور ہوتی ہے (7)

پھر جب تارے ٹو کر دیئے جائیں (8)

اور جب آسمان میں رختے پڑیں (9)

اور جب پہاڑ غبار کر کے اڑا دیئے جائیں (10)

اور جب رسولوں کا وقت آئے (11)

کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے تھے (12)

روز فیصلہ کے لیے (13)

اور تو کیا جانے وہ روز فیصلہ کیا ہے (14)

بھٹانے والوں کی اس دن خرابی (15)

کیا ہم نے انہوں کو ہلاک نہ فرمایا؟ (16)

پھر بچھلوں کو ان کے بچے پہنچائیں گے (17)

مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں (18)

اس دن بھٹانے والوں کی خرابی (19)

کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ فرمایا (20)

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۝۱

فَالْعَصْفِ عَصْفًا ۝۲

وَالنَّشْرِ نَشْرًا ۝۳

فَالْفُرْقَاتِ فُرْقًا ۝۴

فَالْمُنْقِذَاتِ ذِكْرًا ۝۵

عُدًّا أَوْ نُذْرًا ۝۶

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعَ ۝۷

فَإِذَا النُّجُومُ طُوبِئَتْ ۝۸

وَإِذَا السَّمَاءُ فَجِرَّتْ ۝۹

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّفَتْ ۝۱۰

وَإِذَا الرَّسُولُ أَقْتُتْ ۝۱۱

لَأَيَّ يَوْمٍ أُحِلَّتْ ۝۱۲

لِيَوْمِ الْقُضْلِ ۝۱۳

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمِ الْقُضْلِ ۝۱۴

وَيْلٌ لِّوَيْسِ بْنِ مَكْدِي ۝۱۵

أَلَمْ نَهَبْكَ الْأَوْلِيْنَ ۝۱۶

لَمْ نَتَّبِعْهُمْ الْأَخْرَبِينَ ۝۱۷

كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۝۱۸

وَيْلٌ لِّوَيْسِ بْنِ مَكْدِي ۝۱۹

أَلَمْ نَخْلُقَكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝۲۰

21. Then We (Allah) placed it in a secure place (womb);
 22. till an appointed term;
 23. then We (Allah) proportion it. How well are We at proportioning (things).
 24. Woe on that day to those who falsified it (truth).
 25. Have We (Allah) not made the earth repository;
 26. (to hold) the living and the dead;
 27. and We (Allah) placed therein lofty mountains, and gave you sweet water to drink?
 28. Woe on that day to those who falsified it (truth).
 29. Move on to that which you denied.
 30. Move on to the shadow having three coverings;
 31. neither having (coolness) of the shade, nor protecting against the flame.
 32. Surely, it sends up sparks like logs of wood;
 33. as if they were camels of golden color.
 34. Woe on that day to them who falsified it (truth).
 35. This is the day on which they shall not be able to speak;
 36. and permission shall not be given to them that they may get themselves excused.
 37. Woe on that day to those who falsified it (truth).
 38. This is the Day of Decision on which We (Allah) have to gather you and the ancients, together.
 39. So, if you have a strength devise to use it against Me.
 40. Woe on that day to those who falsified it (the truth).

SECTION 2

1. Surely, the righteous hall be amid shades and mountains;

- پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا (21)
 ایک معلوم اندازہ تک (22)
 پھر ہم نے اندازہ فرمایا، تو ہم کیا ہی اچھے قادر (23)
 اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی (24)
 کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ کیا؟ (25)
 تمہارے زندوں اور مردوں کی (26)
 اور ہم نے اس میں اونچے اونچے نگر ڈالے، اور ہم نے تمہیں خوب میٹھا پانی پلایا (27)

- اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی (28)
 چلو اس کی طرف جسے جھٹلاتے تھے (29)
 چلو اس دھوسیں کے سائے کی طرف جس کی تین شاخیں (30)
 نہ سایہ دے، نہ لپٹ سے بچائے (31)
 بیگ دوزخ دنگاریاں اڑاتی ہے (32)
 جیسے اونچے محل، گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں (33)
 اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے (34)
 یہ دن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے (35)

- اور نہ انہیں اجازت ملے گی کہ عذر کریں (36)
 اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی (37)
 یہ ہے فیصلہ کا دن، ہم نے تمہیں جمع کیا اور سب اگلوں کو (38)

- اب اگر تمہارا کوئی داؤدوں ہو، تو مجھ پر چل لو (39)

- اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی (40)
 بیگ ڈر والے سایوں اور چشموں میں ہیں (41)

فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝
 إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝
 فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدِرُونَ ۝
 وَيَلَّيَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝
 أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۝
 أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ۝
 وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَاهِجَاتٍ ۝
 وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءً فُرَاتًا ۝

وَيَلَّيَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝
 أَنْطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ تَكذِّبُونَ ۝
 أَنْطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ۝
 لَا ظِلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَيْبِ ۝
 إِنَّمَا تَرْمِي بِشَرٍّ كَالْقَصْرِ ۝
 كَأَنَّ جِهْلَكَ صَفْرٌ ۝
 وَيَلَّيَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝
 هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ۝
 وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ۝
 وَيَلَّيَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝
 هَذَا يَوْمُ الْفُصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ۝
 فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فِكَيْدُكُمْ ۝
 بَعْضٌ وَيَلَّيَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝
 إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ ۝

42. and amid fruits such as they desire.

43. Eat and drink pleasantly because of what you did.

44. Surely, thus do We (Allah) reward the righteous.

45. Woe on that day to those who falsified it (the truth).

46. Eat and enjoy yourselves for a little. Surely, you are criminals.

47. Woe on that day to those who falsified it (the truth).

48. And when it is said to them, "bow down in homage", they do not bow down.

49. Woe on that day to those who falsified it (the truth).

50. In what discourse, (revelation), then, after it, will they believe?

PART 30
S. LXXVIII
SURA NABA
(THE NEWS)

(Revealed at Makkah)

(40 Verses, 2 Sections)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

SECTION 1

1. About what do they question each other ?

2. This is about the great news;

3. on which they have difference.

4. Yea, soon they will know it;

5. Yea, yea, indeed, they will soon know it.

6. Have We (Allah) * not made the earth a bed;

7. and the mountains as the pegs.

8. And We (Allah) have created you in pairs;

9. and We (Allah) have appointed sleep for your rest;

اور میوں میں جو اٹاتی ہے (42)

کھاؤ اور پیو بخیر رہو اپنے اعمال کا صلہ (43)

بگھ نیکوں کو ہم ایسا ہی بدلا دیتے ہیں (44)

اس دن جھٹلائے والوں کی خرابی ہے (45)

بگھ دن کھا لو اور برت لو! ضرور تم مجرم ہو (46)

اس دن جھٹلائے والوں کی خرابی ہے (47)

اور جب ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو تو نہیں پڑھتے (48)

اس دن جھٹلائے والوں کی خرابی ہے (49)

پھر اس کے بعد کون سی بات پر ایمان لائیں گے (50)

سورۃ نباء کی ہے (اس میں چالیس (40) آیتیں اور دو (2) رکوع ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہمان رحم والا

یہ آہیں میں کا ہے کی پوچھ بگھ کر رہے

ہیں (1)

بڑی خبر کی (2)

جس میں وہ کئی راہ ہیں (3)

ہاں! ہاں! اب جان جائیں گے (4)

پھر ہاں! ہاں! جان جائیں گے (5)

کیا ہم نے زمین کو بھجھوٹا نہ کیا (6)

اور پہاڑوں کو میخیں (7)

اور تمہیں جوڑے بنایا (8)

اور تمہاری نیند کو آرام کیا (9)

وَقُواكُم مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٢﴾
كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ

تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٥﴾

كُلُوا وَتَمَسَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ

مُجْرِمُونَ ﴿٤٦﴾

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكَعُوا لِرَبِّكُمْ

يَكْفُرُونَ ﴿٤٨﴾

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾

فَأَيَّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿١﴾

عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾

الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴿٣﴾

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٤﴾

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ﴿٦﴾

وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿٧﴾

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ﴿٨﴾

وَجَعَلْنَا لَكُمْ لَبَاتًا ﴿٩﴾

10. and We (Allah) have appointed the night as a covering;

11. and have made the day for the livelihood efforts.

12. And We (Allah) have built above you seven strong (heavens);

13. and have set therein (sun) as a glittering light;

14. and send down from the clouds rain water pouring forcefully;

15. to thereby bring forth grain and vegetation.

16. and luxuriant thick gardens.

17. Surely, the Day of decision has an appointed time;

18. the day when the trumpet shall be blown, and you will assemble in companies;

19. and the heaven shall be opened up converted as gates;

20. and the mountains shall be removed as sandy mirage.

21. Surely, the hell is awaiting;

22. as the destination of the rebellious ones;

23. to stay there for ages.

24. They will neither taste therein sleep nor drink;

25. except a boiling water and a stinking yellow liquid of hell;

26. as a befitting retribution.

27. Surely, they had no fear of being accounted for;

28. and they totally falsified Our Verses.

29. But We (Allah) get everything recorded in a Register;

اور رات کو پردہ پوش کیا (10)

اور دن کو روزگار کے لیے بنایا (11)

اور تمہارے اوپر سات مضبوط چٹائیاں

چھیں (12)

اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ رکھا

(13)

اور پھر بیلوں سے زور کا پانی اتارا (14)

کہ اس سے پیدا فرمائیں اناج اور سبزہ

(15)

اور کھنے باغ (16)

بے شک فیصلہ کا دن ٹھہرا ہوا وقت ہے

(17)

جس دن صور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ

گے، فوجوں کی فوجیں (18)

اور آسمان کھولا جائیگا کہ دروازے ہو جائیگا

(19)

اور پہاڑ چلائے جائیں گے کہ ہو جائیگے

جیسے چمکتا رہتا دور سے پانی کا دھوکا دینا

(20)

پیکر جنم ناک میں ہے (21)

سرکشوں کا ٹھکانا (22)

اس میں قزوں رہیں گے (23)

اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ

پائیں گے، اور نہ کچھ پینے کو (24)

مگر کھول پانی اور دوزخیوں کا جلا پیپ

(25)

جیسے کو تیسرا بدلا (26)

پیکر انہیں حساب کا خوف نہ تھا (27)

اور انہوں نے ہماری آیتیں حد بھر

بھلائیں (28)

اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے

(۲۹)

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۝

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝

وَبَنَيْنَا أَوْقَافَكُمْ سَبْعًا شَدِيدًا ۝

وَجَعَلْنَا فِيهَا سُرَّاجًا وَهَاجًا ۝

وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً بَهِيجًا ۝

لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۝

وَجَدَلْتِ الْقَافَا ۝

إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ كَانَ فَتْقَاتًا ۝

يَوْمَ يُفْعَمُ فِي الصُّورِ قَتَاؤُنَ الْأَوَّاجَا ۝

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۝

وَسِيَّرتِ الْبِبَالِ فَكَانَتْ سَأْبَابًا ۝

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝

لِلطَّاغِيَتِ مَآبًا ۝

لِيَسْتَوِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ۝

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۝

إِلَّا أَحْمِيْمًا وَأَوْعَاتًا ۝

جَزَاءً وَفَاقًا ۝

إِنَّهُمْ كَانُوا إِلَّا يَنْحُرُونَ ۝

وَكَذَّبُوا بِالآيَاتِ الْكِبْرَىٰ ۝

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۝

30. so you now taste (penalty); We (Allah) shall not increase except your punishment.

SECTION 2

31. Surely, the pious shall achieve the goal;

32. of gardens and grapes.

33. And the companions of equal age;

34. and the overflowing cups.

35. They will not hear there any non-sense or lie;

36. as a reward from your Rubb (Sustainer) as a sufficient gift;

37. from Him Who is the Rubb (Sustainer) of the heavens and the earth and whatever is between them: He is the most Affectionate: None shall have the power to address Him;

38. on the day when the Spirit (Jibreel) and all Angels will stand in rows who will not be able to speak, except whom the most Affectionate will permit and who speak only what is right.

39. That is the day sure to come. Who wants so should adopt a way to his Rubb (Sustainer).

40. Surely We (Allah) warn you of a punishment which is nearby; the day when man will see whatsoever his hands have sent forward, and every disbeliever will say, "would that I were mere dust":

S. LXXIX

SURA NAZIAAT (THE PLUCKERS)

(Revealed at Makkah)

(42 Verses, 2 Sections)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

اب چھو! کہ ہم تمہیں نہ بھاسیں گے
مگر عذاب (30)

ہیک ڈر والوں کو کامیابی کی جگہ ہے (31)
باغ ہیں اور انجور (32)

اور اٹھے جو بن والیاں ایک عمر کی (33)
اور چھلکا جام (34)

جس میں نہ کوئی بیوہ بات سنیں نہ
جھٹلا (35)

صلہ تمہارے رب کی طرف سے نہایت
کافی عطا (36)

وہ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور
جو کہہ ان کے درمیان ہے، رخصت اس
سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے
(37)

جس دن جبریل کھڑا ہو گا اور سب فرشتے
پر ہانڈے، کوئی نہ بول سکے گا، مگر جسے
رخصت نے اذن دیا، اور اس نے ٹھیک
بات کہی (38)

وہ سچا دن ہے، اب جو چاہے اپنے رب
کی طرف راہ بنا لے (39)

ہم تمہیں ایک عذاب سے ڈراتے ہیں کہ
نزدیک آگیا جس دن آدمی دیکھے گا جو کہہ
اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر
کے گا، ہائے! میں کسی طرح خاک ہو جاؤ
(40)

سورۃ النازعات کہی ہے (اس میں)
چھیالیس (46) آیتیں اور دو (2) رکوع
(ہیں)

فَاذْذُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ الْعَذَابَ ۝

إِن لَّمْ تَمُوتُوا مَقَارًا ۝

حَدَّ آيِسٍ وَأَعْنَابًا ۝

وَكُوَاعِبَ أَنْزَابًا ۝

وَكَأْسًا حَاقًا ۝

لَا يَمَعُونَ فِيهَا كُفْرًا وَلَا كِبْرًا ۝

جَزَاءً مِمَّنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ۝

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

الرَّحْمَنِ لَا يَتَذَكَّرُ لَكُمْ مِنْهُ جِثَابًا ۝

يَوْمَ يَقُومُ الرُّؤْمُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۝

لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أُذِنَ لَهُ

الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝

ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ

أَخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَاءَ ۝

إِلَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ

يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدُوهُ وَيَقُولُ

يَا كُفْرًا يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ۝

سُورَةُ النَّازِعَاتِ وَهِيَ دُونَ مِائَتَيْنِ وَتِسْعًا وَرَبُّهَا كَرِيمٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان
رحم والا

1. By those who pluck (out life) forcefully;
2. and by those who open knots (take life of the pious) smoothly;
3. by those who glide speedily;
4. then they (advance others to) reach so quickly;
5. then they administer the Command (of Allah).
6. One Day every thing blastable will be blasted;
7. followed by similar ones (blasts).
8. Hearts will tremble on that day.
9. Their eyes will remain cast down.
10. They (disbelievers) say, "shall we really be restored to our former state?"
11. What? even when we shall be rotten bones?
12. They say, "that return back will be a total loss."
13. But surely that will be a single cry;
14. and behold they shall all come out in open.
15. Has the tradition about Moosaa (Moses) reached you;
16. when his Rubb (Sustainer) called him to the holy valley of Towa (saying)—
17. you go to Fir'awn (Pharaoh); who has rebelled;
18. and say to him, "would you get yourselves purified"?
19. And I guide you to your Rubb (Sustainer) so that you may fear Him.
20. He (Moses) showed him a great sign.
21. But he (Pharaoh) falsified it and disobeyed.
22. Then he turned away to strive against him.
23. He gathered (his people) and proclaimed;

- (1) قسم ان کی کہ تختی سے جان کھینچیں
- (2) اور نرمی سے بند کھولیں
- (3) اور آسانی سے پھیریں
- (4) پھر آگے بڑھ کر جلد پھینچیں
- (5) پھر کام کی تدبیر کریں
- (6) کہ کافروں پر ضرور عذاب ہو گا جس دن قمر قرآنیکی قمر قرآنیوالی
- (7) اس کے پیچھے آئیگی پیچھے آنیوالی
- (8) کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے
- (9) آگہ اوپر نہ اٹھا سکیں گے
- (10) کافر کہتے ہیں، کیا ہم پھر الے پاؤں نہیں گے؟
- (11) کیا جب ہم گلی ہڈیاں ہو جائیں گے؟
- (12) بولے! یوں تو یہ پلٹتا، تو نرا نقصان ہے
- (13) تو وہ نہیں مگر ایک جھڑکی
- (14) جیسی وہ کھلے میدان میں آڑے ہوں گے
- (15) کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی
- (16) جب اسے اس کے رب نے پاک بچل طوئی میں ندا فرمائی
- (17) کہ فرعون کے پاس جا، اس نے سراٹھایا
- (18) اس سے کہ، کیا تجھے رغبت اس طرف ہے؟ کہ ستمرا ہو
- (19) اور تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں کہ تو ڈرے
- (20) پھر موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی
- (21) اس پر اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی
- (22) پھر بیٹھ دی اپنی کوشش میں لگا
- (23) تو لوگوں کو جمع کیا، پھر بکھارا

وَالْمُزِعَاتِ عَرْقًا ۝
وَالنَّشِطَاتِ نَشْطًا ۝
وَالسَّيِّخَاتِ سَبْحًا ۝
فَالسَّيِّغَاتِ سَبْقًا ۝
فَالْمُدْبِرَاتِ أَمْرًا ۝

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّجِيفَةُ ۝
تَتَّبِعُهَا الرِّادَةُ ۝
قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۝
أَبْصَارٌ هَاخًا شِعْبَةٌ ۝
يَقُولُونَ: إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْمَكَرَةِ ۝
إِذْ أَنْتُمْ عِظَامًا كَافِرَةٌ ۝
قَالُوا تِلْكَ إِذْ أُنزِلَتْ خَاسِرَةٌ ۝
فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۝
فَإِذْ أَهْمُ بِالسَّاهِرَةِ ۝
هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۝
إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝
إِذْ هَبَّ إِلَى فِرْعَوْنَ إِذْ هُوَ طُغِيَ ۝
فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزُولَ ۝
وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْتَشِيَ ۝
فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ ۝
فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۝
فَلَمَّا أَدْبَرَ يَتْسَعَىٰ ۝
فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۝

24. saying, "I am your lord, the highest one":

25. But Allah seized him as an example for the present (world) and for the hereafter.

26. Surely, there is a lesson in it for those who fear.

SECTION 2

27. What! is your creation more difficult than the sky He created?

28. He has raised its canopy high and then perfected it;

29. and He made its night dark, and its morning bright.

30. And after that He spread out the earth.

31. He produces therefrom water and pasture.

32. And He has fixed the mountains firmly;

33. for your benefit and for your cattle.

34. Then when the greatest disaster will come:

35. on that day man will remember all that he struggled for;

36. and the hell will be in full view to those who see.

37. Then as for those who rebelled;

38. and preferred the life of this world;

39. surely, the hell will be their destination.

40. But as the such ones who fear to stand before their Rubb (Sustainer) and restrain themselves from lust;

41. surely, the Paradise is their destination.

پھر یوں! میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں (24)

تو اللہ نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا (25)

پسک اس میں سے سیکھتا ہے اسے جو ڈرے (26)

کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل 'یا آسمان کا' اللہ نے اسے بنایا (27)

اس کی چمت اونچی کی 'پھر اسے ٹھیک کیا' (28)

اس کی رات اندھیری کی 'اور اس کی روشنی پکائی (29)

اور اس کے بعد زمین پھیلائی (30)

اس میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا (31)

اور پھانڈوں کو جمایا (32)

تمہارے اور تمہارے چمپاؤں کے فائدہ کو (33)

پھر جب آگئی وہ عام مصیبت سب سے بڑی (34)

اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی (35)

اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی (36)

تو وہ جس نے سرکشی کی (37)

اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی (38)

تو پیک جہنم ہی اس کا ٹھکانا ہے (39)

اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا (40)

تو پیک جنت ہی ٹھکانا ہے (41)

فَقَالَ أَنَا رَبُّ الْاٰلٰهِنَّ

فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاٰوَّلِيْنَ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ذٰلِكَ لَعِبٰدَتٌ لِّمَنۡ رَّحِمٰنٍ

اِنَّكُمْ اَسَدُّ خَلْقٍ اَوۡ اَلْسَمٰتٍ اٰتَمِنٰنٍ

رَفَعَ سَمٰكُمۡ فَاَسْوَدَّهَا

وَاطَّغٰسَ لَيْلٰهَا وَاخْرَجَ ضَمٰكُمۡ

وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا

اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءً وَّهَآوَمَ عَمٰهَا

وَالجِبَالَ اَرْسَمٰهَا

مَعَآلِكُمْ وَاَلَا نِعْمَ لِكُمۡ

وَاَذَابُ عَذَابِ الظّٰلِمِيْنَ

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰ

وَيُرْوٰتُ الْجَهَنَّمُ مِمَّنۡ تَرٰ

كَلَّمَآءَنۡ طَغٰ

وَاَشْرَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

فَاِنَّ الْجَهَنَّمَ هِيَ الْمَأٰوِيْ

وَالْمَأٰمِنُ خَآفَ مَقَامِ رَبِّهٖ وَهِيَ

النَّفْسُ عَيْنَ الْهَوٰى

فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأٰوِيْ

وَالْمَأٰمِنُ خَآفَ مَقَامِ رَبِّهٖ وَهِيَ

النَّفْسُ عَيْنَ الْهَوٰى

فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأٰوِيْ

وَالْمَأٰمِنُ خَآفَ مَقَامِ رَبِّهٖ وَهِيَ

النَّفْسُ عَيْنَ الْهَوٰى

فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأٰوِيْ

42. They ask you about the Hour, when it is to come ?

43. But what concern you have to declare it ?

44. With your Rubb (Sustainer) is its fixed time limit.

45. You are only a warner to such ones who fear it.

46. On the day when they will see that it will be as if they had stayed just for an evening or upto the rising of the morning.

S. LXXX

SURA ABASA

(THE FROWNING)

(Revealed at Makkah)

(42 Verses, 1 Section)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

1. He frowned and turned aside;
2. because the blind man came to him.
3. But what could convince you that he may be seeking to purify himself.
4. Or may get (method of) remembrance (of Allah) that such remembrance may benefit him.
5. As to such one who is indifferent;
6. you pay him attention.
7. You are not liable if such one is not purified.
8. But as to that who comes to you running;
9. and fearing;
10. you become neglectful about him.
11. No, indeed, it (Qur'aan) is just a guidance:
12. Whoso desires let such one remember-
13. these honored scriptures;
14. exalted, purified-

تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے؟ (42)

تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق (43)

تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے (44)

تم تو فقط اسے ڈرانوالے ہو جو اس سے ڈرے (45)

گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے دنیا میں نہ رہے تھے مگر ایک شام یا اس کے دن چڑھے (46)

سورہ عیس کی ہے (اس میں) بیالیس (42) آیتیں اور دو (2) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا (1)

اس پر کہ اس کے پاس وہ ٹاپتا حاضر ہوا (2)

اور تمہیں کیا معلوم شاید! وہ ستمرا ہو (3)

یا فصیحت لے، تو اسے فصیحت قائمہ دے (4)

وہ جو بے پروا بنتا ہے (5)

تم اس کے تو بیچھے پڑتے ہو (6)

اور تمہارا کچھ زیاں (نقصان) نہیں اس میں کہ وہ ستمرا نہ ہو (7)

اور وہ جو تمہاری طرف منت بلکتا آیا (8)

اور وہ ڈر رہا ہے (9)

تو اسے چھوڑ کر اور طرف مشغول ہوتے ہو، یوں نہیں (10)

یہ تو سمجھتا ہے (11)

تو جو چاہے اسے یاد کرے (12)

ان صحیفوں میں کہ عزت والے ہیں (13)

ان میں سے (14)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِمُهَا ۝

فِيَمَّا أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ۝

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهِمُهَا ۝

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَنِ يَخْشَاهَا ۝

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُودُهَا لَمْ يَكُن لَهَا بِلَاغٌ وَلَا هِيَ إِلَّا عَشِيَّةٌ أَوْ صُحْحًا ۝

سورہ عیس کی ہے (اس میں) بیالیس (42) آیتیں اور دو (2) رکوع (ہیں)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا (1)

اس پر کہ اس کے پاس وہ ٹاپتا حاضر ہوا (2)

اور تمہیں کیا معلوم شاید! وہ ستمرا ہو (3)

یا فصیحت لے، تو اسے فصیحت قائمہ دے (4)

وہ جو بے پروا بنتا ہے (5)

تم اس کے تو بیچھے پڑتے ہو (6)

اور تمہارا کچھ زیاں (نقصان) نہیں اس میں کہ وہ ستمرا نہ ہو (7)

اور وہ جو تمہاری طرف منت بلکتا آیا (8)

اور وہ ڈر رہا ہے (9)

تو اسے چھوڑ کر اور طرف مشغول ہوتے ہو، یوں نہیں (10)

یہ تو سمجھتا ہے (11)

تو جو چاہے اسے یاد کرے (12)

ان صحیفوں میں کہ عزت والے ہیں (13)

ان میں سے (14)

فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ۝

وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزُكِّيَ ۝

وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ۝

وَهُوَ يَخْشَى ۝

فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى ۝

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝

فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ ۝

فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۝

مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝

15. scribed by hands;
 16. of the nobles and the virtuous.
 17. Human being may perish as to what makes him (her) disbelieve?
 18. From what stuff He creates him (her);
 19. (He creates) from a drop of sperm (sprout) creates and proportions (to survive);
 20. then He makes his (her) way easy;
 21. then He causes him (her) to die and assigns him (her) a grave;
 22. Then when He Will raises him (her) up again.
 23. By no means he (she) accomplishes what He (Allah) Commanded.
 24. Then let the human being look at his (her) food;
 25. surely how We (Allah) pour down water abundantly;
 26. then We (Allah) split the earth into fragments (soil);
 27. and We (Allah) cause it to grow grain;
 28. and grapes and vegetables;
 29. and olive and dates;
 30. and the lofty and thick gardens;
 31. and fruits and fodder;
 32. as a provision for you and your cattle.
 33. But when the deafening shout sounds;
 34. that day the human will flee from own brother;
 35. and from mother and father;
 36. and from wife (husband) and sons (daughters).
 37. Everyone shall have his (her) own concern on that day to get occupied (for accounts).
 38. Some faces on that day shall be bright;

- ایسوں کے ہاتھ لکھے ہوئے (15)
 جو کرم والے کوئی والے (16)
 آدمی مارا جائے کیا ناشر ہے (17)
 اسے کا ہے سے بنایا (18)
 پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا پھر اسے
 طرح طرح کے اندازوں پر رکھا (19)
 پھر اسے راستہ آسان کیا (20)
 پھر اسے موت دی پھر قبر میں رکھوایا
 (21)
 پھر جب ہمارا اسے باہر نکالا (22)
 کوئی نہیں اس نے اب تک پورا نہ کیا
 جو اسے حکم ہوا تھا (23)
 تو آدمی کو چاہئے اپنے کمانوں کو دیکھے
 (24)
 کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا (25)
 پھر زمین کو خوب چیرا (26)
 تو اس میں اگایا اناج (27)
 اور انگور اور چارہ (28)
 اور زیتون اور کھجور (29)
 اور گنے باجیے (30)
 اور میوے اور روپ (گھاس) (31)
 تمہارے فائدے کو اور تمہارے جو پاؤں
 کے (32)
 پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی
 چنگھاڑ (33)
 اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی (34)
 اور ماں اور باپ (35)
 اور جوڑو (بیوی) اور بیٹوں سے (36)
 ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر
 ہے کہ وہی اسے بس ہے (37)
 کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے (38)

- ہا ئی دینی سَفَر قَوْنٌ
 كِرَامٍ بَرَدَقَوْنٌ
 قَبِيلَ الْإِنْسَانِ مَا الْفَعْرَةُ
 مِنْ أَبِي ثَمِيٍّ خَلَقَهُ
 مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ
 ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ
 ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ
 ثُمَّ إِذْ آتَاهُ الْآشْرَةَ
 كَلَّا لَمَّا يُبْصِرُ مَا آمَرَهُ
 فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانَ إِلَى طَعَامِهِ
 إِنَّا أَنصَبْنَا الْمَاءَ صَبَابًا
 ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَابًا
 فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَابًا
 وَعَيْنًا وَأَفْضَابًا
 وَتَرِيْمُونَ وَأَنْخَالًا
 وَحَدَائِقَ غُلْبَانَ
 وَفَاكِهَةً وَأَبْجَانَ
 مَتَاعًا لَكُمْ وَلَا تَعْمَلُوا لَكُمْ
 فَاذْجَبَاتِ الْهَآخَةَ
 يَوْمَ يَقُودُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ
 وَأُخُوهِ وَأُيُوتِهِ
 وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ
 لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ
 يُغْنِيهِ
 وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ

39. laughing, rejoicing.
40. And faces of many on that day shall be dust stained;
41. darkness will cover them.
42. Such will be the (fate of) disbelievers, the wicked.

S. LXXXI

SURA TUKWEER

(THE FOLDING-UP)

(Revealed at Makkah)

(29 Verses, 1 Section)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

1. When the sun-shine is folded up;
2. and when the stars are dimmed;
3. and when the mountains are vanished;
4. and when the pregnant she-camels are abandoned;
5. and when the savage beasts are gathered together;
6. and when the seas shall overflow;
7. and when the (human) selves are brought together;
8. and when the female-child buried alive is questioned about-
9. for what crime was she killed ?
10. And when the sheets of (accounts) are opened;
11. and when the sky is laid bare;
12. and when the hell is caused to blaze up;
13. and when the Paradise is brought near.
14. then each self shall know what it has brought forward.
15. I swear by receding planets;
16. that move straight and then disappear;
17. and by the night when it is over;

- ہنتے خوشیاں مناتے (39)
اور کتے منوں پر اس دن گرد پڑی ہو گی
(40)
ان پر سیاہی چڑھ رہی ہے (41)
یہ وہی ہیں کافر بدکار (42)

صَاحِبَةً مُسْتَبْشِرَةً ۝
وَدُجُوعًا يُومِنُونَ عَلَيْهَا عَبْرَةً ۝
تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۝
أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجِرَةُ ۝

- سورہ تکویر کی ہے (اس میں) اتیس (29)
آیتیں اور ایک (1) رکوع (ہے)
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان
رحم والا

سُورَةُ التَّكْوِيْرِ مَكِّيَّةٌ، وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَتِسْعُونَ آيَةً
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

- جب دھوپ لپٹی جائے (1)
اور جب تارے جھڑپڑیں (2)
اور جب پہاڑ چلائے جائیں (3)
اور جب تنگی اونٹنیاں چھوٹی پھریں (4)
اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں (5)
اور جب سمندر سلگائے جائیں (6)
اور جب جانوں کے جوڑ بیٹیں (7)
اور جب زندہ دہائی ہوئی سے پوچھا جائے
(8)

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝
وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝
وَإِذَا الْعُشُورُ عُظِّلَتْ ۝
وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝
وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝
وَإِذَا النُّفُوسُ سُئِرَتْ ۝
وَإِذَا الْوُجُوهُ سُيِّرَتْ ۝

- کس خطا پر ماری گئی (9)
اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں (10)
اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے
(11)
اور جب جہنم بھڑکایا جائے (12)
اور جب جنت پاس لائی جائے (13)
ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی
(14)
تو قسم ہے ان کی جو الٹے پھریں (15)
سیدھے چلیں، تمہم رہیں (16)
اور رات کی جب پٹھے دسے (17)

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝
وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝
وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝
وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِدَتْ ۝
وَإِذَا الْجَنَّةُ أُتْرِقَتْ ۝
عَلِمَتْ نَفْسٌ نَّأَىٰ حَضَرَتْ ۝
فَلَا أَقْبِرُ بِالنَّفْسِ ۝
الْجَوَارِ الْكُنُوسِ ۝
وَالنَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۝

18. and by the morning when it shines forth;
19. that surely, this is the recitation by the noble Rasool (Messenger of Allah);
20. who is powerfully established in the presence of the Owner of Highest Authority (Allah);
21. obeyed by the trustworthy ones.

22. And your companion is not at all mad.

23. And surely, he (Muhammad S.A.W.) saw His (Allah's) sign on the clear horizon;

24. And he (Muhammad) is not miser as to the disclosing of the unseen.

25. And it is (the Qur'aan) but not (at all) the word of any cursed satan (devil);

26. where, then, are you going?

27. This is but a guidance for the entire universe;

28. for such ones among you who desire to go straight;

29. but you cannot desire so, except only that Allah, the (Sustainer) of the universe Wills so.

S. LXXXII

SURA INFITAR

(THE SPLITTING)

(Revealed at Makkah)

(19 Verses, 1 Section)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

1. When the sky is split open;
2. and when the stars are scattered;
3. and when the seas overflow;
4. and when the graves are dugged-out;

اور صبح کی جب دم لے (18)

یہک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے (19)

جو قوت والا ہے، مالک عرش کے حضور عزت والا (20)

وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، امانت دار ہے (21)

اور تمہارے صاحب جنتوں نہیں (22)

اور بے شک انہوں نے اسے روشن کنارہ پر دیکھا (23)

اور یہ نبی فیہ بتانے میں بخیل نہیں (24)

اور قرآن مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں (25)

پھر کدھر جاتے ہو (26)

وہ تو نصیحت ہی ہے سارے جہان کے لیے (27)

اس کے لیے جو تم میں سیدھا ہوتا ہے (28)

اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ سارے جہان کا رب (29)

وَالصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝
إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝
ذُو كُوْنٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝
سَطَّارٍ نُّجْرًا وَيُنِ ۝

وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ۝
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْيُمِينِ ۝
وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝
وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيزٍ ۝

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ۝
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝
لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۝

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۝
يَغْنَمُ سَرَبٌ الْعَالَمِينَ ۝

سورۃ انفطار کی ہے (اس میں) انیس (19) آیتیں اور ایک (1) رکوع (ہے)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

سورۃ انفطار کی ہے (اس میں) انیس (19) آیتیں اور ایک (1) رکوع (ہے)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

1. جب آسمان پھٹ پڑے (1)
2. اور جب تارے ٹھہریں (2)
3. اور جب سمندر ہما دیئے جائیں (3)
4. اور جب قبریں کھدی جائیں (4)

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝
وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَشَرَتْ ۝
وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝
وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝

5. each human-self shall then know what it forwarded and what it left behind.

ہر جان، جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے (5)

6. O man! what has deceived you with regard to your Noble Rubb (Sustainer);

اے آدمی! تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے (6)

7. Who created you, then perfected your shape, then proportioned you right;

جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک بنایا، پھر ہموار فرمایا (7)

8. into whatever form He Willed, He moulded you.

جس صورت میں چاہا، تجھے ترکیب دیا (8)

9. No indeed but you falsify the administering of judgement;

کوئی نہیں، بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو (9)

10. and surely, guardians have been appointed over you;

اور جنگ تم پر کچھ نگہبان ہیں (10)

11. the honored recorders;

مزز لکھنے والے (11)

12. who know what you do.

جانتے ہیں جو کچھ تم کرو (12)

13. Surely, the virtuous shall be in delight.

بے شک کو کار ضرور جہنم میں ہیں (13)

14. And surely, the wicked shall be in the hell.

اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں (14)

15. Therein they shall be burnt on the Day of judgement.

انصاف کے دن اس میں جائیں گے (15)

16. And they will therefrom never be allowed absence.

اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے (16)

17. And what do you know about the Day of judgement?

اور تو کیا جانتے، کیا انصاف کا دن؟ (17)

18. Again what you know, what is the Day of Award/Reward?

پھر تو کیا جانتے، کیا انصاف کا دن؟ (18)

19. (It is) a Day when no body shall have power to help anybody anyway. And the entire command on that day will belong to Allah.

جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی، اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہے (19)

[ONE FORTH OF

PART 30 COMPLETE]

S. LXXXIII

SURA TUTFEEF

(MEASURING SHORT)

(Revealed at Makkah)

(19 Verses, 1 Section)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

1. Cursed be those who measure short;

2. they are those who when take from others, take it full.

سورۃ المطففين کی ہے (اس میں) چھتیس (36) آیتیں اور ایک (1) رکوع ہے

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان

رحم والا

کم تولے والوں کی خرابی ہے (1)

وہ کہ جب اوروں سے ناپ لیں، پورا لیں

(2)

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۝

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ

الَّذِي ۝

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّبَكَ غَدَاةً ۝

فِي آيٍ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝

كَلَّا بَلْ تُكَدِّرُونَ بِالذِّينِ ۝

وَأَنْ عَلَيْكُمْ لَحَفَظِينَ ۝

كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝

إِنَّ الْأَكْبَرَادَ لَفِي تَعْيِيمٍ ۝

وَأِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝

لِيَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الذِّينِ ۝

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۝

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الذِّينِ ۝

لَهُمَّا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الذِّينِ ۝

يَوْمَ لَا تَنْبُكَ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ۝

إِنَّهَا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۝

سورۃ المطففين کی ہے (اس میں) چھتیس (36) آیتیں اور ایک (1) رکوع ہے

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان

رحم والا

کم تولے والوں کی خرابی ہے (1)

وہ کہ جب اوروں سے ناپ لیں، پورا لیں

3. But when they give by measure or by weight to others they reduce it.

4. Don't they imagine that they are to be raised-up;

5. On a mighty Day

6. The Day when the mankind shall stand before the Rubb (Sustainer) of the universe.

7. Then, the recorded accounts of the law breakers are in the (lowest place) Sijjeen.

8. And what do you know; what is Sijjeen ?

9. It is a booked record under seal.

10. Cursed are those on that day who falsify;

11. they are those who falsify the Day of judgement.

12. And none falsifies it but a trespasser, sinner;

13. who when Our (Allah's) Verses are read to him (her) says, "(these are) stories of the ancients."

14. Indeed no! rather what they have earned has rusted their hearts.

15. Indeed surely, they will be deprived from seeing their Rubb (Sustainer) that day.

16. Then, surely, they will be roasted in the hell.

17. Then it shall be said to them "this is which you used to falsify."

18. Then surely, the recorded accounts of the virtuous are in the highest palace, the Illiyeen;

19. And what do you know, what is Illiyeen ?

20. It is a booked record under seal;

21. which the chosen ones will witness.

22. Surely, the virtuous ones will be in delight;

اور جب انہیں ناپ تول کر دیں کم کر دیں (3)

کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھائے؟ (4)

ایک عمت والے دن کے لیے (5) جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے (6)

چنگ کافروں کی کتھ سب سے نیچی جگہ سببوں میں ہے (7)

اور تو کیا جانے سچین کیسی ہے؟ (8)

وہ کتھ 'ایک مہر کیا نوشتہ ہے (9)

اس دن مجھلائوں کی خرابی ہے (10)

جو انصاف کے دن کو مجھلاتے ہیں (11)

اور اسے نہ مجھلائے گا مگر ہر سرکش (12)

جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں 'کے' انہوں کی کمائیاں ہیں (13)

کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا رہا ہے 'ان کی کمائیوں نے (14)

ہاں! ہاں! چنگ وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہیں (15)

پھر چنگ انہیں جسم میں داخل ہونا (16)

پھر کہا جائے گا 'یہ ہے وہ جسے تم مجھلاتے تھے (17)

ہاں! ہاں! چنگ نیکیوں کی کتھ سب سے اونچی محل عتیبوں میں ہے (18)

اور تو کیا جانے عتیبوں کیسی ہے؟ (19)

وہ کتھ ایک مہر کیا نوشتہ ہے (20)

کہ مقرب جس کی زیارت کرتے ہیں (21)

چنگ جو کار ضرور جہن میں ہیں (22)

وَاذْكُرْ لَهُمْ اَوْفَواؤُهُمْ نَسَبًا رُّسُوٰنًا ۝۱
اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوٰنُوْنَ
بِیَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝۲

یَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝۳
كَلَّا اِنَّ كِتٰبَ الْفَعٰلِ الْغٰیِبِیْنَ ۝۴

وَمَا اَدْرٰکُ مَا سٰجِدُوْنَ ۝۵
كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝۶

وَلِیْلٌ لِّقَوْمٍ یُّكْمَدُوْنَ ۝۷
الَّذِیْنَ یَكْفُرُوْنَ بِیَوْمِ الدِّیْنِ ۝۸

وَمَا یَكْتُمُ بِهِنَّ اِلَّا اَكْلُ مَعْتَدٍ ۝۹
اِذْ اُنشِیْ عَلَیْهِمْ اٰیٰتُنَا فَكٰلَ ۝۱۰

اَسٰطِرٍ ۝۱۱
اَلَا بَلِّغْنَاكَ اِنْ اَرٰدْتَ اِلَّا ۝۱۲

كَلٰٓئِلًا ۝۱۳
كَلٰٓئِلًا ۝۱۴

كَلٰٓئِلًا ۝۱۵
كَلٰٓئِلًا ۝۱۶

كَلٰٓئِلًا ۝۱۷
كَلٰٓئِلًا ۝۱۸

كَلٰٓئِلًا ۝۱۹
كَلٰٓئِلًا ۝۲۰

كَلٰٓئِلًا ۝۲۱
كَلٰٓئِلًا ۝۲۲

كَلٰٓئِلًا ۝۲۳
كَلٰٓئِلًا ۝۲۴

23. who will look on reclining on couches.

24. You will recognize the freshness of delight on their faces.

25. They shall be given to drink pure sealed beverage;

26. its seal omits best flavour and for this let the aspirers aspire.

27. And the water of Tasneem (best scents) will be mixed to it;

28. (it is) a spring from which the chosen ones will drink.

29. Surely, the criminals laugh at the believers.

30. That when they pass by them, they wink at each other.

31. And when they return to their families they pass by joking.

32. And when they see them (Muslims) they say, "surely, they are the strayed ones."

33. Yet they are not sent as guards over them.

34. This today the believers will laugh at the disbelievers;

35. who will look—on reclining on couches.

36. As to how the disbelievers have been retributed for their doings ?

تعموں پر دیکھتے ہیں (23)

تو ان کے چروں میں عین کی تازگی پچانے

(24)

تعمی شراب پلائے جائیں گے جو مرکی

ہوئی رکھی ہے (25)

اس کی مرہٹک پر ہے اور اسی پر چاہئے

کہ لچائیں لچائے والے (26)

اور اس کی طوبی (رحمت) تسیم سے ہے

(27)

وہ چشمہ جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں

(28)

بے شک مجرم لوگ ایمان والوں سے ہنا

کرتے تھے (29)

اور جب وہ ان پر گزرتے تو یہ انہیں میں

ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے (30)

اور جب اپنے گمراہے خوشیاں کرتے پتے

(31)

اور جب مسلمانوں کو دیکھتے کہتے 'بے

شک یہ لوگ نیسے ہوئے ہیں (32)

اور یہ کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہ بھیجے گئے

(33)

تو آج ایمان والے کافروں سے ہنتے ہیں

(34)

تعموں پر ہننے دیکھتے ہیں (35)

کیوں! کچھ بدلا ملا کافروں کو اپنے کیے کا

(36)

عَلَى الْأَرَابِ يُنْظَرُونَ ﴿٢٣﴾

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مِثْمُورٍ ﴿٢٥﴾

خَمْرًا مَسْكًا وَفِي ذَلِكَ

قَلِيلًا مِّنَ الْمُنْتَقِمِينَ ﴿٢٦﴾

وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يُسْمَوْنَ

بِهِمْ سَائِرًا ﴿٢٧﴾

عِنْدَنَا يُشْرَبُ بِهِ الْمُنْتَقِمُونَ ﴿٢٨﴾

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ

أٰمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾

وَإِذَا امْرَأُؤُهُمْ يَبْتَغُمُونَ ﴿٣٠﴾

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فِيهَا

كَلِمَةً لَّا يَذْكُرُونَ ﴿٣١﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفَظِينَ ﴿٣٢﴾

فَأَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ

يَضْحَكُونَ ﴿٣٣﴾

عَلَى الْأَرَابِ يُنْظَرُونَ ﴿٣٤﴾

بِئْسَ هَلْ تَرْبُ الْكٰفِرٰنَا كَالَّذِيۡنَ اٰتٰعَلُوۡنَ ﴿٣٥﴾

سُوْرَةُ الْاِنْشٰقِ كِتٰبِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيۡمِ

سُوْرَةُ الْاِنْشٰقِ كِتٰبِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيۡمِ

سُوْرَةُ الْاِنْشٰقِ كِتٰبِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيۡمِ

سُوْرَةُ الْاِنْشٰقِ كِتٰبِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيۡمِ

سُوْرَةُ الْاِنْشٰقِ كِتٰبِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيۡمِ

سُوْرَةُ الْاِنْشٰقِ كِتٰبِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيۡمِ

سُوْرَةُ الْاِنْشٰقِ كِتٰبِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيۡمِ

سُوْرَةُ الْاِنْشٰقِ كِتٰبِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيۡمِ

سُوْرَةُ الْاِنْشٰقِ كِتٰبِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيۡمِ

S. LXXXIV SURA INSHIQAAQ (THE BURSTING)

(Revealed at Makkah)
(25 Verses, 1 Section)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

1. When the sky is burst into pieces;

سورۃ انشقاق کی ہے (اس میں) بیچیس

(25 آیتیں اور ایک (1) رکوع ہے

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان

رحم والا

جب آسمان شق ہو (1)

سُوْرَةُ الْاِنْشٰقِ كِتٰبِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيۡمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اِذَا السَّمَاءُ اُنْشَقَّتْ ﴿١﴾

2. and it listens to Rubb (Sustainer) being dutiful;
 3. and when the earth is stretched out;
 4. and casts out what is in it, and becomes hollow;
 5. and it listens to its Rubb (Sustainer) being dutiful.
 6. O human being! surely, you are toiling towards your Rubb (Sustainer) with hard labor. Then you are going to meet him.
 7. Then as to him(her) who will be given his (her) record in his (her) right hand;
 8. he (she) will soon receive an easy reckoning;
 9. And he (she) will return to his (her) family joyfully.
 10. And as to him (her) who will be given his (her) record from behind his (her) back;
 11. he (she) will soon call for his (her) death;
 12. and he (she) shall burn in the blazing fire.
 13. Surely, he (she) remained happy in his (her) family;
 14. He (she) surely imagined not to return (to Allah).
 15. But, surely, his (her) Rubb (Sustainer) is seeing him (her) well.
 16. Indeed I swear by the twilight of the evening;
 17. and by the night and what it envelopes;
 18. and by the moon when it becomes full;
 19. you will surely, march by one stage to another.
 20. What is to them that they donot believe;
 21. and when the Qur'aan is recited to them they do not prostrate.
 (who recites or listens this verse in Arabic should prostrate in ablusion with forehead on clean ground).

اور اپنے رب کا حکم ہے اور اسے سزا
 واری یہ ہے (2)
 اور جب زمین دراز کی جائے (3)
 اور جو کچھ اس میں ہے ڈال دے اور
 خالی ہو جائے (4)
 اور اپنے رب کا حکم ہے اور اسے
 سزاوار ہی یہ ہے (5)
 اے آدمی! بچک تجھے اپنے رب کی طرف
 ضرور لانا ہے پھر اس سے ملنا (6)
 تو وہ جو اپنا نامہ اعمال دلہے ہاتھ میں دیا
 جائے (7)
 اس سے عقرب سہل حساب لیا جائے گا
 (8)
 اور اپنی گمراہوں کی طرف شاد شاد پلٹے
 گا (9)
 اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے
 پیچھے دیا جائے (10)
 وہ عقرب موت مانگے گا (11)
 اور بھرتی آگ میں جاوے گا (12)
 بچک وہ اپنے گھر میں خوش تھا (13)
 وہ کہ اسے پھرنا نہیں (14)
 ہاں! کیوں نہیں؟ بے شک اس کا رب
 اسے دیکھ رہا ہے (15)
 تو مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی! (16)
 اور رات کی! اور جو چیزیں اس میں حج
 ہوتی ہیں (17)
 اور چاند کی! جب پورا ہو (18)
 ضرور! تم منزل بہ منزل چروگے (19)
 تو کیا ہوا انہیں ایمان نہیں لاتے (20)
 اور جب قرآن پڑھا جائے سجدہ نہیں
 کرتے (21)

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝
 وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۝
 وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝
 وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝
 يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلِيقِنِيهِ ۝
 فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِرِيسٍ ۝
 فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا لَّيْسَ لَهُ ۝
 وَبِقَلْبٍ إِلَىٰ أَهْلِهِ مُسْوَرًا ۝
 وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَاهُ ظَهْرًا ۝
 فَسَوْفَ يَدْعُو أَبْوَابًا ۝
 وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۝

ثُمَّ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مُسْوَرًا ۝
 ثُمَّ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَعُودَ ۝
 بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۝
 فَلَا أُفْسِرُ بِالشَّفَقِ ۝

وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۝
 وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۝
 لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۝
 فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝
 وَإِذْ أُنزِلَتْ عَلَيْهُمْ الْقُرْآنُ لَا يُسْجِدُونَ ۝

22. But on the other hand the disbelievers falsify.
23. And Allah knows best what is hidden (in their hearts).

24. So give them the news of a painful punishment.
25. But those who believe and do the good deeds for them is a continuous reward.

S. LXXXV

SURA BOOROOJ

(CONSTELLATIONS

or

CLUSTER OF STARS)

(Revealed at Makkah)

(22 Verses, 1 Section)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

1. By the sky in which are constellations (clusters of stars);
2. and by the promised day;
3. and by the witnessing and the witnessed (day).
4. Perish the fellows of the ditch
5. in the blazed fire;
6. when they will be seated over it—
7. and will themselves witness what they did with the believers (Muslims)—
8. and they hated them (Muslims) for nothing except that they believed in Allah, the Honorable, the All Praiseworthy;
9. Who is the (Supreme) Ruler of the heavens and the earth. And Allah is witness over everything.
10. Surely those who persecute the believer men and the believer women (Muslims) and then do not repent; for them is a punishment of the hell and

بلکہ کافر جھٹلا رہے ہیں (22)
اور اللہ خوب جانتا ہے جو اپنے ہی میں رکھتے ہیں (23)

تو تم انہیں درد ناک عذاب کی بشارت دو (24)
مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے وہ تو ثواب ہے جو کبھی ختم نہ ہو گا (25)

سورۃ بروج کئی ہے (اس میں) بائیس (22) آیتیں اور ایک (1) رکوع ہے

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

قسم آسمان کی جس میں برج ہیں! (1)
اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے! (2)
اور اس دن کی جو گواہ ہے! (3)
اور اس دن کی جس میں حاضر ہوتے ہیں!
کھائی والوں پر لعنت ہو (4)
اس بھڑکی آگ والے (5)
جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے (6)
اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے (7)

اور انہیں مسلمانوں کا کیا بُرا لگا، یہی نہ کہ وہ ایمان لائے، اللہ عزت والے سب خوبیوں سزا ہے پر (8)

کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے (9)
بے شک جنہوں نے ایذا دی، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو، پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور

بِالَّذِينَ كَفَرُوا وَيَكْفُرُونَ ۝
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۝

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ الْيَوْمِ ۝

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝

سُورَةُ الْبُرُوجِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝

وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۝

قَبِيلِ اصْحَابِ الْأُخْدُودِ ۝

النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۝

إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۝

وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ

شُهُودٌ ۝

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا

بِآلِهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

تُكْفَرُونَ بِمَا قَتَلُوا فَهِيَ عَذَابٌ جَهَنَّمُ

for them is the punishment of burning.

11. Surely, those who believe and do righteous deeds, for them is Paradise beneath which streams flow. This is the greatest triumph.

12. Surely, the seizer of your Rubb (Sustainer) is very severe.

13. Surely, it is He Who organizes (the creation) and then reproduces.

14. And He is the most Forgiving, the most Loving;

15. the Owner of the Glorious Authority;

16. the Doer of whatever He Will.

17. Have you received the tradition of the armies?;

18. of Fir'awn (Pharaoh) and Thamood.

19. But the disbelievers are busy in falsifications;

20. and Allah has encircled them from behind.

21. Indeed it is a Glorious Qur'aan (book of repeated readings);

22. inscribed in a Preserved Tablet.

S. LXXXVI SURA TARIQ (THE COMET)

(Revealed at Makkah)

(17 Verses, 1 Section)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

1. By the sky and the comet (early morning star);

2. and what makes you understand what is the early comet ?

3. (it is) the bright shining star:

4. There is no human-self without a guardian over it.

5. So let the human beings consider from what they are created ?

ان کے لیے آگ کاذاب (10)

بے شک جو ایمان لائے اور ایسے کام کیے

ان کے لیے باغ ہیں جن کے لیے نیچے سرس

رواں یہی بڑی کامیابی ہے (11)

بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت

ہے (12)

بے شک وہ پہلے کرے اور پھر کرے (13)

اور وہی ہے بخشنے والا اپنے نیک بندوں پر

پارا (14)

عزت والے عرش کا مالک (15)

بیٹھ جو چاہے کر لینے والا (16)

کیا تمہارے پاس فطروں کی بات آئی

(17)

وہ فطروں؟ فرعون اور ثمود (18)

بلکہ کافر جھٹلانے میں ہیں (19)

اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے

ہوئے ہے (20)

بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے (21)

لوح محفوظ میں (22)

وَلَقَدْ عَدَدْنَا الْجَحِيمَ ۝

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۝

إِنَّ يَبُطِّشُ رَبُّكَ لَشَرِيدًا ۝

إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ ۝

وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّؤُوفُ ۝

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۝

فَقَالَ لِمَ يُرِيدُ ۝

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ۝

فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ۝

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِهِمْ

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ۝

فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ۝

سُورَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ ذُو سَبْعٍ عَشْرَةَ آيَةً

سورۃ طارق کی ہے (اس میں) سترہ (13)

آیتیں ایک (1) رکوع ہے

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان

رحم والا

آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی (1)

اور کچھ تم نے جانا وہ رات کو آنے والا کیا

ہے؟ (2)

خوب چکھتا آمارا (3)

کوئی جان نہیں جس پر تمہارا نہ ہو (4)

تو چاہئے کہ آدمی خود کرے کہ کس چیز

سے بنایا گیا (5)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝

النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝

إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝

6. They are created from a gushing water;
7. which comes out from between the back (lion) and the breast bones.
8. Surely He (Allah) has power to restore human being (to life).
9. On the day when secrets shall be disclosed;
10. then they (human beings) will have neither strength nor helper.
11. By the sky (clouds) which pour (rain);
12. and by the earth that brings out herbs;
13. surely, it (Qur'aan) is a decisive discourse;
14. and it is not (at all) useless.
15. Surely, they (disbelievers) are devising their own plans;
16. and We (Allah) have Our (Allah's) own (secret) plan.
17. So give time to the disbelievers, only for a little while.

S. LXXXVII

SURA 'AALAA

(THE MOST HIGH)

(Revealed at Makkah)

(19 Verses, 1 Section)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

1. Glorify the Name of your Rubb (Sustainer), the most High.
2. Who creates the creature and perfects;
3. and Who determines and then guides (human beings);
4. and Who brings to growth the fodder;
5. then turns it as black rotten rubbish.
6. We (Allah) teach you (the Qur'aan) which you never forget;

جست (اچھلتے) کرتے پانی سے (6)

جو لگا ہے پیٹے اور سینوں کے بیچ سے (7)

بیک اللہ اس کے واپس کر دینے پر قادر ہے (8)

جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی (9)
تو آدمی کے پاس نہ کچھ زور ہوگا نہ کوئی مددگار (10)

آسمان کی قسم جس سے مینا اترتا ہے (11)
اور زمین کی جو اس سے کھلتی ہے (12)
بیک قرآن، ضرور فیصلہ کی بات ہے (13)
اور کوئی نہیں کی بات نہیں (14)

بیک کافر اپنا ساداؤں پلٹے ہیں (15)
اور میں اپنی خیمہ تعمیر فرماتا ہوں (16)
تو تم کافروں کو ڈھیل دو، انہیں کچھ تھوڑی سہلت دو (17)

سورۃ الاعلیٰ کی ہے (اس میں) انیس (19) آیتیں ہیں

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝
يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝
إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝

يَوْمَ تُبْكَى السَّرَائِرُ ۝
فَبَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۝
وَالسَّمَاءُ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝
وَالْأَرْضُ ذَاتِ الصُّدُوعِ ۝

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝
وَمَا هُوَ بِالْمُزَلِّ ۝
إِنَّهُمْ يُكِيدُونَ كَيْدًا ۝
وَإِذْ يُكِيدُ كَيْدًا ۝
فَمَهِّلِ الْكُفْرَانَ إِنهَلْهُم مَّوَدِيًّا ۝

سُورَةُ الْأَعْلَىٰ بِرَبِّهَا ۝ وَحَمْدُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۝

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اپنے رب کے نام پاکی بولو، جو سب سے بلند ہے (1)
جس نے بنا کر ٹھیک کیا (2)
اور جس نے اندازہ پر رکھ کر راہ دی (3)
اور جس نے ہمارا نکالا (4)
پھر اسے نلگ سیاہ کر دیا (5)
اب ہم تمہیں پڑھائیں گے، کہ تم نہ بھولو گے (6)

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ ۝
الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّىٰ ۝
وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۝
وَالَّذِي أَحْرَبَ الْمَرعىٰ ۝
فَجَعَلَهُ عَنَاءً أَحْوَىٰ ۝
سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ۝

7. except what Allah Willa. Surely, He Knows what is open and what is secret.

8. And We (Allah) make things easy for you.

9. Therefore, adopt (Allah's) guidance, as such guidance is profitable.

10. Soon he (she) who fears will accept it;

11. But the wretched one will shun it;

12. who will be roasted in the great fire;

13. who will neither die there-in nor live.

14. Certainly, he(he) attains success who gets purified;

15. and who remembers the names of Rubb (Sustainer) and offers 'Salaat (Muslim Prayer).

16. But you prefer the life of this world;

17. whereas the hereafter is better and ever lasting.

18. Surely, this is taught in the earlier scriptures;

19. the scriptures of Ibraaheem (Abraham) and Moosaa (Moses).

S. LXXXVIII

SURA GHAASHIYAH

(THE OVERWHELMING)

(Revealed at Makkah)

(26 Verses, 1 Section)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

1. Has there come to you the news of the calamity that shall overwhelm?

2. Faces (of wrongdoers) on that day shall be down cast;

3. toiling, tired;

4. to be thrown in a scorching fire;

5. and made to drink from a fiercely boiling spring.

6. They will have no food, except bitter thorny herbage;

مگر جو اللہ جانے ہے کب وہ جاتا ہے اور
کلے اور پھو کے (7)

اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر
دیں گے (8)

تو تم صحت فرماؤ! اگر صحت کام دے (9)
مترقب صحت مانے گا جو دارا ہے (10)

اور اس سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا
(11)

جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا (12)

پھر نہ اس میں مرے اور نہ مجھے (13)
چمک مراد کو پہنچا جو سحر ہوا (14)

اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی
(15)

بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو (16)
اور آخرت بھرا اور باقی رہنے والی (17)

ہے کب یہ آگے بھیجوں میں ہے (18)
ابراہیم اور موسیٰ کے بھیجوں میں (19)

إِلَّا مَنَاسَةً إِذْ ظَنَرْتَهُ يَعْلَمُ السُّرُورَ
وَمَا يَغْضَبُهُ ۝

وَلْيَسِّرْكَ لِلْيُسْرَىٰ ۝
فَلْيَكْرَهُنَّ إِن كُفِّرْتَ الْوَلَّىٰ ۝

سَيَذَكَّرُنَّ مَغْضَىٰ ۝
وَيَجْتَنِبُهَا الْأَشْقَىٰ ۝

الَّذِي يُصَلِّي النَّارَ الْكُبْرَىٰ ۝
ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۝

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۝
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۝

بَلْ تُوَسْوِسُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّأُولِي
الْبَالِ ۝ هَذَا كَقِصَّةِ الْغَاشِيَةِ ۝

صُفِّرَ الْإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ۝

سورة الغاشية کی ہے (اس میں) ہمیں
(26) آیتیں ہیں

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان
رحم والا

ہے کب تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر
آئی جو چھا جائے گی (1)

کتنے ہی دن اس دن ذلیل ہوئے؟ (2)
کام کریں مشقت جمیلیں (3)

جائیں بڑی آگ میں (4)
نہایت جلنے چمک کا پانی پلائے جائیں (5)

ان کے لیے کچھ کھانا نہیں مگر آگ کے
کانٹے (6)

سورة الغاشية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۝
وَجْوهٌ يُومِئُونَ خَاشِعَةً ۝

عَابِلَةٌ تَأْوِبَةٌ ۝
تَصَلَّى نَارًا أَحَامِيَّةً ۝

تُسْفَى مِنْ عَيْنِ أَيْنَةٍ ۝
لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ۝

7. that neither nourishes nor satisfies hunger.

8. Faces (of the pious) on that day shall be delighted;

9. pleased with their efforts;

10. in a lofty Paradise;

11. where they will hear no non-sense.

12. Therein is a running fountain;

13. wherein are elevated couches;

14. and best select goblets;

15. and cushions set symmetrically;

16. with (tastefully) spread carpets.

17. Do they not look at the camel, how it is created ?;

18. and the sky how it has been raised high ?;

19. and the mountains, how these are set-up ?;

20. and the earth, how it has been spread out ?

21. You (Muhammad S.A.W.) convey them (My guidance as you are surely, a guide.

22. But you are not a superintendent to compel them.

23. But whoever turns away and disbelieves;

24. Allah will punish such one with greatest punishment.

25. Surely, to Us (Allah) is your return.

26. Then surely, with Us (Allah) is your account.

[HALF OF PART 30
COMPLETE]

S. IXC
SURA FAJR
(THE DAWN)

(Revealed at Makkah)
(30 Verses, 1 Section)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

کہ نہ فرمیں (موتا) لائیں، اور نہ بھوک میں کام دیں (7)

کتے ہی منہ اس دن جمن میں ہیں (8)

اپنی کوشش پر راضی (9)

بلند باغ میں (10)

کہ اس میں کوئی بیہوش بات نہ سنیے گے (11)

اس میں رواں چشمہ ہے (12)

اس میں بلند تخت ہیں (13)

اور چنے ہوئے کوزے (14)

اور برابر برابر بچے ہوئے قالین (15)

اور پھیلی ہوئی چاندنیاں (16)

تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ کیا بنایا گیا؟ (17)

اور آسمان کو، کیا اونچا کیا گیا؟ (18)

اور پہاڑوں کو، کیسے قائم کیے گئے؟ (19)

اور زمین کو، کیسے بچھائی گئی؟ (20)

تو تم صیحت سناؤ! تم تو یہی صیحت سنانے والے ہو (21)

تم کچھ ان پر کڑوا نہیں (22)

ہاں! جو منہ پھیریں اور کفر کرے (23)

تو اسے اللہ بڑا عذاب دے گا (24)

بیک ہمارے ہی طرف ان کا بھرتا ہے (25)

پھر بیک ہمارے ہی طرف ان کا حساب ہے (26)

سورہ فجر کی ہے (اس میں) تیس (30) آیتیں ہیں

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

لَا يُسِينُ وَلَا يُغْنِي عَنْ جُوعِهِ ۝

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْتَعْتَبَةٌ ۝

لَسَعِيهَا رَاحِيَةٌ ۝

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝

لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغْوًا ۝

فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝

فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۝

وَالْكَوَابُ مَوْضُوعَةٌ ۝

وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۝

وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ۝

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ

خُلِقَتْ ۝

وَالِى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝

وَالِى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝

وَالِى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝

فَذَلِكُمْ أَنْتُمْ مُدْكَرُونَ ۝

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ۝

إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ۝

فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۝

إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۝

فَأَنْتُمْ تَحْرَأْنَ عَلَيْنَا حَسْرَةً ۝

سُورَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثُونَ آيَةً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. By the dawn,
2. and by the ten nights;
3. and by the even and the odds;
4. and by the night when it departs (ends).
5. Indeed in them is an evidence for the persons of understanding.
6. Did you not see how your Rubb (Sustainer) dealt with the Aad (nation)?;
7. and with the people of the excessively tall buildings of Irum;
8. none like whom have ever been created in any part;
9. and (dealt) with Samood (Thamud) who cut out rocks in valley;
10. and (dealt) with Fir'awn (Pharaoh) the owner of large camps;
11. who transgressed in the cities;
12. and then spread disorder, therein;
13. therefore, your Rubb (Sustainer) inflicted upon them the whip of punishment with force;
14. surely, nothing is absent from the sight of your Rubb (Sustainer).
15. As for the human being when his (her) Rubb (Sustainer) tries him (her) and honors him (her) and bestows favour on him (her) says, "my Rubb (Sustainer) has honored me."
16. But when He tries him (her) and straitens for him (her) provisions, he (she) says, "my Rubb (Sustainer) has humiliated me."
17. Indeed you do not honor the orphan;
18. nor you urge each other to feed the needy;

- اس صبح کی قسم (1)
 اور دس راتوں کی (2)
 اور ہفت اور طاق کی (3)
 اور رات کی جب چل دے (4)
 کیوں اس میں مثل مند کے لیے قسم ہوئی (5)
 کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ (6)
 وہ ارم حد سے زیادہ طول والے (7)
 کہ ان جیسا مشروں میں پیدا نہ ہوا (8)
 اور ثمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹیں (9)
 اور فرعون کو چوڑھا کرنا (10)
 جنہوں نے مشروں میں سرکشی کی (11)
 پھر اللہ میں بت نساہ پھیلایا (12)
 تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بھرتا مارا (13)
 بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں (14)
- لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب آزمائے کہ اس کو جاہ اور نعمت دے، جب توکتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی (15)
 اور اگر آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے، توکتا ہے میرے رب نے مجھے خوار کیا (16)
 یوں نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے (17)
 اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی رغبت نہیں دیتے (18)

- وَالْفَجْرِ
 وَلَيَالٍ عَشْرٍ
 وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ
 وَالْاَيْلِ اِذَا يَسِرُّونَ
 هَلْ فِيْ ذٰلِكَ لَمَسْعَةٌ لِّذِيْ حَعْبِرُوْنَ
 اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ
 اِذْ رَمٰٓتِ الْعِمَادُ الْاَرْضَ
 اَلَمْ يَخْلُقْنَا مِنْ عَلَقٍ وَّشَاءْنَا الْاِنۡسَانَ
 وَنَعَمُوۡا الَّذِيۡنَ جَاءُوۡا الصُّنۡدُۡۢۙ اِلٰٓؤَادٍ
 وَفِرۡعَوۡنَ ذِي الْاَوۡتَادِ
 الَّذِيۡنَ طَغَوۡا فِى الْاِلۡهَادِ
 فَالَّذِيۡنَ وَاٰتٰٓىهَا الْفَسَادِ
 فَصَبَّ عَلَيْهِمۡ رَبُّكَ سَوۡطَ عَذَابٍ
 اِنَّ رَبَّكَ لَبَاۡرُءٌ صَادِقٌ
 فَالَّذِيۡنَ الْاِنۡسَانَ اِذَا مَا اُنۡبِتۡلُهُ رِزۡقًا
 فَارۡكَمُوۡهُ وَاَنۡعَمۡتَ فَيَقُوۡلُ رَبِّيۡ اَلرَّحِيۡمُ
 وَاِنۡمَا اٰذًا مَا اُنۡبِتۡلُهُ فَقَدَّرۡ عَلٰٓيۡهِ
 رِزۡقًا فَيَقُوۡلُ رَبِّيۡ اِنۡ اٰهَانِ
 كَلَّا بَلۡ لَّا تَكۡرُمُوۡنَ الْيَتِيۡمَ
 وَلَا تَحۡضُوۡنَ عَلٰٓى طَعَامِ الْمَسۡكِيۡنِ

19. and you devour the inheritance of others greedily;
20. and you love the riches exceedingly.

21. Indeed then the earth shall be completely rent into pieces;

22. and the Command of your Rubb (Sustainer) shall come and also the Angels shall come in row after row.

23. And the hell shall be brought near on that day. On that day human being will remember, but how can such remembrance avail anything?

24. He (she) will say, "alas I had sent forward some (virtues) in my life".

25. So none can penalize like His punishment on that day ;
26. nor anyone can bind like His binding.

27. O you contented human self!

28. return to your Rubb (Sustainer), so pleased with Him, as He is pleased with you.

29. So you enter among My chosen devotees;

30. and you enter My Paradise.

S. XC

SURA BALUD (THE CITY)

(Revealed at Makkah)

(20 Verses, 1 Section)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

1. Indeed I do swear by this city;

2. as (O beloved Prophet) you dwell in this city;

3. and by your father and his progeny;

4. surely, We (Allah) have created man to work hard (for laboring).

اور میراث کا مال ہب ہب کھاتے ہو
(19)

اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو (20)

ہاں! ہاں! جب زمین کھرا کر پاش پاش کر دی جائے (21)

اور تمہارے رب کا حکم آئے اور فرشتے قطار قطار (22)

اور اس دن جہنم لائی جائے، اس دن آدمی سوچے گا، اور اب اسے سوچنے کا

وقت کہاں؟ (23)

کے گا، ہائے! کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوئی (24)

تو اس دن اس کا سزا عذاب کوئی نہیں کرتا
(25)

اور اس کا سا باندھنا کوئی نہیں باندھتا
(26)

اے اطمینان والی جان! (27)

اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی وہ تمھ سے راضی (28)

پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو (29)

اور میری جنت میں آ (30)

وَتَاكُلُونَ الْوَرَاثَ أَكْلًا لَمًّا ۝

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَنًّا ۝

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝

وَجِئْتِي يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ۝

يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ۝

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ۝

وَلَا يُؤْتِيهِمْ دَفًّا ۝

وَيَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝

أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاغِبَةً ۝

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝

وَادْخُلِي جَنَّتِي ۝

سورہ بلد کی ہے (اس میں) میں (20)

آتیں ہیں

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان

رحم والا

مجھے اس شرکی قسم! (1)

کہ اے محبوب! تم اس شرم میں تشریف

فرما ہو (2)

اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم! اور اس

کی اولاد کی! (3)

کہ تم ہو، ایک ہم نے آدمی کو شفقت

میں دیتا پیدا کیا (4)

سورہ البلد مکیہ، دوحیٰ مشرکون آیتہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝

وَأَنْتَ حَلَّلْتَ الْبَلَدِ ۝

وَوَالِدِي وَمَا وَكَدَ ۝

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۝

5. Does he (she) think that none can overpower him (her)?

6. He says, "I have spent an enormous wealth."

7. Does he (she) think that none sees him (her)?

8. Have We (Allah) not given him (her) two eyes?;

9. and a tongue and two lips?;

10. and We (Allah) have guided him (her) to the two high ways (good or bad).

11. But he (she) did not attempt to steep high.

12. And what do you know what is steeping high?

13. It is the freeing of a person in bondage;

14. or feeding on a day of hunger;

15. the near of kins and orphans;

16. or the poor person lying on the dust.

17. Then he (she) should be such who believe and counsel (each one) to be steadfast and counsel to remain merciful.

18. They are the fellows of the right hand.

19. But those who disbelieve Our Verses, they are the fellows of the left hand.

20. Around them will be a fire closed over.

S. XCI

SURA SHUMSE (THE SUN)

(Revealed at Makkah)

(15 Verses, 1 Section)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

1. (I swear) by the sun and its brightness;

2. and by the moon when it follows (the sun);

3. and by the day when it displays its (sun's) brightness;

کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں ہے؟ (5)

کتا ہے میں نے ڈیڑھوں مال خرچ کر دیا (6)

کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا؟ (7)

کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنا دیں (8)

اور زبان اور دو ہونٹ (9)

اور اسے دو ابھری چیزوں کی راہ بتائی (10)

پھر بے نال گمانی میں نہ کودا (11)

اور تو نے کیا جانا وہ گمانی کیا ہے؟ (12)

کسی بندے کی گردن چھڑانا (13)

یا بھوک کے دن کھانا دینا (14)

رشتہ دار تیمم کو (15)

یا خاک نشین مسکین کو (16)

پھر ہو ان سے جو ایمان لائے، اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیتیں کیں، اور

آپس میں مہربانی کی وصیتیں کیں (17)

یہ دائی طرف والے ہیں (18)

اور جنہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، وہ بائیں طرف والے (19)

ان پر آگ ہے، کہ اس میں ڈال کر اوپر سے بند کر دی گئی (20)

۱۰۰ اَيُّسِبُّ اَنْ لَّنْ يُقَدِّرَ عَلَيْنَا اَحَدًا ۝

يَقُولُ اَهْلَكَ مَا لَا يُبَدَا ۝

اَيُّسِبُّ اَنْ لَّنُوْبِدَّ اَحَدًا ۝

اَلَمْ نَجْعَلْ لَهٗ عَيْنَيْنِ ۝

وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۝

فَلَا اتَّخَذَ الْعَاقِبَةَ ۝

وَمَا اُذْرِكَ مَا الْعَاقِبَةَ ۝

فَاَلَمْ رَقِبُوٓا ۝

اَوْ اطْعَمُوٓا فِي يَوْمٍ مِّنْ قَبْلِهِ ۝

يَتِيمًا اِذَا مَقْرَبُوٓا ۝

اَوْ وُكِرْتُمْ اِذَا مَتَرَبُّوٓا ۝

لَكَانَ مِنَ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَتَوَاصَوْا

بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝

اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝

وَالَّذِينَ كَفَرُوا اٰبَاتِنَا هُمْ

اَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝

يَا عٰلِيَهُمْ لَا لَكُمْ مَوْجِدَةٌ ۝

سورة الشمس کی ہے (اس میں) پندرہ

(15) آیتیں ہیں

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان

رحم والا

سورج اور اس کی روشنی کی قسم! (1)

اور چاند کی! جب اس کے چہرے آئے (2)

اور دن کی! جب اسے چمکائے (3)

سُورَةُ الشَّمْسِ بِرُحْمٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهَا رَبَّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِزْدَارِ ۝

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ۝

وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَهَّاهَا ۝

وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا ۝

4. and by the night when it is covered (with darkness);

5. and by the sky and Him who made it;

6. and by the earth and Him who spread it;

7. and by the self and Him who perfected it;

8. therein (in human self) are all the wickednesses and the piousnesses;

9. certainly he (she) prospers who purifies it (self);

10. and he (she) is miserable who corrupts it.

11. The Samood (Thamood) falsified (truth) for their rebellion.

12. That when the most wretched of them rose up;

13. the Rasool (Messenger of Allah) said, "leave alone the she-camel of Allah and keep her drinking turnu.

14. But they falsified it and chopped her legs. So their Rubb (Sustainer) fully destroyed them for their sin which completely swept that town.

15. And He did not care for the consequence thereof.

S. XCII
SURA LYL
(THE NIGHT)

(Revealed at Makkah)

(30 Verses, 1 Section)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

1. By the night when it overcomes;

2. and by the day when it brightens;

اور رات کی! جب اسے چھپائے (4)
اور آسمان اور اس کے بتائوالے کی قسم!
(5)

اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم!
(6)

اور جان کی! اور اس کی! جس نے اسے تمہیک بنایا (7)

پھر اس کی بدکاری اور اسکی پرہیزگاری دل میں ڈالی (8)

بیک مراد کو پہنچایا جس نے اسے ستمرا کیا (9)

اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا (10)

تموڈ نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا (11)
جب کہ اس کا سب سے بد بخت اٹھ کڑا ہوا (12)

تو ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا: اللہ کے نافر اور اسکی پیئے کی باری سے بچو!

تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر نافر کی کوہیں کاٹ دیں، تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب جاہی ڈاکروہ بستی برابر کر دی (14)

اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں (15)

اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں (15)

اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں (15)

سورہ لیل کی ہے (اس میں) ایکس (21) آیتیں ہیں

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

اور رات کی قسم! جب چھپائے (1)
اور دن کی! جب چمکے (2)

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۝۱
وَالسَّمَاءِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۝۲

وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَهَا ۝۳
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝۴

فَالْهَيْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝۵
قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۝۶

وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ۝۷
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۝۸

إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ۝۹

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۝۱۰

فَكَذَّبُوهُ فَعَبَّوْهُهَا فَمدَّمدَّ مَدَّعْتَهُمْ

رَبُّهُمْ يَدَّيْنِهِمْ فَمَسَوَّاهَا ۝۱۱
وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۝۱۲

سُورَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ مِّنْهُ رُحِمَتْ وَتَمَّتْ فِي ثَلَاثِينَ آيَةً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۝۱
وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۝۲

3. and by Him Who created the male and the female;
 4. surely, your struggle (labor for survival) is diverse.
 5. Then as for such one who pays (in Name of Allah) and is pious;
 6. and conforms to the virtues;
 7. We (Allah) shall Provide him (her) ease.
 8. And those who became miser and careless;
 9. and falsified the virtues;
 10. We (Allah) shall soon confront such ones to distress.

11. And their riches will not assist when they perish.
 12. Surely, upon Us (Allah) is to guide.
 13. And surely, to Us (Allah) belongs the hereafter as well as the present life.
 14. So We (Allah) warn you of the flaming fire.
 15. None shall enter it except the most wicked ones;
 16. who falsify the truth and turn their back.
 17. But the pious ones shall be kept far away from it—
 18. as they spend wealth to purify themselves.
 19. And such ones owe no favour to anyone to pay back;
 20. but only righteous seek the pleasure of Rubb (Sustainer), the most High.
 21. And soon He will be well-pleased with them.

S. XCIII

SURA DHUHA

(THE FORENOON)

(Revealed at Makkah)

(11 Verses, 1 Section)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

- اور اس کی! جس نے زواہر بنائے (3)
 بے شک تمہاری کوشش عکس ہے (4)
 تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی (5)
 اور سب سے اچھی کوچ مانا (6)
 تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے (7)
 اور وہ جس نے بخل کیا، اور بے پروا بنا (8)
 اور سب سے اچھی کو بھٹلایا (9)
 تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے (10)

- اور اس کا مال اسے کام نہ آئے گا، جب ہلاکت میں پڑے گا (11)
 بیکگ ہدایت فرماتا ہمارے ذمہ ہے (12)
 اور بیکگ آخرت اور دنیا دونوں کے ہمیں مالک ہیں، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے (14)
 نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بد بخت (15)
 جس نے بھٹلایا، اور منہ پھیرا، اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا (16)
 جو سب سے بڑا پرہیزگار (17)
 جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستمرا ہو (18)
 اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلا دیا جائے (19)
 صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے (20)
 اور بیکگ قریب ہے کہ وہ راضی ہو گا (21)

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۝
 إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَى ۝
 فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۝
 وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۝
 فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ۝
 وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۝

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۝
 فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ۝
 وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۝
 إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ۝
 وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى ۝
 فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ۝

لَا يَصْلِيهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۝
 الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۝
 وَسَيَجْزِيهَا الْآتِقَى ۝
 الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۝
 وَمَا لِأَصْحَابِهَا مِنْ فِتْنَةٍ يُخْزَى ۝
 إِلَّا ابْتِغَاءً وَجْهَ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۝
 يَا وَكُوفُ يَرْضَى ۝

سورہ ضحیٰ کی ہے (اس میں) گیارہ (11)

آیتیں ہیں

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

سورہ الضحیٰ کی ہے (اس میں) گیارہ (11)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. (I swear) by the brightness of the forenoon;
2. and by the night when it is dark still;
3. you: Rubb (Sustainer) has not left you, nor He is displeased with you.
4. And the hour which follows is better for you than the previous moments.
5. And soon your Rubb (Sustainer) shall give you so much that you (Muhammad S.A.W.) shall be well-pleased.
6. Did He not find you (Muhammad) an orphan, so He gave you shelter.
7. He found you deeply moved in His search so He Guided you.
8. And He found you needy so He enriched you.
9. So do not put any pressure on an orphan.
10. And do not scold the needy.
11. And proclaim profoundly the Bounty of your Rubb (Sustainer).

S. XCIV

SURA INSHIRAH (THE EXPANDING)

(Revealed at Makkah)
(8 Verses, 1 Section)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

1. Have We (Allah) not expanded your bosom for you ?;
2. and removed your burden from you-
3. which had broken your back;
4. and We (Allah) have exalted high your dignity.
5. Surely with hardship there is ease;
6. surely indeed with hardship there is ease.

- وَ الضَّحٰی ۝
وَ الَّیْلِ اِذَا سَجٰی ۝
مَا وَاوَدَّ عَاكِ رَبُّكَ وَ مَا قَالِی ۝
وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُولٰی ۝
وَ كَسُوْفٌ یُعْطِیْنِكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰی ۝
اَلَمْ یَجِدْكَ یَتِیْمًا فَاٰوٰی ۝
وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰی ۝
وَ وَجَدَكَ عَایِلًا فَاَعْنٰی ۝
فَاَلَمْ یَجِدْكَ اٰیْتِیْمًا فَلَا تُقَهِّرُ ۝
وَ اَلَمْ یَجِدْكَ السَّاۤیِلَ فَلَا تُنْهَرُ ۝
وَ اَلَمْ یَجِدْكَ یَتِیْمًا فَخَدَّكَ ۝
- ہاشت کی قسم! (1)
اور رات کی! جب پردہ ڈالے (2)
کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا
اور نہ کمرہ جانا (3)
اور بیک بچھل تمہارے لیے پہلی سے بہتر
ہے (4)
اور بیک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں
اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے (5)
کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا؟ پھر بیک
دی (6)
اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو
اپنی طرف راہ دی (7)
اور تمہیں حاجت مند پایا، پھر غنی کر دیا
(8)
تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو! (9)
اور ستلگو کو نہ جھڑکو! (10)
اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو
(11)

سورۃ انشراح کی ہے (اس میں) آٹھ (8)
آیتیں ہیں
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان
رحم والا

سُوْرَةُ الْاِنشِرَاحِ مَبْنِيَّةٌ بِهَمْزٍ مَدْرُجَةٍ فِي الْاَبَاۤتِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا (1)
اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا (2)
جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی (3)
اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند
کر دیا (4)
تو بیک دشواری کے ساتھ آسانی ہے (5)
بیک دشواری کیساتھ آسانی ہے (6)

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝
وَ وَضَعْنَا عَنَّاكَ وَ زُرْرَكَ ۝
الَّذِی اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝
وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝
فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝
اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

7. So when you get relieved strive hard;
8. and keep attention only to your Rubb (Sustainer)

S. XCV
SURA TEEN
(THE FIG)

(Revealed at Makkah)

(8 Verses, 1 Section)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

1. (I swear) by the fig and the olive;
2. and by the Toor-e-Seena (Mount Sinai);
3. and by this secure city;
4. certainly human being has been created on the best nature (with the perfect stature).
5. Then We (Allah) left him (her) to go lowest of the low;
6. except those who believe and do righteous deeds. For them there will be an endless reward.
7. What after that causes you to falsify the awarding/rewarding?
8. Is not Allah the mightiest Ruler above all the rulers?

S. XCVI
SURA ALUQ
(THE BLOOD CLOT)

(Revealed at Makkah)

(19 Verses, 1 Section)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful

1. Read with the name of your Rubb (Sustainer) Who has created everything;
2. Who has created the human being from the blood-clot.
3. Read, for your Rubb (Sustainer) is the most Generous;

تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں
محنت کرو (7)
اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو (8)

سورہ تین کی ہے (اس میں) آٹھ (8)
آیتیں ہیں
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان
رحم والا

انجیر کی قسم! اور زیتون! (1)
اور طور سینا! (2)
اور اس امن والے شہر کی! (3)
بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر
بنایا (4)
پھر اسے ہر نیچے سے نیچے حالت کی طرف
پھیر دیا (5)

مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ
انہیں بے حد ثواب ہے (6)
تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر
باعث ہے؟ (7)
کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم
نہیں؟ (8)

سورہ ملق کی ہے (اس میں) انیس (19)
آیتیں ہیں

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان
رحم والا
پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا
کیا (1)
آدمی کو خون کی چمک سے بنایا (2)
پڑھو، اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا
کریم (3)

لَوْ اَفْرَعْتَ فَاَنْصَبْ ۝
يَا كَلِيْلَ دِيْنِكَ فَاَرْعَبْ ۝

سُوْرَةُ التِّيْنِ وَبِئْسَ مَا كُنَّا فِيْهَا اِيْمَانًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۝

وَطُوْرٍ سِيْنِيْنٍ ۝

وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۝

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ

لَقْوِيْنٍ ۝

كُفُوْرًا وَّذَنْهٖ اَسْفَلَ سَفَلِيْنٍ ۝

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

فَاَلْهَمَّا جَوْدًا غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝

فَمَا يَكْفُرُ بِكَ بَعْدُ بِالذِّيْنِ ۝

يٰۤاَيُّهَا اللّٰهُ يَا حَكِيْمًا يَا كَرِيْمًا

سُوْرَةُ الْعَلَقِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝

4. Who teaches writing by pen;
5. Who teaches that he (she) does not know.
6. Indeed, surely, human being is rebellious;
7. as he (she) considers himself (herself) independent.
8. Surely, to your Rubb (Sustainer) is your return.
9. Have you seen him who prohibits;
10. (Allah's) devotee when he (she) offers 'Salaat (Muslim Prayer).
11. Have you seen he (she) is on guidance?;
12. or instructs others for piety (being the best).
13. You see, if he (she) falsifies and turns away.
14. Does he (she) not know that Allah is surely seeing him (her)?

15. Indeed if he (she) does not desist We (Allah) shall certainly drag him (her) by forelock;
16. the forelock due to sinfulness and falsifying.
17. Then let him call his associates;
18. We (Allah) shall just call our guards;
19. Indeed do not obey him but prostrate and draw near to Me.

(Whoso recites or listens this verses in Arabic should prostrate in ablution with forehead on clean ground).

S. XCVII

SURA QADR (THE BLESSING)

(Revealed at Makkah)
(5 Verses, 1 Section)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

1. Surely, I revealed it in the Dignified Night.

- جس نے قلم سے لکھا سکھایا (4)
 آدی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا (5)
 ہاں! ہاں! بے شک آدی سرکشی کرتا ہے (6)
 اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا (7)
 بیگ تمہارے رب ہی کی طرف پھرنا ہے (8)
 بھلا دیکھو! تو جو منع کرتا ہے (9)
 بندہ کو جب وہ نماز پڑھے (10)
 بھلا دیکھو تو! اگر وہ ہدایت پر ہوتا (11)
 یا پرہیز گاری بتاتا، تو کیا خوب تھا (12)
 بھلا دیکھو تو! اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا (13)
 تو کیا حال ہو گا، کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے (14)

- ہاں! ہاں! اگر باز نہ آیا، تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے (15)
 کیسی پیشانی، جھوٹی خلا کار (16)
 اب پکارے اپنی مجلس کو (17)

- ابھی ہم سپاہیوں کو بلا رہے ہیں (18)
 ہاں! ہاں! اس کی نہ سنو! اور جبرہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ (19)

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝
 عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ۝
 كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَفْرٍ ۝
 أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى ۝
 إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَى ۝
 أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ۝
 عَبْدًا إِذَا صَلَّى ۝
 أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى ۝
 أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى ۝
 أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۝
 كَلَّا لَيَنْبَغِيَنَّكَ اللَّهُ يَوْمَ ۝
 كَلَّا لَيَنْبَغِيَنَّكَ اللَّهُ يَوْمَ ۝
 بِالنَّاصِيَةِ ۝

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِبَةٍ ۝
 فَيَلْبِسُهُ قَدِيدَةً ۝

سَنَدُّمُ الرَّبَّانِيَّةِ ۝
 كَلَّا لَا تَطَعَهُ وَأَسْجُدْ وَأَقِيبْ ۝

- سورہ قدر کمی ہے (اس میں) پانچ (5)
 آیتیں ہیں

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان
 رحم والا

- بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اُمدا
 (1)

سُورَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ مَّرْسُومَةٌ حَسْبُ آيَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝

2. And what should make you to know what is the Dignified Night ?
3. The Dignified Night is better than a thousand months.
4. The Angels and the Spirit descend in it by the Command of their Rubb (Sustainer) for every affair;
5. it is all peaceful till rising of the dawn.

[THREE FOURTH OF
PART 30 COMPLETE]

S. XCVIII

SURA BYYINAH
(THE CLEAR SIGN)

(Revealed at Makkah)

(30 Verses, 1 Section)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

1. The disbelievers among the people of the Book and the pagans [idolators] would not change their religion until clear proof is conveyed to them;

2. by a Raşool (Messenger of Allah) reciting pure Scripture;

3. therein are eternally Booked true Commands.

4. But the people of the Book divided after clear proof had come to them.

5. And they were only commanded to worship Allah, keeping religion pure for Him. And should be upright to establish the 'Salaat (Muslim Prayer) and pay the Zakaat (compulsory due for the have nots). And this is rightful religion.

6. Surely, all the disbelievers among the people of the Book and the pagans (idolators) are in fire of hell to remain there for ever. They are the worst of creatures.

- اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ (2)
شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر (3)
اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے (4)
وہ سلاستی ہے صبح چمکنے تک (5)

سورۃ بینہ منیٰ ہے (اس میں) آٹھ آیتیں ہیں

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

کتابی کافر اور مشرک اپنا دین چھوڑنے کو نہ تھے، جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آئے (1)

وہ کون، وہ اللہ کا رسول کہ پاک صحیفہ پڑھتا ہے (2)

ان میں سیدھی باتیں لکھی ہیں (3)

اور پھوٹ نہ پڑی کتاب والوں میں، مگر بعد اس کے کہ وہ روشن دلیل آگے پاس تشریف لائے (4)

اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا، کہ اللہ کی بندگی کریں، اس پر عقیدہ لاتے ایک طرف کے ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہ سیدھا دین ہے (5)

بے شک جتنے کافر ہیں کتابی اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں، بیش اس میں رہیں گے، وہی تمام مخلوق میں بدتر ہیں (6)

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ سَهْوٍ
تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ
سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ

سورۃ البینۃ مکہ میں نازل ہوئی ثانی آیات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَقَدْ كُنَّا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن أَهْلِ
الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ
حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝
رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُفْهُنَا

فِي مَا كُتِبَ فِيهَا ۝

وَمَا نَقَرُوا الَّذِينَ أَكْفَرُوا إِلَّا

مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ۝

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ

مُعْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هَٰ خُفَاءُ وَ

يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

وَذَٰلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۝

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن أَهْلِ الْكِتَابِ

وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ

فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمُ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝

7. Surely, those who believe and do righteous deeds, they are the best creatures.

8. Their reward is with their Rubb (Sustainer), which are Paradises of eternity beneath which streams flow where they will remain for ever. Allah is well pleased with them and they are well pleased with Him. This is for him who fears his Rubb (Sustainer).

S. XCIX

SURA ZILZAAL

(THE EARTH QUAKE)

(Revealed at Makkah)

(8 Verses, 1 Section)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

1. When the earth is violently shaken by its full shaking;

2. and the earth throws out its burden;

3. and the human being will say, "what has happened to it?"

4. That day it shall narrate all its news;

5. For your Rubb (Sustainer) shall Command it to do so.

6. On that day mankind will return in groups, so that they may be shown their deeds.

7. Then whoso had done good deed of an atoms weight shall see it.

8. And whoso had done evil of an atom's weight shall see it.

S. C

SURA AADIYAAT

(THOSE THAT RUN)

(Revealed at Makkah)

(30 Verses, 1 Section)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کی وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں (7)

انکا صلہ ان کے رب کے پاس لینے کے باغ ہیں، جن کے نیچے نہرس ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے (8)

سورہ زلزال منیٰ ہے (اس میں) آٹھ (8)

آیتیں ہیں

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۗ
جَزَاءُ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا بِإِذْنِ اللَّهِ عَنَّهُمْ ذُرْوَا
عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ حَشِيَ رَبَّهُ ۗ

سُورَةُ الزَّلْزَالِ نَبِيٌّ مُحَمَّدٌ صَلَّى آيَاتُ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان
رحم والا

جب زمین تھر تھرا دی جائے، جیسا اس کا
تھر تھرا تھرا ہے (1)

اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے (2)
اور آدمی کے، اسے کیا ہوا (3)

اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی (4)
اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے علم

بھیجا (5)

اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں
گئے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھائیں

جائیں (6)

تو جو ایک ذرہ بھرا بھلائی کرے، اسے دیکھے
گا (7)

اور جو ایک ذرہ بھرا بُرائی کرے اسے دیکھے
گا (8)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۖ

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۖ

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۖ

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۖ

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۖ

يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَسْتَأْتَاهُ ۖ

لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۖ

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا ۖ

يَرَهُ ۗ

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا ۖ يَرَهُ ۗ

سورہ العاديات کی ہے (اس میں) گیارہ
(11) آیتیں ہیں

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان
رحم والا

سُورَةُ الْعَادِيَاتِ نَبِيٌّ مُحَمَّدٌ صَلَّى آيَاتُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. (I swear) by (horses) who run snortingly (in war);
2. bringing out sparks (from stones by striking their hoofs);
3. and making raid at dawn;
4. there-by raising dust clouds;
5. and penetrating in the middle of the forces (of enemy);
6. Surely, human being is ungrateful to the Rubb (Sustainer).
7. And surely, he (she) is a witness to it.
8. And surely, he (she) is passionate in the love of wealth.
9. Does such ones not know when those in grave will be raised again;
10. and which is in their breasts is brought out;
11. Surely, on that day their Rubb (Sustainer) will be fully aware of them.

S. CI

SURA QAARIAH
(THE DREADFUL)

(Revealed at Makkah)

(11 Verses, 1 Section)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

1. The dreadful calamity;
2. what is that dreadful calamity?
3. And what do you understand what is dreadful calamity?
4. The day when mankind shall be like scattered moths;
5. and the mountains shall become like carded wool.
6. And then as for him (her) whose scales are heavy;
7. he (she) shall be given a pleasant life.
8. And as for him (her) whose scales are light;

- حکم ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز
ٹٹکی ہوئی (1)
- بھر چڑوں سے آگ نکالتے ہیں سمار کر
(2)
- بھر صبح ہوتے تاراج کرتے ہیں (3)
- پھر اس وقت فہار اڑاتے ہیں (4)
- بھر دشمن کے سچ لٹکر میں جاتے ہیں (5)
- بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے
(6)
- اور بیگ وہ اس پر خود گواہ ہے (7)
- اور بیگ وہ مال کی چاہت میں ضرور کرا
ہے (8)
- تو کیا نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے
جو قبروں میں ہیں (9)
- اور کھول دی جائے گی جو سینوں میں ہے
(10)
- بیگ ان کے رب کو اس دن ان کی سب
خبر ہے (11)

وَالْعَدِيْبَاتِ صَبْحًا ۝
فَالْمُؤَيَّبَاتِ قَدْحًا ۝
فَالْمُعِيَّبَاتِ صَبْحًا ۝

فَاَشْرَنَ بِهِنَّ نَقْعًا ۝
فَوَسَطْنَ بِهِنَّ جَمْعًا ۝
اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۝

وَالَّذِي عَلٰى ذٰلِكَ لَشٰهِيْدٌ ۝
وَالَّذِي لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۝
اَفَلَا يَخْلَعُ اِذَا بُعْثِرَ اِنْفَاكُمُ الْقُبُوْرُ ۝
وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ۝
يٰۤاِنَّا اِنۡرٰبُہُمْ یَوْمَ یُنۡزَلُ السُّجُوْدُ ۝

سورۃ القارعہ کی ہے (اس میں) گیارہ (11)

آیتیں ہیں

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان
رحم والا

دل دہلانے والی (1)

کیا وہ دہلانے والی؟ (2)

اور تو نے کیا جانا؟ کیا ہے دہلانے والی؟
(3)

جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتے (4)

اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھکی اون (5)

تو جس کی تو لیں ہماری ہوئیں (6)

وہ تو من مانتے پیش میں ہیں (7)

اور جس کی تو لیں ہگی ہوں (8)

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَنۡزَلَ الْقَارِعَةَ ذٰلِکَ یَوْمَ یُصۡفَعُ النَّاسَ ۝

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
الْقَارِعَةُ ۝

مَا الْقَارِعَةُ ۝

وَمَا اَدْرٰکَ مَا الْقَارِعَةُ ۝

یَوْمَ یَکُوْنُ النَّاسُ کَالْفَرَاشِ الْمَبۡتُوْرِ ۝

وَتَکُوْنُ الْجِبَالُ کَالعِصۡیِ الْمُنۡقَشِ ۝

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتۡ مَوَازِیۡنُهٗ ۝

فَہُوۡیۡ عِیۡشُوۡہٗ سَرًا وَّحِیۡتُوۡہٗ ۝

وَالۡحٰمِیۡنِ خَفَّتۡ مَوَازِیۡنُهٗ ۝

9. his (her) abode shall be bottomless pit.
10. And what you understand what is that (bottomless pit)?
11. (It is) a highly blazing fire.

- (9) وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے
اور تو نے کیا جانا، کیا نیچا دکھانے والی؟
(10)
ایک آگ شعلے مارتی (11)

قَاتَمَةٌ هَاوِيَةٌ ۝
وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ۝
نَارٌ حَامِيَةٌ ۝

S. CII

SURA TAKAASUUR
(PILAGE OF WEALTH)

Revealed at Makkah

(8 Verses, 1 Section)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

1. The pilage of more wealth has diverted you away from Allah;
2. till you reach the graves.
3. Indeed, soon you will come to know it;
4. again indeed soon you will come to know it.
5. Indeed would that you knew it with sure knowledge (to shun love of wealth),
6. you will certainly see hell;
7. indeed you will definitely see with sure vision;
8. then on that day you shall be questioned about the (Almighty's) bounties.

- سورہ تکاثر کی ہے (اس میں) آٹھ (8)
آیتیں ہیں
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان
رحم والا

- تیس عاقل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے (1)
یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا
(2)
ہاں! ہاں! جلد جان جاؤ گے (3)
پھر ہاں! ہاں! جلد جان جاؤ گے (4)
ہاں! ہاں! اگر یقین کا جانا جائے، تو مال
کی محبت نہ رکھتے (5)
بیگ ضرور جنم کو دیکھو گے (6)
پھر بیگ ضرور اسے یقینی دیکھا دیکھو گے
(7)
پھر بیگ ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے
پرسش ہوگی (8)

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ ۙ رُوِيَ فِي آيَاتِهَا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْهٰمُ التَّكْوِيْنِ ۙ
حٰثِي ۙ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۙ
كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ
نَوْمًا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ

كَلَّا لَو تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۙ
لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۙ
ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۙ
ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ النَّعِيْمَ ۙ

سُورَةُ الْعَصْرِ ۙ رُوِيَ فِي ثَلَاثِ آيَاتِهَا

S. CIII
SURA 'ASR
(THE TIME)

Revealed at Makkah

(3 Verses, 1 Section)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

1. (I swear) by the time (of my beloved Prophet).
2. Surely the human being is in the state of loss;
3. except those who believe and do righteous deeds and preach truthfulness and preach to be steadfast.

- سورہ عصر کی ہے (اس میں) تین (3)
آیتیں ہیں
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان
رحم والا

- اس زمانہ محبوب کی قسم! (1)
بیگ آری ضرور نقصان میں ہے (2)
مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور
ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، اور ایک
دوسرے کو مہربان و سید کی (3)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْعَصْرِ ۙ
اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِۦ لَكٰفِرٌ ۙ
اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
يَسْتَبْرِحُوْنَ ۙ

S. CIV

SURA HOMAZAH
(THE BACKBITER)(Revealed at Makkah)
(4 Verses, 1 Section)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

1. Cursed be every back-biter, slanderer;
2. who amasses wealth and counts it over and over again,
3. who thinks that wealth will remain with him for ever.
4. Indeed, such one will be definitely thrown into crushing fire.
5. And what should make you know what is the crushing fire?;
6. (it is) Allah's fire kept ablazed;
7. which will mount over the hearts.
8. Surely, it will be closed on them;
9. in the stretched pillars.

S. CV

SURA FEEL
(THE ELEPHANT)(Revealed at Makkah)
(5 Verses, 1 Section)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

1. (O beloved) have you not seen how your Rubb (Sustainer) dealt with the fellows of the elephant?
2. Did He not cause their plot to fail?
3. and He sent against them swarms of birds on flights;
4. hurling against them the stones of baked clay;
5. and thus made them like broken straw, eaten up (as chaff)

سورۃ ہمزو کی ہے (اس میں) نو (9) آیتیں ہیں
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

- غرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر جب کرے، پیچھے پیچھے بدی کرے (1)
جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا (2)
کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں بیش رکھے گا (3)
ہرگز نہیں ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا (4)
اور تو نے کیا جانا کیا روندنے والی؟ (5)
اللہ کی آگ کہ بجڑ کر رہی ہے (6)
وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی (7)
چنگ وہ ان پر بند کر دی جائے گی (8)
لے لے ستونوں میں (9)

سورۃ الہمزۃ مکیۃ و فیہ تسع آیات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ذٰلِیْ لَکُلِّ هَمْزٍ لَمَدٍ نِّیۡنٌ ۙ
الَّذِیْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَدَهُ ۙ
یَحْسَبُ اَنْ مَّالَهُ اَخْلَدَهُ ۙ
کَلَّا لَیْسَ بِنَدْنٍ فِی السَّعِیۡمَةِ ۙ
وَمَا اَذۡرٰکَ مَا السَّعِیۡمَةُ ۙ
نَاۡ اَللّٰہِ الْمُوَدِّعَةُ ۙ
الَّتِی تَطَّلِعُ عَلٰی الْاَفۡکُوۡرِ ۙ
اِنۡہَا عَلَیۡہِمۡ مُّوَصَّدَةٌ ۙ
بَیۡۡحٌ فِی عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۙ

سورۃ النبیۃ مکیۃ و فیہ خمس آیات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلَمْ تَرَ کَیۡفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِاَصۡحٰبِ
الۡفِیۡلِ ۙ

- سورۃ نل کی ہے (اس میں) پانچ (5) آیتیں ہیں
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا
اے محبوب کیا! تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا (1)
کیا ان کا داؤوں تباہی میں نہ ڈال؟ (2)
اور ان پر بندوں کی ٹکڑ بھیجیں (3)
کہ انہیں ٹکڑ کے پتھروں سے مارتے (4)
تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھسکی کی پتی (5)

اَلَمْ یَجْعَلْ یَدَہُمۡ فِی تَضَلُّلٍ ۙ
وَاَرْسَلَ عَلَیۡہِمۡ طَیۡرًا اَبَابِیۡلَ ۙ
تَرۡمِہُمۡ بِحِجَارٍ وَّہُنَّ سِجِّیۡلٌ ۙ
فَاَجَعَلۡہُمۡ کَعَصۡفٍ مَّا کُوۡرٍ ۙ

S. CVI

SURA QURISH
(THE QOORAISH)

(Revealed at Makkah)

(4 Verses, 1 Section)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

1. Because of the attachment with the Qoorish;

2. (Allah) kept them attached in their journeys during the winter and the summer.

3. So they should worship the Rubb (Sustainer) of this House (the Ka'aba);

4. Who has fed them against hunger, and secured them from a big fear.

S. CVII

SURA MAA'OON

(ARTICLES OF USE)

(Revealed at Makkah)

(7 Verses, 1 Section)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

1. Have you seen him who falsifies the awarding/rewarding.

2. that is he who drives away the orphan;

3. and does not urge the feeding of the needy.

4. No curse be to those offering 'Salaat (Muslim Prayer);

5. who are neglectful of their 'Salaat (Muslim Prayer);

6. those who show it (to others);

7. and refuse to give daily use articles (to needy ones).

S. CVIII

SURA KAUSAR

(THE ABUNDANCE)

(Revealed at Makkah)

(3 Verses, 1 Section)

سورہ قوریش کی ہے (اس میں) چار (4)

آیتیں ہیں

سُورَةُ قُرَيْشٍ مَكِّيَّةٌ وَمِنْ آيَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان

رحم والا

اس لیے کہ قوریش کو میل دلایا (1)

ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے کوچ

میں میل دلایا (2)

تو انہیں چاہئے اس گھر کے رب کی بندگی

کریں (3)

جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور

انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا (4)

الْفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصِّيفِ
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعِهِ وَ
أَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفِهِ ۝

سورہ ماعون کی ہے (اس میں) سات (7)

آیتیں ہیں

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان

رحم والا

سُورَةُ الْمَاعُونِ مَكِّيَّةٌ وَمِنْ آيَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

بھلا دیکھو تو! جو دین کو بھلا آ ہے (1)

پھر وہ، وہ ہے جو یتیم کو دنگے دتا ہے (2)

اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں

دیتا (3)

تو ان نمازیوں کی خرابی ہے (4)

جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں (5)

وہ جو دکھاوا کرتے ہیں (6)

اور برستے کی چیز مانگتے نہیں دیتے (7)

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ
فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ۝
وَلَا يَحْضُرُ عَلَىٰ طَعَامِ الْيَسْكِينِ ۝

قَوْلٍ لِلْمُصَلِّينِ ۝
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝
الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝
وَيَسْتَعْتُونَ الْمَاعُونَ ۝

سورہ کوثر کی ہے (اس میں) تین (3)

آیتیں ہیں

سُورَةُ الْكَوْثَرِ مَكِّيَّةٌ وَمِنْ آيَاتِ

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

1. (Beloved Muhammad S.A.W.) surely, I (Allah) have given you in abundance.
2. So offer 'Salaat (Muslim Prayer) to your Rubb (Sustainer) and offer sacrifice.
3. Surely, your enemy is deprived of every good.

S. CIX

**SURA KAFIROON
(THE) DISBELIEVERS)**

(Revealed at Makkah)
(6 Verses, 1 Section)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

1. (O beloved Muhammad S.A.W.) please declare, "O disbelievers";
2. "I do not worship that which you worship";
3. "nor you worship whom I worship";
4. And I shall never worship what you worship;
5. and nor you will worship that which I worship.
6. 'To you is your religion, and to me is my religion.

S. CX

**SURA NASR
(THE HELP)**

(Revealed at Makkah)
(3 Verses, 1 Section)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

1. When there comes the help of Allah and victory;
2. you see people entering the religion of Allah in troops;
3. then celebrate the praise of your Rubb (Sustainer) and seek His forgiveness. Surely,

He is All-Relenting.

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان
رحم والا

اے محبوب! بیگم ہم نے تمہیں بے شمار
خوبیاں عطا فرمائیں (1)
تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور
قربانی کرو (2)
بیگم جو تمہارا دشمن ہے، وہی ہر خیر سے
محروم ہے (3)

سورہ کافرون کی ہے (اس میں) چھ (6)

آئیں ہیں
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان
رحم والا
تم فرماؤ! اے کافرو! (1)

نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو (2)
اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں (3)
اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا (4)
اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں (5)
تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین (6)

سورہ نصر کی ہے (اس میں) تین (3)

آئیں ہیں
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان
رحم والا

جب اللہ کی مدد اور فتح آئے (1)
اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں
فوج فوج داخل ہوتے ہیں (2)
تو اپنے رب کی شکر کرتے ہوئے اس کی پاکی
بولو، اور اس سے بخشش چاہو، بیگم وہ
بہت توبہ قبول کرنے والا ہے (3)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِلَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوْنُوْنَ
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاَنْصَرْ
وَإِنْ شَاءَ رَبُّكَ هُوَ الْوَالِیُّ

سورہ کافرون کی ہے (اس میں) چھ آیات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ یٰۤاَیُّهَا الْکٰفِرُوْنَ
لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ

وَلَا اَنْتُمْ عِبُدُوْنَ مَا اَعْبُدُوْنَ
وَلَا اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ
وَلَا اَنْتُمْ عِبُدُوْنَ مَا اَعْبُدُوْنَ
لَكُمْ دِیْنُكُمْ وَلِی دِیْنِی

سورہ النصر کی ہے (اس میں) تین آیات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ
وَرَأَيْتَ النَّاسَ یَدْخُلُوْنَ فِیْ
دِیْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ
وَإِنَّكَ لَمِنَ التَّوَّابِیْنَ

S. CXI

SURA LAHUB
(THE FLAME)

(Revealed at Makkah)

(5 Verses, 1 Section)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

1. The two hands of Abu Lahub (the father of flame) have perished and he also perished.

2. His wealth and what he earned did not profit him.

3. Soon shall he enter into a blazing fire-

4. and his wife is carrying a load of wood.

5. Round her neck shall be a choking twisted palm fibre.

S. CXII

SURA AL-IKHLASS
(THE SINCERITY PURITY)

(Revealed at Makkah)

(4 Verses, 1 Section)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

1. Please declare, Allah is One and the Only."

2. Allah is independent from every need.

3. He has begotton none; nor was He begotten (from anyone):

4. And there is none equal to Him.

S. CXIII

SURA FALUQ
(THE DAWN)

(Revealed at Makkah)

(5 Verses, 1 Section)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

1. Please declare, "I (Muhammad) seek refuge with the Rubb (Sustainer) of the dawn;"

2. from the mischief of what He has created;

سورۃ لب کی ہے (اس میں) پانچ (5)

آیتیں ہیں

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

تباہ ہو جائیں ابولسب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو ہی گیا (1)

اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا (2)

اب دھستا ہے پٹ مارتی آگ میں وہ (3) اور اس کی جو رو (بیوی) کڑیوں کا گھسا سر

پر اٹھاتی (4) اس کے گلے میں سمجور کی جمال کا رشتا

(5)

سورۃ اخلاص کی ہے (اس میں) چار (4)

آیتیں ہیں

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

تم فرماؤ! وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے (1)

اللہ بے نیاز ہے (2)

نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا (3)

اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی (4)

سورۃ فلق منی ہے (اس میں) پانچ (5)

آیتیں ہیں

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

تم فرماؤ! میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے (1)

اس کی سب مخلوق کی شر سے (2)

سورۃ اللہب کی ہے (اس میں) پانچ آیات
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تَبَّتْ یَدَا اَبِی لَهَبٍ وَتَبَّ ۝
مَا اَعْنٰی عَنْهُ مَالٌ وَّمَا کَسَبَ ۝

سَیَصْلٰی نَارًا اِذَا تَلَهَّبَ ۝
وَامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝
فِیْ جَنْبِهَا جِدَدٌ هٰضِبٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝

سورۃ الاخلاص کی ہے (اس میں) چار آیات
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝
اللّٰهُ الصَّمَدُ ۝

لَمْ یَلِدْهُ وَّلَمْ یُوَدَّ ۝
وَلَمْ یَکُنْ لَّهٗ کُفُوًا اَحَدٌ ۝

سورۃ الفلق کی ہے (اس میں) پانچ آیات
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝
مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝

3. and from the mischief of the darkness when it overspreads,

4. and from the mischief of those women who practise evil art on the knots (to damage others);

5. and from the mischief of the envious when he (she) envies.

S. CXIV

SURA UN-NASS

(THE MANKIND)

(Revealed at Makkah)

(6 Verses, 1 Section)

Allah's Name Who is the most Affectionate, the most Merciful.

1. Please declare, "I (Muhammiad) seek refuge with the Rubb (Sustainer) of the mankind;

2. the (Supreme) Ruler of the mankind;

3. the One worshipped by the mankind;

4. from the mischief of the whisperer having evil designs (to make hearts dreadful).

5. who whispers into the hearts of mankind;

6. whether from jinn or from the mankind.

اور اندھری ڈالنے والے کے شر سے' جب وہ ڈوبے (3)

اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں (4)

اور حسد والے کے شر سے جب وہ جھ سے ملے (5)

سورۃ ناس معنی ہے (اس میں) چھ (6) آیتیں ہیں

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

تم کو' میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب (1)

سب لوگوں کا بادشاہ (2)

سب لوگوں کا خدا (3)

اس کے شر سے جو دل میں بُرے خطنے ڈالے اور دیک رہے (4)

جو وہ لوگوں کے دلوں میں دوسے ڈالتے ہیں (5)

جین اور آدمی (6)

وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝
كَلِمَاتٍ مُّتَّفَعٍ فِي الْعُقَدِ ۝
يَا وَيُونَ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

سورۃ النّاس مکیہ ۱۰۰ آیات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

كُلُّ اَعُوْذٍ بِرَبِّ النَّاسِ ۝

هَلٰكِ النَّاسِ ۝

اِلٰهِ النَّاسِ ۝

وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَفِيّٰتِ ۝

الَّذِي يُوسَسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝

يَا وَيُوْنِ الْجِنَّةِ وَالنّٰسِ ۝

SUPPLICATION

ON COMPLETION OF THE RECITATION OF THE HOLY QURAAAN

O my Allah replace the horror of my grave with Your Affection. O my Allah be Merciful to me for the Magnificent Holy Quraan. And make it my leader to illuminate and guide me by Your Grace. O my Allah whatever I have forgotten out of it bring back that to my memory and whatever of it I have not understood give me its knowledge. Grant me the honor of its recitation by the daytime and during the night. And make it for me effective method of argumentation in all affairs. O the Rubb (Sustainer) of the entire Universe (Aameen)

دعاے ماثور ختم القرآن

یا اللہ میرے خوف قبر کو اپنی محبت سے مٹا دے۔ یا اللہ قرآن عظیم کی تکمیل مجھ پر اپنا رحم فرما اور اسے میرا امام' سرچشمہ نور و ہدایت اور باعث رحمت بنا۔ یا اللہ اس میں سے جو کچھ مجھ میں بھول گیا (مغنی) ہوں وہ مجھے یاد کرا اور اس میں سے جس میں کچھ نہیں یاد آیا (پہلی) اللہ مجھے علم عطا کرے اور مجھے اس رات کے اوقات میں اسکی تلاوت کا شرف عطا فرمے۔ اور اسے تمام عالموں کے رب (پروردگار) اسے ہر معاملہ میں سرے لے سوز دیکھنا۔ (آمین)

دَعَاءُ خَتْمِ الْقُرْآنِ

اَللّٰهُمَّ اِنِّسْ وَخَشِيْ فِيْ قَلْبِيْ اَللّٰهُمَّ
اِرْحَمْنِيْ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَاجْعَلْهُ
لِيْ اِمَامًا وَّوَسِيْلًا هُدًى وَّوَسِيْلَةً
اَللّٰهُمَّ كَرِّمْنِيْ مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَعَلِّمْنِيْ
مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْقِنْنِيْ يَلَدًا وَنَهْةً
اِنَّهُ النَّبِيُّ وَاِنَّهُ الشَّهَادَةُ وَاجْعَلْهُ لِيْ
مُحِجَّةً يَّارَبَّ الْعَالَمِيْنَ ۝

SUPPLICATION

O my Affectionate Allah You are Compassionate, Divine and Exalted. Whatever You have prescribed is the most perfect and all truth. This is Your Holy Quraan as conveyed to humanity upto the Day of eternity by Your Last Ideal, the Holy Prophet Muhammad, being Your Rasool-e-Kareem, Sallallaho-Alaihe Wassallam. This is Your Benevolence to all Your devotees in the world. O my Allah You make the Holy Quraan our Imam to be our best guide in all walks of our lives as a great Mercy for us with the grace of Your great Prophet, Sallallaho-Alaihe-Wassallam, as Your best model in this world. With Your special Mercy and Providence keep it perfect in our memory. But recollect to us its parts which we have forgotten. Confer on us the depth of knowledge for any of its part in which we have not gained good insight. Give us day and night the honor of its recitation and its sincere understanding with best perception. Make easy for us its adaptation in practice and make it a Divinely soothing Scripture in our sights. Exhault us in Your estimation due to its recitation and make it our profound companion in our graves, on the Day of Judgement, on the tough path of Your Last Day examination as well as on the Day of Awards and Rewards. You make it our companion in all situations. Make us steadfast to act upon its Do's and save us from indulgence in its Don'ts, as prohibited by You and practiced by Your Rasool-e-Kareem, Sallallaho-Alaihe-Wassallam. O our Allah enlighten our hearts with the flood of the light of the Holy Quraan and make us insightful to perceive the real path of righteousness and piety. Certainly You are the only Being who Listens to our supplications and only You can fulfill the submission of every devotee. We proclaim all praise to You. We submit for all Your Blessings to countless numbers for Your Nabi-e-Kareem, Sallallaho-Alaihe-Wassallam, alongwith the perfect personages of his household and his faithful companions. Our Allah You confer on us Your full Mercy because You are the only Being Who guides and takes everyone to the straight Path. Bring me, my forefathers, my family members and all the Muslim Oomah under umbrella of Your profound Mercy. Aameen-Ya Rabbull Aalemeen!

INTRODUCTION TO SURAS II TO CXIV

SURA II — AL-BAQARAH (THE COW)

1. Title :

Sura Baqarah - The Cow, is the first complete Madani Sura of the Holy Quraan, which is the longest one. Its Verse 282 is the longest Verse of the Holy Quraan prescribing the basis of a profound justice system for a sound social order.

The title of the Sura has been derived from the true story of the Divinely selected beautiful sacrificial cow as narrated in its Verses 67 to 73. This Sura presents a self-contained total projection of the culture of Islam, as main objective of the Holy Qur'aan. Allah Suubhanahoo Wa Ta'ala (S.W.T.) has explained in this Sura the socio-religious and politico-economic system of the religion of Islam in details. It explains special feature of the Jewish people who remain at cross roads and Christian confusion about the clear Commands of Allah. This longest Sura exposes the socio-cultural and religio-moral confusion of Jews and disbelievers worshipping cows and objects.

During the first two years of the Holy Prophet's life at Madina, the Jews remained there before their self exile by emigration from Yathrib, renamed as Madina Tur Rasool.

2. Why at No. II and Relation with No. I (The opening) ?

This Sura has been meaningfully placed by the Holy Prophet Muhammad S.A.W. as Chapter II. It unfolds the universal mysteries about the human soul from the creation of the Aadam to the objectives of humanity. This Sura actually describes the Islamic way of life for the application of Shariah. Thus, Sura Baqarah presents the modality of best personality to establish best society for peaceful co-existence of humanity placing it as the foremost Sura of the Holy Quraan.

3. Constitution :

This Sura is Comprised on 40 sections and 286 Verses which contain 6121 words consisting of 25500 letters.

4. Revelation :

This Sura was revealed by Allah Suubhanahoo Wa Ta'aala (S.W.T.) upon the Holy Prophet Muhammad Sallallahoo Alyhe Wassallam (S.A.W.) in Madina Tur Rasool.

5. Objectives :

In this Sura, mankind has been introduced the fundamentals of Islamic faith, the practical implications and its impact on life. The concepts of righteous living according to Islam and the way to achieve it, have been delineated. The conflict between piety and sinfulness, the moral weapons with which the pious counteract the evil forces and the foul means as well as the onward march of righteousness have been clearly authenticated. It is in this connection that the account of the creation of Aadam as the Vicegerent of Allah upon the earth, and reaction of Satan (devil) towards it has also been detailed.

6. Why Title in the Name of an Animal :

The title of this longest and fully self-contained Sura has been derived from the special nature above-cited cow of a particular person as described in Verses 67 to 73 in the Sura. This title of cow or other animate titles of "Ant" or "Spider" etc. in other Suras of the Holy Quraan assign Divine importance to such creatures. In the perfect sight of Allah they are of great benefit to humanity to provide best lesson to men to maintain the proper sanity of mankind. A chunk of the beef of this special color cow was struck to the dead body of a murdered man to detect the real cause of his killing to save Prophet Moses. It fetched a special price to its pious owner from

the collections of the miser Jews, so hesitant to spend a penny. This is how Allah helps the righteous and examines the disobedients.

The story of cow itself is a complete lesson that how the Israelites became despair and disobedient despite of Allah's countless bounties upon them. A big chunk of human race called Hindoos worship cow since an immemorial time. A small community known as Jews also started worshipping its bronze heifer called Ijla in Arabic, a lifeless idol calf made by a cunning person Samiri to you money from its Jewish worship. This shows the old relationship of Hanood (Hindoos) with Yahood (Jews).

Sura Baqarah is significant in the sense that only Allah is worth worship and His creatures like cow or its heifer are only for human benefit. Cow and heifer are of total utility to the entire mankind. The cow milk, its flesh, her skin, horn, hoofs, bones, dung and every bit of it is most useful to human beings, all alike. So the true Divine Command for its sacrifice describes the reality of its being best food by beef, milk, butter and its every other part.

7. Comparison of the Jewish Community with Muslims :

This Sura significantly brings into light the different features of the Jewish culture as well as the negative habits of Bani Israel and the Christians. How Bani Israel were bestowed the universal respect and how they were elevated high amongst mankind, has also been explained in this Sura. But even then they deviated from the right path and contracted various moral and ethical misdeeds as well as self innovated evil practices in the Divine faith. They made their Divinely revealed Torah Shariah (laws) as mere plaything by their stubborn negation and changes in the Commands of Allah.

8. Objectives :

This Sura stresses that the teachings of all the Ambia (Prophets of Allah) up to Muhammad Durr Rasool Allah, S.A.W. makes obligatory the belief in :

- (i) Unity of Divinity;
- (ii) Following the Prophets of Allah;
- (iii) Establishing prayer;
- (iv) Paying Zakaat;
- (v) Sacrifice;
- (vi) Sayyam;
- (vii) Jahaad for truth; and
- (viii) Hajj.

It is continuous process, starting right from the creation of the first man, as the crown creation. Aadam, as the first Nabi upon the earth initiated the Divine standard of piety which achieved its zenith in the Last ideal modality of Prophet Muhammad (Allah's Blessings and Salutation upon him S.A.W.)

Main subjects of the Sura Al-Baqara can be visualized as :-

- (i) HAQANAT-O-UZMAT-E-QURAAAN : The truthfulness and greatness of the Holy Qur'aan;
- (ii) HAQEEQAT-O-IKHLASS-E-EEMAAAN : The reality and sincerity of faith in Islam;
- (iii) KHASA-ISS-E-MUUTAQEEEN : Characteristics of the pious devotees;
- (iv) MAGHDOOB YAHOOD : The misdeeds of the wrongful Jews;
- (v) NIFAQ-E-MONAFIQEEN : The hypocrisy of the hypocrites;
- (vi) FADHEELAT-E-NABOOWATT - The greatness of the Prophets of Allah;
- (vii) NIZAMATT-E-ISLAM : Foundations of the Islamic State;
- (viii) KUUFRR VS : ISLAM : Disbelievers' enmity to Islamic system,
- (ix) FATH-E-ISLAM : The ultimate triumph of Islam,
- (x) NIZAM-E-ADL-E-IJTIMA-EE : Supremacy of social justice of Islam.
- (xi) RADD-O-E-ISSTEHSAL : Elimination of exploitation;
- (xii) NIZAM-E-HAQ : Supremacy of the Just Order of Islam in the world.

The Shariah of Islam is not a new Shariah but the continuation of the Divine guidance

conferred by Allah upon man since his creation becoming perfect in Final Prophet Muhammad (S.A.W.). The Quraanic laws, therefore, correspond to the true requirement of man's nature. In this connection a pointed reference has been made to the Messenger Ibraheem, Allah bless him, the Prophet patriarch, from whom the Muslim Ommah (the grand Muslim community, transworld) owes its standardized existence. He is looked upon as the father of the Prophets, the ideal for straightforwardness and a model of self-sacrifice before the Commands of Allah. Therefore, Holy Prophet Muhammad S.A.W. adopted his patterns as the model of sincerity, purity, piety and unity for mankind where all the monolithic religions meet together in the annals of human history. His elder son Ismaeel, (Allah bless him), and he himself constructed the house of sincere worship to Allah known as the Ka'aba in centre of the earth in Makkah, which is always centrifugal to the unity of Muslim Ommah. The sincerity to the Almighty in faith and piety as laid down in the Holy Quraan and practised by the Holy Prophet (S.A.W.) are now the only medium of achieving best human society. The Sura ends up with best supplications as taught by Allah to His crown creation Aadam as His First devotee on earth.

9. Universality of the Sura :

Sura Baqarah basically divides human beings within three categories :

- (i) the believers; (ii) the disbelievers; and (iii) the hypocrites.

The believers further have been divided into three types :

- (a) The Muslims,
 (b) The Momins (faithfuls) and
 (c) The Muutaqies (pious).

Of these three the Muutaqies are the ideal believers in Islam.

Disbelievers are those who worship the objects as the polytheist pagans and the idolators.

The third category of human beings is of the hypocrites. Apparently they claim to be the believers but actually they are enemies of the faithfuls. They are really very dangerous to the peaceful co-existence of mankind.

10. Significant Verses :

- (i) The Sura delineates the characteristics of the believers who are Muutaqeen (pious ones) in Verses 2 to 5. These are : (a) who believe in Allah as the unseen as basic reality; (b) establish Salaat (Muslim Prayer) with sincerely; (c) pay the compulsory dues in humility; (d) believe whatever has been made obligatory by the Holy Qur'aan; (e) believe on the previous Books; and (f) believe in the Hereafter.
- (ii) Verses 6 and 7 describe who are the disbelievers. Verses 8 to 20 give full details of the hypocrites. As such a full section of Sura Baqarah was revealed to condemn the hypocrites.
- (iii) Verse 11-people indulge in social disorder but claim to be reformers;
- (iv) Verse 26-Allah illustrates facts about smallest creatures to test the belief of the followers to learn lesson from them.
- (v) Verses 30 to 39-Creation of Aadam as Allah's Vicegerent having all round knowledge. Allah gave Aadam the supreme honor but Satan rejected him. Aadam in Paradise was brought to earth on his own option of adoption of the prohibited action. But obedience and submission to Allah as sincere and humble devotee by worship can make humanity the owners of Paradise to live there in Eternity.
- (vi) Verses 40 to 46 and verse 169-Fulfil agreements, never misuse a penny of an orphan, adopt perfect piety, never dub right under wrong, always establish prayer, pay the compulsory dues, enjoin others to be pious and keep patient. Those having these characteristics will be nearest and dearest to Allah.
- (vii) Verse 104-Always adopt best etiquettes to address the Holy Prophet (S.A.W.).
- (viii) Verses 115 to 117-The east and the west belong to Allah as He is Omni present, everywhere.
- (ix) Verse 129 and 151-Submission of Ibraheem and Ismaeel (blessings of Allah on Allah for

the bestowment of the top Prophet Muhammad (S.A.W.) who has the four best qualities (revelations from Allah, inculcating best education, imparting wisdom and purifying the faithfuls).

- (x) Verse 138-Best is the dye of piety from Allah to make every one righteous.
- (xi) Verse 143 of this Sura also lays down the all time superlative role of the Muslims in the world as :
"We (Allah) have made you a balanced grand Ommah (the transworld universal community of the Muslims) that you should be a model to the mankind under the guidance of the Holy Prophet (S.A.W.)"
- (xii) Verse 173- The unlawful eatables and drinks must be desisted.
- (xiii) Verse 177- Righteousness is not in turning the faces to the east or the west but belief in Allah, the Last Day, the Angels, the Divine Books and the Prophets as well as spending money on the orphans, poor relatives, needy wayfarers and prisoners is the best. Only the remembrance of Allah makes someone righteous. Those who pay Zakaat, fulfil their agreements and remain patient as well as steadfast in war are the truthful and righteous ones.
- (xiv) Verse 178 and 179-To settle the unjust killings the best methods of retaliation or compensation are compulsory.
- (xv) Verses 183 to 187-All the related Shariah obligations for compulsory fasting have been laid down.
- (xvi) Verses 188-Corrupt use of others' wealth prohibited.
- (xvii) Verse 189 and Verses 196 to 201 pilgrimage (Hajj) to Makkah discussed in details.
- (xviii) Verse 191- Rioting and public disorder is serious crime.
- (xix) Verse 219- Wine and gambling rejected.
- (xx) Verse 224-Allah should not be made subject of Oaths.
- (xxi) Verses 223 to 232 and 237-Status of women, divorce method and status of divorced women discussed.
- (xxii) Verse 233-Right of child to be sucked by mother for two years.
- (xxiii) Verse 234 to 236- Widowed women marriage.
- (xxiv) Verse 255 to 257- Ayat-ull-Kuursi. No compulsion in Islam.
- (xxv) Verses 258 to 260- Prophet Abraham's confrontation with idolator king and his people's wrong belief.
- (xxvi) Verses 275 to 280- Usury and interest prohibited.
- (xxvii) Verse 286- Best supplication to Allah.

11. Complete Details of Shariah (Islamic Practices) :

All the Shariah institutions of Islam have been laid down in this Sura as .

- (i) What is the belief (faith) and how a believer becomes best Muslim?;
- (ii) How and at what times Salaat (Prayer) be established;
- (iii) What are the objectives of impactful Sanyam (Fasting);
- (iv) What is Hajj (Muslim pilgrimage);
- (v) Why, how and when to pay Zakaat (compulsory dues) to the have not Muslims); and
- (vi) What is the value and need of Islamic Jehaad (fight for truth);

Thus this Sura is the most comprehensive compendium with full details of the Islamic Shariah as the final will of Allah negating the ancient, the Jewish, the Christian and all the other wrong beliefs.

12. Summary :

Allah Subhanaho Wa Ta'ala has revealed this longest Sura with Al-Baqarah -- the Cow as its title. The cow out-numbers all the milch animals in the world and it is the first and the foremost domesticated animal in service of mankind. Cow is the common link between Jews, Christians and Muslims, being monolithic religious as they all alike sacrifice it. Cow is very useful in all human urgencies.

The wrongful Jewish practices have been rejected and the totally baseless present day Christian faith has been negated. The Islamic Shariah has been introduced as the final Will of Allah (S.W.T.) to the Day of Resurrection as the final Divine religion. All the institutions of Islamic Fiqh (system) have been described as the only means to straight path for co-existence of humanity in peaceful fraternity upto Eternity. Best method of submission to Allah as perfect supplication of Aadam has been prescribed for all the Muslims.

SURA III — AALE 'IMRAN

1. Title :

The title of this Sura was derived by the Holy Prophet S.A.W. with the guidance of Allah, from its Verse thirty three (33). In this Verse, Allah Almighty relates how He confers His best bounties on those who achieve high standards of piety. The progeny of Imran, the father of the great lady on earth, Virgin Mary Aly-ha-Salam (Allah's Blessings on her), was conferred unique honor by this Sura. She was made the Virgin mother of Jesus, the great Masiah and Prophet Eesa Aly-hiss Salaam (Allah's Blessings on him). She is equally honored and cherished throughout the world, except the Jewish community. Muslims believe that Jesus was the Prophet of Allah, who is alive in the heavens. But Christians say that he was crucified and he would reappear as Jesus God, a begotten son of God, rather a real God, for which they have no proof and there is no truth in this belief.

2. Constitution :

It is the 2nd longest Sura of the Holy Quraan with 200 Verses which comprise on 3542 words containing 15336 letters.

3. Revelation :

According to the companions of the Holy Prophet S.A.W. and religious scholars, it was revealed by Allah upon the last Messenger Muhammad S.A.W. in the Holy city of Madina in 3rd to 9th A.H. (After Hijrut - the Holy Prophet's migration to Madina). This Sura is a long address mostly to the Christians.

4. Context :

The context of this Sura is as follows :

- (i) There is a famous Hadith about the Holy Prophet S.A.W. when he permitted a Christian delegation, who came to meet him, to say their Christian prayers in the holy Mosque. This is the best example of religious tolerance of the Holy Prophet S.A.W.
- (ii) The Sura basically explains to the Christians that Islam is the continuity of the same religion as bestowed upon all the previous Prophets of Allah. The Holy Quraan incorporates in originality all the valid Ordinances of Allah described in Torah (old Testament) for the Jewish community through Prophet Moses (Moosaa Aly-hiss-Salaam). The Holy Quraan also carries the relevant message of the original New Testament (the Injeel - the Bible Gospel, modified by different denominations of Christians in different versions, in different countries). None of these Bibles now have the words of God in originality in their present form.
- (iii) Aale Imran, as the lengthy Sura of the Holy Quraan (with 200 Verses), solely motivates the Christians to rectify their false belief about Prophet Eesa-Masiah A.S. that he was not at all the begotten or real son of God. So Christians should revert to the unity of Divinity and Oneness of Allah.
- (iv) The Holy Prophet S.A.W. advised them to forego the cross as Jesus was never crucified. They should desist to eat flesh of pig and leave alcohol as these were totally against the basic teachings of Jesus Christ A.S. as revealed upon him in the old and the new Testaments, before changes. The Holy Prophet Muhammad S.A.W. told Christians that the son inherits most of the characteristics of the father. Allah has no father and no mother, but Jesus had mother. Allah has no birth or death but Jesus was born from the

womb of his mother and is to die. (According to Christians he died at crucifixion but was reborn which is baseless).

- (v) The Holy Quraan justifies how Jesus was in urgent need of eating and drinking and his life in this world depended on fresh air. Allah is aloof from such needs. Allah has no beginning and no end but Jesus had his birth and has definite end. He also explained to the Christians how Islam is the Allah Almighty's truthful, peaceful, simple, pious, universal, righteous, straightforward, dynamic, progressive and prosperous religion. It is a continuity of the same Islam which was preached by Jesus or Moses. Higher ideals fixed by Allah for the Holy Prophet Muhammad S.A.W. are Divine model for the true Muslims.

5. Objectives/Message :

The first Sura (AL-FATIHA—The Opening) of the Holy Quraan is a brief introduction with only comprised on seven Verses and 27 words as the preamble of the Holy Quraan. It fixes high standard of life for the sincere Muslims to become pious and straightforward.

Second Sura (AL-BAQARA—The Cow) is the lengthiest Chapter of the Holy Quraan which has 286 Verses consisting on 6121 words. This Sura gives details about the existing Jewish faith and invites them with full justification to accept Islam because the Holy Quraan, being the last Message of Allah to mankind, is the continuity of the message of the Torah. The preachings of the Holy Prophet Muhammad S.A.W. as the last Messenger set the best ideals. The Holy Quraan critically evaluates the ill conceived Jewish and Christian belief changing the pure revelation of the old and new Testament.

But Sura AALE-IMRAN, as third Chapter of the Holy Quraan, gives full critical evaluation of the faith of Christians that it is altogether against the original revelations of the Bible (Injeel). Jesus Christ came as Masiah to bring back on the right path the Israelites. The New Testament (Bible) was revealed upon him by Allah only to get implement the Old Testament (Torah) Divine ordinances for the Jews. As such Jesus did not bring new religion but it was the continuity of the religion of Moses. But Jesus was rejected by the Jews. The editions of Bible (Gospel), in the present versions, were evolved by the different disciples of Jesus from 250 to 450 years when he was taken to heaven. Christianity was established in the name of Jesus Christ, although the duty for Jesus was only to unite so many sects of the Jews. Thus the followers of Jesus Christ have negated what was prescribed by Allah. Anyhow, long after the so-called crucifixion of Jesus, Christianity became the great religion of the world up to 6th decade of the 20th century. It is now on the serious decline as Islam is having its best march forwards.

In early 7th century A.D. the Holy Prophet Muhammad S.A.W. preached the Christians the facts about Jesus and the real solution to the Christian misconceptions to come back to the fold of same Islam which was introduced by the Arch Messenger Hazrat Ibraheem (Abraham) A.S. It is accepted unanimously by all the Muslims, Christians and Jews. All of them believe in the Oneness of Allah, though Christians treat Jesus as son of God and Jews believe Moses as incarnation of God. As such both these religions presently are not in their original form. Prophet Ibraheem is the grand-father of Muhammad S.A.W., the grandfather of Jesus and father of Moses. Therefore, Christians and Jews must understand the truth bestowed upon Muhammad S.A.W. Three Chapters of the Holy Quraan i.e. Sura Fatiha, Sura Baqara and Sura Aale Imran stress on the purity of Islam and the Oneness of Allah.

6. Gist of the Text :

Verse one of this Sura consists of cut out alphabets as the code words between Allah and the Holy Prophet Muhammad S.A.W. Perhaps their meanings are not known even to the Divine harbinger of revelations, the Arch Angel Jibreel A.S. (Aly-hiss Salam—Allah Bless him).

Verse two upholds that only Allah is worth worshipping as He is all alive and everlasting. Verse three says that Quraan is Allah's authentic revelation for the human guidance which testifies Torah (Old Testament) and Bible (New Testament) as revealed by Allah (non-existent now in their textual purity as words of Allah). The non-Muslim scholars of this age say that the

Holy Prophet Muhammad S.A.W. was not bestowed any big miracle. The Quraan explains the miracles of Jesus (Prophet Eesa Masih A.S.). Some Muslim scholars perchance prove 10,000 miracles of the Holy Prophet of Islam S.A.W. As a matter of fact the Holy Quraan itself is a big miracle. This is the only ever surviving Divinely revealed purest scripture. In the human history it has not only been preserved by Allah Almighty in heavenly Tablets but it is perfect in its word purity to this day without change of a digit or a slightest variation in its text. None of other scriptures of any other monolithic religion is available in their original form like the Holy Quraan. Therefore, the Holy Quraan itself is the greatest Divinely revealed miracle of the unlettered Holy Prophet S.A.W.

Verses 4 to 13 categorically say that the Holy Quraan as Divine revelation is the whole truth. Those who disbelieve it, will be sent to hell. The believers will get reward herein and in the hereafter with Allah's bounties in Paradise.

Verse 14 indicates the evil attractions and allurements which sway human beings to deviance that they commit crimes. These glittering attractions are to collect gold, silver, bank balance, cash money, property, progeny, animals of dairy, horses, agricultural holdings etc and lust of beautiful women.

Verses 15 to 25 describe the profound characteristics of the pious people as straightforward, patient and obedient devotees of Allah, who help the needy and beg for Divine forgiveness. They will achieve ultimate success.

Verses 26 to 30 state that Allah is all powerful to bestow power to the just or deprive someone from the same. He has full authority over every thing. Allah brings out day from night and Vice-a-Versa. He brings out the dead out of alive and Vice-a-Versa. Friendship with the wrong doers is totally disliked by Allah. Misdeeds committed by wrong doers are not destined from Allah. These are the sins and crimes of someone.

Verses 31 to 32 make it clear that love of Allah lies in the submission to Him with sincerely following the footsteps of the Holy Prophet Muhammad S.A.W. with perfect love to him.

Verses 33 to 80 give full details about the family of Imraan bestowed with a great daughter Maryam (Mary). She was brought up by the great Prophet Zakariya (Zachariyya) A.S. as her Divinely appointed Prophet guardian. The true message of Bible as revealed by Allah in the Original Gospel has been given in the Quraan as to how Mary was made in the world history the greatest lady (Verse 42) Divinely bestowed with the greatest miracle of a son Jesus—Eesa Masih, without father. This confused the Christian world after 450 years to take him as the son of God having great miracles (Verse 49) from Allah. Preaching of Jesus for Oneness of Allah were dubbed under the wrong concept of Trinity, One into three and three into One with Jesus as the real God.

Sections 9 and 10 of Sura Aale Imraan describe how all the previous Prophets of Allah undertook to believe in Prophethood of Muhammad S.A.W. as the ideal most last Messenger of Allah for the entire humanity to Eternity.

The standards of righteousness and piety for the Muslims, are the same as practised by Prophet Ibraheem A.S., who established the Holy Ka'aba in Makkah as the holiest place of Allah to be kept by all Muslims in all prayers and worship as well for performing Hajj (Muslim pilgrimage) and 'Omra. Only the path of the Prophets leads to the straight path of Allah.

Section 11 to 13 clearly make the unity of Muslims as mandatory for each believer free of sectarianism. All the Muslims are brothers to keep fast the straight path of Allah in unison without any negative differences amongst them with full respect to each other. This is the real boon of Allah that Muslims should remain one.

Verses 104 to 110 and 114 are the great Muslim Mottos. They are a trans-world mid of the way universal community to lead the mankind to peaceful piety and coexistence of humanity with equitable prosperity in light of the Holy Quraan as guidance of Allah Almighty.

Verse 121 to 129 and Verse 140 to 158 are related to the events of war of Uhud thrusted by enemies of Islam near Madina where Muslims faced difficulties at the hands of infidels of Makkah aided by Jews of Madina in the third year of their migration from Makkah—the 3rd A.H. Muslims faced crises due to their being non-steadfast. No weaponry, armory, artillery or air cover can save Muslims but it is Allah Almighty Who is their Protector. Muslims never should expect help from the disbelievers as they are always united to crush Muslims.

Verse 130 totally rejects usury and prohibits interest in any form as it is Jewish institution to exploit the humanity. It is anti-prosperity and is against justice and equity. Interest extracts the hard labor of people under debt to the benefits of the cruel creditors.

Verse 159 describes the greatest characteristics of the Holy Prophet S.A.W. being Allah's Blessing (Rehmat) for the universe. He is open hearted and broadminded. He introduced the democratic institution of consultation with every citizen, irrespective of status. He taught mankind tolerance for the adversaries, enemies and the wrong doers forgiving even their serious wrongs.

Verse 161 again verifies the fact that individuals commit wrongs with self-motives for which they are liable to punishments.

Verse 164 makes the Holy Prophet S.A.W. the greatest bestowment and boon of Allah to human beings. He has four highest characteristics :-

- (i) He conveys Verses of Allah in originality, as revealed to him;
- (ii) He reforms the followers to piety;
- (iii) He inculcates believers Allah's revelations with self-practice; and
- (iv) He motives them with perfect conviction to straightforward actions.

Verse 168 challenges the disbelievers to evade their death hour to live for ever. But every one is to die by Allah's destiny.

Verses 169 to 171 exalt so high those who are martyred (killed in spreading piety or in a war to defend Islam). They get full bounties of Allah Almighty. Such great men do not die but actually remain alive and are fed by Allah which the living ones cannot easily understand. Their status in spiritual world goes on exalting and they receive more bounties getting more and more satisfied with Allah's bestowments as the martyrs in His way.

Verse 179 explains Allah's unlimited knowledge of the hidden facts of this universe. All the past, present and future events, as well as affairs of the here-after are fully known to Him. He can confer to fullest extent secrets of the universe to his Prophets and to His selected devotees.

The title Nabi itself means the exalted one who knows the hidden news of past, present or future and gives authentic information about the unknown.

Verses 180 to 191 describe how believers are par-excellent than disbelievers. Disbelievers of the past are condemned that they killed Allah's Prophets. Muslims must remain pious, and steadfast to get bounties of Allah Almighty. Allah is Magnificent to create every thing. Nothing in the universe has been created in vain.

Verses 192 to 200 describe the best characteristics of Muslims and prohibit them to get any sort of remuneration for teaching the Holy Quraan. Muslims must remain patient, benevolent, obedient, upright, cooperative, accommodative, united and mutually brothers. They should consult each other and help the needy with love and affection. If Muslims remain disunited, as a result of the conspiracies of the infidels, idolators and disbelievers, they will not be able to have a united fight against injustice, miseries, excesses, human rights violations and exploitations. Only Muslims can take humanity to peaceful prosperity with justice, fairness and equity.

7. Conclusion :

Sura Aale Imraan being the 2nd lengthiest Sura of the Holy Quraan basically motivates

the Christians to the real Divine truth about Eesa Ibne Maryam (Jesus) who was most miraculous Prophet of Allah but not at all the son of God. The finality of the Holy Prophet Muhammad S.A.W. must be accepted by them. His life patterns being the world model from Allah and the completion of Divine Message on him in the form of most perfect Book, the Holy Quraan, has also been explained to the people of the previous Books, the Jews and the Christians to accept it as Divine truth. It is similar truth as was in the Torah and the Bible in originality. Muslims have been instructed to maintain justice, truthfulness, piety, equity and sincerity to Allah. Only the straight path leads to real welfare of humanity with equality as prescribed by Allah Almighty in the Holy Quraan and as practised by Holy Prophet Muhammad S.A.W.

SURA IV — UN-NISAAA (THE WOMEN)

1. Title :

The title of this Sura has been selected by the Holy Prophet S.A.W. with the guidance of Allah from the word "NISAA", "the Women". This word occurs at many places in this Sura. The female, woman, lady or masculine is the most important part of family, group and society. She provides the basis of humanity. Survival of man depends on her company. She plays pivotal role in inter-relationship and interdependence of individuals. Human life has its foundations on mother's proper socialization of child. Child is the father of man and she gives birth to child. Then she disciplines him/her as a social person. In Islam women as mother are the most respectful (next in respect to Allah S.W.T. and His last Prophet S.A.W.). As daughter she gets deep fatherly affection. As sister she provides real link within family. As wife she is the most lovely spouse. She is so important as a nucleus of primary relationship of male and female unison. She has still greater attachment as maternal/paternal aunt, cousin, fair sex and great sympathizer. She is nursing balm to male chauvinism and masculine schism. She is the first teacher and motivator for sanity in infancy as well as chastity in adulthood. Integrity and solidarity of community lies in her hands. Woman, as a matter of fact, is much more important for survival of human society. Therefore, Allah Almighty has devoted this Sura to female serenity. Though she is considered weaker vessel and fair sex partner but she has been assigned a special status in Divine Scripture of the Holy Quraan to protect her rights from male exploitation.

Thus the word NISAAA' is very important nomenclature of this pivotal Sura of the Holy Quraan to preserve female status being weaker vessel, not preserved by any other religion.

2. Constitution :

This Sura of the Holy Quraan consists of 176 Verses. It has 3035 words, containing 16030 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed by Allah to the Holy Prophet S.A.W. in Madina during the period from 3 to 5 A.H.

4. Context :

This Sura lays down the foundations of Islamic jurisprudence for civil, criminal, ethical, social and community control legislations in a Muslim state. Woman plays pivotal role in Islamic culture for the socialization of individual as pious member of family. Legislative reforms were introduced for the first time by the Holy Quraan in the human history to delineate social control and community defence laws in different aspects of human life.

This Sura, therefore, is an important Quraanic coverage to human prosperity in a welfare society.

5. Objectives/Messages :

The Sura deals with the following subjects as its major objectives with specific Divine Messages for human welfare :-

- (i) Islamic sociology of law and the psychology of value/norm structure of an Islamic community ;
- (ii) The family life and group problems of the Muslim society and the solidarity of the individual with family for community integrity;
- (iii) The rights of the individuals in the family, problems of husband and wife in the family and the principles of family laws in Islam;
- (iv) The principles of civil law containing the Muslim law of inheritance, land laws, law of equity, the rural and urban property shares, principles of the law of contract and foundations of other civil laws, which can be evolved from time to time;
- (v) Principles of law of evidence in criminal offences;
- (vi) The foundations of a pious Islamic society lie in purity which has roots in sexual chastity and human morality. Therefore, crime prevention has top priority in Islamic society ;
- (vii) Basis of the crime prevention laws and principles of Islamic criminal justice system have been laid down;
- (viii) Islamic social defence structure, community control order and criminal jurisprudence fundamentals have been delineated;
- (ix) The methods of remorse, repentance and forgiveness of Allah have been laid down ;
- (x) Social security of the weaker sections of society and special measures to defend the female folks against exploitation of males have been delineated. Coverage of widows, neglected women, orphans, down-trodden and the have-nots have been indicated. The socially deprived sections have been saved by legal reforms by permanent Quraanic legislation ;
- (xi) The Islamic patterns of dealing with hypocrites and their accomplices as well as the sworn enemies of Islam have been given in details ;
- (xii) The standard of Justice system in Islam, the love and affection of the Holy Prophet S.A.W. and the method of decision making for Islamic state policies have been laid down;
- (xiii) Islamic fellowship and universal brotherhood based on equity with pious dealings in individual actions has been laid down ;
- (xiv) Unity of faith and dependence of actions of Allah have been explained in details. The belief of the idolators, infidels and the people of the Books (Christians and Jews) have been critically evaluated and the wrong doers have been rejected ;
- (xv) The believers as pious and sincere Muslims have been guided as how to maintain their piety and sincerity in Islam. The disbelievers have to face ultimate defeat in Islamic Jehaad (sacred fight in self defence/spread of Islam) against the idolator infidels ;
- (xvi) The standards of individual perfection, straightforwardness, piety and righteousness have been delineated ; and
- (xvii) Heart felt love, top respect and unconditional submission by Muslims to the Holy Prophet S.A.W. has been made compulsory to achieve sincerity in faith.

6. Gist of the Text :

- (A) Verse one lays down the Divine principles of human creation from one Aadam. Modern medical scientists, experts in genetics and medical doctors of highest calibre have not been able to evolve any other method of human creation.
- (B) Verse two lays down strict protective measures of social defence for preservation of rights of the orphans. Four wives have been allowed to save sex starved people from sex corruption, adultery, rape, forced sex etc. Very hard and fast rules of maintaining social justice between two or more wives have been laid down. Since human weakness leads the polygamic male to commit injustices in family life, therefore, Divine prohibition has been imposed to have only one wife. Up to this period the Arabs and other Jewish/Christian chiefs had scores of wives which were reduced to the minimum. 2nd wife is permissible only in particular circumstances and not at all as a rule. Islam prefers perfect adjustment

with one wife for profound family life and community solidarity).

- (C) Verses 3 to 14 lay down payment of compulsory dowry money to wife according to the agreed terms. The basis of civil law, law of inheritance, rural and urban property distribution among the legal heirs, females and males, with special protection to the widows and orphans. Female has inheritances as wife, mother, daughter, sister and near relative of the deceased without any liability but male gets higher share only from father with many liabilities.
- (D) Verses 15 to 18 lay down the principles of the law of evidence in criminal offences, the method of remorse and repentance by offenders and the great Islamic institution of forgiveness even in the serious offences.
- (E) Verses 19 to 28 impose prohibitions to women exploitation and Islamic taboos about marriage with certain relative females.
- (F) Verse 29 totally bans and makes fraud, misappropriation, corruption and extraction of money/property as serious crime. Anyhow, legal business is fully allowed. This is suicidal to misappropriate others' rightful properties. Suicide has also been made totally illegal.
- (G) Verses 30 to 45 stress the males being stout to have proper look after of female spouses. Parents, relatives, have-nots and the needy are compulsory social liabilities fixed for Muslims by Allah Almighty. The purification with proscribed bath after sexual intercourse with wife has been described.
- (H) Verses 46 to 57 condemn Jews and all those who disrespect the Holy Prophet S.A.W. Associating or equating someone with Allah is the greatest sin. The jealous people have been condemned.
- (I) Verses 58 to 90 lay down the cardinal principles of honesty, justice and equity in Islam as the most important human characteristics to establish just society with rule of law. Obedience to Allah, strictly following the Holy Prophet S.A.W. and accepting the authority of those who piously implement laws of Islam with justice good believers is compulsory. There should be no tussle of favor to anyone. Islam dislikes duals of brothers with brothers.
- (J) Verses 92 and 93 lay down Islamic criminal justice laws to settle different types of murders being index, serious and heinous crime. Many options and alternates have been suggested for unintentional, casual, mistaken and wrongful murders. Diyat (restitution), compromise, fasting as purging penalty, forgiveness and pardon with compensation etc have allowed as legal alternate settlements methods.
- (K) Verses 94 to 125 stress to follow the life pattern of the Holy Prophet S.A.W. This is the only best option to achieve success in this temporary life and for reward in permanent life in the Hereafter.
- (L) Verses 126 to 134 again stress to do justice with women and orphans. If there be any tussle between husband and wife there should be reconciliation.
- (M) Verse 135 lays down the magna carta for officials in the justice process. Standards of evidence, eye witnesses and circumstantial evidence and documentary or written proofs have been laid down. Witness is a Divine trust which must be offered as a citizenship duty to an Islamic state with truth and without prejudice, fear or favor.
- (N) Verses 136 to 177 again indicate the cardinal principles of Islamic faith. Only path of Allah is the correct option as He is the highest Power to command what is just.

7. Significant Verses :

- (i) Verse 1 - Humanity created from one person goes to billion folds ;
- (ii) Verse 2 - Never devour orphan's property ;
- (iii) Verse 15 - Adultery is a great sin ;
- (iv) Verse 22 - Women with whom marriage has been prohibited;

- (v) Verse 29 - Corruption, fraud and dishonesty are the great sins ;
 (vi) Verse 36 - Parents and other people should be dealt with great kindness ;
 (vii) Verse 58 - Justice is obligatory and dishonesty is a great sin;
 (viii) Verse 59 - Obey Allah, His Prophet and the pious rulers ;
 (ix) Verse 65 - Complete submission to the Holy Prophet is obligatory ;
 (x) Verse 78 - Every wrong is self-contracted by a person;
 (xi) Verse 79 - Submission to the Holy Prophet S.A.W. is submission to Allah ;
 (xii) Verses 92/93 - Planned murder is a big crime. Murder by mistake can be settled by permissible alternates ;
 (xiii) Verse 128 - Reconciliation is best settlement ;
 (xiv) Verse 103 - Salaat (Muslim prayer) is obligatory for all the believers daily; and
 (xv) Verse 135 - Witnessing with pure truth is every one's duty.

8. Conclusion :

Sura NISAAA' is the most important Chapter of the Holy Quraan. It specifically lays down the principles of civil, criminal, family and social control laws, evidence act, Islamic jurisprudence etc. Muslims are stressed to act upon their faith with sincerity, to get Allah's bounties. Only Islamic justice system provides the real basis of a pure society. This is the aspiration of entire humanity to achieve peaceful coexistence for equitable prosperity which is the basic quality of an Islamic polity based on justice and piety.

SURA V — MAAA-'IDAH (THE EATABLES ARRANGED)

1. Title :

The title of this Sura has been derived from the term MAAA-'IDAH (used in its Verses 112 and 114). It means "eatables and arranged with a delicious varieties of ready made dishes on dining table". The survival of human physique and body limbs solely depends on food containing minimum quantity of different vitamins in reasonable calories. These have been made available by Allah Almighty in different agricultural products from soil and animal fats as well as the air and the sea food. Virgin Mary being greatest lady on earth, used to get off season fresh fruits, ready made delicious breakfast, hot lunch and best dinner in her prayer chamber which astonished even Prophet Zakariya. Virgin Mary got the same before the prophecy of the miraculous birth of Eesa Masiha (Jesus) to her. It was to assure her that this supernatural birth was also a similar bounty of Allah Almighty as this supernatural food comes to her miraculously.

Term Maaa-'idah in Verse 112 and 114 occurs in the context that the so called followers of Jesus demanded from him a spread table full of ready made delicious foods from the heaven (as his mother used to get) or was bestowed to the people of Moses.

The Holy Prophet S.A.W. may have been instructed by Allah to select this term "Maaa-'ida" from Verses 112 and 114 to relate true facts about Jesus and Mary to the Christians. They might have asked such bounty of Allah that the Jews in the past used to get similar supernatural food. Muslims also have the lessons in it with the promised provisions in the Paradise, if they remain pious and steadfast herein.

2. Constitution :

The Sura is composed of 120 Verses which consist of less than three thousand words containing 12464 letters. A portion of Verse 3 contains the last Divine words of the Holy Quraan as the last revelation of Allah to complete the Holy Quraan. This portion of Verse three was pronounced by the Holy Prophet S.A.W. to the biggest congregation of his companions (around 140,000) attending the Hajj in the Divinely selected Arafat Valley to get Divine policy speech at the last leg of his worldly life. It was delivered in his famous Fare Well Sermon in this great Valley of Arafat, which is a Divinely bestowed sandy plain for remorseful supplications of Muslims as basic obligation of annual Hajj. It was his first and Last Hajj (pilgrimage) at

Makkah. This sermon with this Verse is itself the biggest miracle of the Holy Prophet S.A.W. to complete for the mankind the Divinely perfected Quraan. It is so brief and best worded comprehensive human rights charter, par excellent in simple version with logical codal articles instantly delivered 1363 years ago. Without prejudice every one can find these Words far better than confused lengthy Human Rights Charter of the United Nations.

3. Revelation :

It is purely a Madani Sura revealed upon the Holy Prophet S.A.W. by Allah around 7th A.H. But its Verse three was conveyed by the Holy Prophet S.A.W., as stated above, on 9th Zil-Hajj in 10th A.H. containing the Divine words of Quraan's conclusion being its last revelation. These words are "Al-Yauma Akmalto" - "Today I (Allah) have completed the religion for you, completed My (Allah) favour upon you and have chosen for you Islam as the best religion .

This Sura was revealed on different occasions during 6th to 10th A.H. particularly during the agreement of Hoodybiya (Suleh Hoodybiya) in 6th A.H.

4. Context :

The ethico-moral, socio-economic, politico-administrative and religio-cultural system of Islam was discussed in Sura I to IV (Fatiha, Baqara, Aale 'Imraan and Nissaa'). The same needed implementation in letter and spirit within shortest period. This Sura is in that practical context.

The Sura consolidates the laws of the Holy Quraan on agreements, civil laws, criminal justice laws, laws of inheritance and evidence Act of an Islamic state. Treaty of peaceful coexistence with the waring Makkani infidels paved the way to practise the laws of Allah Almighty for the welfare of humanity and equitable peaceful prosperity. The state policies needed consolidation, interpretations and referral explanations which have been duly discussed in this Sura.

Rules and regulations for permissible foods and eatables with prohibition for unlawful and impure items were practically implemented. Standards of body cleanliness and spiritual purity were brought in real practice, as laid down. Achieving Divinely fixed piety and righteousness cannot be achieved without bodily cleanliness on the great model of the Holy Prophet S.A.W. His pattern must be followed with perfect love, utmost affection and sincerest inner obedience to him in all affairs. The wrong, rejected and negated beliefs of Jews and Christians have been explained to persuade them to follow the truthful Islamic religion as the Will of Allah. This Sura also indicates how the Holy Prophet S.A.W. initiated motive education through correspondence with the then rulers of the super powers around the Arab peninsula. This is today a least expensive and most effective method even upto highest university education.

5. Objectives/Message :

The basic objectives of this Sura are to implement the Islamic political cultural system as prescribed for the benefit of humanity. The specific patterns of Divinely selected great Muslim Ommah (the trans-world grand Muslim community) offer to the world a peaceful prosperity. Muslims have their own profound socio-economic and politico-administrative polity assuring just coexistence of humanity. Following are the main objectives and basic messages of this Sura :

- (i) Strict implementation of covenants, contracts and agreements ;
- (ii) Prescription of the permissible eatables and prohibition of certain flesh, blood and drinks for socio-cultural purity ;
- (iii) Hajj obligations and sanctity of Ka'aaba ;
- (iv) Method of bodily purity by bath, ablution and oral purification for perfect cleanliness for prayers ;
- (v) Permission of taking food and marrying ladies of the people of the Books (Jews/Christians) ;
- (vi) Mutiny, rioting and dacoity made index crimes ;

- (vii) Alcohol, gambling, lotto etc. totally prohibited. Superstitions and lucky draws by arrows banned ;
- (viii) Breaking of oath subjected to fines ;
- (ix) Evidence law made more strict witnessing made personal duty and strict justice made Divine obligation for mankind;
- (x) Muslims as rulers, judges, administrators, politicians, traders and state functionaries strictly instructed to fulfil sacred obligations by judicious, pious and righteous behavior ;
- (xi) Obedience to Allah and the Holy Prophet S.A.W. made strictly obligatory ;
- (xii) The patterns of Jews and Christians rejected and Islamic system made more scrupulously judicious ;
- (xiii) Following the Holy Quraan and Sunnah of the Holy Prophet S.A.W. made strictly obligatory in all daily affairs with righteousness, piety and simplicity as basic Muslim patterns ;
- (xiv) Jewish and Christian states of nearby areas came under Islamic fold. So the Christian and Jews re-invited to either embrace Islam or make themselves subject to Muslim rule; and
- (xv) After the great compromise at Hoodybiya (Suleh Hoodybiya) all Arab tribes had to open their folds for Islam all over Arabia. From that era (6th A.H.) Islam became an international religion.

6. Significant Verses :

- (i) Verse 1 - Believers must fulfil their agreements ;
- (ii) Verse 2 - Muslims cannot flout limits fixed by Allah. Cooperate in pious deeds but never associate in misdeeds;
- (iii) Verse 6 - Compulsory bath and compulsory ablution must be fulfilled by each Muslim before prayer ;
- (iv) Verse 7 - Court required witnessing of an event is compulsory for every Muslim to state the facts impartially, if matter is known personally ;
- (v) Verse 15 - The Holy Prophet is the light of Allah (Noor) and the Holy Quraan provides the most truthful knowledge ;
- (vi) Verse 32 - Killing of a man is killing of humanity. Bringing a man to life from being executed is making alive the entire humanity ;
- (vii) Verse 33 - Rioting, terrorism and rebellion are the most serious crimes subject to severest punishment ;
- (viii) Verse 38 - The man or a women who commits theft be punished sternly ;
- (ix) Verse 45 - Retaliation in certain crimes against human body person allowed to close the doors of revenge;
- (x) Verse 56 - People who belong to Hizb-Allah (lovers of Allah) are definitely to succeed ; and
- (xi) Verse 119 - The people who become truthful and pious will be in Paradise fully rejoiced from Allah and Allah will be very pleased with them.

8. Conclusion :

Sura Maa'-ida presents the practical shape of Nizam-e-Muustafa, (the Islamic system practised by the Holy Prophet S.A.W.) The civil and criminal laws, commercial deals, evidence act and social life patterns of an Islamic society have been discussed in details. Principles of a pious, righteous, just, peaceful, dynamic and equitably prosperous Islamic culture for benefit of entire humanity have been laid down.

SURA VI — AL-AN'AAM (THE CATTLE)

1. Title :

The title of this Sura has been derived from the Quraanic term "AL-AN'AAM" repeated in Verses 136, 138 and 139. "In-'aam" means cattle, animals or four legged gregarious vertebrates. Animals are very important for human life. Man depends on their milk, flesh, bones, skin, dung (as fuel and manure), urine (for crops), their hooves, limbs, horns etc.

Man has been assigning many superstitions with animals, right from bad omen British/American black cat to Arabian camel of good luck. Hindus since thousands of years worship cow and Jews also coined a calf. In social science studies there are the dog, cat, cow, camel, buffalo and yak cultures of human societies which show that animals have close impacts on human beings.

In this Sura the use of animals by pagans, idolators and polytheists as idol gods as good/bad omen bearers have been rejected. Human beings cannot be affected by animals.

2. Constitution :

165 Verses of this Sura consist of 3100 words which contain 12935 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed in Makkah by Allah upon the Holy Prophet S.A.W. in the 12th year of Prophethood.

4. Context :

The life of the Holy Prophet Muhammad S.A.W. was very critical when he had been preaching Islam since 610 A.D. to 623 A.D. He rejected the pagan faith of worshipping hand made idols of superstitious animals and evil forces.

The history of mankind is full of fears, natural disasters, dreadful calamities, wars, epidemics and killer diseases. Therefore, many superstitions, good and bad luck omens, pagan worships and unintelligible beliefs were rejected in this Sura.

5. Objectives/Message :

The basic objectives of this Sura, as its great messages to humanity from Allah Almighty are :-

- (i) Maintain pure faith in Oneness of Allah as the real truth to achieve righteousness, rejecting superstitious beliefs ;
- (ii) Negation of wrong beliefs of Makkah infidels, pagans and idolators. Corrective measures for untruthful and corrupt faith of Jews and Christians of Madina ;
- (iii) Projection of Unity of Allah rejecting Christian Trinity and the wrong faith of associating or equating any one with Allah ;
- (iv) Total submission to Allah with worship. only to Him on the footprints of Arch Prophet Ibraheem, the most straightforward ;
- (v) Perfect belief in the hereafter, the Last Day, the Day of Resurrection and the Day of Judgement ;
- (vi) Rejection of the concept that life of this world is final stressing that there is life after death in eternity ;
- (vii) Total rejection of Jahilia (ignorance) period superstitions about effects of animals on human beings ;
- (viii) Sincere learning of real Islam with practice to establish universal Islamic culture ;
- (ix) Sincere submission to the Holy Prophet S.A.W. with heart felt love and sincere adoption of only his patterns ;
- (x) Complete patience, perseverance and truthful preaching of Islam is so dear to Allah ; and
- (xi) No compromise is possible by Muslims with the Christian and Jewish disbelievers as well as the idolators, associators and equators.

6. Significant Verses :

- (i) Verse 50 - The blind cannot be equal to a person of full vision (how falsehood can be equal to truth).
- (ii) Verses 54/55 - Those who commit wrongs and then remorsefully repent must be forgiven in Divine clemency.
- (iii) Verses 72/80 - Keep fast the prayer as straightforward Muslim ;
- (iv) Verse 91 - Quraan is the Zikrull-lil-Aalameen (guidance for the entire mankind in the universe).
- (v) Verse 153 - Never possess orphan's property, never be unjust and always keep the scales in balance. Always be just and fulfil covenants.
- (vi) Verses 160 to 166 - Never be sectarian. One pious deed gets ten credits but one misdeed gets one discredit from Allah. Be on the straight path. Keep your prayer perfect. No one bears others' burden. Every man should keep himself best as best devotee of Allah on earth.

7. Conclusion :

Sura AL-AN-'AAM rejects idolation, paganism, superstitions and wrong faiths. The Muushriks (associators/equators) will be punished for their wrong belief. Oneness of Allah and purity of faith in Islam is the only true path.

SURA VII — AL-AA'-RAAF (THE HEIGHTS)**1. Title :**

The title of this Sura has been derived from its Verses 46 and 48 where the term "AA'-RAAF" describes the people who will be seated on a high place between the Paradise and the hell in the world Hereafter. The title of the Sura has been selected by the Holy Prophet S.A.W. with the guidance of Allah. The Aa'-raaf people will impart the crucial service of overlooking the bounties being enjoyed by the people who are rewarded Paradise for their righteousness and pious deeds. They will also observe the punishment being received by the people in the hell for their misdeeds and sins to convey it to people in Paradise.

Some of the religious scholars say that Aa'-raaf will be bestowed upon the selected righteous people as a great Divine duty. But some say that this is a high place of waiting for the deficient to be transferred to the Paradise after getting punishment for misdeeds in case of sinful believers. They will be placed so high just to be again dreadful to see the punishment of the guilty people. They will be very much inspired to go to the Paradise with the immediate effect observing so comfortable bounties.

2. Constitution

206 Verses of this Sura consist of 3325 words which contain 14010 letters.

3. Revelation :

This is purely a Makki Sura revealed after Sura Al-An-'aam in the same sequence dealing with the similar subjects.

4. Context :

Sura I (The Opening) is exclusively for Muslims, Sura II (The Cow) is for the Jews, Sura III (Children of Imraan) is for the Christians, Sura IV (The Women) is for the establishing of Islamic System, Sura V (Table Spread) is for both the Christians and Jews of Madina and Sura VI (Cattle) is mainly for the idolators and pagans of Makkah. But Sura AL-AA'-RAAF is simultaneously for all. As such the entire mankind has to adopt the Islamic sanity to achieve peaceful society as directed by Allah Almighty for peaceful coexistence of humanity. Therefore, the context of this Sura is purely to achieve these profound traits in a universal Islamic society.

5. Objectives/Message :

- (i) The patience, the perseverance and repeated persuasion of the Holy Prophet, S.A.W. to motivate the pagans, idolators, infidels and disbelievers as well as the people of the Book, the Christians, and the Jews, to accept the truth of Islam has been described in this Sura;
- (ii) How to follow the life pattern of the Holy Prophet S. A. W. for reward in the Hereafter has been given in details. A severe penalty and deterrent punishment in the Hereafter will be awarded to those who do not believe the Last Ideal of Allah, the Holy Prophet Muhammad S.A.W.
- (iii) The Unity and Oneness of Allah is the basic belief in all circumstances for all the Muslims even in most difficult circumstances. Worship of Allah Almighty is the only perfect reality ;
- (iv) The tough opposition, enmity, negative reaction and dangerous situations should not shatter the mission of the Prophet S.A.W. His followers stick to the truth of Islam in all affairs;
- (v) The opposition and negativism against the Holy Prophet S.A.W. will lead the disbelievers, hypocrites and renegades to catastrophic and ;
- (vi) The Jewish people have specially been exposed for their hypocrisy, secret plans to leg down Islam and defeat the forces of truthfulness. It has assured that justice and piety will ultimately prevail;
- (vii) The persecution of just people, criminal exploitation, idolatry, equating objects with Allah and opposition to the truth of Islam will lead the rejectors to dangerous ends ;
- (viii) The preachers of Islam should continue the spread of truthfulness with patience, self-control and spirit of forgiveness to lead the Islamic mission to real success ; and
- (ix) The methods of all the Prophets for the inculcation of humanity are discussed in detail with their specific methods of preaching.

Special mention has been made for Prophet Moosa (Moses) A.S. How King Pharaoh brought his magicians and chiefs to defeat Moses in his Divine preachings has been described. But as a great miracle from Allah all the Israelites were got freed from slavery of Pharaoh and he with his armed might was ultimately drowned. It was exclusively due to the hard work, missionary zeal and perseverance of Prophet Moses. But unfortunately the Jews again adopted the same method of taking usury and compound interest. They also started to worship the calf adopting lust and evil designs. The misdeeds of the Jewish community against their own benefactor Moses A.S. are related to the Holy Prophet Muhammad S.A.W. who was also disowned, rather jealously opposed, by the Makki infidels and the Jews of Madina.

The Sura fully describes the Holy Prophet's S.A.W. method of teaching the Unity of Allah, establishment of justice, negation of cruelty, rejection of idolatry and exposition of disbelievers. The Holy Prophet Muhammad S.A.W. is the last ideal of Allah on whom the Prophethood has its finality and the system of Islam has its full maturity for perfect service of humanity. This is the boon of Allah to mankind up to Eternity.

6. Gist of the Text :

- (A) Verses 1 to 25 instruct the Muslims, Christians, Jews and pagans to have a lesson from the Book and from the creation of Aadam as Allah's best select. The story of Aadam and Iblis (Satan) has been related. It has been pointed out that the prescriptions of Allah must be followed in letter and spirit to remain on the straight path and to achieve righteousness.
- (B) Verses 26 to 47 instruct the human beings to shun arrogance and rebellion because both lead to jealousy. Human beings have been warned against defaults and excesses which are punishable in the Hereafter.
- (C) Verses 48 to 72 relate how the people of Aa'raaf (heights between Paradise and the hell) will recognize people from the marks on the faces being the rewarded ones and the

punished ones to keep them separated. Penalties to the wrong-doers and the privileges with blissfulness to the righteous have been promised in the Hereafter.

- (D) Verses 73 to 99 give the details of how Prophet Noah, Hood, Saleh, Luut and Shu-'aib had been sincerely preaching the system of Allah Almighty but they were rejected. Truthful people will be successful with the grace of Allah and the evil doers will be humbled. Allah has His own plans to make the straightforward and righteous people bounteous.
- (E) Verses 100 to 171 expose how the followers of Moses left the straight path and became arrogant to the revelations of Allah S.W.T. Their opposition to the code of life provided by Allah in the Torah through the modality of Prophet Moses was totally violated by them. Jewish people also transgressed the prohibitions of Allah. Therefore, they were condemned to remain strayed in different countries and they were brought in yoke by Pharaoh without any reason.
- (F) Verses 172 to 206 state that Aadam was bestowed the progeny to billion folds (as it will be the 6.5 billion 1998). Many of the children of Aadam do believe Allah and his Last Ideal Holy Prophet Muhammad S.A.W. and properly follow the Holy Quraan as Muslims. But those who do not believe they negate the truthfulness and follow the wrong way. They should realize what is the right, what is the truth and what is the straight path of Allah. If they do so they follow the message of Allah as is in the Holy Quraan. Only they follow the footprints of the Holy Prophet Muhammad S.A.W. who is the real saviour of humanity on the Day of Judgement.

7. Significant Verses :

- (i) Verses 8/9 - deeds and misdeeds are to be weighted for reward/award without slightest injustice on the Day of Judgement.
- (ii) Verse 33 - All acts of ludeness and impurity are totally banned.
- (iii) Verse 55 - Allah rejects those who cross His limits and commit rioting.
- (iv) Verse 56 - Allah's blessings are always with the kind people.
- (v) Verse 153 - Allah forgives those who make repentance.
- (vi) Verse 158 - The Holy Prophet S.A.W. is the Prophet of Allah for all humanity up to Eternity as a Messenger quite Omni (unlettered from any human prejudicial knowledge).
- (vii) Verse 199 - Accept others apologies and forgive.
- (viii) Verse 204 - Listen to the recitation of the Quraan very carefully.

8. Conclusion :

Sura Al-Aa'-raaf invites all the human beings, specially the Christians and the Jews to come to the fold of Islam to achieve righteousness and piety for the welfare of humanity. Muslims must follow their true faith to make the Islamic system a model of peaceful coexistence of mankind.

SURA VIII — AL-ANFALL (SPOILS OF WAR)

1. Title :

The title of the Sura has been derived from its Verse 1 word 3 and word 5. It means the spoils of war, the remnants of battle or the left-outs in a fight of two armies. The word "Anfall" is the plural of the word "Nafal" which means extra Islamic worship. Nafal prayer is offered over and above the obligatory worship. The war left outs are never taken for granted as rightful entitlements of warriors participating in Islamic war (Jehaad). These confiscated articles can be used by the Muslim state for the aid of the have-nots. Allah Almighty has not used the word "Ghanam" which means the adults, armed men and women made slaves or the articles, properties, valuables, cash, food items and other items snatched from the defeated people as a right of the conquerors. So, Islam has prohibited Mujahideen (the holy warriors) to take such

war left-outs without state permission. Therefore, Muslims fight to spread truth and justice but not for their self reputation loot, plunder or snatching the booty as left outs.

There were no rules and regulations anywhere in the world about valuable left-outs, arrested men and women or confiscated properties of the defeated army. Therefore, this is the first Code in the entire human history laying down permanent rules for it from Allah Almighty for all the times. This Sura legislates that the left-outs of war are the property of Allah and His Prophet S.A.W. (Muslim state) to be deposited with the state ware-house. The same may be distributed either back on the defeated people or on the poorer sections of the Muslim State.

Muslims do not snatch the properties or persons and ladies of the defeated nations except those engaged in the battlefields.

2. Constitution :

Its 75 Verses consist of 1075 words which contain 5080 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed in Madina Tyyiba just after the famous War of Badr in 2nd Hijra (623 A.D.).

4. Context :

Human beings become unbridled with war hysteria to achieve victory by treachery against their opponents. The human psychology in war victory is that after defeating opponents the conquerors turn tyrants. 5500 years old Moinjodaro in Pakistan, 4000 years old Babylonia in Iraq, 2200 years old Harappa in Pakistan and in 1942 Hiroshima/Nagasaki were smashed in such fury of war. During the first and 2nd World War 50 Million men, women and children were killed. During the last twenty years some two million innocent Afghans and Bosnian Muslims were killed without any fault from them.

Properties of peaceful citizens along with the innocent children and young ladies were made booties. It is only Islam which gave in 623 A.D. the judicious rules of war, with this strict ordinance through Sura Anfall.

The supernatural help of Allah is assured to the sincere believers fighting for just cause. Whoso submits to the Holy Prophet Muhammad S.A.W. and follows Islamic truthfulness will get spiritual, moral and supernatural assistance from Allah in his/her affairs. It is the destiny from Allah Almighty that Islam is the religion of the entire humanity for peaceful coexistence.

Great victory in the war of Badr is itself a great miracle of the Holy Prophet S.A.W. Sura Anfall authenticates so many miracles of the Holy Prophet S.A.W. In this Sura it has been openly stated by Allah that the pebbles thrown by Muhammad S.A.W. were actually thrown by Allah and Divinely made missiles against the unjust people. The hand of the Holy Prophet S.A.W. is the Hand of Allah.

5. Objectives/Message :

Pagans of Makkah imposed a war on the Holy Prophet S.A.W. which took place in the valley of Badr. The infidels planned to smash the Muslim state of Madina in its infancy to maintain their supremacy on trade routes, commercial links and economic interests. They wanted to finish Islam in its independent progress in infancy at Madina which they could not check in Makkah in its initial stages.

The sincere preaching of Islam and its truthful system received good response in and around Madina. It was due to the utmost piety, personal integrity, best sagacity, profound honesty, intelligible faith and Divinely guided intellectual calibre of the Holy Prophet S.A.W. It was rejected by the pagans of Makkah for their tough enmity. The sincere Muslims with their full love and obedience to the Holy Prophet S.A.W. left everything in Makkah and migrated to Madina where they became highly motivated to defend Islam with sincerity. Therefore, they participated in this war at full risks of their lives.

The supernatural method of Divine help is also clearly stated in this Sura with the highest

honor to the Holy Prophet S.A.W. that all his actions are the actions of Allah. As such his obedience is the obedience of Allah. This Sura also teaches a lesson to the Muslims that unity, faith and discipline are the most defensive weapons against enemy offensive.

No arsenal, no nuclear technology or atomic war or missiles can be successful before the steadfastness of the truthful believers. Muslims should adopt straight path to maintain their righteousness with sincerity. The war psychology of Islam based on faith in Allah leads to success in all battlefields if followed by profound strategy with patience and integrity.

It was only the true faith, dependence on Divine help and straightforwardness that a great victory was achieved by early Muslims on 17th of Ramadhan-ul-Mubarak in 2nd Hijra in the Valley of Badr

Muslims today are at cross roads and in dol-drums confused to depend upon the non-believers. It is due to their going against the commands of Allah and instructions of the Holy Prophet S.A.W. They are at daggers drawn between themselves in many Muslim countries. There are lot of internal blood baths, terrorism and sabotage, prevailing in the Muslim countries. Brothers are being killed by brothers. As secretive exploitation of Muslims by non-Muslims the Muslims today are divided in many sects and are facing regional prejudices in ethnic duals.

The lesson of Badr is the Unity, Faith and Discipline. Integrity, sincerity and obedience to Allah and His Holy Prophet S.A.W. lead to the straight path. Only this mission of Islam can save humanity with peaceful coexistence without exploitation. Muslim Ommah (grand transworld community) is the Khyrull Ommam (best amongst humanity) with just society.

6. Gist of the Text :

- (A) Verses 1 to 10 give brief account of the battle of Badr in which the war left outs as booty of the battle were to be divided. Allah has made such war left outs a state property for the benefit of the poor Muslim community. Muslims fight to defend faith for Allah's pleasure (and not for grabbing properties of defeated enemy). Allah has also described how victory can be achieved with faithfulness and sincerity of belief with help from Allah Who is sufficient to Muslims.
- (B) Verses 11 to 19 state how the men of faith (who obey) get the bounty from Rubb (Sustainer) as He conferred to the Muslims in the war of Badr.
- (C) Verses 20 to 37 assure that complete faith in Allah and dependence on Him, obedience of the Holy Prophet S.A.W. and intelligent defence plan can achieve real success against toughest forces of evil. The satanic forces only bank upon their treachery, evil designs and weapons but if the straightforward, faithful and sincere Muslims remain steadfast they can defeat enemies of Islam on all fronts.
- (D) Verses 38 to 69 state that the perseverance shown by Muslims in the war of Badr is a model for the entire Muslim Ommah during the uneven situations. The Sura assures the believers that steadfastness, virtue, piety, righteousness, commitment and valor can conquer any heavily equipped force. It is the obedience to Allah and following His straight path as well as courageous efforts to establish Holy Prophet's S.A.W. just order which can lead to success. All time preparedness and best defensive strategies with good energies should be deployed by righteous Muslims for their defence and then they should bank upon the support of Allah as only His help will be sufficient. No super power can be of any threat to them if they are united and mutually defensive.
- (E) Verses 70 to 75 assure that it is the truthfulness, justice, equity and piety with full faith in Allah Almighty which can defend Muslims from any super power. It is the bounty of Allah which can lead to victory if Muslims adopt sincerity and remain steadfast as prescribed by the Holy Prophet. S.A.W. (Sallallahu Alyhe Wassallam).

7. Significant Verses :

- (i) Verse 1

- Be pious to Allah. Reform yourself. Always obey Allah and His Prophet.

- (ii) Verses 2 to 4 - The best of faith is the fear of Allah. The belief of those increases in credit who remain patient. They best establish their Salaat (Muslim Prayer) and spend for the needy. They are exalted with Allah S.W.T.
- (iii) Verse 17 - Any action of the Holy Prophet S.A.W. is the action of Allah S.W.T. (Suubhanahoo Wa Ta-'aala).
- (iv) Verse 49 - Always trust Allah S.W.T.
- (v) Verse 58 - Allah S.W.T. rejects the dishonest.
- (vi) Verse 74 and 75 - Believing, migrating and fighting for truth in the way of Allah S.W.T. is a most praiseworthy act.

8. Conclusion :

Sura Anfall clarifies that Jehaad (fight for truth) is not the war of booty. It gives most important Divine assurance to the Muslim Ommah that if they are united, steadfast, faithful, and disciplined no power on earth can pose them any threat. They should have total commitment to the Islamic system as prescribed by Allah and practised by the Holy Prophet Muhammad S.A.W. They are assured to be successful and prosperous in all circumstances.

[Here ends Division Two of the Holy Quraan].

DIVISION (MANZIL) THREE OF THE HOLY QURAAN

Division three of the Holy Quraan consists on seven Suras from Suras IX to XV. The basic them in this division is to lay a stress on the Muslim Ommah to exclusively evolve their own socio-cultural and politico-economic patterns delinked from the pagan, idolatrous and secular system with self-reliance and complete independence with best Islamic unity.

SURA IX — UT-TAUBA (REPENTANCE)

1. Title :

The title of this Sura has been derived from the word "TUUB-TUUM" which means you make repentance as in Verse 3. Word "TAABOO (they repent) may be its derivative as in Verse 5. Its alternate name has been drawn from first word of its first Verse as "BURA - 'UT" (without liability). It means that the Holy Prophet S.A.W. has no liability for agreements with the disbelievers because they continuously violated the same. There is no Tasmia (Bismillah) at the start of this Sura because Allah Almighty instructed the Holy Prophet S.A.W. not to use it. The repentance of the infidels is not acceptable due to their own follies of breaking repentances repeatedly. The withdrawal of understanding with the pagans by the Holy Prophet S.A.W. in the Hudybia compromise was demanded by infidels. Therefore, no clemency or any immunity order of Allah was left for them. Allah is Most Affectionate and Most Merciful to the believers.

2. Constitution :

129 Verses of this Sura consist of 4075 words which contain 10488 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed to the Holy Prophet S.A.W. at Madina after a most peaceful and gracious conquest of Makkah in 8th Hijra (around 629 A.D.) without a drop of blood. Many parts of this Sura were announced by Hadhrut Ali R.A. (Raadhi Allah-ho Unho—Allah is pleased with him). It was widely made public to all the Arabs—Muslims and non-Muslims attending Hajj sermon in the Arfaat valley before Hajj supplications near Makkah on behalf of the Holy Prophet S.A.W. in 9th Hijra. This Hajj was lead by Hadhrut Abo-Bakr R.A. on behalf of the Holy Prophet S.A.W. who proceeded in person as Commander-in-Chief of the biggest Muslim army in the war of Tabuuk.

4. Context :

The hypocrites of Madina joined hands with the Christian Arabs and Jews having secret deals with the pagans and infidels of Arabia. Byzantine super power in Syria and Palestine, as

well as the Iraqi monarchy of Romans also joined hands against Islam. After the conquest of Makkah, without a drop of blood, all the people of Makkah came under the umbrella of Islam. Some adjacent tribal chiefs still were raging with enmity against Islam. In these circumstances the Holy Prophet had to depute 3000 Mujahideen (army of faithfuls) against the Byzantine Emperor to fight 200,000 strong Roman Army on the borders of Arabia. After the martyrdom of three companions of the Holy Prophet S.A.W. great warrior Khalid Ibn-e-Waleed R.A. became the Commander-in-Chief of the Muslims and won the war against 65 times bigger army. After this great victory, the most equipped armed forces of the then super powers, Iraq and Iran were also alerted against Islam. Therefore, in 9th Hijra 300,000 strong army was collected by these super powers at Tabuuk which was faced by the Holy Prophet S.A.W. himself with a strong armed force of 30,000 Muslim faithfuls. The Muslims were ten times less in number but due to their steadfast struggle they were victorious. Long journey of the Holy Prophet S.A.W. in very hot season to Tabuuk made the Romans dreadful of such great spirit of Muslims. Their ten times well-equipped armed might scattered away to save themselves from the so sincere companion warriors of the Holy Prophet S.A.W. being so steadfast. This great conquest of Islam without a fight brought all parts of Arab peninsula under the banner of Islam. All the Christian, pagan and Jewish forces against Islam thus received a final blow. In view of their such serious infringements all the agreements with them were cancelled with no more clemency to them.

5. Objectives/Message :

Passing through the burning sands the Muslims achieved a great victory at Tabuuk against two super powers aided by Arab enemies of the Holy Prophet S.A.W. It has no parallels in history achieving such a great victory without a drop of blood. It ushered-in international spread of Islam. In view of the Divine condemnation of the infidels, Madina's hypocrites and Christian Jewish conspirators, all around Arab, the Holy Prophet S.A.W. was directed by Allah to pronounce that there is no immunity nor any acceptance of enemy REPENTANCE. All agreements with pagans, Jews and Christians were cancelled for their continued enmity with Islam. The treacherous breakage of treaties and violation of agreements, so repeatedly, by enemies should not be further tolerated by the Muslims. The doors of repentance are only opened for the Muslims. The people who do not come in the folds of Islam and they plunge into war must be defeated in their evil designs which break treaties. People who oppose Muslims cannot get clemency as a State policy of an Islamic country.

6. Gist of the Text :

- (A) Verses 1 to 42 declare that the agreements with the treacherous disbelievers, non-Muslims, infidels and pagans are nullified. No idolator, pagan or non-Muslim can be allowed to come for Hajj. None of them can worship in any way in the Holy Mosque and their entry to Ka'aaba (and also in Masjid-e-Nabwi) is banned for ever.
- (B) Those having heavenly book, must understand the truthfulness of the Holy Quraan and they must act upon the directions of the Holy Prophet S.A.W. Muslims must strive to defeat the enemies of Islamic faith and fight against evil in the way of Allah. Otherwise Allah may raise another people who will uphold the truth of Islam.
- (C) Verses 43 to 99 declare that the under-hand methods and evil designs of the hypocrites cannot succeed. Their punishment is certain. The honest people will get the blessings of Allah if they fight against the hypocrites. There should be no jealousy by the Muslims against the Muslims. This is what Allah prescribes for their progress.
- (D) Verses 100 to 129 say that the Muslims who are sincere and sacrifice their lives and properties in the way of Allah will get forgiveness for their wrongs if they repent. The people who indulge in mischief, and commit disunity among the believers would not get forgiveness from Allah. Allah will confer His Mercy on those who repent.

7. Significant Verses :

- (i) Verses 5/11 - Clemency is only for those who repent, establish Salaat (Prayer) and

- pay Zakaat (compulsory dues).
- (ii) Verse 24 - Whoso refuses to participate in Jehaad (holy war to defend Islam) has retracted from the real faith.
- (iii) Verse 28 - Those who equate someone with Allah (muushrik idolators) cannot enter the Ka'aaba (and also the Masjid-e-Nabwi).
- (iv) Verse 33 - Allah S.W.T. will ultimately prevail the religion of Islam in the universe.
- (v) Verse 40 - Whoso helps the Holy Prophet S.A.W. (Abo Bakr R.A. and others) are so dear to Allah.

8. Conclusion :

This Sura basically instructs the Muslim Ommah (grand transworld community) to consolidate their own ranks and never bother about the idolators, disbelievers and hypocrites. Christians and Jews have their association with Muslims as people of the Book but there is no compromise with any one as for the security of Islamic State is concerned. No agreement or covenant is valid with any non-Muslim if they compromise against the security of Muslim state

SURA X — YUNUS

1. Title :

The title of the Sura is just a Divine homage to the Prophet of Allah Hadhrut Yunus, A.S. (Aly-hiss Salam—Allah salutation on him).

2. Constitution :

The Sura consists of 109 Verses which have 1832 words and 9099 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed by Allah upon the Holy Prophet S.A.W. at Makkah.

4. Context :

Allah is the Sustainer of all the universe. Therefore, Muslims must follow His laws. The present life is transitory. Real life is in the Hereafter where the pious ones will be rewarded but sinners will be discredited. The preachings of the Holy Prophet S.A.W. must be accepted as the Divine standards and his life pattern is the only best model to remain straightforward.

5. Objectives/Message :

The Sura basically preaches Tauheed (Oneness) of Allah Almighty. The life in the Hereafter is the life in Eternity which shall be a reward from Allah Almighty for those who adopt piety. Those who mislead the Muslims and, those who are themselves corrupt will be punished on the Day of Judgement. Those who are right and humble, are the people of Heaven. The Finality of the prophethood in Hadhrut Muhammad duur Rasool Allah Sallallahoo Alyhe Wassallam is, to be accepted and, the Muslims should keep the right path for their eternal life in the Hereafter. Ignorance, immorality and criminality are the human diseases which must be cured by self-perfection as guided by the Holy Prophet S.A.W. and provided in the Holy Quraan.

6. Gist of the Text :

- (A) Verses 1 to 40 state that the Holy Quraan is the book of Wisdom. All the universe including the sun and the moon as well as the earth and the heavens have consistence. This phenomena is set as such by Allah. Human beings must learn the lesson of consistency and faithfulness. Allah confers His bounties upon the men who are faithful. The people who do not follow truthfulness are ungrateful to His bounties. Therefore, they do not follow the Message of Allah ordained in the Holy Book (Quraan).
- (B) Verses 41 to 92 state that all the things have been created by Allah. Therefore, all of them will return to Him. Allah is Truth and Truth is Allah. The thankless people worship readymade idols. They thus equate false symbols as associates of Allah. They should seek Divine bliss. The disbelievers remain boastful like Pharaoh who was arrogant. The

repentance of Pharaoh, when his end reached, was too late. People should be straightforward and believe the truth to get the Divine reward.

- (C) Verses 93 to 109 state that the people who do not repent will fail. But the people of Prophet Yunus being believers repented and Allah saved them by His wonderful grace. Allah has the full power to forgive the believers. The truth comes from Allah so every one should follow the truth patiently. Allah is the best Judge to reward His bounties.

7. Conclusion :

Sura Yunus basically preaches straightforward life, piousness and perfect belief on Allah S.W.T. and His Prophet S.A.W.

The best human deed so dear to Allah is remorsefulness for sinful deeds and seeking repentance from His Graciousness.

SURA XI — HOOD

1. Title :

The title of this Sura has been derived from Verse 50 and 53 where mention of Prophet Hood has been incorporated.

2. Constitution :

The Sura has 123 Verses containing 1600 words with 9567 letters.

3. Revelation :

It is a Makki revelation

4. Context :

The context of this Sura is how Allah blesses those who seek His mercy. The basic qualifications for getting mercy of Allah is in imparting justice, fair play and righteousness. Allah is powerful to punish those who commit sin and who do not accept His grace. They will be penalized here and in the Hereafter.

5. Objectives/Message :

Allah can punish the wrong doers as a whole in this world. Examples of nations have been quoted who were punished for their misdeeds, sins and disbelief. The Prophets of Allah preached justice, truthfulness and piety but they did not act accordingly. Only straightforward and righteous are dearer to Allah. Therefore, only believers and those who accept Islam as a true religion are nearer and dearer to Allah.

6. Gist of the Text :

- (A) In Verses 1 to 49 Allah authenticates that the revelations of the Holy Quraan are true from Allah. The status of the Holy Prophet S.A.W. is not only of a warner but he is also a Divine blessing conveying glad tidings. The Holy Quraan provides a great guidance from Allah conveyed by the Holy Prophet Muhammad S.A.W. who is real Bliss of Allah. Man is impatient but Allah is Patient. Man shows ingratitude but Allah is all Benevolent. Man loves falsehood and is perished for sinfulness but Allah is Truth and also has greatness of forgiveness. The Prophet Noah A.S. was not selfish, but was humble and true in his preachings. His followers did not act upon his guidance. They ridiculed and rejected him. Allah directed him to build an Ark. His rebellious followers were destroyed in a great flood but he was saved in the Ark for his righteousness. Prophet Noah brought peace and blessings but all those who did not accept him were perished by Allah.

- (B) Verses 50 to 95 say that Prophet Hood A.S. preached his nation (Aad) not to worship idols as it is totally false. Similarly Prophet Saleh A.S. taught his nation 'Samood not to disrespect the symbols of Allah. But they indulged in ungratefulness to bounties of Allah Almighty. Allah perished and blotted them out for their such disbelief and misdeeds.

The people of Prophet Luut A.S. were warned again and again for their blunderous excesses. So they were destroyed for their rejection of the truth. They went deeper and

deeper into sin and were demoulded into condemned apes as a penalty of Allah.

The followers of Prophet Shu'aib were the people of Madyan who were warned against fraud and mischief. They did not accept his preachings, they were destroyed.

- (C) Verses 96 to 123 repeat the fate of Pharaoh as an arrogant man. He committed serious crimes against the forces of truth and misled his people. Therefore, he was brought to ruination. Allah is Just and likes justice. It is He to penalize for all the sins. Therefore, human beings should remain pious and shun all wrongs. Only Allah should be worshipped whole heartedly.

7. Significant Verses :

(i) Verse 41 - (Bismillah....Raheem). Every propelling object flows with the bounty of Allah S.W.T.

(ii) Verse 85 - Be just to maintain weights and measures very proper.

8. Conclusion :

Righteous, pious and straightforward life is the real Will of Allah which can get a person rewarded herein and in the Hereafter.

SURA XII — YUSUF (JOSEPH)

1. Title :

The Sura is a true story of the great Prophet Yusuf A.S. (Joseph). The name of this Prophet occurs in Verses 4, 7, 8 and in different other Verses of the entire revelation. Since this Sura describes the great history of the Prophet Yusuf A.S., therefore, his name was selected for the title.

2. Constitution :

The Sura has 111 Verses which consist of 1600 words containing 7166 letters.

3. Revelation :

The Sura was revealed upon the Holy Prophet S.A.W. by Allah S.A.W. at Makkah-tull-Mukarramah.

4. Context :

This Sura basically is concerned with criminal justice system to establish a just society in all ages under a just polity.

The true story of Prophet Yusuf A.S. has been mentioned in this Sura just to give the Holy Prophet of Islam S.A.W. the assurance that he will also be exalted for his sincere preaching of Islam. Prophet Muhammad S.A.W. received similar harsh treatment from his own kith and kins as Prophet Yusuf A.S. suffered at the hands of his brothers. Many of the companions of the Holy Prophet S.A.W. were killed in Makkah. Therefore, he had to migrate to Madina due to the cruelties of the Makkah infidels, while they were his Quraish brothers. They imposed wars on him in Madina and it was similar type of enmity as was maintained by the brothers of Yusuf A.S. The Holy Prophet S.A.W. also forgave all the excesses committed against him by all the Makkah infidels on the peaceful conquest of Makkah. This tolerance of the Holy Prophet S.A.W. was highly commended.

5. Objectives/Message :

The Sura presents a true story about the 12 sons of Prophet Yaqoob (Jacob) A.S. One of them was Yusuf, very beautiful and very dear to him. Allah exalted him for His patience, truthfulness and piety. His father underwent a prolonged grief with miseries in the hands of 10 elder sons who had thrown Yusuf in a well. He was sold to a chief of the Egyptian court where he ultimately landed in the prison as an innocent person on false charges. Allah rewarded Yusuf to be the ruler of Egypt for his patience and preaching the Oneness of Allah in the prison. He forgave his brothers and gave the top respect to his father bringing this Arab family of Palestine to the rule of Egypt for a long period.

The Sura has the following Divine Messages for mankind :

- (i) Pious people have true dreams and can interpret others' dreams truthful. Jealousy is the worst psychic disease of man which is totally disliked by Allah S.W.T. ;
- (ii) Love begets love and unites the mankind. Hate develops enmity of brother with brother and divides humanity ;
- (iii) Sincere love to Allah protects a person even in very adverse situations ;
- (iv) Allegations against an innocent person result in ultimate disgrace of a false accuser ;
- (v) Criminal justice has its foundations in rightful, pure and true evidence about any occurrence ;
- (vi) Circumstantial evidence (like shirt/articles) is a Quraanic institution of scientific proof of mishaps ;
- (vii) Detention of an accused as suspect is allowed for a brief period as under trial in prison;
- (viii) Interpretation of dreams is Islamic concept if done by pious people who have spiritual calibre ;
- (ix) Prison can save innocent people arrested as suspects on false charges but it should safeguard the human rights of confined persons ;
- (x) Prison must play a role of social re-education of offenders for their best reformation in imprisonment ;
- (xi) The probationary pre-release of a good conduct convicted offender on parole is very old Islamic community based prison alternate ;
- (xii) Forgiveness leads to reconciliation as a Divine approved institution of human integration. It establishes peaceful family for good community and social solidarity ;
- (xiii) An ex-convict is a useful citizen after release and is entitled to all rights ;
- (xiv) The history of mankind, if preserved in true perspective, can be most useful for human guidance and future plans to achieve peaceful coexistence ; and
- (xv) The cunning human psyche of self-projection without piety and righteousness has no value before Allah Almighty.

6. Gist of the Text :

- (A) Verses 1 to 42 explain the truth of this story. It is a best lesson for those who want to learn wisdom. Yusuf A.S. was a great Prophet of Allah maltreated and abandoned by his step brothers during his childhood. But the Azeez-e-Misr adopted him. His wife fell in love with beautiful Yusuf who resisted with chastity and purity. This lady wanted to disgrace him so he was imprisoned on his own supplication to Allah to protect his piety in the prison. He interpreted dreams of prison inmates in a very true manner. He sincerely preached the Oneness of Allah to the prisoners as inmate teacher. From his such lessons on Tauheed (Oneness of Allah) it seems that he was conferred Prophethood by Allah in prison with revelations during detention. The Holy Quraan provides for the Muslim Ommah, that prison is a social re-education and correction house. One convicted prisoner was released on probation and then paroled parolee as a result of interpretation of his dream by Yusuf A.S. being a good conduct convict getting corrected in prison. This ex-convict became the chief butler to the king which shows that ex-cons are useful citizens after release. He convinced the king about dreams interpretation capabilities of Yusuf.
- (B) According to the Verses 43-93 the king of Egypt could not get interpreted his repeated dreadful dream, but Yusuf gave the king the best interpretation for the same. King honored Yusuf who later on was made the Egyptian ruler who established a real welfare state. He forgave his step brothers and brought father in full respect. Ultimately sons of Jacob (Israel) became the family of rulers. This Sura gives a great lesson for the Muslims. All the adversaries, enemies and worst type of opponents can be accommodated if they are

forgiven in the name of Allah. (Israelites of to-day have a great treasure of truthfulness in the Holy Quraan that it is the same truth as was revealed in their original Torah. They should come in the folds of Islam as the only true religion of Allah S.W.T.)

- (C) Verses 94 to 111 state how the Israelites were got settled in Egypt through the great service of Yusuf A.S. as a ruler. Thus Allah glorifies the truthful. The bounty of Allah is conferred upon those who remain righteous.

7. Significant Verses :

- (i) Verse 2 - The Holy Quraan is in the Arabic language because it is the purest and the richest language.
 (ii) Verse 53 - Nafsull Ammara (the motive self) incites a person to ludeness.
 (iii) Verse 111 - All the Quraanic stories of the past history are true to the core to educate the present generations to adopt best system for peoples' prosperity with piety.

8. Conclusion :

The Sura basically shows that the true Muslim may face uneven situations during their life time. If they remain steadfast, pious and sincere Allah ultimately makes them victorious over the evil forces in this world and they will get all His bounties in the Hereafter.

SURA XIII — AR-RA'UD (THE THUNDER)

1. Title :

The title of the Sura has been taken from its Verse 13. It means thunder, which itself is a great symbol of the power of Almighty Allah. Whenever the negative and positive clouds collide together in the sky, they shake the entire area on the earth with thunder, followed by torrential rain and lightening frightening all the creatures including the human beings. This dreadful lightening and thunder of cloud is formed from sea just as mist but its resounding makes the people dreadful. Rather it causes death of some people and kills many other creatures. How much dreadful will be the Ra'ud (Thunder) got prompted by Allah Almighty on the Day of Resurrection ?

2. Constitution :

The Sura has 43 Verses with 855 words which contain 3506 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed to the Holy Prophet S.A.W. by Allah S.W.T. at Madina tuur Rasool.

4. Context :

The Holy Prophet S.A.W. invited the infidels and the people of the Book (Jews and Christians) to Islam at Madina. But they strictly opposed him. And, when the Holy Prophet S.A.W. settled in Madina, their deadly designs were still on. So this Sura refers to Divine thunder and declares that the Holy Quraan is the Last Message of Allah brought by the last Messenger Muhammad S.A.W. to guide the rebellious minds to behave and accept the truth to be saved from Divine wrath.

5. Objectives/Message :

The very first Verse of this Sura presents the reality that the entire revelation of the Holy Quraan is a Divine bestowment. People must believe it and act upon it. The Sura stresses that the disbelievers should try to understand what is the message of Islam and must face the fact that it is a reality which must be accepted for the betterment of humanity. All the criticism of the disbelievers has been clearly answered in this Sura through the Holy Prophet Muhammad S.A.W. But still if disbelievers remain negative then there will come to them a great thunder to take them away on the appointed Day.

6. Gist of the Text :

- (A) Verses 1 to 31 state that the Holy Quraan is a Divine Book as a revelation of Allah. The mighty creatures created by Allah are proof that how Allah is powerful to bring the man to life after death to reward the pious and punish the miscreants and disbelievers. Allah knows everything right from the beginning to the end and He has the full power to confer anyone any of His bounties. The pious people will get the grace of Allah with best compensation for their righteous deeds. The evil doers will be definitely punished in the Hereafter. The people who do not believe the Book and do not accept the truth of the Holy Quraan or reject the faith of Islam, they are definitely to face the punishment for their such rejection when they are brought to account on the Day of Judgment.
- (B) Verses 32 to 43 point out that the previous disbelievers also rejected the previous Prophets and they did not accept truth from Allah. Therefore, it is not astonishing as to why the Makki idolators did not believe the Holy Prophet Muhammad S.A.W. They will definitely be penalized with severe punishment in the Hereafter. But the righteous and the pious will get rejoiced for their good deeds.

7. Otherwise Significant Verses :

- (i) Verse 26 - Allah has full discretion to increase or decrease the provisions of people.
- (ii) Verse 28 - Remembrance of Allah gives to heart the best satisfaction and contentment.

8. Conclusion :

This Sura re-establishes the truth of Islam as the last religion of Allah. It indicates to humanity a just and best socio-economic system. Human beings definitely can get boon of Allah S.W.T. by accepting His true religion of Islam.

SURA XIV — IBRAHEEM

1. Title :

The title of the Sura has been derived from Verse 35 from the August name of the Arch Prophet Ibraheem A.S. ('Aly-hiss Salaam). He is the great grandfather of the Muslim Ommah, grandfather of the Christian faith and the father of the Jewish people. All the monolithic religions in the world, respect Ibraheem (Abraham) A.S. He is being honored by the Holy Quraan with a special Chapter in his name to make his righteousness, sincerity and straightforwardness a universal standard of piety.

2. Constitution :

52 Verses of this Sura consist of 861 words containing 3434 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed to the Holy Prophet S.A.W. by Allah S.W.T. when he was at Makkah.

4. Context :

Apparently this is a life pattern of the Arch Prophet Ibraheem A.S. (Allah's salutations on him). He was the most straightforward and the most righteous. His life pattern has been prescribed by the Holy Prophet of Islam S.A.W. as a model for himself and for the Muslim Ommah (transworld grand community of Muslims). He preached the humanity the Divine unity. All the creatures in this universe obey One Allah, except few ignorant people. What is bestowed by Allah is for the benefit of mankind. He has revealed the Holy Quraan for the prosperity of humanity. The perfect method of worship of Ibraheem A.S. was imitated by the Holy Prophet S.A.W. that in each Prayer the Muslims utter at the start words of supplication to Allah to exalt Prophet Ibraheem's modality of piety

5. Objectives/Message :

This Sura has the same message as presented in the Sura Ra-'ud - XIII. It explains that Allah Almighty has revealed upon mankind the true message of Islam. Moses and Abraham as the great Prophets preached their Ommah the same right way of worship of Allah. Both of them stressed the Oneness of Allah. The Ka'aaba as Muslim worship House in Holy city Makkah was built by the Arch Prophet Ibraheem A.S. with the help of his elder son Issmaeel A.S. who was also a great Prophet of Allah. Every Muslim while he prays should stand up in ablution on pure ground facing the Ka'aaba in Makkah. Holy Prophet S.A.W. re-established that the foundations of this House were laid down by the sincerest Prophet Ibraheem A.S. with the help of his great son Issmaeel A.S. Both were truthful, most righteous and straightforward. Therefore, both of them are also standard bearers for the Muslim Ommah.

SURA XV — AL-HIJR

1. Title :

The title of this Sura has been derived from its Verse 90. Hijr was a central city of the Samood nation. Hijr is located between Madina-tuur Rasool and the city of Tabuuk. These are now archaeological remains of a shattered city which was on its zenith in the stone age of humanity. Most of the city buildings were in a mountainous region carved out of red stone with very fine art work, still visible. Anyhow the visit to ruins of the demolished city of Hijr has been prohibit by the Holy Prophet S.A.W. for Muslims. It has been directed so by Allah in this Sura, as it was ruined by Allah for their sins, unjust attitude, misdeeds, man handling of the Messengers of Allah and falsifying Allah's signs and their boastfulness. To describe the misdeeds of the people of this ruined city in brief, the title of this Sura is Hijr.

2. Constitution :

The Sura has 99 Verses which contain 654 words consisting of 2760 letters.

3. Revelation :

Sura Hijr was revealed upon the Holy Prophet S.A.W. by Allah Almighty in the Holy City of Makkah.

4. Context :

The Holy Prophet S.A.W. preached in Makkah the message of the Holy Quraan with full force and Divinely vested sincerity. He stressed the Makkah pagans that it was the last law of Allah for the betterment of humanity and social order based on justice and equity. But the idolators and the pagans did not pay him much heed. Rather they started to thrust upon him all sorts of cruelties with tough beatings to his followers and killings of his companions. There was none to check their such severe enmity without justifiability. Such mental torture and cruelties to the Muslims by the Makkah disbelievers have been condemned that their attitude of enmity is like the people of Hijr City. But the Holy Prophet S.A.W. always prayed to Allah to guide Makki people on the right directions. Nothing could work due to their misdeeds like the people of the Hijr City. However, the city of Makkah was not destroyed for the submission of the Holy Prophet that the Holy Ka'aaba was there. He also prayed to Allah to show the right path to the next generation of Makki people to become Muslims. Now they are not only pure and staunch Muslims but also play host to the entire Muslim Ommah.

5. Objectives/Message :

The disbelievers and idolators have been warned in this Sura that their enmity, prejudices and resistance to Islam would ultimately face defeat. As they commit similar misdeeds as were committed by the nation of Prophet Luut (A.S.) and people of Hijr. Therefore, they are warned through this Sura to follow the Holy Prophet S.A.W. to be saved. The Message of Allah through the Quran should be followed by every one to remain secure from similar ruination.

The main purpose for the creation of man has been explained. Man was created on best

nature which makes him the crown creature amongst all the creatures of Allah. The methods adopted by the pagans to negate the reality of Islam are analyzed. Their evil psyche of negativism was exposed.

This Sura also laments the attitude of the infidels. They do not understand the truth and have no justification to reject piety and righteousness. Their idolatrous belief was unjustified and totally wrong. Their own sins, evil designs and misdeeds prevented them from becoming pious. This was due to the evil forces of satan who made them blind to reality and prevented them to embrace Islam.

6. Gist of the Text :

Sections 1 to 3 of this Sura ordain that the revelation of Allah upon the Holy Prophet S.A.W. is a whole truth Divinely preserved in the Holy Book - The Holy Quraan. Those who reject truth are ruined. The wrong doers want an Angel as Prophet but all previous Ommas had similar human beings as their Prophets. Aadam was created out of black clay on best nature. He was paid due respect by the Angels as Ordained by Allah but satan did not pay him respect. Therefore, satan was Divinely rejected. Evil forces took shape through pride of Iblis (satan). But no sincere Muslim will follow his footsteps.

Sections 4 to 6 state that Mercy of Allah is conferred through the Angels. The Prophet Ibraheem (A.S.) was respected for his being straightforward. The followers of the Prophet Luut (A.S.) were smashed due to their malpractices. The city of Hijr, where the nation of Samood lived, being rich and powerful, was destroyed as a lesson for others. In view of this, human beings should always act upon the message of the Holy Quraan as the Will of Allah to get full blessings.

7. Significant Verses:

- (i) Verses 1 and 9 - The Holy Quraan is the most illuminating Book fully guarded by Allah.
- (ii) Verses 16 to 18 - The heavens are protected from Satan by firing of the brightest flame of stars.
- (iii) Verses 26 to 30 - Aadam was created out of black mud. All the Angels respected him but satan refused.
- (iv) Verse 45 - The pious people are destined to enter the Paradise.
- (v) Verse 87 - Allah has bestowed (to the Holy Prophet S.A.W. and the Muslim Omma) the best bounty of the oft-repeated seven verses (Sura-Al-Fatiha) and the Holy Quraan.

8. Conclusion :

This Sura gives a repeated chance to the disbelievers, infidels and pagans to embrace Islam. The Holy Prophet S.A.W. was assured that the disbelievers will get definite penalty. Despite of being so powerful the people of Hijr were ruined. Same is the end of the rebellious people.

[Here ends Division Three of the Holy Quraan]

DIVISION (MANZIL) FOUR OF THE HOLY QURAN

Division Four of the Holy Quraan consist on Sura XVI to XXIV (nine Suras). The basic objective of this Division is to explain the conditions of previous Ommas of previous Prophets. How they became rebellious idolators and what was their end? How the bounties of Allah were not recognized with thanks and how they were penalized for that. Therefore the Muslim Omma has been inculcated to accept whatever has been commander by Allah to get full benefits of His bounties.

SURA XVI — AN-NAHL (THE HONEY BEE)

1. Title :

The title of this Sura is derived from its Verse 68. "Nahal" means the honey bee. It has a

great importance to produce honey as a best food. Honey bee is a divinely favored insect created by Allah. Honey produced by the bees is a great healer for all human diseases. It is alike in all countries of the world with similar taste, similar flavor and similar vitamins. Verse 68 shows that Allah revealed to the honey bee to make honey from the flower juices with fine flavor for the benefit of mankind. Honey bee has, as such, all times Divine importance with direct communication from Allah. Honey is the greatest bestowment of Allah through this small bee being so pure, so tasty and so dear to the mankind. Similarly the Holy Quraan has a spiritual healing power from Allah.

Counter creature of the honey bee is the house fly which takes birth from rotten refuse, night soil, animal dung and the worst waste in the dirty situations. House fly is so dirty that it spreads serious diseases and many epidemics are carried by flies through their fast spreading virus germs. But honey bee has a profound organization and perfect bee society. The honey hive has its own security guards, defenders from any outer threat, warriors, nursing orderlies, quality controllers and eliminators to cut out the unwanted elements. Their queen has a remote control even beyond five miles by a distinct sensation on the route for the back journey of each bee after extracting required juices. Colony of a honey bee hive is their best planned abode. Honey bees are the most sensitive creature of Allah to obey Him to continuously manufacture honey from the most flavored flowers of different kinds for the benefit of mankind. Therefore, due to the importance of honey bee the name of this Sura has been devoted to Nahal — the honey Bee.

As honey is the basic healer for human body diseases similarly the Holy Quraan is the basic spiritual healer for all the human self diseases to associate man's soul with Allah.

2. Constitution :

The Sura has 128 Verses, 2840 words and 7707 letters.

3. Revelation :

The Sura was revealed to the Holy Prophet S.A.W. by Allah in the Holy City of Makkah.

4. Context :

The Sura seems to have been revealed after the first migration of the early Muslims to Abyssenia in the 6th year of the declaration of the Prophethood by the Holy Prophet Muhammad S.A.W. It appears from the circumstances that the cruelties of the infidels seriously increased against the early Muslims. Opposition of the Makkhi pagans to the Holy Prophet S.A.W. and rejection of the truth of the Holy Quraan also became serious.

In this Sura the powers of Almighty Allah have been explained. All the Commands of Allah are for the welfare of the mankind as His crown creation. Man is bestowed to get benefit from other creatures of Allah. But the idolators and those who equate idols with Allah, do not accept the truth. As such they are definitely to be condemned herein and punished Hereafter. The city of Makkah is very dear to Allah because its foundations were laid down by his purest friends Hadhrut Ibraheem, who was the most straightforward and his elder son Hadhrut Issmaeel, who was sincerely so obedient. Therefore, this city should accept the truth brought by the Holy Prophet S.A.W. through the Quraan. Instead the people of Makkah as pagans became dead enemies. Anyhow most of them and their next generation ultimately embraced Islam.

5. Objectives/Message :

The basic objectives of this Sura are :

- (i) Justifying the creation of honey bee for the profound service of mankind. The disbelievers must understand that Allah can make useful for man anything and any creature in any way. Disbelievers should desist from exploitation, injustice and cruelties and accept the unity of Allah. Everyone should be useful to others like the honey bee. Only He is worth worship in the world.
- (ii) Logical answer to the illogical questions of the infidels and idolators have been provided in this Sura ;

- (iii) The Sura has great lesson for the criminals. They should understand that its ultimate end is dreadful ;
- (iv) All the creatures of Allah are functioning in different ways right from the small insect like the honey bee to the big sun and moon in the sky. It has been logically explained by the Holy Quraan and the Holy Prophet Muhammad S.A.W. The disbelievers should understand that the Holy Quraan is a pure truth from Allah. They should embrace Islam as the Divine will as they enjoy all the bounties of Allah;
- (v) The Sura increases the self-confidence of the Holy Prophet S.A.W. and assures his companions that they will be rewarded for their being on straight path and becoming righteous; and
- (vi) It gives serious warning to the disbelievers for their cruelties and tough opposition to Muslims and assures the ultimate success of Islam.

6. Gist of the Text :

Sections 1 to 6 of this Sura state that all the creatures of Allah pray to Him and establish His glory for every bounty. He has conferred every thing to the mankind and all the other creatures are in the human services. In view of the above cited facts, human beings must accept the Unity of Allah and the truth presented by His pious devotees to desist from wrong actions and misdeeds. Truth is bound to prevail for the betterment of mankind through the preachings of Islam.

Sections 7 to 13 state that Allah has bestowed the man with His best bounties which must be recognized with gratefulness. His clouds from the sky provide fresh water. Cattle give milk, flesh and all their useful products are for the human necessities. The product of bee in terms of honey is the greatest boon of Allah to cure man from all diseases. Man has different uses of honey. The family life of man, mutual relationship of man with man, social life of the people in peaceful, law-abiding and useful circumstances can be established like an organized society of the honey bee. Profound human civilization with judicious socio-economic system can be developed like the million years old coexisting most peaceful organizations of the sagacious honey bee. The Prophets of Allah are the bearers of truth and are the Divine witnesses against those who reject the faith. Allah will decide on the Day of Judgement as to who were the right and who indulged in misdeeds. The jealousy against the faithfuls opposing the peaceful friends of Allah preaching truth of Islam will also be severely punished.

Sections 14 to 16 say that the Holy Quraan is the real truth to guide all the mankind. It will be a stand-by witness against the disbelievers, infidels and pagans upto the Day of Resurrection. This is the Last Message of Allah with spiritual fruits and societal bounties. Ibraheem A.S. was the most straightforward, faithful and righteous Prophet whose righteousness should be followed as Muhammad S.A.W. followed him being the last Messenger.

7. Significant Verses:

- (i) Verse 5 - Human beings are created from mean water sprout but they become disputant.
- (ii) Verse 12 - Allah has deployed by the day and night, the so big sun, moon, stars and every thing else so small like the honey bee to human service.
- (iii) Verse 36 - Every nation had their own Prophet. Travel through the earth to see the end of the liars.
- (iv) Verses 68 and 69 - Allah has inspired the honey bee to make honey out of flowers and fruits. Honey is the best healer for the mankind for all diseases.
- (v) Verse 90 - Allah commands to do justice and good to others. He forbid indecency, crimes, and transgression.
- (vi) Verse 115 - The unlawful drinks and eatables like blood of even the permissible animals, juices converted into wine, and the flesh of swine etc. have been prohibit.
- (vii) Verse 125 - Every Muslim preacher should invite to the way of Allah with wisdom, good

knowledge and self practiced exhortation.

8. Conclusion :

The Sura is a great lesson for the mankind that they are crown creation of Allah. All creature from the so huge big sun to the so small tiny honey bee are in the service of humanity from Allah Almighty. Therefore, as a mark of gratefulness to Allah, all human beings should come to the faith and embrace Islam as the Will of Allah.

SURA XVII -- BANI-ISRAEL (THE CHILDREN OF ISRAEL)

1. Title :

The title of this Sura is in Verse 2 and is mentioned in many other Verses. The subject matter is the nation of the great Prophet Moses (Moosaa A.S. - 'Aly-hiss Salaam—Allah's Blessing on him). He was bestowed with the great Book, Torah. But the Israelites did not act upon the same and detracted from it within the life span of Prophet Moses. Thus it is a Sura addressed to the children of Israel who claim to follow Moses. Actually Israel is the Divinely assigned name of Prophet Yaqoob (Jacob). His 12 sons formed twelve tribes who are known as the Bani Israel (Pro-genitures of Hadhrut Israel—Jacob) who are continuing as an ethnocentric race fewer in number but very influential in all walks of life. The basic urgency to give this Sura the title "Bani Israel" may be the long inherited intellectual capabilities, worldly wealth, administrative heritage and management acumen of the Jewish people. It is for their attention to the truth of Allah to convince them to serve the humanity desisting from exploitation of mankind and disunity of world community planning commercialist world wars to come to the fold of Islam and help to establish a peaceful coexistence.

The very first Verse of this Sura indicates the highest bestowment of Allah S.W.T. to the Holy Prophet S.A.W. in his famous Assraa (inspection of the universe within moments) exalting him the highest amongst all the Prophets and above all the creatures. This is called Meiraj (the Divine arranged longest journey of farthest venues of the heavens and the earth within a short period by switching off the universe to stand still).

2. Constitution :

Sura has 111 Verses with 533 words containing 3460 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed by Allah Almighty upon the Holy Prophet (S.A.W.) when he was at Makkah facing heavy odds during his continued preaching to the infidels in futility. These Makki pagans had good contacts with the Jews of Madina. Jews also lived elsewhere in Arabian peninsula as usurpers of Arab lands. They were invited through this Divine Message to come to the truth of Islam.

4. Context :

The Holy Prophet S.A.W. had been inculcating to the pagans of Makkah the truth of the Holy Quraan since the last 12 years. During this period, he received a shock of the death of so affectionate Uncle Hadhrut Abu Talib and most loving wife Hadhrut Khudeeja-tull-Kuubraa around 620 A.D. Besides, several of his companions were being killed and tortured by the people of Makkah. He left for Taaiff, a city at some distance from Makkah, on the hope that people of that city may embrace Islam. But unfortunately the people of Taaiff were more cruel. They were very ferocious, evil minded and devilish towards the preaching of Islam and the inculcation of the Holy Quraan.

In view of the above mentioned situation Allah Almighty gave the Holy Prophet (S.A.W.) the highest honor for his great perseverance of continued motivation of disbelievers to the religion of Allah despite their tough resistance. The Holy Prophet S.A.W. was taken to Divine visit of the universe in a part of a night (27th Rajab-ul-Murajjab). It is called ASSRAA which usually is known as Meiraj (exaltation to the highest extent). The first Verse of the Sura opens with the word "Suubhaan" which automatically qualifies that Allah is all sanctified without

doubt with His fullest Authority to confer to the Holy Prophet S.A.W. the greatest dignity of highest echelon and gave him (S.A.W.) acumen to inspect the universe within moments.

He was taken with his pious body to the Masjid-ill-Haraam (Holy Ka'aaba) and then to the Masjid-ul-Uqsa (Great dome Jerusalem). There he was made the Imaam-ull-Ambia to lead Salaat (congregational Prayer) of all the Prophets (1,24,000 to 1,40,000). All of them had already undergone an undertaking with Almighty Allah, while they were being made Prophets for their own periods, to accept the finality of the Prophethood on Muhammad (S.A.W.) when he came. They agreed alongwith their Ommas (Nations) to accept this Last Prophet of Islam as the perfect ideal of Allah. In twinkling of an eye, Allah Almighty switched off this Universe to make it supernaturally standstill and the Holy Prophet was taken to the great journey where he was shown everything of the past, present and future right from the top echelon of the highest heaven down to the lowest earth. All the Paradises and all the Hells were inspected by him.

People had some reservations in all ages and the 19th/20th Century critics have bitter criticism about this Assraa being so supernatural miracle of Muhammad S.A.W. The disbelievers totally reject it but some scholars of Islam also have lame justification that such Meiraj was just a vision, a dream or without reality as a mere Divine statement in the Holy Quraan, having no Islamic impact. But as a matter of fact this is the highest and profoundest miracle of the Holy Prophet (S.A.W.) to have performed this Assraa with his pious body in full senses. The word Abduhoo has been used in the first Verse which itself qualifies that the ASSRAA of the Holy Prophet S.A.W. was with his pure body, so holy and so dear to Allah Almighty. Miracle is always supernatural beyond human perception which was conferred to all the Prophets - Ibraheem, Sulymaan, Moosaa (Moses) and Eesa (Jesus) A.S. ('Aly-hiss Salaam—Salutations on all of them).

The basic concern of this Sura is the Jewish people as children of Israel (sons of Jacob), 12 in number, alongwith famous Prophet Yusuf (Joseph). Their progenitures formed 12 famous tribes of Israelites as stated earlier. The Sura was revealed in the last year of the Holy Prophet's preaching in Makkah (the 12th year). He had to migrate to Madina. Which was under the extreme influence of Jews, who lived there. They were traders and commercialists like the Quraish of Makkah and had direct links with the Makki idolators. This Sura was revealed as a prerequisite to let the Jews know well in advance that whatever they practised was not that correct as was originally conveyed to them by Moses through the Torah. Many of their politico-economic maladies, socio-cultural misdeeds and wrong beliefs have been exposed. They have been invited to embrace Islam as a perfect straight way for the mankind from Allah for universal remedy to human ills.

Jews were the most influential, intelligent and economically well off people but on the wrong path from the right way of Allah. They controlled much of the wealth by hook or by crook. Divinely rejected usury was the basis of their economy. Therefore, this Sura has invited them to embrace Islam to be pious and righteous.

The Sura also explains the rights of the parents, children and the relatives. It inculcates kindness to human beings, firmness in Divinely approved righteousness with sense of responsibilities. Belief in the presence of Allah and total devotion only to Him is real objective of Prayers. Establishing only His praises in all circumstances has been upheld with full force.

5. Objectives/Message :

The basic message of this Sura is to the Israelites. Jews are so smaller in numbers the world over but they have great influence due to their technical know-how, interest (compound) based trade and uneven ways and means of control of sources of wealth. Their control usuary on the print media today makes them the top oressure group everywhere with strong lobbies. Therefore, the Holy Quraan has given an full attention to the Jews. Most miracles of Moses have been given in the Holy Quraan which were conferred to him under the Torah as a revealed Book of Allah. So they were invited to Islam as a right path presented by the last Messenger

Muhammad S.A.W. as the Prophet of Finality. They are the followers of the Book (Torah). They were instructed by their own Prophet Moses to accept the last Prophet Muhammad as Rasool Allah (S.A.W.) Though Prophet Moses assured his followers that the Holy Quraan is indeed the basic Divine compendium including the messages of the Torah, but, in spite of this, they did not respect the Holy Prophet (S.A.W.) and did not accept the revelations of the Holy Quraan.

6. Gist of the Text :

Sections 1 to 4 of this Sura state that the ASSRAA (Meiraaaj) of the Holy Prophet, S.A.W. is the higher spiritual experience excelling the previous Prophets of Allah. The greatness of Allah for the guidance of mankind has been given in detail. Man is misled by evil forces. Therefore, it is a personal responsibility of every individual to understand what is right and what is wrong. The Muslims should concentrate on their supplications, submissions and prayers only to Allah.

Sections 5 to 9, prescribe that all glory lies to Allah as only. He is Praiseworthy. His revelations are based on truth. Only the believers of these revelations will get His rewards. A man should be very sincere in dealings and adopt proper attitude with others without arrogance. Stiff neck is the act of Satan. Children of Aadam should be excellent in humility and obedience to Allah. Man will be judged by the deeds. Prayer (Salaat) is the highest obedience to the Providence. The Quraan is a healer and a great mercy of Allah which must be loved and acted upon.

Sections 10 to 12 describe that the revelations of the Holy Quraan are great signs of Allah which attain His grace. Human beings should offer Salaat with humility and remain submissive to Allah and obedient to the Holy Prophet S.A.W.

7. Significant Verses:

- (i) Verse 1 - The great Assraa of the Holy Prophet (S.A.W.) for Divinely arranged great inspection of the universe is a great honor for him and a great reality.
- (ii) Verse 9 - Quraan is the best guide to what is right.
- (iii) Verses 11 and 13 to 15 - Human beings are attracted by evil and forces they are hasty in every matter. The book of accounts is tied to everyone's neck to be presented on the Day of Resurrection.
- (iv) Verse 27 - Extravagants are brothers of satan.
- (v) Verse 30 - Allah expands or reduces provisions of men at His discretion.
- (vi) Verse 31 - Infanticide is a serious sin. Never kill children for the fear of poverty as Allah Almighty is their best Provident.
- (vii) Verse 32 - Adultery is a serious crime.
- (viii) Verse 33 - Murder is a heinous offence. Victim heirs have the right of retaliation.
- (ix) Verse 34 - Never devour the property of orphans.
- (x) Verse 34 - Always fulfil the agreements.
- (xi) Verse 35 - Always keep the just balance.
- (xii) Verse 36 - Never follow the unknown. Eyes, ears, heart and every limb is to be questioned.
- (xiii) Verse 37 - Never be stiff neck or boastful.
- (xiv) Verse 53 - Only speak the best. Satan instigates to spread hate amongst you as your open enemy.
- (xv) Verse 70 - Human beings have been assigned the top honor.
- (xvi) Verse 80 - Only truth is to achieve real success.
- (xvii) Verse 85 - What is spirit? It is the command of Allah.
- (xix) Verse 100 - The human beings are miserly.

8. Conclusion :

The main purpose of this Sura is to invite the Israelites to Islam and make aware the Muslims that Prayer is mandatory. Humility is the best quality of a religious person. Which can be achieved best in Islamic folds.

SURA XVIII — KAHF (THE CAVE)**1. Title :**

The title of this Sura has been derived from Verse 9 from the word Kahf. It means the cave which became the hideout of the believers for a long time in the pre-Jesus period. They protected themselves in a cave Kahf just to maintain their righteousness and piety from the cruel people all around. Allah universalises the truthful people like these companions of Kahf, alongwith their faithful dog. This is the Divinely celebrated commemoration of the people on the right path as a Divine bestowment.

2. Constitution :

110 Verses of this Sura have 1577 words which contain 6360 letters

3. Revelation :

This was revealed upon the Holy Prophet (S.A.W.) by Almighty Allah in Makkah during 8th to 10th year of his preaching the infidels.

4. Context :

The preaching of the Holy Prophet, S.A.W. in Makkah to the infidels is spread over four periods. This is the 3rd period revelation when he alongwith his sincere companions as well as his family members were confined in between high mounts around Makkah in Sheib-e-Abee-Talib. The pagans of Makkah had no idea of academic bogging down the so great a devotee of Allah so severely penalized for his righteousness along with his followers. Three tedious questions were prepared by the Christians and Jews as: (i) regarding Ashaab-e-Kahf, (ii) Zull-Qurnyn and (iii) Khizr, the roving Prophet A.S. These were riddles of the past history known to them through their Bible and Torah as scholarly people. The idolators of Makkah being rugged illiterate people posed all of these questions to the great Messenger of Allah as a weapon to render the preachings of the Holy Prophet futile. This was a conspiracy of the Christian and the Jews that Muhammad S.A.W. (Sallallah ho Alyhe Wassallam) will not be able to answer being strange questions of the history of the long past, as revealed to Moses and Jesus. This Divine information was not available at that time to anyone in Makkah. Allah Almighty delayed to reveal this Sura to explain these three questions. Thus the Holy Prophet S.A.W. gave full details about these questions after a few days getting bogged for delay but becoming Divinely bold about getting information through truthful revelations of the Holy Quraan for every matter.

5. Objectives/Message :

The Holy Prophet S.A.W. and his sincere companions were long tortured. Therefore, this true story is the Divine lesson to the pious people who can protect their faith like companions of the cave Kahf as a soothing source of relief in any circumstances for all the times as a Divinely permissible method. A perfect peace from the cruelty of the people in power can be achieved by such wisdom of the pious men. This long Divine sleep of peace was construed by these pious men as of a duration of a day or less. Allah can protect the faithfuls by His best designs. The dog also has been shown very obedient to inculcate the pious people to remain the same submissive to Allah and the Holy Prophet. This shows that obedience of animal to man is creditable to this creature by Allah. Therefore obedience of man to Allah is much laudable.

Believers are taught the lesson that Allah demands such submission and obedience to Him and His Holy Prophet S.A.W. from the entire Muslim Umma. Muslims should remain patient that they will be in peace with a perfect sleep in their graves after this temporary life of toil and trouble in lieu of their piety in this temporal world. They will feel a great ease in life after death as was felt by Kahf people.

The 2nd true story is of Zull-Qarnyn Divinely commissioned against the corrupt, unjust and ferocious people in power. He was a strong man with iron will having two horns as a powerful ruler of the East and the West who made the iron wall to protect the humble and weak people against the arrogant strong cruels. This true story of such a strange but a strong ruler is Divine certainty of Allah's protection to those who remain patient. His people reposed their faith with full confidence in Allah getting themselves saved by this strange Divine force from the evils.

Third story is about the Prophet Moses travelling with roving Prophet Khizr A.S. It gives a lesson about the profoundly super-natural designs of Allah to solve the human problems. Here it is proved that the pious people are guided in all circumstances by Allah if they repose their full confidence in Him. Prophet Moses was given a great knowledge with justice, equity and sagacity to establish a peaceful society. But his nation detracted so they were punished. Therefore, piety with full sincerity and continued obedience to Allah is the real saviour.

6. Gist of the Text :

Sections 1 to 3 state that the Holy Quraan provides all the human beings a best guidance to righteousness in this brief life for reward in the eternal life Hereafter. Our knowledge about the history of the past is not at all so perfect as has been proved by the story of the companions of the cave. People cannot perceive so precisely the best rewards for the best faith, and the truthful eternal life in the Hereafter for piety, patience, and perfect belief in Allah. Only righteousness and virtues can defend some body from chastisement in the Hereafter.

Sections 4 and 5 reveal that Allah has all embracing knowledge. Everything in the Quraan is for the betterment of human beings

Sections 6 to 10 assure that life in this world is transitory. Honesty, piety and virtue are to make victorious in the Hereafter. The Day of Judgement will come and the faithfuls will get rewards but the wrong doers will get punishment. Prophet Moses had a treasure of Divine knowledge but he faced some handicaps and some limitations. Still he remained patient with faith in what Allah revealed and what Allah concealed. Thus Allah has full power to train and tame anyone to patience for future role in His hard task to preach others with perseverance.

Sections 11 and 12 relate the story of Zull-Qurnyn to show how this most powerful man with two horns on his head was selected to punish the cruel, guilty and the wrong doers. He rewarded the pious, good and the righteous and brought relief from lawlessness with force, faith and guidance of Allah. Everyone should believe in One Allah with commitment deploying personal power to spread-piety to get Divine bestowment.

7. Significant Verses:

- (i) Verses 9 to 11 - People of the cave are a Divine wonder (for their re-birth after a long period of slumber into death).
- (ii) Verse 27....No one has any capability to produce or change the Verses of the Holy Quraan.
- (iii) Verse 54 - Everything has been explained in the Holy Quraan for the good of man and the welfare of humanity.
- (iv) Verse 88 - Whoso believes and acts righteously is to get best rewards.
- (v) Verse 94 - Story of Zull-Qurnyn, Gog and Magog who are kept within the barriers.
- (vi) Verse 110 - The Holy Prophet (S.A.W.) was Divinely directed to declare that he was just a human and like other Prophets receiving revelations from Allah (achieving the highest Divine status).

8. Conclusion :

Sura Kahf teaches the Muslims to be truthful, steadfast and pious to achieve success in this world and in the Hereafter. Patience and confidence with the help of Allah as well as continued faithfulness lead to success herein and on the Day of Judgement.

SURĀ XIX — MARYAM (MARY)

1. Title:

The last Verse of Sura XVIII ended with the declaration that the Holy Prophet S.A.W., as human being, achieved the highest status with Allah for his sincerest devotion. This Sura starts with the declaration that Muhammad S.A.W. is the Blessing of Allah for the entire universe. In this Sura the bestowments of Allah to Zachariyya, his son Yahya and his ward Maryam (bearing Allah's Spirit Eesa (Jesus)) are His blessings. Holy Prophet S.A.W. is the source of Divine bestowment, for believers if they cultivate their sincere attachment with him with deepest love and sincerest affection as Maryam had with Hadhrut Zakarriyya (Zachariyya).

The title of this Sura is in the august name of Virgin Mary Aly-ha Salam—Allah's blessings on her. Verse 16 contains the title in her name as Maryam. The virginity of Mary has been a subject of controversy with all the Jewish people and the early Christian communities. But the Holy Quraan has very clearly presented a full Chapter with her good name. Sura Maryam is Chapter 19. The odd number 19 is the prime number which has been deduced from the most important Verse of the Holy Quraan known as Bismillah hir Rahma nir Raheem, being a prefix of all the Chapters of the Holy Quraan except Sura Tauba. Bismillah occurs 114 times in 114 Suras which can be divided by 19. By computation 19 as prime number is very important for Quraanic numerology in the computer technology. Thus virgin Mary gets a great importance in Islam by this full Sura in her good name. None of the greatest Muslim ladies, including highly respected wives of the Holy Prophet S.A.W., have this sort of Quraanic importance.

Allah's benevolence is conferred to those who submit to Him in sincere humility. Mary became so submissive that Allah selected her for highest status amongst females.

2. Constitution :

Its 98 Verses have 780 words.

3. Revelation :

This Sura was revealed to the Holy Prophet (S.A.W.) by Allah in Makkah in the 5th year of his preaching the Makki infidels as the Last Messenger.

4. Context :

The Sura describes how Allah bestows His bounties upon His great Prophets and pious people who are steadfast as Muslims. They with full patience serve Islam to establish righteous society with morality based on the Quraanic principles. They are people of best conduct and make their own lives ideal for others. Their personal perfection positively affects the entire social environment to make society pious.

Here in this Sura great miracles have been discussed. Zikrya A.S. (Prophet 'Zachariyya) was bestowed a son Yahya in his old age. Similarly virgin Mary was bestowed a most innocent son Eesa (Jesus) when she was all together untouched. Prophet Ibraheem A.S. was conferred unique bounties of Allah. He started his preach from his idolater uncle father to desist from idol worship. Prophet Moses A.S. was conferred so great miracles and was bestowed his elder brother Haroon A.S. as Prophet. Issmael A.S. was bestowed in his family lineage the greatest of the great Muhammad S.A.W. Idrees A.S. was given high status for his patience and confidence in Allah. All the lives of these great Prophets are lesson for the Muslim Omma. All the Muslims believe in these great Prophets with the finality of Prophethood on Muhammad S.A.W. who has all the profound characteristics of all these Prophets. This is how this Sura exalts the Holy Prophet S.A.W. above all.

Great Miracles of Allah have been incorporated in this Sura and one of the universally known Miracles is the birth of Jesus to Mary without father. But how, when and why the Christians made him the son of God is not understood. As a matter of fact Allah Almighty gave birth to the first man Hadhrut Aadam and brought him on the face of the earth not only without mother but also without father. Thus this is yet bigger miracle that the father of humanity was created by Allah from black clay and reposed with Divine spirituality. Then Aadam A.S. was

made the most respectful and the crown creation of all the creatures with best nature on profoundest stature prostrated by all the Angels.

Sura Maryam is a great lesson for Christianity that the circumstances of the birth of Jesus as revealed in the Holy Quraan are similar to that of the Bible. This factful corroboration itself clearly bespeaks about the Holy Quraan being the most truthful revelation of Allah. The Sura was revealed in Makkah to the Holy Prophet Muhammad S.A.W. who was altogether unlettered and an acute Orphan raised to the status of Last Messenger. He was totally unlettered in reading or writing (Omimi) having no idea about Christianity from infancy and the virginity of Maryam or the birth of Jesus. Therefore, whatever has been reproduced by Allah in the Holy Quraan through him S.A.W. is itself his (S.A.W.) greatest miracle giving details of the miraculous birth of Jesus not so clear in Bible as in the Quraan. Quraan again corroborates Bible how Jesus was bestowed by Allah the greatest healing and other miraculous powers. The facts about Jesus have fully been explained in the Holy Quraan which are enough to establish its truth to the Christians.

Actually a miracle is a unique supernatural phenomenon which never can be seen in the normal life against the nature of things as these are set in routine. Miracle is something beyond human perception which astonishes every one and is not easily received by intellect of ordinary persons. Anyhow since the Holy Quraan itself is the biggest miracle, therefore, it has related many miracles of other Prophets with Divine details about the birth of Jesus Christ as revealed in this Sura. Giving such birth is so easy to Allah Almighty as He creates and puts to death every thing and re-creates the dead.

5. Objectives/Message :

The basic objectives of this Sura are to provide to the early Muslims who migrated to Abyssinia (Habsha-Ethiopia) on the directions of the Holy Prophet S.A.W. They sought refuge under the Christian monarch of that country being the then super-power and the chief guard of the Christian world. The Chiefs of the infidels of Makkah approached Najjashi, the monarch of Abyssinia to hand over these Arabs of Makkah as rebellious people, as they were considered criminals by Makki pagans having embraced Islam, negating idols. This Sura was recited by Hadhrut Jaffar Tayyar before the Abyssinian Monarch where the Cardinals, Bishops and top priests also attended this debate on the order of the King. All of them listened this self-defence of the refugee Muslims. The King of Abyssinia was very much impressed about the reality of Islam through this Sura Maryam as recited by Hadhrut Jaffar. The king accepted the truthfulness of the Holy Quraan, the true Prophethood of Muhammad S.A.W. as well as the religion of Islam. He actually embraced Islam but was persuaded by Cardinals and Bishops not to declare it.

The basic objective of this Sura is to inculcate to all humanity the Allah Almighty's Unity and the belief in the Oneness of the Sustainer of the universe. All the great Prophets have been preaching the finality of Prophethood on Muhammad S.A.W. It is negation of the Unity and Oneness of Allah that He as One God should have son. How someone can claim that Almighty Allah is his/her father when Allah is not all begotten from anyone or never can beget any one.

6. Gist of the Text :

Sections 1 and 2 of this Sura describe that the submission of Prophet 'Zakariyya was accepted and he was bestowed miraculously a son Yahya A.S. Prophet 'Zakariyya A.S. was entrusted the guardianship of Virgin Mary to give birth to Jesus without touching a male, as a great miracle. He was not at all the son of God but was bestowed a special spirit of Allah.

Sections 3 and 4 describe the preachings of the Arch Prophet Ibraheem. He in a very profound manner took start from his idolator uncle - father. This preaching was done by him with great respect and with very fine way of communication. This soft method of speech with wisdom and logic has been prescribed for all the Muslims in all the situations.

Sections 5 and 6 explain the Divine preaching of Prophet Moses alongwith his brother Haroon. The services of Prophet Idrees have been recognized. All of them were righteous, pious

and straightforward Prophets of Allah. This world is a transitory place of temporary life. Many allurements motivate individuals to misdeeds. Piety and righteousness must be maintained to get Allah's bounties in the Hereafter. All the wrong beliefs of many religious sects have paved way to coin false contentions about Allah Almighty's true religion which have been rejected.

7. Significant Verses :

- (i) Verses 16 to 27 - Mention of Virgin Mary, birth of Jesus to Virgin Mary.
- (ii) Verse 30 - Declaration of Jesus as a new born child that he is Prophet of Allah bestowed a Book.
- (iii) Verses 91 and 92 - Allah never begets a son.
- (iv) Verse 97 - The Holy Quraan is very easy to learn in plain language and is easy to understand by simple minds.
- (v) Verse 98 - Allah destroyed many previous generations of previous nations for their disobedience.

8. Conclusion :

Sura Maryam teaches humanity the right way to piety. It is only the Holy Quraan which guides to establish a peaceful society as prescribed by Allah Almighty in the shape of Islam. This is the real truth that only the pure faith and perfect practice of Islam lead to eternal life in the Hereafter. Therefore, the truth presented by the Holy-Prophet S.A.W. through the Holy Quraan should be adopted with full confidence in Allah.

SURA XX — TA-HA

1. Title:

The title of this Sura has been derived from the first word of the first Verse. TAA may be Taharut (purity) and HAA may be Hidayat (guidance). Some scholars say that TAA-HAA is a Glorious Name of Allah Suubhana Ho Wa Ta-'aala (S.W.T.) which means the Being exclusively Pure. Yet some scholars say that it is the profoundest name of the Holy Prophet Muhammad S.A.W. who is the best model of purity to guide humanity up to Eternity. It is a great Sura which leads those who recite it to perfect purity. Thus it is the Sura of purity.

The Holy Quraan is a compendium of perfect guidance for Muslims and the only source of effective motivation of the non-believers. It has immediate impacts if presented on real perspectives by practising Muslims of spiritual calibre. Title of this Sura also includes this miracle of the Quraan to automatically spread the light of Islam. All creatures get light from sun, moon and stars but a pious Muslim gets, best enlightenment from the spiritual liaison with the Holy Prophet S.A.W. who conveyed the Quraanic revelations with self practice as Allah's model.

This is the Sura which brought to the Divine fold of Islam Hadhrut Omar the great who became the top companion of the Holy Prophet Muhammad S.A.W. and the world ideal as head of state. He embraced Islam on the motivation of his sister Fatima. He was very much impressed to listen her reciting behind the door some Verses of this Sura and forced the pious sister Fatime to teach him the Quraan. Then she made him to get purified by ablution. So he listened these Verses and instead of going to chop the head of the Holy Prophet S.A.W. bowed his own head before Muhammad S.A.W. and embraced Islam.

This Sura was revealed to lead Muslims to the purity of Allah Almighty through the pure Prophet Muhammad S.A.W. as last Messenger to guide humanity to peace, integrity and social solidarity of individuals with morality.

2. Constitution:

This Sura has 135 Verses, 1641 words and 5242 letters.

3. Revelation:

This Sura was revealed upon the Holy Prophet Sallallah-ho-Alyhe Wassallam (S.A.W.) by

Allah Subhانا-ho Wa Ta'aala at the Holy city of Makkah-tull-Mukarramah.

4. Context:

This Sura was revealed upon the Holy Prophet as a great guidance to the mankind for the sanctity of the unity of Allah Almighty. This Sura was immediately written down by the pious scribes appointed by the Holy Prophet S.A.W. like previous revelations recorded at Makkah. These written scribes were read in person by Omar the Great in ablution before embracing Islam. This shows that the Holy Quraan was recorded from the very beginning by the nominated companions of the Holy Prophet S.A.W. under his personal instructions. When Omar read the same he was not yet Muslim but he touched the Quraan in ablution. It was possible for the non-Muslims to touch the Quraan partially but Muslims should do so when purified.

The Sura requires sincerity with faithfulness and purity to take advantage of the guidance of the Holy Quraan. Then the Sura explains the true story of so simple Moses. He was made Prophet of Allah when he went to the tree full of light to bring some fire for warming the cold stricken wife. At that point Allah bestowed him great wisdom. He invited the boastful, arrogant and rebellious Egyptian monarch Pharaoh to follow the straight path and become pious. It was a good initiative to serve best the Israelites to bring them out of the Coptics yoke. Moses convinced Pharaoh and his chiefs to give them a respite on Saturday to make them fresh in their technical bondage of building Coptic pyramids. Ultimately he got them released from his clutches. The Sura rejects the worship of anyone except Allah. All Prayer is to Allah. Only His revelations can take out someone from blindness and confer spiritual piouness.

5. Objectives/message:

The basic objectives of the Sura are :

- (i) It motivates the Muslims to upkeep purity and sincerity and remain faithful to the Unity of Allah. How Prophet Moses brought the truth of the religion of Allah to the arrogant rulers of Egypt and made the people to embrace pure religion of Allah by his sincere inculcation. Similar efforts must be made by every Muslim to preach the truth of Islam ;
- (ii) The Israelites are the ungrateful people but Muslims should always remain thankful to Allah ;
- (iii) The incident which took place with Aadam A.S. in the Paradise educates that man should remain within the orbit of guidance provided by Allah ;
- (iv) Human beings can go astray to commit sins. Man should ask forgiveness through supplication only to Allah Who forgives being so Benevolent and so Merciful.

6. Gist of the Text:

- (A) Sections 1 to 5 stress that the revelation of the Holy Quraan is a gift of Allah. Prophet Moses, like all other Prophets was chosen by Allah to give guidance to the people of Pharaoh. In this Herculean task his brother Haroon A.S. helped him as a co-Prophet. It shows that the duty of a Messenger is all the time to preach the truth. Allah gave Moses the power to save himself from arrest in a casual murder by him which took place unintentionally as is clear in his submission to Allah. He was given the top glory to get freed the Israelites from Egyptian bondage. They again disobeyed the orders of Allah and the Prophet Moses. So they were again brought by him to the guidance.
- (B) Sections 6 to 8 describe how on the Day of Judgement the personal responsibilities of everyone will be judged. The truthful will be rewarded and wrong doers will be punished. Therefore, the vanity of evil forces in this transitory life should be desisted and every one should be at guards to achieve purity for getting reward in Eternity.

7. Significant Verses :

- (i) Verse 8 - Allah has the most glorious Names.
- (ii) Verse 15 - A person gets only that for which he strives with hard toil and trouble.

- (iii) Verses 25 to 28 - Method of supplication to Allah to get His grace for easy and effective motivation of others in religious preachings is prescribed.
- (iv) Verse 114 - Supplication to Allah to get from Him increased knowledge.
- (v) Verse 130 - Praising Allah with patience, glorifying Him in the morning, evening and at night can get best bounties of Allah.
- (vi) Verse 132 - Keep regular prayer with patience to get best bestowments of Allah.

8. Conclusion:

Sura TAA HAA basically gives a great lesson of purity to understand the Message of Allah with full sincerity. All the bounties of Allah will be conferred upon those who become faithfuls and achieve piety.

SURA XXI — AL-AMBIYA

1. Title:

The task and missions of most of the Prophets have been discussed succinctly. In view of the above cited reason, the Sura was named Al-Ambiya as they are the Divine blessings for Divine guidance.

The control on self leads men to piety and righteousness, so stressed by Allah for entire humanity. For this purpose Allah selects the Prophets as His models for all the ages, the last Divine model being the Holy Prophet Muhammad S.A.W. being the Rahmat-tull-lil Aalameen—the Blessing for the entire universe for all the creatures. All the Ambia are models whose all characteristics became perfect in Muhammad S.A.W. Thus this Sura makes Ambia our ideal with Holy Prophet as best model.

2. Constitution:

112 Verses of this Sura have 1186 words which consist of 4890 letters.

3. Revelation:

This Sura was revealed to the Holy Prophet S.A.W. by Allah at Makkah-tull-Mukarramah.

4. Context:

This Sura describes:

- (i) The motivation of Makkah people was continuously done by the Holy Prophet S.A.W. with full confidence without a slight frustration against the arrogance of Makkah pagans. So the Islamic educators should keep perseverance with pursuance to achieve piety amongst the Muslims;
- (ii) Opposition of the disbelievers, infidels and pagans as well as the Jews and Christians against the preachings of Muhammad S.A.W. as last Prophet and Divine Messenger is bound to fail;
- (iii) The criticism about Prophethood, Unity of Allah and belief in the life Hereafter has been rejected in this Sura with full justification;
- (iv) The dead enemies of Islam and the worst opponents to the Holy Prophet S.A.W. have been advised in this Sura that this Prophet is not a burden but a Blessing of Allah for all mankind;
- (v) The mankind should understand the Quraanic education and the Holy Prophet's preaching wholeheartedly and embrace Islam for bestowments of Allah herein and for the eternal rewards on the Day of Judgement.

5. Objectives/message:

The objectives of this Sura and its messages are as follows:

- (i) The wrong concept of the pagans of Makkah that the human beings could not be Prophets is rejected with justification ;
- (ii) The criticism of the disbelievers on the Holy Prophet S.A.W. and the Holy Quraan have been answered with full logic ;
- (iii) The wrong belief of the disbelievers, that there is no world hereafter and life after death for award or reward of misdeeds and righteousness, has been nullified with full motivation to repose the belief in the Hereafter;
- (iv) The association of somebody as equal to Allah is idolation. Idol worship is negation of the Unity of Allah. It has been forcefully condemned;
- (v) The chastisement of Allah and the punishment to the disbelievers as well as dreadful penalty to the wrong doers on the Day of Judgement has been explained logically. Human beings with Islamic faith, piety and righteousness can bring peaceful and equitable prosperity in a just society.

6. Gist of the Text:

- (A) Sections 1 and 2 of this Sura describe how the Prophets of Allah were selected by Him and reposed with capabilities of in-born innocence, piety and righteousness. All these Divine characteristics help them to guide people to the straight path of Allah. Therefore, the Holy Prophet Muhammad S.A.W. is a uniquely special Prophet of Allah with the last Divine mission to establish best Muslim Ommah as the Divine standard bearers to the Day of Resurrection. Nothing in this Universe has been created without utility. Everything praises Allah and is for the utility of mankind. The earth, the heavens and all the creatures have been created by Allah for human service. Why people make many gods for worship, except Allah. Only those who accept the Unity of Allah and submit for His praise will be the perfect believers.
- (B) Sections 3 and 4 of the Sura state that how many gigantic creations of Allah like lofty mountains, the sun and the moon remain in the submission to Allah. Everybody is destined to die because everyone is to return to the Creator. Whoso rejects this belief will be definitely committing the falsehood to be punished. Whoso obeys the Holy Prophet (S.A.W.) and the revelations of Allah will be definitely rewarded on the Day of Judgement.

Moosaa A.S. and Haroon A.S. taught piety so sincerely but they were rejected. Both of them were never dejected. So the people doing the stupendous task of preaching piety should remain steadfast in their sincerity.

- (C) Sections 5 to 7 of the Sura describe the services of Arch Prophet Ibraheem A.S. He was straightforward and steadfast in preaching with full force righteousness against idolatry.

He perfected the religion of Islam to the best extent taking people to the worship of One Allah. Similarly, Prophets LUUT, Yaqoob, Noah, Soloman, Dawood, Ayub, Issmaeel, Idrees, Zulkifl, and all the other Prophets of Allah motivated mankind to worship One Allah. They preached the people to be judicious with piety and straightforwardness. All of them fought against the forces of evil committing sins, crimes, delinquencies and cruelties.

Allah Almighty only wants all people to adopt righteousness and follow the footprints of the selected great men of perfect piety and sincerity with full faith in Allah's Unity. Allah is most Affectionate, most Gracious and most Merciful.

7. Significant Verses :

- (i) Verse 35 - Every one is to die.... and to return to Allah.

- (ii) Verse 47 - Every one will get equal treatment on the scales of justice on the Day of Judgement.
- (iii) Verse 92 - Surely the Muslim Omma is a single Omma (without sects).
- (iv) Verse 107 - Muhammad (S.A.W.) is the Divine Blessing for all the universe.
- (v) Verse 108 - Whatever comes (from Prophet Muhammad) (S.A.W.) is purely from Allah S.W.T.

8. Conclusion :

The basic mission of the Prophets has been discussed in this Sura. Right path of justice, equity, piety and righteousness is the best as preached by all the Prophets and inculcate by the Holy Prophet S.A.W.

SURA XXII — HAJJ

1. Title :

Sura tull Ambia ended with the Truth of Allah linked with the first Verse of this Sura with the love of Allah inculcated by the Holy Prophet as the Ideal of Allah. Hajj is the bodily submission of a believer to the will of Allah with His fear in humility. The first and the last Verse of this Sura are linked up in such fear of Allah with love. The footsteps of the Holy Prophet S.A.W., with self-sacrifice for spiritual perfection must be followed.

The title of the Sura has been derived from Verse 27 by the Holy Prophet S.A.W. with the guidance of Allah Almighty. Hajj is usually translated as pilgrimage. It should be always translated as Muslim Pilgrimage. Which is altogether different from pilgrimages of Hindoos, Jews or Christians. It is actually the halt in valley of Aarafaat on 9th Zilhajj each year. As a matter of fact Hajj is the most important pillar of Islam. Therefore, its term in Arabic must be kept in its originality. There is no place anywhere in the world, except the Divinely selected Valley of Aarafaat, where the submission to Allah Almighty is made as Hajj supplication for His forgiveness of the sins of each Muslim. It is made on the 9th of Zilhajj between afternoon and the sunset which never can go by such fixed time anywhere under the sun except Aarafaat. There is no Holy Ka'aaba anywhere in the universe except in the Holy City of Makkah Mukarramah where Muslims are to have TAWAF (circumambulation). There are no SAFA and MARWA mounts except those near the Ka'aaba. There is no Zam Zam (slowly flowing sweet and pure water in great abundance) except in the Masjid-ill-Haraam in front of the Ka'aaba. There is no Masjid-ill-Haraam or the boundaries around Makkah City where from the Ahram (Hajj robes) are worn.

There is no Madina Tayyabah in the universe where the most blessed Roza-tuur Rassol (Mausoleum of the Holy Prophet S.A.W.) is to be visited. It is strange that the great worship in Hajj by Muslims is translated as pilgrimage. Other religions have their own pilgrimages. For example the Hindoos of India go to Hardivar to take holy bath in their river Ganges. The Christians go to the Bytull Laham and the Jews visit the weeping wall in Jerusalem. All these rituals are treated by their scholars as pilgrimage of these places. Even if the Muslims visit different tombs of the great Muslim saints they are wrongly said to be pilgrims. In view of this it is altogether wrong to translate Hajj as pilgrimage in this context. Therefore, Sura Hajj should not be translated in English as the Chapter of Pilgrimage but as the Chapter of Hajj.

2. Constitution :

78 Verses of this Sura have 1291 words and 5075 letters.

3. Revelation :

This was revealed upon the Holy Prophet S.A.W. by Allah at Makkah tull-Mukarrama but

some companions of the Holy Prophet S.A.W. say that some parts of the Sura were revealed in Madina.

4. Context :

The Sura is basically concerned with the total negation of the contentions of the disbelievers regarding their idolation. Idol worship is totally wrong belief. Who is your Allah will be the first question in the grave and on the Day of Judgement. Therefore, those who associate or equate any idol or any personality-cult with Allah must leave their such totally wrong follies and foolish fallacies.

All the ethico-religious and socio-psychological justifications have been given about the Unity of Allah in a specific way in this Sura for the purity of belief. People who embrace Islam and are true Muslims who believe on One Allah as their Protector, Sustainer and Providence.

The Sura with full details provides information regarding Hajj and guides to remain pious and straightforward after doing this great worship. Masjid-ill-Haraam is the most sanctified place on earth for all the believers for offering Salaat (Muslim Prayer) of highest order. This Masjid in Makkah and the Valley of Arafat are best places for supplication to seek the forgiveness of Almighty Allah. Muslims should always act upon Islam and sincerely spread the religion as revealed in the Holy Quraan and preached by the Holy Prophet S.A.W.

5. Objectives/message :

The basic objectives of the Sura are:

- (i) Disbelievers have been explained how their wrongs will be penalized after the Day of Resurrection ;
- (ii) The Muslims have been assured the rewards for being steadfast and forbearing the cruelties of the disbelievers ;
- (iii) Believers are assured that they will get victory over the evil forces ;
- (iv) Allah Almighty keeps the accounts of the right and wrong deeds of every one. It is only the right which is to achieve ultimate success;
- (v) The Unity and Oneness of Allah has been preached with full force. The worship of idols has been totally rejected. The people who worship idols should understand that these hand made objects cannot do any good to themselves. How they can do any favor to any body as dead idols under pagans' blind worship.
- (vi) Muslim Omma has been assured the full bounties of Allah if they keep His Oneness so dear to the depth of their hearts and act upon the preachings of Islam as the profoundest truth of Allah. This will make them pious with best character which will be a great evidence for their such righteousness on the Day of Judgement to get exaltation in eternal life Hereafter.

6. Gist of the Text :

- (A) Sections 1 to 3 of the Sura describe how the Day of Resurrection will be established. On that Day even the so affectionate mother will not be able to help a son/daughter. Allah will simultaneously put all the human beings and the living creatures to death and establish the Day of Resurrection. All the people buried after death will be taken out to account for their doings. They should be sure that disbelief will render them liable to punishment. The Jews, Christians and Sabans will realize their falsehood not to embrace Islam. The idol worshippers as well as the pagans, being wrong doers will be severely punished for their disbelief. The disbelievers who pose hurdle to the Muslims in their

worship will be totally condemned on the Day of Judgement.

- (B) Sections 4 to 6 state how the Arch Prophet Ibraheem A.S. established the Holy Ka'aaba. The days for performing Hajj have been fixed. The method of Hajj and its objectives have been explained. Sacrifice of animals after Hajj has been prescribed. Establishing sincere prayer has been made obligatory. Allah loves those who offer sacrificial animals, establish Salaat (Prayer) in the worship houses (Masajids) and pay Zakat (Muslim compulsory dues for the have nots).

The rebellious nation of Noah and Luut, arrogant people of Samood, and the cruel dwellers of profound vallies were ruined for their disbelief. Therefore, the truth conveyed by the Holy Prophet Muhammad S.A.W. should be accepted from the depth of heart with sincerest love to him to practise Islam on his foot-prints to get bounties of Allah Almighty.

- (C) Sections 7 to 10 describe the pious people who believe in Allah, sacrifice their lives in the way of Allah and preach Islam with sincerity. They will be rewarded by Allah Almighty Who is Sustaining and Cherishing everyone. He is all Gracious to reward the pious.

The Muslims have their own method of worship unique in its best nature, devotion and supplication. All the Muslims should follow the Holy Prophet S.A.W. to become more sincere in such worship of Allah.

Allah Almighty has condemned those who take idols as the object of worship. Such idols cannot snatch anything from a dirty fly if it takes some thing from their mouth. Therefore, these statues are of no use for mankind. So people should always worship all alive Allah as worshipped by all the Prophets. The Arch Prophet Ibraheem A.S., great grand father of the Holy Prophet S.A.W. and chief of all the steadfast Muslims was a special devotee of Allah. He was the most straightforward. His sincerity has been prescribed as a model for the Islamic people by the last Messenger, the Holy Prophet Muhammad S.A.W.

7. Significant Verses :

- (i) Verse 5 - Full details of the process how men are born from mothers' womb, then come of age and die on the end of this temporary life.
- (ii) Verse 35 - How the pious people fear from Allah
- (iii) Verse 41 - How the pious people establish Allah's system by personal efforts to get His bestowments.
- (iv) Verse 78 - The best method of Jehaad (striving to spread truth and fighting to defend the religion of Allah).

8. Conclusion :

Sura Hajj basically teaches Muslims to remain pious. Performing the Hajj has been made obligatory and its methods have been prescribed. This Muslim institution universalises transworld brotherhood of mankind with permissible exchange of goods and services in the great city of Makkah. All the Muslim worship is obligatory without any fail to get the full favour of Almighty Allah herein and Hereafter.

SURA XXIII — AL-MO' MINOON

1. Title :

The last Verse of the previous Sura (Hajj—XXII has been linked in the first Verse of this Sura that the Muslims (peaceful believers) who become Mo'-min (practising Muslims) only they achieve perfection. They achieve the real objective of humanity fixed by Allah Almighty. They love Allah with sincerity following the Holy Prophet S.A.W. perfectly as he is the permanent Divine modality.

The title of the Sura "AL-MO'-MINOON" has been derived by the Holy Prophet S.A.W., as directed by Allah, from its first Verse which means the believers or those who become faithful or embrace Islam. Mo'-Minoon is the plural of Momin which is a higher ranking of a Muslim that he believes and sincerely acts according to the Holy Book with inner perfection of pious actions in the modality of the Holy Prophet S.A.W. MO'-MINOON are the fortunate people who become Muslims with total belief in Oneness of Allah, accept the finality of the Prophethood on the last Messenger of Allah, Muhammad S.A.W. and have complete belief in the Holy Quraan as the last and the perfect Message of Allah for welfare of mankind herein and Hereafter.

Title of this Sura makes such sincere Muslims, as the Mo'-minoon, most dear to Allah Suubhanaho Wa Ta'aala up to Qiyamah, the Last Day.

2. Constitution :

118 Verses of this Sura consist of 1840 words which contain 4802 letters

3. Revelation :

This Sura was revealed to the Holy Prophet S.A.W. by Allah S.W.T. in the Holy City of Makkah.

4. Context :

The basic context of this Sura is sincerity of faith in Allah and complete obedience to Him in daily routines. This is by following with love the most ideal life pattern of the Holy Prophet Muhammad S.A.W. who is the last Divine model of piety and righteousness from Allah S.W.T.

5. Objectives/message :

The basic objectives of the Sura lie in assuring the sincere Muslims that Allah is;

- The best guide to the destination (Khyrull Muunzi-leen);
- The best Provident (Khyruur Razi-geen); and
- The best source of Mercifulness — (Khyruur Rahimeen).

The Sura directs the believers to act upon the revelations of Allah by following the Holy Prophet S.A.W. in letter and spirit. All the creatures worship Allah. Therefore, Holy Prophet Muhammad S.A.W. has brought the message of Allah for similar Divine worship by human beings on the prescribed method. This is the basis of the preachings to the mankind by all the Prophets. A Prophet motivates the people in a perfect manner that the followers easily understand him and act upon as he teaches. It is the basic duty of a Prophet to inculcate his people not to follow the Satanic ways.

The Sura describes the best characteristics of the Mo'-mineen that they:

- Establish Prayer with spirituality;
- Love Allah (S.W.T.) and the Holy Prophet (S.A.W.) with sincerity;
- Reject evil with integrity;
- Spend wealth on the poor and the needy;
- Shun ludeness and upkeep chastity;
- Fulfil obligations and agreements with honesty.

The Sura also fixes standards of becoming good Muslims by:

- Achieving inner fear of Allah to remain pious;
- Accepting all the commands of Allah;
- Never equate, associate any one as Allah;
- Providing necessities to the have nots in the love of Allah;
- Excelling in pious and righteous deeds; and
- Keeping fast to their hearts to see Allah in Eternity.

Sura also stresses the disbelievers the establishment of the Day of Resurrection and the Day of Judgement with full justification to reward the righteous and punish the wrong doers. Therefore, associators, equators, idolators and disbelievers should accept the truth presented by the Holy Prophet Muhammad, S.A.W. as the last and best religion of Allah.

6. Gist of the Text :

- Sections 1 to 3 stress that the believers should establish the Salaat (Muslim Prayer) with

sincerity and devotion. They should control their sexual urges and never commit any adultery. Allah will send to Paradise only those who remain honest, pious and righteous in all dealings. Man was created out of black clay. Human beings have been bestowed with the best bounties of Allah. All products from agriculture, as the fruits and the soil foods, cattle fats, sea food, trade and commerce riches and affluence are the bestowments of Allah Almighty attained by prescribed manners. Therefore, in gratefulness human beings should accept the preachings of the Holy Prophet, S.A.W. Only the sincerest love of a person with Holy Prophet and actions according to his inculcation can make a Muslim a good Mo'-min.

All the Prophets were human beings. Jesus was also a Prophet and a devotee of Allah and was the son of Virgin Mary. In the same way the Holy Prophet Muhammad S.A.W. was also a similar Prophet of Allah but most exalted in status.

- (B) Sections 4 to 6 describe that Allah knows every deed of every one. Allah rejects all sort of sectarianism as the Divine religion is united one. The human welfare lies in following the Holy Quraan and the life pattern of the Holy Prophet Muhammad S.A.W. No excess is done against a person by nature or destiny but such individual is cruel to himself for the misdeeds he commits. People do not understand the regulations of Allah and the preachings of the Prophets. It is only Allah Who with ease manages the entire universe. The Last Day is to come. People should remain pious to get reward in the life after death. Definitely the wrongs and misdeeds are to be severely punished.

The satan allures people to commit misdeeds so that they do not achieve success. Such people will be thrown in the hell. Then they will know the value of piety and righteousness. Allah is most Gracious and most Merciful but only patience, piety and righteousness will be accepted by Him to be honored on the Day of Judgement. The highest authority of all affairs lies in Allah. Allah bestows His bounties to His great friends amongst Prophets and righteous people. Allah is most Affectionate, most Merciful.

7. Significant Verses :

- (i) Verses 1 to 5 - The believers who are numble in prayers, avoid vain talk, pay Zakaat (dues), guard their modesty and remain pious are most successful.
- (ii) Verses 8 to 11 - Those who honor their trusts and agreements, guard Prayers and remain righteous will get Paradise.
- (iii) Verse 12 - Man was created from finest extract of clay.
- (iv) Verse 52 - Muslim Omma is united Omma.
- (v) Verse 61 - Muslims hasten in good deeds.
- (vi) Verse 62 - None is burdened beyond capacity.
- (vii) Verse 80 - Allah gives life and death and He changes day into night.
- (viii) Verse 96 - Repel the evil with the profoundest methods.

8. Conclusion :

The Sura basically cultivates a great confidence amongst the believers to maintain their purity in faith. It instructs the disbelievers to come in the fold of religion of Allah to save themselves from punishment Hereafter.

SURA XXIV — UN-NOOR

1. Title :

The title of this Sura has been derived from its Verse 35 as guided by Allah. The Divine term Noor may be translated as Divine Light providing spiritual light to man. Verse 35 states that Allah (S.W.T.) is the Light of the heavens and the earth. He illuminates the sun of this earth which provides light the other objects making them par brilliant. Allah makes the sunshine so powerful that it eliminates the darkness all around. It is all due to the light that all

vegetation, crops, fruits and earth as well as atmosphere get the vitality for human utility.

As such the Arabic term Noor (Light) is used for Allah Who makes the Divine shine the real basis of human enlightenment to bring purity with piety. Man conquers the other universe with the mental illumination bestowed by Allah to mankind through divine gates of knowledge. Continuous new knowledge comes through light of Allah on the facts of life in this universe. So Noor (Light) is the basic bounty of Allah for humanity to achieve sexual, mental and spiritual chastity. Thus men achieve the crown position amongst the creatures. The authenticity of knowledge becomes perfect in the human intellect if it emanates from the Divine light by infinite methods. It provides the human mind inner enlightenment. The spiritual power bestowed by Allah S.W.T. brings sensation to the sixth sense power of perception.

Light travels in speediest and very direct velocity of 298000 K.Ms. per second. The speed of the Noor (light) of Allah Almighty will be billion folds. If He bestows ordinary Noor (Divine light) to man as His crown creation and to His Prophets and Auliya' (Divine friends), His special Noor, one cannot imagine the richness of the vision of such great men. Allah has provided His this uniquely special Noor (Divine light) to the Holy Prophet S.A.W. for the spread of the light of Islam which illuminates the universe in a par excellent manner.

2. Constitution :

This Sura has 64 Verses contained in 9 Sections.

3. Revelation :

This Sura was revealed to the Holy Prophet S.A.W. by Almighty Allah in Madina Munawwara.

4. Context :

The first Verse of this Sura is linked with last Verse of the previous Sura (XXIII). Allah is Khyruur Rahimeen (Best in Mercifulness) to reveal Sura Noor to give His Divine light to humanity to achieve spirituality as pious Muslims of integrity. This is possible only by adopting the Holy Prophet's modality.

Divine enlightenment helps to establish pure community life through an individual piety which leads to establish civilized society. It is the basic subject of this Sura. It is fundamentally concerned with the implementation of Islamic system. The perfect character building of men is the main subject of this Sura.

5. Objectives/Message :

The basic objectives of this Sura are the protection of the chastity, sanctity, piety and purity of the female folk by the Divine enlightenment. None should enter the house of others without permission. If there is no response of a male behind the door there is complete prohibition for a stranger male to enter that house.

All the Muslim females have been instructed to be very particular about Islamic 'hijaab' (veil). It is to maintain Divinely protected female sanctity in light of Islamic Shariah. This is profound socio-psychic first line measure of self preservation of chastity by self defence of a female against the so called sexual freedom of the Western permissive society. The most serious threats to the female sanctity in each society today are serious crime of rape, forced fornication, enticed adultery or homo-sexuality. It is basic duty of state to fix very severe punishments for sexual offences to maintain human chastity to establish a piously stable society.

The problem of adultery has been given a special attention if contracted with mutual consent of male and female. Both are liable to serious social defence action because the purity of humanity lies in piety and personal chastity of each individual. If any male or female committing adultery is unmarried, their punishment for committing adultery is somewhat lesser. But if

someone of them is married then the Islamic punishment is very severe that when such male or female had the legal venue of sexual expression, why they violated the rules of social control, of the society and norms of the community.

No mother or father anywhere in the world would like their daughter raped or sexually harassed. This is how the Holy Quraan has assigned a great sanctity to the female chastity as a pivot of establishing a profound social system of good standing. Great cultures and civilizations perished and strong nations were ruined due to sexual crimes. The sex lust of men and the blind sexual urge of rulers, unnatural sex offences amongst people and female un-chastity demolished the social orders of highest societies. So this Sura Noor provides heavenly light to guide Muslim societies to keep the best social order.

6. Gist of the Text :

- (A) Sections 1 to 3 of this Sura prescribe unchangeable Divine rule that the illegal sex or adultery contracted by male or female be punished compulsorily with 100 stripes without any mercy. A group of believers should witness the administration of such deterrent punishment. The adulterer men marry adulterous women. The pious women get pious men as spouses. Adultery against chaste women as rape has been subjected to much more deterrent punishment. The method of proving innocence in adultery allegation is defence by pure witnesses. Allah knows everything as only He is Most Gracious, and Most Merciful. Believers should not follow the footprints of satan and should remain pious in all circumstances.
- (B) Sections 4 and 5 describe the method of approaching others at their residences. No stranger male can enter any house without presence of a male household. Female folks have been guided to best keep their chastity and purity under full dress. The method of Islamic 'hijaab' (veil) has been prescribed. The female folks have been prohibited from showing their beauty and ornaments which may allure men for sexuality. Females can have exposure only before the blood kith and kins with whom marriage is prohibited. The method of remorse and Tauba (repentance) from Allah has been laid down in wrong sexuality cases when state has not been intimated to settle sexual offences.

Verse 35 gives the scientific and spiritual description of the formation and up-keep of heavens and the earth through Allah's Noor (spiritual Light). Human beings can get the highest spirituality and best purity through this light of Allah.

Verse 40 is the most scientific Verse in this Sura to prove the authenticity of the Holy Quraan as a pure Divine revelation in its entirety. Holy Prophet S.A.W. born in Makkah, became orphan in infancy, remained unlettered throughout, spent his life on the sands and remained altogether uninfluenced by any human being in all the mundane affairs or in acquiring supreme spiritual knowledge. He never had seen or known the nature of the Arabia peninsula/straight or any ocean what to speak of his know-how of the depth of any sea. The subject of Oceanology has been explained by this revelation of the Holy Quraan scientifically, geographically and profoundly, as conveyed by the Holy Prophet S.A.W. The knowledge of the rising of the waves, the high sea tides, the sea deep sea storms, the most dangerous sea centre for the formation of cyclones and the troublesome situations of the sea has been described in this Verse very precisely. This Verse describes how the sea poses threat to the sea fares on ships and then how these vessels are saved by Allah Almighty.

The Holy Quraan is a Divine bestowment to man with clear proof that such scientific explanation of any phenomena can be only through Divine revelation. No human being can provide such knowledge about the velocity of the sea storms. So only this Verse proves beyond doubt that the Holy Quraan is revealed only by Allah to its each alphabet. The Holy Prophet Muhammad S.A.W. only conveyed it to mankind through its pure revelations from Allah as His Last Messenger.

- (C) Section 6 states that all the bounties come from Allah. Therefore, man should always follow His straight path to worship Allah with obedience to the Holy Prophet S.A.W. The decision of the Holy Prophet is the final decision in all matters as he never speaks without Allah's Order. No body can challenge the same. Whenever the Holy Prophet S.A.W. calls anybody for any duty such person should report to him without a moment's delay.

Wrong oaths have been banned. Only the pious people should prefer witnesses on oath to get reward from Allah

- (D) Sections 7 to 9 state that only the establishment of Salaat (Muslim Prayer), the payment of Zakaat (compulsory dues), the obedience to the Holy Prophet S.A.W. and the straightforwardness can get the Divine reward. Three times have been fixed as off hours. No body should come in without permission. Such females who are too old or handicapped or have no sexual urge and have reached too old age are allowed relaxation in the Islamic veil and to openly move-out. Believers who accept the revelations of Allah and act upon the instructions of the Holy Prophet, S.A.W. receive the best guidance.

7. Significant Verses :

- (i) Verse 2 - Men and women guilty of fornication be flogged without mercy. People should see such whipping for general deterrence.
- (ii) Verse 4 - Charging any chaste lady is also liable to severe whipping.
- (iii) Verse 27 - Do not enter others' houses without permission and without salutations, when permitted.
- (iv) Verse 31 - How to maintain modesty of Muslim women - details about chastity, veiling and concealing beauty from the strangers.
- (v) Verse 35 - Allah is the Light of heavens and earth - described.
- (vi) Verse 40 - Scientific explanation of sea storms.
- (vii) Verse 45 - Allah has created everything from water - details.
- (viii) Verse 51 - When believers fully submit to Allah and to His Prophet S.A.W. they prosper.
- (ix) Verse 56 - Establishing Salaat (Muslim Prayer), paying Zakaat (dues) and obeying Prophet (S.A.W.) gets the Mercy of Allah.

8. Conclusion :

This Sura provides the Divine light for spiritual exaltation. Deterrent penalties have been enforced to ban adultery as social defence against ills of society for sexual purity. Female chastity and strict rules of privacy have been given in detail.

[Here ends Division Four of the Holy Quraan]

DIVISION (MANZIL) FIVE OF THE HOLY QURAAAN

From Sura XXV to XXXV constitute the fifth Division (Manzil) of the Holy Quraan pertaining to the in depth motivation of the faithfuls for spread of Islam as the religion of universality. Division Five lays down principles for collective life and social control.

SURA XXV — AL-FUURQAAN

1. Title :

The title of this Sura has been derived from the word AL-FUURQAAN in its first Verse which means the distinguisher. This is the title of the most repeatedly read revealed Book. It contains the criterion of distinguishing right and wrong. Equating objects with Allah and

idolation against the purity, piety, sagacity, righteousness and straightforwardness of the Muslims is totally prohibited. Strict belief on the Holy Quraan is basis of the Islamic faith. Only the Holy Quraan is the best Fuurqaan—the Divine distinguisher of right from wrong.

2. Constitution :

This Sura has 77 Verses which consist of 892 words containing 3703 letters.

3. Revelations :

This Sura was revealed by Allah to the Holy Prophet S.A.W. at Makkah-tull-Mukarrama.

4. Context :

The last Verse of the preceding Sura re-affirmed that Allah being the Supreme controller of everything and the source of all enlightenment knows everything we do to the minutest extent. The first Verse of this Sura has close continuity to reveal that Allah has bestowed the Holy Quraan to His most exalted devotee Muhammad S.A.W. as a distinguisher of right from the wrong as the Divine standard bearer.

Seven unique glories of Allah have been distinctly described in this Sura that he is -

(a) The Living (b) The Knowing (c) The Promising (d) The Controlling (e) The Hearing (f) The Revealing. Through all these glories, Allah has made the Holy Prophet and the Holy Quraan the Divine standards to distinguish the evil to protect the righteous.

The Holy Quraan revealed by Allah upon His most beloved devotee, as His last ideal, the Holy Prophet Muhammad S.A.W. is a great source of guidance for the entire mankind up to the Day of Resurrection. All the critical questions raised by the pagans of Makkah and the disbelievers against the Holy Prophet S.A.W. have been answered with full justification. The disbelieving Quraish chiefs and the idolators of Makkah and its vicinity have been explained the truthfulness of the Holy Quraan. The Divine bestowed Prophethood to the Holy Prophet Muhammad S.A.W. as the last and the best Messenger of Allah has been established.

5. Objectives/Message :

This Sura describes that the Holy Quraan was revealed upon the Holy Prophet S.A.W. only and only by Allah S.W.T. This book is revealed by the Creator of the universe. He has fixed the fate of all the creatures, except the mankind who have been given the distinction between right and wrong. Therefore, this is the Book which guides human beings to maintain the standards of righteousness, rejecting wrongness. Disbelievers are destined to be punished and the believers are entitled to rewards. This is how this Sura has a very fine distinction between right and wrong as well as the pious and the guilty.

6. Gist of the Text:

- (A) Sections 1 to 3 state that the Holy Quraan has been revealed by Allah as a Divine distinguisher of right and wrong. It is Allah Who creates and sustains all the creatures. Why people worship idols as these self-made objects cannot do any good to anyone. Whoso says that the Holy Quraan is the creation of the Holy Prophet S.A.W. or some body else will face disaster. Disbelievers say that the Holy Prophet S.A.W. is just a man like them. Why an Angel has not been made Prophet instead of this human being (the Holy Prophet). The Holy Quraan says that it is so because the previous Prophets were also human beings. Allah is the Sustainer of all the creatures. All those who reject His Revelations will be punished. The Holy Prophet S.A.W. has been directed to continue inculcation of the message of Allah with patience. The boastful people who are envious of him jealous against his preachings will definitely be ruined.
- (B) Sections 4 to 6 state that the Book revealed to Moosaa A.S. (Torah) and the help given to him through his brother Haroon A.S. was not taken in good faith by their nation. Similarly Noah A.S. was rejected. The people of Aad and Samood rejected their Prophets. Therefore, all of them were ruined. The people who do not believe are just like animals because they do not understand the truths of Allah.

Allah has made the night for your rest. People get lot of luxuries due to Allah's bounties, for which mankind should be grateful. The people who disbelieve are liable to Jehaad (fight) against them.

Allah Almighty gives the example of two seas. One is bitter and another is sweet. Both of them meet together but still there is a gulf between the two that the sweet remains sweet and the bitter remains bitter.

The human beings have been created from a mean drop of water. Why do not they understand their basis and rebel against Allah. Prophet Muhammad S.A.W. has brought the good news and also is a Prophet for the mankind to the Day of Resurrection. He is the all time Blessing of Allah to all the mankind to make the people truthful.

Only Allah be worshipped Who has made the heavens and the earth with so many glittering stars, the sun and the moon. Whoso struggles in the way of Allah will get rewards on the Day of Judgement. Whoso commits wrongs casually may be forgiven. For such Divine pardon remorse is must as Allah forgives only those who repent. The people who follow the revelations will get the right way and all the disbelievers will be thrown in the hell.

7. Significant Verses :

- (i) Verse 1 - The Holy Quraan is a Divine ...criterion to sift-out and distinguish the right from the wrong.
- (ii) Verse 53 - Allah has made two seas to flow freely, the one sweet that subdues thirst by its sweetness, and the other saltish that burns by its saltness; and between the two He has made a barrier and inviolable obstruction.
- (iii) Verse 56 - The Holy Prophet S.A.W. has come for good news to spread piety and make the people righteous.
- (iv) Verse 70 - To remain righteous after repentance is real success.
- (v) Verse 71 - True repentance means that again mis-deeds are not contracted by a follower.
- (vi) Verse 74 - Wife and children are comforts of eye if they remain righteous.
- (vii) Verse 77 - The Holy Prophet S.A.W. testifies that Allah pardons only those who remember Him the best. The falsifiers of truth will face its consequences.

8. Conclusion :

This Sura lays down the distinction between the right and the wrong. The Holy Quraan is the great Divine medium of such distinction as the Furqaan being the distinguisher of the pious people from those who are sinfult.

SURA XXVI — SHU-'AA-RAA'

1. Title :

The title of this Sura has been selected from its Verse 224. "Shu-'aa-rra' is the plural of Arabic term "Sha-'irr" meaning the poet. The pagan chiefs of Makkah forced the people to idolatry which was rejected by Islam. The Unity of Allah Almighty is the only true reality in Islam. To hold the inculcation of the truth of Islam and the preaching of the Holy Quraan as futile the disbelievers started to propagate that the Holy Prophet S.A.W. was just a poet. They claimed that he is astray from the facts due to his poetic dictions and projection of his personal contentions as futile poetic feelings.

Allah condemns the poets who present their mental views through poetry without reality. Their verses, hymns, stanzas, rhythms and dictions are based on their own imagination. The Holy Prophet S.A.W. is not at all a poet. The Quraan contains Verses of Allah which are no human creations. He is unlettered (Ommi) Nabi (Divine foreteller) who has revealed the Verses

of the Holy Quraan by Allah which are not at all his poetic dictions. He has nothing to do with poetry and he is not at all a poet.

2. Constitution :

This Sura has 227 Verses with 1279 words containing 5540 letters.

3. Revelation :

The Sura was revealed to the Holy Prophet S.A.W. by Allah S.W.T. in Makkah.

4. Context :

The Holy Prophet S.A.W. was preaching day and night the truth revealed to him by Allah through the Holy Quraan with full sagacity and sincerity. The humble inculcation by him was resisted by the idolators who considered the Holy Quraan as poetic dictions of Muhammad S.A.W.

An aspersion that the Holy Prophet is a poet is not at all True. Muhammad Sallallah hoo Alyhe Wassallam (Allah's Blessings and salutations on him) is the Last Messenger of Allah Who preaches the truth. Poets indulge in self exaggeration of their inner feelings without reference to reality but the Holy Quraan is a Divine revelation of great reality.

5. Objectives/Message :

The Sura basically rejects the criticism of the disbelievers about the revelations of the Holy Quraan presented by the Holy Prophet Muhammad S.A.W. He presents only the revelations of Allah. Verses of Allah are not at all poetic dictions. Allah has condemned the poets. Their poetry is without reality. All the satanic forces present wrong notions. No force on earth can produce a smallest Sura like that of the Holy Quraan as repeatedly challenged by Allah. No one has been able to accept that challenge of Allah in these fourteen centuries to coin a small Sura. Even a Verse like that of the Holy Quraan could be produced by anyone. The Holy Prophet S.A.W. was altogether an unlettered Prophet who was all the times inculcated every bit of in-depth knowledge by Allah. No one has claimed in these 1400 years to have taught him the method of evolving such Verses and he himself was altogether unlettered. Therefore, the Holy Quraan purely is a revelation of Allah Almighty. The Sura basically lays down the following characteristics in the faith of a Muslim and qualities of the practical life of a Mo'-min:

Characteristic of a Muslim:

Qualities of a Mo'-min:

- | | |
|--|---|
| (a) Sincere belief (Eemaan); | (a) Lawful earnings (Rizq-e-Halaal); |
| (b) Perfect knowledge (Ilm-e-Kaamil); | (b) Reliance on Allah (Tawaq-qull); |
| (c) Pious deeds (Uml-e-Kaamil); | (c) Contentment (Qana-'ut); |
| (d) Righteousness (Haqull yaqeen); and | (d) Patience (Sabr) with gratefulness (Shkr); and |
| (e) Remembrance of Allah (Zikrullah). | (e) Preaching of Islam steadfastly (Tableeg-e-Haq). |

6. Gist of the Text :

- (A) Sections 1 to 3 assure the Holy Prophet S.A.W. that Allah has revealed him whole truth for the betterment of mankind. He should convey it with full confidence that the people should understand to practise the Quraan as true revelation of Allah.

All the greenery on earth presents the clear signs that it is grown by Allah. Prophet Moses also was falsified by Pharaoh. Similarly other Prophets of Allah were also challenged when they brought to their nations such truthful revelations.

Prophet Moses confronting the magicians of Pharaoh convinced them all about truthfulness of his Prophethood. Thus all the magicians embraced Islam. Similarly the revelations in the Holy Quraan contain the same truth. Arch Prophet Ibraheem A.S., the straightforward, was exalted that he conveyed the truth with full sincerity. All those who accept the truth with full sincerity get Allah's bounties but all those who falsify Allah's revelations will be punished where no one will help them in any capacity.

- (B) Sections 4 to 6 state that every body should be very obedient to the Holy Prophet S.A.W. Only then Allah will confer His Mercy. Prophet Noah A.S. was rejected and the

punishment of Allah followed. The historical fact of the ruination of the people of Aad shows that it is only Rubb-ull-Alameen Who can save in all circumstances. No superpower can save any body from the punishment of the Day on the Judgement. The nation of Samood rejected Prophet Saleh Alyhiss Salaam (A.S.). So they were punished with ruination. The people of Luut A.S. were worst criminals. So they were punished. Similarly the people of Shoaib A.S. disobeyed. They were also punished.

Whoso says that the Holy Prophet S.A.W. was just a poet is totally wrong. The Quraanic revelations of Allah are similar in sequence as Allah revealed in the previous Books. Therefore, the believers should take the truth of the Holy Quraan as granted. No evil force or satanic power can exalt anyone to be Prophet. The people who commit cruelties will get retaliatory punishment from Allah herein and Hereafter.

7. Significant Verses :

- (i) Verses 1 to 9 - The Holy Quraan is true revelation of Allah. People must believe to get bounties of Allah herein and Hereafter. The Holy Prophet S.A.W. should not worry for all humanity to come to the folds of Islam. His job is well done. Now everyone is responsible to accept truth.
- (ii) Verse 224 - The poets stray in darkness (so such poetry is in clash with the Quraan).
- (iii) Verse 225 - Poets wander in every valley (to present their own conjectures).
- (iv) Verse 226 - Poets say what they Do not practise.
- (v) Verse 227 - The people who believe and act pious are the successful.

8. Conclusion :

This Sura re-assures the truth of the Holy Quraan as pure revelation of Allah. Truthful Prophethood of the Holy Prophet Muhammad S.A.W. as the last Messenger is a Divine reality which must be accepted with inner sincerity. He (S.A.W.) never is a poet and whatever he presented is revealed to him (S.A.W.) by Allah as the real Divine truth.

SURA XXVII — AN-NAMAL

1. Title :

Title of this Sura has been derived from its Verse 18. Namal means an ant. Sura Namal has a close link with previous Sura (XXVI) Ush-Shu-'aaraa'. Sura XXVI assure the staunch Muslims of pure belief a great relief from Allah. This Sura Namal secures the best bounties of Allah who preach others the real boon of Islam with self-perfection and self-reverance.

It may look strange that a big Sura should have its nomenclature in the name of the slowest and smallest animate creature of Allah. Allah has not made anything in vain, as again and again repeated in the Holy Quraan. Ant is the most organized, sensitive, busiest, all alive and diligent creature of Allah. Great Prophet Sulymaan (Soloman), a prophet common to Jews, Christians and Muslims, was the greatest king on earth and a Prophet for all the creatures. He was enjoying the highest power but was always humble, obedient, submissive and grateful to Allah for His such bounties. But on the other hand Pharaoh, Shiddad, Hamaan, Nimrood etc., were all arrogant despotic kings of their own lands who were Divinely condemned herein for their cruelties, boastful, unjust, corrupt, immoral and adverse rule.

Prophet Sulymaan A.S. as the greatest king was marching on with his strong armies. He listened to the call of the smallest Queen of the smallest creature of Allah, the ant, and took full care of these least important living bodies. He was controlling all the kings and queens of that period. He ushered in full justice with equity to all the human beings including all the other creatures including the ants. The ants are the most numerous creatures of Allah so organized

which outnumber all the living species on the earth. Due to these reasons Allah might have directed the Holy Prophet S.A.W. to give this Sura the title of Namal (ant).

2. Constitution :

93 Verses of this Sura have 1317 words containing 4799 letters. As such it is a good length Sura in the name of ant the An-Namal.

3. Revelation :

This Sura was revealed upon the Holy Prophet S.A.W. by Almighty Allah in the Holy City of Makkah to explain to the pagans the great facts about the previous great Prophets of Islam.

4. Objectives/Message :

This Sura describes to the disbelievers, infidels, pagans, Jews and Christians the truth of Islam and the precision of the Verses of the Holy Quraan. The Holy Quraan provides authentic details of the history of mankind. The Holy Quraan says that no creature of Allah is useless and in vain. This Sura attaches great importance to smallest Divine creature ants showing them busiest for 24 hours. Ants are the most organized creature of Allah. The Sura presents the humility, sincerity, integrity and honesty of the highest level devotees of Allah as His great Prophets as very humble devotees of Allah S.W.T. Some of them were great kings but remained submissive and straightforward men. They had Divine powers with great miracles but full of humility to Allah Almighty and very kind to His smallest creatures. Thus only Islam, the Holy Quraan and preachings of the Holy Prophet S.A.W. herein and Hereafter are the best, purest and just to establish an equitable society full of piety, equality and honesty.

5. Gist of the Text :

(A) Sections 1 to 3 of this Sura describe the highest sanctity of the Holy Quraan as true revelation of Allah Almighty with highest authority and most authentic knowledge for human prosperity. But it can benefit only those:

- (a) who are believers;
- (b) who establish Salaat (Muslim Prayer);
- (c) pay Zakat (compulsory dues); and
- (d) believe in the hereafter.

The punishment and rewards for sinful or pious deeds here will be decided by Allah on the Day of Judgement.

Prophet Moses with his miracles was sent to Egypt to guide the Egyptian despotic king Pharaoh and his people to the straight path but he became arrogant, rebellious and most discourteous. He disobeyed Allah as an arrogant and boastfully super power. But Sulimaan (Solomon) A.S. was much greater Prophet king than Pharaoh. When he was conferred knowledge, authority and governance upon all the creatures he was more humble, obedient, grateful, most pious and most straightforward devotee of Allah. Solomon looked after the smallest creature of Allah (ants) from being crushed by his most powerful forces on earth. He personally persuaded the queen and kings of that time to desist from paganism, bringing them to straight path as humble servants of the religion of Allah.

(B) Sections 4 to 7 relate the misdeeds of the nations of the past which were ruined for their disobedience to the revelations of Allah. The Israelites detracted from the reality. Only the true Islamic belief and worship to Allah Almighty with sincerity can lead to success to Eternity. Therefore, the Prophet of Islam being the last and the ideal Prophet was bestowed the pure, perfect and fullest knowledge to take the humanity to prosperity. So Islam must be accepted by all as true religion of Allah Almighty.

6. Significant Verses :

- (i) Verses 1 and 2 - The Holy Quraan is clear in meaning and is a good news for the pious.
- (ii) Verse 30 - The Tasmia-tull-Quraan-Bismillah- has been incorporated as a Verse being the preface of a letter from Prophet Sulimaan.
- (iii) Verse 40 - The gratefulness (Shukr) of Allah is the best human quality so dear to Allah Almighty.
- (iv) Verse 69 - Travel in the land and see how bad was the end of the sinners.
- (v) Verses 76 and 77 - The Quraan is the guidance and the source of grace for the believers.
- (vi) Verse 89 - Whoso brings good deeds will get better rewards.
- (vii) Verse 92 - Whoso comes to guidance does so for himself/herself.

7. Conclusion :

Sura Namal (ant) teaches mankind the piety of Islam with sincerity to establish a just society free from cruelties. Islamic equality with piety can be achieved by following the Holy Quraan and the last Prophet of Allah S.W.T. with humility.

SURA XXVIII - AL-QA'SAS'**1. Title :**

The title of this Sura has been derived from its Verse 25. Qasas means a true story with profound correlation of the facts in exact sequence. As a matter of fact this Sura presents the full account of a great Prophet of the Holy Quraan, Moosaa A.S. (Moses), whom Jews consider to be their final guide to divinity. Rather he is an incarnation of the spirituality of divinity under the Torah Verses engraved on the mount Toor by God's personal bestowments to Moses. The religious riddles of Jews relating to Moses have been discussed in full details in several Suras of the Holy Quraan. All these events about Moses have been combined in this Sura in a very logical manner in sequence for logical projection of the same by the Holy Prophet Muhammad S.A.W. to his followers for guidance and to the Israelites to follow the real truth. This is for the convenience of Jews to corroborate these true events of the Quraan about Prophet Moses from their original Torah to accept the truth of the Holy Quraan to embrace Islam.

2. Constitution :

88 Verses of this Sura consist of 441 words which contain 5800 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed by Allah to the Holy Prophet S.A.W. in the Holy City of Makkah.

4. The Context :

Sura Mo'-minoon (XXIII) builds up a profound Muslim character, Sura Noor (XXIV) brings up pure individuals in pious Islamic atmosphere. Sura Fuurqaan (XXV) clearly establishes that the Holy Quraan is the only most distinct and an all times best guide to the Muslim Omma. Sura Ush-Shu-'aaraa' (XXVI) rejects the poetic fallacies to establish the Islamic realities. Sura Naml (XXVII) teaches the Muslims humility before Allah Almighty and sincerity to the purpose of Islamic society on the Holy Prophet's S.A.W. modality. This Sura (XXVIII) includes the permanent methods of motivation of Muslim people to remain pious, straightforward and righteous for a just social order of a profound Islamic system under each

Muslim nation to evolve a best Muslim Omma.

5. Objectives/Message :

The main objectives of this Sura are:

- (i) The Muslim Omma should understand that the pagan and imperialist exploiters in all ages have been trying with their evil force to block the right path of justice, equity, piety and righteous obedience to Allah's guidance. Their materialism demands so. It is only the system of Allah with Divine guidance which can save all of us from exploitation and injustice ;
- (ii) The business cartels, commercialist, capitalist exploiters and tax evaders want to concentrate wealth in their clutches by hook or by crook with totally unjust usurpation. Muslim Omma must be on their guards. They should be always alert to maintain Allah Almighty's standards. Only the progressive farmers, right industrialists, honest commercialist, law abiding bureaucrats, just capitalists and the pious rulers are the really most wanted people who can bring social justice in an Islamic welfare state ;
- (iii) Only the Islamic system (Nizam-e-Mustafa) as ordained by Allah in the Holy Quraan and practised by the Holy Prophet Muhammad S.A.W., is the best. All the Muslim nations, their politicians, rulers, legislators, bureaucrats, commercialist, traders and commoners are skeptical about implementation of 1400 years old concepts but they least better to accept Islamic just order.

Muslim nations today are in the clutches of the Jewish interest stricken exploitative economies sucked by dishonest, corrupt and totally unjust forces in each Muslim country. Muslim majority must discipline themselves and become diligent like the Naml (Sura XXVII) (Ant) to early eliminate the unjust colonial based exploitation of their few haves in each country. Only the perfect Islamic justice system of the Holy Prophet S.A.W. based on the Holy Quraan and his Sunnah can usher in a peaceful and just society. Muslim masses must shun away their illiteracy. People of Islamic nations at large should use their silent majority and leave their shyness to implement the boon of Islam.

6. Gist of the Text :

Sections 1 to 4 of this Sura re-assure the perfectness of the revelations of Allah. Comprehensive historical events about Prophet Moosaa (Moses) A.S. have been described from his birth to his socialization in the palace of Pharaoh. He killed an Egyptian Coptic by error and migrated to Madyan City. Then he served Prophet Zakariyya A.S. who married with him his daughter. Then he started Prophetic preachings. In his open competition with Pharaoh and his people he got freed the Jews from Egyptian bondage doing tough construction works.

Sections 5 to 9 state how the Prophets of Allah are equipped with Divine knowledge to take the people to righteousness, piety and just society. Allah rejects sins, delinquencies, crimes, rebellion, hypocrisy and dishonesty. Allah is always with the straightforward, the pious and the pure in faith. Allah is Provident and Sustainer of the universe. Only the Holy Quraan is the Divine harbinger of just society with prosperity based on equity. All human beings and all creatures are to die except Allah Almighty. Every one is to be awarded/rewarded for their sins/piety on the Day of Judgement.

7. Significant Verses :

- (i) Verse 67 - Who repents and acts pious will achieve success.
- (ii) Verse 82 - Allah increases or decreases provisions. Allah is so kind. Otherwise He can also order earth to swallow the rejectors.
- (iii) Verse 84 - Whoso does good will receive appropriate reward but whoso indulges

in misdeeds will get equal punishment.

7. Conclusion :

Sura Qassas contains the true stories of the past for the Muslims to be pious, straightforward and good followers of the last Messenger. Only then they can achieve in future a best system of Islam based on the Quraan to effectively spread Islam in the World.

SURA XXIX — UN-KABOOT

1. Title :

The title of this Sura has been derived from the Verse 41. The spider (un-kaboot) was selected for the title of this seven Sections Sura only as a Divine simile to take the so fragile and so ordinary cobweb of this delicate, small and weak insect. It is to explain the status of unjust exploitation of so weak and useless parasite spider weaving her cobweb to entrap the other insects to suck their blood or swallow them alive. It lives on the flesh and blood of many type of hard working beautiful insects. It remain 24 hours busy in such cruel exploitation. The strange killing and superstitious hunting of other insects by the spider is done through her so fragile and weakest cobweb net work. In the same way the so called high gentry of poor countries has the base on the unjust black money. The riches and extensive properties of so called higher classes are based on tax evasion and drug money laundering, banks, frauds and smuggling. Black-marketeers, corrupt officials, fraudulent bureaucrats, money grabbing politicians and the exploiter commercialists/industrialists join hands with people in power being feudal lords or imperial forces. All of them extract, exploit and suck the blood of masses like the spider. The people in the sea of poverty are kept in their unjust economic clutches, though they are as fragile as is the spider cobweb.

Therefore, the Sura has been given the name of spider (unkaboot) to condemn the exploitation of the people by the black moneyed minority with their cruel tactics. The evil forces and the unjust powerful fulfil their own ulterior motives, like the spider.

2. Constitution :

The Sura has 69 Verses which consist of 980 words containing 4165 letters.

3. Revelation :

The Sura was revealed by Almighty Allah to the Holy Prophet S.A.W. at Makkah.

4. Objectives/Message :

The Sura has the following basic objectives/message:

- (i) The believers in Islam as poorer classes and have-not followers of the Holy Prophet S.A.W. often face problems in their active life as righteous and straightforward people in the hands of the cruel exploiters. Their confidence has been reposed through this Sura that they have selected a right course of action to help establish a pious society. No evil, corrupt, unjust and cruel forces of exploitation should deter them. Such corrupt and unjust cruels will face ultimate sweep like the cobweb of spider which is defaced by air or is smashed by an animal. Allah loves those believers who surmount all difficulties posed by exploiters. They will succeed to establish the just and equitable system practised by the Holy Prophet S.A.W. as prescribed by Allah;
- (ii) The disbelievers, pagans, idolators and enemies of Islam bank upon their armies, weaponry, super-webbed power net work and mutual cooperation in exploitation of Muslims. They thus try to block the march of Islam and pose hurdles in the way of Muslims. They cannot achieve success if Muslims remain steadfast. Such so called exploiters and unjust superpowers have the same fragile position before Allah as is the

weakest cobweb of spider. Their exploitation is to face Divine disaster ;

- (iii) It is only the way of the Holy Prophet Muhammad S.A.W. which is the right way and leads to the path of Allah in light of the Holy Quraan. Muslims should confidently follow this Divine pattern of the Holy Prophet Muhammad S.A.W. ;
- (iv) The unity of Allah and Oneness of the Almighty is the true faith. Rejecting the idolators, equators, pagans, disbelievers and associators (Muushrikeen) is duty of each Muslim. Only those will be successful who accept Islam and act upon it with full sincerity as prescribed by the Holy Prophet S.A.W. ; and
- (v) The evil forces of satanic nature cannot understand the truth of Allah. But those who follow the Divine truth have full protection of Allah Almighty with His guarantee, and His best bounty.

5. Gist of the Text :

- (A) Sections 1 to 3 explain that the cruel exploitation of anti-Islam forces are ultimately to be brought to book for their cruelties, injustices, corrupt practices, uneven deals and misdeeds. But the Day of Judgement is approaching nearer to award them the punishment and reward the righteous.

The cruel disbelievers seek support from exploiters but nothing will work on that Day. The end of the people of Noah A.S., despite of his 950 years of pious preachings was their ruination for their unjust, sinful and criminal attitude. Similarly all the people of the unjust nation of Prophet Luut A.S. and all the idolators of the nation of Prophet Ibraheem A.S. were washed. The dacoits, murderers, adulterators and criminals will get similar punishment.

- (B) Sections 4 to 7 describe that conditions of the unjust, cruel and evil forces of exploitation is similar as is the disaster of so fragile parasite spider.. Their temporary riches and so transitory power cannot save them in any circumstances.

Verse 45 is the most urgent instruction of Allah to the believers to establish Salaat (Muslim prayer) as it helps to reject the misdeeds, sins and delinquent acts. The way of the Quraan is the only right way to make the social system peacefully pious. Only Allah bestows bounties and only He is the Sustainer Providence who gives without limits to whom He Wills. Religion of Islam is the great bounty of Allah Almighty. It is protected by Him in all circumstances. Allah is bounteous to those who are kind and benevolent.

6. Significant Verses :

- (i) Verse 6 - Whoso strives does so for himself.
- (ii) Verse 8 - Human beings must be always kind to parents but reject their idolatry faith.
- (iii) Verse 41 - The most fragile house is that of spider as it exploits other creatures. So those who exploit other people have no base like the spider.
- (iv) Verse 45 - Prayer keeps away a person from obscenity and ludeness.
- (v) Verse 57 - Every self is to taste death.
- (vi) Verse 62 - Allah increases or decreases provisions of men.
- (vii) Verse 64 - Life of this world is just like temporal sport or useless play.

7. Conclusion :

This Sura stresses the believers to remain righteous, straightforward, pious, benevolent and sincere. The religion of Allah is the only way to be successful becoming a good Muslim to get

the bounties and bestowments of Allah Almighty.

SURA XXX — RUUM

1. Title :

The title of this Sura has been selected from its second Verse.

There were two super powers on the earth during 615 A.D. when this Sura was revealed upon the Holy Prophet S.A.W. This is the year when early Muslims were allowed to take refuge with Christian emperor of Habsha (presently smaller Ethiopia). It was to get saved from the cruelties of the Makkah infidels. The Christian monarch gave these Muslims due respect with full protection. The Holy Prophet S.A.W. prayed for the king of Habsha for his kindness to these early Muslims twice. For this goodwill to the companions of the Messenger of Islam the family of that king ruled Abyssinia (Habsha) till 1970's up to the times Muslims were given due respect in Habsha.

On the one hand of Hijaaz in Arabia there was the greatest Roman empire and on its other hand was the Iranian empire. The Romans also ruled the present Syria, Palestine, Egypt, Israel, Jordan etc. including Jerusalem. They were the staunch Christians and as such were the people of the Book—Injeel (Bible/Gospel). The Muslims as a part of their belief accept Bible, in its original form, as a revealed Book of Allah, as repeatedly authenticated by the Holy Quraan. Prophet Eesa Masih (Jesus) is loved and respected by the Muslims as they love Prophet Muhammad S.A.W. and all the other Prophets of Allah. These somewhat monolithic Christian Romans had a long confrontation with Iranian empire of the worshippers of fire, being followers of Zartasht, the god of fire. These Persian pagans were having association with Makkah pagans as Arab infidels worshipping many idols.

The Holy Prophet S.A.W. presented to the Makki people the light of Islam with steadfast preaching of the Book of Allah, the Holy Quraan. They were persuaded by him to totally reject the idol and fire worship and were inculcated to worship One Allah. But the Makki pagans did not accept Islam. A war broke between the two super powers, the Iranians and the Romans. The pagans of Makkah had their strong affiliations with the Iranians who were also idolaters. Makki pagans were highly boastful of the victory of Iranians over the Romans. All the time the Makkah infidels were teasing the Muslims that not the One God of Christianity and Islam but the pagan idol gods achieve success. Some sincere Muslims of Makkah were dejected by this defeat of the Romans and expressed it to the Holy Prophet S.A.W. He was also somehow grieved due to this defeat of the monolithic Romans.

Therefore, Allah Almighty revealed this Sura as a prophesy for the success of the Romans in the near future which became a reality in 622 A.D. The Holy Prophet S.A.W. defeated the Makkah infidels at Badr on 17th Ramdhan-ull Mubarak, in the famous War of Badr in 2 A.H. at some distance from Madina. On the same day the Romans also defeated the Iranians. This was a long standing aspiration of the Muslims while they were at Makkah.

It is very thought-provoking Sura of the Holy Quraan for the Christian world today. The Pope being in the Vatican city in Rome, is the spiritual head and the holy see for a big majority of Christians around the globe. The Holy Quraan has a full length Chapter called Sura-e-Ruum. Thus Muslims have a great affiliation with the Christians not only through the long historical association of both with Jesus and Bible but also for loose Christian belief in One God. This great Sura maintains a profound affiliation for achieving cooperation for better understanding of Muslims and Christians. Christians should reduce their centuries old totally ethnocentric and prejudicial confrontation with Muslims, specially since the Cross wars (crusades) of 14th century A.D. The modern times Western fallacies about the truth of Islam must be shunned that the natural affiliations of the Muslims with Christians may bring real peace and prosperity to the world.

2. Constitution :

This Sura has 60 Verses which contain 819 words consisting of 3534 letters.

3. Revelation : This Sura was revealed in Makkah-tull-Mukarramah.

4. Objectives/Message : This Sura states that:

- (i) The human beings become arrogant, boastful and over active for meaningless purposes against the bounties conferred by Allah. Instead of remaining grateful to Allah S.W.T. as His pious devotees they consider temporary success in their evil designs as their personal achievements ;
- (ii) Allah bestows everything to man, therefore, only Allah is worth worship. Allah gives life to the creature and puts them to death. He will again give re-birth;
- (iii) The restoration of simple faith in one Allah, the rehabilitation of piety and purity in men in this life as the first step to the understanding of the Hereafter is the basis of the Muslim faith. Superstition and hair-splitting theology of many religions in idol gods is to be eliminated. The rational enquiry for true Divine knowledge and the recognition of Allah covering not merely all the in-animate creature as mother nature but the whole way of life of the human beings must be recognized as in His control ; and
- (iv) The thought, belief and feelings of human beings must change to accept only one Allah as a true Message of Islam. Its struggle and truthful fight continues, but it is not without effect, as may be seen in the march of Islam through these 14 centuries in the world history.

5. Gist of the Text :

- (A) Sections 1 and 2 state that ebb and flow of worldly powers is symbolised in the conflict of the Persian and Roman empires. Sura Unkaboot XXX shows that the exploitation and extortion of others ultimately fails. In that Sura a small parasite and in this Sura the so called super powers faced total failures. Thus it is only Allah Who is always the All-Powerful. In this Allah's universe good and evil reach their final end according to His Will.
- (B) Sections 3 and 4 describe that changes and changing variety in Allah's creation in the physical, moral, and spiritual world point to Unity of Nature and Religion. How man can break away from that Unity? Therefore, human beings should always glorify Him, for there is none like unto Him.
- (C) Sections 5 and 6 state that hands of men have wrought corruption and mischief. But Allah purifies and re-establishes the moral world. The Holy Prophet S.A.W. in Makkah with his companions submitted to Allah S.W.T. for the victory of the Christian Romans against the Iranian Parsis (fire worshippers). It was fulfilled in a very befitting manner some years later when the Holy Prophet had migrated to Madina. Not only the Iranians were given total defeat by the Romans but also the Makka pagans were given crushing blow in the famous war of Badr on the same 17th of the greatest Ramdhan-ull Mubarik. Sura Ruum in this way assures the sincere Muslims that their pious submissions to Allah are definitely fulfilled on fixed hours. Strengthening the weak and pulling down the mighty is the true message of Allah for the Muslims in all the ages. Therefore, Muslims should adopt patience and constancy. The true believers never should be depressed.

6. Significant Verses :

- (i) Verse 6 - Allah always fulfils His promise.
- (ii) Verse 9 - Travel in the earth and observe the fate of the previous disbelievers and arrogant.
- (iii) Verse 19 - Allah brings the dead to life and puts the living to death. Only Allah makes the dead earth alive.
- (iv) Verse 20 - Man created from earth is spread all over.
- (v) Verse 38 - Give the share of relatives, needy and the way-farers.
- (vi) Verse 39 - Investing money on usury and interest never actually increases but money spent in charity is doubled by Allah Almighty.

- (vii) Verse 44 - Who disbelieves will face its consequences. Who believes will get its reward.

7. Conclusion :

Only the help of Allah gives real success to men in all their affairs. The unity of Divinity is the only truthful reality which leads to truthful stability of humanity.

SURA XXXI — LUUQMAAN

1. Title :

The title of this Sura has been derived from the Verse 12. Luuqmaan was a person of great wisdom well known in Arabia before the birth of the Holy Prophet S.A.W. Once the Holy Prophet S.A.W. was shown a book of wisdom by one of his companions who embraced Islam in Madina (Sovard bin Samit) in which it was shown that Luuqmaan had compiled a great treasure of advises for profound social education of men. The Holy Prophet S.A.W. asked this companion to go through the Holy Quraan. That pious companion was convinced that Quraan was a much greater treasure of wisdom providing logical advises with Divine guidance to just, peaceful, and prosperous human co-existence.

Anyhow the Holy Quraan treats Luuqmaan as a symbol of wisdom. Therefore, Allah revealed this Sura in his name to assign him a Divine importance of having preached his son the Unity of Allah and gratefulness to the Creator of this world. He also advised his son to desist from disbelief and fully rely on Allah. Then in Verse 13 Luuqmaan again is shown to advise his son never to associate any object or equate anybody with Allah as it is a great sin of man against Oneness of Allah. In view of this the title of this Sura is very important describing the correct belief of great men in the purity of Divine Unity. Such pure believers will be highly rewarded by Allah as Luuqmaan has been appreciated through this Sura.

2. Constitution :

This Sura has 34 Verses with 548 words, containing 2110 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed to the Holy Prophet S.A.W. by Almighty Allah in the city of Makkah-tull-Mukarrama.

4. Context :

The basic context of this Sura is the Unity of faith on One Allah. People should desist from equating and associating any objects or idols with Allah which is a great sin being "shirk" equation. The Holy Quraan is a Book of Divine Wisdom which has been conveyed by the Holy Prophet Muhammad S.A.W. with still greater Divine guidance for welfare of mankind to the Day of Resurrection.

The man should study the universe and the creatures of Almighty Allah. This profoundest array by Allah justify His being the Sustainer of everything. Therefore, the belief in only One Allah is the real truth. It is similar wisdom and guidance as was conveyed from Allah by the previous Prophets.

5. Objectives/Message :

Following are the objectives of this Sura:

- (i) The Quraan is a Book of Wisdom which is a blessing and guidance from Almighty Allah ;
- (ii) It benefits only those who establish Salaat (Muslim prayer), pay Zakaat (compulsory Muslim dues), believe the Hereafter and are benevolent. They are the people who will get Divine benevolence .
- (iii) The people who do not believe on the truth of the Verses of Allah are destined to be rejected by Allah.
- (iv) Wisdom is the bounty of Allah through knowledge bestowed by Him ;
- (v) Only guidance of Allah is perfect for human welfare ;

- (vi) The rights of the parents and the rights of the infants be preserved. A mother should suckle her child for two years as infant right. (This provides the good gap between birth of next child as being advocated by today's medical scientists and also gives good suckling period to a baby as a child right on mother).
- (vii) Only such people should be followed who are friends of Allah being pious and straightforward;
- (viii) The worst is the voice of the donkey. Therefore, the wise people keep their voice low and remain in humility ;
- (ix) The guidance to religion of Allah is not through inheritance from wrong conventions of the forefathers but the knowledge of the Holy Quraan is the best guide ;
- (x) Allah Almighty is Great, Benevolent and Affectionate that only His remembrance with sincerity should be adopted. He should be praised to the highest extent ;
- (xi) None should be worshipped except Allah as only He bestows every thing ; and
- (xii) The real treasures of knowledge on every subject and all the secrets of the universe are with Allah. He confers His special knowledge to His selected friends of great piety and righteousness.

6. Gist of the Text :

- (A) Sections 1 and 2 describe that only those who follow the Holy Quraan, being pious and righteous, will get guidance. The disbelievers indulge in vanity and they will perish. All the creatures of Allah believe in His Oneness. Only the wise people know the truth and get the bounties of Allah as Luuqmaan got the same being a wise man and truthful devotee of Allah. He taught the unity of faith and instructed to worship only One Allah. Wisdom is a great boon from Almighty Allah which is bestowed to Prophets by Divine Revelations.
- (B) Sections 3 to 4 state that true wisdom is the bounty of Allah which makes a person firm in faith. The laws of Allah about the creation of the universe and His control on everything never change. The Day of Resurrection will be established at the Will of the Creator. The knowledge of the establishment of that Day is only with Allah. Allah knows all the secrets of the universe. Only He knows who is to die where.

7. Significant Verses :

- (i) Verses 2 and 4 - Quraan is the guidance and blessing for those who establish Salaat (Muslim prayer), pay Zakaat (compulsory dues of the have nots) and believe the Hereafter.
- (ii) Verses 17 to 19 - Be regular in Salaat. Bid others to be pious and forbid them from misdeeds. Be patient. These are deeds of courage and resolve. Never speak so loud. Never be boastful. Worst is the braying of the donkey. So keep your voice low.
- (iii) Verse 22 - Whoso submits to Allah S.W.T. and is kind he/she is successful.
- (iv) Verses 26 to 30 - Every thing belongs to Allah. All the seas and all the trees may exhaust, even if replenished, to write praise of Allah but it will not end. He makes the day and night. Allah is truth. Everything else is false.
- (v) Verse 34 - The Last Hour, the rain, what is to wean in the mother's womb (son or daughter) and who will earn what, is only known to Allah S.W.T. (Suubhana-ho Wa Ta'aala).

8. Conclusion :

Sura Luuqmaan is basically a Divine recognition of the importance of knowledge and utility of wisdom for mankind. Wisdom should lead to praise of Allah with piety and righteousness to make individuals humble and grateful to their Creator in all circumstances.

SURA XXXII — US-SAJDAH
1. Title:

The title of this Sura has been derived from its Verse 15 where the word "SAJDAH" occurs which means prostration. The best of worship is Salaat (Muslim Prayer). All the religions have prescribed some sort of prayers to their deities and gods. Islam has prescribed Salaat for Allah. It includes standing straight (as trees stand in worship), kneeling (like all the vertebrates), prostration (like all the insects and creeping bodies) as well as sitting (as all vegetation and marine life sit). The Muslim Salaat as such unites together the method of worship of all the creature. No other man prostrate except a Muslim. Sajdah is the best part of Muslim Prayer as sincerest prostration to Allah in humility is the highest form of submission to Creator.

Adam as the first man became the crown creation of Allah. All the Angels were directed to prostrate him. Only Iblees (Satan) did not prostrate so he was derelicted. This title Sajdah in this Sura has great stress that Allah Almighty loves those who prostrate Him and remember Him much in this position to get His bounties. Whenever this Verse, or other Verses of the Holy Quraan which prescribe Sajdah, are recited or any Muslim listens their Arabic recitation he/she must prostrate, facing the Holy Ka'aaba, placing forehead on pure ground in ablusion.

Sajdah is too favorite to Allah and, its importance was elucidated in this Sura.

2. Constitution :

This Sura has 30 Verses which consist of 380 words containing 1518 letters.

3. Revelation :

This is a Sura which was revealed to the Holy Prophet S.A.W. by Allah Almighty in the Holy City of Makkah.

4. Context :

The basic context of this Sura relates to Divinely qualify that the Book (Holy Quraan) contains a pure Revelation of Allah. None can create a smallest Sura like this. The basic subjects of this Sura are the Unity of Allah, the faith in the Holy Prophet S.A.W. and surety of the establishment of the Day of Resurrection (Qiyamah). There is only One Allah worth worship. None can reveal a single Verse except Allah Who has revealed it to His last Messenger Muhammad S.A.W. The disbelievers must understand that this is the last Message of Allah. Its truth must be understood. All the creations of Allah bespeak His Authority. Man should ponder upon his own creation by Allah. It will establish that all which was created was created by Allah. When will be the Day of Judgment is known only to Allah. It definitely will be established as Divinely fixed.

5. Objectives/Message :

The basic objectives of this Sura Us-Sajdah are:

- (i) Allah is One;
- (ii) None is equal to Him and He has no associate in His affairs. The Holy Quraan is a Book of truth revealed by Allah for the guidance of mankind. It has been revealed to the Holy Prophet Muhammad S.A.W. as the last message from Allah complete in all respects.
- (iii) There is a life after death and the Day of Resurrection is to be established. Everyone will be given new life from the graves and will be taken to give accounts ;
- (iv) Anybody who does not believe in Unity of Allah, Prophethood of Muhammad S.A.W. and the Day of Resurrection is subject to punishment;
- (v) Establishment of the Day of Resurrection and the Day of Judgement is known only to

Allah. Only the pious and righteous deeds will be helpful; and

- (vi) The job of the Messenger (the Holy Prophet Muhammad S.A.W.) is to convey the Message of Allah and it is for the human beings to understand the truth of Divine revelation to act piously to get reward.

6. Gist of the Text :

- (A) Section 1 of the Sura assures that this Book (Holy Quraan) is from Rabbull Aalameen and not a digit of which was created by any man. It is pure creation of Allah Who created the universe. He has the profound Authority. No one dares to recommend anybody except with His permission. Allah is most Affectionate and Most Merciful. He created man from a meaningless drop of water and reposed in him His Spirit. Man should, therefore, be grateful to Allah. Death will come to all human beings.
- (B) Section 2 says that all bounties come from Allah Who is worth worship. All those who prostrate and worship Almighty Allah, remembering Him all the time, sitting, standing, lying, walking and in any other position, they will get the rewards. The persons who are disbelievers never can be equal to persons who are believers and pious. Those who detract from faith will get severe punishment.
- (C) Section 3 states that the previous Prophets, like Moses, also brought the same message but they were also rejected. Many of the previous nations were destroyed due to their disbelief. It is the bounty of Allah Almighty that He has given us the fertile soil which produces best crops on which cattle are fed to give us their flesh, skins milk and fats. Man should keep pure faith to get continued bounties of Almighty Allah.

7. Significant Verses :

- (i) Verses 7 to 9 - Man created from mean water drop (sprout) becomes perfect with bounties of Allah. But being bestowed best provisions from Allah man becomes ungrateful.
- (ii) Verse 22 - The people who do not follow the Verses of Allah are the criminals to be dealt with sternly.

8. Conclusion :

This Sura is basically concerned with pure worship of Allah. Prostration is only for the most benevolent Allah Who confers His bounties to those who believe in His Oneness, accept the Prophethood of the last Messenger and keep faith in the Day of Judgment

SURA XXXIII — AL-AHZAAB

1. Title :

The title of this Sura has been derived from Verse 20. The term "AL-AHZAAB" has been repeated twice which means the attackers. Ahzaab also means the opponent confederates or the allied forces. Both these words have a good significance. On the one hand the word Ahzaab includes a person who attacks and levels wrong allegations against some husband and wife only to poison their relations. The word "Al-Ahzaab" is a reminder to Muslims for all times to come that the enemies of Islam always unite as confederates to attack the Muslims. If such believers remain steadfast and keep their faith in One Allah He will help them against any threat. Actually "Al-Ahzaab" was a great event which occurred around Madina. Disbelievers, pagans, Christians, Jews and anti-Islam forces confederated to attack Madina to smash the Muslim community in its infancy with ten thousand strong armed might. Some of the Jewish tribes were expelled for their crimes of violating the treaty of Madina but some others left Madina in self-exile. They made this anti-Islam confederation in the famous war of Ahzaab in 5th year after

migration for greater confrontation with Muslims. But Islam came out of this trial and became more firm after this war of Trench. This event is known as "Al-Ahzaab" by the Holy Quraan. This full length Sura has been given such title to commemorate this undaunted march of Islam to best success of the Muslims in future. Pagan customs were abolished and threat of hypocrites was exposed for all times through this Sura.

2. Constitution :

This Sura has 73 Verses consisting of 1280 words which contain 5790 letters.

3. Revelation :

Sura Al-Ahzaab was revealed upon the Holy Prophet S.A.W. by Allah Almighty in the city of Madina-tuur-Rasool in the 5th year of Hijra.

4. Context :

The Sura basically presents a true history of Islam. It rejects all the bad customs of paganism and idolatry of the Arab people. This Sura also provides special Divine instructions about the Muslim family life. Specific instructions have been given to the wives of the Holy Prophet S.A.W. as they are the model of chastity for the Muslim Ommah up to the Day of Resurrection. This Sura clearly declares the finality of Prophethood on the Holy Prophet Muhammad S.A.W. as the last Messenger of Allah. All the events to occur in future have been gisted-up in this Sura. Allah has invited the mankind to accept the truth of the Holy Book as presented by the Holy Prophet S.A.W. to get permanent guidance for their welfare.

5. Objectives/Message:

This Sura basically prescribes the profound social system of Islam standardizing the family responsibilities fixing the duties of community and evolving the paramount social control institutions. All the bad customs were totally rejected. The Sura is an Islamic magnacarta of the socio-cultural and group life of the Muslims.

The honor and dignity of the Prophet's household ladies was held so high. Principles were laid down to safeguard their chastity and purity, to protect them from slander and insult. The ladies of the Prophet's household entrusted to themselves social work and the outdoor voluntary task of imparting instructions to the Muslim women to make them well versant about their superior roles. The Muslim women were being trained more and more in community service. Two of them (the two Zainabs) devoted themselves to the unique services to the poor. The nursing of the wounded in the battlefield was specially necessary in those days of warfare. The Prophet's daughter Fatima A.S., then aged about 19 to 20, lovingly nursed her father's wounds at Ohad War in 3 A.H. Rifaida nursed Sa'-ad bin Muaz's wounds at the siege of Madina during the war of Trench in view of the attack by the enemy confederates in the 5 A. H. In the Khybar expedition (7 A.H.) Muslim women went out from Madina for nursing services. Therefore, rules were laid down for Muslim ladies for out-door social work through this Sura.

6. Gist of the Text :

- (A) Section one instructs Muslims that pagan customs of discrimination amongst the human beings are abolished.

This Sura belongs to the 5th Division pertaining to individual and collective duty of the Muslims to be pious, righteous, straightforward and self-disciplined. As practising Muslims they are duty bound to preach the non-Muslims the bounties of Allah in Islam and inculcate the non-Practising Muslims to fully come under the umbrella of Islam. The initial Verses 1 to 3 lay down four basic principles for the preachers as follows:

- (a) The fear of Allah to remain pious; (b) Act upon the Quraanic commands; (c) Remain careful from the hypocrites and disbelievers; and (d) seek refuge under the Divine

protection.

- (b) Sections 2 and 3 describe the event of the battle of the Trench and its lessons for future Muslim strategies. Nature of hypocrites and their threat to Muslims has been exposed. Truthful noble examples of pious people have been made model for Muslims.
- (c) Sections 4 to 6 prescribe the high position and the ideal conduct for the Prophet's wives as Muslim family models. Unhappy Muslim marriages were prohibited under false customs. The Holy Prophet's wives, being highly dignified are all the times highly honorable. All of them must be equally treated kindly and gently with full respect.
- (d) Sections 7 and 8 provide that the respect due to the Holy Prophet S.A.W. and his family should be of the highest order. Slander against pious ladies be taken very seriously and culprits must be punished severely. Every one should guard one's own self and every one is fully responsible for minutest self-actions, without liability to any body else.

7. Significant Verses :

This Sura incorporates some of the most important Verses which provide special instructions to mankind regarding their belief in Allah and His Holy Prophet S.A.W. Some of the most important legislations regarding ethico-spiritual and socio-cultural system of Islam have been laid down in the following Verses:

- (i) Verses 3 and 4 - (Wa tawakal Allallah ---) Only Allah be trusted because He is the best Protector. The adopted sons are not the real sons.
- (ii) Verse 21 - (Laqad kana lakuum fee Rasool Lillah ---) Holy Prophet Muhammad S.A.W. is the excellent model of Allah Almighty as Divine modality setting standards of human piety and righteousness for all the humanity.
- (iii) Verse 33 - (...wa laa tabarr-rajna..) Islam, dislikes the self projection by the female folks as pagan custom. They must maintain their purity and chastity;
- (iv) Verse 35 - (Innal Muuslimeena wal Muuslimati..) The best characteristics of pious men and women entitled to bounties from Allah include modesty, chastity, alms giving, fasting, dignity, devotion and endurance ;
- (v) Verse 36 - (wa maa kana li-mo'minin..) All the Muslims must bow their heads before the decision of Allah and His Prophet S.A.W. in all affairs ;
- (vi) Verse 40 - (Ma kana Muhamma-duun..) None can claim to be son of Muhammad Sallallah hoo Alyhe Wassallam. Muhammad S.A.W. is the last Messenger of Allah S.W.T. (Doors of any type of Apostleship, Messengership and Prophethood have been totally closed after the finality of the most ideal Prophethood of Muhammad S.A.W.).
- (vii) Verse 41 - (Yaaa ayyo hallazeena ..) the real bounty of Allah Almighty lies in His continued remembrance ;
- (viii) Verse 42 - (Wa subbi hoo-hoo..) All the times glorify Allah.
- (ix) Verse 45 - (Yaaa Ayyo-hun Nabi-yo..) The Holy Prophet S.A.W. is a witness, an admonisher and a bearer of glad tidings for the entire mankind ;
- (x) Verse 56 - (Inn- Nallah-ha wa Mala-ee-kata Hoo..) The greatest bounty of Allah Almighty lies in sending salutations with Divine blessings to the Holy Prophet Muhammad S.A.W. Allah joined by His Angels

- sends the Divine blessings on the Holy Prophet S.A.W. in each moment for his great service to humanity ;
- (xi) Verse 59 - (yaau ayyo hun Nabi-yo...) Instructions regarding the Muslim veil for female sanctity and chastity;
- (xii) Verse 62 - (.. wa la tajida li Suuna Tillah..) Allah has fixed routine laws of universal affairs. Allah never changes His permanent regulations under His universal laws;
- (xiii) Verse 70 - (.. qooloo qaulun sadeeda.) Muslims always state the truth in straightforward manners; and
- (xiv) Verse 71 - (yuusbah la kuum... fauzun azeema) If the Muslims follow Allah and His Holy Prophet S.A.W. with sincerity their sins will be remitted in forgiveness providing them dignity in eternity.

8. Conclusion :

Sura Al-Ahzaab is full length Sura laying stress on full care from the enemies of Islam who unite together to fight against the Muslims. It also prescribes social control laws and value structure of a Muslim society with special reference to the family of the Holy Prophet Muhammad S.A.W. who enjoys a whole time respect of all the Muslims in all the ages. All the customs of pagan Arabs are totally abolished. The value system of Islam is supreme and compulsory to establish a profound Muslim society.

SURA XXXIV — SABAA'

1. Title :

The title of this Sura has been derived from its Verse 15. The nation of Sabaa' perhaps the subjects of Queen Sheba (Bilqees) came under Prophet Sulaimaan lived in Yemen as a very prosperous people more than 1500 B.C. Sabaa' people had great dams, perennial canals, lush green big gardens, laden with fruits of all types in all seasons. They had many types of agricultural products. This Sura refers to their disobedience to Allah and punishment for ungratefulness. Therefore, its title is in the nomenclature of Sabaa' people, punished for their disobedience.

2. Constitution :

54 Verses of this Sura consist of 833 words which contain 1512 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed to the Holy Prophet S.A.W. by Allah S.W.T. at the holy city of Makkah.

4. Context :

Allah bestowed to Prophet king David (Dawood A.S.) and his son great Prophet king Solomon (Sulaimaan A.S.) greatest power, of universal kingdom. He had authority on all the creatures with unlimited Divine bounties. Both of them were grateful and submissive devotees of Allah S.W.T. with full humility. But these people of Sabaa' with their lush green landscape, full of all types of fruits, orchards and crops with all season canals from big dams looked like Paradise. They became arrogant, boastful and ungrateful to Allah S.W.T. Therefore, all their affluence and prosperity was smashed. This Sura basically teaches that submission to Allah S.W.T. and gratefulness to Him for His bounties qualify a nation for continued Divine bestowments. It is not wealth, worldly booty or physical progress which make a nation great. It is piety, justice and righteousness with complete submissiveness to Allah S.W.T. which make a

nation great with Divine conferred stability.

5. Objectives/Message :

Following are the basic objectives of this Sura :

- (i) Every thing belongs to Allah S.W.T. He confers His bounties to whom He Wills;
- (ii) All prosperity and affluence is bestowed by Allah Who can take it anytime from anyone, if disobedient;
- (iii) Worship of only One Allah S.W.T. is the real purpose of this transitory life to make someone pious and righteous;
- (iv) None should follow the foot-steps of satan who rebelled against Allah and is an open enemy to mankind;
- (v) The Holy Prophet Muhammad S.A.W. is the Blessing of Allah S.W.T. and the Divine ideal as last Messenger to lead humanity to peaceful prosperity with justice and equity; and
- (vi) It is not the arrogant rebellious, boastful and rude kingship which can bring prosperity. It is only the pious, righteous, sincere and humble rulers who can set a nation to popular continuity with stability and judicious prosperity of every body.

6. Gist of the Text :

- (A) Sections 1 to 3 prescribe all praise for Allah S.W.T. He is the Creator and Sustainer of the universe and all its creatures. He is the Most Merciful and the Most Relenting. He bestows abundance to the gratefuls but has the powers to perish the ungrateful boasters. Prophet Dawood (David) A.S. and Prophet Sulaimaan, (Solomon) A.S. were the highly respected Prophets. They were bestowed everything in abundance but they remained humble and submissive to Allah S.W.T. with complete humility for His bounties. But the people of Sabaa' became ungrateful and were perished despite of their affluence. They are now the forgotten people of the ruined past.

Everything belongs to Allah S.W.T. and none is sharer in that. Only those who will be given permission could recommend the Divine forgiveness.

- (B) Sections 3 to 6 state that those who do not believe in the truth of the Holy Quraan, which is similar Divine scripture as were the previous Books of Allah, are ultimately ruined herein. The rejectors of this truth will face severe punishments. Not the ungratefuls but the pious will get the bounties of permanent nature from Allah. Belief in wrongfulness cannot lead to righteousness. The wrong doers will be penalized. The truth of Allah is the real boon for humanity leading to prosperity. The end of the rejectors will be disastrous.

7. Significant Verses :

- (i) Verse 28 - (Wa maaa Aarsalnaka) Holy Prophet S.A.W. is bearer of good news and an admonisher for the entire humanity with Allah's authority.
- (ii) Verse 36 - (Qull inna Rubbi yabsittur Rizka) All the provisions are from Allah. He may increase or decrease it for anyone.

8. Conclusion :

The Sura prescribes gratefulness to Allah S.W.T. as the permanent source. Only piety, righteousness and sincerity of belief is the basic objective of humanity. The disbelievers and rejectors of truth are to face ultimate penalty herein and will be punished Hereafter.

SURA XXXV — FAATIR

1. Title :

The title of this Sura has been derived from its first Verse. The term "Faatir" means Originator or Creator. So the title of this Sura is based on the Glorious Names of Allah Subhaha Ho Wa Ta'aala (S.W.T.), being the Creator of everything and maker of the universe.

2. Constitution :

This Sura has 45 Verses consisting of 970 words containing 3130 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed upon the Holy Prophet S.A.W. by Almighty Allah in the holy city of Makkah.

4. Context/Objectives/Message :

The Sura basically deals with the mysteries of the creations of Allah S.W.T. and their day and night maintenance. Allah S.W.T. has deployed Angels to keep all the creatures to subsist. All of the phenomena, whether animate or inanimate, men or objects, bespeak the glory of Allah S.W.T. Allah has given the guidance to all to be saved from the evils of the satan.

The pious get the ultimate triumph but the sinfals face ultimate disaster. The Sura also deals with the mysteries of creation and its maintenance by the wings of Angels. Whether we look to the nature or the existence of man, Allah's Grace is visible everywhere to cherish them all and protect all His votaries from the satan.

5. Gist of the Text :

- (A) Sections 1 to 3 describe how Allah creates and maintains all the creatures. None can create him/her self. Everything is created by Allah. Human beings should praise and glorify only One Allah. All else is meaningless.
- (B) Sections 4 and 5 state that all good, piety and righteousness is from Allah S.W.T. Whoso chooses evil chooses it by self allurements. The doom of such evil people is the doom get by them following the satan.

6. Significant Verses :

- (i) Verse 11 - (Walla ho khalaaqa kuum) Allah creates man from water sprout, then makes spouses...
- (ii) Verse 13 - (yoolijull lyla fin...) Allah takes out day from the night and vice-versa. Sun and moon run according to His orders. To Him belongs the entire Authority. The idols whom pagans worship cannot produce smallest particles being dead bodies.
- (iii) Verse 15 - (untuum fooqaraaa'...) Every one is beggar before Allah S.W.T. and He is the owner of all the riches about which men are boastful.
- (iv) Verse 18 - (wa laa taziroo...) No one can bear the burden of wrong actions of others.
- (v) Verses 19 to 22 - (Wa maa yasta wil aa'ma...) The blind is not equal to the seeing. Darkness is not equal to light. Shadow is not equal to sunshine and the dead is not equal to the alive.
- (vi) Verse 43 - (Falun tajida li Suunna Tillah he tubdeela) Allah never changes His fixed laws.
- (vii) Verse 44 - (Awa lam yaseero fil ardh) Go through the earth and see the end of those who falsified truth of Allah, though they were so powerful.

7. Conclusion :

This Sura prescribes all praise to Allah Who is the Creator and Sustainer of all the creatures. Only piety and righteousness succeed. Evil forces are destined to be perished herein and then will be punished in the Hereafter.

[Division (Manzil) Six of the Holy Quraan]

Sura YAA-SEEN (XXXVI) to Sura AL-FATAHA (XLVIII) constitute Division six of the Holy Quraan. It pertains to the spiritual develop of the faithfuls to prevail upon their truthful social order by action and self-precept. Muslims are the torch bearers as Islam is the last Omma to uphold justice and equity for humanity.

SURA XXXVI — YAA-SEEN

1. Title :

The title of this Sura is in its first Verse in the two opening quote words "YAA-SEEN". Precise meanings of the same are known only to Allah S.W.T. (Suubhana-Ho wa Ta'aala) and His Holy Prophet Muhammad S.A.W. (Sallallah-hoo Alyhe Wassallam—Allah's Blessings and Salutations on him) Some top scholars of Islam say that "YAA-SEEN" is the abbreviation of "YAA-SYYED-E-NA" (oh the most respected personage in the universe.). The Holy Prophet S.A.W. says that Sura Fatiha (the Opening of the Holy Quraan as Sura I is the Om-mull-Kitaab-Mother of the Book as Preamble of the Book and Sura "YAA-SEEN" is the Qal-bull-Kitaab—heart of the Book. The Physico-psychic, socio-cultural religio-moral and ethico-spiritual personality of a man lies in keeping human self pious, righteous and conscious to achieve straight path of Allah Almighty. This Sura leads to that.

Sura Yaa-Seen of the Holy Quraan much of the times remains on the lips, within the hearts and in the minds of most of the Muslims. This Sura exalts a man/woman so near to Allah, so dear to the Holy Prophet S.A.W. and so clear in the human self that it reduces all the worldly pollutions on human minds. This Sura in its miniature print is kept near to heart and before open eyes by many Muslims. It is daily recited by many young and old Muslims while sitting, walking, lying and in case of hazards.

This is the basic Sura which has been prescribed by the Holy Prophet S.A.W. for a compulsory recitation at the death bed. It is recited at such crucial moments due to its top spiritual qualities to enable a person to pass away peacefully or come to life stoutly.

Sura Yaa-Seen opens by declaring the all times universal leadership of the Holy Prophet S.A.W. as the Last Messenger. The Sura closes with Verse 83 upholding the highest Authority of Allah Almighty. In between are the Quraanic truths for Muslims which make this Sura the best spiritual asset for the believers herein to exalt them Hereafter. For the special spiritual role of the Holy Prophet S.A.W. in all the circumstances this Sura has been assigned this profound title of YAA-SEEN.

2. Constitution :

83 Verses of this Sura consist of 729 words which contain 3000 letters.

3. Revelation :

This is profoundest revelation of Allah S.W.T. upon the Holy Prophet S.A.W. revealed in Makkah-tull-Mukarrama.

4. Context :

The five initial and the five final Verses of this great Sura make it greater in its context. The five last Verses combine the cardinal articles of Muslim faith.

First Verse gives to the minds of Muslims the supreme love of the Holy Prophet Muhammad S.A.W. (Sallalla ho Alyhe Wassallam) as the blessing of Allah. Verse two is the highest Divine assurance for the universality of the truth of the Holy Quraan. Verses three to five declare the Holy Prophet S.A.W. as the final Messenger and the Last Divine Ideal righteousness and best piety leading the mankind to the system of Allah Almighty. Only his modality is the ever enshrined guidance practicality of the Holy Quraan as the last Book of Divine authority for welfare of humanity. -

The five closing Verses bespeak the glory of Allah Almighty Who has the highest dignity to reprocreate the dead mankind on the Day of Resurrection for accounts on the Day of Judgement.

Thus all the powers in the universe vest only in Allah as His sole authority. Allah Almighty's Orders are instantly implemented.

As such the Sura basically assures mankind that the Holy Quraan is the pure revelation of Allah S.W.T. to the most truthful and the Divinely most exalted Prophet Muhammad S.A.W. The Holy Quraan is the last Divine Message of the Creator for welfare of mankind in this world and in the eternal life after death. Creation of the universe and the birth of man from a man sperm is Allah's bounty to humanity. Why the human beings do not recognize the Divine bestowed dignity? Then why are men ungrateful not to follow the instructions of the Holy Prophet S.A.W. for human prosperity on the lines laid down in the Holy Quraan by Allah Almighty. It is not understood how the so called intellectuals challenge the very existence of their Sustainer (Rubb) Who says any thing to "BE" and instantly it comes into "BEING".

5. Objectives/Message :

The basic objectives of this Sura are to uphold the three basic articles of the Muslim faith as follows :

(A) There is only One Allah :

- (i) Who is the Creator of the universe and all the creatures. He has the sole authority in all matters ;
- (ii) Who has raised the mankind from nothingness ;
- (iii) Who is the Sustainer (Rubb) of every one, including the human beings as His crown creation ;
- (iv) Who is to put to death every one. Then on the Day of Resurrection will recreate mankind in the same way as He created them in the initial stage ; and
- (v) Who is the only Being worth worship and is entitled to all the praises.

(B) Belief in the Prophethood is obligatory for each Muslim that:

- (i) The Holy Prophet Muhammad S.A.W. is the true Messenger;
- (ii) He is the ideal of Allah and model for mankind for all times ;
- (iii) He is the last Messenger who has brought the last Divine Message;
- (iv) "Follow his foot prints is the Divine Order; and
- (v) He is the Blessing of Allah Almighty to the humanity to Eternity.

(C) Belief in the life Hereafter is compulsory that :

- (i) There is the Last Day, the Day of Resurrection and the Day of Judgement;
- (ii) There is life after death. Allah will take the account of misdeeds and their pious deeds for award/rewards ;
- (iii) The wrong deeds are to be punished and the pious people are to be rewarded on the Day of Judgement;
- (iv) The pious ones will be in the eternal blissfulness and the disbelievers will be condemned to permanent torture; and
- (v) Allah has the sole powers to order the establishment of the Last Day. Full justice will be done to every one.

6. Gist of the Text :

- (A) Sections 1 and 2 of this Sura establish universal leadership of Muhammad S.A.W. as the all times honored great Messenger and the last Prophet of Allah. The Holy Prophet Muhammad S.A.W. is the bearer of the Last Divine Book the Holy Quraan, as a bestowment from the most Affectionate Allah. The disbelievers should desist to follow the wrong contentions of their forefathers. For this they will definitely face disaster.

The believers who become pious will be victorious and get rewarded by Allah S.W.T. The people who reject the Prophet as the harbinger of Allah's Message will face catastrophic ends. Allah is the most bountiful. The straightforward people never can believe anyone

else as such deities cannot help themselves.

Those who are killed in the way of Allah get the best bestowments Hereafter. Some opponents of the past were punished herein whereas the others will be punished Hereafter. Therefore, the believers should remain steadfast in their piousness.

- (B) Sections 3 to 5 describe how Allah creates fruits and delicious foods for the mankind. He produces greenery for animals. The sun, the moon, the stars, the ships, every animate and inanimate creature works according to the routines fixed by Allah S.W.T. Whatever Allah has bestowed to the human beings they should spend something out of it for the needy. The Day of Resurrection will be established with a thunder. Every dead will become alive to see that revelations of Allah S.W.T. and the instructions given by all the Prophets were pure truths. On that Day the pious will be honored with salutations in blissful Paradise but the sinners will be condemned to Hell. Some people who get longer ages become deformed which is a lesson for those who understand as to how things deform.

Verse 40 is the most scientific treasure of the knowledge of cosmology. It very clearly states the Divine theory of great truth about sun, earth, moon, stars etc; orbiting on fixed timings, very precisely, without clash with each other.

Verse 58 contains Prime Words "Salamuun Qaoulum Mirr Rubbir Rahee". Divine Salutations as the Self communication by the Most Merciful Rubb (Sustainer) as personal welcome in Paradise to the pious and righteous people. The words are said to be Ism-e-Azam- the most exalted words of top spirituality.

The Prophet Muhammad S.A.W. is not at all a poet. Poets present self conceived dictions but Prophet Muhammad S.A.W. has conveyed Allah's revelations. Why people worship self made articles when such objects cannot do any good. Allah has bestowed everything for benefit of man, including the beneficial animals.

Verses 77 to 81 are very special in this Sura that lot of human beings do not realize their birth status. Man is born from a mean water sprout and then made the crown creation. But the same human beings challenge power of Allah? Disbelievers say how man will be retreated after death from the rotten bones? They should know that Allah will recreate them in the same way as He created them in the first instance.

Last two Verses (82 and 83) are the essence of Islamic faith. Allah Almighty has sole Authority on the entire universes. Orders of Allah are instantly fulfilled. When He says to anything "BE" it comes into "BEING". As such the perpetual governance of all the universe is in the control of Allah Almighty.

8. The Open Ended Brain Storming Concepts :

Please understand and co-relate the following brain storming "Mobeens" (Divinely open clarifications). These are the uniquely open ended concepts of the Quraan with psychological explanations in different Verses of this Sura :

- (a) "Imaam-mim Mobeen" - Quraan is an openly clear writing (Verse. 12) ;
- (b) "Bala-ghull Mobeen" - Quraan is an open deliverance (Verse 17) ;
- (c) "Dhalalim Mobeen" - Who do not follow Quraan are the people in clear error (Verse 24) ;
- (d) "Dhalalim Mobeen" - People who do not follow the Quraan will remain in clear error (Verse 47) ;
- (e) "Adoo-vuum Mobeen" - Who do not follow the Quraan are the friends of Satan who is an open enemy to man. (Verse 60) ;
- (f) "Quraan-num Mobeen" - Quraan is an open (clear) Book (Verse. 69) ; and
- (g) "Khaseemum Mobeen" - Men who do not follow Quraan remain open disputant. (Verse 77).

9. Significant Verses :

Following Verses of this Sura are of special socio-spiritual value :

- (i) Verse 1 - (YAA SEEN) Muhammad S.A.W. is the most honored in the universe.
- (ii) Verse 2 - (Quraanil Hakeem) Quraan is the Book of repeated recitation full of Wisdom.
- (iii) Verse 3 - (Siratull Musstaqem) Straight Path (of Allah S.W.T.).
- (iv) Verse 5 - (Tanzeelil Azeezil Raheem) Revelation of the Magnificent, the Merciful.
- (v) Verse 11 - (...khashi-urr-Rehmana Bil ghyb-) Fear the Affectionate without seeing.
- (vi) Verse 17 - (Wa maa alyna illal balaghull mobeen) Prophet is bound to convey clear orders.
- (vii) Verse 38 - (Ta'qdeerull Azeezil Aleem) methods fixed by the Magnificent, the All-Knowing.
- (viii) Verse 40 - (Fee falakyn yasbahoon) Sun, moon, stars, etc. set to remain on duty going on own orbits on fixed timings very precisely without any clash with each other.
- (ix) Verse 51 - (Noofikha fiss soor) The highest trumpet will establish Resurrection to set alive all the dead.
- (x) Verse 54 - (Laa tuuzlamo nafsun shy-un) No one will be committed any injustice.
- (xi) Verse 58 - (Salamuun Qaaluun mirr Rubbir Raheem) (Divine) Salutation to the pious ones from the Most Merciful Rubb (Sustainer).
- (xii) Verse 59 - (Ayyo hal muujrimoon) O' the criminals (come to be punished).
- (xiii) Verse 60 - (...ush-shytano ; innaho lakuum'adoo-wuum mobeen)—satan is an open enemy of mankind.
- (xiv) Verse 77 - (...Inna khalaq hoo min muutfatuun fa hoowa khaseemuun mobeen) Man is made of valueless sprout but challenges the Creator as an open disputant.
- (xv) Verse 82 - (Kun, Fayakoon) Allah says "BE" and it comes into "BEING".

9. Conclusion :

Sura YAA-SEEN is the heart of the Holy Quraan with highest spirituality for the perfection of the individuality of every pious Muslim in a pure society. The Sura opens up to present the basics of Islamic faith and ends up with the pure belief of every Muslim in the universal Authority of Allah Almighty. It is so dear to every faithful that it protects individuals herein and will help everyone Hereafter.

SURA XXXVII — US-'SAFFAAT

1. Title :

Title of this Sura has been derived from the first word of its first Verse. US-'SAFFAAT means those who stand in rows by ranks. It may be translated as, the ranked ones. Almost all scholars say it means the Angels who come in rows by ranks with Divine Orders to perform the assigned duties in the universe. Allah has given three Divine assurances to this truthfulness that the Angels are greatest reality as duty bound to assignments from Allah Almighty.

2. Constitution :

This Sura has 182 Verses consisting of 860 words containing 3826 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed upon the Holy Prophet S.A.W. (Sallallahu Alyhe Wassallam) by Allah S.W.T. (Suubhanaho Wa Ta'aala) in the Holy City of Makkah-tull-Mukarrama.

4. Objectives/Message :

The basic objectives of this Sura are :

- (i) The disbelievers hatefully reject the revelations of Allah S.W.T. as the Holy Prophet S.A.W. invited them.
- (ii) The criticism of idolator disbelievers that how Allah all alone can accomplish the daily routines of this great universe should be replied in a befitting manner. It is very easily accomplished by Him with His Great Power. He created it, so He runs its affairs ;
- (iii) Misunderstanding of the infidels about the Day of Resurrection and the Day of Judgement has no stand that as this universe was created by Allah the same way it will have its end at the discretion of Allah. Then human beings will be recreated on the Day of Resurrection to be accounted for their actions ;
- (iv) The infidel pagans do not accept the Prophet Muhammad's S.A.W. invitations due to their personal prejudice which is without justification. He is similar Prophet as were the previous ones. He has the similar true revelations of Allah with similar characteristics. Therefore, disbelievers should respect him and believe in his truthful Prophethood for their own benefits ;
- (v) The companions of the Holy Prophet S.A.W. (most of whom had to leave their homes to protect their faith in Madina) should remain steadfast to get respect herein and in the life hereafter; and
- (vi) The ultimate success from Allah is for the steadfast, the pious ones and the straightforward. Therefore, Muslims should keep high the banner of the religion of Allah S.W.T.

5. Gist of the Text :

- (A) Sections 1 and 2 state that Allah S.W.T. is the One and Alone. His Angels and forces are beyond comprehension. Heavens, earth and everything else have been created by Him. The evil has been always opposing the good but the pious and righteous will have ultimate success.
- (B) Sections 3 to 5 describe how peace and victory was achieved by Prophets Noah, Abraham, Moses, Aaron, Ilyas and Luut in their long conflicts with the evil forces of satan. Prophet Jonah (Yunus) glorified Allah in perfect manners. Therefore, whoso praises Allah will become victorious.

6. Significant Verses :

- (i) Verse 10 - (...shi-haa-buun thaqib.) The piercing fire of breaking stars as molten objects beat the satans to keep them away from the sky.
- (ii) Verse 36/37 - (...shaa-'irim majnoon) The Holy Prophet S.A.W. is not at all a poet or mentally sick person but he is the most truthful top Messenger.
- (iii) Verses 180 to 182 - (Suubhaana Rubbika...Aalameen). Sanctified and pure is Allah, the most Honorable, the most Exalted. Salutations to the great Messengers. And all praises to Allah, the Rubb (Sustainer) of all the worlds.

7. Conclusion :

This Sura reassures the Muslims that only the pious, the righteous and the straightforward ones will be victorious. The glorification of One Allah achieves His real bounties.

SURA XXXVIII — 'SAAAD

1. Title :

The title of this Sura has been derived from the first word of its first Verse. It is a quote letter meanings of which are known only to Allah Almighty and His Holy Prophet S.A.W.

2. Constitution :

88 Verses of this Sura have 732 words which contain 3067 letters.

3. Revelation :

Sura 'SAAAD was revealed by Allah upon the Holy Prophet in the Holy city of Makkah.

4. Objectives/Message :

This Sura re-assures the mankind for ever that :

- (i) There is only one Allah (Rubbil Aalameen) Who is worth worship. He is the Creator/Sustainer of the entire universe ;
- (ii) The last Messenger of Allah the Holy Prophet S.A.W. (Rehmat-tal-lil-Aalameen) is a Prophet for the entire mankind and the universe as a whole. He is a Prophet of Allah just like the previous Prophets; and
- (iii) The Holy Quraan is Zikrill-lil-Aalameen (The Divine Remembrance for the entire universe). The Holy Quraan is the most perfect, heavenly preserved and best Message of Allah S.W.T. for the welfare of humanity to Eternity. It is Kitaabill Huda—the Book of guidance.

The Sura justifies that the conferring of Prophethood to some one is Allah's bounty to such selected person. The Prophet is made the model of human piety and sincerity. It is bestowed exclusively by Allah to whom He Wills. It is neither the so called majority choice of the masses by election nor a selection of the elders or the nomination of the powerful, wealthy or the automatic heritage from the conventional feudals. Allah has selected Prophet Muhammad S.A.W. to be the last Messenger and His best Ideal. He is the similar Prophet as were the previous ones. He has been assigned to teach the Holy Quraan as the last Divine Message to put to practice the belief about unity of Allah. He motivated people about the reality of the Day of Resurrection persuading them to be pious and righteous.

5. Gist to the Text :**(A) Verses 1 to 26 :**

Idolator evil men are surprised at the revival of truth and righteousness from Allah through the Holy Prophet S.A.W. But the righteous people have more power than worldly strength of evil forces. The true story of the great king David shows that he was not only a great Messenger but also a just ruler of a best kingdom.

(B) Verses 27 to 64 :

Solomon loved Allah much more than worldly power though he was a great king. A Prophet with absolute powers may be so good but it may be mis-used by evil men. Absolute authority corrupts absolutely the men of power who have no insight. Choose the path of final bliss and Divine bounty rather than final disaster and worst misery.

(C) Verses 65 to 88 :

Best is the course set by the final Messenger. His gospel on Unity of Allah is to triumph over all jealousy and arrogance of the disbelievers to spread Islam, the world over.

6. Conclusion :

This Sura re-stresses the unity of Divinity of Allah Almighty. The Holy Quraan is the whole truth revealed by Allah Almighty. The Holy Prophet S.A.W. is the last Messenger for human welfare and Divinely bestowed dignity of everyone.

SURA XXXIX — AZ-ZUMAR**1. Title :**

The title of this Sura has been derived from its Verses 71 and 73 with the guidance of Allah from the term "ZUMAR" meaning "in groups". Bringing the pious or the wrong doers after Divine Adjudication on the Day of Judgement to the Paradise or hell in groups. This process is called in this Sura Az-Zumar.

2. Constitution :

This Sura has 75 Verses which consist of 1172 words containing 4908 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed by Allah upon the Holy Prophet S.A.W. in Makkah-tull-Mukarramah.

4. Objectives/Message :

The basic objectives of this Sura are :

- (i) It ensures the truth of the Holy Quraan as a revelation of Allah Almighty, the most Loving, the most Wise. The Holy Prophet S.A.W. is the best devotee to spread the profoundest system of Islam to the entire humanity ;
- (ii) The Holy Prophet S.A.W. is least worried about the infidel opposition as he has the profound mission. The disbelievers are ultimately to face defeat before the truth of Islam. So the preaching of Islam should have least effect of negative forces in its march to spread Allah's system ; and
- (iii) Islam is the only true religion which is to achieve ultimate success to spread Allah's bounties to humanity.

5. Gist of the Text :**(A) Sections 1 and 2 :**

The variety in creatures clearly points to the unity of the plan of single creativity by one authority as their creator. It is the creation of One Allah. To Him is due all the worship and from Him flows all the justice and gracefulness.

(B) Verses 22 to 52 :

There is unity in the Divine Revelation and the Creator's super guidance. It comes from Allah alone. Turn to Him only, for all else is false.

(C) Sections 6 to 8 :

Seek the mercy of Allah before it is too late. His judgement and justice will come for certain. Pious will be rewarded and sinfult will be punished.

6. Significant Verses :

The following Verses of this Sura have a special significance as human catch words in daily affairs :

- (i) Verse 7 - (...wa laa taziro...) No body bears the burden of the misdeeds of others.
- (ii) Verse 8 - Every body calls Allah, while in trouble.
- (iii) Verse 9 - (...izaa Khawala ...) When a person is bestowed bounties of Allah he forgets....
- (iv) Verse 10 - (...Lilla -zeena ahsanoo...) There is good for those who do good in this world.
- (v) Verse 21 - (...Inna fee zalika ...) Indeed only the wise get the lesson.
- (vi) Verse 22 - (Afa mun...Islam...) Allah opens the heart of a person to be receptive to Islam and such one gets His light.
- (vii) Verse 41 - (...Fama-nih-tadaa...) Pious deeds benefit the pious ones, misdeeds get punished the miscreants.
- (viii) Verse 49 - (Fa iza massal-insana...) If some trouble comes to anyone that is presumed from Allah but if some good is achieved it is considered self-acquired.
- (ix) Verse 52 - (un-Nalla-ha...) Allah expands or squeezes the provisions of anyone.

7. Conclusion :

Sura FATIR fully assures the mankind that the belief in One Allah and His last Messenger, the Holy Prophet S.A.W., is the real truthfulness. The Holy Quraan is Allah Almighty's revelation which as "Al-hooda" is the best guidance.

The last Day is to be established for Divine Accounts on the Day of Judgement. So the

pious will rejoice but the sinfult will be punished.

SURA XL — AL-MO'-MIN

1. Title :

The title of the Sura has been derived from its Verse 28. The term Mo'-min is the profoundest Quraanic nomenclature for a Muslim. It means a person who believes perfectly what is commanded by Allah and practice by the Holy Prophet S.A.W.

A Mo'-min has full faith :

- (i) In one Allah and His Angels,
- (ii) In the last Messenger Muhammad S.A.W. (and all the previous Prophets) ;
- (iii) In the Holy Quraan (and the previous holy Books in originality) ;
- (iv) In the Last Day, the Day of Resurrection and the Day of Judgement ; and
- (v) Life after death.

Actually the word Mo'-min used in Verse 28 of this Sura refers to a believer of best piety with profound sincerity. An example of a sincere, straightforward and bold Mo'-min has been quoted who belonged to the Ommah of Prophet Moosaa A.S. This believer was a close relative of Pharaoh who boldly defended the Divine messages conveyed by Moses to warn Pharaoh of dire consequences of his plan to kill Moses. He fully endorsed the faith of Moses in a straightforward, bold and truthful manner. So powerful Pharaoh could not take any step against Moses due to this pious and righteous Muslim. This shows how a righteous and straightforward Muslim of piety, though he may be so ordinary, can play a greater role for religious stability to strengthen the system of Allah Almighty.

2. Constitution :

This Sura has 85 Verses which consist of 1199 words that contain 4960 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed by Allah S.W.T. upon the Holy Prophet S.A.W. in Makkah-tull Mukarramah.

4. Objectives/Message :

The main objectives of this Sura are :

- (i) Belief is so rewardable but disbelief is punishable;
- (ii) Revelations of Allah bring His bounties but rejection of the same bring deprivations;
- (iii) Piety and goodness are bestowment of Allah but evil works and misdeeds lead to dejection ;
- (iv) Truth is always triumphant but falsehood takes to failure ; and
- (v) Belief with righteousness to worship One Allah, follow the truthful Prophet S.A.W. and act upon the revelations of the Holy Quraan to achieve success in this world and Hereafter.

5. Gist of the Text :

- (A) Verses 1 to 50 state that Allah Almighty knows everything and is Relentful. He accepts the repentance of the believers who commit any sin. He will reward the pious who remember Him and will punish the sinful and the disbelievers. To Allah belongs the Authority but He never will be unjust on the Day of Judgement.

The dreadful fate of the previous arrogants and rebellious people like Pharaoh, Hamaan and Qaroon present a great lesson. A staunch follower of Prophet Moosaa (Moses) A.S. rejected Pharaoh's dead enmity to the truth of Allah as totally unjustified which shows the strength of pious and straightforward ordinary Muslims. To kill male children or any type of infanticide is a great crime.

The worldly life is transitory. Therefore, all sinfulness, misdeeds and wrongs should be corrected by truthful belief. Only piety is to be rewarded in the eternal world Hereafter.

- (B) Verses 51 to 85 assure that the righteous who remain steadfast will get the bounties of Allah Almighty. His Promise for rewards in the Hereafter is to be justly fulfilled. Human beings should remember Allah day and night and beg for His forgiveness.

The creation and maintenance of heavens and earth is so easy to Allah. He never finds it difficult to reprocreate the dead. The blind and the seeing are not equal. The truthful and the pious are far better than the sinners. Honesty is the best policy against dishonesty.

Allah accepts everyone's repentance, supplication and submission. He is the best Creator, profoundest Shaper and most Affectionate Sustainer. None is worth worship except Him and none is equal to Him. All praises are only for Him and only He is worth glorification.

Only He has the Power to Say "BE" and the phenomena comes into "BEING". He sent Books to the previous people to whom Prophets conveyed these revelations. The Holy Quraan is also the similar Book and the Holy Prophet S.A.W. has brought similar revelations. Those who falsify it will be thrown in the hell.

Allah has created all the animals for human benefits and He has bestowed the means of communications. People of the past were punished whose ruins should teach the living good lesson to be grateful to Allah and remain pious. The Holy Quraan presents the best regulations for welfare of mankind which must be followed without reservations.

6. Significant Verses :

The following Verses of this Sura are of great social significance :

- (i) Verse 15 - (Rafee-ood-darajaat...) Allah Almighty has the highest Authority to highly exalt anybody with profoundest spirituality.
- (ii) Verse 39 - (...Inna maa haazi-hil-hayat...) The life of Eternity is for those who are profound in piety.
- (iii) Verse 40 - (Mun aamila sy-ye ah....) Whoso is pious is due to his/her own choice to get Allah's Bounty. But the sinners opt misdeeds due to their own selves to be awarded penalty.
- (iv) Verse 58 - (Wa maa yastawill aa'-ma....) If the blind cannot be equal to the seeing how sinners can be equal to the pious.
- (v) Verse 68 - (Hoo Walla ze yoo-h-ye....) Allah Orders something to "BE" and it comes into "BEING".

7. Conclusion :

Allah knows everything as He is Magnificent, All Aware. He will severely punish those who reject Islam. Only those who are faithful and pious will be rewarded. Only those who do not come to faith will be penalized forever.

SURA XLI — HAA-MEEM US-SAJDAH (HA-MEEM PROSTRATION)

1. Title:

The title of this Sura has been derived from its Verses 37 and 38. Both these Verses prescribe compulsory prostration to Allah Almighty in ablution after their Arabic text recitation. When a Muslim in any way recites these Verses in Arabic or listens their recitation he/she should prostrate to Allah S.W.T. in ablution placing the forehead on pure ground facing the Ka'aba (in Makkah). Allah Almighty very clearly and forcefully says that why people prostrate the sun and the moon which are My creations. They should prostrate only to Allah Who is their Creator, Sustainer and Cherisher.

2. Constitution :

This Sura has 54 Verses which consist of 796 words containing 3350 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed by Allah S.W.T. upon the Holy Prophet S.A.W. in Makkah-tull-Mukarramah.

4. Objectives :

Following are the main objectives of this Sura :

- (i) Basis of faith (Islam) purely is laid down in the revelations of Allah S.W.T. in the form of the Holy Quraan as the most truthful set of revelations conveyed by the Holy Prophet Muhammad S.A.W. to the mankind as the perfect and the last Message of Allah;
- (ii) Allah S.W.T. is Most Powerful, Most Bounteous and Most Magnificent;
- (iii) Allah S.W.T. is Relenting, Gracious and Affectionate;
- (iv) Human beings can get the bestowments of Allah Almighty by their sincere adoption of the faith with piety;
- (v) The physico-spiritual healing of Allah S.W.T. is nearer to the righteous.

5. Gist of the Text :

- (A) Sections 1 to 3 describe how the Holy Quraan is the greatest distinguisher of right from the wrong. It is in Arabic language which is the richest mid of the way and easily understandable medium of human communication for the East and the West. But the infidels/idolators do not try to understand it. The Holy Prophet S.A.W. is asked by Allah to state that he is just like human beings conferred the most actionable revelations of Allah S.W.T. Allah is One and the Only worth worship. Only those benefit who pay Zakaat (compulsory dues for the have nots) and believe the Hereafter. Such believers get best bounties. Allah Created the heavens and the earth with Divine plan. The previous nations also rejected their Prophets that why they were not Angels. Those nations were ruined for their mis-deeds. They will also be punished Hereafter.
- (B) Sections 4 to 6 state that disbelievers are in a great loss but the believers are most successful. Fight the evil with best strategy as it is the real Muslim motto which be adopted by police and law enforcers. Those who are steadfast in this respect achieve the Divine bliss. Sun, moon, stars and all the other objects prostrate to Allah. Allah is most relentful to those who worship Him. Piety brings sanity with bliss but sinfulness takes to criminal acts to make a person punishable by self choice. There is none equal to Allah whom the disbelievers worship. When people get in some trouble, due to their own wrongs, they bow in submission to Allah but when they are out of trouble they say it is due to their own efforts. When people get bounty of Allah they become stiff-neck but when they get lost they are dejected. The Holy Quraan is the best healer, perfect guide and most truthful. Rejectors will know it when brought before Allah S.W.T.

6. Significant Verses :

The following Verses of this Sura have a special significance :

- (i) Verse 6 - (Qull inna maaa ana ...) Muhammad S.A.W. say "I am a man like you". But he is Divine model for all the human beings in all circumstances as the ideal of Allah. He was bestowed the best revelations which exalted him the highest in the universe.
- (ii) Verse 8 - (In-nalla zeena aamanoo ---) The pious believers are the most bounteous.
- (iii) Verse 12 - (---Zalikal taqdeer-rull Azeez-zuur-Raheem.) Allah has fixed reward to the pious and punishment for the sinful as His routine method of assessment.
- (iv) Verses 31/32 - (Mun ahsana qaulun ---) The observation of that person is the best and firm in its contents and results who supplicates only to Allah and remains Muslim (obedient to Him).
- (v) Verse 34 - (--- Wa la tastawil hasana ---) Piety cannot be equated to sinfulness.

- (vi) Verse 34 - (— idfah billati hiya ahsan —) Evil should be repelled by strategic methods which should be adopted as motto by police and the law enforcers.
- (vii) Verse 44 - (Quraanuun shifa —) The Holy Quraan is the greatest healer and guidance for those who act upon it.
- (viii) Verse 46 - (Mun 'amila salihun —) Whoso acts righteous does so by his own will power to his/her own benefit but whoso commits bad acts will face its consequences. Allah is not at all cruel to any one.
- (ix) Verse 51 - (Wa iza un-'amna 'alal insaan ...) When Allah bestows some one His bounties he/she claims it as a result of own efforts. But when some one faces any hazard he/she submits to Allah in lengthy supplication to get rid of trouble.

7. Conclusion :

Sura Haa Meem Us-Sajdah deals with the truth revealed in the Holy Quraan. The truthful life of the pious people leads to achieve success. Bestowments of Allah are for the truthful believers who follow the Holy Prophet S.A.W.

SURA XLII — USH-SHOORA (THE COUNCIL)

1. Title :

The title of this Sura has been derived from the Verse 38 from the term "Shoora". Shoora is mutual consultation of people in council for consensus or republican decision making. This Verse gives obligatory direction to the Holy Prophet S.A.W., and as such to the Muslims, to consult each one to reach an agreed decision. Thus Islam is the first religion which prescribed direct democracy with republican polity 1380 years ago. It is only in the twentieth century that some sort of consultative system was accepted beyond U.K. and U.S.A. in such countries which remained under their continued colonial, imperial, dictatorial, diplomatic, autocratic, economic, commercialist, socio-cultural and religio-theocratic influences.

It is a matter of great pride for the Muslims that their Quraan and the Suunnah (practices of the Holy Prophet Muhammad S.A.W.) provide them permanent basis to all times perfect Islamic polity. Islam establishes prosperous, peaceful and law-abiding society of humble rulers and the strongly committed people being ruled in equity, both committed to piety. Allah ordains the socio-economic, politico-administrative, legal and judicious citizenship rights in equality. It is obligatory for all to achieve equity, subject to the procedural codes legislated by direct consultation. There is no monarchy or concept of absolute authority of kings or dictators in Islam.

This Sura (XLII) provides the medium of consultation with all under flexible options in daily affairs as the essence of Islam. The five times Muslim congregational prayer is obligatory to upkeep such joint consultancy. Therefore, Islam has always preferred Caliphate where Khaleefa (Muslim Head of state) is elected by consensus and remains the follower. He runs all the state affairs by the consultative methods. Whether it is 'Omar the Great R.A. or 'Omar Bin Abdul Azeez, every right guided caliph of Islam was elected through a fair election. These Caliphs consulted all the Muslims on all the state affairs, because Shoora has an utmost importance in Islam.

Thus Sura Shoora provides to Muslims the permanent republican governance run by consultation upto the Day of Resurrection as a great Quraanic institution of perfect democratization.

2. Constitution :

53 Verses of this Sura consist of 860 words which contain 3588 letters.

3. Revelation :

This Islamic democracy Divine legislation was revealed by Allah Almighty upon the Holy Prophet S.A.W. in the Holy city of Makkah-tull- Mukarramah.

4. Contents/Objectives/Message :

The main contents, objectives and messages of this Sura are;

- (i) Allah reveals the wisdom and knows every thing. What ever is in the heavens or the earth belongs to Allah;
- (ii) Allah will severely punish those who become rebellious and worship objects ;
- (iii) The Quraan is in Arabic. Arabic is a comprehensively rich language of the mother of cities (Makkah) for the convenience of the Holy Prophet S.A.W. to warn every one in such a rich and uniform global dialect. It is also convenient for easy understanding of every one ;
- (iv) Some people will be thrown in the hell and some will go to Paradise due to their own misdeeds or pious deeds ;
- (v) Allah could have made all the people a united Ommah but the cruel people detract from His unity and force others to become separate sects ;
- (vi) To Allah belongs every thing. He may bestow any thing to whom He wills. To Him belong all the treasures and all the products of the earth. He may give measurably or immeasurably to whom He Wills ;
- (vii) Allah is the best Sustainer ;
- (viii) The revelations of Allah as in the Quraan are the same in nature as were sent to previous Prophets. The disputants will face severe penalty not to accept this Holy Book ; Allah's Quraan is most truthful and He is Affectionate to the faithfuls. He has full power to give bountiful here and Hereafter to the pious;
- (ix) Allah accepts submissions of His devotees who depend on Him but when He confers such bounties some people become rebellious ;
- (x) Best are those who obey Allah, establish Prayer and settle affairs by mutual consultation;
- (xi) Allah provides daughters or sons as only He knows what is to be formed in mothers' wombs ;
- (xii) Revelations only come from Allah. None can create or evolve them. All revelations provide best light and guide to straight path. To Allah belong heavens and earth and all affairs are settled by Him.

5. Gist of the Sura :

- (A) Sections 1 and 2 state that revelation is inspiration of Allah. He is the most Exalted and the most Wise. Allah is all the times glorified by Angels. Quraan is His best guidance to mankind. Only One Allah is the best friend. Sects are created in Islam only due to jealousy. Noah, Abraham, Moses and Jesus brought unifying revelations which have been conferred to Prophet Muhammad S.A.W. Day of Resurrection is fixed which cannot be conveyed earlier. Divine Unity and faith in One Allah is the real bestowment to get His mercy.
- (B) Sections 3 to 5 state that the message of the Quraan is universal. Deeds here will be credit Hereafter.

6. Significant Verses :

The following Verses of this Sura are of special significance.

- (i) Verse 9 - (--- Fallah-ho Howal Wali---). Allah, He is the best Protector.
- (ii) Verse 12 - (Lahoo maqaleeduu samawati--) To Him belong the keys of the heavens and the earth. He enlarges or squeezes the sustenance of any one He Wills. He knows fully well all the things.
- (iii) Verse 19 - (Allah ho Lateef---) Allah is Gracious to His devotees.
- (iv) Verse 27 - (Wa lau bassa Tallah ---) If Allah enlarges the provisions of some of His devotees they may become transgressors.
- (v) Verse 30 - (Wa ma asaba kuum mim mosebah --) Whatever the misfortune falls on you it comes because of your own doings. But many sins are forgiven (by Allah).
- (vi) Verse 37 - (Wallazeena yajtaniboona kabaa'ira---) Those are the good people who avoid major sins and indecencies. They forgive while angry, submit to Rubb (Sustainer) and

establish Salaat (Muslim prayer).

- (vii) Verse 38 - (---- Walla-zeena --- shoora --) Those who conduct their affairs with mutual consultation (achieve success).
- (viii) Verse 40 - (Wa jazaaa 'oo sy-ye-ah --- wa uslah --- zalimeen) The retaliation of injury is only by same type of injury. But if someone forgives and reconciliates his reward is due from Allah. But Allah never loves the cruels.
- (ix) Verse 43 - (Wa la-mun sabara wa phafara---) If anyone shows patience and forgives that would surely be a stupendous task.
- (x) Verse 48 - (---- fa innal insana kafoora.) Definitely the human beings are ungrateful.
- (xi) Verses 49/50 - (Lillah he mull-kuus samawati ...) To Allah belong the heavens and the earth. He creates what He Wills. He bestows males (sons) or females (daughters...) to whom He Wills.

7. Conclusion :

Allah reveals to inspire mankind to piety and righteousness. Allah has the powers to provide whatever He wants for any one and to Create whatever He wants. Human beings can best achieve their social objective by mutual consultations.

SURA XLIII — UZ-ZOOKHRUUF (THE ORNAMENTS)

1. Title :

The title of this Sura has been derived from Verse 35. Term zookruuf means the ornaments of silver and gold. People are attracted, rather they are allured, by silver and gold glitter. But all that glitters is not gold. But if it is gold its glitter is not the destination of human life. It is pious, righteous and straightforward life in this world which is so dear to Allah. Whoso achieves real success herein he/she becomes entitled for Divine rewards Hereafter.

2. Constitution :

The Sura consists of 89 Verses which have 3400 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed to the Holy Prophet S.A.W. in the city of Makkah-Tull-Mukarramah.

4. Objectives/Message :

The Holy Quraan is :

- (i) Kitaab Allah—The Book of Allah;
- (ii) Kitaab-ull-Hudaa—The Book of guidance; and
- (iii) Ommull Kitaab—The Mother Book (of all knowledge).

The Sura establishes that the Holy Quraan in Arabic language is basically a Book containing all aspects of wisdom. The real glory lies in following the truth of the revelations of Allah. Such glitter as people love and adore, rather worship, leads to falsehood. The real success is not in what the disbelievers' forefathers have left in their wrong traditions. Real success lies in the sincere following of the revelations of Allah and not running after wealth.

5. Gist of the Text :

- (A) Sections 1 to 3 state that the Book of revelations enables every one to get heavenly light of Allah to make their lives successful. The pious believers act upon it and get the benefit. But the ignorant and the foolish reject the clear signs of Allah. The revelations of Allah are to remain intact preserved by Allah but the rejectors are to perish to nothingness. All the Prophets of the past—Abraham, Moses and Jesus exposed falsehood and rejected the pagan convention of idol worship as it is a total falsehood.
- (B) Sections 4 to 7 describe that the false glitter and purely temporary shine of falsehood is to finish soon. But the shine from Allah's revelations is everlasting to achieve all time success. The people who do not worship the Affectionate Allah are subservient to their

own satan. The catastrophic end of the previous rejectors of Allah is a historical truth and what was the end of Pharaoh in his arrogant fight with totally righteous Moses is also well known.

Jesus was a just devotee of Allah but his followers raised false disputes about his status with Allah. They wrongly made him the son of God. All their falsehood is well known to Allah. Only His Truth will ever shine in spite of the dead opposition of the disbelievers.

6. Significant Verses :

Following Verses of this Sura have special significance :

- (i) Verse 13 - (...Suubha-nallaze sakhar lana) This Verse is recited while riding for any journey glorifying Allah to keep in safe subjugation the means of transport to man.
- (ii) Verse 15 - (Innal insana la kafoor) Surely man is openly ungrateful.....
- (iii) Verse 35 - (... lamma mata ull-hayatid-duunya...) Glittering things are the things of this (transitory) world.
- (iv) Verse 36 - (--- wa myn ya'-shoo min zikrir Rehman---) Whoso become ignorant from remembrance of the Affectionate Allah the Satan is made their companion ---).
- (v) Verse 74 - (Innal muujrimeena fee 'azaab---) The criminals will remain in penalty -----.
- (vi) Verse 81 - (Qull in kana lir-Rehman waladuun ---) Please declare if the Affectionate Allah had a son then I (Muhammad S.A.W.) would have worshipped him, first of all.
- (vii) Verse 85 - (--- Wa'indahoo 'ilmuus sa-'ah---) The knowledge about the Hour (establishment of Resurrection) is only known to Him (Allah).

7. Conclusion :

This Sura has stressed man to be grateful to Allah Who bestowed the Prophets best guidance to inculcate the blissful human existence.. Only His worship is the essence of this universe.

SURA XLIV — UD-DOKHAAN (THE SMOKE)

1. Title :

The title of this Sura has been selected from its Verse 10 under the guidance of Almighty Allah. It means "fume or smoke". The Scientists to-day say that the entire universe was a big multi-gases smoke ball, billion years ago, which had a sudden blast. Then an evolutionary formation and re-procreation of the present form of things took shape from water. The Quraan authenticated this fact 1400 years ago. The Holy Quraan says that on the Last Day when the universe will be finished it will become a big ball of smoke. First Verse itself reveals that on the Last Day there will be all around a thick ball of gases and smoke. It will turn out to be a severe punishment from Almighty Allah for those who negated the Prophets of Allah.

Ordinary mist itself has sometimes supernatural phenomena that all of a sudden the entire horizon becomes dusty and nothing is visible at a little distance. Everything goes hazy and all the creatures find it difficult to maintain any sort of their life choked in such heavy atmosphere. Everything is upset due to thick smoke that there is a suffocation in the polluted situation. Present day world is facing crisis in the ozone form for highly polluted upper atmosphere for the smoke of vehicles used by man and other human technology. These few man made machines are to pose a disastrous situation to the human life on this globe in the next century. One can imagine how Divine smoke will be so devastating.

The Sura mainly discusses that on the Day of Judgement, Allah would let the fumes and smoke engulf the universe to disastrous end. Whoso does not accept this truth, conveyed by His Prophet S.A.W., will definitely be punished.

2. Constitution :

This Sura has 59 Verses with 346 words which consist of 1431 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed by Almighty Allah to the Holy Prophet S.A.W. in the city of Makkah-tull-Mukarramah.

4. Objectives/Message :

The mother of the Books (the Holy Quraan) was descended with its first revelation in a most bountiful night (Lylatull Mubarik). This is the night which is so great for the pious believers that it spiritually exalts high the faithfuls who find its boon by sincere devotion to Allah. The purity of belief brings bounty of Allah Almighty by intelligible and humble supplication to Allah Almighty in this night.

There are some most virtuous nights Divinely selected for special spiritual exaltation by Allah for humble devotion each year by sincere Muslims as follows:

- (a) Lyla-tull-Qadr - The high value personal perfection; night (Sura XCIV) ;
- (b) Lyla-tull Mubarik - The Divine bestowments night of initiating Quraanic revelations (Sura XLIV) ;
- (c) Lyla-tull-Asraa - The great night of Holy Prophet's S.A.W. Divinely bestowed inspection of the entire universe (Sura XVII) ; and
- (d) Lyla-tull-Bura-ut - The personal supplications for night for personal submissions to Allah each year for forgiveness of misdeeds by relentful Sustainer to each pure Muslim.

The Lyla-tull-Mubarika indicated in this Sura is the great night when the highest Divine light of the Holy Quraan was bestowed to the most respectful Prophet of Allah as the Last Prophet S.A.W. and the highest Blessing of Allah (Rahmat-tull-lil-Aala-meen) for the entire creature in the universe for all the times.

The worldly pride and power of the human beings, specially of all the disbelievers and rejectors, is humbled in this Sura by Almighty Allah. The spiritual forces of Allah can reshape decadence to greatest velocity. Whoso resists the spiritual forces and indulges in evils will face a disaster.

The forces of evil and the men of piety will get their awards or rewards Hereafter. The Sura assures the righteous and the straightforward about the bestowments of Allah herein, but if they have total attachment with inner love with the Holy Prophet S.A.W. He is the real source of Divine light in the toughest darkness and stunning listlessness of the thick smoke, so dreadful in nature.

5. Gist of the Text :

Sections 1 and 2 describe that the Holy Quraan is a pure truth which was revealed in a great spiritual night in which the humble faithfuls can achieve the bounteous honor if they find it.

The boastful disbelievers and arrogant people will ultimately achieve nothing but Divine wrath. The spiritual worth of a believer lies in truthful devotion. Only the pious will be bounteous for their purity in worship.

Section 3 states that the believing people are bestowed all the blessings but when they fail to remain pious to Allah and violate the trust of Allah, they are rejected. Israelites rebelled so they were punished herein. Similar will be the fate of the people who do not learn lesson to be good and pious. Whoso indulges in evils will definitely face chastisement. Getting pleasure of Allah is supreme achievement and the Quraan is the best bounty of Allah Almighty in most comprehensible Arabic language whereby the people easily can understand what is right and what is wrong.

6. Significant Verses :

The following Verses of this Sura have special significance

- (i) Verse 2 - (Wal-Kitaabil Mobeen) Quraan is the most specific and open Book.
- (ii) Verses 3/4 - (Inna unzalna hoo fee --) It (Quraan) was sent in the blessed night in which the distinct affairs of wisdom are settled.
- (iii) Verses 5/6 - (...Inna kuunna Muursaleen. Rahmatam mirr Rubbik) The Holy Prophet S.A.W. is the great Blessing of the Sustainer for the universe.

7. Conclusion :

The Sura exalts the spiritually strong believers but rejects the arrogant and boastful. So called super powers can be humbled by Divine forces like stunning smoke and listless mist. Those who resist spiritual forces leading to Divine honor will be punished Hereafter.

SURA XLV — AL-JATHIYAH (KNEELING DOWN)

1. Title :

The title of this Sura has been derived from Verse 28. It means "bowing on knee" or "kneeling down". The scene which has been presented in this Verse of the Holy Quran relates to the position of the disbelievers, rejectors, idolators, infidels and the pagans on the day of Judgement. On their knees, they will submit to Allah to bestow them His clemency and His relentfulness. But those bowing down on the knees in remorsefulness on that Day will not get forgiveness. It will not be of any use because on that Day full justice will be done in a perfect manner for deeds in this world by every body to reward the pious and punish the sinners. The most powerful, and arrogant of this world will be humbled on that Day of Judgement.

2. Constitution :

This Sura has 37 Verses with 488 words which consist of 2191 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed by Allah Almighty to the Holy Prophet Muhammad S.A.W. in the Holy City of Makkah.

4. Objectives/Message :

The basic objectives of this Sura are to authenticate that only submission, humility, piety, sincerity and truthful belief in Allah will be helpful on the Day of Judgement. The disbelievers and the rebellious will get severe punishment and will be humbled through supernatural forces herein and natural punishment Hereafter.

5. Gist of the Text :

The life in this world should be disciplined by human beings according to the directions of the Holy Book of Allah and the ideal life pattern of the Holy Prophet S.A.W. He has created everything and will order the end of everything. Human beings have the best example of this fact in their own birth by Allah and the creatures created and made dead by Him all around. Unfaithfuls mock the faithfuls and they will see how such disbelievers and rejectors will be humbled on the Day of Judgement. The end of this universe will force the arrogant, boastful and rejectors to humility before Allah Almighty. Only the worship of Allah and believing in His greatness can save those who remain pious and act upon His instructions and follow the Holy Prophet's S.A.W. guidance.

6. Significant Verses :

Following Verses of this Sura have special significance.

- (i) Verse 5 - (Wakhtulafil-lyli wun nahari...) The rotation of day and night are due to the alternation of time which is brought by Allah He revives the dead earth to life to grow crops and reprocreate (grass, shrubs, trees and animal fodders).
- (ii) Verse 12 - (Allah --- Sakkhra ---) Allah has tamed the oceans for mankind as His bounty.
- (iii) Verse 15 - (Mun'aamila salihun ---) Whoso acts piously gets its reward himself but whoso indulges in misdeeds suffers its consequences.
- (iv) Verse 18 - (... Shari'ah-tim minal Amr...) The Shariah (Right way) presented by the Holy Prophet S.A.W. is the best as Ordained by Allah.

- (v) Verse 22 - (--li-yuuj-zaa kullo nafsima bima kasa but...) Every person gets the result of his/her own actions ---.
- (vi) Verses 36/37 - (Falillah hil hamd ----, Wa la hull Kibbriyaa ----) All praise is to Allah only Who is Rubbull Aalameen (Sustainer) of the universe. He is the most exalted---

7. Conclusion :

The people who indulge in arrogance, rebellion and remain boastful in this world rejecting the truth of the Holy Quraan and do not believe in Almighty Allah will be humbled on the Day of Judgement. They will bow down to get forgiveness but it will not be allowed on that Day. Therefore, only piety, righteous and straightforward actions in this world in light of the Holy Quraan, can lead to success.

SURA XLVI _ AHQAAF

1. Title :

The title of this Sura has been selected from its Verse 21. The word "AHQAAF" means dunes of sand or sand mounts or a very vast sandy environment. Actually Ahqaaf is around half million square kilometers vast sandy desert with sand dunes and mounts in Arabian peninsula called Ruub-ull-Khali, the big waste desert. The sand is so deep rooted dusty in some parts that things which fall there-in are automatically sucked-in. Somewhere the sand is so hard that everything is smashed when it touches it.

Ahqaaf is said to be the great valley where the people of Aad lived. They had great system of agriculture thousands of years ago. Aad people became boastful and rebellious to Almighty Allah and many of their own Prophets, including Prophet Hood, were rejected. Therefore, Allah Almighty, as a penalty, devastated the entire landscape and rendered it as a great desert. Now it is part of Saudi Arabia with a big length and width, where nobody dares to enter.

2. Constitution :

The Sura has 35 Verses with 644 words which consist of 2595 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed by Allah Almighty upon the Holy Prophet S.A.W. in the Holy City of Makkah in the 10th/11th year of declaration of his (S.A.W) Naboowah (Prophethood) after his return from Taa'if. There he received the greatest torture in his life which was the severest than the total torture received by all the other Prophets. He also underwent a big shock of the death of his uncle Abo Taalib and dearest wife Khudeeja-tull-Kuubra R.A. in the same period.

4. Objectives/Message :

The Holy Quraan is the best revelation of Almighty Allah. It is the perfect light of Allah to the entire mankind. The Holy Prophet S.A.W. is the last perfect model of Allah. Therefore, to reject the Holy Quraan as Message of Allah is the worst ungratefulness. There is no justification to disbelieve as it is a serious misdeed. The worship of idols against the worship of Allah is a big crime.

The revelations of Allah are not at all the creation of a magician by mesmerism. Only Allah should be depended to achieve a good end. Humble submission is the best in the eyes of Allah. Pious and righteous have a good news about rewards but they should remain steadfast in their straightforwardness.

5. Gist of the Text :

Verses 1 to 35 describe that the revelations of Allah are pure truth. Those who reject faith will meet the disastrous end. Only the pious and the righteous, who are patient and steadfast, will get the rewards. Allah has full power on everything. Transgressors will definitely be destroyed and the pious will definitely be exalted.

6. Significant Verses :

- (i) Verse 10 - Allah S.W.T. leaves the cruels in misguidance.

- (ii) Verse 13 - The people, who believe in Allah S.W.T. as their Sustainer and then remain steadfast, will have neither any fear nor any grief.
- (iii) Verse 15 - It is firm Order of Allah S.W.T. to be very kind to the parents. Mother keeps the baby in her womb with love. She gives birth to child and then makes him/her adult. Thus, the parents are the real bounty of Allah to the children. Therefore, parents must be kept in highest respect as an Islamic Shariah obligation to remain good Muslims.
- (iv) Verse 19 - Allah gives the pious and the righteous exaltation according to their good deeds.
- (v) Verses 29/30 - The Jinns also became Muslims to listen to the recitation of the Holy Quraan by Holy Prophet S.A.W. and verified its truth.
- (vi) Verse 32 - Whoso does not accept the truthful summoner from Allah cannot weaken the power of Allah to slightest extent.
- (vii) Verse 35 - Keep patience and be steadfast as the Prophets were constant and patient.

7. Conclusion :

The truth can never be defeated. Holy Quraan is pure truth revealed to the most truthful Prophet as Allah's model. Whoso rejects truth will receive the punishment herein and Hereafter but whoso accepts truth will get the reward herein and in the Hereafter.

SURA XLVII — MUHAMMAD

1. Title :

The title of this Sura has been derived from its Verse 2. The proper name of the Last Messenger of Allah has been used as the title of this Sura as there are Suras in other prophets' names. Muhammad means the most graceful and pious personality praised so highly in all moments of day and night. Allah and His Angels send salutations and blessings to him all the times. The name Muhammad consists of four letters in Arabic. Similar Arabic personal name Allah also has four letters (alphabets in Arabic). All the four are fully meaningful, if separated one after the other. Every letter of Muhammad in Arabic also has the best meanings. Remove Arabic 'Meem' and get Hamd which means pure praise. Remove 'Haa' and get 'Madd' meaning the over all useful one. Remove 2nd 'Meem' only Arabic, Daal will be left-out, meaning the convincing argument. Similarly the proper name of Allah in Arabic also has four letters every letter of which is very meaningful. Allah means the Being worth worship and Muhammad means the best personage of an utmost praise.

Basically this Sura deals with the principles of Islamic Jehaad which is a 6th pillar of Islam and compulsory for the followers of Prophet Muhammad S.A.W. to defend and spread truth. There is no compromise as far as Jehaad (Holy War) to defend Islam is concerned. The forces of right and wrong, piety and evils, good deeds and misdeeds never are equal. The Muslims have always great threat from the disbelievers, infidels, idolators and pagans. Therefore, principles had to be laid down to equip the Muslims to fight back and repel the evil. Tolerance and patience are the basis of Islamic faith as Islam is a religion of peace. But when the Muslims are physically threatened by any foreign force or the truthful Islamic faith is challenged, they have to fight back for their self defence, as prescribed in the Sura.

This Sura (Muhammad) also is called a Sura to fight against the evil to uphold the Divine truth. The Holy Prophet Muhammad S.A.W. throughout his life fought against injustice, cruelty, idolatry and rebellion against the right way of Allah. So this Sura lays down obligatory Jehaad by Muslims against any unjust, cruel, false, treacherous, immoral and idolatrous forces.

2. Constitution :

This Sura has 38 Verses which consist of 558 words containing 2475 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed to the Holy Prophet S.A.W. by Allah Almighty in the city of Makkah, perhaps in the last year before migration to Madina.

4. Objectives/Message :

Title of this Sura in the personal name of the Holy Prophet S.A.W. highly eulogies him.

Allah has four greatest attributes for Himself. He is :

- (i) Wahda-tull-Wajood - One for His Unity of Divinity;
- (ii) Ilmuush Shahood - All knowing about everything;
- (iii) Noor-us-Samawati Wal Ardh - Lighting force for survival of heavens and earth and ;
- (iv) Shahi-duush-shahood - The most evident to maintain the existents.

Similarly the Holy Prophet S.A.W. also has these highest characteristics :

- (i) Noor-rull-Anwaar - The light-house of guidance from the Divine Light ;
- (ii) Sirr-rull-Usrar - The most knowledgeable of the hidden treasures of Divine knowledge ;
- (iii) Mohba-tull-Wahi-ull-Abrar - The mam stream of Divine revelations about everything, past, present or future; and
- (iv) Makh-zan-e-Rehmatay Rubb-e-Ahmed-e-Muukhtaar - The Divine treasure of blessings for the friends of Allah, so great in piety to get sanctity of Ahmad (Muhammad S.A.W.) bestowed with Allah's bounties.

Fighting against evil by writing or preaching is also a sort of great Jihaad. Those who impose war on Muslims must be fought against. Certain principles have been laid down for such Jehaad regarding the battlefield and the enemy communities away from war front. The people taken as prisoners of war should be treated on the principles of morality. The righteousness and truthfulness cannot be failed by ignorance and cruelty. The disbelievers do not understand the reality. The Muslims who are killed in Jehaad in self-defence fighting against the idolators and disbelievers, when martyred, have profound exaltations with Almighty Allah. The people who remain steadfast definitely achieve success and disbelievers run away from the battlefield.

There should be no reconciliation when the enemy who impose war on Muslims are overtaken. Pagans, idolators and disbelievers must be given tough time with full arsenal, courage and honest patriotism. Muslims must donate open heartedly for Jehaad (Holy War). They should not be miser in any way. Allah will provide them whatever they spend. The disbelievers are ultimately to be thrown in the hell and the believers will achieve Paradise.

5. Gist of the Text :

Sections 1 and 2 state that any aggression or hostility against the faithful Muslims by any enemy must be fought firmly to repel the foes of Islam. Allah will guide those who remain steadfast and they will achieve ultimate success.

Sections 3 and 4 state that anybody who negates Jehaad should be condemned. No Muslim should think of running away from the battlefield. Those who strive hard and fight against the evil they will get the best reward. A few steadfast Muslims can be great asset to the Islamic Ommah.

6. Significant Verses :

- (i) Verse 2 - Only the firm belief in Allah S.W.T., belief in His revelations, belief in the Holy Prophet Muhammad S.A.W. and what is Ordained from Allah and His Holy Prophet is pure truth to purify and reform a person.

- (ii) Verses 4 and 5 - Whoso is martyred in the way of Allah S.W.T. in any pious action gets all the credit of Divine bounties herein and Hereafter.
- (iii) Verse 33 - Obedience to Allah Suubhana-ho Wa Ta'aala (S.W.T.) and His Holy Prophet Sallallah-ho Alyhe Wassallam (S.A.W.) is a must for every Muslim. Otherwise any piety has no weight in the estimation of Allah Almighty but is wastage of deeds.
- (iv) Verse 36 - Life of this world is just a pastime and purely temporary.
- (v) Verse 38 - Allah S.W.T., possesses world treasures to confer the same to anyone but man is just pauper.

7. Conclusion :

Sura Muhammad is a lesson for those who are sincere Muslims. Those who fight the evils are the people of heaven.

SURA XLVIII — AL-FATIHA (THE VICTOR)

1. Title :

The title of this Sura has been selected from Verse 1. AL-Fatiha means the victory. It was in the 6th year of Hijra that the Holy Prophet S.A.W. with his 1400 companions wanted to perform 'Omrah. But the idolators and pagans of Makkah under the Quraish leadership did not allow them to do so. Rather the Muslims were forced to undergo such conciliation treaty which is called Sulh Hidybia.

The Muslims had to return to Madina without performing 'Omrah but this treaty of Hudybia became an event of great success for Islam to enter Makkah-tull-Mukarramah victorious without shedding a single drop of blood. This victory was achieved two years later in 8th Hijra with the peaceful conquest of Makkah. This is how Allah Almighty has given this Sura the nomenclature of Al-Fatah to always commemorate the treaty of Hudybia as it was great success for the early Muslims.

2. Constitution :

29 Verses of this Sura consist of 568 words which contain 2559 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed to the Holy Prophet S.A.W. by Allah Almighty in 6th Hijra. He returned after signing the treaty of Hudybia. He had to face a severe opposition of the leaders of Makkah for the long 13 years and then he had to face 8 years of torture with toughest troubles to his followers after their migration to Madina. These Muslims of Makkah living in Madina had the right to come for Hajj and 'Omrah to Makkah. But they were not allowed to do so. By this treaty at Hoodybia, near Makkah, the infidels agreed, now onwards, that the Muslims, as a regular annual feature, can perform Hajj or 'Omrah by a legal entry to the city of Makkah. Therefore, this achievement was considered as Al-Fatiha by Almighty Allah Who revealed this Sura to Divinely commemorate this great event.

4. Objectives/Message :

Sura Muhammad described the highest status of the Holy Prophet S.A.W. but this Sura Fatiha describes his universal authority to achieve final victory. His companions acted upon his modality and established the all times best Islamic society. Same is the ideal of Allah for peacefulness of humanity.

Following are the objectives of this Sura :

- (i) The treaty of Hudybia is a great victory for the Muslims as a starting point to conquer entire Arabia. So Hoodybiya agreement accelerated the real success of Islamisation ;
- (ii) All the allegations of the people of Makkah against believers before and after migration of the Holy Prophet S.A.W. to Madina are totally rejected in this Sura with factual

- justification ;
- (iii) The believers are given assurance of complete victory for Islam due to legal force of the treaty at Hudybia. There was no further threat of the infidels of Makkah city against the Muslims of Madina ;
 - (iv) The Holy War (Jehaad) was made obligatory ;
 - (v) Reconciliation is permissible with the enemy only when they are defeated in the battlefield ;
 - (vi) The handicapped, lame, blind and otherwise seriously sick people are exempted from Jehaad ;
 - (vii) Allah Almighty gives peace and tranquility to the Muslims. But they should remain steadfast in the holy war to defend Islam ;
 - (viii) Perfect belief, patience and dependence on Allah is the greatest treasure of the Muslims ;
 - (ix) The utmost respect of the Holy Prophet S.A.W. is obligatory to become a perfect Muslim ;
 - (x) The patterns for human life style prescribed by Allah are not changeable ;
 - (xi) Muhammad S.A.W. is the best Prophet of Allah; His hand is the hand of Allah ;
 - (xii) Whenever an agreement is made by a Muslim with anyone it must be fulfilled ;
 - (xiii) The dreams of the Prophets are always true ;
 - (xiv) The better half of Kalima Tayyaba is in this Sura consisting on the words Muhammad duur - Rasool Allah (which consist on 12 letters in Arabic. The best Unity of Allah is in its first half -Laa ilaha ill-Lallah which also has 12 letters in Arabic alphabets ;
 - (xv) All the great companions of the Holy Prophet S.A.W. have their most pious personalities with best characteristics as described in Bible and the Torah ;
 - (xvi) All the companions of the Holy Prophet S.A.W. were the best in character, piety and righteousness. All of them must be respected by all the Muslims. They were best trained by the Holy Prophet S.A.W. himself inculcating them the Divine practices of piety.

5. Significant Verses :

- (i) Verse 8 - (Inna Arsalnaka ---) The Holy Prophet S.A.W. is a Divine Witness and a Messenger of good news as well as a warner.
- (ii) Verse 9 - (To'-mi-noo Billah ----) Believe Allah S.W.T. and His Prophet S.A.W. paying him an obligatory heart felt respect and adopt his (S.A.W.) life pattern.
- (iii) Verse 10 - (Inn-nalla zeena yobyi- ---) Those who take oath on the hands of the Holy Prophet S.A.W. do so as if it is on the Hand of Allah.
- (iv) Verse 10 - (--wa mun auofa---) Whoso fulfils the agreement he/she will get best credit.
- (v) Verse 17 - (---wa myn yoti Illaha ---) Whoso obeys Allah and His Prophet S.A.W. will surely get Paradise.
- (vi) Verse 23 - (Suuna Tillah ----) The laws of Allah never change.
- (vii) Verse 27 - (...Rasoola huur Roo'-ya ---) The dreams of Prophets are true.
- (viii) Verse 29 - (Muhammad Durr Rasool Lallah ---) Muhammad S.A.W. is the Messenger of Allah. His companions are severe to deal with the disbelievers.
- (ix) Verse 29 - (---Fit Touraat ---) The characteristics of the companions of the Holy Prophet S.A.W. are the best models ---- as also described in the Torah and the Gospel (Bible).

6. Conclusion :

Sura Fatiha gives the prophecy of victory to the Muslims in all circumstances. They will achieve success in all the matters if they remain steadfast and piously straightforward. They

always remain ready to fight the evils with profound belief in Allah S.W.T. and maintain great respect of the Holy Prophet S.A.W. following his best model.

DIVISION (MANZIL) SEVEN OF THE HOLY QURAAAN

Sura Al-Hojoraat (XLIX) to Sura UN-Nass (CXIV) constitute Division Seven of the Holy Quraan with most of the Suras as Makki dealing with morality under Allah's unity and full faith in Quraan.

SURA XLIX — AL-HOJOORAAT (THE APARTMENTS)

1. Title :

The title of this Sura has been selected from Verse 4. Allah has prescribed for the Muslim Ommah social system of Islam for their best domestic life. The family sanctity and the establishment of pious society by social control laws should be maintained for ever to keep the people pious and righteous. Therefore, this Sura Hoojoraat provides the instructions how to maintain each one's privacy in the pure life of his/her personal family.

The word Huujaraat is plural of huujra. It means the separated apartment to exclusively live with own family. The Holy Prophet S.A.W. lived a profoundest and a best family life as a perfect model for his followers. The sanctity of his privacy and his best family chastity was to be preserved. His companions with great love and sincerity kept constant contacts to learn every bit of his practices. Most of the people embracing Islam started an all the time rush to his apartment. Therefore, this Sura prescribed the restrictions to upkeep his family privacy. The family life and domestic routines of the Muslims should have similar privacy to upkeep family chastity as has been prescribed in this Sura.

2. Constitution :

This Sura has 18 Verses with 343 words and 1476 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed to the Holy Prophet S.A.W. in the holiest city of Madina-tull-Munauwarah.

4. Objectives/Message :

The following are the objectives/messages of this Sura :

- (i) The status of the Holy Prophet S.A.W. is so high that he has the Divine prerogative of top respect. Obedience to him is the obedience to Allah as the basis of Islamic faith. Nobody should dare to do anything which has a slightest possibility of loosening the standard Islamic etiquettes. Calling him with loud voice is banned. Mild, serene and low tone request with respectful submission to him is a must. Allah Almighty discounts the good deeds of a person who indulges in little disrespect to him anywhere with special care in his holy Mosque while in Madina;
- (ii) Muslim solidarity and brotherhood lies in mutual respect of each other. The basic respect lies in maintaining sanctity of personal chastity, privacy and security according to the Holy Prophet's (S.A.W.) modality. The family life of Muslims must start from defence of personal privacy and upkeep of the female chastity ;
- (iii) All the good or bad news must be received after full verification;
- (iv) Jealousy, enmity, hate and prejudice of one Muslim against the other has been rejected as people in Islam are mutually brothers. Rapprochement must be achieved within three days between the two Muslim brothers developing strained relations with opportunity of defence to each other.
- (v) Justice, equity, mutual accommodation and cooperation must be maintained;
- (vi) All Muslims should unite together to fight the common enemy as their collective duty. Disbelievers, idolators and evil forces must be confronted from the common platform.

- (vii) There is no discrimination based on color or creed, language or religion. Regionalism, racialism and ethnocentrism is banned. All the ethnic considerations are rejected. Only those who are pious and righteous have the respect in Islam. It is neither the leadership or family ties nor the wealth and properties which make anybody respectful but it is piousness which brings respectfulness in Islam.
- (viii) All humanity has unity with one father. Therefore, no exploitation is allowed at any level in any age at any stage in any region; and
- (ix) To participate in Jehaad is compulsory for every Muslim not only with self presence but also with personal wealth, property, weaponry, provisions, services and commodities, when needed as liability of each Muslim.

5. Significant Verses :

- (i) Verse 1 - Never go ahead of the decision of Allah and His Prophet S.A.W. in any matter ----.
- (ii) Verse 2 - Never make your voice louder before the Holy Prophet S.A.W ----.
- (iii) Verse 6 - Always verify a news before taking it serious ---.
- (iv) Verse 9 - Allah loves those who uphold justice ----.
- (v) Verse 10 - All the believers are brothers. So reconcile between them ----.
- (vi) Verse 11 - Never jeer (jape) each other ----.
- (vii) Verse 11 - Never give a nick name or indulge to level allegations against the Muslims ----.
- (viii) Verse 12 - Never indulge in suspicions against each other. Never spy each other. Never commit back biting against each other.

6. Conclusion :

Sura Hoojoraat provides community life structure of the Muslims with respect to the family life and personal privacy for peaceful co-existence of the Muslims as brothers with utmost respect to the Holy Prophet S.A.W.

SURA L — QAAAF

1. Title :

The title of this Sura is the first word of the opening Verse. It is a cut-out and Divine quote word. Meanings of the same are known to Allah Almighty and His Holy Prophet S.A.W. Some scholars say that QAAAF is for Quraan and Qalm (pen to write it). Some say it is the abbreviation of the glorious Names of Allah like Qadir, Qadeer, Qayyum, Qa-im, Quuddoos or Qahaar. This Sura was often recited by the Holy Prophet S.A.W. in the Juma (Friday) prayer and the Fajr prayer which shows how he kept this Sura so dear.

2. Constitution :

The Sura has 45 Verses which consist of 357 words containing 1494 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed upon the Holy Prophet S.A.W. by Almighty Allah in the city of Makkah-tull-Mukarramah.

4. Objectives/Message :

The following are the objectives/messages of this Sura :

- (i) The Holy Quraan gives warning to the people, that they should believe in the Holy Prophet S.A.W. with heart felt love and utmost respect to him because he has brought to them the pure truth;
- (ii) There is life after death. Making the dead alive is so easy for Allah as dead soil is made alive by Him to grow the best vegetation;

- (iii) All greenery, vegetation, rains from the sky, orchards and gardens are the bounties of Allah to the mankind;
- (iv) The evil minded nation of Noah, the wrong doer people of Rass, Samood, Aad, Pharaoh, Aika and Tuubbah as well as the rebellious people of Prophet Luut A.S. denied Allah's revelations. They rejected the Prophets of Allah. So they were punished ;
- (v) Man is allured and swayed by the attractions of the self to indulge in misdeeds. But Allah Almighty is nearer to the life artery of each person (to put every one to death). He all the times Sees everything they do;
- (vi) The Divine Accountsmen on the right and the left of each human being are keeping records of every deed of good nature and misdeed to the minutest level in the Book of Accounts. It will be audited on the Day of Judgment to send the wrong doers to the Hell and the righteous to the Paradise; and
- (vii) Prayer and praise of Allah on the prescribed hours is most bounteous. Everybody has to return to Allah and only worship to Him will be useful there.

5. Significant Verses :

- (i) Verse 1 - Allah takes to witness the Holy Quraan (that His Prophet S.A.W. is the most truthful).
- (ii) Verse 16 - Man is the crown creation of Allah. The self of a man indulges in temptations.
- (iii) Verse 16 - Allah is nearer to the human artery (to put anyone to death).
- (iv) Verses 17 and 18 - There are scribes on the right and the left of each person (the Kiramull Katibeen) to record his/her good deeds and misdeeds.
- (v) Verse 20 - The trumpet will be blown on the Last Day to finish every thing.
- (vi) Verse 24 - Severe punishment of Allah for disbelievers.
- (vii) Verse 27 - None will be dealt with in cruel manners.
- (viii) Verse 33 - Whoso fears the Affectionate Allah, the Ar-Rahmaan, achieves success.
- (x) Verse 43 - Allah puts everyone to death and He will bring all the dead to life.
- (xi) Verse 45 - The Quraan is a great remembrance to make the people realize the truth.

6. Conclusion :

Sura Qaaaf stresses the mankind to understand the message of the Holy Quraan brought by the Holy Prophet S.A.W. The disbelievers will be punished for their negation of the faith in life after death. Remembrance of Allah with praise only to him is the most bounteous. Truth of the Holy Quraan must be followed.

SURA LI — UZ-ZAARIYAAT (THE STORM)

1. Title :

The title of this Sura has been selected from the opening word of its Verse One. It means the storm. The air pressure with pollution of dust is formed by the turbulent atmosphere in each season. Specially the dry spelled hot summer brings hurricanes, violent storms and devastating winds laden with dust.

The title of this Sura is based on the supreme Divine power of Allah which can smash human life within moments. It is the air pressure and high violent wind which can break down the strongest human installations. High technology, innovations of highest stability and strongest protective human measures can also be crumbled by hurricanes and devastating winds. But there are favourable winds which blow quietly to help the ships to sail and the crops to ripen. But here UZ-ZAARI-YAAT is the storm power of Allah which is to be violently blown on the last

day to deface everything.

2. Constitution :

This Sura has 60 Verses which consist of 360 words containing 1239 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed to the Holy Prophet S.A.W. by Almighty Allah in the Holy city of Makkah.

4. Objectives/Message :

The basic objectives of this Sura are :

- (i) It effectively and specifically describes the truth of the revelations of Allah S.W.T ;
- (ii) Those who do not believe on the Verses of Allah S.W.T. (as revealed by Him) will realize their blunders Hereafter ;
- (iii) The Divine truth has to prevail as the ultimate success is achieved only by what is just ;
- (iv) The have nots, people of poor means and the deprived have a Divine right on the wealth of the rich as it has been bestowed to them by Allah ;
- (v) All human resistance against Divine powers are destined to fail ;
- (vi) Allah loves those who seek His forgiveness;
- (vii) The pious help the poor out of their wealth bestowed to them by Allah ;
- (viii) Always speak politely and understandably that others may pick-up easily ;
- (ix) Allah S.W.T. can deploy forces like dusty winds, hurricanes, storms etc. to destroy all human beings. Everything so powerful that the lofty mountains etc will also be crumbled ; and
- (x) The Jinns and men have been created to worship Allah S.W.T. So they should always establish His Prayer and Glorify Him.

5. Gist of the Sura :

- (A) Section one stresses that the Day of Judgement is a Divine reality to be accepted herein to achieve success Hereafter. Only those who remain righteous and worship Allah will succeed. Those who spend for others are near and dear to Allah.
- (B) Section two states that Abraham, (Ibraheem A.S.) the Arch Prophet, was bestowed a son Issac (Isshaaque A.S.) in very old age which was Allah's bounty for his piety. The people of Pharaoh, the people of Aad, Thamood and the nation of Noah were destroyed for their rebellion, wickedness and boastfulness.
- (C) Section three elucidates that Allah has the vast powers to create heavens, earth and creatures in pairs. Only the Messengers of Allah show people the right path. Jinns and human beings have been created to worship Allah and remain pious. Only then they can be saved from the punishment awarded to the earlier people.

6. Significant Verses :

Following Verses have great significance.

- (i) Verse 1 - (Wazz-zariaati zarwon) Allah can deploy strong stormy winds which can sweep everything.
- (ii) Verse 15 - (Innal Muutaqeenaa fee Jannatin) Surely the pious shall go to Paradise.
- (iii) Verse 19 - (Fee umwaali-him haqoo liss-saa-il wal mehroom) In their (pious Muslim haves) wealth there is right of the needy and the deprived.
- (iv) Verse 56 - (Wa maa khalaaq - tull-jinna wal insa illa li yaa' boodoon) Jinn and human beings have been created to worship Allah

7. Conclusion :

Allah can destroy every thing by the storm. Those who do not follow Islam must be punished. Those who negate the truth will be sent to hell.

SURA LII — TOOR

1. Title :

The first word of this Sura was selected for the title. It is Divine assurance in the name of mount Toor, so dear to Allah to state real facts. Toor is the most respected mount for all the monolithic religions - the Jews, the Christians and the Muslims. All of them have great love for Prophet Moosaa (Moses) A.S. who was bestowed great miracles on this mount Toor. Therefore, the Holy Prophet Muhammad Sallallah hoo Alyhe Wassallam (S.A.W.) selected Toor as title of this Sura of the Holy Quraan under the guidance of Allah Suubhana-hoo Wa Ta 'aala (S.W.T.) This gesture of the Holy Prophet of Islam gives a very clear, sincere and most truthful proof of Muslim love for Prophet Moosaa Aly-he-Salaam (A.S. — Salutations of Allah on him). Prophet Moses has the greatest coverage in the Holy Quraan with repetition of many of his profound services to righteousness. His strength to preach the value of straight path and pious inculcation to the Jewish people is a model of motivating people with commitment. Moses and his Divine Book Torah are most dear to each Muslim as a foundation to their faith. It is not understood why the Israelites have so tough, rough and unjust attitude towards the Muslims when this Sura and Sura XVII (Bani Issraeel) are so specific Islamic recognition assigning them Quraanic importance. All what Jews have in their different versions of Torah as true scriptures has also been repeated in this Sura. These revelations of the Holy Quraan hold Moses and his miracles so dear to Muslims.

Mount Toor might also be full of richest minerals for human benefits to be exploited when Allah deems fit. Anyhow, title of this Sura has good liaison of the Jews and the Muslims.

2. Constitution :

This Sura has 49 Verses, 312 words and 1500 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed to the Holy Prophet S.A.W. by Allah S.W.T. in the Holy city of Makkah.

4. Objectives/Message :

The basic objectives of this Sura are to establish the following most truthful facts :

- (i) It gives divine assurance by 5 great signs of Allah, including Mount Toor and the highest celestial worship house Baitull Mamoor that the Quraanic revelations are in Kitaabuum Mastoor - a Divinely recorded Book on parchments as the real truths from Allah S.W.T. as were the revelations of Torah on Mount Toor. The Hereafter (Day of Resurrection and the Day of Judgement) is inevitable. Everything will be devastated. The disbelievers will be put to severe punishment. So every human being must be pious, righteous and adopt straight path to face the account ability Hereafter without fear ;
- (ii) The pious will get blissfulness in the Paradise for their good deeds with serving maidens and fruits along with their pious wives ;
- (iii) The disbelievers will have to face punishment for not accepting the true revelations without any justification. They have no power to bring similar truth even if they climb up to the heavens. They have no justification to not to follow the truth of Allah
- (iv) Human beings have no justification to worship someone else except Allah. They make objects as associates and equal to Allah. This will take them to face the devastating thunder as punishment ; and
- (v) Only patience and endurance with sincere worship make man dearer to Allah. Celebrating only His praise is worth reward from Him.

5. Gist of the Text :

Verses 1 to 49 state that the signs of Allah to the Holy Prophet S.A.W. are similar to the previous revelations. All these truths from Allah point out the consequences of wrong deeds that

the sinful will face disastrous punishment. The people who do good deeds and remain pious will get rewards. Humanity has no justifiability to ignore the truth of Allah's revelations.

Only these three great spiritual qualities of a person can bring him/her near to Allah.

6. Significant Verses :

- (i) Verse 1 - (Watt-Toor) Allah assures by Mount Toor.
- (ii) Verse 2 - (Kitaabim Mastoor) The heavenly written Book the Holy Quraan.
- (iii) Verse 4 - (Baitull Ma'moor) the highest heavenly place of worship which is Celestial Divine House for Angels' Service.
- (iv) Verse 43 - (Suub - Haa - Nallah - Hi amma yuusshrikoon) Allah is totally pure from what they (idolators) associate with Him.
- (v) Verse 45 - (Wass-bir li Huukme Rubbika ...) Be patient with the Command of your Rubb (Sustainer) and always establish His Praise glorifying Him day and night.

7. Conclusion :

This Sura establishes under 5 Divine assurances of Allah that only those who worship Him and are the straightforward will be rewarded best in the life Hereafter.

SURA LIII — UN-NAJM (THE HIGHEST STAR)

1. Title :

The title of this Sura is based on the opening word of its first Verse. This is a Divine assurance of Allah in the name of the highest star on the sky. Many beautiful descriptions or events of importance are ascribed to the symbolic beauty of stars. People on sea, land and in air locate ways by stars. This is why Almighty Allah has given the Divine assurance about His great facts in the name of star un-Najm for its human importance. It vanishes on the horizon before the sunset. A great truth is presented to assure the mankind that the Holy Prophet S.A.W. is not at all a person astray or mislead. He is a Divine Blessing who has brought greatest wisdom to take the entire humanity to righteousness and piety upto Eternity. Right path is the Path of Allah which is a straight way for the pious and the righteous.

The Najm may be the Holy Prophet S.A.W. himself when he was taken to ASSRAA (most exalted journey of the universe), to see all the universe, the seven heavens, hells and all the Paradises. He returned within twinkles of the stars. Thus he became the Divine light house of guidance for all the times with perfect twilight of the truth of Allah.

2. Constitution :

This Sura has 62 Verses which consist of 360 words containing 1405 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed upon the Holy Prophet S.A.W. by Almighty Allah in the Holy city of Makkah.

4. Objectives/Message .

The basic objectives of the Sura are to confirm the highest status and the best education imparted by the Holy Prophet S.A.W. for the best motivation of mankind to establish a just society. It is full of wisdom to lead the entire humanity to perfect piety. The Holy Prophet S.A.W. was so exalted to come in the direct contact in his famous Assraa (S. XVII = 1) with the Divine inspirations to be the light house of Divine guidance. Almighty Allah bestowed to His great devotee Muhammad S.A.W. whatever He Willed. But the confused and disbelieving people still doubt it.

All type of idols, pin-pointing their names as Ozza, Lat, Munaat etc worshipped by the then Makkah pagans or any self-adopted false deities worshipped by men today have once for all been rejected. Whatever the Holy Prophet S.A.W. has conveyed to the mankind is a pure reality about the worship of One Allah Almighty.

Nobody knows what is in a mother's womb. Everything belongs to Allah and everyone has to return to Allah. All the Prophets have conveyed the truth. But the rebellious people and the opponents do not follow. So they will be punished.

Allah will allow some pious persons on the Day of Judgement to recommend believers deficient in pious acts for His forgiveness. Allah's clemency is very liberal. Only He knows who is pious. None will carry the burden of any one else. Mankind will get what each one acts. Nobody should have a slightest doubt about the reward of bounties of Allah Almighty. Therefore, every body should adopt the straight path with devotion to Allah.

5. Significant Verses :

- (i) Verse 1 - The star comes down as if the Holy Prophet S.A.W. returns from the Assraa! His profoundest celestial journey.
- (ii) Verse 2 - The Prophet is the greatest companion to every believer. Allah never can leave anyone on the wrong way if Muslims follow his model.
- (iii) Verse 3 - The Holy Prophet S.A.W. never uttered any word of his own desire, but every thing was revealed to him. He even did not inhale fresh air without Allah's Will.
- (iv) Verses 4,5 - Every word convey by the Holy Prophet is the revelation from Allah.
- (v) Verses 8 to 10 - The Holy Prophet S.A.W. (with his body) came closest to get direct inspiration of Allah.
- (vi) Verse 14 - The Holy Prophet (S.A.W.) achieved the highest status of Divine exaltation in his Assraa.
- (vii) Verses 17 to 19 - All idols are totally false. Only One true Allah is Supreme.
- (viii) Verses 24 and 25 - A Muslim can get what he/she piously desires from Allah ;
- (ix) Verses 31 to 33 - Everything belongs to Allah. He confers it to those who save themselves from major sins.
- (x) Verse 38 - No one carries the burden of wrong deeds of anyone else.
- (xi) Verse 39 - Man gets (with Allah's bounties) for what he/she strives.

6. Conclusion :

This Sura gives a scientific assurance that the preachings of the Holy Prophet S.A.W. are purely based on the last Divine Message. The Holy Quraan is the light house of knowledge through the Holy Prophet S.A.W. Only the Suunnah (life patterns) of the Holy Prophet S.A.W. can take mankind to righteousness to make them successful on the Day of Judgement.

Revelations of Allah are the real truth having full sanctity up to Eternity.

SURA LIV — AL-QAMAR

1. Title :

The title of this Sura is based on the last word of its first Verse. Al-Qamar is the moon which spreads light during the dark night all over the world. It is the nearest cosmos or upper atmosphere object which revolves around the sun and the earth. Therefore, it has been selected for the title of this Sura.

As otherwise moon is very important for the existence of the world keeping gravity of the earth. All the freshness of water, air and atmosphere have links with the moonlight. All the seas and oceans remain in motion due to the moon to maintain their tides, cyclones and enrichment of marine life. All the sea-foods get life from moon light. Similarly all the agricultural products from the soil are subject to the moon light. All the fruits get the juices and the sweetness due to the moon light. Actually it is the moon which is the best inanimate creature of Allah having so useful impacts on the human survival.

People describe the facial beauty of men and women by using full moonlight as a metaphor. The moonlight is very soothing to human eyes and to the human health. Keeping in view this importance of moon to man this Sura has been given the title of Al-Qamar.

This Sura describes a great miracle of the Holy Prophet S.A.W. to break the moon into two, signs of which are visible on its surface as seen by the astronauts who landed on its surface. So this Sura also pinpoints this greatest miracle of the Holy Prophet S.A.W.

He was asked by his uncle Abu Talib not to criticize the idolators and pagans worshipping the idols. But he told him that he will always speak the truth that there is only One Allah worth worship. He further told his uncle that even if the infidels place moon on his left hand and the sun on his right hand he (Prophet) will not leave this true path. This miracle cites same power reposed in the Holy Prophet S.A.W. by Almighty Allah when he with his left hand broke the moon into two pieces, on the toughest demand of the Makki pagans, verified by observers and over-night travellers of that period.

2. Constitution :

This Sura has 55 Verses with 342 words consisting of 1423 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed to the Holy Prophet by Almighty Allah in the city of Makkah.

4. Objectives/Message :

The basic objective of this Sura is to indicate the great miracle of the Holy Prophet of breaking the moon into two as was demanded from him by infidels of Makkah. This was to prove to the idolators and the infidels of Makkah to verify the truth that he is the a Prophet of Almighty Allah. But even then they remained idol worshippers and did not believe him.

This Sura prescribes in detail the Divine admonition for the sins and misdeeds of the disbelievers of all ages who reject even self-observed great Divine facts. They repeatedly ignore the clear warnings of Allah as revealed in the Holy Quraan. So this Sura stress them to remove misgivings and embrace Islam.

The disbelievers have been invited again and again to listen to the message of the Holy Quraan. Who do not believe it will be punished. The nations of the previous Prophets were admonished but they did not follow the revelations brought by the Prophets. So they were defaced along with their great cultures and civilizations.

Every minutest deed of good or bad nature is being recorded and, to be presented on the Day of Judgement.

5. Significant Verses :

- (i) Verse 1 - Moon was rent asunder in two parts (by the Holy Prophet S.A.W. as demanded by the idolators).
- (ii) Verses 17 and 22 - The Holy Quraan is very easy to understand and remember it as a whole by heart.
- (iii) Verse 54 - The pious people will be in the Paradises, rivers flowing thereunder.
- (iv) Verse 55 - (The righteous people will be) with the All sovereign and the Omnipotent Allah (for their piety).

6. Conclusion :

In view of the perfect guidance of Islam on realities of life all the believers as good Muslims are advised to keep on the right path. The best modality of the Holy Prophet Muhammad S.A.W. is a great bounty of Allah Almighty. He is the Last Messenger of Allah and His best ideal for all the mankind for all the times. He is the light-house of truth with the Holy Quraan as the permanent Divine guidance revealed to him.

SURA LV — AR-RAHMAAN (THE MOST AFFECTIONATE)

1. Title :

The opening word of the first Verse of the Sura is Ar-Rahmaan, a profoundest Name of Allah. It is the best title in the top glorious and best Name of the Cherisher and the Sustainer of all the creature. This revelation of Allah S.W.T. upon the Holy Prophet S.A.W. is a spiritually profound set of Divine rhymes in best rhythm of the Quraanic symphonies with highest artistic Divine wordings. The Sura best adjusts the flow of words and phrases in Verses. Its most correlated prose presents so finely the broad based expressions in brief Verses.

Repetition of Verse (Fa-be ayye-aa'-laa-'ee Rubbi...) "then which of the bounties of your Rubb (Sustainer) you will deny" occurs 31 times in 78 Verses of this Sura. The Divinely set spiritual composition of Verses with harmonious symphonies convince man to remain grateful to Allah. Its linguistic correlation of periodic accents are the most appropriate in the rich and unchangeable Arabic version to make the Holy Prophet's language a Divinely guarded permanent treasure. The Sura presents food for thought to the human mind to appreciate the Divine bestowments to them. Everyone should always remain grateful to Allah in each moment.

Ar-Rahmaan as the title of this Sura, is, the most repeated glorious Name of Allah Suubhanaho Wa Ta'aala (S.W.T.) which in direct way occurs 57 times in the Holy Quraan and so repeatedly in this Sura.

Rahmaan is one of the most exalted characteristics of Allah. It means the Most Affectionate, the Most Kind, the Most Gracious and the Most Loving. Tasmia-tull-Quraan, the prefixed Verse of the Holy Quraan at the start of each Sura, carries so lovely the Name of Allah as RAHMAAN. It is so beautifully adjusted as the prologue to every Sura, except Sura IX. It forms the basis of our faith that whenever a person starts any work or eats or drinks he/she is duty bound to take start in the Name of Allah Who is the Most Affectionate and the Most Merciful. Thus Rahmaan is such a glorious Name of Allah which makes Him the Most Gracious and Loving Being for the entire mankind without any discrimination of color, creed, race, region or status etc. As Rubb (Sustainer) He is the Provident of every one.

AR-RAHMAN is the unique glorious attribute of Allah S.W.T. out of His 99 beautiful Names. His graciousness is for all the creature, but He is always most Affectionate to mankind. The 2nd Verse of Sura Rahmaan so truthfully, precisely and clearly states that His first bounty to human beings is the knowledge of the Holy Quraan through the Holy Prophet S.A.W. But the Question is to whom and at what occasion its knowledge was conferred when there was no Aadam or his progenitures? The 3rd Verse states that the man was created afterwards (when the knowledge of the Holy Quraan already was bestowed).

It clearly indicates that first of all Allah created the Holy Spirit of the Holy Prophet Muhammad S.A.W. in celestial life in the Paradise and later created this universe. In the spiritual world Allah S.W.T. conferred to the spirit of Muhammad S.A.W. all the knowledge of the Holy Quraan, as a consolidated version of all the Scriptures bestowed to all the previous Prophets right from Aadam A.S. as the first Prophet and the father of man on earth in this physical world. The Holy Prophet S.A.W. came as the last Divine Messenger to convey the humanity that consolidated Message of Allah Almighty in shape of the Holy Quraan's entity consisting on profoundest reality valid upto Eternity.

The Divine metaphors, similies and illustrations bespeak the highest linguistic calibre of the Arabic language used in this Sura which has withstood the socio-cultural changes to remain the same rich in its originality. The Arabic dictions with rhythmic Verses are so beautiful and so meaningful in contents. Symbolism, allegories, harmonious psalms and soothing Verses bring bliss to spirituality of a believer listening its recitation or reading it in person.

Sura Rahmaan has a great impact on humar. life as it sanctifies man as the best creature of Allah. But again and again Allah, as the Most Affectionate, the Benevolent and the Bestower of all the bounties reminds that only He, all alone, is to live for ever. Everyone else is to die.

Subject to accounts, only those will be rewarded Hereafter who will be pious and righteous. The disbelievers and the sinners will be punished for their misdeeds and rebellion. This Divine order of the Sura is psychologically soothing in counting the blissfulness to be conferred in the Paradise to the righteous and punishments to be awarded in the hell to the wrong doers.

2. Constitution :

This Sura has 78 Verses with 351 words containing 1636 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed to the Holy Prophet S.A.W. by Almighty Allah in the holy city of Makkah.

4. Context :

This great Sura explains to the mankind how they are the best creature of Allah. Their spiritual exaltation demands them to worship and glorify only One Allah. The Holy Quraan gives man the superior knowledge of being the crown creation, having all time higher status over all the other creatures due to Divine bounties. Therefore, humanity must be grateful to Allah Almighty in each moment. The Holy Prophet S.A.W. has set to mankind the best example of justice to get the Paradise set with all the best jewels, fruits, drinks, foods abodes and the maidens etc.

The Sura stresses on Jinns and men alike to be believers and sincere worshippers of Allah.

The repeated address of this Sura to Jinns along with the men shows that the Holy Prophet Muhammad S.A.W. is also the Messenger for Jinns.

5. Objectives/Message :

The Sura basically describes that Almighty Allah has bestowed the knowledge of the Holy Quraan and He is so Affectionate to create the mankind. He has exalted the man high above all creatures with His bounties. Sun, moon, stars, air, rivers and all the other objects as well as the soil, rivers, mountains, minerals, seas and oceans are in the service of humanity.

Allah Almighty has instructed in this Sura all the human beings to raise high the balance of justice and never transgress to keep the scales maladjusted. Weights and measures should always be judicious. Everything has been produced by Allah Almighty for the benefit of humanity. Therefore, they should accept His Orders and worship only One Allah.

The East and the West and the right and the left belong to Allah. Allah likes the pious and the righteous who remain obedient to His Authority. His bounties to man are unlimited as His best bestowments. The Supreme Authority vests into Allah, herein and in the Hereafter. It is He Who created everything and it is He Who will finish everything. On the Day of Judgement both the sinners and the pious will be recognized from the signs of their faces. Nobody can stand before the Almighty's perfect scale of Divine Justice. So His bounties never should be denied. Everything on the earth, in the heavens, in the oceans beneath the deep seas and in the upper atmosphere is obedient to Allah. The best fruits and the best rewards from Allah are His bounties in plenty. How any one can deny His such great bestowments. The Paradise has the richest and most attractive allurements for the pious. The glorified Name of Allah (Rahmaan) is so blessed that He is full of His profoundest Divine Majesty for His sincere devotees to confer on them spirituality in this world and reward them the best-set Paradise full of luxuries Hereafter.

6. Gist of the Text :

(A) Section 1 of this Sura explains that the knowledge of the Holy Quraan is Allah's Blessing through His Holy Prophet S.A.W. It has in these 1400 years made the human beings quisitive, research minded, curious and conscious to expose, explore and use all the bestowments of Allah in this universe as His unlimited bounties in man's service. Therefore, human beings should worship Allah Almighty in thankfulness.

Everything is in His command and He manages all His creatures in profound manners. Man must keep up the balance of every thing and maintain justice for everyone. Allah has subjected all the supernatural and the natural things to human service. And nobody can

deny the bounties of Allah. The ships sail in the high seas. The deep oceans are full of wealth and sea food. The mountains on earth contain all sorts of precious minerals. All of them are in the service of mankind and Jinns. Therefore, the men and the Jinns cannot deny these bounties of Allah Almighty. As such the modern man must be so grateful to Allah for all treasure of His nature.

- (B) Section 2 describes that everything is to have its ultimate end and is to perish but the everlasting Majesty of Allah Almighty will exist till Eternity. Allah Suubhana-ho Wa Ta'aala has the added honors, increased grandeur and expanded highness in each moment. Everything in the nature which is being done everywhere in this world and all over in the universe is under the directions of Almighty Allah.

A Day has been fixed on which people will be questioned for their piousness and misdeeds. Nobody can escape such accounts on that Day. Allah Almighty encircles every creature. No body can run away from His earth. Everyone so boastful and rebellious will be humbled.

Allah Almighty invites Jinns and human beings to go beyond the heavens and the earth. But they could not go beyond certain limits as fixed bounds of the universe. They can go to certain heights with self made objects of highest velocity and super power. But still such great scientific explorers will remain within Allah's domain.

On the Day of Judgement everyone will be brought to the book to face the accounts of their doings in this world. Whoso will be disobedient to Allah Almighty will face punishment, as prescribed. So none should deny any bounties of Allah Almighty?

- (C) Section 3 states that everybody is to give accounts of deeds to Allah Almighty and thereafter only the pious, righteous and straightforward ones will be rewarded with the best set gardens of bliss in the Paradise. Descriptions of Divine blissfulness has been given in details. None should be ungrateful to so liberal bestowments of Allah Almighty. All types of fruits herein will be in much abundance with best taste in the Hereafter. Allah S.W.T. is the Most Bountiful, the Most Honorable, the Most High, and the Most Merciful.

7. Verses of Significance :

- (i) Verses 1 to 6 - The Most Affectionate taught the Quraan. He created man and inculcated Him the speech. Sun and moon are on the best computed course and the herbs and trees bow down to Him.
- (ii) Verses 7 to 9 - Heavens have been set high by him. His scales of justice are perfect. Never transgress in keeping balance and establish just weights and measures.
- (iii) Verse 13 - Which of the bounties of your Rubb (Sustainer) will you deny?
- (iv) Verses 14, 15 - Allah Created human beings on best nature like sounding pottery of best stature. He has created Jinns out of smokeless fire.
- (v) Verses 26, 27 - All that is on earth will perish but Rubb (Sustainer) will ever get enhanced in His Majesty, Bounty and Honor.
- (vi) Verse 29 - Every creature in heavens and earth seeks sustenance from Allah. Every moment His Splendor becomes brighter.
- (vii) Verse - Oh the aggregates of Jinns and human beings if you want to go out of the zones of heavens and earth you can cross certain limits deploying your super power with highest Velocity. But even then none can go out of His domain.
Then what Bounties of Allah will you all deny?
- (viii) Verse 60 - The kindness of someone should be responded with reciprocal kindness.

(ix) Verse 78

Blessed is the Name of Rubb (Sustainer) full of Supreme Majesty, Bounty and Honor.

8. Conclusion :

Sura Rahmaan is the Divinely super worded best educative Sura of the Holy Quraan to inculcate the human beings to worship Allah for whatever has been bestowed by Him to the humanity. Mankind should believe in the Divine truth to remain pious and straightforward to get all the bounties of Allah in the Paradise Hereafter. Only Allah is to exist for ever and His Majesty, Bounty and Honor is to go on enhancing.

SURA LVI — WAQI-'AAH (THE EVENT)**1. Title :**

The title of this Sura is in its Verse 1 which describes that how the event of the Last Day will occur. The word "Waqi-'aah", means an event, an occurrence, an unexpected happening or an affair which is very startling. The Yaumul Qiyamah or the Day of Resurrection is to be a very strange dilemma for the entire mankind. The Universe will be finished with eventual disaster. Therefore, the nomenclature of this Sura is Al-Waqi-'aah.

2. Constitution :

This Sura consists of 96 Verses which contain 378 words and 1703 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed upon the Holy Prophet S.A.W. by Allah Almighty at Makkah-tull-Mukarrama.

4. Objectives/Message :

The objective of this Sura is basically to describe the Day of Judgement. It also indicates how the Last Day will be established and how Resurrection will take place. Human existence lies in maintaining the purity of belief. Allah has all the powers and is owner of all the goodness and glories. His revelations are altogether truthful and bounteous to mankind.

5. Gist of the Text :**(A) Verses 1 to 56 :**

The Day of Judgement is to come. The world will be totally shattered by shaking it from its foundations. Resurrection will take place and the Day of Judgement will be established. The human beings in this life after death will be categorized into three divisions on this Day of Judgement :

- (i) Those who will be nearest to Allah, being pious and straightforward will be exalted in the blissful Paradise without accounts.
- (ii) The companions of the right hand with credit of pious deeds but with some shortcomings. They will also be taken to blissfulness of Paradise after judicious accounts and making amends for their shortcomings.
- (iii) The companions of the left hand who remained disbelievers, pagans, idolators and rejectors of the revelations of Allah. They will be sent to the hell to face all the miseries.

(B) Verses 57 to 96 :

Surely all the power and all the greatness belongs to Allah. The signs of Allah can be seen in the revelations of the Holy Quraan. Verses of Allah guide human beings to accept the truth as presented in this message. All mankind should worship Allah and glorify Him only.

6. Significant Verses :

- (i) Verses 7 to 12 - There are three categories of people, people on the left, people on the right and the pious ones to go to the Paradise of bliss.
- (ii) Verse 26 - There will be full peace all around in the Paradise with

(iii) Verses 77 to 81

salutation to the righteous.

Quraan is the most honorable Divine Book. It is fully guarded (for purity of its text). None can touch it without being clean. It is a revelation of the Rubb (Sustainer) with its message so esteemed.

(iii) Verse 96

Always celebrate the praises of Allah, the Supreme.

7. Conclusion :

When the Day of Judgement is established whole the universe would be smashed and every thing would be overturned. On the Day of Judgement, the pious will be sent to paradise and wrongdoers to the hell.

SURA LVII — AL-HADEED**1. Title :**

The title of this Sura has been derived from Verse 25. The word "Hadeed" means iron. Verse 25 says that the Prophets of Allah bring clear signs for the guidance of mankind to maintain justice. The use of iron hand to maintain the judicious authority with prescribed power is necessary. Iron has a great importance that the entire human technology and advancement in the world is based on iron and steel. Man needed iron axe, saw, spear and sword even in the simplest early stages of survival as his aids to make his life easy. His pastoral life still needs cutting of trees, shrub and herbs. Man needs the iron share in oxen plough or even in the latest model computer set tractor to grow the crops, vegetables and fruits. Then to use them as food he needs from sickle to the fork, every thing out of steel. The man today urgently needs iron and steel to manufacture the high technology, atomic energy, daily utility goods and services industry, space crafts, the upper atmosphere research objects as well as the sea ships and launches, land moving bull-dozer, mass carriage and transport big vehicles, auto-mobiles and all sorts of domestic articles of kitchen use from the eating spoon to the cutting knives. From the self comfort hardware, building structure, tools and the equipments of convenience to the self destructive arsenal, guns, missiles, bombs and war technology man needs iron and steel. Therefore, man today totally depends on "Hadeed", iron and steel, each bit of which is bestowed by Allah. In view of such importance of iron and steel this Sura has been given this title.

Justice, peace and human coexistence depends on the legal, judicious and authorized use of the equipment, like conventional sword, as a symbol of power. Same is now in the form of the automatic Kalashnikov with the social defence Police or the self-defending citizens for self protection and domestic security, all made out of best iron and steel.

The ancient rugged man of Africa or Australia to the modern age gentleman life in the fastest Ginza of Japan, trouble shooter gambler of Las Vegas of U.S.A. or peaceful pilgrim in the most peaceful Ka'aaba in Makkah depend upon iron. Therefore, this Sura has been given the title of "Hadeed" for so great importance of iron.

2. Constitution :

This Sura has 19 Verses with 544 words which consist of 2476 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed upon the Holy Prophet S.A.W. at Madina. In Makkah the so peaceful Muslim community was not having any viable resistance power against the committed enemies of Islam. But in Madina Muslims were posed the armed struggle of pagans to finish Islam in its infancy. The Makkah infidels and Madina hypocrites as well as Jews and the Christians joined hands to thrust many battles on the peaceful new city state of Muslims of Madina. Therefore, in self-defence the Muslims were given the idea of utilizing iron and steel. In view of this Allah revealed this Sura in Madina Tyyabah. Sword and gun is urgent even for the law enforcers to uphold scales of justice with authority. To bring the disbelievers to terms of truthfulness the steel made negotiation table to the hard steel gun iron is a must. Therefore, the

Muslim state in its infancy needed iron and it is urgent if all the Muslims want to be one greater Muslim empire of 55 countries on the globe in the next century.

4. Objectives/Message :

The objectives of the Sura is to glorify Allah Who bestowed every thing with most important bounty of melting iron out of hard stone mountains. It exalts Allah for His Might. His Divine prescribed Justice by social control and the iron hand law enforcer under the pious ruler can make the righteous victorious. Everything belongs to Him. Life and death are in His control. He has full knowledge of every thing. Power be used to prevail justice. All human beings should be humbled to worship Him for His bestowments. None should be rebellious to Divine system. There is stern warning that severe punishment will be awarded to the people who indulge in misdeeds. Believers will get the pleasure of Allah. One must remain pious and straightforward to be bounteous in Allah's Blissfulness.

The people who are generous, pious and perfect they up-keep the justice with authority use iron hand to establish a just society with sincerity in faith. Only they will be rewarded with best honors by Allah Almighty.

5. Significant Verses :

- (i) Verse 2 - Life and death belong to Allah.
- (ii) Verse 3 - Allah is the First and the Last, the Evident, and the Immanent ;
- (iii) Verse 4 - Allah created heavens and earth in six days (periods).
- (iv) Verse 6 - Allah merges day into night and the vice-a-versa. He knows secrets of the hearts.
- (v) Verse 10 - To Allah belongs the heritage of the heavens and the earth.
- (vi) Verses 11/18 - Give to Allah a beautiful loan (pure debt to His devotees).
- (vii) Verse 20 - Life of this world is play and amusement.....The life of this world is only a deception.
- (viii) Verse 25 - Allah has sent the Book and balance for justice.
- (ix) Verse 28 - Those who believe in Allah and His Prophet get many folds the credits if they act as prescribed.

6. Conclusion :

Sura Hadeed instructs human beings to achieve the best humility and keep justice high to get Allah's Bounties in this world and Hereafter.

SURA LVIII — AL-MUJADILA (THE PLEADING)

1. Title :

The title of this Sura has been derived from the word "TOJADILU-KA" which means someone who is pleading. Submission to explain something in a humble way, projecting a view point with justification, advancing self-defence by argument or convincing by arguing are the forms of MUJADILA.

Pleading is the most important method of human justification to establish certain facts. Everybody wants to be recognized and listened. Every one can argue to get solved personal or collective problems. Relief in court by advancing the legal and material facts of a case by profound pleading can achieve real success for true justice.

Pleading is one of the most important aspect of entire justice system. Criminal code or other legal procedure is pleaded to get a right. Pleading helps to defend the accused against wrong allegations.

Situations arise where husband and wife may develop differences. Wife being the weaker spouse is in the threat of male chauvinism and injustice. Therefore, the Holy Quraan gives best protection to the handicapped female folks through this Sura.

This Sura basically is the humble submission of a great lady known as Khaula of the Khazraj tribe of Madina who embraced Islam in the initial stages and became great supporter of the early Muslims in Madina. Her husband wanted to divorce her but she complained to the Holy Prophet S.A.W. that she will be ruined and her children will also be in trouble. Her pleading was very convincing. The Holy Prophet S.A.W. intervened to save her from being divorced or punished in innocence. This great lady later on critically advised 'Omar the Great in his state affairs when he was elected as the 2nd Caliph of Islam. Being the most pious companion of the Holy Prophet S.A.W. he acted upon her suggestions. He passed certain orders imposing restrictions on the women. Khaula, now an old lady, pleaded 'Omar to keep justice high as prescribed by the Holy Quraan and practised by the Holy Prophet S.A.W. Hazrat 'Omar bowed down before her pleadings. Thus title of this Sura, being submission of a wife against the husband before the Holy Prophet S.A.W. as Al-Mujadila makes pleading a fundamental source of Islamic adjudication for all the periods for each faithful.

2. Constitution :

This Sura has 22 Verses with 473 words which consist of 1792 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed in Madina upon the Holy Prophet S.A.W. The Muslims in Madina established their own social system under the Islamic jurisprudence. The human family life is often in trouble due to many internal misunderstandings and external situations of stress and strains between husband and wife. There is a permission in Islam in tense situations between husband and wife for divorce and separation. But Allah Almighty and His Holy Prophet S.A.W. stressfully prefer reconciliation and settlement of disputes so that the families of the Muslims remain well-established. Therefore, this Sura was revealed in Madina to keep the Muslims well equipped to listen to pleadings of others for settlement of differences. Tussel of husband and wife must be settled by arguments for all times to come. Al-Mujadila - pleading - from this primary group life of Muslims to all the social life problems was made an institution of justice by this revelation in Madina.

4. Objectives/Message :

All type of false allegations and unjust male tension against female folks should be seriously settled. The differences of husband and wife should be tackled very sensitively to reconcile their wrong contentions to save their family life and the smooth lives of their children. Those who degrade the women position must understand that Allah provides them the family and community protection. Therefore, such people are condemnable who unnecessarily create tensions for their wives. The secret consultations between men and the intrigues against women are totally un-Islamic. The wrong information to the husband against the wife must be thoroughly probed and verified with truth before forming any opinion. Falsehood, mischiefs and sedition are most hated behaviors in Islam.

5. Significant Verses :

- (i) Verses 3/4 - Method of divorce by "Zihar" (on doubt of some irregularity) has revocation under penalty as a must.
- (ii) Verse 7 - Allah is with everyone everywhere in all circumstances to witness the human actions/reactions.
- (iii) Verses 8, 9 - The method of forgiveness of Allah for sins is lesson for men to forgive each other on mistakes.
- (iv) Verse 13 -Allah forgives but to remain pious and righteous afterwards is a must.
- (v) Verse 20 - War with Allah and the Prophet (not acting on the religion) will lead to Divine humiliation.
- (vi) Verse 22 - Only the party of Allah (Hizbullah) are destined to succeed.

6. Conclusion :

Sura Mujadila is very important for the maintenance of the best understanding between husband and wife. The reality of any complaint against an accused must be verified seriously. Understand the truth before taking any action against a person with full opportunity by his/her pleading as unguilty.

SURA XLIX — AL-HASHR (THE GATHERING DAY)

1. Title :

The title of this Sura has been derived from its Verse 2 from the word "HASHR" meaning the day of gathering, collecting or bringing together in big groups. Such Hashr will be established on the Day of Judgement when accounts will be taken from all the human beings for their deeds herein for award/rewards Hereafter.

"Hashr" means the banishment in groups, throwing out, forcing out or punishing some group or a community to leave a certain city or locality. In this Sura the word Hashr seems to have been used for self-exile of Jewish and Christian communities and those pagans and hypocrites who were against the Holy Prophet S.A.W. They left in groups the city of Madina, when it became an Islamic State. The Holy Prophet S.A.W. never had any confrontation with any Jew or Christian or with any local of Madina to banish them or throw them out with force. But such non-Muslim communities left Madina, voluntarily, in groups to get together elsewhere to have a longer confrontation with Islam to finish it before establishment of a greater Islamic culture. For explaining this type of situations this Sura was given the title of Hashr.

2. Constitution :

This Sura has 24 Verses, 445 words and 1913 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed upon the Holy Prophet S.A.W. by Almighty Allah in the city of Madina. Most of the problems discussed in this Sura were faced by the Muslim community in the holy city of Madina.

4. Objectives/Message :

The people who do not adjust in a peaceful community life in a society need to be corrected. The last resort is their expulsion as a punishment. Expulsion is the severest punishment if certain people in a community become incorrigible after a long motivation, education and inculcation. People who commit treachery and spy to defeat Islam are not at all tolerable. If they opt self-exile they should be allowed immediately.

This Sura also stresses that those who deceive others must face ultimate humiliation as obedience to law of the land and peaceful coexistence with the community is best for humanity.

6. Significant Verses :

- (i) Verse 2 - ... (Faa'-tabi-roo yaaa oolil albaab) Take warning to learn lesson, oh the people of fore-sight.
- (ii) Verse 7 - ... (Wa maaa aa-taa ko-muur-Rasool)... Act upon whatever the Prophet (S.A.W.) prescribes and desist from what he prohibits.
- (iii) Verse 18 - (Yaaa ayyo-halla-zeena aama-nuutta-Qullah-ha...) Oh, the believers, fear Allah. Every one should check what is being earned by him/her for the Hereafter.
- (iv) Verse 21 - (Wa lau unzal-Naa haazal Quraan...) Had the Quraan been sent by us (Allah) on mountains they would have trembled to humbleness and would have shattered into pieces due to its effects. But human beings do not take lesson from it.
- (v) Verses 22 to 24 - (Aa-limull ghybi... Al-Azcezzul-Hakeemi). Many of the Glorious names of Allah..... have been given in these Verses.

7. Conclusion :

The people who do not adjust in any Muslim society as non-believers should be taken to task if they become trouble spot. They can be exterminated. If they leave in self-exile that should be good alternate.

SURA LX — MUUMTAHINA (THE EXAMINED)

1. Title :

The title of this Sura has been derived from its Verse 10 from the word "FAMTAHINOO". It means examination, vetting or getting the surety about status of a woman who is embracing Islam. It also means the examination of such women who enters the fold of Islam due to unknown reasons. It must be verified that they are not spies.

This is the most important Sura for all times that Muslims have been allowed to go for marriage with Christians and Jewish girls as well as such women of the disbelievers, pagans and idolators who accept Islam. But Allah Almighty makes it compulsory to have psychological test, personality check, clear verification and total screening of the woman entering the folds of Islam by marriage with a Muslim so that she does not become a problem or pose a threat to Muslims as enemy planted agent.

There are some female folks who want real protection of Muslims but yet there are some others who are informers and secret agents. There are others who are seriously pushed from enemy territory to the Muslim country as desperate saboteurs. A great care is needed in case of such sort of females.

2. Constitution :

This Sura has 13 Verses, 348 words and 1510 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed in the city of Madina.

4. Objectives/Message :

The objectives of this Sura are :

- (i) Marital relations are possible under certain conditions with the disbeliever female folks who embrace Islam or who are Jews or Christians ;
- (ii) For protection of sensitive installations, national secrets and defence based classified information such female folks must be security-wise vetted who want to become Muslim wives of husbands in such state organs or marry a Muslim while remaining Jewish/Christian.

A distinction should be made between those who are enemy agents and they want to sabotage, terrorize or pose threat to the Muslims. There are ladies who are sincere to embrace Islam. Such female folks are most respectful and must be taken in the folds of the faithfuls. The question of permissible cross marriages must be carefully examined. The enemy agent women who embrace Islam not for its love but to pose problems should not be taken as spouses. The example of Prophet Ibraheem has been quoted that he never accommodated the disbelievers on any account. He became the Chief of the straightforwards and he was always kind and just but kept high principles of not equating friends with foes. There is no permission for believers to take disbelievers in marriage except they embrace Islam with sincerity.

5. Significant Verses :

- (i) Verse 8 -(In-Nallah-ha...) Allah loves those who are just.
- (ii) Verse 9 -(Inna ma yunha...) Friendship with enemies who pose threat to the Muslims is banned.
- (iii) Verse 10 - (Yaa ayyo hallazeena... fa-umtahinoo...) Marriage with believing women - how to test them, and how to maintain them.
- (iv) Verse 13 - (Yaaa ayyo-hallazeena ... ghadi Balloho...) Do not befriend those on

whom is Allah's wrath.

6. Conclusion :

Sura Muumtahina basically instructs Muslims to be careful in family, community and social life for personal safety and national integrity of Muslim society. Muslims should not accept the female folks of doubtful background into their family folds. There should be tough examination before marriage or any sort of deal with females of disbelievers.

SURA LXI — US-'SAFF (STRAIGHT LINE)

1. Title :

The title of this Sura has been derived from the word "Saffa" in Verse four. It means the **straight line**, lining up in discipline or the men lined up in most organized manner for certain services, whole heartedly, without slightest hypocrisy. In this Sura "US-'SAFF" means soldiers arranged in organized lining-up in Islamic Jehaad to fight for the cause of Allah either to defend Islam or to fight back the enemy force attacking the Muslim territory. The Muslims can conquer the disbelievers' country if such territory is used to pose a threat to the Muslim nation's sovereignty. This will be a Jehaad against such enemy. Allah loves those who fight in His way to defend Divine cause of truthfulness and piety in best battle array (disciplined line-up). The Muslim armed might must be constituted of faithfuls sincere to the cause of Islam United in full obedience to the Ameer (commander) with a great strength of dependence on Allah.

Islam has laid down stress on straight lining up ('Saff Bundi') in all congregational Prayers and other get together. The Holy Prophet S.A.W. personally used to straighten the lining-up of his followers in each Prayer lead by him and specially in the battlefields. He always said that if you keep your self straight in Prayer, Allah S.W.T. will keep your hearts straight. His companions followed him suit. This is how the best discipline of Muslims achieved them greatest victories against the super powers. Therefore, Us-'Saff is very important Sura for all times discipline of Muslims.

On the Day of Judgement people will be lined-up to get the accounts cleared. Therefore, the training of Muslims by repeated practices in different ways like lining-up straight in Prayers, in the battlefields and other walks of life herein will help them on the Day of Judgement Hereafter to get accounts properly lined-up. In Islam organization, discipline, unity, consolidated ranks and files, lining-up in rows, shoulder to shoulder oneness of individuals and strength by mutual union of all the Muslims in strong groups is basic on all fronts. From Salaat (Muslim Prayer) to Jehaad (Holy defensive battle with offensive defeat to enemy)"SAFF" or the lining-up is most important and very dear to Allah.

Jehaad became compulsory in Madina as the capital city of the new Muslim state. It was in a great threat of the idolators, pagans, hypocrites, disbelievers, Jews and Christians. Therefore, Muslims were Divinely instructed to be most disciplined not only in battle but also in all walks of life as steadfast devotees of Allah S.W.T. So disciplined life has been made compulsory for Muslims for ever.

Allah Almighty keeps clear only such armed might of Muslims who :

- Purely fight for Allah sincerely to defend Muslims and spread Islam voluntarily ;
- Are most organized, fully trained, disciplined and all prepared as a united force ; and
- Remain steadfast in all circumstances in Jehaad (fight).

The following capabilities are must for a Muslim fighter to defend truth, spread Islam and protect the Muslim State :

- Jehaad only for defense of Islam ;
- Full self confidence with dependence on Allah ,
- Best self conduct to voluntarily serve the faith without hypocrisy , and
- Sincerity to achieve the purpose

As such "Us-Saff" an important Sura of the Holy Quraan for Muslim unity to defend Islam with strength, consolidation and organization with full sincerity.

2. Constitution :

14 Verses of the Sura consist of 221 words and 900 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed by Allah S.W.T. to the Holy Prophet S.A.W. in the city of Madina.

4. Objectives/Messages/Gist :

This Sura was revealed at the time when Jehaad was made compulsory. Therefore, some hard and fast rules and regulations were to be laid down. In Madina there were many Christians who were to be clearly told about truthfulness of the Prophethood of the Holy Prophet Muhammad S.A.W. In view of this following are the objectives, messages and gist of Verses of this Sura :

- (i) Praise be only to Allah. Muslims must say only what they do. Hypocrisy as such is prohibited in Islam ;
- (ii) Only the pious, obedience, disciplined, steadfast and organized are the real straightforward.
- (iii) Jehaad is near and dear to Allah ;
- (iv) Prophets Moosaa (Moses) A.S. and Eesa (Jesus) A. S. persuaded their nations to believe the truth but they detracted and did not act as preached. Therefore, Muslims must act upon Islam, as inculcated ;
- (v) There is true prophecy about the Prophethood of Prophet Muhammad (his 2nd personal name being Ahmad) S.A.W.—Sallalla-ho Aiy-he Wassallam—Allah's Blessings and Salutations on him. The true Bible in original says that he is Allah's last Prophet to mankind to deliver the final Message ;
- (vi) Disbelievers do not understand the truth of the Holy Quraan and want to extinguish the light of Allah but it will become more stable and spread everywhere ;
- (vii) Islam is universal and international religion. It is the will of Allah that everyone should be pious and righteous Muslim as practically presented by the Holy Prophet S.A.W. ;
- (viii) The Muslims are the best who believe in Allah S.W.T., His Holy Prophet S.A.W., the Last Day and participate in Jehaad with perseverance and devotion. The sins and misdeeds of such believers will be forgiven and they will be conferred the Paradise of great bliss as a great success ;
- (ix) Only the help of Allah brings victory and great news to the believers ; and
- (x) Believers should always be helpers of the religion of Allah in all circumstances to get the best success and bounties of Allah.

5. Significant Verses :

- (i) Verses 2 and 3 - Why you say that on which you yourself do not act upon.
- (ii) Verse 4 - Do Jehaad with best discipline.
- (iii) Verse 6 -Ahmad (Muhammad S.A.W) Allah's Blessings and salutation on him, has been prophecised in Bible as true and the last Messenger of Allah to deliver a great message to Christianity and Judaism to embrace the Islamic truth.
- (iv) Verses 10 and 11 - Jehaad is the most wanted quality, capability and characteristics of a Muslim which is so dear in the eyes of Allah.
- (v) Verse 13 - Only help of Allah and dependence on Him gives the best victory.

6. Conclusion :

Discipline, doing according to saying and self-sacrifice in Jehaad as well as perfect practice on truthful belief are basic characteristics of Muslims. A Muslim should always be ready to fight for the cause of Islam.

SURA LXII — AL-JUUM-'AH (THE FRIDAY)**1. Title :**

The title of this Sura has been derived from Verse 9. Juum-'ah means Friday. Since the Holy Prophet S.A.W. entered the safe bounds of Madina after his migration from Makkah on Friday it has special significance. The first Juum-'ah Prayer was offered on the 5th day of arrival of the Holy Prophet S.A.W. in the Valley of Madina. Since then it is so compulsory for all the Muslims that the scholars of Islam have laid down a great stress to establish it perfectly. The Jews use Saturday for their Sabath prayer in synagogues, with a compulsory close on Saturday. Christians have Sunday as a holiday to worship in their churches. Therefore, Friday was prescribed by Allah Suubhanaho Wa Ta'aala for a special congregational noon prayer with weekly education for the Muslims without compulsory close on the day. Muslims gathering on this day can exchange products before or after the Juuma Prayer. Attending educative sermons in the main Mosques before the Prayer is obligatory, except the people in transit. Glory to Allah, blessings to the Holy Prophet S.A.W., the Divine peace for the companions of the Holy Prophet S.A.W. and recitation of the selected Verses of the Holy Quraan are a part of sermon as Friday address. Instruction to the attending Muslims contain preachings how to be pious, righteous and peaceful. Such sermons must be offered once a week for an hour or so during which period all transactions are suspended. There is no Divine sanction or approval of the Holy Prophet S.A.W. to make Friday a closed day as a whole. The daily pattern of economy in Islam is flexible. It is the State option of the Islamic Government to have a closed day for rest of the employees on any day. It may preferably be the Friday as is everywhere in the Muslim world.

Due to the importance attached to the weekly inculcations in congregations the Juum-'ah Prayer has got a great sanctity in Islam for preaching purposes. Therefore, this Sura has been given the nomenclature of Juum-'ah.

2. Constitution :

The Sura has 11 Verses, 180 words and 720 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed upon the Holy Prophet S.A.W. by Allah Almighty in the city of Madina-tuur-Rasool.

4. Context :

The Sura has the following context :

- (i) It describes the patterns of the Shariah of Islam to the Jews and Christians ;
- (ii) It clarifies how the Holy Prophet Muhammad S.A.W. is to be believed as true Prophet like the previous Prophets. The Jews and Christians should clearly understand that they have to believe in him as an undertaking of their Prophets to Allah and command of Allah in their heavenly Books in originality. The Muslims are perfectly on the same Shariah which has roots in the basic preachings of Prophets Moosaa A.S. and Eesa A.S. ;
- (iii) Jews are dreadful of death ;
- (iv) The Juum-'ah Prayer is obligatory to the Muslims. It prescribes a compulsory congregation of the Muslims once a week around the afternoon at a central Mosque of a city. Faithfuls should get best insight about the preachings of the Holy Quraan and the practices of the Holy Prophets S.A.W. on different subjects under different topics.

5. Objectives/Message :

- (A) The Jewish people have always been boastful that Prophets of Allah are selected only from amongst the Israelites. It is impossible that the Arabs being unlettered could have a Prophet of high calibre like unlettered Muhammad S.A.W. imparting so objective and so insightful knowledge with great depth. The Holy Prophet Muhammad S.A.W. could neither read nor write and was without any formal education. No teacher or any consultative body of scholars can claim to have taught him any Message of the Holy Quraan. The Holy Quraan is the last Message of Allah and Muhammad is the last Messenger of Allah. So this Sura lays a great stress to the Jews and the Christians that Allah has the power to confer Prophethood to anyone amongst the unlettered Arabs. Therefore, unlettered Muhammad S.A.W. is a true Messenger of Allah, like Moses and Jesus. Allah Almighty has assigned this duty to the Arabs and all the Muslims show the way to Islamic peaceful society, to humanity, to eternity.
- (B) The Sura describes the Divine characteristics of Holy Prophet Muhammad S.A.W. to establish his greatness as follows :
- That he presents clear revelations of Allah without any addition. His best recitation of the Holy Quraan to the unlettered Arabs is to built up the best qualities for humanity ;
 - That he purifies the followers with Divine piety to establish a profound Muslim society everywhere ;
 - That he inculcates the preachings of the Book to make the ignorant Arabs as the best Muslims to spread Islam, the world over ;
 - That he gives best insight to make the follower Muslims intellectuals, scholars, researchers and teachers more capable ;
 - That the Jews were conferred Torah and the Christians were given Bible as great Books of Allah but they never acted upon the same. They did not understand what these Divine Books prescribed. Therefore, Allah rejected them and selected the unlettered Arabs for this purpose with fresh minds to implement Allah's found message.

The Muslims must understand the Holy Quraan and act upon the same for the benefit of humanity to remain successful herein and Hereafter ;

- The non-Muslims (Jewish, Christians) should know that they would be punished on the Day of Judgement due to their misdeeds.
- The Sura prescribes compulsory Juum-'ah congregation to consolidate the Muslim ranks on one Center once a week for high calibre Quraanic inculcations for best insight ;
- The Muslims should leave their transactions and commercial activities, sale deeds, agriculture and business affairs when Aazan (loud call) for the Juum-'ah Prayer is established. They should disperse to engage themselves to continue the left out business and jobs after an hour or so to continue to earn the livelihood as Divine bestowment.

6. Significant Verses :

- Verse 2 : The Holy Prophet has greatest Divine calibre
- Verse 6 : The Jews are a nation very dreadful to face death.
- Verse 9 : The congregation Prayer of Juum-'ah is compulsory for all the Muslims.
- Verse 10 : After the Juum-'ah Prayer all the business is allowed.
- Verse 10 : Muslims should remember Allah to the great extent specially on Juum-'ah
- Verse 11 : Allah Almighty is the best Provident.

7. Conclusion :

Sura Juum-'ah provides a community based worship order for the education of Muslims in

collective social environments. This is also to learn best purity. Wisdom is the lost treasure of a Muslim. To understand the Holy Quraan is a must. Therefore, Juum-'ah Prayer is compulsory to get the continuity of Islamic education intact.

SURA LXIII — AL-MUNAFIQOON (THE HYPOCRITES)

1. Title :

The title of this Sura has been derived from its Verse 1. The word "Munafiqoon" means the hypocrites. Hypocrisy is the most unwanted symptom in the character of a person everywhere as it is very injurious to the human society. Hypocrite is an individual who speaks something but acts otherwise. When the expressions and actions of a person contradict each other he/she is called hypocrite. A hypocrite is quite dangerous for others. Therefore, this Sura basically instructs the Muslims to be very careful in their social life from such "munafiqoon" (the hypocrite people) who cannot be tolerated in Islam.

2. Constitution :

The Sura has 11 Verses, 180 words and 976 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed upon the Holy Prophet S.A.W. by Almighty Allah in the city of Madina.

4. Objectives/Message :

The basic objective of this Sura is to point out the dangerous deeds of the hypocrites in the community. Such people who indulge in hypocrisy poison the social life of Muslims. Therefore, the Muslims should guard against the temptations, hearsay, slander and rumor of hypocrites. They never are well wishers of the believers. They always pose a threat to peaceful coexistence of Islamic society.

5. Gist of the Text :

Verses 1 to 11 of the Sura describe the falsehood of the oaths taken in all affairs by the hypocrites. They do so only to achieve their own selfish ends and inflict loss to the Muslims. Therefore, the believers should always remain aware of their misdeeds and keep vigilance against their evil designs. Only then the Muslims will be able to achieve their pious mission of bringing peace to the humanity with piety.

6. Significant Verses :

- (i) Verse 1 - Surely the hypocrites are indeed the liars.
- (ii) Verse 7 - The hypocrites do not understand things so proper.
- (iii) Verse 11 - Allah never grants respite when the time appointed for a person approaches (to be punished for misdeeds).

7. Conclusion :

The Muslim Ommah has once for all been instructed to never bank upon the hypocrites and always remain at guards against their flattery and wrong contentions to save their solidarity. The hypocrites always indulge in posing danger to the Muslims by their evil designs.

SURA LXIV — UT-TAGHABUUN (THE FRAUDULENT)

1. Title :

The title of this Sura has been derived from Verse 9. Word "Taghabuun" means getting profit or causing loss through frauds. Religious scholars say that this word had its route in "GHABUN" which means fraud or giving loss to a person without his knowledge. Secretly stealing property or money of an owner or bringing such secret reduction in profits of the owner in the deal by cheating a person in clandestine or concealed manners is "Taghabuun". In this Sura term "Taghabuun" describes the situation in which a person indulges in frauds, misdeeds,

sinfulness and wrong actions by cheating. Such fraudulent person will find himself in a great loss Hereafter on the Day of Judgement. "Taghabuun" is also the day of measuring profits and loss as well as the pious/sinful deeds of human beings in this world for accounts on the Day of Judgement to credit/discredit their good deeds and wrongs. Not the wealth, children or cattle and tilth are real properties but the good deeds and pious acts are the real bounties of Allah Almighty.

Allah Almighty will collect everybody on the Day of Judgment to present to them in Divine assembly good acts for credits and bad acts for discredit. Those who believe in Allah and remain pious will be taken to the Paradise of great blissfulness for achieving supreme triumph. "Taghabuun" must be taken by every body as a deed to be primarily questioned. Divine administered device to account the good and bad deeds takes its minutest notice. Therefore, everyone should remain pious, straightforward and righteous in the life of this world as a good citizen of a peaceful society.

2. Constitution :

This Sura has 18 Verses, 241 words and 1070 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed by Allah Almighty upon the Holy Prophet S.A.W. in the city of Madina.

4. Objectives/Message :

The four initial Verses glorify Allah for creating the universe selecting man as His crown creation. The people who believe and worship Allah taking to their hearts the unity of Divinity, are given His best bounties. Therefore, they remain grateful. But those who indulge in misdeeds they are deprived because of their rejection of the faith. The mutual action and loss is to be calculated on the Day of Judgement for the good and the bad acts done in this world. Therefore, the contrast of purely temporary life herein with the eternal blissful life in the Hereafter must be taken serious to remain pious. Those who do not believe Allah and His Last Prophet and falsify the truth, they will face catastrophic end.

The love of wives, children and wealth should not make the man so indulged in the worldly life for its temporary attractions. Love of Allah S.W.T. and respect to the Holy Prophet S.A.W. must be above all these considerations. Piety and righteousness are the real ornaments of human beings to take individuals out of loss and punishment for exploitation here on the Day of Judgement.

5. Significant Verses :

- (i) Verse 3 - Allah has made man so beautiful.
- (ii) Verse 4 - Allah knows the secrets of the hearts.
- (iii) Verse 8 - Believe in Allah, His Prophet and the light He has sent.
- (iv) Verse 9 - Accounts of the profit and loss of the deeds in this life will be presented to each one. The pious will get the rewards as a great triumph.
- (v) Verse 11 - Pious believers who suffer loss in this world (are just put to a Divine examination herein by Allah Almighty).
- (vi) Verse 13 - The believers should only trust in Allah.
- (vii) Verse 14 - The wives and the children bring loss to human beings (if their wrong desires are fulfilled).
- (viii) Verse 15 - Wealth and children are for human trial (to test whether a person remains pious or commits misdeeds due to them).
- (ix) Verse 18 - Allah knows every hidden thing (minutely).

6. Conclusion :

Human beings should remain pious for reward in the Hereafter. The misdeeds committed herein will be accounted to the loss of each individual Hereafter. Only those who are pious will get the reward in the Paradise.

SURA LXV — UT-TALAAQ (DIVORCE)

1. Title :

The title of this Sura has been derived from its first Verse from the word "TAL-LAQTUUM" meaning "when you divorce". Actually the subject of divorce is very important in Islamic family life. It has been discussed in Sura Al-Baqara (II) and Sura Un-Nisaa (IV) as well as Sura Al-Aahzaab (XXXIII). The importance of this subject is so much in Islamic Shariah that it has been given this special nomenclature to have a separate discussion and Divine guidance in the matter as a crucial subject.

The title of this Sura lays down the Islamic Shariah method of divorcing. Divine lay-down prescribe a system in which:

- (i) Divorce is allowed in Islam ;
- (ii) The socialization of children in the broken family after divorcing wife saves them from the bad effects of separation as been prescribed in this Sura ;
- (iii) The employment of a governess to train such children of Muslim families after separation of the spouses is permissible ;
- (iv) If the ex-wife (female) is pregnant what should be done in such case ;
- (v) How divorce should be administered in a way that menses do not intervene ; and
- (vi) How female should be cleared of any liability of the previous husband before 2nd marriage?

2. Constitution :

This Sura has 12 Verses, 249 words and 1060 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed upon the Holy Prophet S.A.W. by Allah Almighty in Madina.

4. Objectives/Message :

This is the Sura which prescribes the solution to the social problem of divorce, upsetting community life of the Muslims into broken houses. Divorce by a husband to his wife is a social evil in Islam having Shariah sanction. Divorce is a permissible human urgency, most hated by the Holy Prophet S.A.W. He never divorced any wife who married him on their own compulsions in many uneven situations. Therefore, the Islamic Shariah gives precautions and guards against any abuse of this arbitrary male power. The continuity of matrimonial adjustment is very important for smooth family life of Muslims to achieve solidarity of community. Therefore, the strictest regulations have been laid down through this Sura as compulsory Divine law about divorce.

The Holy Prophet S.A.W. stressed the Muslims on many occasions the great importance attached to justice to wives and female folks. He always kept divorce as an act most hateful in the sight of Allah because of the sanctity of marriage in Islam. Islam keeps so dear a profound family life but there are human weaknesses that a fake misunderstanding can spoil the life of husband and wife. Certain outlets and safeguards should be available in cases of differences, including reconciliation, compromise and rapprochement. If such tussle of husband and wife shatter the family life, there is no way except divorce. So for bringing it within the legal limits of Islam, this Sura lays down certain principles.

Marriage is purely a civil contract in Islam sanctified before prescribed witnesses with or without ceremonies. Options can be laid down with consensus of both the spouses to bilaterally or unilaterally revoke the marriage by different methods of divorce. Principles have been laid down in this Sura for the purpose as guide-lines of divorcing in Islamic Shariah.

6. Significant Verses :

- (i) Verse 1 : Divorce should be administered in a very proper manner

- (ii) Verse 2 - The terms and conditions of matrimonial civil contract must be fulfilled judiciously before divorce.
- (iii) Verse 3 - Witness of two just persons forms a good evidence.
- (iv) Verse 4 - The period of monthly course of menses of female and surety of pregnancy must be taken in account to get the delivery of the child. Divorce must be administered in a just manner and in a perfect atmosphere.
- (v) Verse 6 - How to give subsistence to divorced ex-wife for suckling of children of the divorcing husband.
- (vi) Verse 11 - Belief in Allah S.W.T. and the Holy Prophet S.A.W. in a perfect manner is obligatory for every Muslim to remain righteous. Only this can take everyone to Divine light out of satanic darkness.

6. Conclusion :

The divorce regulations prescribed by Almighty Allah and practised by the Holy Prophet S.A.W. must be understood as specified in the Islamic Shariah. No excess or injustice is tolerable in Islam while divorcing a wife.

SURA LXVI — AT-TAHREEM (THE FORBIDDEN)

1. Title:

The title of this Sura has been derived from the word *Le-Toharrim* of its first Verse. It means "to declare something forbidden".

It was around the year 8th after Hijra (8 A.H.), that the Holy Prophet S.A.W. had to announce his delicious sweet dish honey as forbidden for himself. It was on the objection of one of his wife (the most respectful mother of the Muslims). She was concerned for his overstay with another wife who used to offer him in best presentation the honey syrup with best flavor. One day his wife told him that some sort of bad smell is omitting out of his most fragrant and pious mouth, which was always sweet and flavory. For this unpleasant and incidental comment of a wife he declared for himself the heavenly prescribed honey, so dear to him, as worthless, never to be taken.

Since the life pattern of the Holy Prophet S.A.W. is a Divine Model to humanity for all times, therefore, Allah Almighty intervened to maintain the healing status of honey as purest tonic in this world. It was lovely opted by the Holy Prophet as his best sweet dish. Therefore, Allah wanted to keep it the best for ever. A principle was laid down that the pure article of food can never be held impure or prohibited against the Quraanic Commands in any circumstances by any authority. When Allah Almighty declares anything permissible, rather a great healer for all diseases of human beings by Quraanic injunction with the profound option of the Holy Prophet S.A.W., then such lawful eatable cannot be held prohibited even by the Prophet himself.

Thus, Sura TAHREEM is most important for Islamic jurisprudence to formulate pure food enactment for eatables and beverages in an Islamic state based on the principles laid down in the Holy Quraan and the Divine clarifications made in this great Sura.

Otherwise this Sura presents a best proof that the Holy Quraan is the pure revelation of Allah. It critically evaluates the actions and reactions of the Holy Prophet S.A.W. as Allah's ideal. Prophet's wives as mothers of all the Muslims for all the ages and his great companions trained by him on best discipline are also critically discussed. Sura Tahreem Divinely instructs the so dear Prophet of Allah, to withdraw his decision and critical evaluates the conduct of his so respectful wives. Had this Quraan been the creation of the Holy Prophet Muhammad S.A.W. he never would have been so critical for his own conduct or to his own wives, so openly. Therefore, this Sura (Tahreem) also provides a great proof of the Holy Quraan as a pure revelation of Allah S.W.T.

2. Constitution :

This Sura has 12 Verses, 247 words and 1060 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed upon the Holy Prophet S.A.W. by Almighty Allah in Madinatun-Nabawiyah in the 8th A.H.

4. Objectives/Message/Context :

Following are the objectives of this Sura with reference to the context :

- (i) The Holy Prophet S.A.W. is a model for Muslims. If he had prohibited something under oath for himself that would have been a permanent injunction for all the Muslims. What is Divinely permissible cannot be prohibited even by the Prophet because what the Holy Prophet S.A.W. loved to eat was made a great boon by Allah for every one.
- (ii) Honey is a great healer for the entire mankind and the best natural tonic for all the diseases. Honey bee is commissioned by Allah Almighty to produce it for mankind, as in Sura Nahal (Honey Bee, Sura XVI). Honey is the purest food. It is used by Muslims, Jews, Christians, pagans, idolaters and disbelievers, all alike, without discrimination of color or creed. Honey made by bees in Christian, Hindoo or Jews' forms is the purest being used by all the Muslim world without any prejudice.
- (iii) Every Muslim wife should always love her husband with respectfulness keeping in view the husband's likes and dislikes without becoming critical for the permissible acts done by him;
- (iv) No wife of a Muslim has any right to convey the secrets of her husband in any circumstances. Such omission can pose their family life a great threat;
- (v) All the parents, husbands and wives as well as family heads are bound to keep their children disciplined ;
- (vi) Sex harmony is necessary between wife and husband ;
- (vii) To forget is human but to forgive is Divine. Man can commit sins but sinner must bow to Allah to get His forgiveness.
- (viii) The best before Allah is the purest, the pious and the righteous. Wives of Prophets Noah or Luut could not save themselves because of their castigation. But wife of the most rebellious Pharaoh was submissive to Allah that she was Divinely appreciated. Mary, the great Virgin mother of Jesus, was made the best lady on earth due to her submissiveness to Allah; and
- (ix) All the Muslim ladies must be always pious, submissive, pure, and sincere to get the bounties of Allah as dearest wives, most respectful mothers, lovely daughters and sweet sisters.

5. Gist of the Text :

The misunderstanding of wife should not upset the normal social life of husband. Being a wife of the Holy Prophet S.A.W. confers a great Divine honor. But the responsibilities of his (S.A.W.) wives as the mothers of believers and models for Muslim females are so greater. Harmony of male head with female house-hold must be carefully maintained. Mutual confidence of husband and wife is basic to Islam for smooth family life. The spouses must be inculcated to be normal in their daily routines for congenial community life to establish a peacefully profound Muslim society. Allah's blessings are bestowed only to the pious and the virtuous. The wife of the most cruel disbeliever Pharaoh and Virgin Mary A.S. were blessed by Allah for their truthfulness but wives of Prophet Noah and Prophet Luut were condemned due to their falsehood.

6. Significant Verses :

- (i) Verse 1 Never forbid anything permitted by Allah

- (ii) Verse 2 - Taking oaths to impose ban on some pure things can be withdrawn under some penalty.
- (iii) Verse 3 - Matters of confidence must be kept secret.
- (iv) Verse 4 - Allah is always inclined to accept repentance.
- (v) Verse 6 - Always act upon Commands of Allah and discipline your family members to be saved from Divine penalty.
- (vi) Verse 8 - The believers must submit sincere repentance to get clemency of Allah.
- (vii) Verse 10 - Only piety earns Allah's blessings.

7. Conclusion :

Whatever is allowed to be eaten as prescribed in the Holy Quraan, can not be prohibited. A wife must remain obedient to husband and he must preserve her rights.

SURA LXVII — AL-MULLK (THE DIVINE SOVEREIGNTY)

1. Title :

The title of this great Sura has been derived from its first Verse from the word "AL-MULLK" meaning "Divine Sovereignty".

The title includes the control powers of Allah Almighty from souls, inner selves, body and spirituality of the dead ones, every thing living and the future creatures as well as the human beings yet to born. The physical bodies of the minutest creatures in the universe are in the control of Allah S.W.T. Al-Mullk, as such, includes the control Authority of Allah Almighty on all the lowest and the highest worlds including the world of Angels, Jinns, human beings and the entire animate or inanimate creatures.

The title, Al-Mullk, is so appropriate for this Sura. Therefore, it should be precisely defined to show the overwhelming Authority of Allah Almighty on the creatures in heavens, on earth, in oceans and seas, in the air and whatever beyond the imagination of mankind. Everything is controlled by Him. If we make a cursory look on the sovereignty of Allah in the universe, we will find out that our own political science imagination of sovereignty is so narrow.

Authority of Allah is so unimaginably wider and vast that all the elements of state in human constitutionality become meaningless before His sovereignty.

Man has been unable to manage much of the earth. Many parts of the world are still to be surveyed where big jungles, vast sandy planes mountain tops and delta lands are still to be seen by the Geographers and the Scientists. To exploit these peaks and depths for human utilization in this world are riddle to the scientific man today claiming the taming of much of the nature. Man is facing technology crisis to go beyond the nearest star, the moon now partially known to the man including lowest limits of space has nothing for space conquerers with trillion dollars expenses each year. We can imagine how billion stars on the first heaven with so many suns and billion stars in the upper atmosphere can be explored by man? What about other creatures of Allah still unknown and invisible to man in the first heaven. The other worlds are unimaginable to be explored by man. The other heavens still are to be scientifically seen. But knowledge of man about much creature of earth and seas is so shallow, what to speak of heavens and space studies.

Therefore, Mullk as the title of this Sura is of so great scope that it is not within normal imagination of man to have a proper grasp of Allah's lower world and even the lowest creatures.

2. Constitution :

This Sura has 30 Verses, 330 words and 1313 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed upon the Holy Prophet (S.A.W.) by Allah Almighty in the city of Makkah.

4. Objectives/Message/Context :

This Sura starts with brief description of the greatest Authority of Allah Almighty on all

the universe. Only He is worthy of all praises and all glorifications. Allah Almighty has full control on the birth and death of mankind. None has such instant powers about any creature. Much of birth and death is still unimaginable. The precision in the creation of the worlds and the entire known existence has a great relevance and a profound Order in creation. No one can find any defect on any aspect of Divine creations. No one can make any addition or deletion in heavens, earth, sun, stars, moon and mars in the seen world. Skilful manufacturing can shape or reshape natural resources but none can dare to change day and night, air and light etc. etc. fixed by Allah Almighty as our mother nature.

Therefore, all human beings should accept the truth and believe the so profound creation power of Allah Almighty. Otherwise they will face the punishment in the world Hereafter. People who fear from Allah are beloved to Allah and, those who make ambiguity about His authority are the deselected. The first category are to be blessed being on the right path and, the second are to be awarded severe punishment being astray on the wrong way

5. Gist of the Text :

(A) Section 1 of the Sura stresses the human beings to realize that the universe is so organized and so stable without minutest defect. It is only the Authority of the Almighty Allah that it is being maintained so perfect, keeping alive every creature. Man has been sent here in this purely transitory world to test his/her piety and righteousness which will make him/her successful in the permanent world Hereafter. All the Prophets were sent for preaching truth to the people. They inculcated that result of the good or bad actions of each human here are to be brought on the Day of Resurrection for reward of blissfulness or award of penalty on the Day of Judgement.

Allah Almighty is all the times aware about minutest actions of every creature. He knows the secrets of hearts and the course of functioning of all the things. Therefore, mankind should be very straightforward to keep aloof from sinfulness and misdeeds. If no penalty has befallen on the wrong doers in this world there is other world where everything is to be accounted. Those who submit to Allah and remain in humility get His bounty here and are to be bestowed best reward Hereafter.

(B) Section 2 describes how human beings ignore their misdeeds. They should be always serious to mend their ways. Allah Almighty is so Benevolent, Provident, Affectionate, Cherisher and Sustainer that He has set everything in the service of man. But everything will perish. None will save the human beings except pious deeds.

The Holy Quraan invites human beings to observe the birds how they are floating in the air without power. Almighty Allah gives them this power and sustenance. If Allah Almighty sends His chastisement and punishes wrong doers who can save them in these circumstances? If Allah Almighty with-holds His provisions to mankind who is there to be the sustainer and cherisher except Him. All the animals in the world have no senses having no mind. They cannot think and they cannot do something as the man can do as thinking creature. Therefore, human beings should be very pertinent that they are to be presented on the Day of Judgement alongwith their misdeeds where nobody will be able to help anybody. Those who demand early establishment of the Last Day will see the establishment of Last Day and the Day of Resurrection in the near future. Then they will realize the reality of the revelations of Allah.

The opponents of the Holy Prophet S.A.W. and his companions became their dead enemies and posed created serious obstacles in their way. But Allah perished them and, warned such a people to be cautious about their future. What will be in the Hereafter to help except the good deeds. Whoso believes Allah and His Prophet S.A.W. and depends upon Allah, they will see the reality to get the bounty from Allah Almighty. It is Almighty Allah to maintain creatures and the human beings providing them water. But if He withdraws or does not send required Sweet water everything will perish.

6. Significant Verses :

(i) Verse 1

Almighty Allah possesses the highest Authority to manage

- (ii) Verse 2 - all the universe with full power on all the creatures. It is Almighty Allah Who has created life and death just to get human beings to be pious.
- (iii) Verse 3 - Allah S.W.T. has made seven heavens where everything is so perfectly set without any defect.
- (iv) Verses 13 to 14 - Allah knows all the secrets of the hearts and He has all the knowledge about the minutest creatures.
- (v) Verses 15, 16 & 21 - It is Almighty Allah Who has made the earth useful to man which produces provisions with commission of Allah. Who is there to save anyone if the earth sinks? There is none except Affectionate Allah to give the best provisions.
- (vi) Verse 30 - Who is there to save underground water if it is withdrawn from the wells and tubewells. If it is with-held (or made bitter) every thing will perish.

7. Conclusion :

It is only Almighty Allah Who has given all His bounties to the human beings. Therefore humanity should be thankful for all these bestowments of Allah with continuity of natural services and commodities.

SURA LXVIII — AL-QALAM (THE PEN)

1. Title :

The title of this Sura is Al-Qalam which means Divinely bestowed Pen. It may be noted with great insight that the first revelation of the Holy Quraan to the Holy Prophet S.A.W. consists of first five Verses of the Sura XCVI (Al-Alaq). The fourth and 5th verses of this Sura describe the power of knowledge as a great bounty of Allah S.W.T. through writing. Actually all the Divine scriptures of Allah S.W.T. to all the Prophets have been in a written form. The same are not only in the Divinely preserved Tablets with Almighty Allah in the celestial world but were timely revealed to each nation through their Prophets in bits for their guidance. The Holy Quraan was revealed in 23 years as written in the Divine preserved Tablets and inculcated to the Holy Prophet S.A.W. in different Verses and Suras in bits. The Holy Prophet Muhammad S.A.W. timely got all these revelations of the Holy Quraan scribed through pen. Many of his truthful companions were commissioned for recording the revelations as received from Allah S.W.T. It has been established throughout the world that these scribes were the most honest, pious and straightforward companions of the Holy Prophet S.A.W. Their life histories describe that they were men of best character. They were the most righteous and the most confident people enjoying the best confidence of the Holy Prophet S.A.W. in the perfect scribing of Allah's Verses. The Holy Prophet S.A.W. used to receive repeated revelations from Allah and kept them preserved in his Divinely bestowed memory. These Verses of the Holy Book then were got scribed by the Holy Prophet S.A.W. in the form of the Holy Quraan by bits in different Suras (Chapters) as are in the print form today. Today the Holy Quraan is in its uniform written shape, the world over. It was scribed in different types of pens by nominated scribe companions of the Holy Prophet S.A.W. on his directions under expert counter-checks. Then it was memorized as a whole by many companions and was repeatedly heard by the Holy Prophet S.A.W. from such Hafiz-e-Quraan companions. A special authentic copy of the Holy Quraan was then preserved by the Holy Prophet S.A.W. himself with Ommul Mo'mineen, (most respected mother of the faithfuls) and his most revered wife, Hadhrata Hafsa R. A. Then the third Caliph of Islam Hadhrut Osman, R. A., on the directions of the 2nd Caliph, Omar the great R. A., prepared its multiple copies. The same are under print in different scripts, the world over, as revealed to the Holy Prophet S.A.W. Printing system was introduced in the Arab world a few centuries later on the Chinese pattern. But even today pen is used to write the Holy Quraan in its original script due to which al-Qalam - the pen, has got a great sanctity in Islam. Muslim

countries have fixed penalty under law for wrong penning down of the script of the Holy Quraan.

Pen has been a great article of faith with the Muslim writers to always use it in honest and truthful manners. The sanctity of pen is too dear to the Muslims that since the last 1400 years there is no change event to a digit in the scribing of the Holy Quraan or the books containing its Verses or its quotes in the Sunnah of the Holy Prophet S.A.W. Much of the history in the earliest period of Islam and most of traditions of the Holy Prophet S.A.W. were written in the earliest period. Of course the sanctity of the pen was kept high as a part of the faith of these pious writers.

Throughout the world it is the pen which has profoundest power to keep human knowledge intact. All research of human beings is through writing and all the educational developments, explorations and scientific innovations are subject to the writing by pen. We use today the computer. In the twinkling of an eye a billion words in a small diskette floppy are preserved as files. But this is again the miracle of the pen which writes and preserves the human thought to preliminary recordings, then fed to the computer memory.

Here in this Sura the word Qalam has been used for the preservation of the revelations of the Holy Quraan as the greatest and the purest source of knowledge to the entire mankind. Therefore, this Sura has been given this most appropriate nomenclature.

2. Constitution :

This Sura has 52 Verses, 300 words and 1256 letters.

3. Revelations :

This great Sura was revealed upon the Holy Prophet S.A.W. in the holy city of Makkah.

4. Objectives/Message/Context :

Basically the Sura deals with the five main topics as follows :

- (i) Allah holds so high the sanctity of the pen to make the unlettered Arabs the most literate nation with the guidance of the unlettered Prophet S.A.W. as Divine ideal conveying them pure Divine revelations as pure truth from the nature to establish best social order. Thus the Holy Quraan made the rugged illiterate Arabs to be the best people to present to the humanity a truthful civilized society of best order.
- (ii) Allah Almighty has in the very beginning given assurance to the Holy Prophet S.A.W. that whatever he preaches is purely from Allah S.W.T. Whatever he presented to the mankind is the pure truth.
- (iii) The criticism of the disbelievers and the enmities of pagans against the truthfulness of Islam was defended by writing the revelations of Allah to remain valid up to the Day of Resurrection;
- (iv) The disbelievers were admonished and advised to understand the reality of the Holy Quraan as a Divinely recorded unchangeable miracle;
- (v) The Holy Prophet Muhammad S.A.W. was instructed to be very patient and steadfast in his remembering the Divine revelations and preachings of the Quraan to the Muslims; and

The Holy Prophet S.A.W. was assured that the opponents of truth are nearly to be bowed down. Their contention is based on mere madness. The Prophets have been bestowed with tolerance against the strictly adamant behaviour of the opponents. All those who could not understand them were liars in all the ages. Allah exalts those who are steadfast and straightforward. The selfishness rebellion, opposition, falsification and the arrogance of the disbelievers, idolators and pagans should not be taken into account. The real success lies in preaching the Divine truth to the mankind with full force of wisdom, sincerity and humility.

5. Gist of the Sura :

- (A) Section one of the Sura lays stress on the Holy Prophet S.A.W. that he is the sanest person. He has all blessings of Allah which never will end. It assures the Holy Prophet

S.A.W. that he was on the highest standard of the divine moral with best guidance from Almighty Allah. He should continue the mission facing all the odds. The wealth and the glamorous riches of this world are purely temporary vanities here. But sagacity lies in piety and righteousness which entitle a person to blissfulness herein and Hereafter.

An example has been quoted about the owners of a garden who became ungrateful to Allah for His great bestowments. Allah Almighty destroyed that garden which rendered the owners totally dejected. Similarly who so becomes ungrateful and disbelieves will be deprived of the bestowments of Allah. It is only remorse and repentance with submissiveness which can save someone from punishment Hereafter.

- (B) Section two of the Sura envisages that the sincere and the good Muslims would get blessings in the Paradise and, those people must be punished who associate someone with Allah. Nobody can help the sinners while they will be awarded punishment. Patience and obedience to Allah as well dependance on Him will be the greatest saviour. Therefore, the Holy Prophet S.A.W. has been asked to continue the preaching of Islam with full confidence, sincerely and stably to bring all the Muslims to piety.

6. Significant Verses :

- (i) Verse 4 - The Holy Prophet S.A.W. presents the perfect standard of character (as the ideal for Allah to the mankind up to the Day of Judgement).
- (ii) Verses 33 - Allah can punish everyone in this life and in the other World. But greater is the punishment Hereafter.
- (iii) Verse 35 - People of the faith cannot be treated equal to the wrong doers.
- (iv) Verse 52 - The Holy Quraan is a Message for the entire universe (upto the Day of Resurrection).

7. Conclusion :

The Holy Prophet S.A.W. has the sanest, the wisest the profoundest and the best character as the final model of Allah to humanity. The rebellious people call the truthful as false ones and the wise ones are dubbed as mad men. But worth lies only in piety, truthfulness and righteousness.

SURA LXIX — AL-HAA-AQQAH (THE SURE REALITY)

1. Title :

The title of this Sura is based on the opening word "AL-HAA-AQQAH" meaning "the Sure Reality". The title describes Allah Almighty's definite establishing the Qiyamah as the Last Day. The basis of Muslim faith is the belief in Allah and the Prophet, the Holy Quraan and the Last Day followed by Day of Resurrection and the Day of Judgement. Thus AL-HAA-AQQAH is the third pillar of faith as the Last Day is a dead sure reality to account the human deeds done herein for reward/award Hereafter in the eternal life after death.

2. Constitution :

This Sura has 52 Verses, 256 words and 1423 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed upon the Holy Prophet S.A.W. by Allah S.W.T. in the Holy city of Makkah tull Mukarramah.

4. Objectives/Message/Context :

Allah S.W.T. Divinely assures that the Last Hour is invariably to come on the fixed Day. It was falsified by the nations of Aad, Samood and Pharaoh who became rebellious and adamant. Therefore, they were completely destroyed. The belief in the Qiyamah for the Day of Resurrection and the Day of Judgement keep the human beings on the right path herein. Only this article of faith makes people to realize that they have to give the accounts of their good or bad deeds done herein for the Divine justice to be done Hereafter. Therefore, the human beings

should continue to reform themselves as pious and righteous people.

5. Gist of the Text :

- (A) Section one states that the Day of Judgement is imminent. Those, who did not believe it were destroyed through the severe cold winds and floods.

When the trumpet will sound with a great blast the earth with mountains will become powder and sky will fall down on this great event. Then the Day of Judgement will be established to hand over the misdeeds of the wrong doers in their left hands and good deeds of the righteous in their right hands. The pious with accounts in their right hands will enter the Paradise of bliss to enjoy the best. The sinful falsifiers with their accounts in their left hands will repent that wealth, powers and exploitation of others swayed them to misdeeds for which they will be seized and burnt in fire. Nothing will be available to eat there, except puss that such ones did not feed the needy herein. No one will be able to help anyone on that Day.

- (B) Section two envisages that the facts about the establishment of the Day of Qiyamah have truly been conveyed by the most honored Prophet Muhammad S.A.W. who does not invent these truths. He is not at all a poet as the poets express their own subjective imagination of self exaggeration. He only conveys the Divine revelations by inner insight from Allah. The Prophet is not an ordinary foreteller of future events with self conceived prophecies. What he says about the mankind future is from Allah. The unbelievers don't accept the truth and will face consequences of such rejection.

Establishing of the Qiyamah on the fixed Day known only to Allah is the full truth. So everyone should glorify the Rubb (Sustainer), the most high.

6. Significant Verses :

- (i) Verse 1 - Qiyamah (The Day of total Annihilation with Day of Resurrection followed by the Day of Judgement) is to be established by Allah.
- (ii) Verse 13 - (Qiyamah will be established) when trumpet will be sounded by big blast (to perish every thing).
- (iii) Verse 19 - Persons (after being fully accounted) who will get records (of good deeds) in right hands will rejoice to show it. (They will enter) the Paradise of blissfulness.
- (iv) Verse 22 - Whatever the Messenger of Allah as most honored Propnet says that is full Divine Truth.
- (v) Verses 40 and 41 - Whatever the Holy Quraan says about the Prophets is the most truthful. The most High Rubb (Sustainer) must be always glorified.
- (vi) Verses 51 and 52 -

7. Conclusion :

This Sura basically discusses the establishment of the Day of Judgement to reward the good deeds of people and punish the wrong doers Hereafter.

SURA LXX — AL-MA-'AA-RIJ (THE WAYS OF ASCENT)

1. Title :

The title of this Sura has been selected from the word "AL-MA-'AA-RIJ" by the Holy Prophet S.A.W. with the guidance of Allah S.W.T. from the Verse 3. It means the ways of Ascent, the Highest Divine echelon of Allah, in the celestial world. It is the spiritual way to become so high by ascendance of soul with piety.

2. Constitution :

This Sura has 44 Verses consisting of 224 words and 929 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed upon the Holy Prophet S.A.W. by Almighty Allah in the holy city of Makkah.

4. Objectives/Message/Context :

The disbelievers jeer the Prophet saying that establishment of Qiyamah, the Day of Resurrection is so near. Those, who jeer upon the Holy Prophet S.A.W. were warned that the Day of Judgement is imminent. The Paradise, the hell and the ways that cling up to heaven are all truthful. The time is fixed which should be awaited patiently. The sinners are to be punished and the righteous are to be rewarded. The disbelievers teased the Holy Prophet S.A.W. to bring the Qiyamah as early as he could to punish them. But it is definitely to be established on its own fixed time. That Day will be eventually convened of its own as known only to Allah S.W.T.

5. Gist of the Text :

- (A) Section one states that the disbelievers demand the punishment. Its falsifiers will definitely get it soon on its time. When this punishment will be administered none will be able to withhold it. On that Day the criminals shall be punished according to their sins. No son or daughter, wife or relatives can help anyone on that Day. No ransom or restitution in any amount will be of any avail. Only those who are true to their trusts, agreements and testimonies as well as to their Prayers will be in the Paradise of bliss.
- (B) Section two establishes that when the appointed Day will come the disbelievers will rush to the left to be entered to the Paradise of bliss. The witnesses of the Rubb (Sustainer) of the east and the west will prove their guilt. Allah has the power to replace disbelievers with a better nation. But He leaves them in their vanities to face that disastrous Day on which their eyes will be lowered with shame.

6. Significant Verses :

- (i) Verse 5 - Man should remain in perfect patience in all matters.
- (ii) Verses 19 to 21 - Human beings are impatient. When they face problems' لـ immediately are dejected but when good comes to them they are out of proportion in joy.
- (iii) Verses 22 to 26 - Only the devoted, the pious, the steadfast in Prayer and those who spend for the needy and believe in the Day of Judgement will be the successful.
- (iv) Verse 29 - Those who guard their chastity are the best.
- (v) Verse 32 - Those who fulfil best their agreement, are the successful.
- (vi) Verses 33 - Those who remain truthful in witnessing and whole heartedly offer true evidence are so dear to Allah.
- (vii) Verses 34, 35 - Those who are sincere in their Prayers will get the blissfulness in Paradises.

7. Conclusion :

When the Day of Judgement is established the pious believers who are amenable and since to faith would be sent to Paradise. But the disbelievers and sinners would be sent to the hell.

SURA LXXI — NUUH-(PROPHET NOAH)

1. Title :

The title of this Sura is in the name of the great Prophet Noah A.S. derived from the first Verse. There is a great lesson for the Muslim Omma in the life patterns of Hadhrat Noah A.S. The Holy Quraan attaches a great importance to him by giving his example in Sura AL-A'AS-RAAF Verses 59 to 64, Sura YUNUS Verses 71 and 73, Sura HOOD Verses 25 to 49, Sura AL-MO-MINOON Verses 23 to 24, Sura SHU-AA-RAA, Verses 105 to 122, Sura AL-UNKABOOT

Verses 14 and 15, Sura US-SAFFAAT Verses 75 to 83 and Sura AL-QAMAR Verses 9 to 10. Thus 78 Verses of different Suras, other than this full Sura Noah, give details about the preachings and Divine system of Prophet Noah A.S. Amongst the Prophets of the Holy Quraan, whom the Muslims believe as great Prophets of Islam. Prophet Noah preached the Unity of Allah for a longest period with great patience. Hence the Holy Quraan has a special Sura in his good name.

Hadhrut Nuuh Aly-hi Salaam (A.S.) is considered Adam the 2nd who preached his nation for 950 years to be pious, righteous and straightforward believers, but they rejected him. Hadhrut Noah A.S. was so obedient, submissive and sincere devotee to Allah Almighty with high integrity and no compromise on Divine Unity. He preached the same Divine message to his nation for centuries. Therefore, he is an ideal of Allah for all the preachers and a Divine model of patience, tolerance and perseverance.

His nation was completely washed by the great deluge but he was saved in his Ark alongwith his selectees. This great flood (tempest) completely swepted all the human beings including his disobedient wife and adamant son. A new start of human generation took place from him. So he is 2nd Adam to revive humanity from his own personality. Prophet Noah A.S. is a symbol of perpetual preaching of piety, a steadfast motivation to righteousness and a confident education of straightforwardness. As such he was a great friend of Allah S.W.T. He constantly inculcated the unity of the Almighty and persuaded his nation from one generation to their many next progeny to believe in One Allah. He perpetually continued his daily mission without being frustrated for his continued rejection by his nation. He repeatedly conveyed them the revelations of Allah with full confidence. In the long run Allah asked him to make the Ark and then motivated him to submit to his wrath his nation to be swepted by the great deluge. In the end of this Sura as a last resort measure he had to submit to the Command of Allah to completely perish his nation which did not pay any heed to his steadfast preaching for so long duration. However, his persuasion to reality of Allah Almighty presents a good modality to remain steadfast to invite people to righteousness and piety.

Therefore, Noah A.S. deserves to be allocated the title of the Sura of the Holy Quraan to keep his services on this great Divine Scripture for ever. His last supplication is so moving that he submitted to Allah to forgive him, as well as his parents and confer His kindness to the Muslims, the believer men and women of the house of faithfuls, except the falsifiers.

2. Constitution :

This Sura has 28 verses, 224 words and 989 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed upon the Holy Prophet S.A.W. by Almighty Allah in the Holy city of Makkah-tull-Mukarramah.

4. Objectives/Message/Context :

Prophet Noah A.S. (Noah) came as a warner to his people to repeatedly persuade them to :

- (i) Worship only One Allah with devotion;
- (ii) Adopt piety and righteousness with integrity; and
- (iii) Believe on what the Prophet (Noah) preached.

All this was to uphold the standards of truthfulness and the Divinely prescribed goodness which confers the blessings of Allah. This Sura assured the Holy Prophet S.A.W. that what he had to face the hands of the Makkah disbelievers was similar type of opposition as was faced by Prophet Noah A.S. but he continued his preachings.

5. Gist of the Text

- (A) Section one establishes how Prophet Noah A.S. continued his mission of inculcation to his nation to take them out of neglectfulness in the worship of Allah. He persuaded to make them pious to get the best rewards herein. He perpetually motivated them that if they

accepted his advice they could get the best bounties of Allah Hereafter.

- (B) Section two shows how Prophet Noah was dejected after so long preachings and submitted to Allah to punish them, instead. The elders of his nation were all together so negative, boastful and rebellious that they instigated others to reject Noah. They increased their disobedience to indulge in misdeeds and committed seriously prohibited acts.

So Hadhrut Noah had to submit to Allah to destroy them by a great deluge.

6. Significant Verses :

- (i) Verse 4 - Allah gives respite to forgive the sins of the relentfuls. If someone does not mend He leaves such one to face the consequences.
- (ii) Verse 5 - Inculcation to persuade wrong-doers to piety should be continued day and night.
- (iii) Verse 28 - Islam prescribes the praying for the forgiveness of (even the disbelieving) parents, welfare of self and the betterment of personal family as the best practice of the Prophets.

7. Conclusion :

The preaching of the religion with mission, repeated persuasion and steadfast motivation of the rejectors and disbelievers, despite of their tough opposition, is a Prophetic practice. Sinners and wrong doers continue to resent the inculcation of piety by the righteous personages and the saintly friends of Allah. But it must be continued with integrity and so perfectly as duty from Allah Almighty for the welfare of humanity.

SURA LXXII — AL-JINN

1. Title :

The title of this Sura is based on the term "Jinn" which is in its Verse 1. Jinn is the unusual type creature created out of fire free of smoke as in Verse 15 of Sura (LV) AR-RAHMAAN. This Sura (LV) Verses 33, 39, 56 and 74 as well as other Suras (Hood, Aa'-raaf, Sajdah, Hijr, Zariyaat, Un-Nass) have clear mention of Jinns as Allah's creature, who can be faithful and unfaithful. Sura AHQAAF-Verses 29 and 32 have a special mention of Jinns. Three types of creatures worship Allah and are duty bound to be always pertinent to remember Allah, establish His glory and submit to Him in complete humility as good believers :

- (i) Mankind created out of clay consist on four elements. Human beings have the body which can be seen by naked eyes due to these elements—soil, water, air and fire;
- (ii) The spiritual creature Angels being the most pious and the sacred souls from light of Allah (pure Noor) cannot be seen, in any case; and
- (iii) The other unseen creature created from smokeless fire is as follows .
- (a) the satan is the most rebellious, sinful, disgruntled, full of misdeeds and lewdness, and all the bad-acts. Satan has agents amongst men and jinns. Satan and Jinns being from smokeless fire cannot be seen; and
- (b) the Jinns are from smokeless fire, as in Sura Aa'-raaf Verse 12, Sura Hijr Verses 26, 27 and Sura Rahman Verse 15. They cannot be seen by normal eyes of human beings. Jinns can be believers and unbelievers.

2. Jinns as Creature :

The title of this Sura makes the Jinns as a sure creature of Allah S.W.T. They have been receiving revelations from the Holy Prophet S.A.W. He preached them Islam as in this Sura and elsewhere in the Holy Quraan. Six different occasions have been recorded by the most righteous companions of the Holy Prophet S.A.W. when he preached the Jinns. But they have no concern with mankind and men have no impacts from them. Therefore, mankind generally have no precise idea of existence of Jinns. Some of the skeptical learned scholars of Islam also think that this Sura is based on Divine imagination about this non-existent imagery creature.

The title of this Sura as Sura Jinn is the most appropriate to show that basically the Holy

Prophet S.A.W. is the blessing for the entire creature in the universe including the world of the Jinns. Jinns, as such, in light of the Holy Quraan are not at all an imaginative creature or any hallucination but they are a definite Divine reality.

We cannot see the fire and gas element within our own body as a part and parcel of our four elements to keep our human existence intact. We cannot see Oxygen, being most important to our life. We cannot present any formal caricature, picture or cartoon of our thinking, self-dejection, grief, feelings, inner senses, perceptions, reactions, gestures, imagination, senses, ego, super-ego, imagery, good or bad idea about the things and most of the spiritual or dreamy experiences. We feel drowsy and sleepy but we cannot show the real shape of such resting pleasure except our body lying or senselessly reclining. We have sixth sense and perceive many things by our special logic. None of these are visible but are the facts of life.

Most of the outer world scientific phenomena of great truth also cannot be seen or physically cannot be felt. There is air, heat, coldness, sweetness, bitterness, saltishness, abuses of a person, so lovely and sweet expressions of a lover, spoken words, hot words etc. etc. All these are tasted and felt but never seen. In the same manners Jinns are a great reality with their own world. They have their own jurisdiction and territory of survival as creature of Allah which we cannot see with our naked eyes and cannot feel with touch of our hands. They are subject to human control as inferior creature, if human beings get in themselves the best Divine insight by superior worship to Allah and best remembrance of the Sustainer.

Therefore, the Jinn as the title of this Sura proves that Jinns are the creature of true reality from Allah Almighty.

3. Constitution :

This Sura has 28 Verses.

4. Revelation :

This Sura was revealed upon the Holy Prophet S.A.W. by Almighty Allah in the holy City of Makkah-tull-Mukarramah.

5. Objectives/Message/Context :

There are some perfect truths of Allah like the Jinns which belong to the spiritual world. They may come to perception or contact of saintly human beings but are seen in reality by the Prophets with their glorious Divine eyes. When the human beings become dead stones to listen to the universal realities some supernatural and hidden forces help the Prophets of Allah in their great mission assigned to them by Rubbul Aalameen. The Holy Prophet, S.A.W. alongwith his so humble companions was badly humiliated, frustrated and rejected by the Makkhi pagans. He took his Divine mission to Ta-iff city but he was given the highest torture there physically throwing him out of that city, maltreating and beating him almost to death. When he came to his senses he was asked by Allah that He wants that the people of Ta-iff city should be crushed in between the two lofty mountains around that city. The Holy Prophet being the Rehmatull-lil-Aalameen (the Divine blessing for the Universe) submitted to Allah to save them that their next generations may embrace Islam and help in the cause of Allah's religion. (To-day the same Ta-iff is the Summer capital of Saudi Arabia to serve best the cause of Islam in the entire world). This supplication of the Holy Prophet S.A.W. was the profoundest submission in humility which was never offered by any Prophet for his so cruel adversaries.

In the same Valley during the same hours of great pain (greatest than that faced by all the Prophets of Allah) he was reciting the Holy Quraan which was listened by Jinns of that uninhabited valley. They embraced Islam. When the Holy Prophet S.A.W. returned to Makkah some hidden forces started to work for him. A group of Madina people came to Makkah who secretly met him with utmost love and great respect. This became the starting point of spread of Islam the world over.

After two years of this great event the Holy Prophet S.A.W. entered the city of Madina with his permanent migration from Makkah making Madina the world centre of Islamic internationalism within next few years.

6. **Gist of the Text :**

- (A) Section one of the Sura states that a group of Jinns was so impressed by listening to the Holy Prophet S.A.W. reciting the Holy Quraan. They motivated the rest of Jinns brotherhood about the truth of the Holy Quraan. They were ready to accept the faith in one Allah S.W.T. It appears from these Verses that most of Jinns embraced Islam. They were boastful of their secret news from heavens. Most of the Jinns became truthful Muslims. People have been instructed to believe in One Allah to get bounties of the Almighty as believers and get saved from His punishment becoming true practising Muslims.
- (B) Section two states that the Prophet is only concerned to convey the revelations of Allah S.W.T. and set his personal example of piety and purity. People should worship only One Allah and follow the Holy Prophet (S.A.W.) in all their affairs.

7. **Significant Verses :**

- | | |
|--------------------|--|
| (i) Verse 2 | - Jinns accepted the truth of the Holy Quraan. |
| (ii) Verse 6 | - Some men take Jinns as their helpers but Jinns before them. |
| (iii) Verse 8 | - Jinns try to climb upto sky but flaming fire of the burning stars sends them back. |
| (iv) Verse 14 | - Those who submit to Allah achieve the right path. |
| (v) Verse 18 | - Mosques are places of worship of Allah. Never invoke anyone with Allah. |
| (vi) Verses 26, 27 | - Allah bestows the hidden knowledge about His mysteries to His Prophets. |

8. **Conclusion :**

The Jinns, are also created by Allah. They can listen and learn the Holy Quraan. Some of them who embraced Islam on the hands of the Holy Prophet S.A.W. became sincere Muslims. They are mysterious visionary force of Allah S.W.T. who can be useful to His Prophets and saintly people for pious purpose as believer Jinns.

SURA LXXIII — AL-MUZAMMILL (WRAPPED IN GARMENTS)

1. **Title :**

The title of this Sura is based on the opening word "Muzammill" It means wrapped in garments of Prophethood. Allah Suubhanaho Wa Ta'aala (S.W.T.) addresses the Holy Prophet Sallallahu Alyhe Wassalam S.A.W. as His most beloved Messenger with his Divinely attributed beautiful name Muzammill. The personal name of the Holy Prophet S.A.W. is Muhammad but Allah S.W.T. has assigned him 99 great titles in the Holy Quraan containing profoundest characteristics in him, par excellent than all the Prophets of the past.

Human beings usually assign beautiful alternate names to their loved ones to maintain the respect and sanctity of their personal names being so exalted. This is to show their inner attachment to that personage by special good names to address politely, beautifully and lovely such dear ones.

Thus for the sanctity of the personal name of the Holy Prophet as Muhammad, S.A.W. and to assign him the highest Divine respectfulness Allah S.W.T. addresses him by his best attribute of Muzammill as he always kept himself wrapped in over-sheet garments for his modesty. Islam attaches great importance to wrap the human body with pious garments to the prescribed extent. This is urgent to maintain the sanctity of male and female body chastity of the Muslims. As such title of this Sura not only appreciates the wrapping-up of human body for all Muslims but makes it a universally unchangeable pattern of Muslim wearings, garments, suitings and clothings. Therefore, this title of the Sura as MUZAMMILL for this purpose is so perfect.

Every Prophet on the Day of Judgement will be worried about himself but the Holy Prophet S.A.W. on that Day will be concerned for the forgiveness of his Omma (saying Ya Rubbi

Ommati) to bring every one under his umbrella of Rehmat. Muzammill type Prophethood sheet of his being the Allah's Blessing exalts him above all the Prophets. His blessings will cover the entire human race when brought to Justice. This Sura is of great spiritual value to the pious people and Auolia Allah (friends of Allah) who have profoundest love with the Holy Prophet S.A.W. Therefore, most of them keep themselves wrapped-up in similar sheet garments as were used by the Holy Prophet S.A.W.

2. Constitution :

This Sura has 20 Verses, 285 words and 838 letters.

3. Revelation :

It is basically a revelation of Allah S.W.T. during the Makki period of the Holy Prophet S.A.W. But scholars do prove that its first Section was revealed at Makkah but 2nd Section was revealed in Madina.

4. Objectives/Message/Context :

The total contents of this Sura are the lovely address of Allah S.W.T. to His beloved Prophet Muhammad S.A.W. to give him options, concessions, rest, respite and relief in his stupendous, most insightful and totally devoted worship of Allah. His recitation of the Holy Quraan in a very rhythmic way has been made a standard of Quraanic readings by all the faithfuls. The Holy Prophet's Prayer is the ideal for all the Muslims as a Divine Model for ever as he is the final Messenger. The spiritual humility of the Holy Prophet S.A.W. in worship to Allah S.W.T. is so dear to Him that Allah wants it to be adopted by all the followers of Muhammad S.A.W. That model of the Holy Prophet S.A.W. has been presented by Allah in this Sura showing his wrapping as precept for sincere devotion in his high standard Prayer.

The great scholars, the best devotees and the sincerest friends of Allah in humility treat this Sura as the highest in spirituality. It is repeatedly recited by Muslims for nearness to Allah Almighty following the Holy Prophet's greatest personality as ideal of piety for the entire humanity to Eternity. As such this Sura with its most appropriate title Muzammill is most pertinent up to every believer.

5. Gist of the Text :

- (A) Section one of the Sura addresses the Holy Prophet S.A.W. with his great title of being wrapped-up in the modest garments of piety. He is given the option of the mode of offering his voluntary late night prayer Tahaj-jud, at his convenience. But his recitation of the Holy Quraan with best rhythm is so dear to Allah that it is made obligatory for every body. The early morning remembrance of Allah and remaining patient are the noblest. The disbelievers will be severely punished who do not accept Prophet Mohammad S.A.W. as truthful. Those who deny him will be totally condemned.
- (B) Section two states that establishing sincerest Salaat (Muslim Prayer), paying Zakaat (compulsory dues for the have nots), interest free loan to the needy, participation in Jehaad (struggle to establish truth) and seeking bounties of Allah gets greater rewards and grace of Almighty Allah.

6. Significant Verses :

- (i) Verse 4 - Recite the Holy Quraan in best ways.
- (ii) Verse 8 - Remembrance of Allah be kept in best devoted manners.
- (iii) Verses 11, 12 - Severe penalty and fire will bind the deniers of truthfulness of the Holy Prophet S.A.W.
- (iv) Verse 20 - Recitation of the Holy Quraan, doing Jehaad (fighting in the way of Allah), establishing Salaat (Muslim Prayer), paying Zakaat (compulsory dues) and interest free loan to Allah (spending on poor people), are the best acts to get best rewards from Allah S.W.T.

7. Conclusion :

Sura Muzammil is a great spiritual Sura describing the life patterns of the Holy Prophet S.A.W. by his most graceful Divine title. His wearings and sheet wrappings are so dear to Allah that it is model of pious dressing. The believers must follow his model in all respects according to his practices to become pious, peaceful and righteous to bring peace to humanity with piety, sincerity and humility.

SURA LXXIV — AL-MUDDATHIR

1. Title :

The title of this Sura is based on the term AL-MUDDATHIR in its Verse one. It means the Prophet Muhammad S.A.W. lying down and sitting in his chamber, engaged in remembrance of Allah S.W.T. Muddathir means establishing Muslim Prayer with great patience. After the continued revelation of the Holy Quraan preached by him for some time behind the door he was directed to deliver the message publicly and proclaim the glory of Allah, openly. The Oneness of Allah and the Unity of Divinity be established to believers in public. Worship of One Allah must be established and the worship of idols must be rejected. Not only in the Ka'aba but also elsewhere in the world the Quraanic preachings were made public with the dedication of the Holy Prophet S.A.W. rejecting the conventional and ancestral customs of paganism and infidelity.

The Holy Prophet S.A.W., being the last Messenger of Allah and His Ideal for humanity upto Eternity, is Divinely motivated through this Sura to come out with his most pious personality to persuade the people to make them righteous, truthful ar humble devotees of Allah. Inculcation of the revelations of the Holy Quraan has the greatest pleasure of Allah. This is how his followers are required to preach in the footprint of the Holy Prophet S.A.W.

The title of the Sura itself shows that during the early stages of the receipt of revelations of the Holy Quraan it was kept secret to a few believers who became sincere Muslims and also started to establish Prayer closed door. So here in this Sura the Holy Prophet S.A.W. was directed to rise-up publicly and deliver the Divine warning of the Quraan openly establishing the glory of Allah sincerely. His personal model of piety with patience and constant preaching of truth was prescribed for the entire Omma for all times to come.

In this way Al-Muddathir is Divine direction to unfold the truth making public the message of the Holy Quraan. Muddathir thus enables the believers to act upon the Shariah openly to attract the disbelievers, idolators, and infidels to pious actions and righteousness by the truth of Islam.

The Auliyaah Allah, the Divinely selected pious people as friends of Allah, consider Muddathir as the exposure of the inner beauty of the spirituality. They get his (S.A.W.) spirituality with his personal authority to achieve high echelon in piety. Some of the rightly guided Muslims so believe that this Sura actually unfolds the real life pattern of the Holy Prophet S.A.W. to such reality that these selected pious people get highest spirituality to effectively preach others to love Allah in perfect reality. Title of this Sura itself states how the Holy Prophet S.A.W. was bestowed the greatest spirituality unrapped in his divine light as the highest Prophet as blessing of Allah to the entire humanity (Rahmat-tull-lil-Aalameen).

2. Constitution :

56 Verses of this Sura consist of 255 words and 1010 letters.

3. Revelation :

This is a Sura which was revealed upon the Holy Prophet S.A.W. by Almighty Allah in the holy city of Makkah.

4. Objectives/Message/Context :

The basic subjects of this Sura contain the divine directions to the Holy Prophet S.A.W. to

openly deliver the revelations of Allah Almighty to the mankind establishing the glory of Allah and admonishing the disbelievers. The Surah states that when the trumpet is blown on the Day of Disaster, only pious will benefit. The disbelievers will be condemned that when Allah bestowed them all bounties why they became ungrateful. They will be thrown in the hell which will be so guarded to burn such rejectors of truth. The Qur'an is the pure warner to the disbelievers that actions of every one will be assessed. Only those people will be dejected who did not establish Prayer and did not feed the needy. While those who will face the agony of the Hereafter will be frustrated for their vanities.

The vanities of this world will not be of any use on the Day of Judgement and there is none to interfere in the justice of Allah Almighty. Only the pious remembrance of Allah and establishment of Prayer as righteous and straightforward devotees will be helpful.

5. Significant Verses :

- (i) Verse 7 - Be patient and constant with your Rubb (Sustainer).
- (ii) Verse 38 - Every one will be held for his own deeds.
- (iii) Verse 39 - Companions of the right hand (will be in bliss).
- (iv) Verses 41, 42 - Criminals will be led to the fire.
- (v) Verses 55, 56 - Keep remembrance of Allah, high as He is the Rubb to forgive and reward righteousness.

6. Conclusion :

This Surah clearly establishes that the preachings of the Holy Prophet S.A.W. and the Holy Qur'an are open to every one. Every body must follow the revelations with open mind. Only the believers can benefit. The rejectors are to be punished. Therefore, the pious and the humble must continue their struggle to keep high the banner of Islam.

SURAH LXXV — AL-QIYAMAH (THE DAY OF RESURRECTION)

1. Title :

The title of this Surah has been derived from its first Verse. Arabic word Qiyamah, the Day of Resurrection, is a pillar of faith for each Muslim. Islam basically is the belief in :

- (i) Oneness of Allah with unity of Divinity and worship only to Him.
- (ii) Belief in the Holy Prophet Muhammad S.A.W. with truthful revelations of the Holy Qur'an to him to spread Divine truth for guidance to mankind for pious and righteous human existence; and
- (iii) The belief in the coming of Qiyamah — the Day of Resurrection to give life to all the dead human beings to judge their good and bad deeds for reward/award Hereafter.

In view of this Qiyamah (the Day of Resurrection) is the basic article of faith of every Muslim. Then after Qiyamah a permanent life in the eternal world will start in the Paradise or the hell according to good deeds or misdeeds accounted.

This Surah specially has been given the title of Al-Qiyamah to keep this article of the Muslims supreme. The Muslims keep supreme in their minds that the establishment of the Day of Resurrection is as sure as the existence of mankind itself and death which never can be avoided by any one. The Surah starts from Divine surety that when a man repents and becomes obedient and humble he achieves the reward of Almighty Allah by piety and righteousness. Human beings have been created from a mean drop of water with sexual union of male and female. Allah has the power to give birth. Similarly He has the power to give re-birth after death. The Day of Resurrection is a great reality from Allah Almighty to take all the human beings to accounts. The disbelievers rejection of the establishment of the Day of Resurrection, will be realized by them when punished.

The title of this Surah fits its entire subject matter which is totally about the establishment

of the Day of Resurrection.

2. Constitution :

This Sura has 40 Verses, 199 word and 692 letters.

3. Revelation :

This is the Sura was revealed upon the Holy Prophet in the city of Makkah.

4. Objectives/Message/Context :

The disbelievers, idolators and the infidels were not at all convinced about the establishment of the Day of Resurrection. They had coined many justifications against the Oneness of Allah. When man dies, how it will be possible to re-create him from the dust? Almighty Allah in this Sura assures that it is a great truth that when everything was created by Allah, He will re-create in the similar way the dead human beings.

Therefore, the arrogance of the evil people should be shunned and they should get sure that even smallest limb of human being will be re-created. All these limbs of the human beings will witness against the Nafroll Ammara-the motivative self of that person. Nobody will be excused on the Day of Judgement for the disbelief and rejection of truth. On that day the disbelieving people will be rejected and made to enter hell for not accepting the reality of every thing bestowed to them by Allah. Why they did not spend something in His way on the needy and not having established the Prayer. The man is from mean sperm drop which is made by Allah a crown creature and a special entity. Similarly Allah will fashion the dead ones from the graves on the Day of Resurrection.

5. Significant Verses :

- (i) Verse 2 - (Nafsill Lauwama) the reapproaching/repenting self of man is dear to Allah.
- (ii) Verse 3 - Sun and moon will merge together (on Day of Resurrection).
- (iii) Verse 14 - Human limbs will be witnessed against his self.
- (iv) Verse 37 - Man is from a sperm drop ;
- (v) Verse 38 - Man was fashioned from a clot to profound proportion.
- (vi) Verse 39 - Allah has made two sexes—male and female.
- (vii) Verse 40 - Allah has the power to give life, death and rebirth.

6. Conclusion :

The Day of Resurrection is a great reality of Allah Almighty. All the people must believe in the re-birth after death on this great Day to be brought before Allah Almighty. On the Day of Judgement the accounts of the pious deeds as well as sinfulness and misdeeds for each one will be adjudicated by Allah for reward/award in eternal life of Paradise or hell.

SURA LXXVI — AD - DAHR (THE UNIVERSE)

1. Title :

The title of this Sura has been derived from its first Verse. Ad-Dahr means the universe a small portion of which is known to the human beings. It is also known as Sura "Al-Insaaan". There are two classes of men:

- (i) Those who choose good as their life pattern ;
- (ii) Those who choose evil to indulge in misdeeds.

Miseries and the happiness of the human beings depend on their self actions. The Arabs thought that it is the time which makes anybody pious or impious and subject to destruction. But time is with Allah and Allah keeps the time. Time is Divine creation and creatures go by the time. There is nothing eternal in this world. No force changes the course of the self conscious human beings. It is the man who has to change himself. It is the human option to contract piety or indulge in evil deeds.

The whole Sura points out to the human beings that they were created from nothingness to be crown creation over every thing. Therefore, human beings should always be grateful to Allah. The Day is to be established on which the wrong doers will face the consequences of their misdeeds but those who remain righteous will get full reward. Such people feed the orphans, the have-nots and the prisoners in the love of Allah Almighty. They will be forgiven their wrongs and bestowed the Paradise to enjoy blessings therein. Man must up-keep the remembrance of Allah and act upon His Commands. Allah knows everything and those who are cruel will be punished.

Title of the Sura "Ad-Dahr" includes everything pertinent from birth of human beings to their death and rebirth on the Day of Resurrection. Day of Judgement will then be established to account the deeds of all the people. In this way this Sura explains the flow of time under the Command of Allah. Therefore, it should be taken seriously to make the self of a man grateful and humble. Establishing Prayer and helping the fellowmen will get rewards Hereafter.

2. Constitution :

The Sura has 31 Verses, 240 words and 1050 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed upon the Holy Prophet in the city of Makkah.

4. Objectives/Message/Context :

The human beings are being reminded in this Sura about their original nature. Their birth is from a drop mingled with a sperm. It is strange enough that they rejected Allah Who is their Creator. They also reject the truth of the revelations of Allah. Only the righteous people will be rewarded for their piety of helping the needy and establishing the prayer for piety as well as the remembrance of Allah Almighty. Allah will bestow them all the bounties in the Paradise with a great drink of Salsabeel- a fountain in the Paradise which has no parallel. It will give permanent freshness. Those who act upon the Commands of Allah and celebrate His glory, day and night, will enjoy best Divine bounties. But the rejectors and wrong doers will be punished with severe punishment.

5. Significant Verses :

(i) Verse 2 - Allah has made the man from sperm drop.

(ii) Verse 3 - Allah shows the way and tests whether someone is grateful or ungrateful.

(iii) Verse 8 - The righteous feed the people in need, orphans and prisoners.

(iv) Verse 12 - Only the patients will be rewarded.

(v) Verse 23 - The Quraan was revealed by stages.

(vi) Verse 24 - Always be patient with constancy and act upon the Commands of Allah.

(vii) Verse 25 - Establish the remembrance of Allah by day and night.

(viii) Verse 30 - Allah is full of knowledge and wisdom.

(ix) Verse 31 - All the cruels will be severely penalized.

6. Conclusion :

The Sura Ad-Dahr states that time is in the command of Allah. Human beings must remain pious in this world during this life. They will get rewards of their pious deeds of helping others and remaining straightforward. The rejectors will get the severe punishment in the Hereafter.

SURA LXXVII — AL-MUURSALAAT (THE SENT ONES)

1. Title :

The title of this Sura has been derived from the word Muursalaat in its first Verse. It means the winds which are sent in sequence to perish everything. There are winds which bring Oxygen for animate and inanimate (plants) life on earth and fertilize everything to life. Winds

bring rain which take soil from the mountains and water for all type of greenery germination and growth. But there are another type of winds which bring tornado, cyclones and disruptive type of floods to destroy everything. There are winds which uproot to scatter everything not to join again. But there are winds which separate grain from the chaff and bring fresh air for human life and agrarian productivity.

Here the word *Muursalaat* has been used to describe such winds which are sent forth one after the other not only for profit of man but also to sweep away everything violently. So the title includes the beneficial, gentle and the air in the human service as well as the devastating, destroying and uprooting winds.

Allah Almighty Commands the violent winds and the gentle air. But on the Last Day it will bring greatest torture for the rejectors. Verse 15 reads in Arabic "wy-lyn yauma-ee-zyn"... meaning—Ah woe is on those who reject the truth. It has been repeated ten times in 50 Verses of this Sura which is clear warning importance for those who disbelieve and who do not accept the truth of the revelations of Allah and do not follow the teachings of the Holy Prophet Muhammad S.A.W.

Therefore, the title of this Sura relates to the power of Allah in the fresh air as life line for human beings. The same is then converted into a wind which becomes great destroyer. Allah's Divine Majesty can use air favorably for human beings or for punishment of the rejectors.

2. Constitution :

This Sura has 50 Verses, 180 words and 816 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed upon the Holy Prophet S.A.W. in the holy city of Makkah.

4. Objectives/Message/Context :

Allmighty Allah assures in the name of many of His truthful Signs that the Day of Resurrection is to be established. Then Allah Almighty has described the dreadful scene on the Day of Resurrection. Man is bound for remembrance of Allah but does not sincerely worship Him. Therefore, he is thrown out of the protection of Allah to face penalty. Whatever the men enjoy from the bestowments of Allah is to be faced by them on the Day of Judgement. Their misdeeds, disbelief, sinfulness and whatever cruelties they commit here will be brought before them Hereafter for judicious award of punishment. Only the righteous believers who follow the foot-prints of the Holy Prophet S.A.W. will get all the bounties of Allah in the eternal life due to their piousness.

Allah has repeatedly condemned the attitude of the disbelievers for rejecting the truth. The people who are disbelievers should realize their faults to save themselves from punishment in Hereafter. Only those who believe and bow to Allah will be rewarded.

5. Significant Verses :

(i) Verses 15/19/

24/28/34/37/

40/45/47/49

(ii) Verse 23

(iii) Verse 50

- Ah Woe that Day, on the rejectors of truth.

- Allah determines the things best.

- What message will the rejectors believe ?

6. Conclusion :

This Sura explains how those who reject the reality and do not understand the truthfulness are to be swept and brought before Allah for punishment Hereafter. Only those who believe will be conferred the bounties of Allah for their good deeds and piousness on the Day of Resurrection. On the Day of Judgment they will achieve real success.

[Part thirty of the Holy Quraan is the last Part consisting on 37 smaller and the smallest Suras. Most of the Chapters of this last Part relate to the scenes of the Last Day, the Divine establishment of the Day of Resurrection followed by the Day of Judgement to send pious to blissfulness and the disbelievers to the remorsefulness after end of the universe.]

SURA LXXVIII — UN-NABAA' (THE NEWS)

1. Title :

The title of this first Chapter of the last part of the Holy Quraan is "Un-Nabaa'" which means the great news of a great event. This is the supreme Divine message about the establishment of the Day of Judgement. Everybody remains anxious to know more and more about everyone and every thing. Human beings urge fresh news for every event.

This Sura points out that the greatest news that human beings should expect, urge, aspire and wait for is the news about the approaching of the Last Day. So the human beings should become pious, righteous and straightforward. The news about the Day of Resurrection and the establishment of the Day of Judgement are the greatest Divine news to be expected by everyone. Such information will be very important as real truth than any daily human news, anxiously received by them from electronic or print media. Much of daily news may be mere falsehood, self-contradictory and illusion. But this Divine news will be real truth.

Thus the title of this Sura as Un-Nabaa' is the most appropriate as the urgent Divine News of pure reality for the entire humanity from Allah Almighty about the life after death in Eternity in the hell/Paradise.

2. Constitution :

Its forty one Verses consist of 173 words containing 970 letters.

3. Revelation :

It is an early Makki Sura to explain to the adamant disbelievers the circumstances leading to the Last Day and the establishment of the Day of Judgement.

4. Objectives/Message :

This Sura presents great message as supreme news about life after death. The Sura reveals with full force that the Day of Resurrection is definitely to be established to bring to accounts the misdeeds of the disbelievers, arrogant, idolators and infidels to get severe punishment. The believers will get definite rewards for their pious and righteous deeds. The Holy Quraan is the Last Message of Allah prescribing Allah's ideal on the pattern of the Holy Prophet S. A. W. It must be accepted by all humanity for peaceful prosperity. The life pattern of Allah's Model in the Holy Prophet Muhammad S.A.W. is the universal truth to be followed by the believers to get reward on the Day of Judgement.

5. Summary :

- (A) Verses 1 to 5 explain the Divine method of communicating the top news.
- (B) Verses 6 to 16 explain to humanity the bounties of Allah Almighty demanding pious deeds from all the human beings.
- (C) Complete destruction of the universe, then Resurrection of the human beings for eternal life after death and the establishing of the Day of Judgement has been stressed. These are the basic articles of faith for the believers falsified by the disbelieving infidels, idolators, atheists and so called seculars. This has been discussed from Verses 17 to 40.

6. Importance :

This is the first Sura of the last Part to describe the creation of the universe since the First Day and its destruction on the Last Day. After the Resurrection the Day of reward to the righteous and punishment to the wrong doers and disbelievers will be established with fullest justice.

7. Significant Verses :

- (i) Verse 11 - Day has been created for economic activities.
- (ii) Verse 12 - All the seven heavens have been set by Allah.
- (iii) Verses 14 to 16 - Allah sends rains for growth of food grains, vegetables, gardens and all the greenery.
- (iv) Verse 31 - The pious definitely are most successful.

8. Conclusion :

This Sura presents the sum total of what a man earns herein for the award/reward Hereafter. The Sura affirms the great Divine news about the Last Day and the Day of Resurrection. The Sura describes the power of Allah for creation and sustenance of everything. He has the power for the destruction of everything. It will be well known on the Day of Judgement who was right and who was wrong.

SURA LXXIX — UN-NAZI'AAT (THE DRAGGERS)

1. Title :

The name of the Sura Un-Nazi'aat has been derived from a word in its first Verse. It means the draggers, the Angels who will push the disbelievers to hell on the Last Day. The castigators who had been denying the truth are to be sent to hell and awarded severe punishment on the Day of Judgement.

2. Constitution :

Its 46 Verses consist of 197 words which contain 753 letters.

3. Revelation :

It was revealed after Sura Nabaa' as an early Makki Sura in the Holy City of Makkah-tull-Mukarrama.

4. Objectives/Message:

- (A) The basic objective of this Sura from Verses 1 to 27 is to re-stress disbelievers the facts about the Day of Resurrection, which is the most inevitable to be established. It will be the most dreadful event for the idolators, atheists, non-Muslims, infidels and disbelievers. Allah Almighty explains how after total destruction the grand Resurrection will take place.
- (B) Allah knows when such most devastating Hour will be established as stated in Verses 34 to 46. None can establish the Last Day except Allah.
- (C) This Message conveyed by the Holy Prophet S.A.W. is perfect and must be taken for granted by everyone to be pious, righteous, sincere and practising believer. Only the righteous ones will get reward on the Day of Judgement as indicated in Verses 28 to 33 of this Sura.

5. Significant Verses :

- (i) Verses 10,11,13 & 14 - Disbelievers say that the rotten bones of the dead cannot come to life. But it will be done by Allah by commissioning a dreadful resounding voice. Everyone will then be given life to account for on the Day of Judgement.
- (ii) Verse 35 - On the Day of Judgement every one will be anxious to know about their good or bad deeds.
- (iii) Verses 37 to 39 - The rebellious will be thrown in the hell.
- (iv) Verses 40 & 41 - The pious who keep the self in restraint will get the Paradise.
- (v) Verses 42 to 46 - The Day of Resurrection will be established on the fixed Hour. It will definitely come soon. People will claim that they stayed in this world for a day or two.

6. Conclusion :

This Sura stresses human beings to realize that everyone will die and then the Day of Resurrection will bring everybody to accounts. Everyone should firmly believe to face the Day of Judgement. Therefore, real preparation for that Day is herein by good deeds, piety and righteousness as preached by the Holy Quraan and inculcated by the Holy Prophet S.A.W.

SURA LXXX — ABASA (HE FROWNED)

1. Title :

The title of this Sura is "Abasa", which means "he frowned". It has been derived from the first word of its first Verse. Some critics construe that this Sura shows the disapproval of Allah for the uncalled for reaction of the Holy Prophet S.A.W. against his so sincere companion, who was blind and a handicap. It is not at all so because in light of Sura Najam (53:3) the Holy Prophet S.A.W. never inhaled even the fresh air without the Will of Allah. So this reaction of frowning of the Holy Prophet S.A.W. is also a great lesson for the followers to keep normal attitude for the people who are sincere in their purpose and noble mission.

Precious time of the pious personages should not be wasted in the futile exercise to motivate hostile boastful rejectors, disbelievers and enemies of Islam. The faithfuls who remain submissive to Allah and His Holy Prophet S.A.W. must get full attention.

The title of this Sura is most educative for the Muslims to be normal with their companions in their pious pursuits. It also indicates how the Prophets and friends of Allah remain under the Divine umbrella in each moment how notice is taken for everyone's slightest actions and reactions.

2. Copstitution :

Its 42 Verses consist of 130 words which contain 533 letters.

3. Revelation :

This is a mid Makki period revelation of Allah to the Holy Prophet S.A.W. to preach the Muslims Islamic social etiquettes in get-togethers.

4. Objectives/Message:

One day the Holy Prophet S.A.W. was in conversation with some idolator chiefs of Quraish, convincing and persuading them to accept the truth of Islam. A blind companion of the Holy Prophet, S.A.W., Abdullah Bin Omme Maktoom, R.A. -Radhi Allah ho Ta'aala Unho-Allah Almighty is please with him- came to see him at the same time. He stressed, with full sincerity to get information and personal guidance about the practices of the Islamic faith. The Holy Prophet, S.A.W. was disturbed at his repeated interruption. He frowned and did not attend to this call of the blind companion. So this Sura was revealed as a Divine guidance in such situations.

In this Sura the Muslims are told that a man's importance is not to be judged from status, personal pressure or riches but by the love he/she has for Allah and His last Prophet, S.A.W.

Real status in Islam is assigned to such a Muslim who wants to learn the Holy Quraan and Sunnah of the Holy Prophet (S.A.W.) to be more pious and active in Islamic pattern of life with self perfection on the foot-prints.

This Sura attaches a great importance to take care of the handicap persons and the destitutes. The blinds being the most deprived in daily activities need special care of Muslims as inculcated by this Sura. This blind companion, later on, became the best preacher for female Muslims in Makkah. He also became the first preacher in Madina, before the migration of the Holy Prophet S.A.W. there. This poor blind companion was so exalted in status by the Holy Prophet S.A.W. in Madina that he became twice Deputy Governor while the Holy Prophet S.A.W. went out of Madina for defensive wars. He lead for 19 times the congregation prayers in place of the Holy Prophet S.A.W. He often was allowed to say the Aazaan, a loud call for Prayer, at least once daily.

In Islam blinds and handicaps get top social care with special state cover for their education, maintenance and day to day life affairs. Today hundreds of thousands blind Muslims are the Hoofaaz-e-Quraan (who have learnt it by heart). They are very respectful persons in each Muslim community for their such great capability.

5. Summary :

- (A) Verses 1 to 16, once for all, establish that a Muslim who loves Allah and His Holy Prophet S.A.W. and seeks Islamic knowledge for pious practice enjoys top respect in the Muslim social order. It is neither the wealth nor riches or political power which have any superiority in the Islamic religious order. It is neither the personality cult nor the social status, or the physical force which make somebody important in Islam. It is the love of Islamic learning for pious practices which is of prime importance in an Islamic culture. Continued attachment to the message of Islam is paramount to Allah so that Muslims may act upon the life pattern of His beloved last Messenger S.A.W. as His best Ideal.

Some commentators have construed that up to Verse 6 there is severe warning to the Holy Prophet S.A.W. It is rather a permanent Divine injunction to assign a top priority to those who approach to learn Islam and Prophet's patterns.

This Sura also gives Divine authentication about the Holy Quraan as the pure revelation of Almighty Allah. Had these been the words of Muhammad, Sallallah ho Alyhe Wassallam, (Allah's Blessings and salutation on him-S.A.W.), as wrongly contended by some non-Muslim scholars, he never could have used such a harsh attitude, and tough words against himself in such ever living great Scripture. He never could have recorded his personal re-actions in this universal Divine writing of great importance. Therefore, only this Sura is enough to prove that each letter of the Holy Quraan is the Divine revelation.

These Verses also are the Divine standards of assigning priority in get-togethers to those who seek knowledge in love of Allah and His Holy Prophet S.A.W.

- (B) Verses 17 to 32 give description of bestowments of Allah to mankind. Verses 33 to 42 explain the state of the Day of Resurrection as a basic article of Muslim faith.

6. Significant Verses :

- (i) Verses 12 & 13 - The Quraan is the most respected divine Scripture
- (ii) Verse 17 - Human beings lose credits when they become ungrateful (to Allah).
- (iii) Verses 19 & 20 - Why man is created out of a mean drop and then perfected on the right path.
- (iv) Verse 23 - Why man does not act as directed (by Allah and the Holy Prophet).
- (v) Verses 24 to 32 - Allah gives food, fruits, vegetables and bounties to human beings from the dead soil made fertile by rain from Him. Animals also get fodder from earth and become useful to human beings.
- (vi) Verses 33 to 42 - The Last Hour will be established when no near and dear will be helpful. The pious will rejoice but wrong doers will be dejected.

7. Conclusion :

The frowning of the Holy Prophet (S.A.W.) described in this Sura is itself a great proof that Quraan is the Word of Allah. Otherwise he (S.A.W.) would not have described his own condition so had it been his (S.A.W.) creative work.

Sura Aabasa reflects the highest honour for the sincerest Muslims and the highest respect for the Holy Prophet S.A.W. Even the poor, simple and pious believers have full importance with people on the helm of affairs in Islam. As eternal principles the revelations of Allah are the best treasure of every Muslim. The bounties and mercies of Allah to man and man's duty to Allah have been described. The pious have been assured the best rewards but the wicked will be definitely punished.

Frowning is an inner psychological reaction of a person which appears on the forehead as a sign of disapproval of something. The sudden intervention of others may also astonish or

embarrass someone to frown. This Sura shows how Allah notices even such minutest inner behavioral patterns of the Prophets and guides them then and there. Allah as such has full record of everybody's every action/reaction, visible or invisible.

SURA LXXXI — UT-TAKVEER (THE FOLDING)

1. Title:

Title of this Sura has been derived from the word "Takveer" in Verse one which means folding, withdrawing or perishing on the Last Day by a total disaster. This Sura also describes the dreadful scene of the Last Day after which the Day of Resurrection and the Day of Judgement will be established.

2. Constitution :

Its 29 Verses consist of 104 words which contain 530 letters.

3. Revelation :

The Sura was revealed by Allah in early Makki period to the Holy Prophet S.A.W. preaching the Makkan infidels in his (S.A.W.) sincerest manners of inculcation.

4. Objectives/Message :

(A) Verses 1-13 discuss the condition of the universe on the Last Day. Then the Day of Resurrection will bring to life all the dead human beings. Then the Day of Judgement will be established to account the good deeds and misdeeds of the human beings.

(B) Verses 14 to 29 set forth Allah Almighty's perfect and repetitive Divine assurances with supreme authenticity that the holy Scripture (the Holy Quraan) is a pure Divine bestowment to the mankind as the last guidance of Allah through His last Ideal Prophet, Muhammad S.A.W. The Holy Quraan is the profoundest treasure of knowledge and the Holy Prophet S.A.W. is the best model for humanity upto Eternity.

The Sura stresses the disbelievers with full force the realities of the delicate, sensitive and compulsory article of faith to each Muslim about the Day of Resurrection. This enables the believers to defend themselves against satans' adverse effects. Men can achieve required standards of piety as prescribed in the Holy Quraan by Allah Almighty and practised by the Holy Prophet S.A.W. as the best standard bearer for humanity.

5. Significant Verses :

- (i) Verses 1 to 3 - Sun, Stars and mountains are to perish;
- (ii) Verse 14 - Every human self will know the value of the deeds done in this world.
- (iii) Verse 19 - Angel Gibreel is most honorable in true communications of the Quraan to the Holy Prophet S.A.W.
- (iv) Verse 27 - The Quraan is a message for the entire universe; and
- (v) Verse 29 - The Will of Allah prevails as the Cherisher of the worlds.

6. Conclusion :

The entire world with sun, stars and all the mountains are ultimately to break-up. Everyone will be responsible for their deeds herein. The Quraanic revelations are true communications from Allah for perfect human guidance and mankind's welfare.

SURA LXXXII — AL-INFITAAR (RENT ASUNDER)

1. Title :

The title of the Sura "Al-Infitaar" has been derived from its first Verse which means renting asunder into pieces and making everything particles of sand/ash. This is a situation of the Last Day when everything will perish from this universe. This is the Divine design to end-up all the creatures along with the human beings. Then the human beings will be given life again to

be judged for their good or bad deeds on the Day of Judgement.

2. Constitution :

29 Verses of this Sura consist of 80 words containing 327 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed by Allah S.W.A. upon the Holy Prophet S.A.W. during his Makkī period.

4. Objectives/Message Context :

(A) This Sura conveys from Verses 1 to 9 the Divine Message about the establishment of the Day of Resurrection. The Last Day will bring complete turmoil, total perishment and full destruction. The details of Resurrection Day have also been explained in previous Suras LXXVIII to LXXXI.

The Day of Judgement will enable the righteous believers to get credit of all the right, good, pure, pious, and approved deeds with Allah's Mercy. The bad, impure, impious and disapproved omissions or commissions of human beings will be discredited for Divine punishment.

(B) The Sura Verses 10 to 12 give details of the bounties, mercy and kindnesses of Allah Almighty to mankind. The two Angels, on the right and left of each person, as Divine Accountsmen are recording in the personal computers. Cassettes punching each good/bad deed of each one in permanent floppies as personal files for final accounts are under preperation and preservation.

(C) This record will be played before everyone, as in Verses 13 to 19, to be awarded punishment in hell for sinfulness or reward to enter the Paradise. Supreme Order of the Day will be the Grand Order of Allah Almighty only.

5. Significant Verses :

(i) Verse 1 to 4 - The sky, stars, oceans and graves will be turned upside down (on the Last Day).

(ii) Verse 5 & 6 - Every self will get accounts of self deeds. Then men will know why they remained aloof from Allah.

(iii) Verses 11 & 12 - The Divine Accountsmen (Kiramun Katibeen) record every deed of every human being.

(iv) Verses 13 14 - The righteous will be in the Paradise but the wrong doers will go to the hell.

(v) Verse 19 - (On the Day of Judgement) only the Command of Allah will be supreme.

6. Conclusion :

On the Last Day everything will be put upside down and totally smashed. All mankind will be resurrected and the deeds of the righteous people will be rewarded on the Day of Judgement. The true faithfuls of spirituality will get higher grades in the Paradise for life in Eternity.

SURA LXXXIII — MOTATAFIFEN (THE DEFRAUDERS)

1. Title :

The title of this Sura has been derived from the Quraanic term "Motataffeen", in its Verse one, meaning the defrauders or those who shorten the measures and sell things on fraudulent scales.

2. Constitution :

36 Verses of this Chapter consist of 169 words which contain 730 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed by Allah upon the Holy Prophet S.A.W. in the mid Makki period to preach the traders, businessmen, sellers of services and commodities a judicious deal in daily give and take in view of the Divinely conducted-accounts on the Day of Judgement.

4. Objectives/Message Context :

(A) Verses 1 to 6 condemn, fraudulent deals and shortening of measures in scales. Scales are enhanced at the time of purchase of services and commodities in daily trade and commerce by cunning shopkeepers, commission agents, tradesmen and dealers. Same are fixed to decrease things while setting. This criminal act of such wrong doers will be accounted by Allah Almighty on the Day of Judgement.

(B) Verses 7 to 17 describe the procedure of Divine adjudication of socio-economic misdeeds of the unjust, fraudulent, dishonest and deceiver tradesmen. Their such uneven dealings and daily mismanagements are precisely recorded, preserved and sealed by the Divine recorders to be accounted for before Allah. The Wrong doers will be condemned to hell.

(C) Verses 18 to 36 describe how faithfuls will be in a blissful life Hereafter in Paradise. They will be remorsefully envied by the wrong doers and dishonest people on that Day.

This Sura also is relatively small one and has been placed by the Holy Prophet S.A.W. in the 30th Part of the Holy Quraan dealing with the scene of the Last Day before the Resurrection. Accounts of the human conducts on the Day of Judgement for award/reward Hereafter will start from wrongs of unjust balancing.

5. Significant Verses :

- (i) Verse 1 to 3 - Curse (of Allah) is on those who shorten scales while giving something to others but they get full measures for themselves.
- (ii) Verses 7 & 8 - On the terrible Day of Resurrection all dead people will have to stand (in lie after death) before the Sustainer of the universe.
- (iii) Verses 12 & 13 - Woe is on the rejectors who deny the Day of Judgement.
- (iv) Verses 18 to 22 - Records of the virtuous are preserved in a book for presenting it as witness before Allah. Surely the pious will be in blissfulness.
- (v) Verse 29 - The guilty who laugh at the pious will be severely penalized.

6. Conclusion :

This Sura condemns all types of fraudulent deals of human beings in personal life, public affairs, trade, commerce, industry and varied matters of mutual give and take of human beings. Special care is necessary in adopting fair deal in religious, spiritual and pious deeds. Every deal, how much minute it may be, of good and bad nature is to be brought before Allah on the Day of Judgement. Even the mightiest wrong doers will be punished. But the poorest righteous will be rewarded in Eternal life.

SURA LXXXIV — IN-SHIQAQ (RENT ASSUNDER)

1. Title :

The title of the Sura has been derived from the Quraanic term "In-shaq-qutt" or "In Shiqaq meaning renting asunder, bursting to pieces or smallest particles. Again this is the description of the state of affairs on the Last Day to destroy every thing by Divine order of Allah.

2. Constitution :

25 Verses of this Sura consist of 107 words which contain 430 letters.

3. Revelation :

It is a Makki revelation of Allah to the Holy Prophet S.A.W. correlated with the previous Suras of this last Part.

4. Objectives/Message Context :

(A) This Sura conveys similar message in its Verses 1 to 5 as revealed in previous Suras about the Last Hour. It again impresses upon the disbelievers the fateful events of the Last Day.

Part 30, as the last Part of the Holy Quraan, conveys Allah's Last Message through the last Messenger, teaching humanity to adopt the straight path. Allah, wants on each step the perfect welfare of mankind herein and Hereafter.

(B) Verses 6 to 24 give details about the Divine method of handing over the accounts of misdeeds on the Day of Judgement to the disbelievers and the wrong doers will repent on observing the faithfuls in blissfulness as a reward for their piousness.

(C) Verse twenty one of this Sura demands from the Muslims who recite it or listen its recitation to do prostration in ablution facing the Ka'aba.

The last Verse (25) prescribes the standards of piety for the faithfuls (Muslims) to be rewarded Hereafter

5. Significant Verses :

- (i) Verse 6 to 9 - Men who labor hard (piously) will meet Allah with their accounts in their right hands for easy reckoning to be rejoiced with Divine rewards.
- (ii) Verse 21 - The disbelievers (will be discredited as they) do not bow down in submission when Quraan is recited.
- (iii) Verse 25 - The pious will get un-ending rewards.

6. Conclusion :

This universe will Vanish. If this life is tedious, painful and difficult for the faithfuls, there is hope Hereafter to see Allah. This will be a most blissful bounty of Allah Almighty for the righteous. But the sinful rebellious will face the woefulness. Only those who accept the Message of Allah and follow the Holy Prophet S.A.W. will be successful.

SURA LXXXV — AL-BOROOJ (THE MANSIONS)

1. Title :

The title of the Sura has been derived from the word "Al-Borooj" in its Verse one. It means the mansions of the stars.

2. Constitution :

The 22 Verses of the Sura consists of 109 words containing 465 letters.

3. Revelation :

It was revealed by Allah upon the Holy Prophet S.A.W. in Makkah during the days when the disbelievers as idolators were committing severest cruelties on Muslims to deter them from entering in the Islamic folds.

4. Objectives/Message Context :

- (A) In Verses one to three Allah assures in the name of a great events which is to take place on the promised date, the Last Day.
- (B) Verses 4 to 10 describe the fate of the adversaries and enemies of Muslims who will be severely penalized for their cruelties against the believers in all ages.
- (C) Verses 11 to 16 describe the bestowments, kindnesses and rewards of Allah to the believers who are practically pious.
- (D) Verses 17 to 22 repeat how Pharaoh and the Samood people received the dreadful end. The truthfulness of the last Divine message through the Holy Quraan, preserved in the Heavenly Protected Tablets is reconfirmed

5. Significant Verses :

- (i) Verse 9 - Allah is witness over everything:

- (ii) Verse 12 - Surely the seizing of your Rubb (Sustainer) is very severe; and
 (iii) Verse 21 & 22 - The Holy Quraan is guarded in the Divinely Preserved Tablets.

6. Conclusion :

The rejectors of truth are condemned that their misdeeds are being minutely watched. They will have to answer for their wrongs on the Day of Judgement. Their clear record will be presented transparent as clear witness against them. Allah is Mighty and no powers or any might of any body here will be of any help there. Only the all time preserved true message of Allah is the gracious fact to be accepted and acted to get rewards.

SURA LXXXVI — UT-TARIQ (THE MORNING STAR)

1. Title :

First Verse of this Sura provides its title "ut-Tariq" which means the early morning star. It is so bright and prominent amongst the other stars that it daily brings the great news of start of early morning. The pious believers say their early dawn Tahajud prayer, so dear to Allah. The men in the street rise up for day bound socio-economic life. Thus this star is very significant for the mankind.

This bright star also describes the high status of the Holy Prophet S.A.W. amongst the other Prophets. His (S.A.W.) sincerity for spread of the Divine religion is the highest, brightest and ever lasting to from as Allah's modality to Eternity.

2. Constitution :

The seventeen Verses of the Sura consist of 61 words which contain 239 letters.

3. Revelation:

This Sura was revealed at Makkah-tull-Mukaraamah when the Holy Prophet S.A.W. was preaching the believers and the disbelievers to the climax of inculcation.

4. Objectives/Message Context :

From Verses 1 to 8 Allah Almighty assures in the name of by the most important star spreading best light (Prophet Muhammad S.A.W.) who gives the human beings the news of the approaching of the day light to lead ignorants to good conduct piousness and righteousness. Keepers have been deployed for each person. The human beings are so ordinary in creation. Human beings are born from asperm of water sprout. But how they become boastful, rebellious and rejectors against the truth. Anyhow Allah is so Almighty to bring their deeds to book.

Verses 9 to 17 again warn the disbelievers about the Last Day to account their misdeeds

The plans of disbelievers to stop the march of Allah's religion will fail and the Nizam-a-Mustafa (System of the Holy Prophet Muhammad S.A.W.) will prevail.

5. Significant Verses :

- (i) Verse 4 - Every one has a guardian over him/her.
 (ii) Verse 5 to 8 - Human beings should know how they were created from gushing fluid (mean sprout) out of lion and breast bones. Allah has the full power to bring them to life after death.
 (iii) Verses 15 & 17 - Disbelievers have their plans but plans of Allah are superior.

6. Conclusion :

The light of the twinkling star becomes best guide in the dreadful darkness of night. The Holy Prophet S.A.W. is the best guide for the erring people through the light of revelations of the Holy Quraan. Human beings are creatures of flesh and bone created out of mean drop. Allah has the power to raise high the straightforward and the pious ones in the life Hereafter. What Allah has planned is the best to punish the disbelievers and make futile their misdeeds here.

SURA LXXXVII — AL-AA'-LAA (THE MOST HIGH)

1. Title :

Title of the Sura "Al-Aa'laa" is in its first Verse. It means "The Most High" - Allah. Thus the title of this Sura is based on one of the most glorified Names of Allah. He has the profoundest attributes, which are more than 100. Al-Aa'-laa, is His highest Characteristic as Sustainer.

2. Constitution :

The nineteen Verses of this Sura consist of 72 words containing 291 alphabets.

3. Revelation :

This is a Makki Sura revealed upon the Holy Prophet, S.A.W. before migration to Madina.

4. Objectives/Message Context :

(A) Verses 1 to 5 impress upon the Holy Prophet S.A.W. sanctity of the Most High Allah Who is the Supreme Creator and the best Guide. All flora and fauna is grown and decayed by Him.

(B) Verses 6 to 8 provide Allah Almighty's surety to the Holy Prophet S.A.W. about the effects of his (S.A.W.) education and actions followed by his followers according to the Holy Quraan.

(C) Verses 9 to 19 relate to the Divine guidance for the continued preaching of Islam by the Holy Prophet S.A.W. as well as his followers. Only those who love Allah and become pious get benefits. But the disbelievers will remain deprived. The ever-lasting life Hereafter will be the most comfortable. The Scriptures revealed to Prophet Ibraheem A.S. (Alyhiss-Salaam-Salutation on him) and to Prophet Moses A.S. also testify the truth presented by the Holy Quraan for mankind as Allah's Message. The Last Day preparations herein will enable to achieve the ultimate success to eternally live in the Paradise.

5. Significant Verses :

- (i) Verses 1 to 3 - Glorified is the Name of the Sustainer, the most High who has created and ordered everything in proportion. Only He has ordained His Laws and has granted perfect guidance.
- (ii) Verse 8 - (Nothing is overlooked by a Messenger) He conveys what Allah Wills. He (S.A.W.) knows everything manifest or hidden.
- (iii) Verse 14 - Whoso purifies him/her self prospers.
- (iv) Verse 15 - Glorify the Name of the Sustainer after each Prayer.

6. Conclusion :

Allah has created man and bestowed him the best faculties. He has sent his revelations to lead mankind to purification and perfection. His Laws of guidance are just, best and easy to follow. Therefore, man should glorify Allah and establish His Prayer.

SURA LXXXVIII — AL-GHAASHIYAH (OVERWHELMING CALAMITY)

1. Title :

The title of this Sura can be seen in its first Verse "Al-Ghaashiyah," meaning overwhelming calamity. This is the Day to be established by Allah to account the good deeds of the pious and the misdeeds of the impious believers as well as the misdeeds of the wrong doers. On that Day the wrong doers will know what calamity they are to face in the hell. Hence this title is most appropriate.

2. Constitution :

The 26 Verses of this Sura consist of 92 words which contain 381 letters.

3. Revelation :

It was revealed at Makkah as ever-lasting warning to the disbelievers about the Last Day. Therefore, it has also been placed in the last Part and last Division (Manzil) of the Holy Quraan.

4. Objectives/Message Context :

The basic objective of this Sura relates to three basic articles of faith:

- (i) Tauheed (Oneness/singularity/Unity of Allah) ;
- (ii) Risalat (Prophethood of Muhammad S.A.W. as the last Messenger of Allah), and
- (iii) Aakhi-rut (Last Day).

- (A) Verses 1 to 7 describe the calamity for the disbelievers and the sever penalties to be awarded to the wrong doers Hereafter. The believers who remain pious will be sent to Paradise
- (B) Verses 17 to 20 put forth the example of the camel as a strange creation of Allah, so beneficial to man. The earth treasures provide food for thought for the power of their Creator Who is the only being worth worship.
- (C) Verses 21 to 26 describe the duties of the Holy Prophet, S.A.W. to convey the Message of Allah

5. Significant Verses :

- (i) Verses 1 and 2 - The state of the overwhelming calamity is known to the Holy Prophet S.A.W. Many faces (of all the disbelievers and wrong doers) will be humiliated on that Day).
- (ii) Verses 17 to 20- Look at the camel. How it is in its shape (but is so useful) How the sky has been raised high and the mountains have been fixed firm? How the earth has been spread out for human benefits? Therefore, all men should remain grateful to Allah

6. Conclusion :

This Sura describes the fate of the evil doers and the rewards of the good ones on the Day when the true balance will be established to measure every one's accounts. The impious will be punished but the pious will rejoice.

SURA LXXXIX — AL-FAJR (EARLY MORNING PRAYER)

1. Title:

The title of this Sura "Al-Fajr" is its first Verse meaning THE day break. It is the 'Salaat (Muslim Prayer) timing before sun-rise as the early morning Prayer of Muslims. This is most important 'Salaat providing day long spirituality. Allah assigns the 5 times Muslim Prayers a prime importance. But the Fajr Prayer is the most healer and virtuous of all. Therefore, this title shows its such an importance.

2. Constitution:

The 30 Verses of this Sura consist of 139 words containing 597 letters.

3. Revelation:

It is also a Makki Sura revealed during the period when utmost cruelties were committed against the Holy Prophet (S.A.W.) and the early Muslims by the disbelievers, infidels and idolators of Makkah.

4. Objectives/Message Summary :

The basic objective of this Sura is to console the have-not early Muslims, subjected to desperate and terrorist killings and tortures by the Makkah pagans. Severest torture was inflicted on pioneer Muslims by the idolator disbelievers on the behest of idolator Quraish leaders of Makkah, to finish Islam in its infancy. Allah Almighty assures real success to Muslims as ultimate Divine bestowment is reserved for pious, straight-forward and the sincere believers. The ferocious disbelievers are destined to fail despite of their being super powers.

- (A) Verses 1 to 5 present the top assurances of Allah Almighty in the name of His dearest phenomena of Fajr to state the universal truth. Allah by such Divine truths wants to assure Muslims His ways and means of conferring to them success over the disbelievers.
- (B) From Verse 6 to 14 the catastrophic end of the cruel disbelievers and wicked people has been described. The so called super powers of their own period, are surely to face ultimate destruction if they indulge in exploitation, injustice and cruelties to human beings. Such

evil, unjust, miscreant and satanic forces will go on opposing the march of Islam and pious system of Muslims in all ages. But if the Muslims remain steadfast they will achieve the real success

The best religio cultural, the perfect politico-judicious and the profound socio-economic system of the Holy Prophet S A W and his companions is the only savior a just human survival with peaceful co existence. The downfall of evil forces against Islam is imminent for which Muslims must continue to struggle as united force.

- (C) Verses 15 and 16 inculcate Muslims to be always thankful to Allah in all circumstances.
- (D) Verses 17 to 19 prescribe just attitude for the down trodden.
- (E) Verses 20 to 27 explain how on the Day of Judgement the unjust and evil doers will be punished.
- (F) Verses 27 to 30 describe the state of contented self of a man achieving success against the inordinate or the repentive selves. Allah guides human beings to achieve His highest honors becoming His purest, sincerest and dearest believers.

5. Significant Verses :

- (i) Verses 1 - Al-Fajr (Prayer time before sunrise) is surely a most bountiful bestowment of Allah
- (ii) Verses 27 & 28 - The contented self (Nafs-ull-Muut-ma-innah) will be bestowed the best satisfaction to be well pleased with Rubb (the Sustainer).
- (iii) Verses 29 & 30 (The righteous selves) will enter the Paradise as the devotees of Allah.

6. Conclusion :

Human beings donot understand the contrasts of nature. They donot ponder upon their own life and donot care for their spiritual growth. The bounties of Allah must be recognized in humility. Pleasure lies in sincere remembrance of Allah Almighty.

SURA XC — AL-BALAD (THE CITY)

1. Title:

The title of this Sura "Al-balad" has been derived from its first Verse. It means the City of Makkah-tull-Mukarrama. It is dear to Allah as it was founded by His sincerest friends Hadhrut Ibraheem and Hadhrut Issmaeel A.S. 4500 years ago. This it is the oldest city of the world in its continued existence on the same site with Holy Ka'aaba and Zam Zam as the holy water, the same old and so abundant in all ages for multi-million people at a time. It is the birth place of the Holy Prophet Muhammad S.A.W. It is the citadel as symbol of unity of all the Muslims on the globe for all the times. Ka'aaba is the holiest house of worship kept in view in every Prayers by all the believers, everywhere. The fifth pillar of Islam - Hajj - Pilgrimage - is performed here with halt at Aarafaat. It is a city of universal peace and Divine tranquility. Since this is a great city with its 4500 year old traditions spiritually linking humanity with Allah Almighty, therefore, the nomenclature of this Sura has been adopted in its title as the Ommull Qora - the mother of cities.

Adam A.S. received bounties of Allah on its Jabal-lurr-Rahmah (Divinely bestowed mount adjacent to Makkah) and he was made father of man on earth from here while getting together with his life mate, the mother of mankind Hadhrut Eve A.S.

The entire humanity is to be gathered in its Valley of Aarafaat on the Last Day. This Valley becomes the centrifugal of world Muslims fraternity for annual Hajj on 10th Zil-Hajj (Arabic lunar month) as a great symbol of mankind unity without discrimination to prejudices of color or culture or race. Due to this importance the title of this Sura is Balud

2. Constitution:

The twenty Verses of this Sura consist of 82 words which contain 320 letters.

3. Revelation:

It was revealed by Allah upon the Holy Prophet S.A.W. in Makkah-tull-Mukarramah, the mother of cities and the centre of Islamic Culture. It was revealed at a time when the Holy Prophet S.A.W. openly started to criticise the misdeeds of the Makkan elders and Quraish leaders as directed by Allah.

4. Objectives/Message/Summary :

This Sura reveals that real success is in piety, self-education to achieve sincerity, faithfulness and purity by Islamic practices. The Muslims will have to achieve highest standards of piety establishing just society to attract humanity with sanity to come to the folds of Islamic fraternity.

- (A) Verses 1 to 3 are the Divine assurances to state a great truth. Allah assures humanity in the name of the great citadel Makkah where the Holy Prophet S.A.W. was born as His Last Ideal. Then Allah keeps so dear the torturous state in which the Prophet S.A.W. preached Islam in this city. Allah also states certain facts in the name of Prophet Adam, A.S., as the father of all mankind to Divinely inculcate human beings to come to the folds of Islamic system.
- (B) After these superlative assurances Allah states in Verse 4 the great fact of human creation. It is the design of Allah and the basic duty of each human being to work, work and work hard with toil and trouble in this world to achieve best products out of soil and the natural resources to get standard services by sweat of brow. The commodities utilities and amenities are Allah's bounties but only if achieved after honest hard labour by sweat of brow. Therefore, Islam has laid down highest welfare coverage to the workers. Islam fixes profound labour standards for achieving perfect social justice as directed by Allah in the Holy Quraan and practised by the Holy Prophet S.A.W. and his companions. Hard work is in the nature of man. Thus Verse 4 of this Sura in the year 615 A.D. lays down the work standards much superior to that of the ILO (International Labour Organization, established in 1939 A. D). All the Prophets labored hard. The Holy Prophet S.A.W. adopted all the lowest and the highest skills of labour right from grazing, involving least skill with least wages, to the reconstruction of his Masjid-e-Nabwi in Madina-tuur-Rasool, alongwith its sanitary baths, as his last labour (today involving highest skilfulness with highest wages).
- (C) Verses 5 to 17 give the Divine comparison of the misdeeds of the disbelievers to be penalized on the Day of Judgement and the pious deeds of the believers to be rewarded after Resurrection. Therefore, the Sura assures Muslims best results, if they continue to follow the best model of the Holy Prophet Muhammad S.A.W.
- (D) Verses 18 to 20 make comparison of the good deeds and misdeeds of the right hand pious people and left hand adamant individuals. In the twentieth century the political economists coined such terms as the leftist and the rightist to describe the social and economic exploitation of man by man. The capitalists call themselves as right wingers but are dubbed to exploit workers. The have nots, being exploited for their hard labour, call themselves leftists. But Islamic ideology is based on, piety, honesty and socio-economic sagacity with mid of way mixed economy. Only the righteous rightist will get reward on the Day of Judgement. The leftists in Islam will be those who, whether believers or disbelievers, commit misdeeds, exploit others, are dishonest and sinful to deprive others from their rights. They will be thrown in the hell.

5. Significant Verses :

- (i) Verses 1 to 3 - The sacred city (Makkah as the birth place of the Holy Prophet S.A.W.) has great signs of Allah. The Holy Prophet is the best all times model of Allah from this (great) city. His parentage is the best. He is (greatest) person of purest nature.

- (ii) Verse 4 - The man has been created for toil and struggle (to work hard).
 (iii) Verses 17 & 18 - Companions of the right hand are the believers who remain patient. They enjoin others to remain patient and adopt piety.
 (iv) Vers 19 - Rejectors of the Signs of Allah are the people of left hand (to get punished).

6. Conclusion :

The Holy Prophet S.A.W. born in Makkah, the mother of cities, belongs to best parentage. The man is born to work hard with personal choice to adopt good deeds to get reward. The men who reject righteousness will face the fire Hereafter.

SURA XCI — USH-SHAMSE (THE SUN)

1. Title:

The first word of the first Verse of this Sura gives it title as "Ush-Shamse"- the sun. Sun is the source of atomic, nuclear, oil, gas and all types of natural energy. It is the basic source of light to give life to all the creatures. therefore this Sura is in the name of sun to state the great facts.

2. Constitution:

The 15 Verses of the Sura consist of 54 words which contain 247 letters.

3. Revelation:

The Sura is a Makki revelation upon the Holy Prophet by Allah providing most objective inculcations about functioning of the human self.

4. Objectives/Message/Summary :

This Sura presents scientific analogy and objective reasoning about functioning of the psychology of the human self in human actions and reactions. The state of human self in gentleness and crookedness has been explained. Self purity leads a person to piety and inner sincerity leads to honesty. Impacts of inordinate self leading a person to imperfection and impurity of mind paving the way to dishonesty have been explained in psychological analysis.

Individual, social, applied and clinical psychology analysis about human mind have been projected in Verses 7 to 10 with different stages of the functioning of human self.

To explain this unpredictable but scientific phenomena of human behavior Allah Almighty has assured the truth of this fact by his 10 master piece creations in Verses 1 to 7. These are the sun, the sun-shine, the moon, the day light, the night, the sky, the sky Maker, the earth, the Being Who spread the earth as well as the human self itself.

The Holy Quraan classifies human self as :

- (i) The inordinate self-Nafsull Ammara-the self instigating a person to be deviant;
- (ii) The repentive self-Nafsull Lauvama-the self making a person to feel dejected after doing wrong deeds; and
- (iii) The contented self-Nafsull Muutma-inna—the righteous, pious and saner self.

All the human misdeeds, omissions or commissions emanate from the inordinate self from within a person (even if motivated, swayed, allured, goaded or forced by external forces). All the pious deeds, good actions and honest deals are the products of saner self. The highest self of pious, straightforward and righteous people is the contented, patient and dependent self of the friends of Allah. Its highest form is achieved by of the Prophets. All these situations of human self are activated by personal capabilities or inactivities of a person.

Verses 11 to 15 deal with the arrogance, excesses, cruelties, boastfulness, superiority complexes and injustices of a super power of the past—the unjust nation of the Samood (Thamood) people. They were a boastful nation who demanded from their great Prophet Hadhrut Saleh, Alyhe Salaam, a very strange miracle to create a she camel out of stones of a

mount. This miracle was made a reality, conditionally. To maintain this supernatural creature Allah directed that adamant nation to allow this she camel to drink water on a fixed day. But the boastful Samood nation did not follow it and could not control their selves and were perished. This is a lesson to the similar cruel, boastful and unjust people. Allah does not care for such people who claim to be super powers but do not keep self-control and commit injustices to others.

No community control, social defence, legal force or codal sanctions can play any effective role to keep a person out of anomie, disapproved, illegal or criminal acts. It is only the inner self of a person which can provide self-defence against delinquent acts, crimes and anti-social activities by maintaining a righteous stance with piety.

5. Significant Verses :

- (i) Verses 1 & 2 - Sun has the (glorious) splendor and the moon follows it (to benefit the universe).
- (ii) Verses 7 & 8 - The self (of human being) is perfectly proportionate and best in order. Every one has full sense of right and wrong.
- (iii) Verses 9 & 10 - Whoso keeps it (self) perfect succeeds but he fails who corrupts it.
- (iv) Verse 15 - The (wrong doers) have no fear of the adverse consequences (of their wrong deeds).

6. Conclusion :

Men of good nature achieve due to their profound spirituality by purity with personal responsibility. Those who loose piety will face penalty Hereafter.

SURA XCII — AL-LYL (THE NIGHT)

1. Title :

The title of the Sura is based on its first word "Al-Lyl" used in the first Verse, meaning the night, a very important natural phenomenon for fixed daily human resting and agricultural products ripening, sweating, maturing and preservation. This herein indicates each night of the Holy Prophet S.A.W. full of his spiritual liaison with Allah by his sincere worship to Him.

2. Constitution:

21 Verses of this Sura consist of 71 words containing 310 letters.

3. Revelation:

It was revealed at Makkah by Almighty Allah upon the Holy Prophet S.A.W just in sequence to the previous Sura.

4. Objectives/Message Context :

(A) In Verses 1 to 3 of this Sura Allah assures in the names of the universal facts of dark night followed by the day light and in the name of the Creator Who gave birth to male and females, human and non-human as well as the animate and the in-animate creatures.

(B) Verse 4 states the fact that the man has been created for hard labour and continued struggle.

Verses 5 to 7 indicate the net result of pious struggle of each person in the right direction to earn honest livelihood. Such person goes ahead with sincerity to achieve righteousness and piety as a pattern of his/her individual psychology in the society in expected manners with honesty. Such ones also spend their honest earnings in the Name of Allah and will continue to be faithfully pious. Only such righteous people will achieve Divine success with Almighty's help.

(C) Verses 8 to 11 describe the attitude of the misers whom Allah bestows riches but they do not spend in His way to help their fellowmen as Allah's creature. Such ones will be thrown in the hell.

Verse 12 clarifies that guidance to achieve righteousness comes from Allah but human beings have a free choice to accept it and get exalted.

(D) Verses 13 to 21 explain that the Last Day is known only to Allah. On the Day of Judgement it is He to award punishment to the wrong doers and reward the righteous, as His Divine prerogative. But His justice process will be solely based on the just accounts of the pious deeds of the righteous and the misdeeds of the sinfult.

5. Significant Verses :

- (i) Verses 5 to 7 - Whoso is charitable and fearful (of Allah) and sincerely testifies the truth will get the bliss.
- (ii) Verse 8 to 10 - Whoso is greedy and miser but thinks to be self-sufficient and tells lies will end-up; in miseries.
- (iii) Verses 18 to 21 - Who spend (in way of Allah), increase in self-purification, they donot expect any favors from anyone, except to see the profoundest countenance of Allah. They will attain real satisfaction Hereafter.

6. Conclusion :

Human beings should learn lesson from the contrasts of the day and the night, the good and the bad deeds as well as the righteousness and crookedness. Those who strive and adopt the path of Allah get spiritual achievements to full satisfaction.

SURA XCIII — UD-DHOHAA (THE EARLY DAY LIGHT)

1. Title:

The title of this Sura has been derived from its first word "Dhohaa" meaning the early day light or the pre-sunshine day break glorious occassion. Dhohaa is also the great characteristic of the Holy Prophet S.A.W. who came as a Divine light to remove the darkness from humanity.

2. Constitution:

11 Verses of this Sura consist of 40 words which contain 172 letters.

3. Revelation:

This is an early Makki Sura revealed by Allah upon the Holy Prophet to Divinely assure him the continuity of increased bestowments of Allah with abundance for all times after the Day of Judgement. Until he occupies the highest echelon of Muqaam-e-Mehmood (the most exalted Divine seat).

4. Objectives/Message Context :

During the Makki period of preaching of Islam by the Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alyhe Wassallam-S.A.W. he became sick due to hectic struggle of projecting the truth of Islam with utmost use of his faculties. Allah's Tauheed (Oneness) adopted by the monolithic religion of Islam was presented to educate, inculcate and motivate Makki pagans, infidels and disbelievers day and night to Divine light. He thus fell sick. He was so tired that as a compulsory rest he could not rise early for a few days. He also could not receive the Divine revelation of the Holy Quraan from Allah Almighty for some time. It was to impress him that it is not his duty to be so worried to make everyone Muslim within a short period. He was too much worried that he could not bring all the pagans to the fold of one Allah. But it is only the bounty of Allah that some one adopts faith.

By stoppage of revelation the Holy Prophet, S.A.W. was also assured that Quraan is the bestowment of Allah to him (S.A.W.) in bits according to its urgency. It is not what his mind evolves. It is purely the revelation of Allah with justification for each occassion according to situation.

Some of the evil minded, satanic natured and devil designed miscreant infidels started to propagate that the Holy Prophet S.A.W. has been left alone by his Allah to face miseries, disgust and dejection for his totally new concepts rejecting the pagan faith. This Sura clarifies that position under Divine assurance that Allah is always with the Holy Prophet S.A.W.

5. Summary of Text :

- (A) Allah's assures that His highest temporal creation is the dawn, full of sunshine to usher-in the hectic daily human activities. Allah also assures on the name of the night which brings to the tired human body soothing rest in tranquillity. Some companions of the Holy Prophet S.A.W. say that this night so dear to Allah may be the greatest night of ASSRAA (Great Ascension of Holy Prophet for Divine guided inspection of the entire universe in few moments of that night.
- (B) Divine assurance of Allah Almighty being so Kind to His last ideal Messenger with His all the Divine Graciousness maintains that Allah can never leave alone His beloved Prophet being His perfect model for entire humanity to Eternity. He being the Most Affectionate Allah never can be angry with His great Prophet who is also His Rahma-tull-lil-Aalameen - the Divine Blessings for the entire universe.
- (C) Allah has prescribed greatest honors and utmost abundance for the Holy Prophet S.A.W. to grow in personal respectfulness day by day. This is true to this day that despite of toughest 20th century Western enmity and severest anti-Muslim propaganda the respectfulness and love of the Holy Prophet S.A.W. as Fakhr-e-Aadam (Pride of Aadam) grows on. He is assured by these Verses the spread of Islam world-wide. On this Divine assurance the Holy Prophet S.A.W. authentically stated that until the light of Islam is received by entire humanity the Last Day will not take place.
- Every tomorrow of the Holy Prophet (S.A.W) is better than today for his exaltation in Allah Almighty's estimation till he occupies the highest seat of Muqaam-e-Mehmood in the Paradise in Eternity after the Day of Judgement.
- (D) The fact about the acute deprivation of Holy Prophet S.A.W. has been related being an orphan by birth. His father Hadhrut Abdullah died four months earlier to his birth. Abdullah was bewtowed by Allah to his father after sacrifice of 100 best priced red camels. He was the beautiful dearest and youngest son of the Quraish chief Hadhrut Abdul Muatalib. When the Holy Prophet S.A.W. was six years old his so great and so dear mother Hadhrata Aamina also died. When he was 8 years old his most respected and so loving grandfather Abdul Muatalib also died. Here Allah says that he was given Divine socialization and spiritual acculturation to make him (S.A.W.) great unlettered Prophet bestowed with the depth of knowledge to the greatest. Being an orphan of total deprivation he was made the most respectful Prophet by Almighty Allah. To Muslims he is next to Allah in respect in the Universe.
- (E) Verse 7 has often been wrongly translated and misinterpreted by many scholars as if the Holy Prophet (S.A.W.) was astray and Allah showed him the right way. All the Apostles, Prophets and Messengers of Allah are righteous, pious and on the straight path, being innocent by birth. The Holy Prophet is Imaam-ull-Ambia (who lead the Prayer of all the Prophets at Bytull Maquduss under the white dome in Jerusalem. He was never astray or wrongly wandering or the one who lost his way. The Holy Prophet S.A.W. was so anxious to get earliest communication with Allah. He was bestowed the same to exalt him so high amongst all the Prophets with highest honor increasing all the times herein and Hereafter.
- (F) The Holy Prophet S.A.W. as a youth in his prime age of 25 years became richest being an acute orphan. His marriage, on her option, to Hadhrut Khudijah-tull-Kuubra A.S., being the richest commercialist lady of the land, made him the richest of the Quraish due to his own efforts to manage her trade. She initially inducted him as her sales manager being the most honest and straightforward young man before his marriage to her. He ultimately became the Managing Director of all her riches. Thus a poorest but most pious youngster became the richest commercialist in a few years. His wife allowed him to spend all these riches for the welfare of the have nots, down trodden and poor people as much of it was his (S.A.W.) self added. Nothing was left in the next 15 years for his humanitarian spendings.

When he was bestowed from Allah the greatest honor of Last Prophethood at the age of 40 years of maturity he had left no penny.

- (G) **Social welfare coverage** by profound social security measures for the downtrodden, orphans, have nots and poor is the real bases of religion of Allah. This is how someone can remain thankful, grateful and indebted to Allah as Divine bestowed pious Muslim. To become so dear to Allah is by profound community services by spending from the riches bestowed by Him as it is the real boon.

Best way lies in the spiritual highness. Allah has bestowed on the Holy Prophet S.A.W. so many bounties and such a greatness that he surpasses everyone in the universe. Allah made him so highly respectful that he achieved His nearness in super ascendance in the famous Assraa. All the previous Prophets had to undertake a covenant to help Muhammad S.A.W. as the greatest last Prophet of Almighty Allah and believe in his such Divine exaltation in this world. His spiritual highness on the Day of Judgement will be so honored that every past Prophet will be worried about his own accounts before Allah but Muhammad S.A.W. will be Divinely bestowed to seek pardon for all the human race, when Resurrected for final accounts on the Day of Judgement. He will be the spokesman of the entire humanity to submit to Allah to establish the awarding and rewarding on the Day of Judgement taking accounts for their misdeeds and good deeds on great scales of justice of Almighty Allah.

- (H) Always express thankfulness Allah very openly and offer gratefulness to Him proclaiming indebtedness the Rubb, the Sustainer, the Cherisher and the Nourisher for His so unlimited bounties to everyone.

Sura "Dohaa" indicates on the one hand the deprivations of Holy Prophet S.A.W. and on the other the Almighty's exaltations for him S.A.W.

6. Significant Verses :

- (i) Verse 1 - (The Holy Prophet's) glorious light (associates mankind to Allah).
- (ii) Verse 3 - Allah is always with the Holy Prophet S.A.W. and always very bounteous to him;
- (iii) Verse 4 - The tomorrow of (the Holy Prophet S.A.W.) is better than his glorious to-day.
- (iv) Verses 7 & 8 - (The Holy Prophet S.A.W.) had excelled so much in the love of Allah that He bestowed His best glories on him. Allah found him in His great love and made him the richest (in his spirituality).
- (v) Verses 9 to 11 - Never treat the orphans with harshness. Never repulse the needy and the have nots. Always be grateful for bounties of Allah.

7. Conclusion :

This Sura starts with bestowments, bounties and glories of Allah to His Holy Prophet S.A.W. assuring him the day by day enhanced respectfulness and increased number of the followers of Islam in the world. His endeavor is most successful. Every believer must be philanthropic with the orphans, the poor ones and have notes. Gratefulness to Allah is must for everyone.

SURA XCIV — ALAM-NASHRAH (THE EXPANSION)

1. Title :

The title of this Sura has been derived from the 2nd word of first Verse "Nashrah" meaning expansion or opening forth of heart of the Holy Prophet S.A.W. to be the Rehmatullil-Aalameen for the entire creature of the universe.

2. Constitution :

The 8 Verses of this Sura consist of 27 words which contain 103 letters.

3. Revelation :

This is a Makki revelation of Allah upon the Holy Prophet S.A.W. The heart of the Holy Prophet S.A.W. was Divinely expanded to bestow him Allah Almighty's highest exaltation. It was a super natural but oral open heart Divine exaltation.

4. Objectives/Message/Context :

The Holy Prophet Muhammad S.A.W was very much concerned to persuade the pagan, infidel, idolator and polytheist Makki people, to motivate them to the Oneness and the Unity of Allah. He always desisted them from idolatry. His heart was always throbbing to cleanse the Holy Kaaba throwing out 360 idols worshipped there-in. A heart filled with Unity of Divinity, Oneness of Rubb and the monolithic worship of Allah only is the basis of Islamic faith. For this purity of faith the Holy Prophet S.A.W. faced total boycott, social rejection and acute dejection with severe enmity by his own kiths and kins. But he continued day and night his Quraanic preaching and Islamic inculcation. With utmost struggle to bring all human beings in the folds of Allah's religion he was rewarded the nearest and dearest Prophet of Allah. Therefore his, modality is the basis of piety to Eternity. All the Muslims pay tributes to him submitting to Allah to bless and exalt him for his greatest service of spreading with utmost sincerity Allah's religion to the humanity with dignity.

His profoundest personality is most beneficial to the humanity in the entire human history.

(Even the anti-Muslim but great Christian Scholars like Dr. Michel Heart, Drink Water, Charles Issawi, Draper, Bestworth Smith and Hitti, eulogise his great influence and service to humanity to evolve equitable just social order as a super-human. He remained a most successful simple commoner but is the greatest model of simplicity in the entire human history. His best contribution to the mankind is the establishment of peaceful society full of Divine sanity. Encyclopaedia Britannica, Encyclopaedia Americana and the Encyclopaedia of Religions and Ethics also say that a billion Muslims all over the world with full respect utter the name of Muhammad S.A.W. along with the Name of Allah with love and inner sincerity. His personal is so glorious and source of blessedness that it is part of Muslim Kalma Ty-yaba and Kalma Shahadah which they utter each day with reverence. No prayer can be offered without submission to Allah for His blessings on Muhammad S.A.W. Muslims pay him their homage as the Pride of Adam billion folds daily. More than a billion pages appreciate him which no one in the entire history could attain.)

5. Summary of Text :

- (A) Allah says in Verses 1 to 4 of this Sura that his (S.A.W.) status will remain exalted for all times to come. Verses 5 and 6 present Divine truths that every spiritual task is always most difficult which when fulfilled gets great appreciation with greater reward.
- (B) Verses 7 and 8 desire the Holy Prophet S.A.W to keep high the daily remembrance of Almighty Allah as He has exalted him the highest amongst all the Prophets. The Quraan wants that the hands may do the usual job but the heart should beat to remember Allah with Divine throbs. This was inculcated by the Holy Prophet S.A.W. with his self model to the Muslims in pursuance of this Verse.

6. Significant Verses :

- (i) Verse 1 - Allah has given a great heart to the Holy Prophet S.A.W. (so accommodative, very open and sympathetic to all human beings) friend or foe.
- (ii) Verse 4 - The universal esteem of the Holy Prophet S.A.W. is daily raised to the highest peaks.
- (iii) Verse 8 - Keep all your attention to your Rubb (Sustainer) to remain bounteous.

7. Conclusion :

Allah assures in this Sura that the Divine bestowments to the Holy Prophet S.A.W. will always enhance as he is not only the greatest Messenger but most loved Prophet of Allah. The darkness and difficulties in the Islamic preachings will be surmounted. His glory is exalted high which will go on to be the highest. Everyone should look towards Allah for fulfillment of good desires.

SURA XCV — UT-TEEN (THE FIG)

1. Title :

The title of this Sura has been derived from word 1 of Verse 1, as "At-Teen" meaning the "Fig", as a symbol. The fig is the fruit so liked by the Holy Prophet (S.A.W). This is the health giver fruit which is most healing for many diseases. Therefore, Allah has selected Ut-teen as title of this Sura to make body health balanced with best calory light food for perfect spiritual health of a faithful.

2. Constitution :

Eight Verses of this Sura consist of 34 words which contain 105 letters.

3. Revelation :

It is purely a Makki revelation of Allah upon His Last Messenger, although some of the companions of the Holy Prophet S.A.W. say that it was revealed in Madina-turr-Rasool to repeat its most important contents for social order there.

4. Objectives/Message Context :

Allah Almighty explains in this Sura the genetic and the socio-psychological facts about the best nature of mankind as crown creation of Allah. If they remain believers, act piously and continue to be straightforward their such status with best-stature will stand good. Their credits will continue to increase here-in and even in their graves if they remain righteous. But if anyone retracts from the truthful religion then such ones will be dealt with accordingly leaving them to be low than worst beasts.

5. Summary of Text :

- (A) Allah Almighty has taken the truthfulness of the most useful fruits, eatable and sacred flaces as His good signs. Fruits so dear to the Holy Prophet Muhammad S.A.W. become Allah's symbols. The Mount Toor on Prophet Moses A.S. received the Shariah of Torah which has been made so sacred in Islam. Allah states a great fact in the name of the great city Makkah-tull-Mukarrama, the Ommull Qura (mother of cities) as the all time cradle of human unity for Ka'aaba providing universality of Oneness of Allah Almighty. Here the Holy Prophet S.A.W. was born. It is here that two third Divine revelations as fundamental Islamic legislation were revealed. It may also be Madina-Turr-Rasool where executions, implementation and practices of the Quraan were adopted as Allah's trust for societal order of Madina-e-Munawara, where the Prophet Muhammad S.A.W. now rests under full blessings of Allah, all the time receiving Almighty Allah's blessings with salutations of His Angles joined by All Muslims salutations round the clock, daily also a city of great trust of Allah alongwith Makkah Mo-azzamah.
- (B) Human being is Allah's crown creation with best nature on profound stature. Human beings also excel in Divine honor amongst all the creatures. Thus according to the Holy Quraan man is not at all born criminal. Aadam A.S had never a fall, as he was in the Paradise where no wrong doer can stay. He was also the father of man and the first Prophet. He was the Vicegerent of Allah who could commit no wrong. Therefore, he never had any fall and never sinned us all.
- (C) Individuals who loose such piety are condemned being the lowest of the low animals. The people who believe and act righteous are entitled to highest credit from Allah Almighty.

Those who falsify the religion of Allah actually challenge the Divine power and His supreme authority. Such people definitely will have a very disastrous end.

6. Significant Verses :

- (i) Verse 1 - Allah keeps so dear the fig and the olive (as delicious eatables of the Holy Prophet S.A.W).
- (ii) Verse 4 - Surely man has been created with best nature on profound stature.
- (iii) Verse 5 - The (human beings) are thrown to the lowest of the low as animals (due to their wrongs).
- (iv) Verse 6 - The people who believe and do the righteous deeds will get the unlimited rewards.

7. Conclusion :

Allah has created man with best nature in the best stature as His crown creation. Man can throw him/her self in the worst degradation. Only faith, piety and righteousness can lead him/her to real success.

SURA XCVI — IQRA' (READ)

1. Title :

The title of the Sura is "Al-Alaq", which means the clot of blood made by nature in the mother womb to form the child shape. The Sura also has the 2nd title of "Iqra", which means read or recite. This 2nd title is very famous to make the religion of Islam the cradle of learning by reading and writing, research and advancement.

2. Constitution :

Nine Verses of the Sura consist of 92 words which contain 280 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed upon the Holy Prophet by Allah at Makkah. Its first 5 Verses are the initial Verses revealed to the Holy Prophet (S.A.W.) in the cave of Mount Hira out side Makkah establish the great importance of education in Islam from its start.

4. Objectives/Message :

The consensus of the companions of the Holy Prophet, S.A.W., about first five Verses of this Sura with the word "Iqra" and "Qalam" (the pen) is that these are the first and the foremost Verses of the Holy Quraan which make Islam the only religion that attaches great importance to reading, reciting, writing, thinking and discussing. The word Quraan itself means repeated reading and reciting. Thus reading and writing are basis of Islam. Piety, righteousness and sanity can be achieved early by profound literacy. There is no book in the world which is so repeatedly read except the Holy Quraan which is being read billion times daily by its different chapters in all parts of the world today. There are more than three million Huffaz-e-Quraan around the world who have memorized it by heart. They daily recite it instantly. At least half billion Muslims utter its many Verses daily. As such the word "Iqra" and the title "Quraan" attach greatest importance to education and learning by reading and writing because human respect lies in these capabilities. Human dignity, prosperity, affluence and advancement are possible only by high rate of literacy of a nation in the world to-day.

Colonialists have long been exploiting most Muslim nations under their foreign rule. Thus the Muslims have still not practically implemented first word of first Verse of the Holy Quraan as revealed to the Holy Prophet Muhammad S.A.W. Most Muslims are illiterate, poor and non-practicing faithfuls. A smaller Muslim country like Malaysia, though least bestowed with natural resources, is now an Asian economic tiger due to education and technicalization with their full faith in Islam as practical Muslims. Islamic Republic of Iran is try to achieve maturity in Islamic socio-economic change. Bosnia also may follow after war disaster rehabilitation. So Quraan teaches Muslims to be egalitarian, progressive and advance with knowledge and learning but remain patient, pious and peaceful.

5. Summary of Text :

- (A) Almighty Allah demands reading in the name of His being Rubb (Sustainer), Who is the

- Creator of the Universe. Thus education is compulsory for Muslims.
- (B) Man was created from blood-clot which came into being from sperm sprout of mean value. From this nothingness man was bestowed mastery over all the creatures. Most powerful elephants on land and mighty whales in sea as well as the moon in the upper atmosphere are under human exploitation to peaceful advancement.
- (C) The importance of education, learning and motivation by the great power of writing is obligatory in Islam. The gates of knowledge bestowed to mankind by Rubb (Sustainer), the most Magnificent, maintain human superiority in the Universe.
6. **Significant Verses :**
- (i) Verse 1 - Read in the name of Rubb (Sustainer) Who creates the man.
 - (ii) Verse 2 - Allah Creates the man out of clot.
 - (iii) Verse 4 - Allah teaches (man) by pen.
 - (iv) Verse 6 - Man transgresses all the bounds.
 - (v) Verse 7 - Man wrongfully considers himself as self sufficient (and ironically does not depend on Allah).

7. **Conclusion :**

This Sura contains the five initial Verses of the Holy Quraan by revelation which prescribe for Muslims continued education, technicalization and search for knowledge for advancement of mankind with justice, equality and best opportunity for every one's prosperity.

SURA XCVII — AL-QADR — (THE MAJESTIC NIGHT)

1. **Title :**

The title of this Sura has been derived from the last word of the first Verse as "Qadr" - the Majestic Night. This is the Divine Power night of great spirituality and bestowments of bounties of Allah. Allah initiated the revelation to the Pride of Aadam A.S., the Holy Prophet in this night of the Holy Month of Ramadhan. Therefore, it is the most glorious night. Hence the title of this Sura in its name, "AL-QADR" is most significant. It is Divine celebration of the Quraan annually for its bestowment to mankind that Allah confers His special bounties to His sincere devotees.

2. **Constitution :**

5 Verses of this Sura consist of 30 words which contain 112 letters.

3. **Revelation :**

This is a Makki Sura but some scholars say it is Madani revelation.

4. **Objectives/Message Context :**

This Sura provides the pious Muslims a great opportunity from Allah Almighty during each Ramdhan-ul-Mubarak in the odd nights of its last ten days. Probably it is the 27th night of Ramdhan-ul-Mubarak in which the Holy Quraan was conveyed to the Holy Prophet as its first revelation, as most of scholars of Islam have researched. With full concentration and sincerity in worship of Allah Almighty man can get in this one night the credit of 1000 months worship with top spirituality. It is more than the longest average age expectancy of the most healthy, affluent and diligent people. This is the bestowment and the bounty of Allah Almighty for His perfect remembrance and worship by pious faithfuls.

There is a specific mention of three great nights in the Holy Quraan which fall each year :

- (i) **Lyla-tull-Qadr** : The most respectful night of Divine bounties (as the night mentioned in this Sura). It falls on 21 to 29th, (more specifically on 27th) Ramdhan-ull-Mubarik.
- (ii) **Lyla-tull-Assraa** : The great night of famous Ascendance of the Holy Prophet S.A.W. (Mairaaq) as in Sura XVII Verse 1 falling on 27th Rajab each year. It made him the pride of Aadam amongst all the Prophets.
- (iii) **Lala-tull-Mubarik** : The night of Divine bestowments as in Sura Najam (LIII). Most scholars say that it is another exalted title of Lyla-tull-Qadr falling

in Ramdhan-ul-Mubarik. But some scholars say that it is peculiar night of great significance which falls on 15th Sha'baan each year.

The Lyla-tull Qadr on 27th of Ramdhan has superlative bestowments of Allah as laid down in this Sura.

5. Significant Verses :

- (i) Verses 1 to 3 - We (Allah) have surely revealed the Holy Quraan in the magnificent night of Divine glories which is better than the worship of a thousand months.
- (ii) Verses 4 to 5 - In this magnificent night Angels and spirits come with special permission of Allah to confer Divine peace until the rise of the morning up to the Fajr Prayer.

6. Conclusion :

This great Sura of the Holy Quraan refers to the glorious night of Divine honor. It is magnificent and full of Divine bounties. It is so great that the revelation of the Holy Quraan upon the Holy Prophet was initiated in it.

This Sura commemorates the anniversary of the decendance of the Holy Quraan from the heavenly Preserved Tablets of Almighty Allah to the mankind guidance. Therefore, actually during this specific great night of Power the Angels lead by Arch Angel Jibreel come to bestow upon the pious people, the Divine Spirituality of highest bounties.

SURA XCVIII — AL-BY-YENAH (THE CLEAR EVIDENCE)

1. Title:

The title of this Sura has been derived from the word "By-yenah", meaning the clear evidence. Evidence is basic to establish any truth. Just adjudication has the basis on the clear evidence. Islamic justice system has its foundations on the eye witnesses true to the core and circumstantial evidence of fool proof truth. Allah revealed this Sura as clear evidence to establish the truth of the Holy Quraan, Divine sanctity of Islam and the ideal modality of the Last Messenger, the Holy Prophet S.A.W.

2. Constitution:

8 Verses of this Sura consist of 94 words containing 399 letters.

3. Revelation:

This is a Madani revelation. Some say it is a Makki Sura. But its address to Jews and Christians establishes that it was revealed upon the Holy Prophet S.A.W. by Allah in Madinat-turr-Rasool.

4. Objectives/Message Context :

The people of previous Books (Christians/Jews) have the true evidence in the form prophecies of Torah and Bible Gospel about Last Prophethood of Muhammad Sallallahu Alhye Wassallam and Divine truth of the Holy Quraan. The Holy Prophet S.A.W. has come with best laws of human welfare. He must be followed for peaceful prosperity of humanity for human co-existence without exploitation. The rhetoricians of Jews and Christian have been rejected. The Muslims have been advised to remain one and united. Sincere Prayer with obedience, upright deeds, piety and righteousness are Divine standards. The disbelievers will be punished but believers who do pious deeds will be credited with eternal bliss in Paradise.

5. Summary of text:

- (A) The passive attitude of the Christians and Jews to the perfect and the best system of the Holy Quraan is totally unjustified. The modality presented by the Holy Prophet S.A.W. by self practise is the profoundest to maintain a system based on pure justice.
- (B) The best rewards Hereafter to those who believe and adopt righteousness is assured.

6. Significant Verses :

- (i) Verses 2 & 3 - Prophet of Allah recites Scripture in which His Laws are so firm;
- (ii) Verse 5 - The religion of Allah is right and straight.
- (iii) Verses 7 & 8 - Righteous people are the best Allah is pleased with them. They are pleased with Allah.

7. Conclusion:

This Sura is a Divine evidence against the disbelievers to be condemned on the Day of Judgement. The people of the book (Torah and Bible) the Jews and Christians have been given a clear evidence about the truth of Islam as the last religion of Allah. The revelation of the Holy Quraan is the last Divine message and the Prophethood of Muhammad S.A.W. is the Last as final Messenger as written in these revealed Books. They should understand these truths about religion of Allah and come to the folds of Islam. Otherwise they will have to face the penalty Hereafter.

SURA XCIX — AL-ZILZAL (THE SHAKING)**1. Title :**

The title of the Sura "Al-Zilzaal", means shaking. It has been derived from its first Verse. It describes how dead human beings will be brought out alive on the Day of Resurrection by abrupt dreadful shaking of the earth.

2. Constitution :

This Sura has 8 verses which consist of 35 words containing 139 letters.

3. Revelation :

This is a Makki/Madani revelation.

4. Objectives/Message Context :

- (A) On the Day of Resurrection the earth will be shaken to bring out all the dead human beings to life to be accounted for on the Day of Judgement.
- (B) The good deeds of an atom's weight will be credited with reward and misdeeds of an atom's weight will be discredited to be punished. This is the Divine design of measuring piety and criminality of humanity in this temporary life here. Almighty Allah takes serious notice against the miscreants. Two Divine Accountsmen (Angels—Kiramun Katibeen) record the human actions to the minutest extent. The right side Angel records pious, righteous and good deeds to the extent that if an individual just imagines of piety or becomes remorseful of misdeeds even that is credited as good point. But if some one acts rightfully it gives him/her ten credits. On the other hand if some person has evil designs of his/her ignoble self to commit a misdeed nothing is recorded by the left side Angel, till such omission or commission actually takes place.

It is not the stars in the heaven or some supernatural force which shapes some one's fate forcing him/her to misdeeds or pious deeds but it is the inner-self of a person which operates to do noble or ignorable deeds. That is noticed by Allah to an atom's weight by minutest recordings by Divine recorders through automatic computations.

5. Significant Verses :

- (i) Verses 1 to 3 - When the earth will be shaken (on the Last Day) it will bring out all the buried human beings who will cry out alive what has happened to it.
- (ii) Verse 7 & 8 - All the pious deeds to an atom's weight and misdeeds of an atom's weight in respect of every person will be presented to everyone.

6. Conclusion :

This Sura basically lays down the principles of Islamic justice system wherein misdeeds of an atom's weight cannot be ignored. The corrupt practices, sins, evils, usurpation of rights of

others and wrongs of smallest nature are seriously recorded for award of penalty. Similarly good deeds, piety and righteousness of an atom's weight is recorded for credit on the Day of Judgement.

The Sura also describes the scene of the establishment of the Day of Resurrection to bring to accounts the good deeds and misdeeds of everybody on the Day of Judgement. This Sura seriously notifies human beings to remain pious, righteous and straightforward to be saved from punishment Hereafter.

SURA C — AL-AADIYAAT (THE ASSAULTERS)

1. Title :

Title of this Sura has been derived from first word of its first Verse "Al-Aadiyaat," meaning the assaulters. Allah Suubhana ho Wa Ta'aala (S.W.T.) highly appreciates the horses used in Jehaad to spread the truth of Islam. So great will be the Divine status of the faithful fighters to uphold the banner of Islam in such Jehaad. Thus title of this Sura is so appropriate.

2. Constitution :

11 Verses of this Sura consist of 40 words which contain 163 letters.

3. Revelation :

It is Makki revelation, of Allah upon the Holy Prophet S.A.W.

4. Objectives/Message Context :

This Sura expresses Divine appreciation for every force working to defend the pious system of Islam and assist in the establishment of the Nizam-e-Muustafa as the most judicious socio-economic order of the Holy Prophet (S.A.W).

5. Summary of Text :

- (A) Verses 1 to 5 praise the horses used in war to defend territory of the faithfuls or spread of truth of Islam. In Islamic Jehaad (fight against internal or external threat to defend system of Islam) horse power is used in battles against unjust people. Allah appreciates, the animal force used to defend and spread the truth of Islam. The Divine credits to the Muslims participating in such Jehaad will be so great.
- (B) Verses 6 to 11 point out how human beings become ungrateful to bounties of Allah. Such people will be frustrated when their rotten remains will be resurrected from their graves by Allah Almighty. Full accounts on the Day of Judgement will let them realize the truth of the religion of Allah.

6. Significant Verses :

- (i) Verse 6 - Surely the man is ungrateful to his Rubb (for the bounties He confers).
- (ii) Verse 8 - Man has great attachment and love for wealth.
- (iii) Verses 9 to 11 - When the men will be placed in the graves they will know what is the value of the bestowments of their Rubb (Sustainer).

7. Conclusion :

This Sura describes the Divine appreciation for every force, men and animals, which is deployed in the way of Allah to establish His pious system.

SURA CI — AL-QARI'AH (THE TERRIBLE CALAMITY)

1. Title :

The title of this Sura has been derived from first word of its first Verse "Al-Qariyah" meaning the thunderously devastating and terrible calamity.

2. Constitution :

11 Verses of this Sura consist of 36 words which contain 152 letters.

3. Revelation :

This is purely a Makki Sura of early period.

4. Objectives/Message :

This Sura explains the great calamity to take place on the Last day with dreadful thunder to perish everything. Human beings will totally devastate before establishing the Day of Resurrection to bring them alive. Then the Day of Judgement will be convened to take everyone's accounts.

5. Summary of Text :

- (A) Verses 1 to 5 reveal that a total disaster will take place after the thunderous and terrible calamity bringing total turmoil amongst the human beings. They with everything will scatter and then totally perish away. The mountains will be rendered into particles. Powerful, boastful and resourceful men and women will be cowed down by such catastrophic end and they will be altogether helpless, dejected and rejected on that Day. Everything along with the lofty mountains will be crushed to pieces, devastated and swept. Then Resurrection will take place.
- (B) Verses 6 and 7 assure that only those will get blissfulness of Allah whose good deeds outweigh their misdeeds. Those whose misdeeds will outweigh on the Day of Judgement will be condemned to face the punishment Hereafter.

6. Significant Verses :

- (i) Verse 4 - Human beings will be scattered like moths on the Day of Resurrection and then will be swept away.
- (ii) Verse 5 - The mountains will be made particles of wool.
- (iii) Verses 6 & 7 - Those whose balance of good deeds will be heavy will rejoice in pleasures.
- (iv) Verses 8 & 9 - Those whose weights of bad deeds will be heavier their end will be in the (pit of hell).

6. Conclusion :

This brief Sura, placed by the Holy Prophet S.A.W. with the Command of Allah in the last Part of the Holy Quraan, was revealed in the very initial stages. This Sura contains the principles of truthful Islamic Justice system. It educates, motivates and inculcates human beings to remain pious, righteous and straightforward in brief life here. The believers will be rewarded Hereafter on the Day of Judgement with enjoyments in everlasting life of Paradise, if they remain steadfast in piety and righteousness. This is the fundamental objective of Islam in this world to establish peaceful, pious and righteous society free from sins and the sinners, vices and the vicious people wrongs and the wrong doers as well as the crimes and the criminals, establishing crimeless social order.

SURA CII — UT-TOKAASUR (THE ABUNDANCE)**1. Title :**

The title of the Sura has been derived from 2nd word of its first Verse, "Ut-Tokaasur, meaning the abundance of wealth and children due to which many people become boastful. They forget Allah and project their riches as the lordships of the people.

2. Constitution :

The Sura has 8 Verses which consist of 28 words containing 120 letters.

3. Revelation :

The Sura is a Makki revelation of Allah upon the Holy Prophet.

4. Objectives/Message :

This Sura condemns the people who all the time amass wealth by hook or by crook using

all the uneven means of corruption and exploitation. They will taste its penalty not only in their graves but they will much severely be punished on the Day of Judgement.

5. Summary of Text :

- (A) The struggle for increasing wealth, properties, children, power, status and position should not be construed as basic objective of this life. Every one has to die and pass away leaving this worldly abundance here which will not be of any use Hereafter.
- (B) None can carry any thing in the grave and no riches will work after death. The only currency to work Hereafter will be the good deeds.
- (C) There are three stages to understand the Divine branches of knowledge which can assure a person that this temporary life has no value against the truthfulness of the everlasting life Hereafter. Divine knowledge has three stages :
- (i) **Ilmul Yaqeen :**
The surety by objective knowledge of the abstract things through perception.
 - (ii) **Aynul Yaqeen :**
Knowing the factual things by self-testing, empirical study and observation; and
 - (iii) **Haqul Yaqeen :**
Believing in the truth by knowing the facts with full insight as a part of belief.

6. Significant Verses :

- (i) Verse 1 - The piling-up of wealth, possessions, services and commodities divert the human attention from remembrance of Almighty Allah.
- (ii) Verse 2 - Process of multiplication of wealth is continued by greedy people till being confined to graves.
- (iii) Verse 6 to 8 - Such people will be thrown in the hell and will be questioned for what they have been doing.

7. Conclusion :

The Sura describes the administering of penalties, sufferings and pains to be faced in the next life for amassing wealth by uneven and corrupt means in this life. This will be realized only when such ones are buried and preliminary accounts in grave take place. Pious ones will be rewarded the bliss, delight, bounties and bestowments of Allah in the grave. Human beings must remain all the time thankful to Allah within this life for the best sustenance, providence and cherishment and subsistence from Allah. The pious means with spending in His way will lead to success. Only the gratefulness to Allah can make any person straightforward. Only equitable socio-economic and politico-administrative order of Islam can establish a peaceful, just and best society.

SURA CIII — AL-ASR (THE TIME)

1. Title :

This succinct Sura gets its title from its opening word "Al-Asr" meaning "the Time". Every thing is time bound in this world — the time of this universe is calculated from the sun rise to the sun set. But sun is also time bound by Divine Command. We have the time limits but Allah has the un-limited time. Hence the title of this Sura in the name of **time** is most appropriate.

2. Constitution :

Three Verses of this small Sura have 14 words containing 68 letters.

3. Revelation :

This Sura is a Makki revelation from Allah upon the Holy Prophet S A W

4. Objectives :

The companions of the Holy Prophet S.A.W and most of the high calibre scholars of Islam

are highly impressed by the brief text of this Sura being the Divine master-piece and charter of Muslim faith for the effective Islamic inculcation of mankind and practical motivation of Muslims. This is what Allah and His Holy Prophet S.A.W. expect from each individual to establish a pious society. It summarises how to practice 6666 Verses of the Holy Quraan and what should in nutshell be the practical life style of a Muslim to follow the Divinely moulded life pattern of the Holy Prophet Muhammad S.A.W. as a universal model.

5. Message :

The following are the messages of the this Sura to the entire mankind as all times universal truths :

- (i) Time is a Divinely set dead sure reality purely in the Control Authority of Allah. None can stop it. None can change it. None can adjust it to one's own advantage or for others' disadvantage;
- (ii) Human beings are losers for passage of the most precious time for not utilizing it according to the Will of the Creator;
- (iii) Only such persons take the advantage of this top Divine bounty of time who:
 - (a) believe in Allah, His Holy Prophet Muhammad S.A.W. and the Day of Judgement;
 - (b) act righteously, achieve Divine fixed standard of piety according to the Holy Prophet's modality and adopt truth, patience and endurance;
 - (c) enjoin others to be righteously truthful; and
 - (d) enjoin everyone to be patient and righteous.

The foundations of Islamic piety, straightforwardness, righteous-ness and truthfulness have been laid down in this last Part of the Holy Quraan, including this smallest but profoundest Sura. This conclusive lesson in this condensed form is for the entire humanity to Eternity. Every Muslim takes it as a special Divine order for personal application to be a good believer and pious Muslim with individual perfection. Thus the foundations of Islamic social order in nutshell can be visualized in this small Sura.

6. Summary of text :

- (A) In Verse one Allah gives the top assurance in the name of truthful Time that man has disadvantage of having no control on it. It may be the time consisting of 23 years of the preaching of the Holy Prophet S.A.W., being the best in the human history. We can construct this Time to be Almighty's own Magnificence in each moment. Time is a Divine witness that it is a continued reality to manage the Divine truths as daily facts. It also may be the Asr prayer of the Muslims before sun set, so dear to Allah. Therefore, we as Muslims must desist from abusing or loosing the time and space which are in no body's control. Rather it is time which controls the routines of every body and every creature under the daily schedule fixed by Allah.
- (B) Verse 2 states a Divinely tested fact that the human beings tend to fall in allurements leading to loss, decline and failure. These human failures are by self-choice, self-temptation, self-attraction and self-motivation.
- (C) Verse 3 lays down the Divine exception for some people. They are the people who have four basic characteristics:
 - (i) Their belief is perfectly all-right;
 - (ii) Their deeds are pious as prescribed by Allah S.W.T and practised by the Holy Prophet S.A.W.;
 - (iii) They enjoin others to follow the truth (standards of the pious life in Islam); and
 - (iv) They enjoin others to be patient and steadfast (in piety, sagacity, peace, and lawfulness).

The highest capability of a pious Muslim is to motivate others to piety, righteousness and honesty

7. Significant Verses :

- (i) Verses 1 & 2 - Allah assures in the name of time as its originator that definitely most men are in loss.
- (ii) Verse 3 - Only such ones are successful who are believers and righteous. They enjoin others to follow truth and remain patient. They keep constancy in truthfulness.

8. Conclusion :

This brief Sura is the most comprehensive character builder for every Muslim as a condensed charter of Allah. Allah Almighty makes belief with action obligatory for human piety to establish a straightforward Muslim society.

SURA CIV — AL-HOMAZA (THE SLANDERER)

1. Title :

The title of the Sura has been derived from the word "Al-Homazah" in its first Verse meaning the slanderer or backbiter. Back-biting and slandering are the worst human habits of eating flesh of man by man severely cursed by Allah S.W.T. and His Holy Prophet S.A.W. These bad habits must be desisted as Divinely rejected human negativism. This is merely an adverse system of the man against the man.

2. Constitution :

The 9 Verses of this Sura consist of 30 words which contain 130 letters.

3. Revelation :

This Sura is a mid Makki period revelation of Allah upon the Holy Prophet S.A.W.

4. Objectives/Message :

This Sura contains stern Divine condemnation of the stiff neck wealthy and boastful slanderers, backbiters, blackmailers, scandal-mongers as well as such evil minded rich ones who taunt, defame, speak ill, cajole, joke and consider the pious people as docile and inferiors. Men of good character and the faithful have not Muslims are definitely superior in their piety, though less wealthy.

5. Summary of Text :

Verses 1 to 9 altogether expose such wealthy people who hoard wealth by under-hand, un-even, evil and illegal means and then hate others as downgraded ones by slanderous methods. Such boastful black-moneyed people actually grab wealth, properties and commodities of others by unfair means and corrupt practices. Most of them become millionaire overnight by underhand methods of smuggling, corruption, drug dealing, fraudulent public contracts and kick-backs etc. etc. They consider that these riches will remain in their domain for ever, increasing in their hands to save them from all adversities and calamities. Such teaming million and billion wealth will ultimately throw them in the severest fire kindled by Allah. It will roast them through big flames in pillars of fire to repeatedly and severely punish them.

6. Significant Verses :

- (i) Verse 1 - Allah's Curse is on the people who are scandal mongers and back-biters.
- (ii) Verses 2 to 3 - Allah's Curse is on the people who pile-up wealth and count it. They think it will be of use to them. They will see it is a big curse.
- (iii) Verse 4 - Such people will be thrown into the high velocity fire of hell.

7. Conclusion :

Allah curses the wealthy who keep their wealth to multiply it but donot circulate it for the welfare of all and for the assistance of men in need. Such greedy wealthy people consider that this wealth will be of any relief to them. It will rather lead them to abject misery.

SURA CV — AL-PHEEL (THE ELEPHANT)

1. Title :

The title of this Sura is in its first Verse as "Pheel", which means the elephant. The elephants as tank power were used by Christian forces to demolish the Holy Ka'aaba in Makkah about 1425 years ago. This was around 571 A.D. Allah saved the Holy Ka'aaba and smashed the people of elephants. Thus this Sura with this title commemorates that evil force cruel attack.

2. Constitution :

The 5 Verses of this small Sura consist of 20 words which contain 96 letters.

3. Revelation :

This Sura by consensus is a Makki revelation from Allah to remind the Holy Prophet S.A.W. the great historical event his soul had seen which took place about 50 days before his birth.

4. Objectives/Message :

The Holy Quraan incorporates not only physical, chemical, natural, cosmic, social and pure science subjects but also deals with human history so soundly. Here is a true event, a pre-planned, very ferocious and too severe Christian attack on the Holy Ka'aaba which is perhaps the last attack on it by any non-Muslim power.

In 571 A.D. in the first Arabic month of Lunar year, Muharram, the then super power around Arabia was the Christian Abyssinia (now called Ethiopia), also known by Arabs as Habsha). Yemen was annexed by that Christian super power around 545 A.D. The Viceroy of Yemen was Abraha who was bent upon to destroy the Holy Ka'aaba in Makkah. He had built a grand church in San'aa but the Yamanite Arabs did not worship the idols of Mary and Jesus placed there, as they had their own clanish idols in the Ka'aaba in Makkah. So the Governor or Viceroy Abraha was committed to demolish the Ka'aaba.

All of a sudden the grand Christian Church in San'aa caught fire which Abraha thought was burnt by Arab youths. As such Viceroy Abraha in full rage attacked Makkah. The grand father of the Holy Prophet Abdul Muutalib being the chief of chiefs of Makkah was the protector of the Ka'aaba. He was asked to negotiate with Abraha. Abraha was very much impressed by frankness of Abdul Muutalib who said that he has left the Ka'aaba in the protection of Allah. So Abraha ordered the destruction of the Ka'aaba. The peaceful chief Abdul Muutalib had challenged him that it will be defended by Allah, Who is its Owner. The chief Abdul Muutalib left to hill side with all his Makkah fellow-men placing the Defence of the Ka'aaba to Almighty Allah.

Allah Almighty fully protected the Ka'aaba by totally crushing Abraha and his forces. That very true historical event has been briefly stated in this Sura in shape of the great miracle from Allah. This is Divine power that smallest bird force of Allah can be deployed by Him to perish the biggest super power of a period.

5. Summary of Text :

- (A) Verses 1 and 2 remind the Holy Prophet S.A.W. (and also the Makki people) to have witnessed the crushing defeat of the then super power. Their armed might in which elephants, as tank power, were used as pivotal force to destroy the Ka'aaba were totally smashed.
- (B) Verse 2 describes how the enemy strategy to destroy Ka'aaba was rendered futile.
- (C) Verses 3 and 4 indicate the sudden attack of swarms of sea birds in flocks bringing pebbles from the seashore pelting the same on Abraha's armed forces from their small beaks. These clay pebbles became anti-tank shells playing havoc as missiles with great precision of targets. These pebbles pierced through the body of Abraha's ferocious warriors along with their elephants and horses.
- (D) Verse 5 states how the furious Viceroy Abraha and his that time greatest armed might was humbled by the smallest birds of Allah to face total disaster. The left-out force was

inflicted by drops of water in the beaks of other birds became deadly chemicals to spread small pox and contagious disease on these left out forces. Thus Abraha's people in San'aa caught this disease and were also eliminated. This is how Divine safety of the Ka'aaba enhanced its respect which will continue to grow to the Day of Resurrection.

6. Lesson :

A Divine principle has been indicated in this Sura that if Muslims will fail to protect Ka'aaba against evil forces Allah will make supernatural arrangement to shield it.

7. Significant Verses :

- (i) Verses 1 to 3 - The (rebellious) companions of the elephant with their treacherous plans were destroyed by the small birds of flight.
- (ii) Verses 4 to 5 - The most powerful enemies can be crushed by Allah through small birds with pebbles of clay rendering them as chaff.

8. Conclusion :

This Sura assures the Muslims that Allah can protect any of His Signs by any of His smallest non-human force from any toughest human threats of serious nature. If a small community of the steadfast Muslims depends on Him He can destroy any super power with His tiny creatures to protect these faithfuls.

SURA CVI — AL-QURAISH (THE QURAISH)

1. Title :

The title of this Sura is from the word "Quraish" in its first Verse, a title for the respectful Maki tribe in which the Holy Prophet S.A.W. was born in Makkah.

2. Constitution :

The 4 Verses of this smaller Sura consist of 17 words which contain 73 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed by Allah to the Holy Prophet S.A.W. just after the revelation of the previous Sura "Pheel".

4. Objectives/Message :

The Quraish were a strong commercial Arabian tribe of Makkah amongst whom the Holy Prophet S.A.W. was born in 571/A.D. to noble Abdullah. They lived in this 4200 year old centrifugal citadel Makkah having the control of the Holy Ka'aaba. They were a hospitable, accommodative and strong community of traders. They were the international tradesmen and strongest commercialists controlling the then international trade routes. They bartered products of the East with the West. As such the total market economy of that period depended on them as every product was routed through Makkah in the then known world due to the Quraish control on Ka'aaba, an international Holy place since the Arch Prophet Ibraheem A.S. (2200 B.C.). Most of the then human race was attracted to come for worship around the Ka'aaba which was also having rich, sweet and nourishing water point, the high calory everlasting all rich Zam Zam. The Quraish also were most respectful people for their worship of Allah before idolation in the Ka'aaba. Due to this religious factor all the Arab tribes of the Gulf to Mediterranean gathered there once a year.

Historically the Arabs were revengefully fighting, retaliating and warring tribal people. They were united into a great force by Allah S.W.T. Quraish became their leaders due to the Ka'aaba under their trustship. They became very prominent, the world over, after the crushing defeat of Abraha, Viceroy of the then super power, Abyssenia (Ethiopia). Details of that event are in Sura "Pheel" (CV). The Quraish achieved great importance with affluence and became the most respectful community. Therefore, Allah S.W.T. for His so many bounties on Quraish demands from them to leave paganism, idolatry and polytheism. They are directed to worship only One Allah Who united them and gave them the universal respect with full peace and

prosperity..

5. Summary of Text :

- (A) Verse 1 indicates the Divine design to protect Quraish.
- (B) Verse 2 explains how their summer and winter trading, commerce and merchandise routes were protected by Allah for ever.
- (C) Verse 3 demands from them, in lieu of this bounty, pure worship of Allah.
- (D) Verse 4 describes how Allah protects them in adversities and secures them from hunger and fear of any interception during their long commercial journeys.

6. Conclusion :

Allah confers His bounties of trade, commerce, riches and prosperity with peace and tranquillity to whom He Wills. Therefore, only He be worshipped. The Ka'aba be preserved exclusively for the worship of Allah as a centrifugal binding force for the world Muslims.

SURA CVII — AL-MA-'OON (BASIC NECESSITIES)

1. Title :

The title of this Sura is in its last word "ma-'oon", which is in the last and its 7th Verse. It means the basic necessities or daily use services and commodities as the fruits of all economic activity of mankind.

2. Constitution :

Its 7 Verses consist of 25 words which contain 125 letters.

3. Revelation :

It is a Makki Sura revealed by Allah upon the Holy Prophet (S.A.W.).

4. Objectives/Message :

This smaller Sura lays down principles of Islamic community life and spells out the foundations of economic life with social justice through politico-economic equilibrium in Islam. The entire humanity wants a profound social justice system and a sound social order free from any sort of economic exploitation. The title of this Sura describes the mutual duties for the citizens in an Islamic polity to achieve that end. In each Muslim community the things of daily use, daily human necessities, life saving urgencies and the utilities as well as commodities, and basic services are equitably equal rights of everyone. The individual rights are not only the basic concern of an Islamic state but also the fundamental duties of its every citizen. Every facility be provided without discrimination to every citizen to his/her work, worth and need. But every citizen should also undertake as his/her primary duty to take care of necessities of neighbors and the fellow citizens in need. Amenities and added facilities for enjoyment are secondary in Islam. Luxuries have no status in a Muslim society.

To assist the deprived, poor, orphans, downtrodden, have nots, needy and the lower classes is a top priority duty of affluent Muslims in an Islamic polity. Welfare coverage and social security of others are nearer and dearer to Allah and the Holy Prophet S.A.W. as Islamic social justice demands so.

5. Summary :

- (A) Verse one asks the Holy Prophet S.A.W., to be witness against such people who falsify the Day of Judgement, on which reward will be given to the pious. Those who falsify Islam and commit misdeeds will be punished.
- (B) Verse 2 describes bad habits of those who are having no impacts of Prayer. They are those who push away the orphans and deny their right.
- (C) Verse 3 rejects such ones who offer Pray is but deny to feed the poor. It is a great blunder that they do not feed the have nots and the downtrodden.
- (D) Verse 4 condemns and curses such performers of Muslim Prayers who indulge in

miserliness. Prayer teaches Muslims brotherhood but such miser ones negate this fact.

- (E) Verses 5 and 6 state that the establishment of such hypocritic Salaat (Muslim Prayer) by such miser Muslims is useless. It does not achieve credit as they do not provide requested commodities and services available with them for the downtrodden and the needy people.

Verse 7 rejects the people who with-hold, deny and hoard goods, services, commodities, utilities, tools, utensils, articles and implements of daily use to brother Muslims and disallow the same to the way farers, orphans, prisoners, needy and those who make request.

6. Conclusion :

An Islamic polity makes it mandatory for every Muslim of means to help the brother Muslims in need. Otherwise such haves will have to face displeasure of Allah here and His sanctions Hereafter.

SURA CVIII — AL-KAU'SAR (THE ABUNDANCE)

1. Title :

The title of this Sura has been derived from the last word of its first Verse "Kau'sar", meaning abundance. The unlimited blessings of Allah, His bounties and continued bestowments to the Holy Prophet S.A.W. are included in this abundance.

2. Constitution :

This is the smallest Sura in the entire Holy Quraan with highest status in Islam. Its 3 succinct Verses have 10 words which contain only 42 letters to make it the briefest but the profoundest Sura.

3. Revelation :

This briefest Sura of the Holy Quraan was revealed to the Holy Prophet S.A.W. by Almighty Allah when he was at Makkah. His status amongst other prophets was established as the highest. His inculcation capabilities were made superb. He was made the Divine modality for mankind unity as the last Prophet of Allah with finality of Messengership on him. This revelation assures him (S.A.W.) of such a high status..

4. Special Significance :

This small but most bounteous Sura of the Holy Quraan with other small Suras in this Part have been made Divine master piece of Quraanic challenge to the disbelievers. The enemies of Islam have repeatedly been asked by Allah to get together fully equipped with their total intellectual calibre to produce one Sura like this smallest Sura Kau'sar. Human intellect never can change a small digit of this Holy Book. The Holy Quraan is the revelation of Allah preserved by Him forever providing Divinely protected abundance to its communicator, the Holy Prophet Muhammad S.A.W.

5. Objectives/Message :

This smallest and succinct Sura of the Holy Quraan is the greatest, richest and the highest in conferring Divine honors, highest degree of heavenly respect and everlasting exaltation of the Holy Prophet S.A.W. by Almighty Allah. In the opening words of the most meaningful small first Verse of this great Sura Allah confers the irrevocable, unconditional and unlimited ownership of the bounteous and greatest Divine Foundation of best taste in the Paradise with its contra by the Holy Prophet S.A.W. This sweetest, purest and finest bounty is to be distributed by the Holy Prophet S.A.W. to his followers without any checks and without any measures. His sincerity in devotion countered the toughest opposition of the infidels motivated the most jealous and dead enemies to embrace Islam. The highest Divine work assigned to him which he completed to the best standards. He was all the time facing hotty people to convey revelations of Allah, Islamic education and inculcation of Oneness of Allah to the simple faithfuls was superb, despite of personal enmity of Makki idolators and disbelievers. The Holy Prophet S.A.W. always kept high the banner of Islam. In the early period of preaching of Islam he was so richly

rewarded by Allah Almighty in the front Verse. It was conferred in the hours of his acute deprivation. Not only his two sons from his great wife Khadeeja R.A. died in infancy but he was also deprived from the so rich and so great support of this loving wife (Khadeeja). His very affectionate Uncle Abo Talib also died. Many sincere companions of the Holy Prophet were cold blooded by meanest Makki opponents during this turbulent period.

He was conferred by Allah unlimited heavenly grace. In the Hereafter he will not only recommend Divine pardon for the sinful followers of his own Omma in trillion folds but he will have a Divine blessing of requesting divine Mercy for all the wrong-doers of all the Ommas of the previous Prophets on the Day of Judgement. Maximum power of knowledge, surety of abundant Divine mercy, great treasures of truthfulness and wisdom with highest insight and miraculous spiritual powers for his followers have been assured here. The purest fountain of Abundance (Kau'sar) bestowed to the Holy Prophet S.A.W. quenches in this world the spiritual thirst of the pious people who achieve the standards of Allah according to his modality. It will be the most needed tonic on the Last Day to provide so sweet, so flavored and so abundant cold water after the hottest hour of the Day of Judgement.

Allah took away his (S.A.W.) sons in infancy only due to the fact that he was Allah's last Prophet, perfect ideal and the best model. The sons of previous great Prophets were also made greater Prophets. How Allah could deprive the sons of this greatest of the great Prophets from the honor of Prophethood. But since Prophethood was sealed on him being the last, final and the best Messenger of Allah, therefore, his sons were taken away to eternity in infancy as a test of his great patience and deep love for Allah Almighty. The Arabs, and even today most fathers in the world desire sons for family lineage. But Muslims were taught equal love with daughters on Holy Prophet's S.A.W. model. His daughter, the noble Fatima R.A. gave such progenitures as great lineage married to the fourth Caliph of Islam Hadhrat Ali R.A. as her great husband. None has been able to surpass in piety, nobility, sincerity, sacrifices, righteousness and straightforwardness to Sayyeds of this lineage. Hadhrat Hassan and Husain R.A. two sons of noble Fatima, adopted by the Holy Prophet S.A.W., as his sons are the ideals of every Muslim. All the Muslims pray daily to Allah for the Holy Prophet S.A.W. submitting Him to confer His best bounties to this progeny in each moment. The next generations of his other great companions are known for their piety, nobility and sincerity in Islam besides the two spiritual lords Hasan and Husain R.A. But his true grand sons from lineage of daughter Fatima R.A. are Muslim ideals heading all the Aulia Allah of every period.

His enemies, who taunted him that he is issueless, ended in his (S.A.W.) worldly life time in futility. Within a decade there was no trace of theirs. Their riches, their so many sons and evil based prosperity ended in nothingness. Allah's abundance to the Holy Prophet S.A.W. cannot be measured in numbers of his progenitures. His followers are to be 1.5 billion, in the last year of the 20th century. These Muslims daily remember him billion folds from the tops of 3 million Muslim Mosque minarets on loud-speakers around the world. The Muslims send on him and his progeny heart felt blessings of Allah in trillion folds each day.

6. Summary of Text :

- (A) Verse one describes Divine assurance of abundance conferred to the Holy Prophet S.A.W. by Allah S.W.T.
- (B) Verse two asks him to continue his so sincere Prayer which is so dear to Allah. His offering of sacrifices is Divinely rewarded.
- (C) Verse three indicates to the Holy Prophet S.A.W. how his enemies will end up in nothingness. It is even to-day a great Divine reality.

7. A Great Muslim Heritage :

This Sura assures :

- (i) The Holy Prophet S.A.W. has unlimited Divine abundance.
- (ii) Prayer is obligatory to each Muslim in gratefulness to Allah.

- (iii) Sacrifice enhances wealth and makes a Muslim firm in faith.
 (iv) The enemies of Islam will ultimately be frustrated in their anti-Muslim designs.

8. Conclusion :

This smallest Sura of the Holy Quraan assigns highest status with everlasting exaltation of the Holy Prophet Muhammad S.A.W. His enemy will always face disaster. His love is the real wealth of every Muslims in all ages, everywhere.

SURA CIX — AL-KAFIROON (THE DISBELIEVERS)

1. Title :

The title of this Sura has been derived from the last word of its first Verse "Kafiroon", meaning the disbelievers, the rejectors or negative mind not accepting truth.

2. Constitution :

6 Verses of this Sura consist of 26 words which contain 94 letters.

3. Revelation :

This Sura was revealed upon the Holy Prophet S.A.W. by Allah S.W.T. at Makkah.

4. Objectives/Message :

The Divine Abundance to the Holy Prophet S.A.W., as assured in the previous Sura **Kau'sar**, bowed-down the Makkah disbelievers. They posed him the greatest riddle of becoming their ruler, getting any amount of riches or marriage with any best beauty of any family in lieu of compromising preaching of the worship of only One Allah. They persuaded him to abandon the persuading of infidels to believe in unity of Divinity. His rejection of the worship of idols and negation of the false belief of idolators pinched them the toughest. This Sura presents the strength of unquestionable, uncompromisable and unrevocable mission of the Holy Prophet S.A.W to fill every heart with the love of Allah. His personal conviction, total commitment and great ideas had no worldly motives or any gains in view. He had the highest goal of inducting every one as good Muslim to worship One and the Only Allah as the real Truth in this world and the Hereafter.

The delegation of chiefs of **Makka**, making him the highest offers on behalf of the Makkan disbelievers, was clearly told that if they place the sun on his right hand and the moon on his left hand, both being so impossible for the infidels or any other power on earth to fulfil, even then he will not sacrifice to preach the truth that Allah is One and the Only worth worship. Then the Makkah disbelievers posed him another ridiculous proposal that for a year the Muslims should worship their idols in lieu of which the idolators will worship One Allah of the Muslims in the next year. The Holy Prophet S.A.W. instantly rejected it.

The Holy Prophet S.A.W. recited this Sura, openly in his bold public appearances at every public place, declaring that there cannot be any sort of compromise by the believers with the disbelievers as both professed altogether different ideologies. Divine spiritual force was only with the true Muslims. People do say that "while in Rome do as the Romans do". But Islam never can compromise truth with falsehood in any circumstances at any cost in any age at any place.

It is a fact that the setsun was returned by him to the time of Asr prayer by his right hand finger pointer on a day at a later stage. This is a great miracle of the Holy Prophet. Actually one afternoon the sun had set and his Asr Salaat with the Prayer of his great cousin Ali was delayed. So he brought the Sun back to say the Prayer.

The breaking of moon in two pieces and then joining it with his left hand is a famous miracle of the Holy Prophet S.A.W. stated in the Holy Quraan. This is how his statement before disbelievers of putting sun on his right hand and moon on his left hand, as an impossible riddle from disbelievers, was made reality by Allah Almighty making sun and moon subservient to his right and left hand pointers.

5. Summary of Text :

- (A) Verses 1 to 5 are open declarations of the Holy Prophet S.A.W. to publically pronounce to the disbelievers that he along with his fellow Muslims cannot imagine to worship their idols as he himself never did so right from his infancy.
- (B) Verse 6 finally gives unilateral decision that truthful religion of Islam is the finest choice of Muslims and disbelievers have the sweet will to follow their idol worship.
- By this clear line and altogether uncompromising stand ultimately Islam succeeded to spread its truth in a short period all around the world.

6. Conclusion :

This Sura basically distinguishes the religion of Islam from the wrong contentions of the disbelievers. A Muslim committed to Divine faith cannot compromise on Oneness of Allah. Allah has once forever Commanded the Muslims to remain independent of the disbelievers in all circumstances.

SURA CX — UN-NASR (THE HELP)

1. Title :

The title of this Sura is a perfect symbol of victory for spread of Islam by Allah. This title has been derived from first Verse of this Sura from the word "Nasr" meaning the Help of Allah.

2. Constitution :

Three Verses of this smaller Sura consist of 17 words which contain 77 letters.

3. Revelation :

This is the last revelation of Allah upon the Holy Prophet as single complete smaller Sura after Hajj-ull-Widaa. It was the Hajj and the last Hajj of the Holy Prophet S.A.W. with many days stay at Makkah. It was revealed during his way back to Madina. It is also said to be that complete Sura which may have been revealed in one revelation after conquest of Makkah. Therefore, it is considered a revelation at Madina.

4. Objectives/Message :

The basic mission of the Holy Prophet S.A.W. as last Messenger of Allah was to spread the truthful light of Islam, the world over, including the people of the earlier Books, the Jews and the Christians, both gone astray from these Books.

The Holy Prophet S.A.W. achieved the great conquest of Makkah, without shedding a drop of blood. His (S.A.W.) profound strategy made it a highly peaceful victory and highly impactful re-entry to his birth place. It was a city of his ancestors and such an international abode bestowed by Allah status of the only peaceful place on the globe. Within 23 years of perseverance, toughest motivation and continued sincere inculcation by the Holy Prophet S.A.W. Islam became a trans-world reality. He successfully brought the entire Arabs to the folds of Islam. Through these turbulent years he led 27 events of defensive fights and 33 other fights were led by his faithful companions. In his total twenty three years of Islamic preachings only 150 Muslims were martyred and only 274 disbelievers were killed. In these 60 skirmishes three Wars (Badr, Ohud and Siffeen) engaged him only for one and a half day. Peacefulness of Islam is perfect in letter and spirit as he was a highly tolerant Prophet who never retaliated in worst situation.

Hundreds of thousand of strong delegations started to embrace Islam after this most peaceful conquest of Makkah. He sagaciously invited Persian and Roman Empires as the super powers of that period along with other buffer states, through correspondence carried by his emissaries, to embrace Islam. He visualized from this Sura of their sooner or later coming to Islamic folds. Islam being an international religion and trans-world human urgency for peace and tranquillity is to ultimately bring the entire humanity into its folds as the Will of Allah. This fact has repeatedly been related by the Holy Prophet S.A.W. himself. Time and space are

meaningless to Allah. His upper atmosphere creation, the sun, rises in the east and it sets in the west. This is round the clock routine of the sun.

5. Summary of Text :

- (A) Verse 1 of this Sura actually starts asking the Holy Prophet S.A.W. to see the humanity embracing Islam in strong armies as a result of Divinely bestowed victory.
- (B) Verse two gives grand view to the Holy Prophet S.A.W. that all the people will embrace Islam by and by in groups (as they are doing even today right from U.S.A. to Australia).
- (C) Verse three proposes that in view of bounties and bestowments of Allah in giving the Holy Prophet supreme victory in spreading Islam, he and his followers should remain grateful to Allah. His remembrance, sincere sanctity and praise be established for this grand success. Allah strengthens the Islamic faith to stand good against its committed enemies, in all ages, on all soils. Muslims should bow down to Allah in submission for His Pardon as He is the real Relenting One.

6. Conclusion :

Allah helps and bestows victories to Muslims if they remain steadfast. Supplications with forgiveness of Allah be adopted by all Muslims as daily routine to get Islamic victories. The most pious Muhammad S.A.W., as the beloved Last Prophet of Allah, daily offered Tauba (repentance from Allah's for His forgiveness) for 70 times. Therefore, Tauba be adopted by all coming generations of Muslims seeking refuge with Allah and struggling to establish the truth of Islam up to the Day of Resurrection.

SURA CXI — ABO-LAHAB (ABI-LAHUB)

1. Title :

The title of this Sura is in the nick name of the arch enemy of the Holy Prophet S.A.W. who was also his step uncle. His name "Lahab" appears in the first Verse which means the father of the flame as he was red colored by face like the red people of white races of today. The title of this Sura negates the human maladies of discrimination on color or creed in the West or the East. It is not the race or the blood pride but the pious and righteous life as believer in the foot prints of the Holy Prophet S.A.W. which is supreme in the estimation of Allah.

The title itself condemns those who have any hatred or any type of prejudice against the Holy Prophet S.A.W. at any time because the sincere love for the Holy Prophet S.A.W. is the real test of Islamic faith.

2. Constitution :

5 Verses of this Sura consist of 20 words which contain 77 letters.

3. Revelation :

This is by consensus a revelation of Allah upon the Holy Prophet S.A.W. at Makkah for the condemnation of his worst Makki enemy Abu-Lahab.

4. Objectives/Message :

This Sura presents a lesson that whoso negates and hates the Divine forces of piety, righteousness and straightforwardness meets a catastrophic, spiteful and tragic end.

The step uncle and aunt (wife of that uncle) of the Holy Prophet S.A.W. developed a highly hateful attitude with toughest enmity against his preaching of Islam. Abu Lahab was boastful of being the chief of the then super power amongst the Arabian tribals. He never could tolerate anyone to go against his will or challenge his old order exploitation of the poor people. Allah indicates, how people having spite and committing cruelties to the Holy Prophet S.A.W. as last Ideal of Allah are finished by their own hands so tragically.

The tragic end of jealous enemies of the Holy Prophet has been fixed in the Holy Quraan into total frustration to the Day of Resurrection. Only the affection and attachment with the Holy Prophet S.A.W. can bring lasting bliss of Allah. Slightest hate against him (S.A.W.) is so

severely noticed by Allah to be punished here in and Hereafter.

5. Summary of Text :

Verses 1 to 5 altogether expose the pathetic, dreadful and spiteful end of the arch enemy of the Holy Prophet S.A.W. along with his wife despite of their big might and so big a wealth.

6. Conclusion :

The enmity with the Holy Prophet S.A.W. as a life routine of anyone will lead to Divine condemnation. Allah does not tolerate a slightest hate against his most respected Last Messenger. Allah Commands everyone to remain committed to follow the life patterns of the Holy Prophet S.A.W. with love and devotion in all respects in all ages.

SURA CXII — AL-IKHLASS (THE PURITY OF FAITH)

1. Title :

This Sura is daily repeated by most of the Muslims in their daily Salaat (Muslim Prayer). Special observations have been made by the Holy Prophet S.A.W. in this behalf. He says in his famous tradition that recitation of this Sura of Purity by repetition a Muslim Divine Unity for deep of love with Allah Almighty. This Sura presents the highest Divine importance of Oneness of Allah in briefest terms. It provides the profoundest belief to the Muslims about the Unity of Divinity for One and the Only Allah, worth worship. Therefore, it is called Sura-e-Ikhlass or the Chapter of Purity in belief with sincerity to One Allah Almighty. This highest nomenclature of the Sura occurs nowhere in this most comprehensive chapter or anywhere in the Holy Quraan. So this profound title itself makes it a great Sura.

2. Constitution :

Four Verses of this Sura consist of 15 words which contain 47 letters.

3. Revelation :

This Sura is so important that it was in the daily recital routines of the Holy Prophet S.A.W. from first Prayer in Makkah-tull-Mukarramah to his last Prayer in Madina-tull-Munawarrah. Therefore, it is Makki-Madani revelation by all standards.

4. Objective/Message :

Human beings claiming to be Muslims can be classified in the following categories in Islamic Shariah :

- (i) Muslims dubbed in animality — so called chance Muslims born in Muslim families are ignorant to the objectives of humanity. They indulge only in politico-economic activity and have made physico-sexual subjectivity;
- (ii) Intellectual Muslims — Muslims by choice educated or motivated to believe in Islam and adopt its fundamentals to some practicality ; and
- (iii) Muslims of Spiritual Divinity — Believers who are very sincere in purity of faith, spirituality, Divine Unity, worship of One Allah and love the Holy Prophet to act on Islamic Shariah on his footsteps. They all the time adopt piety as fixed by Allah Almighty.

This Sura specially leads the third type of Muslims to a piety which is really full of Spiritual Divinity in love of Allah Almighty.

The basic objectives of this rich but brief Sura are :

- (i) To provide the comprehensively profound explanation of the Nature of Allah. Divine Characteristics, His special Qualities, highest Capabilities profoundest Dignity, most effective Authority and Powers as the One Allah Almighty have been detailed in this small piece of Scripture.
- (ii) This Sura saves us from any pitfalls. It very meaningfully briefs us for the real Eternal existence of Allah Almighty as Omnipotent Authority. His conception is beyond our limited perception because He is so Sublime. But His Being One and the Only worth worship is the basis of our faith.

- (iii) He is so near to us that it is He Who always cares for us. We owe our existence and sustenance to Him but He is not at all in need or any help of any one. All we are His creature and none has any comparison unto Him.
- (iv) He is eternal, without beginning and without end. We have some beginning and have definite end.
- (v) He is the absolute Reality with sublimity. He has neither father nor son but we have animate creation from mother with some father. He has permanent existence but we have definite destruction in our body construction and then will have reprocreation on the Day of Resurrection.
- (vi) There is no Trinity but His unity is the only reality. There is none except He Who is the Cherisher, Sustainer and Designer of all the creatures.

5. Summary of Text :

- (A) Verse one of this Sura asks the Holy Prophet S.A.W to proclaim the highest declaration of Allah being One and the Only.
- (B) Verse two states that Allah is Self-Sufficient.
- (C) Verse three states that neither He is begotten by any one nor He begets anyone.
- (D) Verse Four declares His Oneness, altogether un-comparable.

6. Sanctity of the Sura :

The Holy Prophet S.A.W. says if you once recite this Sura you can get the credit of completing one third of the Quraan and if you recite this great Sura of profound purity thrice you will complete the recitation of the whole Quraan The Holy Prophet also says that whoso loves this Sura rally he/she loves Allah.

7. Conclusion :

Muslim faith in nutshell has been summarised in this Sura with three basis :

- (i) Tauheed (Oneness of Allah);
- (ii) Risalat (belief in the Holy Prophet Muhammad S.A.W. as the Prophet of finality to lead the human beings to Oneness of Allah with Purity. Muhammad S.A.W. is the last Messenger of Allah. He first of all professed Tauheed and brought the believers to the Unity of Allah; and
- (iii) Qiyamat (belief of every Muslim in the Day of Resurrection and the Day of Judgement) which will establish the real test of Purity in Allah Almighty.

This is the Sura which gives the complete comprehension of Tauheed (The Oneness of Allah). Therefore, the Holy Prophet S.A.W. was directed by Almighty Allah to give the title of **Ikhlass** (Purity) to this Sura but it does not occur in any Sura. It is the highest spiritual value and the most important practical Sura leading to pure belief in Allah.

SURA CXIII — AL-FALAQ (THE DAWN)

1. Title :

The title of this small but comprehensive Sura has been derived from last word of its first Verse "Falaq" meaning the dawn. This is the light of Allah which breaks the dreadful darkness of night. Islam spreads Divine light as Dawn of Allah to shed the darkness of ignorance, injustice and poverty.

"Falaq" also means sky, heaven, firmament and horizon meeting the earth all around as a scientific phenomenon. Thus this title is wide open.

2. Constitution :

The 5 Verses of this Sura consist of 23 words which contain 74 letters.

3. Revelation :

It was revealed by Allah upon the Holy Prophet S.A.W. at Madina-turr-Rasool.

4. Objectives/Message :

This Sura brings human beings psychologically from their inner-selves under the natural umbrella of Allah's protection against external forces of negativism, jealousy, fear and passivism. Some human beings have are usually influenced by impersonal, super imposed external, typically magical, superfluous and superstitious phenomena to their disadvantage, all around. This usually is due to inner human weaknesses, psychopathic, neurotic, schizophrenic and psychosomatic personality cult of a person. It results in personal shyness and shattered strength of faith in All Powerful Allah. When human beings loose dependance on overwhelming Authority of Allah Almighty, they loose self-confidence and fall prey to such fearfulness, dreariness and giddiness. That shatters them to inferiority complex to become subservient to unconsciousness psychologically leading them to mental and nervous disorder under stresses and strains.

Modern subjects of clinical, individual and applied psychology have also presented remedies to psychic disorders of human beings. But the most effective is the will power of an individual which comes through strong faith in Allah. There are all sort of forces and counter forces as creatures of Allah. These uneven forces include satanic, evil, negative, passive and under-world fake powers. Allah Almighty has clearly warned mankind to save themselves from these forces. He has sent many Prophets with Divine Scriptures for the purpose. Last one is the Holy Prophet S.A.W. with Holy Quraan to save humanity from bad effects of such evil forces. Confidence in Allah and dependence on Him is the Divine light house to save human beings from any threat. Divine knowledge leading to full trust only in Him saves against any odds.

Refuge with Allah from every perversion, ignorance and blind fear of superstitions of evil forces guards mankind from any dangers of dark acts, secret arts and mischief mongers of the jealous men and women. No fraud, magic, evil blowing, satanic knotting, rotting, mesmerism or typified danger of evil forces of this world can touch a Muslim, if full trust is reposed in Allah.

The worst enemy of men are the jealous fellowmen. This Sura teaches how to come to Allah's protection to get rid of such jealous human misfits.

5. Summary of Text :

- (A) Verse one is a proclamation of Allah S.W.T. (Suubhanaho Wa Ta'aala) through declaration of the Holy Prophet S.A.W. (Sallallaho-Alyhe Wassallam) that the mankind should remain under the protective umbrella of the Merciful Rubb (Sustainer) of the universe. Only He bestows Divine knowledge as dawn light, which shuns ignorance.
- (B) Verse two indicates the forces of evil which though are created by Allah rightly but they opt to go wrong to harm others.
- (C) Verse three states that mental darkness is due to ignorance and it is the worst enemy of humanity.
- (D) Verse four condemns the cruel female folks who practise magic by knots to shatter the belief of faithful Muslims and play with the poor psychy of the simple human beings.
- (E) Verse five totally rejects the jealous and envious people. Their evil minded designs upset the smooth lives of simple and good natured believers.

6. Conclusion :

Sura Falaq is a succinct Sura which Divinely motivates, inculcates and educates the entire humanity to come under the protection of Allah from all the evil forces. Special care has been conveyed by Allah to His sincere devotees to be careful of the envious people who are the worst amongst mankind. They are the perverted enemies of humanity.

SURA CXIV — UN-NASS (THE MANKIND)

1. Title :

The title of this last Sura is in its first Verse in the word "Un-Nass" meaning the mankind. Man is the crown creation of Allah. Apart from Un-Nass this best moulded creature is

known as **INS** (humanity) and **INSAAN** (human being). All these terms as titles of man occur scores of times in the Holy Quraan. Best worship of Allah is established only by mankind. All the Prophets were men of highest piety. The Holy Prophet S.A.W. is the last Messenger but the highest human being and the most respected. The Holy Quraan is for all the mankind. Therefore this last Sura has been given the best title of "Un-Nass" in the conclusion of this great Scripture for the benefit of all the mankind.

2. Constitution :

The 6 Verses of this Sura consist of 20 words containing 79 letters.

3. Revelation :

This smaller Sura was revealed to the Holy Prophet S.A.W. in Madina-turr-Rasool.

4. Objectives/Message :

This Sura brings human beings to Allah's Divine protection from the personal hallucination, dreariness, gloominess, individual fearfulness and self imaginative dreadfulness of evil forces dominating weak persons from within, as internal self enemies. This is psychic situation of a person as a personal dismalness.

Allah is the Maker, Sustainer, Cherisher and Protector of every person. Only He can protect man against any evil. Allah has Authority much superior to guide an individual to good conduct. It is only He Who is worth worship. Only the laws of Allah bring welfare, lasting peace, tranquillity and prosperity to humanity, individually and collectively. Therefore, man must worship Allah and seek His protection. Man is deceived and misdirected by the alluring evil wills of his/her own dominant, selfish, and temptational self against positivism of his/her contented self. The evil forces of satanic natured fellowmen/women or the devilish forces of jinns can whisper evil fears against protection of Allah and thus take a person astray on the wrong way.

In the previous Sura (Al-Falaq) and in this Sura Allah Almighty clearly says that the evil forces are His creatures, whether internal or external. Therefore, human beings must come to the protection of Allah in all circumstances.

5. Summary of Text :

- (A) Verses one and two authenticate through the declaration of the Holy Prophet S.A.W. the proclamation of Allah S.W.T. that mankind should remain in the refuge of Rubb (Sustainer).
- (B) Verse three clarifies that only Allah is worth worship.
- (C) Verse four provides all times warning of Allah about the evil effects of satanic forces which are perverted creatures of Allah,
- (D) Verse five indicates how evil forces operate against the simple people to spread fear by whispers in their hearts. By this modus operandi such evil forces shatter the confidence of people in their dependence on Allah.
- (E) Verse six states that such whispers can be from evil men and evil jinns to damage individuals from inner-self confidence and real belief in Allah.

6. Conclusion :

This last Sura declares to human beings to least worry about evil designs of miscreant forces. Evil forces shatter confidence of mankind in their dependence on Allah. As crown creation mankind must bank upon their Sustainer, the Rubbull Aalameen.

I N D E X E S

OF

THE HOLY QURAAAN

INDEX - I	Page 978	to	990
INDEX - II	Page 991	to	992
INDEX - III	Page 993	to	1009

INDEX I

PURE ISLAMIC SUBJECTS OF THE HOLY QURAAAN

[Note: In all these Indexes the Sura number with Verse number has been indicated like this description:

- 1:4 (Sura Fatiha - the Opening : Verse four); or
2.177 (Sura Baqarah - The Cow : Verse hundred seventy seven).

The main Subjects are :

1. PART ONE - EEMANIYAAT (ایمانیات);
2. PART TWO - IBAADAAT (عبادات);
3. PART THREE - MOAAMILAAT (معاملات); AND
4. PART FOUR - MOHKMAAT (محکمت).

PART ONE

EEMANIYAAT (ایمانیات) (THE ISLAMIC FAITH)

A. ISLAM :

- (i) Islam is the only Religion of Allah based on universal truth: = 3:19, 20, 83, 85/ 4:125/ 5:3/ 72:14.
- (ii) Islam is Divine selected, perfect, best and last Religion fulfilling human need for all times : = 2:208/ 5:3/ 6:14, 89, 126/ 49:17; and
- (iii) To believe in Islam is the boon of Allah but to reject it is a great blunder = 2:256, 257/ 3:20 to 22/ 4:122 to 124/ 5:48; 9:74/ 39:22/ 61:7/ 72:14.

B. ALLAH :

Allah is the proper Name of the Only Being worth worship. Allah Suubhana-hoo Wa Ta'aala (S.W.T. the Purest and the Highest) is the One and the Only. Allah never can be translated as God. Romans had many Gods. Pagans have idol Gods. Christians say Jesus is God. Buddhist claim Eudha as God. Hindoos say Karishna is God. There are God mothers, God fathers, mafia Gods, under-world Gods. Our Allah is not at all a God. Allah is Just Allah - the only Being Worth Worship. This proper and personal Name of Allah is fundamental word of worship/Remembrance as the Ism-e-Azam - THE GRAND NAME. Allah occurs 2697 times directly or indirect in the Holy Quraan. There are more than 99 Glorious Names of Allah used in the Holy Quraan.

The main Verses are as follows where Proper Name Allah occurs :

- (i) Allah (الله) : 1:1, 2/ 2:7, 8, 10, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 26 to 28, 55, 60, 78, 110, 126, 136, 143, 177, 186, 228, 246, 255, 265, 284, 285/ 3:2, 4, 5, 7, 9 to 11, 15, 18 to 21, 23, 26, 28 to 34, 37, 39, 40, 42, 45, 48, 52, 54, 55, 57, 61 to 64, 66, 73 to 79, 81, 83, 84, 110, 129, 179, 180, 193, 199, 285 / 4:38, 39, 58, 79, 90, 150 / 5:49 / 6:12, 53, 54, 101, 103, 133, 147 / 7:101, 156, 158 / 9:14, 18, 40 / 10:25, 29 / 11:33 / 12:80 / 13:3, 4 / 14:32 / 16:81, 108 / 17:110 / 19:91 to 93 / 20:90 / 22:69 / 24:35 / 28:88 / 29:5, 61, 62 / 30:4, 11, 40 / 32:4 / 33:72 / 34:24 / 39:22, 23 / 45:19 / 47:30 / 49:1, 3 / 55:27 / 57:2, 3, 14 / 59:22 to 24 / 61:1 / 63:19 / 73:20 / 83:90 / 110:1, 2 / 112:1, 2
- (ii) The Quraanic Glorious Names of Allah Suubhanbo Wa, Ta'aala are:
 - (1) Rubb (رب) - Sustainer : 1:2/ 2:131, 147 / 3:4, 7 to 9, 15, 16, 35 to 38, 40, 41, 47, 48, 58, 51, 53, 60 / 4:1, 174 / 5:68 /

- 6:45, 128 / 7:54, 89 / 10:10 / 13:16 / 17:40 / 18:14 / 19:65 / 20:70 / 21:22 / 23:88 / 25:65 / 26 : 98 / 27:8 / 32:2 / 34:15 / 37:182 / 38:66 / 40:64 / 41:45 / 46:13 / 53:18 / 59: 16 / 70:40 / 73:9 / 78:37 / 81:29 / 83:6 / 85:12 / 89:15 / 96:1 / 110:3 / 113:1 / 114:1
- (2/3) Ar-Rahmaan/Ar-Raheem - The Most Affectionate and the Most Merciful :**
- 1:1, 3/ 2:37, 163 / 3:31, 129 / 5 : 34 / 9:27 / 13: 30 / 17:110 / 19:61 / 20:5 / 21:112 / 25:63 / 26:122 / 32:6 / 36:52, 58 / 41:2 / 46:8 / 55:1 / 59:22 / 73:20 / 78:37.
- (4 to 8) Al-Malikoo, Al-Quuddoosoo, Uss-Salaamoo, Al-Moo'-Minoo, Al-Mohyminoo :**
- 20: 114 / 23:116 / 59:23 / 62:1 / 114:2
- (9 to 11) Al-Azeezoo, Al-Jabbaroo, Al-Motakabbir :**
- 8:49 / 9:71 / 22:40 / 26:175 / 30:5 / 34:6 / 35:28 / 39:5 / 42:19 / 54:42 / 58:21 / 59:23 / 64:18
- (12 to 14) Al-Khaliqoo, Al-Bari-oo, Al-Mosauviroo :**
- 2:54 / 3:6 / 7:11 / 13:16 / 38:71 / 39:62 / 40:62, 64 / 59:24 / 64:3
- (15 and 16) Al-Ghaffaro / Al-Qahharo :**
- 20:82 / 38:66 / 39:5 / 40:42 / 12:39 / 13:16 / 14:48 / 38:65 / 39:4 / 40:16
- (17 and 18) Al-Tauwaboo, Al-Wah-haboo :**
- 2:37, 54, 128, 160 / 3:8 / 19:104, 118 / 24:10 / 38:9, 35 / 49:12 / 110:3
- (19 to 21) Al-Khal-laqoo / Ur-Razzaqoo/Al-Fattahoo :**
- 15:86 / 38:81 / 51:58 / 34:26
- (22 to 24) Al-Aleemoo/Al-Haleemoo/ Al-Azeem :**
- 2:29, 115 / 3:24 / 4:12 / 5:97 / 7:200 / 9:28 / 12:83 / 24:18 // 24:35 / 27:6 / 40:2 / 48:4 / 66:2 / 2:225, 235, 263 / 3:155 / 4:12 / 5:101 / 22:59 / 64:17 / 4:12 / 5:101 / 22:59 / 64:17 // 2:255 / 3:174 / 9:129 / 42:4 / 56:74, 96 / 69:33, 52
- (25 and 26) Al-Wase-'oo / Al-Hakcem :**
- 2:115, 247, 225, 261, 268 / 3:73 / 4:130 / 5:54 / 24:32 / 53:32 / 2:32, 129 / 3:6 / 4:26 / 5:118 / 6:83 / 9:60 / 22:52 / 31:9 / 39:1 / 51:30 / 66:2
- (27 and 28) Al-Hye-yo/ Al-Qayyum :**
- 2:255 / 3:2 / 20:111 / 25:50 / 40:65 // 2:255 / 3:2 / 20:111
- (29 to 32) Us-Samee/Al-Bascer/Al-Lateef/Al-Khabcer :**
- 2:127, 181 / 3:38 / 6:115 / 8:42 / 10:65 / 14:39 / 24:21 / 34:50 / 40:56 / 42:11, 43:6 / 58:1 // 2:96 / 3:15 / 5:71 / 8:39 / 17:1 / 22:61 / 35:31 / 40:20 / 42:11 / 49:18 / 57:4 / 58:1 / 60:3 / 64:2 / 67:19 // 6:103 / 12:100 / 31:16 / 33:34 / 42:19 / 67:14 // 2:234, 271 / 3:153 / 6:18 / 9:16 / 11:111 / 22:63 / 31:16 / 35:31 / 48:11 / 49:13 / 58:3, 13 / 67:14 / 110:11
- (33 to 36) Al-'Aly-yoo/Al-Kabecroo/Al-Mohceto/Al-Qadeeroo :**
- 2:255 / 4:34 / 22:62 / 31:30 / 34:23 / 40:12 / 42:4, 51 / 43:4 // 4:34 / 13:9 / 22:62 / 31:30 / 34:23 / 40:12 // 2:19 / 3:12 / 8:48 / 11:92 / 41:54 / 85:20 // 2:20, 106 / 3:26, 189 / 5:17 / 6:17 / 8:41 / 9:29 / 16:70 / 24:45 / 30:45 / 30:54 / 35:1 / 46:33 / 59:6 / 64:1 / 67:1
- (37 and 38) Ul-Maula/Un-Naseer :**
- 2:86 / 8:40 / 22:78 / 47:11 / 66:2 // 4:45, 75 / 9:74 / 29:22 // 4:45, 75 / 33:17 // 29:22 / 42:31
- (39 to 42) Al-Kareem/Ur-Raqeeb/Al-Qareeb/Al-Mojeeb :**
- 27:40 / 82:6 // 4:1 / 5:117 / 33:85 // 11:61 / 34:50 // 2:186 / 3:195 / 11:61 / 12:34 / 27:62
- (43 to 46) Al-Wakeel/Al-Haseeb/Al-Hafeez/Al-Mooqeet :**
- 2:173 / 6:102 / 11:12 / 28:28 / 29:62 // 4:6, 86 / 33:39 // 11:57 / 34:21 / 42:6 // 4:85
- (47 and 48) Al-Wadood/Al-Majeed :**
- 11:90 / 85:14 // 11:73 / 85:15
- (49 and 50) Al-Wariso/Us-Shaheed :**
- 15:23 / 21:89 / 28:58 // 3:98 / 6:19 / 10:46 / 22:17 / 34:47 / 41:52 / 58:60, 85:9
- (51 and 52) Al-Waliyoo/Al-Hameed :**
- 2:257 / 3:67 / 6:51 / 6:70 / 9:116 / 18:26 / 29:22 / 42:9 // 2:267 / 11:73 / 14:1, 8 / 22:64 / 31:12, 26 / 35:15 / 41:42 / 42:28 / 57:24 / 60:6 / 64:6 / 85:8

- (53 to 56) **Al-Haqoo / Al-Mobeen / Al-Qaveeyoo / Al-Mateen :**
5:48, 83/ 6:57, 62, 73/ 10:32, 82/ 13:19/ 16:30/ 20:114/ 22:6, 62/ 24:25// 8:52, 11:66/
22:40, 74// 40:22/ 44:19/ 58:21// 51:58
- (57 and 58) **Al-Ghaneel/Al-Malik :**
2:263, 267/ 3:97/ 4:131/ 6:133/ 10:68/ 22:64/ 27:40/ 29:6/ 31:12, 26/ 35:15/ 39:7/ 47:38/
57:24/ 60:6/ 64:6// 1:4/ 3:26
- (59 to 62) **Al-Shadeedo / Al-Qadir / Al-Moqtadiro / Al-Qahir :**
2:165, 211/ 3:11/ 5:2/ 5:98/ 8:13, 48, 52/ 13:13/ 40:22/ 59:4 / 6:37, 65/ 17:99/ 36:81/
46:33/ 75:40/ 86:8// 18:45/ 54:42, 55 / 6:18, 61
- (63 to 68) **Al-Kafee / Ush-Shakir / Al-Muusta-'aan / Al-Fatir / Al-Badee / Al-Ghafir**
:
4:6, 70, 81, 132/ 10:29/ 17:17, 65, 96/ 25:21/ 29:52/ 33:3, 25/ 46:8/ 39:36// 2:158/ 4:147 /
12:18/ 21:112// 6:14/ 14:10/ 35:1/ 39:46/ 42:11// 2:117/ 6:101 / 40:3
- (69 to 72) **Al-Auwal/Al-Aakhir/Uz-zahir/Al-Batin :**
57:3// 57:3// 57:3// 57:3
- (73 to 75) **Al-Kafeeloo/Al-Ghaliboo / Al-Hakamoo :**
16:91// 12:21// 6:114
- (76 to 80) **Al-'Aalim/Ar-Rafee/Al-Hafiz/Al-Muuntaqimoo/Al-Qaa-im :**
6:73/ 9:94, 105/ 13:9/ 23:92/ 32:6/ 34:3/ 35:38/ 39:46/ 59:22/ 64:18/ 72:26// 4:185/ 6:165/
13:2/ 40:15/ 12:64/ 32:22/ 43:41/ 44:16/ 13:23
- (81 to 84) **Al-Mo-hyyo / Al-Jaa-me-'oo / Al-Maleekoo / Al-Mota-'aal:**
30:50/ 41:39// 3:9/ 4:140 / 54:55 / 13:9
- (85 to 88) **Un-Nooroo/Al-Hadee/Al-Ghafooroo/Ush-Shakoor :**
24:35/ 25:31// 2:173, 182/ 3:31/ 4:25/ 5:34/ 6:54/ 17:44/ 18:58/ 42:5/ 57:28/ 73:20//
35:30, 34/ 42:23/ 64:17
- (89 and 91) **Al-Afoowoo/Ar-Ra-'oof/Al-Ikram :**
22:60/ 58:2/ 2:143, 207// 3:30/ 9:117/ 16:7, 47/ 22:65/ 24:20/ 57:9// 5:10 / 196 : 3
- (92 to 95) **Al-Aa'-laa/Al-Bari-oo/Al-Hafee-oo/Al-Ilahoo :**
87:1/ 92:20// 52:28// 19:47/ 2:133, 163/ 3:2, 18/ 4:87/ 5:73/ 6:46/ 7:59/ 9:129/ 10:90/
11:14/ 13:30/ 14:52/ 16:22/ 18:110/ 20:80/ 27:63/ 35:3/ 40:65/ 59:2/ 73:9/ 114:3
- (96 to 99) **Al-Wahidoo/Al-Aahado/Us-Samado :**
2:63/ 4:171/ 6:19/ 12:39/ 13:16/ 14:48/ 16:23/ 18:110/ 21:108/ 22:34/ 37:7/ 39:40 41:6//
112:14// 112:2
- (99 to 104) **Alla-mull-Ghoyoob/Al-Qabi-zoo/Al-Basi-too/al-Ma-'izoo/Al-Mo-dhilloo/Al-Baa-iss :**
5:109, 116/ 9:78/ 34:48// 2:245/ 17:30/ 29:62/ 42:12// 3:26// 3:26// 2:247/ 3:164/ 7:103/
10:74/ 16:36/ 25:51

- C. MUHAMMAD - DUUR - RASOOL - ALLAH / AHMAD S.A.W. (Sallah hoo Alyhe Wassallam - Blessings and Salutations of Allah on him):**
- (i) Personal name assigned by mother on birth = MUHAMMAD 3:14/ 33:40/ 47:2/ 48:29
- (ii) Biblical name = Ahmad : 61:6
- (iii) The Highest Title assigned by Allah = Rasool Allah / Rasool-E-Aakhar = 2:101, 143/ 3:32, 81/ 4:59, 80/ 5:67// 7:158
- (iv) Rasoolull - 'Aalam / Rasool with 'Ooswa tull Hasanah (Best Model as Last Ideal) = 8:24/ 9:61, 128/ 24:48/ 25:30/ 33:2// 33:40/ 49:3/ 57:8/ 59:7/ 60:1/ 61:5/ 64:12
- (v) Some of the eulogised names of the Holy Prophet Muhammad S.A.W. assigned to him in the Holy Quraan:
- (a) **Nabi and Rasool :**
3:68/ 7:157, 158/ 8:64/ 9:73, 117/ 22:52/ 33:1, 6, 56 .

- (b) **A Nabi** all the times entitled for Darood (Blessings and Salutations) from Allah S.W.T and His Angels :
33:43, 56/ 49:2 to 4/ 60:11 and 12.
- (c) **Khata-muun Nabi-yeen :**
33:40
- (4 to 8) **Shaheed / Shaa-hid / Mataa'/Raoo-fuur Raheem :**
4:143// 33:45// 4:59, 63, 80/ 60:12// 9:128
- (9 to 12) **Mubasshar/Basheer/Nazeer/Muunzar :**
17:15/ 25:56/ 33:45/ 48:8// 2:119/ 5:18/ 7:188/ 34:28/ 48:8// 2:119 5:19/ 7:188/ 34:28//
13:7/ 38: 4/ 50:2/ 79:45
- (13 to 15) **Siraaj / Noor/Da'-ce Illallah / Kaffa-Tun - Nass :**
33:46// 5:15/ 33:46// 33:46/ 34:28
- (16 to 18) **Rahmatull-il-Aalameen / Muslim-e-Auowal / Do-'aa-e-Ibraheem :**
21:107// 6:114// 2:129
- (19 to 21) **Minallahe/Sahib-e-Mukame Mehmood/'Abdullah :**
2:129/ 3:164/ 17:79// 17:1/ 18:1/ 25:1/ 39:36// 57:9/ 72:19
- (22 to 24) **Al-Muzammil/Al-Mudassir/ Al-Harees' :**
73:1// 74:1// 9:128
- (25 and 26) **Rasooluun-Nabi-Yall Ommi/Al-Fatiho :**
7:157/ 7:158// 48:2/ 110:1
- (27 to 32) **Taa-haa/Yaa-scen/Al-Azeez/Al-Muustafa/Al-Muuj-taba/Al-Aoola :**
20:1// 36:1// 9:128// 22:75/ 25:59// 3:179/ 22:78// 33:6
- (33 to 36) **Mo-Allimull-Kitaab/Mo-Allimull-Hikmah/Al-Muuj-taba/Al-oola :**
2:129/ 3:164/ 62:2// 2:129/ 3:164/ 62:2/ 2:129/ 3:164/ 62:2// 2:129/ 3:164/ 62:2
- (37 to 39) **Sahib-e-Buurhaan / Sahib-e-Kauthar / Sahib-e-Khyrull Katheer :**
4:174// 53:2, 81:22// 108:1// 108:1
- (Obedience to Muhammad S.A.W. is obedience to Allah = 4:80)

D. THE PROMINENT PROPHETS OF THE HOLY QURAN :

- (i) All Prophets must be believed by every Muslim as cardinal principle of the Islamic Faith :
2:253/ 3:143/ 4:166/ 5: 44/ 6:34, 130/ 11:120/ 12:110/ 16:35/ 17:55/ 40:51
- (ii) Prophets mentioned by the Holy Quraan :
- (1) **Abu-ul-Bashar Hadhrut Aadam Aly-hiss Salaam (Allah's Blessings on him) :**
2:21, 33, 35/ 3:33, 59/ 7:11, 19/ 17:61/ 18:50/ 20:115, 120
- (2) **Aadam-e-Thani-Hadhrut Nooh (Noah) Aly-hiss-Salaam (Allah's Blessings on him) :**
4:163/ 11:32, 42, 45/ 17:3/ 25:37/ 26:106/ 33:7/ 37:79/ 51:46/ 71:21
- (3) **Hadhrut Idrees Aly-hiss Salaam :**
11:53, 60, 89/ 26:124
- (4) **Hadhrut Hood Aly-hiss Salaam :**
11:53, 60, 89/ 26:124
- (5) **Hadhrut Luut Aly-hiss Salaam :**
11:81/ 15:59/ 21:74/ 22:43/ 26:161/ 27:54/ 29:26/ 37:133/ 38:13/ 50:13/ 54:33/ 66:10
- (6) **Hadhrut Ibraheem (Abraham) Aly-hiss Salaam (Allah's Blessings on him) the Abu-ull-Ambiya - Father of Prophets and the Arch Prophet :**
2:124, 125, 127, 133, 140, 285, 368, 97/ 4:125, 163/ 6:175/ 9:114/ 11:75/ 12:6/ 14:35/ 21:69/ 22:78, 38, 45/ 60:4
- (7) **Hadhrut Issmaeel (Ishmail) Aly-hiss Salaam (Allah's Blessings on him) :**
2:125, 127, 133, 140, 4:163/ 6:86, 143/ 9:54/ 21:85, 38, 48
- (8) **Hadhrut Isshaaq (Isaq) Aly-hiss Salaam (Allah's Blessings on him) :**
2:133, 140/ 4:163/ 12:6, 38, 45

- (9) **Hadhrut Yaqoob (Jacob) Aly-hiss Salaam :**
2:132, 136, 140/ 3:84/ 6:84/ 11:71/ 12:6, 38, 68/ 19:6/ 21:72/ 29:27/ 38:45
- (10) **Hadhrut Yusuf (Joseph) Aly-hiss Salaam :**
6:84/ Sura XII (12): 4, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 21, 29, 46, 51, 56, 58, 69, 76, 77, 85, 87, 89, 90, 94, 99/ 40:34
- (11) **Hadhrut Saleh Aly-hiss Salaam :**
7:77/ 11:66, 89/ 26:142/ 27:45
- (12) **Hadhrut Ilyas Aly his Salaam :**
6:85/ 37:123 to 132
- (13) **Hadhrut Al-Ya-sah Aly-hiss Salaam :**
6:86/ 38:48
- (14) **Hadhrut Dawood (David) Aly-hiss Salaam :**
2:251/ 38:48/ 5:78' 6:84/ 17:55/ 21:9, 78/ 27:6, 15/34: 10/38: 17, 22, 26, 30
- (15) **Hadhrut Sulymaan (Solomon) Aly-hiss Salaam :**
4:163/ 6:84/ 21:81/ 27:8, 15, 30, 26, 44/ 34:12/ 38:30, 34
- (16) **Hadhrut Ayyoob (Ayub/Job) Aly-hiss Salaam :**
4:163/ 6:84/ 21:83/ 38:41
- (17) **Hadhrut Yunus (Jonah) Aly-hiss Salaam :**
4:163, 6:86/ 10:98/ 37:139
- (18) **Hadhrut'Zull Kifl (Dhol Kifl) Aly-hiss Salaam :**
21:85/ 38:48
- (19) **Hadhrut Oozyr Aly-hiss Salaam :**
9:30
- (20) **Hadhrut Shuaib Aly-hiss Salaam :**
7:88/ 11:87, 91/ 26:177/ 29:36
- (21) **Hadhrut Haroon (Aaron) Aly-hiss Salaam :**
6:84/ 7:122/ 10:75/ 2:70/ 21:48/ 23:45/ 25:35/ 26:48/ 37:114, 120
- (22) **Hadhrut Moosaa (Moses) Aly-hiss Salaam (Allah's Blessings on him) :**
2:51 to 55:60/ 3:84/ 4:153, 164/ 5:22/ 6:91/ 7:104, 143/ 10:75, 84/ 11:17/ 28:7, 31/ 29:39/ 22:77/ 37:114, 120/ 40:23/ 46:12/ 87:19
- (23) **Hadhrut Zakariyya (Zachariyya) Aly-hiss Salaam :**
3:37, 38/ 6:85/ 14:2, 7/ 21:89
- (24) **Hadhrut Yahyaa Aly-hiss Salaam :**
3:39/ 6:85/ 19:7, 12/ 21:90
- (25) **Hadhrut Eeessaa (Jesus)'Aly hiss Salaam :**
2:87, 136/ 3:45, 55, 59/ 4:57/ 5:17, 72, 112/ 6:85/ 19:34/ 42:13/ 57:27/ 61:6

E. THE HOLY BOOKS - THE HOLY QURAAAN AND THE PREVIOUS HOLY BOOKS :

- (i) The previous Holy Books/Revealed scriptures mentioned in the Holy Quraan :
- (ii) Soohoo-fill Oolaa'(The Ancient Scriptures)/Soo-hoo-fee Ibraheem : 3:184; 16:44/ 20:133/ 26:196/ 35:25; 87:13
- (iii) Zuboor (Zubur) revealed to DAWOOD (David) Aly-hiss Salaam : 4:163/ 17:55/ 21:105
- (iv) Taurait (Taurah old Testament) revealed to Hadhrut Moosaa (Moses)/Aly-hiss Salaam : 3:2, 48, 50, 93/ 5:4, 43, 46, 110/ 7:157/ 9:111/ 48:49/ 62:5
- (v) Injeel (Bible-Gospel/New Testament) revealed to Hadhrut Eeessaa (Jesus) Aly-hiss Salaam : 3:2, 48, 65/ 5:46, 66, 68, 110/ 7:157/ 9:111

F. THE HOLY QURAAAN :

(The Last Consolidated/and the perfect Divine Revelation to the Last Ideal of Allah, the Holy Prophet Muhammad S A W. The Quraan has repeatedly challenged that none can make a

Chapter like of it (as in Sura II:23). No intellectual on earth could do so in these 1400 years.

- (1) **Al-Quraan (the repeatedly read consolidated Divine Book of Universal knowledge) :**
2:185/ 4:82/ 5:101/ 7:204/ 10:15/ 12:3/ 16:98/ 17:9/ 18:54/ 25:30/ 30:58/ 43:31/ 47:24/ 54:17
- (2) **Quraan-ull Mobeen (Open Book of facts) :** 15:1/ 36:69
- (3) **Quraan-ull Azeem (The Grand Book of Studies) :** 15:87
- (4) **Quraan-ull Hakeem (The Book of Wisdom) :** 36:2
- (5) **Quraan-ull Majeed (The Great Scripture) :** 50:1/ 85:21
- (6) **Quraan-ull Kareem (The Honored Revelation) :** 56:77
- (7) **Quraan-ull Arabi-yan (The rich language Scripture) :**
12:2/ 20:113/ 42:7
- (8) **Al-Kitaab (The Holy Book) :**
2:2, 151, 176/ 3:3, 23, 164/ 4: 105, 105, 136/ 6:38
- (9) **Al-Kitabull Moneer (The enlightenment Book) :** 3:184
- (10) **Kitaabullah (Allah's Book) :** 4:24/ 5:44/ 9:36
- (11) **Kitab-e-Mobeen (The clear Book) :** 5:15/ 6:59/ 27:1
- (12) **Kitab-e-Mofassal (The Book of details) :** 6:114/ 7:52
- (13) **Kitabull Hakeem (The Book of intellect) :** 10:1
- (14) **Kitab-e-Mubarak (The graceful Book) :** 6:92/ 6:155
- (15) **Noor (The Light) :** 4:174
- (16) **Zikr (The Remembrancer) :**
3:5/ 15:6, 9/ 16:44/ 21:50/ 38:1, 49, 87/ 54:17/ 81:27
- (17) **Shifaa' (The healer) :** 10:57/ 17:82/ 41:24
- (18) **Rehmut (The mercy) :** 7:52
- (19) **Al-Hodaa (The guidance) :** 27:2/ 31:3/ 35:20/ 48:28
- (20) **Hakam (The state constitution) :** 6:89, 155
- (21) **Fuurqaan (The distinguisher) :** 2:185/ 3:4/ 25:1
- (22) **Tanzeel (The Divinely sent through the Holy Prophet S.A.W.) :**
26:192/ 32:2/ 41:2, 42/ 56:80/ 69:43/ 76:23
- (23) **Munaz-zal (The Revealed) :** 6:114
- (24) **Mohyminoo (Consolidator of all Divine Scriptures) :** 5: 48
- (25) **Mosud-diq (The pure truth) :** 5:48, 6:92
- (26) **By-yi-naat (The open Verifier) :** 2:185

G. THE ANGELS :

- (i) The mention of Angels in general = 2:30, 98, 161, 177, 248/ 3:18, 39, 42, 87, 124/ 4:97, 166, 172, 6:8, 9, 61, 94, 111/ 7:11/ 8:9, 12, 50/ 13:11, 13/ 15:8, 28 to 30, 53 to 60/ 16:2, 28, 48, 50/ 17:40, 95/ 18:50/ 19:64/ 20:116/ 21:19, 20, 103/ 23:24/ 25:21/ 32:11/ 33:56/ 34:40, 41/ 35:1/ 37:150/ 38:71 to 73/ 41:30/ 42:5/ 43:19, 53/ 47:27/ 48:27/ 50:17, 18/ 51:28 to 34/ 53:26, 27/ 66:4/ 70:4/ 74:30, 31/ 90:22/ 97:4
- (ii) **Jibreel (Gabraeel/Gabril) = 2:97, 98/ 66:4**
- (iii) **Meka-eel = 2:98**
- (iv) **Kiramuun Katibeen = 10:21/ 45:29/ 50:17, 18/ 82:10 to 12/ 86:4**

H. HAYAAT BA'DAL MAMAAT (BELIEF ON LIFE AFTER DEATH/HEREAFTER) :

- (i) Life after death = 2:28/ 17:52/ 21:104/ 22:66/ 30:40/ 23:16/ 40:11/
- (ii) **Barzakh (Permanent life in Paradise/Hell) = 23:100/ 16:21, 22**
- (iii) Life of faithfuls who are martyred in the way of Allah = 2:154/ 3:169
- (iv) Dead have no senses = 6:36/ 30:52/ 35:14, 22/ 46:2

I. BELIEF ON YAUMUUD DEEN—THE DAY OF JUDGEMENT AFTER THE DAY OF RESURRECTION/THE LAST DAY :

(1) The Last Day/Yaumull Aakhir :

2:8, 62, 126, 177, 228, 232, 264/ 4:38, 39, 59, 114, 136/ 5:69/ 6:93, 114, 151, 155/ 8:105/ 9:18, 29, 45/ 12:37/ 13:2/ 16:22/ 17:70/ 19:29/ 23:33/ 24:2/ 25:25/ 27:3, 4, 87/ 29:36/ 33:21/ 34:45/ 40:95/ 42:18/ 58:22

(2) Yau-muud-Deen/Day of Judgement :

1:4/ 15:35/ 26:82/ 37:20/ 38:78/ 56:56/ 82:17/ 83:11

(3) Yau-mull-Qiyamah/Day of Resurrection :

2:85, 113, 174, 212/ 3:55/ 4:82/ 5:14/ 6:12/ 7:32/ 16:124/ 75:6

(4) Yau-mull Azeem/The Greatest Day :

6:15/ 10:15/ 26:135/ 39:13

(5) Yaumuun La-ryba fee-hi/The un-doubted Day : 3:5, 25

(6) Yauma Moheet (The Rounding-up Day) Yaumuut Talaaq - The gathering Day : 11:14/ 40:15

(7) Yauma Nofikha Fiss-Soor/Day of Trumpet call :

20:102

(8) Yaumal Hisaab/Day of Accounts :

38:26, 53

(9) Yaumull Azifah(The Approaching Day)/ Yaumill Waqtill Ma'-loom (The known time Day) :

15:38/ 40:18/

J. JANNUT/PARADISE :

2:35, 82, 221/ 3:133, 182/4:124/ 5:72/ 7:40, 42/ 9:111/ 13:35/ 16:32/ 19:60/ 25:8/ 26:90/ 29:58/ 41:30/ 43:70/ 46:14/ 53:15/ 59:20/ 79:41/ 88:10/ 89:30/ 98:8

K. JAHANNUM/HELL :

2:206/ 3:12, 162/ 4:55, 140/ 7:179/ 8:16, 36/ 9:35, 81, 109/ 11:119/ 13:18/ 14:29/ 15:43/ 17:39/ 18:100, 106/ 20:74/ 21:98/ 25:34/ 35:36/ 40:40/ 45:10/ 48:6/ 78:21/ 75:10/ 98:6

L. QADR-E-KHYR / SHARR—THE GOOD AND BAD FATE / DESTINY :

2:117/ 3:48/ 6:2/ 19:35/ 25:2/ 40:68

PART TWO

IBAADAAT OF ISLAM : (عبادات اسلام)

WORSHIP IN ISLAM

1. OBLIGATORY CLEANLINESS (Taharah/Aazaan/Masjid) :

(i) Obligatory bath/clean clothes 2:222/ 4:43/ 5:6/ 9:108/ 51:56// 74:4, 5

(ii) Ablusion (Woodho) = 5:6

(iii) Oral cleansing (Tayamuun) = 4:43/ 5:6

(iv) Call for Prayer - (Aazaan) = 5:58/ 62:9

(v) Masjid/Mosque = 2:114/ 9:16, 17 106/ 22:40/ 24:26/ 72:18

2. SALAAT (Compulsory Muslim Prayers) :

(i) Muslim Prayer achieves piety and welfare = 2:3, 42, 110, 238/ 4:43, 77, 101 to 103/ 5:6, 58/ 6:72/ 7:170/ 8:3/ 9:5, 11, 18, 54, 71/ 11:114/ 14:40/ 17:78/ 19:55/ 20:14/ 21:73/ 22:41, 77/ 23:1, 3, 9/ 24:27/ 27:3/ 29:45/ 31:17/ 42:38/ 51:56/ 62:9/ 87:14, 15/ 98:5/ 107:4

- (ii) **Muslim Prayer is compulsory** = 2:3, 43, 45, 83, 110, 153, 177, 238, 277/ 11:114/ 13:22/ 14:31, 37/ 17:78/ 19:31, 55/ 20:14, 132/ 21:73/ 22:35, 41, 77, 78/ 23:9/ 24:37, 56/ 27:3/ 29:45/ 31:4, 17/ 33:33/ 35:18, 29/ 42:38/ 58:13/ 63:9/ 73:20/ 98:5
- (iii) **Congregational Prayer on the fixed times with full preparation facing only the Ka'abah in Makkah is compulsory** = 2:43, 142 to 150/ 3:4:101 to 104/ 7:31, 29/ 10:87/ 29:45
- (iv) **Never commit any of the don't's in the Prayers** = 4:43, 143/ 7:205/ 9:54/ 17:110/ 23:2/ 107:4 to 6
- (v) **Times fixed for daily five compulsory and one optional Muslim Prayers as well as weekly obligatory Jumuah (Friday) Prayer** —
- (a) **Fajr (Early morning Prayer before sunrise)** = 11:114/ 17:78/ 19:11/ 20:130/ 24:36, 58/ 30:17/ 33:42/ 48:9/ 50:39/ 52:48/ 76:25
- (b) **Zuhar (After mid-day Prayer)** = 17:78/ 30:18
- (c) **Asr (After noon pre-sunset Prayer)** = 2:238/ 11:114/ 17:78/ 20:130/ 24:36/ 30:18/ 38:32/ 50:39/ 76:25
- (d) **Maghrib (Sunset Prayer)** = 11:114/ 19:11/ 20:130/ 30:17/ 33:42/ 48:9/ 50:40/ 52:49/ 76:25
- (e) **Ishaa (Before mid-night Prayer)** = 11:114/ 17:78/ 20:13/ 24:58, 85/ 50:40/ 52:49/ 53:49/ 76:26
- (f) **Tahajjud (optional early dawn Prayer)** - 2:130/ 3:113/ 17:79/ 39:9/ 52:49/ 73:2 to 8.20/ 76:26
- (g) **Jumuah (compulsory weekly after mid-day Prayer)** - 62:9, 10, 11
- (h) **Qasr - shortening obligatory prayer** - 4:101 to 103
3. **'SIYAM (Compulsory fasting of Muslims) -**
2:183 to 187, 196/ 4:92/ 5:89, 95/ 33:35/ 58:4
4. **ZAKAAT (Compulsory dues to be paid by the haves to the have - not Muslims)**
= 2:3, 43, 83, 110, 177, 195, 215, 261 to 276/ 3:17, 92, 134, 180/ 4:8, 37, 39, 77, 162/ 5:12, 55/ 6:141/ 7:156/ 8:3, 60/ 9:5, 60, 71/ 13:22/ 14:31/ 17:26/ 18:81/ 19:31/ 21:73/ 22:41/ 23:1/ 24:22, 37, 56/ 27:3/ 28:54/ 30:38, 39/ 31:4/ 32:16/ 33:33/ 34:39/ 35:29/ 41:7/ 51:14/ 57:7, 10, 11, 24/ 58:13/ 63:10/ 64:16, 17/ 70:24, 25/ 73:20/ 74:44/ 76:8/ 92:5, 18, to 21/ 98:5/ 107:7
5. **HAJJ and 'Omrah (Muslim Pilgrimage) =**
2:16, 115, 125 to 128, 142 to 150, 158, 189, 196 to 203/ 3:96, 97/ 5:1, 2, 95, 96/ 9:3/ 14:35, 37/ 22:25 to 33, 36, 37
6. **JEHAAD (The sacred war/struggle for truth and defence of Islam) =**
2:11, 154, 190, 191, 193, 210, 216 to 218, 244, 246, 251/ 3:13, 121 to 128, 139 to 160, 165 to 175, 195/ 4:74, 76 to 78, 83, 84, 89, 90 to 96, 101, 104/ 5:2, 11, 35, 54, 65/ 8:1, 5 to 18, 38 to 48, 72 to 74, 75/ 9:5, 12 to 16, 19, 20, 24 to 26, 36, 38 to 41, 44, 51, 73, 81, 86, 88, 90 to 96, 111, 120 to 123/ 16:110/ 22:38 to 41, 58, 59, 78/ 29:6, 69/ 33:9 to 27/ 47:4 to 9, 20, 21, 31/ 49:15/ 57:10, 25/ 59:2 to 10, 14/ 60:1/ 61:4, 11/ 66:9/ 72:20/ 73:20/ 110:1 to 3
7. **AMR BIL MA'-ROOF/NAHEE 'ANIL MUUNKAR (There are 1000 Verses for Quraanic Do's and 1000 Verses for Quraanic Donot's - only a few are quoted here) =**
3:44, 104, 110, 114, 143, 186/ 4:63/ 5:63, 79, 105/ 7:157, 165, 181, 199/ 9:67/ 11:11/ 15:85/ 16:125/ 17:125/ 22:41, 78/ 29:46/ 31:17/ 35:32/ 41:33/ 50:45/ 80:1 to 12/ 87:9 to 11
8. **TABLEEGH (Preaching, inculcation and motivation to Islamic life according to the life patterns of the Holy Prophet S.A.W.) =**
5:66, 97/ 24:54/ 33: 1/ 103:3
9. **INFAAQ (Spending in the way of Allah as ordained by Him) =**
2:215, 270, 272/ 3:92/ 4:34/ 8:60/ 13:22/ 25:67/ 34:39/ 35:29/ 48:38/ 57:7, 10/ 60:10/ 63:7

10. **AITIKAAF (Prayer, recitation of Quraan and Remembrance of Allah in self-house/Masjid seclusion) = 2:125, 187/ 22:25**
11. **TAUBA / ISS-TIGH-FAAR (Repentance / Seek forgiveness of Allah) = 2:37, 54, 160/ 3:89, 135/ 4:16, 17, 22, 64, 96, 96, 106/ 5:39/ 6:54/ 9:117/ 12:98:16:119/ 19:60/ 20:82/ 25:71/ 57:13**
12. **SUPPLICATIONS / SUBMISSIONS TO ALLAH S.W.T. : 2:182/ 13:30/ 23:118/ 28:16/ 59:10/ 60:5/ 66:8/ 71:28**
13. **ZIKR-REMEMBRANCE :**
- (a) Tasmia-Tull-Quraan (Bismillah)= 1:1/ 6:118, 119/ 11:47/ 27:30
- (b) Pure Remembrance of Allah and submit to Him for Darood (blessings) on the Holy Prophet S.A.W. = 2:40, 47, 122, 165/ 3:41, 103, 191./ 4:103/ 5:54/ 7:86/ 8:203/ 13:28/ 14:6/ 33:9, 16, 21/ 35:3
14. **ASSRAA (Ascension of the Holy Prophet S.A.W. on 15th Sha'-baan for Mairaj : 17:1/ 53:7 to 18**
15. **LYLA TULL QADR (The Night of Power, Majesty and glory for sincerest worship) for best credits on 27th night of Ramadhan-ull-Mubarik : 97:1 to 5; 53:1 to 18**
-

PART THREE

MOAAM-MI-LAAT (مواملات)

(HUMAN AFFAIRS/COLLECTIVE LIFE)

Social Science and Economics / Inter Personal Affairs And Personal Human Relations / Social Psychology Of Knowledge / Personal Morals / Women Status / Children / Parents / Social Systems.

1. SOCIAL SCIENCES :

(A) Human Belings - Both Sexes =

- (i) Perfect in creation for both sexes bestowed good Self (NAFS) : 2:281, 286/ 7:10; 91:7/ 95:4
 (ii) Man created with independent self - 2:281, 286/ 7:10/ 91:7/ 95:4
 (iii) Bad interaction makes men worst in manners - 95:5
 (iv) Man is best in nature with best stature - 50:16/ 95:4
 (v) Male and female are good spouses - 30:21
 (vi) Pious men/women - 3:133, 134, 195/ 4:1, 7, 124/ 43:10, 11/ 49:13
 (vii) Good and bad destiny depends on human actions - 41:46
 (viii) Intelligence of man - 14:33/ 41:53/ 50:16
 (ix) Man has good and bad self - Nafs - 2:281/ 12:53/ 91:7 to 10
 (x) After hardship there is ease for man - 94:5, 6
 (xi) Bad for man may be made good by Allah - 2:30, 215/
 (xii) Man is the best creature - 76:1, 2/ 82:6 to 8/ 95:4
 (xiii) Never be arrogant and boastful - 25:63, 64/ 57:23
 (xiv) Man must fear Allah & remember Him - 32:16
 (xv) Forgiving is the best - 3:133, 134
 (xvi) Human life and death is only for Allah - 6:162, 163, 166/ 10:14/ 11:7/ 18:7/ 21:35/ 23:115/ 33:72, 73/ 35:39/ 45:22/ 51:56, 57/ 67:2/ 75:36
 (xvii) Allah creates man and He is nearer to his life vein/artery - 50:16

(B) Sociology of Knowledge / Educational Psychology :

- 2:231, 268, 269/ 3:104/ 4:113/ 16:125/ 20:114/ 29:43/ 33:34/ 35:28/ 39:9, 23/ 55:2/ 58:11/ 68:1, 2/ 94:1, 4, 5/ 96:1 to 3
- (C) Human Labor / Psychology of Work :
- 2:285/ 3:195/ 5:1/ 16:91/ 17:24/ 18:79/ 28:25 to 27, 73/ 90:4
- (D) Psychology - Psychiatry - Dreams - Marital Complexes - Drugs - Suicide :
- (i) Patience and dependence on Allah can give best confidence - 2:155
 (ii) Fearlessness lies in the love of Allah - 2:38, 277/ 5:69/ 9:40/ 10:62/ 39:61/ 106:3, 4
 (iii) Satisfaction - 9:40/ 35:34
 (iv) Repentance - 2:286/ 3:89, 90/ 4:18/ 5:39/ 6:54/ 19:60/ 66:8
 (v) Superiority / Inferiority complexes - 49:11, 13/ 64:3/ 113:5
 (vi) Boastfulness - 25:63, 64/ 57:23/
 (vii) Frustration - 57:23/
 (viii) Dreams - 12:4 to 7, 41 to 56/ 37:102, 111/ 48:27
 (ix) Wine / Drunkard / Addiction / Narcotics / Drugs totally prohibited - 44:43, 46/ 56:62, 54/ 61:63, 69/ 2:219/ 4:43/ 5:90, 91
 (x) Suicide prohibited - 2:195/ 18:6, 7
 (xi) Envy/Malice/Jalousy is so bad = 113:5
- (E) Equality/Human Rights/Mutual Respect/Mutual Love :
- 2:220/ 4:1/ 6:98/ 7:189/ 9:11, 23/ 17:70/ 49:10/ 59:10
- (F) Islamic Social Characteristics in Group Life:
- (i) Truthfulness of People in public affairs - 2:42, 147/ 3:15 to 17/ 5:119/ 9:119/ 17:33/ 22:54/ 27:79/ 29:3/ 30:60/ 33:8, 24/ 34:23/ 38:26/ 40:77/ 103:2

- (ii) **Patience/Tolerance** - 2:45, 153 to 157, 249/ 3:200/ 4:25/ 7:137/ 8:46, 60/ 16:110, 127/ 29:59/ 31:17/ 41:30/ 42:43/ 46:3, 14, 35/ 68:48/ 72:117/ 90:17/ 94:7, 8/ 99:7, 8/ 103:4
- (iii) **Cooperation in Virtues** - 5:2
- (iv) **Gratefulness/Thankfulness to Allah** = 2:152, 172/ 3:144, 145/ 4:147/ 6:53/ 14:5, 7/ 16:114/ 23:78/ 31:12, 14/ 32:6/ 34:19/ 39:7/ 67:23/ 76:3
- (v) **Kindness** - 2:178/ 3:134, 148/ 3:172/ 5:12, 13/ 9:100/ 11:3, 114/ 12:56/ 16:90, 128/ 17:23/ 18:2/ 22:58/ 25:70/ 27:8, 110, 121/ 48:16/ 55:60/ 59:9/ 77:44

(G) Economics :

- (i) **Economic Life/Just dealings/Equitable give and take/Weights and measures/Just social system** : 2:112, 188, 195, 198, 215, 216, 245, 254, 275, 278, 279, 282/ 3:14, 27, 37, 92, 130, 168, 180, 188, 191/ 4:5, 9, 10, 29, 32, 36, 37, 42, 62, 58/ 5:61, 63, 85, 160, 161/ 6:53, 152, 153/ 7:10, 31, 85/ 8:69/ 9:6, 34, 35, 75, 103/ 11:84 to 86/ 13:26/ 15:20/ 16:17, 114/ 17:21, 29, 31, 35, 37/ 18:7, 95/ 20:124/ 23:72/ 24:38/ 26:118/ 28:60, 77, 82/ 29:62/ 30:37, 39/ 34:36, 39/ 35:2/ 39:52/ 41:10/ 42:12, 19, 27/ 43:32/ 55:7 to 9/ 57:20/ 59:7/ 64:17/ 65:2, 3, 9/ 70:15 to 18/ 83:1 to 6
- (ii) **Riba/Interest prohibited** - 2:219, 275 to 279/ 3:130, 131/ 4:161/ 5:91/ 9:24/ 24:37/ 42:9 to 11
- (iii) **Documentation in Economic deals** - 2:282
- (iv) **Inheritance of wealth / property** - 2:180 to 182, 240/ 3:7 to 14/ 4:19, 20, 33, 176/ 8:72/ 33:4, 5, 37, 40/ 89:19

2. THE MUSLIM FAMILY, GROUP LIFE, FEMALE (WOMEN) AND CHILDREN'S STATUS AND RIGHTS IN ISLAM :

(A) The Muslim Family Life / Family Laws :

- (i) **Muslim Marriage** : 2:221, 223, 226 to 230, 235, 287, 240, 241/ 4:3, 7, 6, 19 to 25, 34, 35, 127, 130/ 5:5/ 24:3, 26/ 30:21/ 33:4, 6, 32, 33, 36, 38, 49 to 53/ 58:1 to 4/ 60:10, 11/ 65:1 to 7/ 66:1 to 5
- (ii) **Muslim Divorce** : 2:226 to 232, 236, 241/ 4:35, 128, 130/ 33:49/ 65:1 to 3, 6, 7
- (B) **Parent's Rights / Respect of mother and father** : 2:27, 83, 180, 215, 233/ 4:1, 36, 135/ 6:15/ 13:25/ 14:4/ 16:90/ 17:23, 24, 26/ 19:14, 32/ 27:199/ 29:8/ 30:38/ 31:14, 15/ 46:15 to 17/ 47:22, 23/ 71:28

(C) The Women's Rights in Islam :

2:187, 228, 233, 234, 237, 241/ 4:4, 7, 19 to 21, 32, 34, 127 to 130/ 24:23/ 60:12/ 70:13

(D) Matrimonial rights of wife in Islam :

2:229, 237/ 4:4, 19 to 21, 24/ 33:49/ 60:10, 11

(E) Children's rights in Islam with two years obligatory sibling:

2:233/ 31:14, 17/ 46:15/ 65:6 and 7

(F) Rights of the have nots, neighbors, people under debt, poor and travellers :

2:83, 177, 215, 286/ 4:8, 36/ 5:7/ 8:41/ 9:60/ 17:28/ 24:22/ 69:4, 34/ 74:44/ 93:10/ 107:3 to 7

(G) The Muslim Inheritance and Rights of individuals :

2:180 to 182, 240/ 4:7 to 14, 19, 20, 33, 176/ 8:72/ 33:4, 5, 37, 40/ 89:19

(H) Rights of the Orphans :

2:83, 177, 215, 220/ 4:2, 6, 8, 10, 36, 127/ 6:152/ 8:41/ 17:34/ 59:7/ 76:8/ 89:17/ 90:5, 14/ 93:9/ 107:2

3. UNITY, FAITH, DISCIPLINE :

3:28, 103, 118, 119/ 5:51, 58/ 8:63/ 9:11, 12, 23/ 58:22/ 60:1

4. PERSONAL CHARACTER, SOCIAL LIFE, INDIVIDUAL VIRTUE, AND GOOD TRAITS OF A MUSLIM :

- (i) **Righteousness is in the nature of a Muslim** : 2:263/ 3:104, 110/ 4:19, 114/ 7:157/ 9:67, 112/ 16:90/ 17:157/ 19:29, 45/ 22:41/ 24:21/ 31:17/ 47:21/ 60:12/ 65:6/ 95:4
- (ii) **Piety, gentleness, good patterns and right attitude** : 2:2 to 5, 24, 201, 212/ 3:15, 172/ 5:93/ 6:36/ 7:26/ 9:4/ 12:109/ 16:30, 128/ 28:83/ 39:61/ 41:40, 49/ 13/ 54:54/ 77:41/ 103:2, 3

- (iii) Fear of Allah : 2:45/ 3:199/ 21:90/ 23:2/ 33:35/ 36:11/ 50:23/ 55:46/ 57:16/ 79:9/ 98:8
- (iv) Love of Allah : 2:46, 156/ 5:48, 105/ 23:80
- (v) Patience/Perseverance/Endurance = 2:45, 153, 155, 156/ 3:186, 200/ 10:109, 11:115/ 16:126, 127/ 20:130 to 132/ 40:55, 77/ 44:35/ 50:39/ 70:50/ 73:10, 11/ 103:3
- (vi) Sincerity (Ikhlāss) : 2:286/ 4:94, 146/ 7:23, 29/ 10:22/ 12:24/ 15:40/ 19:51/ 19:65/ 37:128, 160/ 38:46/ 39:3, 11, 14/ 40:14, 65/ 103:1 to 3
- (vii) Dependence on and confidence in Allah (Tawakkal) 2:122/ 3:159/ 5:11/ 8:2, 49/ 9:51/ 11:123/ 12:67/ 14:11/ 20:46/ 25:58/ 26:217 to 219/ 27:79/ 39:38/ 43:5, 10, 36/ 58:10/ 60:4/ 64:13/ 65:3
- (viii) Strong commitment (Yaqeen-e-Mohkam) - 39:23
- (ix) Straight Path/Righteous Life : 1:5/ 4:87, 68, 175/ 5:16/ 6:87, 126, 153, 168/ 11:58/ 15:41/ 16:121/ 22:24, 54/ 23:73/ 24:6/ 36:4/ 37:118/ 38:22/ 41:40/ 42:52/ 43:43, 61/ 48:2
- (x) Honesty - 2:283/ 4:56, 58/ 7:67/ 8:27/ 26:89/ 27:39/ 33:72/ 70:32
- (xi) Fulfilment of Promise/Obligations/Agreements - 2:27, 125, 177/ 3:77/ 5:1/ 6:152/ 8:56/ 9:7, 75/ 10:91 to 95/ 16:91/ 17:34/ 23:15/ 36:60/ 70:32
- (xii) Sacrifice - 59:9
- (xiii) Kindness - 4:1/ 8:75/ 33:6/ 47:22
- (xiv) Forgiveness/Pardon - 2:263/ 3:133, 159/ 4:148/ 5:13/ 7:199/ 24:22/ 42:40/ 43:89/ 45:14
- (xv) Humility : 6:42, 43/ 7:161/ 57:16
- (xvi) Entering others' Houses - Manners : 24:27 to 29

PART FOUR

MOHKAMAAT (محکامات)

(ISLAMIC GOVERNMENT)

1. STATE POLICY, CONSTITUTION, GOVERNMENT, SOCIAL CONTROL :
 - (i) Governance is for Allah only = 6:57, 62/ 12:40, 67/ 28:70, 88/ 40:12.
 - (ii) Man governs other men as a pious Vicegerent of Allah under a Divine Trust = 2:30/ 5:120/ 7:158, 166/ 9:116/ 20:62/ 24:42/ 25:2/ 35:13, 39/ 38:26/ 39:6, 44/ 42:49/ 43:85/ 45:27/ 48:14/ 57:2/ 64:1/ 67:1/ 85:9.
 - (iii) The real governance of heavens & earth is for Allah with the trust of earth to man = 2:107/ 3:26, 110, 189/ 5:17, 40/ 7:54/ 23:88, 89/ 25:2/ 36:83/ 39:6, 44
 - (iv) Who do not govern as prescribed by Allah are condemned = 4:60, 65/ 5:44, 47, 49/ 38:26.
 - (v) Allah and His Prophet be strictly followed in all affairs = 4:59/ 42:10/ 4:60/ 3:23.
 - (vi) Management of affairs dear to Allah is that which is according to Islamic system only as it over-rides all other systems = 2:193/ 8:39/ 3:19, 85/ 9:33/ 48:28/ 61:9.
 - (vii) System of Allah can be administered only by His pious devotees = 21:105
 - (viii) Priority be assigned to the Order of Allah only = 5:50/ 17:111/ 20:114/ 38:10.
 - (ix) Muslim State affairs are run by democratic consultancy = 3:159/ 42:38.
 - (x) Fundamental objectives of Government in Islam = 2:247/ 5:66, 99/ 8:60/ 21:105/ 22:41/ 23:96/ 24:54/ 33:71/ 103:3
 - (xi) Obedience to Muhammad S.A.W. (his Sunnah) is obedience to Allah = 4:6, 59, 80/ 59:7
2. LAW AND JUSTICE:

2:188, 282, 283/ 3:58, 110/ 4:29, 58, 135, 161/ 5:2, 8, 42 to 51, 70, 115, 152/ 7:29, 181/ 16:90/ 22:30/ 24:24, 25/ 25:72/ 33:58, 70 to 72/ 42:15, 40/ 49:9/ 57:25/ 60:8
3. CRIME, CRIMINOLOGY, AND PENOLOGY :

2:178, 179, 194, 195, 251/ 4:15, 16, 25, 29, 30, 43, 92, 93/ 5:32 to 34, 38, 39, 45, 90, 91/ 6:54, 151/ 7:33/ 16:90/ 22:40/ 24:2 to 5, 7 to 9, 19, 23 to 25, 30 to 33/ 25:68, 69/ 33:58/ 60:12

Crime theory - basic elements = 3:14/ 40:41

- (a) **Crime against person :**
Murder/retaliation (Qisas) = 2:61, 178, 179/ 4:92, 93/ 5:32, 45/ 6:151/ 17:33, 25:68
- (b) **Crime against human body :**
Injury/retaliation (Qisas) = 5:45.
Intoxication, drinking wine, drugs and narcotics are completely Prohibited = 2:219/ 4:43/ 5:90, 91
- (c) **Dacoity/Robbery** = 2:191, 193, 217/ 5:33/ 7:41, 85, 86/ 8:39, 73/ 10:81/ 11:85/ 17:53/ 26:183/ 28:77/ 28:93/ 29:36
- (d) **Theft (Sarqa/Property Crime)** = 5:38.
- (e) **Rioting, Terrorism, Rape, Dacoity, Robbery and Arson** = 2:191, 193, 217/ 5:33/ 7:41, 85, 86, 8:39, 73/ 10:81/ 11:85/ 17:53/ 26:183/ 28:77, 83/ 29:36.
- (f) **Adultery, illegal sex, fornication, sex crimes** = 4:15, 16, 19, 25/ 6:152/ 17:32/ 23:5/ 24:2 to 5, 25, 33/ 25:68.
- (g) **Qadaf (wrong allegation)** = 24:4
- 4. POLICE MANAGEMENT AND BASIC DUTIES :**
3:110/ 5:166, 99/ 21:105/ 23:96/ 24:54/ 33:71/ 103:3
- 5. PROSECUTION, WITNESS, CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE, OATH, DOCUMENTARY PROOF :**
2:140, 282, 283/ 4:135/ 5:8, 106, 107/ 12:25 to 28/ 24:4, 6 to 9, 13/ 25:72/ 65:2/ 70:33.
- 6. PRISON/CORRECTION :**
1:5/ 6:54/ 12:25, 33 to 37, 39, 41, 42/ 76:8.
- 7. PRISON DIET** = 12:37/ 76:8
- 8. EXECUTION TO LEGAL DEATH** = 12:41
- 9. PROBATION/PAROLE** = 12:41
- 10. PUNISHMENT/PENOLOGY/PENALTY =**
3:188/ 6:15, 16/ 10:50 to 53/ 11:101 to 104/ 13:34/ 16:88/ 46:20/ 70:1 to 3/ 79:37 to 39/ 96:15 to 18
- 11. DIYAT :**
Restitution, compromise, compensation in murder and in injuries. 2:178/ 5:32, 45.
- 12. AFW (Forgiveness)/PARDON** = 2:178, 263/ 3:133, 159/ 4:1, 92, 148/ 5:13, 45/ 7:199/ 8:75/ 24:22/ 33:6/ 42:40/ 43:89/ 45:14/ 47:12.
- 13. NIZAM-E-IJTAMAE (Socio-Political Life) :**
- (a) **Al-huukm (Law & Order)** - 2:113/ 3:23, 110/ 4:141/ 5:42, 44 to 49/ 7:87/ 10:109/ 13:41/ 16:124/ 21:112/ 22:56, 69/ 24:48, 51/ 38:26/ 39:3/ 60:10
- (b) **Wealth, Finance and Control System** : 2:247/ 3:26/ 4:59, 83/ 6:141/ 8:41/ 9:29
- (c) **Weights & Measures** : 2:100/ 3:75/ 6:152/ 7:85/ 8:27/ 11:85/ 17:35/ 26:181 to 183/ 33:23, 24/ 42:17/ 55:7 to 9/ 83:125/ 103:126
- (d) **Properties, Possessions and Control** : 2:29, 107, 251, 258/ 3:26, 189/ 5:17, 18, 40, 120/ 6:73/ 5:157/ 8:1, 41/ 9:111, 116/ 10:55, 66/ 17:111/ 24:29, 42/ 25:2, 26/ 40:14, 29/ 41:49/ 44:85/ 48:14/ 57:2, 5/ 85:9
- (e) **Invite to Piety/Righteousness in group life** : 3:110/ 5:66, 99/ 21:105/ 23:96/ 24:54/ 33:71/ 103:3
- (f) **Racialism discrimination, ethnocentrism rejected** : 2:135 to 137/ 3:110

INDEX II

PURE SCIENCE; APPLIED SCIENCES; AGRICULTURE; ANIMAL HUSBANDRY; MEDICAL SCIENCES

A. PURE SCIENCE :

1. The Sun, Moon, Stars, Upper Atmosphere, Light, Heaven, Astronomy, and the Earth 2:22, 164, 255, 3:191, 6:86, 87, 96; 7:205; 3, 5, 6; 13:3, 41; 14:32, 33, 48; 15:14, 16, 17; 16:12, 13; 20:4, 53; 21:33, 44; 23:17; 24:35; 31:10; 36:38 to 40; 37:5, 6; 40:64; 41:9, 11; 43:105; 44:10; 45:13; 50:4, 7, 51:48; 53:49; 54:4, 55:5, 6, 10; 55:5, 6, 10; 67:3 to 5; 57:17; 65:12, 68:15; 69:14; 71:19; 73:14, 77:25; 78:6; 79:30; 80:26; 81:15; 84:16; 88:1, 2; 89:21; 99:1, 2
2. Physics and the unknown Astrophysics of the Universe = 56:75
3. Light, Radiation, Gamma Rays = 2:164; 13:2; 24:35
4. Geology = 2:255; 7:54; 10:3; 11:7; 19:65; 25:59; 19:65; 32:4; 50:38; 57:4
5. Animate and In-animate creatures in pairs = 36:36
6. Geological carbonates (oil out of herbs/earth) = 87:2 to 5
7. Rivers, Seas, Oceans, Gulf, Bay = 2:164; 5:96; 14:32; 16:14; 17:66, 70, 91; 22:65; 25:53; 31:31; 42:32; 45:12; 52:6; 55:19, 24; 81:6; 82:3
8. Fire from heaven = 2:19, 55; 4:153; 5:143; 13:13; 39:68, 41:13, 17; 51:44; 52:45
9. Physics of Atmosphere and Geography of rain for soil productivity = 2:19; 6:99; 14:32; 16:10, 11; 65; 20:53; 31:10; 36:33; 43:11; 80:24, 25;
10. Astrology/Cosmos/Cosmology = 2:29, 189; 10:5; 15:16, 17; 17:12; 21:33; 23:17; 36:37 to 40; 37:6 to 8; 67:5; 29:27, 28; 86:1, 3, 11
11. Theory of Relativity of universe and its Geographic diversions converging and regressing day and night 14:33; 28:73; 36:37
12. Rotation of the earth with gravitation and centrifugal force = 27:88; 29:44; 31:20;
13. Oceanology of non mixing but converging Oceans, unique oceanographic marine life equipped with natural radar, supernatural creatures: Darkness of deep sea = 2:164; 16:14, 32 to 34; 24:40; 55:19, 20; 37:141
14. Soil conservation for vitality of earth & Bio-chemistry = 36:33; 55:10
15. Creation of things/life, incubation and fertilization = 6:95; 20:53; 36:12, 55:10
16. Genetics of human procreation = 22:5 to 7; 95:4; 96:1, 2
17. Radiology of Divine light = 23:20; 16: 5, 6, 11, 66, 80; 55:10; 80:24, 32, 18 to 22
18. Mountains = 8:74; 15:82; 16:68, 81; 18:48; 20:105; 26:149; 27:88; 33:72; 35:27; 38:18; 52:10, 56:5; 69:14; 70:9; 73:14; 77:10; 78:5, 20; 89:32; 81:3; 88:19; 101:5
19. The clouds = 2:164; 5:57; 13:12; 24:40, 43; 27:88; 30:48; 35:9; 52:44
20. Earthquake = 7:78, 91; 29:37; 73:14; 79:6; 99:1
21. Seven Heavens/Seven Earths = 2:29; 17:44; 23:17, 86; 41:12; 65:12; 67:3; 71:15; 78:12
22. Astronomy = 6:97; 15:16 to 18; 16:16; 26:210 to 212; 37:6 to 10; 68:5; 72:8, 9

B. IRRIGATION ENGINEERING :

- 2:266; 6:99; 16:65; 17:91; 18:32, 34:16; 36:34; 37:45; 80:25;

C. BOTANY, FRUITS AND HORTICULTURE :

1. Manna 2:57; 7:160; 20:80
2. Date 2:266; 13:4; 16:10, 11, 67; 17:90, 91; 18:32; 19:23, 25; 20:71; 23:19; 24:148; 36:34; 54:20; 55:11, 68; 59:5; 69:7; 80:29;
3. Olive = 16:11; 23:20; 24:35; 80:29; 95:1
4. Grapes = 2:266; 7:160; 13:4; 16:11, 67; 17:91; 18:32; 23:19; 36:24; 78:31, 32; 80:27
5. Pomegranate = 13:14; 55:52, 54
6. FIG = 95:1
7. Cedar = 53:14; 54:28

8. Acacia = 56:29
 9. Tamarisk = 34:16
 10. Tooth Brush Tree = 34:16
 11. Camphor = 53:14, 15
 12. Ginger = 13:4
 13. Lentil = 2:61
 14. Onion = 2:61
 15. Garlic = 2:61
 16. Cucumber = 2:61
 17. Gourd = 37:46
 18. Mustard = 21:47; 31:16
 19. Sweet Basil = 55:12; 56:89
 20. Euphorbia = 17:60
 21. Bitter cactus = 76:6; 88:6
 22. Blessed Tree = 13:29
 23. Tree = 2:35; 7:19, 22, 28; 14:24, 26; 16:10, 68; 17:60; 20:120; 22:18; 23:20; 31:27; 34:62, 64, 146; 44:43; 48:18; 55:6; 56:52, 72
 24. Leaf = 6:59; 7:22; 20:121
 25. Quails = 2:57; 7:160; 20:80
 26. Herbs = 55:6
 27. Honey : 16:68, 69
 28. Miscellaneous Fruits; Natural Products = 2:22, 25, 126, 155, 266; 6:100, 142; 7:57, 130; 13:3; 14:32, 37; 16:11, 67, 69; 18:34, 42; 23:19; 25:27; 34:35, 57; 37:42; 38:51; 41:47; 43:73; 44:55; 47:15; 52:22; 56:20, 32; 60:11, 52, 68; 7:42; 80:31
- (D) FOOD :**
2:261, 266; 6:60, 96, 100; 7:160; 16:69; 21:47; 31:16; 36:33; 50:9; 55:12; 7:15; 80:24 to 31
- (E) AGRICULTURE :**
2:61, 261, 264 to 266; 6:95, 141; 16:11; 65; 18:32; 24:148; 31:10; 32:27; 39:21; 44:29; 48:29; 80:26 to 28, 31;
- (F) HERBS; VEGETATION :**
2:61, 261; 3:27; 6:142; 7:10, 58; 10:24; 1:6; 14:24 to 26; 15:19; 16:11, 65; 18:45; 20:53; 22:5; 23:20; 24:17, 22; 27:60; 31:10; 34:36; 27:146; 41:9, 10; 50:7, 9; 51:19, 20; 55:10, 11; 62:20; 71:17; 78:15; 80:27
- (G) ANIMAL HUSBANDRY :**
6:136 to 144; 16:5 to 8, 66, 80; 23:21; 30:32; 31:10; 36:36; 39:6; 40:79, 80; 55:10; 80:32
- (H) ZOOLOGY =** 2:260; 7:176; 36:36; 67:19; 105:3
- (I) HUMAN HEALTH HYGIENE/ANATOMY/BIRTH :**
2:10, 129, 184, 222, 269; 4:43; 5:6; 9:108; 51:56; 74:4, 5; 269; 10:57; 31:14; 16:69; 17:82; 22:5; 23:12 to 14; 26:31; 35:11; 39:6; 40:67; 41:44; 86:5 to 7
- Sickness, sick at heart, disease = 2:10, 184, 185, 196; 5:52; 8:49; 9:125; 22:53; 24:50, 61; 33:12, 32, 60; 37:20, 29; 48:17; 74:31
- Obligatory bath, Ablution, Personal Hygiene : 2:222/ 4:43/ 5:6/ 9:108/ 51:56/ 74:4, 5
- (J) STUDY OF NATURAL GROWTH :**
2:19, 20; 41:9, 10, 11, 39, 52; 42:11, 12, 29; 43:9 to 19, 31, 32; 45:3 to 6, 12, 13; 36:36; 67:3, 4
13 to 15, 16 to 23, 30; 71:1 to 25; 75:2 to 5, 36 to 40; 76: 1 to 3; 78:6 to 10.

INDEX III

ALPHABETICAL ORDER INDEX OF THE HOLY QURAAAN

A

AADAM (For Prophet Adam please see Index I Part One)

AARON (For Prophet Haroon please see Index I Part One)

AABEEL (Habeel murdered by Qabeel (Cain) both sons of Aadam - 5:27 to 30)

AAD PEOPLE - 7:65 to 72; 11:50 to 60; 25:38; 26:23 to 140; 29:38; 41:15, 16; 46:21, 26; 51:41, 42; 54:18 to 21; 69:4 to 8; 89:1 to 14

ABRAHAM - (Please see Index I Part One)

ABLUSION - (Please see Index I Part Two)

ABUNDANCE to the Holy Prophet - 93:8; 108:1

ABU LAHAB and his wife - 111:1 to 5

ACTIONS consequence - 17:13; 41:40; 76:13; 90:10; 91:8

ACTIONS GOOD AND EVIL = 41:40

ADMINISTRATION OF PUBLIC AFFAIRS

Entrusting authority in the best hands = 4:59 3:159 Representatives' mutual consultation = 3:139; 42:38.

Obligatory to obey Allah and His Messenger and those in authority = 4:59

Exercising authority over people equitably and with justice - 4:58 Safeguarding defence and security of state - 3:200

ACCUSATION, wrongly - 24:2, 6 to 10.

ADOPTION Adopted sons not real sons - 33:4

ADULTERY forbidden; punishable - 4:15, 16; 17:32; 25:68; 24:2, 3, 6, to 10, 27:30, 31

AFFLICTIONS purpose behind - 2:155-157.

AGREEMENTS (See Covenants)

AHLAL KITAAB - (Jews; Christians) 3:64; 97:1 to 3; 4:153, 171 .

AHMAD - 61:7

AL-AA'-RAAF - Dwellers were true believers - 7:46

AHMAD - Prophesied in Bible - 11:61

ALLAH (for full detailed and Glories of Allah see Index I - Part one)

Existence of Allah - 2:21; 2:28; 3:2; 3:18; 6:73; 13:2, 3; 22:48; 87:1 to 5

Unity of Allah - 2:163; 112:1.

None is to be worshipped except Allah - 2:116; 2:163; 2:163; 2:255, 3:2; 3:18 is the Allah is the Light of the heavens and the earth - 24:35.

Laws of Allah never change - 13:77; 35:43

ANSARS (the helpers of the Holy Prophet) - 9:99, 116

APES 1:65; 7:166

APOSTATE cause no damage to Allah's religion. They are severely punished = 3:144; 5:54; 2:217; 4:137; 5:54; 16:106; 47:25

ARABIC is best language of universal communication = 42:7; 26:193 to 195

ARABS - before the Holy Prophet offered human sacrifices to idols - 6:137.

ARABS - regarded a daughter a misfortune and buried them alive = 16:58, 59; 43:17

ARK - Noah was commanded to make - 11:37, 23:27.

ARK - Moses was placed in - by his mother in the river - 20:39.

ASN - Loaded with books = 62:5

ASS - Brey = 31:19

ASSOCIATING/ATONEMENT/EQUATING - Making someone associate/equal to Allah totally rejected as 'shirk' - 2:105, 221, 256, 257; 4:36, 48, 50, 52, 116; 6:151; 13:36; 22:26; 31:13;

35:13; 60:12; 71:213; 98:1, 6

B

BACKBITING : 49:12

BADR, War - 3:13, 124; 8:9, 11, 17, 19, 42, 47, 48, 51, 70; 30:4; 54:44 - 48

BAI - 'UT (Swear allegiance) - of the Prophet is - of Allah - 48:10, 18; 60:12

BAI-'UT of Women by the Prophet = 60:12

BAI-'UT-UL-HARAM (KA'AABA) = 2:124; 3:96, 97, 97; 52:4, 5; 5:97; 17:1

BAKKA-MAKKAH - 3:96

BANQUET (MAA-'IDA) Jesus wanted = 5:114

BANI ISRAEL - Please see under Israel under "I"

BAPTISM, for religion of Allah - 2:138.

BARZAKH - after death barrier = 23:100

BATTLE of Ahzaab - 33:10-25; of Badr (see Badr); of Hunain = 9:24; Khyber = 33:27; Ohud = 3:121, 122, 127, 152 to 155; Tabuuk = 48:1 to 29

BEGGING is discountenanced - 2:273; 4:32.

BELIEF (EMAAN) - 2:4 25, 136, 260; 3:179; 4:170; 7:158; 9:123; 18:88; 29:2, 3; 33:21, 22; 41:8; 47:7; 49:14, 15; 57:7; 61:10 to 12; 64:8, 9; 95:6

BELIEF - in life Hereafter. 2:4, 28; 17:52; 21:104; 22:66; 23:16; 40:11.

BELIEF - at the approach of punishment is not acceptable - 10:51, 52, 90-92; 40:85.

BELIEVERS, THE TRUE

Qualities of = 2:3 to 5, 165, 257, 285; 3:68; 8:2 to 4, 19, 74, 75; 9:71, 123; 21:94; 22:38; 23:1, 11; 24:51, 52, 62; 30:47; 31:4, 5; 32:15, 16; 33:47; 42:23; 47:7; 58:22.

- firmly stand on sure knowledge - 12:108.

- High ranks for - 9:19; 20:75; 58:11.

- are promised forgiveness, honors, delightful abodes and Gardens of Eternity = 4: 146; 8:4, 47; 9:71; 17:9; 30:15; 41:8; 84:25; 95:6

BIBLE, The Perversion:changes of = 2:79; 5:13, 15.

BIRDS = 67:19; 105:3

BLASPHEMY = 19:88 to 92

BLESSINGS on the Holy Prophet S.A.W. = 33:56

BOOK - People of Book refers to Jews and Christians who should believe in the Holy Prophet = 3:64; 4:153, 171; 97:1 to 3

BOOKS - (Please see details in Index I Part One E & F).

The Holy Quraan is the Ommull Kitab - The mother of Books = 3:7; 13:39; 43:4.

The Quraan is the exalted Book full of wisdom. 43:4; 81:10

BROTHERHOOD of man is ordained by Islam 3:103; 49:10, 13.

BURDEN - Bearing one's own = 29:12, 13; 35:18.

C

CAIN (Qabeel; Habeel sons of Aadam) - 5:27 to 31

CALF = Worship of by Israelites - 2:51; 7:148; 20:90

CAMEL = 81:4; 88:17; 91:13

CATTLE = created for the benefit of man = 6:142-144; 16:5, 66, 80; 23:21; 23:21; 30:32; 31:10 36:36; 39:6; 40:79, 80; 55:10; 80:32

CAVE Companion of the Holy Prophet S.A.W. (Abu Bakr) = 9:40

CAVE - People of = 18:9 to 22, 25, 26

CHARITY

- Reward of - 2:261, 265, 271 to 274

- rendered worthless by reproach or injury. 2:262 to 264.

- Good things alone to be given in 2:267.

CHILDREN

- should not cause diversion from remembrance of Allah. 63:9.
- Killing for fear of poverty, not educating or not bringing them up proper is forbidden. 6:151; 17:31
- Prayer for pure offspring. 3:38; 19:55; 20:132; 25:74; 46:15
- Good treatment of parents by - 17:23, 24; 46:155, 17

CHRIST - (Please see Index I Part One)**CHRISTIANITY**

Wrong doctrine of Trinity; Sonship of God = 4:171; 5:73, 74; 6:164 9:29, 30; 19:88 to 92; 53:38;

CLOUDS 2:164; 13:12; 15:22; 24:43; 30:48 to 50

COMMUNITY, THE SPIRITUAL - as the blessed group. 4:69,70

COMPANIONS of the Holy Prophet S.A.W. = 2:136, 218; 4:89; 8:62; 9:20, 44, 80, 88, 100; 18:28; 22:78; 33:22, 41 to 43; 48:18; 57:10; 59:8;

CONJUGAL RELATIONSHIP - object of - 30:21

CONSULTATION - 3:159; 42:38

CONFEDERATES against Islam - 33:9, 20, 22 to 27

CONTRACTS - should be in writing with two witnesses - 2:282.

CONTROVERSY - proper method to solve = 16:125; 29:46

CORAH (QAROON) - richest man of Pharaoh = 28:76, 78, 81

CORRECTION - (Please see Index I Part Two/Four)

COUNSEL is necessary in all matters in Islam = 3:159; 42:38.

COURTEOUS - how to be = 4:86

COVENANTS - fulfilment and repudiation of = 5:1; 6:91, 92; 8:59

COWARDICE = 3:122

CREATION, SPIRITUAL = 22:5, 6; 23: 12 to 17

CREATION OF MAN not without purpose = 23:115; 51:56; 75:36

- Stages in Man's creation - 22:5; 23:12 to 14; 35:11; 39:6; 40:67;
- How man is created = 86:5 to 7.
- Man created in the best moulds. 95:4.
- Man created as a single specy. 4:1; 16:72; 30:21.

CREATION OF UNIVERSE was with great purpose with wisdom - in great order = 15:85; 21:16, 17; 39:5; 46:3, 67:1 to 4; 21:16, 17.

- Universe subjected to man = 14:32-34; 16:10-14; 45:12, 13.

CRIME - (Please see Index I Part Four).

CRIMINAL JUSTICE - (Please see Index I Part Four)

CRITERION - 2:53; 8:29; 21:40, 50; 25:1

D

DACOITS AND ROBBERS - Punishment of - 5:33.

DAY - of Resurrection / Judgement / Last (Please see Index I Part One I)

- One - equal to 1 000 years. 7:54; 22:47; 32:4, 5; 61:12
- One - equal to fifty thousand years. 70:4.

DAROOD (Blessings for the Holy Prophet) = 33:56

DEAD PEOPLE - never return to this world = 2:28; 21:95; 23:99, 100; 39:58, 59.

Spiritually - could be raised in this world. 8:24, 42.

DEATH - 3:145, 185; 4:78; 6:93, 94; 8:50, 54; 14:17, 24, 25; 16:28 to 32; 20:74; 21:35; 29:57; 37:59; 54:60, 61, 83, 87; 62: 6, 8; 75:26, 29

DEEDS, GOOD

- will be rewarded ten-fold - 6:160
- endure = 18:46
- Basic principles of 2:3 to 5, 83, 109, 148, 152, 153, 155, 159, 172, 177, 185, 195, 207, 222,

- 243, 283; 3:43, 110, 134, 144, 172 to 174; 4:36, 58, 74, 135, 149; 5:1, 6, 8, 13, 16, 93, 119; 6:162; 22:29; 25:72; 60:1; 74:4, 5; 92:18 to 21
- Covenants- fulfilment of - 16:91; 17:34; 23:8; 70:32.
 - Chastity - 17:32; 23:5 to 7; 24:30, 33, 60; 25:68; 33:35; 70:29, 31.
 - Cooperation - 5:2; - excell in good deeds - 2:148; 3:110; 7:56
 - Courage: 9:39; 2:72, 73; 33:39; 46:13.
 - Feeding the hungry; 76:8; 90:14-16.
 - Forgiveness = 2:109; 3:134, 159; 4:149; 5:13; 7:199; 12:92; 24:22; 41:34; 42:37-40
 - Gratefulness = 2:152, 172, 185, 3:144; 5:6, 89; 14:7; 39:7, 66; 46:15.
 - Humility = 6:63; 7:13, 55, 146; 16:23, 29; 17:37; 24:30, 31; 28:83; 31:18, 19; 40:35.
 - Justice = 5:8; 6:152; 16:90; 49:9.
 - Parents - good treatment = 4:36, 17:23, 24
 - Relatives - good treatment - 2:177; 12:90, 92; 30:38
 - Patience = 2:45, 153, 155, 177; 11:11; 13:22; 16:126, 127; 28:80; 29:60; 39:10; 42:43; 103:3.
 - Peace-making between people = 4:114
 - Perseverance = 13:22; 41:30-32.
 - Poor; care of the = 2:85, 177, 215; 4:8, 36; 8:41; 9:60; 17:26; 24:22; 30:38; 51:19; 59:6; 76:8, 90:16.
 - Purity = 2:222; 5:6; 9:102, 107; 24:21; 33:33; 74:4; 87:14; 91:9, 10.
 - Sincerity = 39:2, 3; 98:5; 107:4-6.
 - Self-control = 4:135; 7:201; 18:28; 30:26; 79:40, 41.
 - Trusts-faithful discharge of = 2:285; 4:58; 23:8; 70:32.
 - Truth = 4:135; 5:119; 9:118; 17:81; 22:30; 25:72; 33:24, 35, 70; 39:32.
 - Unselfishness = 2:207, 262; 11:51; 59:9; 64:16; 76:8, 9; 92:19, 20.

DESERT ARABS - 9:90, 99, 101, 106; 48:11, 12, 16; 49:14

DEFAMATORY SPEECH - Allah dislikes = 4:148

DEVOTEES OF GRACIOUS ALLAH = 25:63, 64, 65, 68, 75, 76

DHUL QARNYN (CYRUS, OF PERSIA) = 18:83, 86 to 90, 95, 96;

DISBELIEF (KUFR) = 2:6, 7, 28, 256; 5:103; 10:69, 70; 11:16; 14:3; 16:112; 17:95; 36:8; 68:68; 17 to 33; 83:8; 109:1

DISBELIEVERS

2:6, 7, 26, 39, 98, 104, 165, 114, 121, 126, 161, 162, 171, 210, 257;

3:4, 10 to 12, 19, 21, 24, 32, 56, 86 to 91, 105, 106, 111, 112, 116 to 120, 149, 151, 176, 178, 181 to 183, 196, 197;

4:18, 36 to 39, 42, 56, 76, 102, 137, 150, 151, 168 to 170, 173;

5:5, 10, 36 to 41, 44, 45, 57, 58, 60 to 63, 67, 73, 78, 80, 104; 109:1 to 6 Etc. Etc in whole the rest of the Quraan.

DISCIPLES of Jesus = 3:52.

DISCIPLINE = 3:152; 59:4

DISEASE IN hearts of hypocrites; unbelievers = 2:10; 5:55; 8:49; 9:125; 22:53; 24:50; 33:12, 60; 47:20, 29, 74:3

DIVORCE (See under WOMEN).

DONKEY = 62:5; 31:19 (See also Ass)

DOWRY (See under WOMEN)

DUROOD (blessings on the Holy Prophet) - 33:56

EARTH (AL-ARDH) = 11:7; 27:88; 32:4, 41:9, 10; 55:17; 79:30; 84:3

EGYPT = 7:130 to 135; 12:43

EHSAAN (Kindness) = 55:60

ELEPHANTS = 105:1 to 5

ELIAS Prophet (Please see Index I Part One)

ENOCH (PROPHET IDRIS) Please See Index I Part One)

EQUALITY - 3:103; 49:10, 13

ETHNICITY; ETHNOCENTRISM & RACIALISM rejected = 2:136 to 137/ 3:110

EVIDENCE = be true - 2:282; 5:106, 108; 25:72; 41:20 to 23

EVIL - is self adopted = 76:2, 39; 90:8-10; 91:7, 8.

- Prohibition of overt and secret = 6:120, 151; 7:33.

- Punishment of - should be proportionate thereto = 6:160; 10:27; 28:84; 40:40

FASTING - (Please see Index I Part One)

FEAR OF ALLAH - 2:2; 3:102; 4:131; 55:46; 70:27

FIGHT FOR ALLAH (JEHAAD) Please see Index I Part Two.

FOUL FLESH Prohibited

- Dead Animal and Blood is - 2:173; 5:3; 16:115.

- Flesh of swine is - 2:173; 5:3; 6:145; 16:115.

- That on which the name of any other than Allah has been invoked = 2:173; 5:3; 6:145, 121; 16:115

- Flesh of animal which has been strangled or beaten to death, or killed by a fall or gored to death is - 5:3.

- An animal caught to death by a wild animal = 5:3

- Flesh of an animal slaughtered at an altar of idol - is - 5:3

FRAUD = 83:1 to 6

FRIDAY PRAYER = 62:9 to 11

FORNICATION is forbidden = 17:32; 24:2; 25:68

GABREEL/GABRIEL/JIBREIL - Disbelieving in = 2:97, 98

GAMBLING (See under Deeds, Evil)

GARDEN OF ETERNITY = 9:72; 15:45, 48; 18:31; 19:61, 63; 22:23; 33:75; 35:33, 35; 38:41, 49;

39:20; 50:31, 35; 51:17, 24; 54:54, 55; 55:46, 77; 69:21, 24; 74:5, 6; 83:22, 28; 88:8, 16; 98:8;

GOG AND MAGOG = 18:94, 99; 21:96, 100, 102

GOLIATH (JALUUT) = Defeat of - 2:249, 250.

GOOD REWARDS = 4:40; 6:160; 42:23

GOOD AND EVIL = 4:79, 85

GOSPEL - Revelation of = 3:3; 5:46, 47.

GOSPEL - Describes Prophethood of Muhammad S.A.W. and his followers and that he is the Last Prophet = 48:29.

GRAVE - 80:22; 82:4; 100:9

GROVE, DWELLERS OF THE = 50:14

GUARDIANSHIP = 2:282; 4:5, 6

GUIDANCE of Allah = 1:5; 2:5; 3:20; 7:43; 10:9; 20:50; 24:43; 27:80, 81; 47:17

H

HAARUUT AND MAARUUT - 2:102

HAJJ (Please see Index I Part One)

HAMAAN - 28:8, 38; 40:36

HANDS AND FEET witness - 34:65

HEART - 18:57; 22:46; 30:59; 40:35; 42:24; 63:3

HEALTH (See Index II)

HEAVEN (SKY) - 2:22; 10:3, 34; 15:21; 16:3; 17:92; 21:30, 32; 26:187; 31:10; 34:9; 36:40; 37:6;

39:67; 40:13; 41:11, 12; 51:7, 47; 67:5; 70:8; 77:9; 78:19; 80:11; 82:11

HEAVENS/EARTH/SUN/MOON/STARS - (Please see Index II)

HELL (Please see Index I Part One)

HEREAFTER (Please see Index I Part One)

HISTORY; HISTORICAL EVENTS; HISTORY OF PAST NATIONS:

- of selected believer nations = 2:136, 140, 248; 3:33, 35, 84; 4:54, 106; 5:27 to 32, 160; 12:6; 18:83 to 93; 19:6, 28; 30:2 to 5; 34:13

- of selected believer nations = 2:45, 50; 3:11; 7:13, 141; 8:52, 54; 14:6; 14:6; 15:59, 61, 78, 80; 18:9; 25:38; 26:126; 38:13; 50:14; 54:34, 41; 85:1 to 8; 111:1 to 5
- of cities and nations destroyed or made animal species = 3:13; 6:6, 44, 45; 7:4, 5, 92-102, 9:69; 10:13; 10:13; 11:100-102; 14:9 to 17; 15:10, 11; 16:26; 17:17; 18:32, 33, 60; 19:74, 99; 20:128; 21:11 to 15, 95; 22:25, 28; 53:50 to 52; 54:4, 5, 51; 64:5; 65:8, 9; 67:18; 67:18

HOLY LAND - 5:21, 26; 17:104; 21:105 to 112

HOME LIFE - Privacy of - 24:27 - 29, 30, 31; 32:59

HOMICIDE - Totally is borbidden - 4:92, 93

HONEY = 16:69

HOUSE, THE ANCIENT KA'AABA = 22:29

HOUSEHOLD, The Holy Prophet's Ahl-e-Byt = 11:73; 33:33; 66:4

HUDYBIYAH, TRUCE OF 48:1, 24, 25

HUUDHUUD - Solomon's bird - 27:20

HUMILITY - 6:42, 43, 63; 7:13, 55, 146, 161; 16:23, 29; 17:37; 24:30, 31; 28:83 31:18, 19; 40:35

HUMAN BIRTH (Please see Index II)

HOONAIN WAR - 9:24 to 26

HUNTING IS LAWFUL - 5:4

HUSBAND & WIFE RELATIONSHIP (See under Women).

HYPOCRITES - 2:8 to 20; 167, 168; 4:60 to 63, 70 to 73, 83, 88, 89; 138, 139, 141, 143, 145; 9:64, 65; 57:60; 58:14 to 19; 59:11 to 14; 63: 1 to 4, 7, 8

I

IBLIS (Satan) - refused to make obedience to Aadam with arrogance - 2:34; 7:11, 12; 15:30, 31, 17:61; 18:50; 20:116; 38:74

IDOL WORSHIP / IDOLATORS = 2:217; 4:50 to 52, 117; 5:60; 6:71, 136 to 139; 7:37, 189 to 198; 9:1 to 5, 113, 114; 10:17, 11:53; 12:106 to 108; 14:28 to 30, 35; 16:36, 75, 76, 86 to 88; 17:56, 57; 18:102; 19:81, 82; 21:22; 22:12, 13, 23, 73; 25:3; 26:71; 29:25; 32:31; 34:21; 35:13, 14, 40; 36:74, 75, 39:3; 53:19 to 23; 71:7, 8, 23

INFANTICIDE - is forbidden = 17:31

INFIDELS - 2:9 to 18, 24, 217; 25:22, 23; 178:27; 85:10, 19, 20; 109:1 to 6

INHERITANCE - Law of = 4:7, 8, 11, 12, 176

- Making a will of one's property and its distribution = 2:180
- Changing a will is a sin = 2:181
- A wrong by a testator may be corrected = 2:182
- At distribution relatives, orphans, poor and needy should not be forgotten = 4:8.
- Share of heirs = 4:11.
- Husbands are heirs of their wives = 4:12.
- Wives are heirs of their husbands = 4:12.
- Distributing property of the issueless person = 4:22, 176

INSAAN - Please see under Man in "M".

INTERCESSION

- No one can intercede without permission of Allah = 2:255
- Those whom they call beside Allah possess no power of - 43:86.
- Holy Prophecy can intercede = 2:255; 20:109, 34:23; 43:86.

INTOXICANTS - forbidden = 2:219; 5:90, 91.

IRON - 57:10, 25

ISAAC/ISSHAQUE : (Please see Index-I Part One)

ISHMAEL/ISSMAEEL = (Please see Index I Part One)

ISRAEL, THE CHILDREN OF (BANI ISRAEEL) :

- Israel was the name of Jacob. 3:93; 19:58.
- had a superiority on other nations in their own times = 2:47, 122
- Allah's continuous favours on - 2:47; 2:122.

- Cruelties of Pharaoh on - 2:49; 7:141; 14:6; 28:4.
- Moses was sent to rescue - from Pharaoh's tyranny = 7:1056; 20:47; 43:49, 50; 28:6
- Moses lead Israelites out of Egypt = 2:50; 7:136; 17:103; 20:77; 26:52; 44:23
- Number of - at the time of Exodus. 2:243.
- Bestowments of Allah on - 2:40 to 58, 63, 64, 122, 123; 5:20; 7:138, 141, 160; 10:93; 14:6; 20:80; 28:5; 44:30 to 33; 45:16, 17
- Shade of clouds over - through Sinui desert. 2:57; 7:160.
- Revert to idol calf worship on crossing the sea = 2:51, 54, 43; 7:138.
- Sending down of manna and salwa; water from rock - 2:57.
- Burning of the calf = 20:97.
- Allah commands - to slaughter a cow. 2:67 to 69.
- Chiefs of - were overtaken by an earthquake = 7:155, 165
- People made Apes = 7:166
- ask Moses to see Allah face to face. 2:55.
- Moses orders - to enter Palestine but they refused = 5:21.
- rejected signs of Allah, killed the Prophets and transgressed = 2:61, 65; 7:188
- Establishment of kingship and excessive wealth - through David = 2:246, 249, 255; 5:20
- Twelve spiritual leaders in = 5:12.
- cursed by Jesus and David. 5:78.
- History of Israelites = 2:40, 41, 62, 63, 66, 85, 92 to 96, 100, 102, 113, 135, 174 to 176; 3:23, 24, 98, 99, 110 to 112, 187, 199; 4:44 to 47, 155; 5:14, 15, 16, 18, 41 to 44, 51 to 55, 57, 64, 68, 70, 71, 77 to 82, 161; 7:159, 161 to 177; 61:118; 17:2 to 8; 58:12 to 19
- Cruelties of Israelites - Charge sheet by Allah = 2:59, 61, 65, 66, 75 to 81, 85 to 92, 99 to 103, 119, 140, 145, 146, 211, 246; 3:19 to 23, 24, 110 to 112, 181 to 183; 4:51, 52, 60, 61, 66, 153 to 158, 159, 160; 5:21, 32, 41 to 43, 59 to 64, 70, 71, 110; 7:162, 163; 45:17; 61:5

IA'TA-KAAF - Observance of - 2:187.

J

JACOB (YAQUUB) - (Please see Index I Part One)

JEHAAD (Striving for Allah) (Please see Index, I, Part two)

JERUSALEM - Destruction and rebuilding of = 2:259; 17:5, 7

JESUS (Please see Index I Part One)

JEWS incurred Allah's displeasure. 1:6; 5:77; 33:26, 27 59:2 to 6 (Also see under 'I' in Israel)

JIBREEL = 26:193; 2:97, 98;

JINN

Allah created Jinns for His worship. They learnt the Quraan from the Holy Prophet- 27:39; 46:29 51:56; 55:53, 56; 72:1

- created from fire = 6:128; 15:27; 55:15;

- Iblis was amongst the - 18:50.

- came to meet the Holy Prophet S.A.W. - 46:29.

JOB (PROPHET AYYUB) Please see Index I Part One

JOHN (PROPHET YAHYA) - Please see Index - I Part One

JONAH (PROPHET YUNUS) - Please see Index - I Part One

JOSEPH (PROPHET YUSUF) - Please see Index - I Part One

JUDGMENT, THE DAY OF - Please see Index - I Part One

JUSTICE = 4:105; 6:153; 60:90; 57:25;

K

KA'AABA (See BAIT-UL-HARAM)

KAUTHAR/KAUSAR (abundance to the Holy Prophet) = 108:1.

KHATUM-E-NABUWAT

Prophet Muhammad S.A.W. Last and final Prophet of Allah = 33:40.

KHILAFUT (Caliphate) - 24:55.

KNOWLEDGE 'ILM/AALAM = 2:151; 3:7, 18, 136, 159, 174; 3:18, 20, 66, 187; 4:37, 162; 5:101; 6:50, 119; 7:169; 190, 191; 9:121; 10:5, 6, 39, 93; 11:46, 47; 12:111; 13:3, 4; 14:1; 16:10 to 16; 17:12, 70; 18:65, 66; 20:114; 21 79, 82; 29:43; 30:9; 31:20; 35:28; 39:9; 45:12, 13, 17, 18; 58:11; 96:1 to 5

L

LABOR - 90:4

LAILA-TULL-QADR (The night of Exaltation/Power) = 97:1 to 5

LAW OF ISLAMIC SHARIYAH - 4:28

LAW of retaliation - 2:178

LIFE HERE - objectives - 18:27; 21:30; 23:12 to 14, 115; 29:64; 36:36; 40:67; 51:49; 53:32; 57:20; 71:14 to 18; 90:4

LIFE, the goal of is Allah = 6:21; 10:45; 13:2; 30:8; 84:6

LIFE HEREAFTER

- is determined by man's deeds in this life. 17:13; 15:20; 21:94; 35:34, 35; 39:20, 69; 43:80; 45:29; 50:18, 21 to 23; 57:12; 69:18; 82:10-12; 83:7-18; 86:8, 9; 99:6 to 8
- begins to manifest itself in this life. 41:30-32; 55:46; 89:27-30.

LIFE, WORDLY : Non-believers desire the - 2:200, 212.

- is inferior to the life Hereafter. 3:15; 4:77; 9:37; 23:114

LIGHT = 24:33

LIQOR Prohibited = 2:219; 5:90, 91

LOAN - 2:282, 286

LUUT (PROPHET) Please see Index I Part One.

LOTE - SIDRA - TUL - MUUNTAHAA : 53:14

M

MAN (INS), HUMAN BEINGS, HUMAN LIFE : Creation by Allah - 3:6, 59; 4:28; 7:12; 18:37; 17:70 22:5; 23:12 to 14; 30:30; 32:9; 36:77; 55:3, 14; 76:1; 87:2; 91:7, 8; 95:5

- has many weakness and is hasty by nature. 17:110; 18:54; 21:37; 30:36; 41:49; 70:19 to 21; 89:20; 103:2, 3
- Objective of creating = 2:131; 4:125; 5:92, 93; 7:25, 26; 51:56; 55:14
- Allah has given free choice of good and evil to man = 41:40; 76:13; 90:10; 91:8; 92:5-10
- Human being is responsible for own acts = 41:40; 74:38
- All things have been subordinated to -. 2:29; 22:65; 31:20; 45:13.
- is ungrateful - . 10:12; 11:9 to 11; 41:51
- should seek the protection of Allah alone. 2:41.
- Allah does not burden beyond one's capacity. 2:233, 286; 23:62; 65:7.
- superior to other creatures - 17:70; 95:5
- desiring only this world has no share Hereafter = 2:200; 4:134; 42:20.
- Possessions and children are trial for - 8:28; 24:15
- Men and jinn challenged to go out of earth limits; heavens- 55:33
- should fear Allah 55:46
- Man is enjoined to treat parents kindly. 17:23; 29:8; 31:14; 46:15

MAN MANNERS AND MORALS - Human beings guided - 2:48, 224, 237, 263, 264; 3:104, 110, 114, 119, 120, 134, 135, 159, 188, 200; 4:5, 17, 18, 32, 49, 85, 86, 107, 108, 110, 114, 148, 149; 5:28, 29, 39, 54, 79, 87; 6:17, 18, 54, 165; 7:31, 157, 165, 199, 204, 205; 8:2, 46, 58, 61; 9:4, 6, 51, 67, 71, 102, 104, 112, 118, 126; 10:41, 44, 49, 107; 11:3, 9, 52, 61, 90, 112, 115; 13:20; 15:56, 85, 88, 94; 16:42, 91, 95, 98, 114, 119, 125, 127; 17:25 to 27, 29, 30, 32, 36, 37, 53, 84; 20:32, 44, 82, 130, 131; 21:49; 22:24, 41, 77; 23:8; 24:19, 22; 33:3, 21, 32, 33, 35, 36, 39, 53, 57, 58, 70; 34:47; 36:76; 38:17; 39:18, 22, 54; 40:3, 7, 55; 41:33, 34, 35, 46; 42:25, 36 to 40, 30; 43:36, 89; 46:35; 49:2 to 5, 12, 13;

50:16, 18, 39; 51:10; 53:3, 29, 32; 54:6; 55:60; 57:21, 22, 23; 58:7 to 11, 22; 59:9, 10, 19; 60:13; 64:11, 14; 66:6, 8; 67:22; 68:10 to 14; 73:2, 3, 4, 10, 20; 74:4 to 7; 81:29; 90:17; 93:9, 10, 11; 99:7, 8; 100:8; 103:1 to 3; 107:4 to 7; 110:3

MARRIAGE (See under WOMEN)

MARTYRS - live an eternal life. 3:169

MARY - MARYAM - 3:35 to 37, 42, 44; 5:15; 19:16, 27, 34; 21:91; 66:12

MAKKAH - 2:150, 126; 3:96; 13:31; 14:35; 17:80; 27:81; 28:57, 85; 90:2; 95:3

MEEKNESS (humility) Believers should cultivate = 25:63; 31:18, 19.

MENSTRUATION Purification from - 2:222

MESSENGERS (PROPHETS) Please see Index - I Part one

MESSIAH was the devotee of Allah as human-being 4:172.

MADIYAN and its dwellers. 7:85; 9:69; 11:84.

MIGRATION IN THE CAUSE OF ALLAH 4:100

MERAAJ - Assraa = Holy Prophet had the vision of - twice. 17:1, 60; 53:1 to 18

MONASTICISM; PRIESTHOOD

- Self-imposed by the Christians = 57:27.

MONTHS, THE TWELVE

The number of = 9:35.

Sacred months = 2:194; 9:35.

MOON, THE

- and its stages. 36:39, 40.

- Lunar system in Islam = 2:189.

- gets light from the sun = 71:16; 91:2

- Crescent = 36:39.

MORAL TEACHINGS (Please see Index I Part Two)

MORALITY, MODALITY of Muhammad S.A.W. - 33:21; 68:4

MOSES (Please See Index I Part One)

MOSQUE

- open to all mankind. 22:25.

No one should obstruct worship of Allah in -. 2:114.

Masjid-e-Haram and Masjid-e-Aqsa. 17:1.

MOUNT SINAI

- the witness of . 52:1; 95:2.

- and its olives. 23:20.

MOUNTAINS

Creation of -. 34:10; 41:10.

Purpose of the creation of -. 16:15; 31:10.

Samood/Thamood hewed - for their dwellings. 7:74; 15:82; 26:149.

Noah's ark landed on Judi. 11:44.

- signify dwellers of mountains. 21:79; 38:18.

- also used for the powerful people. 20:105.

Destruction of -. 52:10; 70:9; 101:5.

MUHAMMAD, THE HOLY PROPHET S.A.W. (Please see Index I Part One for full details).

- possessed perfect qualities as Allah's final modality and ideal Prophet = 20:1; 33:21; 68:4

- mentioned by name in the Quran. 3:144; 33:144; 47:2; 48:29.

The Quraan was revealed to -. 4:163; 15:87; 16:44; 26:192-195; 42:3; 47:2.

Prophecies about - in Torah and Gospel Bible = 7:157; 46:10, 12.

- has the highest status in nearness to Allah. 36:1; 53:8.

- is the Final and Last of the Prophets. 33:40.

Those who pledge allegiance to - pledge allegiance to Allah. 48:10.

Whoso obeys - obeys Allah. 4:80.

- is Rahmat-tull-lil-Aalameen- Divine mercy for all the mankind. 21:107.

- is Allah's Messenger for all the mankind. 36:3; 4:79; 7:158; 34:28.

Abraham's prayer that all the Prophets and all human beings must submit to him = 2:129; 3:81

MUHAMMAD'S S.A.W COMPANIONS Higher spiritual status, help of the Prophet, service to Islam, emigration, sacrifices, prayers and love of = 2:115; 9:99, 116; 10:1 to 5; 17:80; 18:28; 26:219; 37:1 to 3, 115; 48:18, 29; 59:9; 79:1 to 5

MUHAMMAD, WIVES OF - 24:11, 16; 33:6, 28 to 33, 37, 53; 63:3; 66:1

MURDER

- forbidden. 4:92, 93; 17:33; 25:68.
- Law of retaliation - 2:178.

MUSLIM - 2:148, 216, 217; 3:28, 110

N

NATIONS - DOOM of - 7:34; 13:11; 17:16

NATURAL RELIGION - 30:30

NATURE, DIVERSITY OF - 2:19, 20; 13: 3, 4.

NATURE, HARMONY IN - 67:3, 4, 17; 24:39

NEEDY & THE POOR be looked after proper = 51:19; 76:8; 90:14 to 16; 107:3

NICKNAMES forbidden. 49:11.

NIGGARDLINESS (being miser) is forbidden. 3:180; 4:37.

NOAH (PROPHET NOOH) Please see Index Part One.

O

OATHS - Truthful Oath is a must as a Divine trust. Everyone should guard oaths - 2:225 to 227; 5:89; 16:92, 94; 66:2

OBEDIENCE & SUBMISSION to Allah and to His Messenger is obligatory for the faithfuls = 3:31, 132, 172; 4:59, 64, 69, 80; 24:52.

OCEANS - are of great uses: including raining, fishing; sailing of ships = 55:19, 20, 24

OMMAHAAT; OMMAHATO KUUM = 4:23; 16:78; 24:61; 33:4; 39:6; 53:32; 58:2;

OMMAH (International Community of the Muslims) is the best = 2:128, 134, 141, 143, 213; 3:110, 113; 4:41; 5:48, 66, 68; 7:37, 38, 159, 167, 181; 10:19, 47, 49; 11:8, 118; 12:45; 13:30; 15:5, 16:36, 84, 89, 92, 93, 120; 21:93; 22:34, 67; 23:13, 44, 52; 27:83; 28:23, 75; 35:21; 40:5; 42:8, 22, 23; 43:33; 45:28,

OMMI - 7:157; 62:2

OMMULL KITAAB = 3:7; 13:39; 43:4

ORDER - only the Order of Allah and Sunnah of the Prophet S.A.W. be followed = 4:59, 60, 65/5:44/ 59:7

ORPHANS - 2:220; 4:2, 6, 10, 127; 6:152; 17:34; 76:8; 90:15; 93:9

P

PARABLES OR SIMILITUDES OF THE QURAAN = 2:17, 19, 20, 260, 261, 264 to 266; 6:71; 7:175, 176; 13:17; 14:24 to 26; 16:66 to 69, 75, 76, 92, 112; 18:32, 34, 45; 22:31, 73; 24:35, 39, 40; 29:41; 30:28; 62:5; 68:17 to 33

PARADISE (Also see Index I Part One) - 2:25, 35; 3:15, 133; 9:71; 13:35; 15:48; 19:61, 62; 32:17; 37:58, 59; 39:73; 41:31, 32; 44:56; 47:15; 55:46, 49, 52, 54, 56, 58, 62, 66, 68, 72, 76; 57:12; 75:22, 23, 76:13; 83:18 to 20

PATIENCE; PERSEVERANCE; ENDURANCE = 2:45, 153, 155, 156; 3:186, 200; 10:109; 11:115; 16:126, 127; 20:120 to 132; 40:55, 77; 44:35; 50:39; 70:50; 73:110, 103,3

PEOPLE OF THE BOOK (TORAH; BIBLE) - 2:8 to 20, 40 to 152, 159, 170, 174, 176, 246 to 253, 258, 260, 284, 285; 3:1, 3, 11, 19, 24, 33, 86, 93, 105, 112, 115, 118, 120, 181 to 188, 199, 4:44, 60, 123 to 126, 136, 150, 173; 5:6, 12, 29, 35, 44, 89, 112, 123; 6:74, 92, 112, 113, 146, 147, 153.

163, 103, 171; 8:52, 54; 9:30, 69, 70, 114; 10:75, 88, 93, 105, 106; 11:69, 76; 12:1 to 111 (whole Surah); 13:36, 35, 58; 15:41, 51; 16:118, 124; 17:1, 7, 101, 104; 18:60, 82; 19:1 to 62; 20:1 to 99; 21:41, 48 to 93; 22:42 to 44, 78; 23:40 to 50, 25, 35, 36; 26:10, 200; 27:7, 79; 28:1, 88; 29:18, 27, 31, 36; 30:1 to 7, 31; 32:23, 25; 33:13, 27; 34:10 to 21; 37:83 to 122; 38:12 to 40; 40:21, 54; 41:45 to 46; 42:13 to 15; 44:17 to 40; 46:9 to 12, 29 to 32; 45:16 to 20; 50:12 to 14; 51:24 to 30; 57:26, 27; 59:1 to 4, 11 to 14; 60:8, 9; 61:1 to 14; 62:1 to 8; 66:10 to 12; 79:15 to 26; 87:14 to 19

PARENTS = 17:23, 24; 29:8, 31:14

PEACE = 7:46; 8:61; 9:26; 10:10; 14:23; 19:62; 34:58; 8:61; 47:35; 48:4, 18, 26

PERSONAL Responsibility = 6:164; 10:30; 41:40; 53:38, 41; 74:38

PHARAOH The Quraan affirms his body preserved as lesson = 10:92.

Curse on Pharaoh's people = 11:99; 28:42.

PIETY = 2:2; 3:15, 172; 5:93; 6:36; 7:26; 9:4, 12:109; 16:30, 128; 28:83; 39:61; 41:40; 49:13; 54:54; 77:41; 103:2, 3

PILGRIMAGE (Please see Index I Part Two)

PLAGUE as Allah's sign = 27:82.

PLEDGE to Allah with possessions = 2:283

POET

Muhammad S.A.W. was not a = 36:69; 69:41.

Characteristics of = 26:225-227.

POLICE DUTY = 23:96.

POLYGAMY = 4:3, 129

POLYTHEISM serious rebellion = 4:48, 116; 30:35

POOR Care for the = 69:34; 90:11-16; 107:1-3.

PRAYER (SALAAT) Please see in full details in Index-I Part Two.

PRAYER (Supplication; submission) to Allah = 1:4 to 7; 2:37, 62, 123, 126 to 129, 186, 200, 201, 250, 285, 286; 4:136; 7:194; 13:14; 19:65; 20:14; 25:77; 40:60; 46:5

PREDESTINATION (Taqdeer)

- Meaning of = 7:34; 57:22, 23.

- Allah has predetermined everything (except free - will motivated human actions) = 25:2; 4:78, 79; 54:49; 65:3.

- Man is free to act and face the consequences = 41:40; 74:38; 91:9, 10

PREPAREDNESS = 8:60

PRISON - (Please see Index I Part Four)

PRISONERS : 8:70; 12:36; 76:8.

PRIVACY - personal = 24:58, 59.

PROPERTY = 2:188; 4:5, 29

PROPHECIES = 5:26; 10:98; 13:40; 18:56; 40:28; 43:49, 50; 44:15

PROPHETS- (For details about each Prophet of the Holy Quraan please see Index I Part One)

Allah revealed His secrets to = 3:179; 72:26, 27.

- are innocent and are safeguarded from error = 6:162; 53:3, 4.

Prophet and Messenger are synonymous = 19:51-54.

Purpose of = 20:134; 28:47.

- were sent to all the people and all the nations in all the periods = 10:47; 13:7; 16:36.

- Superiority of some Prophets over others = 2:253; 17:55.

- Two kinds of Prophets - the law bearing and non-law-bearing = 2:253; 5:44; 36:14

- The Quraan makes mention of a few - only = 4:164; 40:78.

- Objections raised against all = 41:43; 51:52, 53.

- Disbelieving one Prophet is disbelieving all = 4:150.

- submit themselves to the will of Allah and purify people = 6:124; 10:72; 16:2, 79:17 to 19

- Only men are raised as = 12:109

- Allah chooses the Prophets Himself = 6:124; 16:2.

PROSTITUTION : 24:33

PURDAH (Veil for women)

- Directions about - 24:30, 31, 60; 33:59.
- Old women exemption from - 24:60.
- Privacy, periods of - 24:58.

PUNISHMENT = 79:37 to 39; 96:15 to 18

PURITY (Holiness) = 53:33; 53:32

Q

QIBLA (Ka'aaba) = 2:142 to 145

QURAIISH safeguarded against hazards = 106:1-4.

QURAAAN, THE HOLY (Please see details in Index I Part One) 2:2, 106; 7:204; 15:1, 9; 16:98; 17:106; 19:97; 20:2, 3, 4; 25:32, 33; 56:77 to 80

R

RACIALISM REJECTED - 2:135 to 137/ 3:110

RECORDING ANGELS = 82:10 to 12

REPENTANCE

- wins Allah's forgiveness and mercy - 2:160; 5:39; 6:54; 9:103; 11:3; 25:70, 71; 39:53; 42:25
- is possible if sincere = 3:89; 66:8
- Whose - is accepted. 4:17; 16:119.
- Whose - is not accepted. 4:18.

RESURRECTION DAY - Qiyamah-. (Please see full details in Index I Part I) 4:87; 17:51; 19:95; 20:15; 40:59; 54:1; 70:42, 43, 44.

RESURRECTION AFTER DEATH

- is a certainty. 2:48; 6:36; 7:57; 8:24; 21:95; 22:7; 23:100, 115; 36:31; 39:42; 58:18
- Spiritual resurrection = 2:56, 73, 260; 6:36; 8:24; 30:50; 41:39.
- Jesus gave life to the spiritually dead - 5:110

RETALIATION - The law of Qisas (tit for tat) safeguards human life. 2:178, 179.

RETALIATION disapproved - 5:48

REVELATION

- vouchsafed with Prophets; for believers = 4:163, 164; 5:111; 20:38; 28:7.
- is a Prophet's experience = 4:164; 10:47; 35:24; 40:78.
- is received in the language of the recipient Prophet = 14:4.
- has different forms = 2:51.
- descends upon the heart of a Prophet = 2:97; 26:192-194; 53:10, 11.
- furnishes guidance, inspires, gives spiritual exaltation and brings piety = 2:38; 7:35; 14:1; 16:44, 68; 17:82; 21:30; 41:44; 47:2.
- is received by chosen devotees of Allah as Prophets = 16:2.
- also signifies inspiration. 16:68.

REWARDS AND PUNISHMENTS - Basis of - 4:40, 79; 6:60, 160; 25:15; 28:84; 29:7, 35

RIBA (INTEREST) is forbidden. 2:275, 276, 278 to 280; 3:130; 30:39.

RIGHTEOUSNESS (TAQWA) 2:15, 19, 21, 54, 177, 207, 208, 212; 3:16, 17, 92, 133, 135, 191, 195; 4:36, 125; 5:96; 7:42, 43; 14:97; 90:11, 18

RIGHTS of man with obligations = 4:36 to 40; 17:23, 39; 25:63 to 72.

ROMANS 30:2, 5

S

SABA, PEOPLE'S Sign; Saba Queen (Queen Sheba) = 27:22, 44; 34:15-21.

SABBATH - Observance and violation by the Jews = 2:65, 66; 4:47, 154; 7:163; 16:124.

SABIANS -. 2:26; 5:72; 22:17

SACRIFICE - rites of, appointed for every people. 22:34, 37

SAFA AND MARWA Mounts are the Signs of Allah. 2:158.

'SALAAT - Muslim Prayer (Please see Index I Part Two)

SALEH, PROPHET (Please see Index I Part One).

SALVATION from Allah - 1: 4, 5; 2:286; 3:135; 8:29; 11:108; 18:108; 19:72; 39:53 to 55; 89:29, 30; 91:9;95:6

SAMIRI - 20: 88, 95 to 97.

SATAN

- has no power on believers with trust in Allah = 16:99.
- misguides those who become his friends and set up equals to Allah. 15:42; 16:100.
- had no connection with creation of universe. 18:51.
- watches man but no one does not perceive him. 7:27.
- is the declared enemy of man. 17:53; 25:29; 35:6; 36:60; 43:62.
- caused Aadam to slip. 2:36; 7:20-22.
- has a fiery temperament. 7:12.
- is an evil companion. 4:38.
- was granted respite. 7:14, 15.
- was abased 7:13.
- lies in wait for people ungrateful to Divine bounties = 7:16, 17
- prompts people to evil practices. 4:11, 99, 120.
- makes false promises. 14:22.
- incites unbelievers to disobedience. 19:83.
- misleads his friends inspiring them with fear. 3:175.
- places obstacles in the way of Prophets. 2:52, 53.
- should always be shunned. 2:168.
- has recourse to futile devices. 4:74.

How to guard oneself against - 7:200, 201.

- has no power of his own but takes advantage of people's weaknesses. 14:22; 15:42.
- was rejected and cast away by Allah. 15:34, 35.

Whoever makes friends with - is bound to be led astray. 22:4.

SAUL (KING TALUUT) - 2:247, 249

SCANDAL MONGERING Prohibition of - 24:19, 23-26; 104:1

SEAS = Two seas meet but remain apart - 18:60

- Dreadful dark deep sea storm = 24:40

SCRIPTURES - People of - 2:62; 98:2

SECRECY - 4:114; 58:7, 10, 12, 13.

SECTARIANISM : Rejected. 5:159; 30:32; 42:13, 14; 43:64, 65; 45:17, 28.

SEED GROWTH - 56:63, 67.

SHIP - 2:164; 14:32; 16:14; 17:66; 22:65; 31:31; 35:12; 42:32, 33; 45:12; 55:24

SIJJIN (Prison or Jail) = 12:25, 33 to 37/ 83:7 to 9

SIN; SINNERS - 4:30, 32, 36, 39, 107, 112, 116; 6:45, 120; 7:4, 5, 100, 102; 10:17, 54; 23:63, 77; 26:200, 209; 41:20, 23; 68:35, 41; 77:16, 19; 83:29, 36; 74:43, 48; 41:20, 23

SINAI - 19:52; 95:2

SLANDER - Prohibition of Qadaf = 9:79; 24:4, 23, 26; 104:1; 68:11, 12

SLAVES - freedom is highly liked by Allah = 2:177; 4:92; 5:89; 9:60; 90:13.

SODOMY = 7:80, 81

SOLOMON (PROPHET SULAIMAN) Please see Index I Part One.

SON - adopted - 33:4, 5

SONSHIP OF GOD - Doctrine of - condemned. 2:116; 6:100, 101; 10:68; 18:4, 5; 19:35, 90-92; 23:91; 37:149-159; 39:4; 112:1-3.

SOUL-HUMAN - ROOH; SPIRIT 4:171; 17:85; 15:29; 19:17; 21:91; 26:193; 32:9; 38:72; 75:2; 89:27 to 30, 91-9

SPIDER = 29:41**STATE**

- International relations = 16:92, 94; 60:8, 9.
- Government by consultation = 3:159; 42:38
- Best fitted person to be placed in authority. 4:58.
- Justice be the basis of rule : 4:58, 105-107, 135; 5:8; 16:90; 38:26; 42:15.
- Obedience to authority to pious ruler - 4:59.
- War, obligatory or permissible = 2:190-193; 4:75; 8:39; 22:39-41.
- Peace is human urgency of Islam = 8:55-63; 9:1-3.

STEADFASTNESS; STRAIGHTFORWARDNESS

- in seeking help of Allah enjoined on believers. 2:153.
- Allah is with those who show - 2:153.
- is the trial of fear, hunger and loss of wealth and lives and fruits = 2:155 Good news for the patients = 2:155.
- Truly patient persons = 2:156.

STRAIGHT PATH; RIGHT WAY

- Prayer for achieving - 1:5.
- Prophet Muhammad S.A.W. followed the = 6:153, 161; 36:4; 43:43.
- Prophet Muhammad S.A.W. guides to the = 14:1, 2; 23:73, 74; 42:52.
- Quraan guides to the - 5:16.

STAR = 7:54; 14:12, 16; 22:18; 37:6, 10; 67:5; 77:8; 81:2; 82:2**SUFFERINGS/Adversity** - 7:94, 96.**SUN, THE**

- radiates light and the moon reflects: Both fixed to job = 10:5; 25:61; 36:38; 91:1
- and moon are made subservient and glide in orbits. 7:54; 211:33.
- Harmony of spheres illumined by - and moon. 71:15.
- Eclipse of - and moon, significance of = 25:45, 46.
- is no object of worship = 41:37.

SUSPICION - avoid - 49:12**SWINE FLESH** unlawful = 2:173; 5:3; 6:145; 16:115**T****TABLEEG** (Individual, collective and state duty of Muslims to motivate, inculcate and educate people to embrace Islam and become good Muslims) = 5:66, 99/ 23:96/ 24:54/ 33:71/ 103:3**TABLET, PRESERVES** The Holy Quraan - in protection = 85:22.**TABLETS OF MOSES** = 7:145, 150, 154.**TABUUK; THE EXPEDITION TO** = 9:40, 41**TAGHOOT** - must be slunned = 2:256, 257; 4:51, 60, 76; 5:60; 16:36; 39:17.**TAURAH/TAURAAT** - describes Muhammad S.A.W. as the Last Prophet and his followers = 48:29**TAYAMMUM** (Oral Ablution) - when permissible. 4:43; 5:6.**THANKS TO ALLAH** - Submissions: gratefulness to Allah - 1:1 to 7; 2:127, 201, 250, 255, 285, 286; 3:8, 9, 16, 26, 27, 38, 53, 147, 191, 193, 194; 5:81; 6:79, 161 to 164; 7:23, 43, 47, 89, 126, 151, 155, 156, 180, 188, 200; 9:51, 129; 10:10, 49, 85, 107; 11:6, 56; 12:101; 13:28, 30; 14:38; 40, 41; 15:49; 17:24, 80, 81, 110, 18:10; 20:25 to 28, 114; 21:83, 89; 23:26, 28, 29, 94, 97, 98, 107, 118; 25:65, 74; 26:77 to 88, 117, 118; 27:19; 28:16, 17, 21, 24, 70, 85; 29:30, 60; 34:26; 35:2, 34; 36:58, 78, 79, 82, 83; 37:57, 99, 100, 159, 180 to 182; 39:10, 38, 42, 46, 53, 51, 62, 40:7, 8, 27, 44, 41, 36; 43:13, 85; 44:12; 45:36; 46:15; 53:57, 58; 54:103; 55:78; 59:10, 22, 23, 245; 60:4, 5, 64:1, 13, 66:85; 71:28; 95:8; 100:3; 113:1 to 5; 114:1 to 6**THEFT** - Punishment for - 5:38, 41, 42.**TIME** - 70:43; 74:1; 76:1; 103:1**TORAH** (Please see Index I Part One)

TOWN - MOTHER OF (OMMAL QUIRAA) Makkah as - 6:92.

TRADE - lawful, should not spoil prayer, conditions of = 2:16, 275; 4:29; 9:23; 24:37; 35:29, 30; 61:10 to 13; 62:10 to 13

TRAVEL through the earth = 6:11; 22:46; 27:69; 29:20, 22; 30:9, 42; 35:44; 40:21, 82; 47:10

TREATIES = 9:3, 6, 11, 12.

TRINITY - condemnation of - 4:171; 5:73.

TRUMPET - Blowing of - 6:73; 18:99; 20:102; 23:101; 27:87; 38:51; 39:68; 50:20; 69:13; 78:18.

TRUSTS be discharged faithfully - 2:286; 4:58; 23:8; 70:32.

U

UHAD

Battle of - 3:121, 122.

Enemy returned to Makkah frustrated. 3:127

- lessons to be drawn from = 30:139-143, 152-171.

Causes of misfortune at - 3:152, 153.

Muslims of misfortune at - 3:152, 153.

Enemy reassumed offensive after retreat = 3:152.

Murmurs of hypocrites at - 3:154.

Delinquents were pardoned in war of - 3:155.

Prophet dealt with them gently. 3:159.

Unity of Muslims is a must = 2:163; 3:103; 6:19; 49:10, 13; 78:1, 4

UNIVERSE - 46:3

V

VANITY = 6:68.

VICEGERENT on earth = 2:30

VIRTUES - see Righteousness

W

WADHOO (Ablution for Prayer - Please see Index I Part Two)

WAR - Allah's Command, for defence of religion, security, steadfastness - 2:190 to 193, 254; 3:110, 169, 200; 5:8, 64; 8:16, 58, 60 to 62; 9:3; 6:126; 18:47, 48, 99 to 101; 22:39, 41; 47:35; 49:9, 10.

WAR, PRISONERS OF.

- can only be taken in course of regular fighting = 8:67.

- should be released as a favour or in return for ransom = 47:4.

Conditional release of - 12:41; 24:33.

WATER as source of life - 11:7; 21:30

WEALTH - Spend for Allah = 2:177; 17:26;

Hoarding of - condemned = 104:2, 3

WEIGHTS & MEASURES = 7:85; 11:84; 17:35; 55:7 to 9; 83:1 & 3; 99:7, 8; 101:6 to 8

WISE; THE Characteristics of = 13:19-24.

WITNESSES - be true = 2:143, 282; 5:106, 108; 12:26; 22:78; 25:72; 41:20 to 23

WOMAN

(i) *General Subjects*

Spiritual equality between men and women. 3:195; 33:35; 57:12.

Bounty of Allah to create mates = 7:189; 16:72; 30:21; 42:11.

Men are guardians for women = 4:34.

(ii) *Marriage*

Husband and Wife should have permanent relationship = 4:24.

Permission to marry more than one wife is under strict rule = 4:3.

- Better to marry only one wife = 4:3
 Equal treatment of wives = 4:3, 129; 33:4.
 Full justice with wife is a Divine must = 4:3, 129; 33:4.
 Reciprocal rights and obligations = 2:228; 4:19.
 Confining women guilty of misbehaviour = 4:15.
 Profound relationship of husband and wife = 2:187.
 is a source of comfort for each other = 7:189.
 beneficence between each other = 2:237.
 is a binding covenant = 4:21.
 is obligatory, subject to means = 24:32-33.
 with idolatrous spouses is forbidden. 2:221; 60:10, 11.
 Object of - 3:223.
 Proposal for - during women's waiting period is forbidden = 4:19.
 Marrying women under compulsion is forbidden = 4:19.
 Women with whom marriage is forbidden = 4:22-24.
 Divorced women and widows are free to re-marry. 2:232, 234, 235.
 Lodging for divorced wife and widow = 2:240; 65:1, 6.

(iii) *Dowry*

- On marriage prescribed = 4:24.
 Substitute for = 2:236.
 Wife may remit - 4:4.

(iv) *Cohabitation*

- forbidden during menstruation period. 2:22.
 - forbidden during period of retreat (aitikaaf) in mosque = 2:187.
 - forbidden during fast = 2:187.
 - forbidden during period of pilgrimage = 2:197.
 - Object of - 2:223.

(v) *Waiting period ('iddat) before re-marriage -*

- observance of = 65:1
 - for widow = 2:234.
 - for a divorced woman = 2:228.
 - for a pregnant woman = 65:4.
 for women who do not menstruate = 65:4.

(vi) *Divorce*

- Procedure for - 2:229, 230.
 Revocable - 2:31.
 Irrevocable - 2:230
 Arrangements concerning children after - 2:233.

(vii) *Period of giving suck to child -*

- is two years = 2:233.

(viii) *Husband wife differences*

- Within four months - must be reconciled or divorce is must = 2:226, 227.

WOMAN - breaking strong yarn laboriously self - made = 16:92

WORM OF THE EARTH (DABBATULL ARDH) 27:82; 34:16

WORLD - 4:32, 24:64, 28:60, 61, 47:36; 57:20

WORSHIP (Please see details in Index I Part Two under IBADAAT)

- Objectives of - 1:4; 2:21

(i) *Salaat (For details see Index I Part Two)*

- (Prayer) - 2:43, 110, 238, 239, 277; 4:43, 101 to 103; 4:103; 5:6, 15 to 18, 55; 7:31; 8:3, 9, 70
 11:114; 17, 78, 79; 20:132; 22:26; 24:56; 27:3; 29:45; 30:17, 18; 31:4; 32:16; 62:9 to 11, 70, 23.
 73:1 to 8, 107:4 to 6

(ii) *Fasting (for details see Index I Part Two) - 2:183 to 85*

- (iii) *Pilgrimage (Hajj)* - Please see details in Index I Part Two) - 2: 196 to 203; 3:97; 5:1, 2; 22:25, 28 to 33.
- (iv) *Zakaat (Capital Levy)* on haves as compulsory dues for have-nots-Please see details in Index I Part Two
 Prescribed - 2:110; 22:78; 24:56; 73:20.
 Objects of - 9:59.

WRITING - 2:282; 96:4

WRONG ALLEGATION (QADAF) - 24:2, 6 to 10

WRONG DOERS - 11:18, 22, 101, 104, 116, 117; 34:17

Y

YATHRIB (Madina) 33:13; 90:1; 95:3

YEAR = 18:25

YUSUF - (Please see details in Index I Part One)

Vision = 12:4

brothers = 12:70

imprisoned = 12:70

brothers prostrate before him = 12:100

Z

ZACHARIYAH (Please see Index I Part One)

Allah's favour bestowed upon 3:38-41 19:2-11.

ZAID = The only companion of the Holy Prophet whose name occurs in the Holy Quraan - 33:37, 38

ZAKAAT (Please see details in Index I Part Two)

2:43; 9:60

ZULLKARNYN - 18:83

BIOGRAPHY OF DIGNIFIED AHMAD RAZA KHAN QADRI BRELWI (MERCY OF ALLAH BE ON HIM)

Introduction : Ahmad Raza Khan (mercy of Allah be on him) was of Pathan descent, belonged to Hanafi school of thought, Qadri order and was born in Brelwy. His respected father Maulana Naqee Ali Khan (mercy of Allah be on him), died 1297 A.H./1880 A.D. and his respected grand father Maulana Raza Ali Khan (mercy be on him), died 1282 A.H./1866, were highly learned scholars and they had intuitive understanding of religious matters. In his poetic dictions he has mentioned the same fact as: "Ahmad Hindi Raza Ibne Naqee Ibne Raza.

Birth : His auspicious birth took place on 10th of the month of Shawwall in 1272 A.H./14th June/1856 at Brelwy (U.P.). Aa'la Hazrat (Ahmad Raza Khan - may Allah have mercy on him) has drawn the year of his birth from the following Verse of the Holy Quraan :

These are they into whose hearts He has impressed faith, and whom He has strengthened with an inspiration from Him. (S. LVIII (Mojaadilah).

Oolaaa-ika kattaba fee qoloobi-himull-eemaana wa ay-yada-huum-bi-roohim-minh. (S. LVIII (Mojaadilah).

أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ
الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ

"Oolaaa-eeka Kataba fee qolobe-himull-eemaana wa ayyada huum bi roohim-min ho. — Radhi Allah hoo unhoo Wa Radho unhoo. Al-Quraan = 59:22

They are those in whose hearts faith has been engraved and they have been helped spiritually — Allah is pleased with such ones and they are pleased with Him. Al-Quraan = 59:22

Name : The respected Brelwi was named "Muhammad, and his historical name was "Al-Mukhtaar" - 1272 A.H. (1856) but his grand father Maulana Raza Ali Khan (Allah's mercy be on him) suggested his name as "Ahmad Raza." Afterwards respected Brelwi himself added the words of "Abdul Mustafa" and hence in his poetic dictions he says, "O" Raza ! Do not be afraid, you are under protection.

Education and Intelligence : Due to his natural intelligence he completed his academic education at the age of 13 years, 10 months and 5 days. After completing education of Arabic knowledge, his honorable father Maulana Naqee Ali Khan. (mercy of Allah be upon him) entrusted him with the responsibility of passing juristic verdicts according to Islamic jurisprudence. He began writing such Islamic juristic verdicts due to his excellence in knowledge of Islam despite his tender age.

In a letter to Maulana Zafruddin Behari, he writes : "By the grace of Allah I wrote first Islamic juristic verdict at the age of 13 years on 14th Shaaban, 1284-A.H., and if life prolongs, I shall by the grace of Allah complete a period of fifty years in writing Islamic juristic verdicts on the tenth of Shaaban, 1336 A.H./1917. It is not possible for me to thank Allah for His bounties.

Aa'la Hazrat as an Encyclopaedia of Knowledge : Aa'la Hazrat also acquired other types of knowledge and arts apart from the ones stipulated in academic course; in some branches of knowledge and art his own righteous intuition guided him. All such knowledge and arts number 45 (forty five), detail of which is listed below :

- | | |
|--|---|
| (1) Knowledge of the Holy Quraan. | (2) Knowledge of narrations of the Holy Prophet S.A.W. (Sallalloho Alyhe Wassallam). |
| (3) Principles of Hadith. | (4) Islamic jurisprudence (of all the schools of thought). |
| (5) Principles of Fiqha (Islamic Jurisprudence). | (6) Jadal (wrangle). |
| (7) Tafseer (Exegesis/Explanation). | (8) Aaqaa-'id (Beliefs). |
| (9) Kalaam (Discourse). | (10) Nahve (Syntaz). |
| (11) Sarf (Etymology). | (12) Ma-'aani (Meanings). |
| (13) Biyaan (To explain). | (14) Badeeh (The art or science of metaphor). |
| (15) Mantaq (Logic). | (16) Manazarah (Debate). |
| (17) Falsafah (Philosophy). | (18) Tafseer (Analysis). |
| (19) Ha-'yat (Astronomy) | (20) Hisaab (Mathematics). |
| (21) Hindsah Numericles. | (22) Qira-'ut (Reciting with precision). |
| (23) Tajweed (To read correctly according to basic letters). | (24) Tasawwuf (Mysticism). |
| (25) Salook (Mode or manner of prayer). | (26) Good manners. |
| (27) Usma-ull-Rjaal (Names of narrating people). | (28) See-'yer (Actions and habits of Holy Prophet - Allah's blessings and salutations be on him). |
| (29) Tareekh (History). | (30) Looghat (Dictionary). |
| (31) Adab (Literature). | (32) Arithmatic (Arithmetics). |
| (33) Jabro Muqabala (Al-jebra). | (34) Hisaab Salini (Calcubes - Analytical Geometry). |
| (35) Hisaab Salini Log Arithmetics. | (36) Tanqeeet (Time). |
| (37) Moonazara Wa Marayah (Debating) | (38) Zeejah |
| (39) Musallass Kurdy (Trignomatory Globular) | (40) Musallass Musattah (surface Trignomatory). |
| (41) Hai-'ut Jadidah (New knowledge of atmosphere). | (42) Murubbat (Squares). |
| (43) Jaffer (Occult science of numbers and letters). | (44) Zaerja (Horoscope). |
| (45) Akar | |

We believe that there is hardly a scholar in the Muslim world who has imbibed so much knowledge and arts. Not only did the reverend scholars from Breley acquired knowledge but there is not even a single branch of knowledge and arts wherein he did not leave his trace behind some of the knowledge and arts mentioned above were evolved by the great scholar from Breley himself, and some were owned by him. On owning and bearing, the great scholar (mercy of Allah be on him), has thrown light as follows: "since the time I gave up initial philosophy I felt

that this does not contain anything except greed. Its darkness and rust is overcast in such a way that the religion is usurped and the fear of the Day of Judgement is forgotten." Therefore, I pondered over my responsibilities. I do not have interest in astronomy, geometry, astrology, logic, arithmetics and mathematics to acquire more perfection in these branches of knowledge but I diverted my attention to these for the sake of refreshment. Apart from this it helps in stipulating and changing time, by which Muslims are benefitted in checking timings of prayer and fasts. He had interest in three types of missions for which he had great zeal, details of which are as follows:

His Matters of Interest :

- (1) Full respect to the leader of Messengers of Allah (salutations of Allah be upon all of them) because every one from Wahabi sect in using improper language for him (S.A.W.). It is enough credit that Rubb may accept this. About the blessing of Allah he had the same faith as Allah Himself has said, "I treat my slave corresponding to his good thinking."
- (2) Apart from this he tried to eradicate other innovations in religion because some persons claim to be Muslims but they are actually trouble makers.
- (3) He wrote Islamic juristic verdicts according to Hanafi School of thought.

Mysticism and true Islamic path through Mysticism :

The great learned scholar from Breley, along with his respected father Maulana Mohammad Naqi (mercy of Allah be upon him), went to Hazrat Shah Aale Rasool (mercy of Allah be upon him) in 1296 A.H./1878, and took oath of allegiance in the Qadaria order. He was also given permission, and was also appointed the successor. The great scholar from Breley has praised his religious leader in his poetry.

Apart from the above mentioned branches of knowledge, he also excelled in knowledge of human rights and duties, essay writing on varied problems, stars of the sky, art of history writing, collection of statistics, Persian poetry and rhyme, Hindi poetry calligraphy work in Nasakh and Nas-taleeq etc. Similarly the branches of knowledge in which the learned Breley scholar excelled exceed 54 in number.

The learned Breley scholar himself detailed the list of the saintly order of Muslim mystic way of pious life. He was authorized to bring people in the fold of such Sufi Order by the following methods as follows :

- | | |
|-------------------------------------|--|
| (1) New Qadaria Barkatia, | (2) Qadaria Abaiya Qadeemiyah, |
| (3) Qadariya Abdaliya. | (4) Qadariyah Razzaqiyah, |
| (5) Qadariyah Munnawariyah. | (6) Chistiya Nizamiyah Qadeemiyah. |
| (7) Chistiya Mahboobiyah jaddeedah. | (8) Soharwardiyah wahdiyah. |
| (9) Soharwardiyah Fazleeyah, | (10) Naqshbandiyah Aaliyah Siddiqiyah. |
| (11) Naqshbandiyah Aaliyah Alweeya. | (12) Badeeya. |
| (13) Alviyah Mananiyah etc. | |

Apart from the above mentioned saintly chains, the learned scholar Breley also had permission of four types of bringing people to Sufi Order. He explained the same as follows :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| (i) Hasniyah. | (ii) Khizriyah. |
| (iii) Al-Muammariyah. | (iv) Mananiyah. |

Apart from these orders' permissions, he is also had permission of several thoughts, acts and deeds, such as attributes of the Holy Quraan, names of Allah, arguments for charity

impregnable fortress (name of a book), Hizbull Barr, Hizbull Bafr, Hizbull Nasr, Harzull Amcerain, Harzeel Yamani, Duaa-uz-Muughni, Duaa-ull Haidri, Duaa Izraeli, Duaa Siryani, Qaseedah Ghausiya, Qaseedah Boordah etc.

Hajj (Pilgrimage) of Sacred Ka-'aaba : The great scholarly personality of Breley for the second time went for Hajj of sacred Ka-'aaba and to see both the sacred city of Makkah Mukarrama and Madina Munawwarah. At this occasion he wrote a poem which is included in his collection of poetry, which commoners can find in the following stanza :

"Thanks to Allah. Today I am embarking on a sacred journey for the attainment and success of which life can be sacrificed."

During this Hajj (Muslim Pilgrimage) journey scholars of Hijaz respected him profusely, as is evident from the study of the following books :

Hisamull Haramain 1324 A.H./1906

Al-Daulatull Makkiyah 1323 A.H./1906

Kiftul Faqih 1324 A.H./1906.

Sheikh Ismaeel (mercy of Allah be upon him) has narrated the honor accorded to the great scholarly personality of Breley in the sacred city of Makkah, as seen by himself is as follows :

"Inhabitants of Makkah gathered around me in large numbers. Some of the people requested me to grant them the certificate of permission (allowing pious Muslims to discipline individuals to piety). Therefore, this was done on their insistence. Maulana Hamid Raza Khan (mercy of Allah be upon him) had accompanied great learned scholar of Breley during this journey. He has written in the preface of the book that for acquiring permission the first person who approached was Maulana Sayyed Abdul Haiye, Makki, 1332 A.H./1912. He had with him a young pious person, named Sheikh Hussain Jamal Bin Abdul Rahim. Both the persons were granted permission. Following them came Maulana Sheikh Saleh Kamal 1325 A.H./1907 and other people, and were favoured with permission. Then came Maulana Sayyed Ismail Khalil. The permission was granted to him and his brother Sayyed Mustafa Khalil. After this came Sheikh Ahmad Khadravi. Then other people also started coming. All were granted permission. Some people were left out. They were promised that certificates will be sent to them after reaching India. During his stay in sacred Makkah permission was granted to Sheikh Abdul Qadir Kurdi and his son Sheikh Fareed and Sayyed Mohammad Umer also. After this the grand scholar of Breley went to the tomb of the Holy Prophet (Allah's Blessings and Salutations on him) in sacred Madina. The details of personal observation of the situation of this occasion are mentioned below by Maulana Abdul Karim Muhajir Makki (mercy of Allah be upon him) :

"I am living in Madina for the last several years".

"Thousands of Muslims come here (Madina) from India. They include scholars, pious people and those who fear Allah extremely and avoid worldly involvement. I have seen that they wander aimlessly in the streets of the city, and no one cares for them but the honorable scholar from Breley had a special distinction. All the local scholars and elderly persons are attracted and approach him in large numbers, and they lost in his allegiance. This is Allah's special favour. He bestows this on the one He likes."

In sacred Madina many people requested the great learned scholar for permission (allowing pious Muslims to discipline individuals to piety). Some of them were granted permission verbally, whereas some were promised that certificates will be sent to them after his return to India. For example Sheikh Umer Bin Hamdan Al-Mehrasi, Sayyed Mamoon Al-Barry, Hamdan Al-Mehrasi, Sayyed Mamoon Al-Barry, Sheikh Dalail, Sheikh Muhammad Saeed etc.

Sad Demise : The great learned scholar of Breley Town of India died in Breley on 25th Safar Al-Muzaffar, 1340 A.H. on blessed day of Jummah at 2.38 P.M. We are for Allah, and we

have to return to him. Maulana Hasnain Raza Khan, who had seen this spiritual elevation scene, writes : "The great scholar of Breley Town wrote his last will. He then put it into practice himself. All the jobs relating to his heavenly departure were enacted according to the schedule of time. When it was four minutes to two O'clock, he asked time. He was told "it is now 56 minutes past one-O'clock." He asked to put the watch down. Then he abruptly asked to remove pictures. People present there wondered on this because there were no pictures. As soon as this critical moment passed, he said, "these are cards, envelopes, money. Then after a short pause he spoke to respected brother Hazrat Maulana Maulwi Mohammad Raza Khan, "go and perform ablution, and bring the Holy Quraan." He had not as yet brought the Holy Quraan. He then again said to brother Maulana Mustafa Raza Khan, "what are you doing?" "Recite Surah Yaseen and Surah Raad."

Now only a few minutes of his age were left out. Both the Surahs were recited according to his order. He listened to them with so much presence of mind and with so much certainty that he himself recited the same which was continued but could not be heard properly." (All Praise to Allah)". He recited all the customary supplications which are necessary at the time of commencement of eternal journey with extraordinary fervor. Then he recited sacred Kalamah (Muslim creed). "There is no one worthy to be worshipped, Mohammad (Allah's Blessings and Salutations on him) is His Messenger of perfect order."

When he became extremely weak and breath accumulated in the chest, and on the other hand movement of lips and power of recitation started dividing, the face illuminated for a while. This flickering of lamination resembled the flickering lamination of the sun. As soon as this disappeared, the luminous soul left the chaste body. We are for Allah, and we have to return to Him. He himself had said during the same days" when Allah shows His short glimpse to a person, the later reaches him eagerly in an imperceptible manner.

A Wonderful Incident : Maulana Abdul Aziz Mohaddith was a Scholar of the Holy Prophet's Traditions (Allah's Blessings and Salutations on him). He was from the city of Moradabad and was a teacher of Darull 'Oloom Ashrafiah, Aazam Garh. Maulana Azeez says that a saintly disciple at the tomb of Ajnair Sharif, was respected much and was also as a learned elderly personality. He narrates and indicates the reality and grandeur of the great learned scholar from Breley (Imaam Ahmed Raza Khan).

This narrator is extremely dependable and this is the matter of dream. Those whom Allah has endowed with true insight into the heart, will definitely draw light from this incident. He says :

"On 12th Rabi-ul-Thani, 1340 A.H. an elderly person came from Syria. On learning about him, the Ajmair Saint met him. That Syrian was a man of grandeur. This Syrian was extremely selfless. But the Saint of Ajmair wanted to serve him in the same way that Muslims used to serve Arabs. So he extended the Syrian offerings but he did not accept. He said that he was care-free, and that he did not need any thing. The Ajmair Saint was astonished on his this type of selflessness and long journey. Therefore, he asked him, "what is the object of your coming over here?" He said, purpose was great but could not achieve it for which I have great regret. The truth is that my luck woke up on 25th of Safar Al-Muzaffar 1340 A.H. I saw the Holy Prophet (Allah's Blessings and Salutations on him) in dream. He was sitting. Companions (Allah is pleased with them) were present in the court but the whole gathering was silent. From the arrangement it appeared that some one is being awaited. I submitted to the Holy Prophet (Allah's Blessings and Salutations on him) my father and mother may be sacrificed for you, who is being awaited?" He replied, "Ahmad Raza is being awaited." I asked him (A.B.S.H) as to who was Ahmad Raza?" He replied, "He is resident of Breley Town in India." On waking up I instituted an enquiry for this, on which I came to know that Maulana Ahmad Raza Khan is a highly respectable scholar, and that he is alive. I had a strong desire to meet the Maulana and

hence I came to India, and reached Breley. But I came to know that he has died, and this was dream of the same date of Safar, the date of his death. I undertook this long journey for his sake but alas! I could not meet him. What should I tell why I came. I came here with great hope. But I am going back with great disappointment.

The Sacred tomb : His tomb is situated in a grand building towards the North of Darul 'Oloom Manzarull Islam in a Mohallah in the city of Breley in U.P. India.

Traces and Chaste Remnants : From the chaste remnants of the great scholar of Breley innumerable books are worth mentioning. According to an estimate his such literary works and commentaries, on fifty different subjects of knowledge and arts, are about one thousand. Maulana Rehman Ali who started writing his compilation under the title "On Religions of India" in the year 1305 D.H./1887, has mentioned seventy five books of the great scholar of Breley. He writes, "that time the great scholar was about 31 years of age. He had entered the greatest scholarly field. Thus these 75 books are the result of his 18 years hard work.

After this he lived for 35 years. From such sort of beginning one can easily realise the future his intelligence. When he went to visit sacred Ka'aaba and sacred tomb of the Holy Prophet (Allah's Blessings and Salutation on him) for the second time, he enumerated his literary works as two hundred (200). He was 41 years old at that time. Apart from these books, the great scholar from Breley wrote comments and marginal notes on eighty (80) books. In addition to all this literary wealth his master piece is his profound juristic work on Islamic Fiqha.

Fatawa Rizweiya (Rizia Islamia Juristic Verdicts) under full name of "Al-Attayya Al-Nabaviyya Fi Fatava Al-Rizviyya." Upto 1324 A.H. the great scholar from Breley has mentioned about its seven volumes, which subsequently reached upto twelve volumes, out of which five have already been published. Every volume comprises of more than one thousand pages of large size. This collection occupies a distinguished position in the history of verdicts of Islamic jurisprudence.

The second literary master piece is this Urdu translation of the Holy Quraan which came to light in 1330 A.H. under the name of "Kanzull Eaman Fee Tarjamatull Quraan." The successor of the great scholar Brelvi, is the highly esteemed scholar Maulana Naemuuddeen Muradabadi who gave the explanatory margins under the heading "Kanzull Irfaan." These are offered to the respectful reader with gratitude.

As a general rule innumerable translations are now days available in the world, yet translation of the great scholar from Breley Town of India occupies a distinguished position. It contains sincerest compassion, deepest Divine love, soundest pathos, profoundest eagerness and excellent manners. The truth is that it is the translation of its own example.

Publishers :

THE HOLY QURAAAN

الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ كَنْزُ الْإِيمَانِ

WITH
NON-SECTARIAN MODERN AND
SIMPLE TRANSLATION INCLUDING
PRECISE TRANSLITERATION &
AUTHENTIC EXPLANATIONS BASE
KANZUL IMAAN

By:

Dr. A. Majeed A. Auolakh

with Urdu Translation of IMAAM-E-AHL-E-SUNNAT

*Maulana Muhammad Ahmad Raza Khan
Bareilvi-Qaadri*

فرید بک ڈپو (پرائیویٹ) لمیٹڈ

FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.

Corp Off. 2158, M.P Street, Pataudi House, Darya Ganj, N. Delhi - 2

Phones 3269786, 3289159 Fax : 3279998 Res. 3262466

E-mail : farid@ndf.vsnl.net.in Websites : faridexport.com, faridbook.com